

قرآن مجید

کاشف ترجمہ دار

زیر ہدایات

امام جامعۃ احمدیہ

حضرت مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح الرابع

آیۃ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ

(الحجر: ۲۲)

بہ چھبہ کاشہ چیز تیتھہ بیکو (آنتھہ رس) خزائنبہ آسہ نیش
آسن نہ مگر اس چھ تہہ آکھ گنڈتھہ اندازہ متو نازل کران

قرآن مجید

کاشتر ترجمہ دار

زیر ہدایات

امام جماعت احمدیہ

حضرت مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح الرابعیہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز

کاشتہ ترجمہ

بمطابق

تفسیر صغیر با محاورہ اُردو و ترجمہ قرآن مجید
از

حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی

مترجم غلام نبی ناظر
نظر ثانی سید عبدالحی

پبلشر
اسلام انٹرنیشنل پبلیکیشنز لمیٹڈ انگلستان


سُورَتِن هِنْد فَرَسْت

نمبر شمار	سورة	صفحة	نمبر شمار	سورة	صفحة	نمبر شمار	سورة	صفحة
١	الفاتحة	١	٢٥	الفرقان	٥٢٨	٢٩	الحجرت	٤٤٢
٢	البقرة	٢	٢٦	الشعراء	٥٣٩	٥٠	ق	٤٤٦
٣	أل عمران	٣	٢٤	التَّمَل	٥٥٤	٥١	الذُّرَيْت	٤٨١
٤	النِّسَاء	٤	٢٨	القِصص	٥٤٠	٥٢	الطُّور	٤٨٦
٥	المائدة	٥	٢٩	العنكبوت	٥٨٦	٥٣	النَّجْم	٤٩١
٦	الانعام	٦	٣٠	الزُّومر	٥٩٤	٥٣	القمر	٤٩٤
٧	الاعراف	٧	٣١	لقمَن	٦٠٦	٥٥	الرَّحْمَن	٨٠٢
٨	الانفال	٨	٣٢	السَّجْدَة	٦١٣	٥٦	الواقعة	٨٠٩
٩	التَّوْبَة	٩	٣٣	الاحزاب	٦١٤	٥٤	الحديد	٨١٥
١٠	يونس	١٠	٣٣	سبا	٦٣٣	٥٨	المجادلة	٨٢٢
١١	هُود	١١	٣٥	فاطر	٦٣٣	٥٩	الحشر	٨٢٤
١٢	يوسف	١٢	٣٦	يَس	٦٥٢	٦٠	المُمتحنة	٨٣٢
١٣	الرَّعد	١٣	٣٤	الصُّفَّت	٦٦١	٦١	الصَّف	٨٣٦
١٤	ابراهيم	١٤	٣٨	ص	٦٤٥	٦٢	الجمعة	٨٣٩
١٥	الحجر	١٥	٣٩	الزُّمَر	٦٨٣	٦٣	المنفقون	٨٣١
١٦	التَّحَل	١٦	٣٠	المؤمن	٦٩٤	٦٣	التغابن	٨٣٣
١٧	بني اسرائيل	١٧	٣١	خَمَّ السَّجْدَة	٦١٠	٦٥	الطلاق	٨٣٤
١٨	الكهف	١٨	٣٢	الشُّورَى	٦١٩	٦٦	التَّحْرِيم	٨٥٠
١٩	مريم	١٩	٣٣	الرَّحْرَح	٦٢٩	٦٤	الملك	٨٥٣
٢٠	طه	٢٠	٣٣	الذَّخَان	٦٣٠	٦٨	القلم	٨٥٤
٢١	الانبياء	٢١	٣٥	الجاثية	٦٣٦	٦٩	الحاقة	٨٦٢
٢٢	الحج	٢٢	٣٦	الاحقاف	٦٥١	٤٠	المعارج	٨٦٦
٢٣	المؤمنون	٢٣	٣٤	محمَّد	٦٥٩	٤١	نوح	٨٦٩
٢٤	النور	٢٤	٣٨	الفتح	٦٦٥	٤٢	الجن	٨٤٢

صفحة	سورة	نمبر شمار	صفحة	سورة	نمبر شمار	صفحة	سورة	نمبر شمار
٩٢٥	القارعة	١٠١	٩١٥	الاعلى	٨٤	٨٤٦	المزمل	٤٣
٩٢٦	التكاثر	١٠٢	٩١٤	الغاشية	٨٨	٨٤٩	المعثر	٤٣
٩٢٤	العصر	١٠٣	٩١٩	الفجر	٨٩	٨٨٣	القيمة	٤٥
٩٢٤	الهمزة	١٠٣	٩٢١	البلد	٩٠	٨٨٦	الذهر	٤٦
٩٢٨	الفيل	١٠٥	٩٢٣	الشمس	٩١	٨٨٩	المرسلت	٤٤
٩٣٩	قريش	١٠٦	٩٢٣	البيبل	٩٢	٨٩٣	النبا	٤٨
٩٣٠	الماعون	١٠٤	٩٢٦	الضحى	٩٣	٨٩٦	الذُرُعَت	٤٩
٩٣٠	الكوثر	١٠٨	٩٢٤	المنشور	٩٣	٨٩٩	عبس	٨٠
٩٣١	الكافرون	١٠٩	٩٢٨	التين	٩٥	٩٠٢	التكوير	٨١
٩٣٢	النصر	١١٠	٩٢٩	العلق	٩٦	٩٠٥	الانفطار	٨٢
٩٣٢	التهب	١١١	٩٣١	القدر	٩٤	٩٠٤	المطففين	٨٣
٩٣٣	الاخلاص	١١٢	٩٣١	البينة	٩٨	٩١٠	الانشقاق	٨٣
٩٣٣	العلق	١١٣	٩٣٢	الزلزال	٩٩	٩١٢	البروج	٨٥
٩٣٣	الناس	١١٣	٩٣٣	الغديت	١٠٠	٩١٣	الطارق	٨٦

پاران ہند فرست


صفحة	پاره	نمبر شمار	صفحة	پاره	نمبر شمار	صفحة	پاره	نمبر شمار
٥٩٣	اتل ما اوحى	٢١	٢٤١	يعتذرون	١١	٢	الک	١
٦٢٣	ومن يقنت	٢٢	٣٠١	وما من دآية	١٢	٢٤	سيقول	٢
٦٥٣	ومالى	٢٣	٣٢٣	وما ابزئى	١٣	٥٣	تلك الرسل	٣
٦٩٠	فمن اظلم	٢٣	٣٦٤	ربما	١٣	٨١	لن تناولوا	٣
٤١٨	اليه يرد	٢٥	٣٠١	سبحن الذى	١٥	١٠٨	والمحصنت	٥
٤٥١	حَمَّ	٢٦	٣٢٥	قال الم	١٦	١٣٥	لا يحب الله	٦
٤٨٣	قال فما خطبكم	٢٤	٣٤١	اقرب للناس	١٤	١٦٢	واذا سمعوا	٤
٨٢٢	قد سمع الله	٢٨	٥٠١	قد افلح	١٨	١٩٢	ولوا اتنا	٨
٨٥٣	تبزك الذى	٢٩	٥٣٢	وقال الذين	١٩	٢١٩	قال الملا	٩
٨٩٣	عم	٣٠	٥٦٦	امن خلق	٢٠	٢٣٥	واعلموا	١٠



سورة فاتحہ، یہ سورہ چھ مکئی تہ بسم اللہ بہتہ چھ آیتھ (۷) آیتھ آہ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①	بِسْمِ اللّٰهِ (تعالیٰ) سُنْدِنا و بہتہ پران (بِسْمِ اللّٰهِ رُوَسِ کرم کرن وول تہ، پھیرک پھیرک رجم کرن وول چھ۔ سارک نے (تہم کہن) التعرضین ہند تھدار چھ اللہ تعالیٰ ہے، بس (بس) سار نے عالم ہند رحیم وول (چھ)۔ حد رُوَسِ کرم کرن وول۔ پھیرک پھیرک رجم کرن وول۔ (تہ) جڑ ہک تہ سز ہک وقتک ہاک چھ۔
الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ②	(۱) سے خلیہ! اسی چھ چانی عبادت کران تہ تریے چھی مدد مکان۔
الرّٰحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ③	اَسِر پکنا و سیز و تہ۔
مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ ④	تہن لوکن ہنز و تہ یمن پیٹھ تریے انعام کرک ہتہ چھتہ
لِیَّاکَ نَعْبُدُ وَاِلَیَّاکَ نَسْتَعِیْنُ ⑤	(۱) یمن پیٹھ (پرستہ) تہ (چھ) سید (ممت چون) غضب نازل تہ تہ چھ (پرستہ) تم گمراہ (گمراہ)۔
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ⑥	
صِرَاطَ الذِّیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ ۙ	
غَیْرِ الْمَغضُوبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ ⑦	

لہ صحابہ کرامن ہنڈیکس پر تھانئس پیٹھ چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمودت تہ
مَغضُوبٍ عَلَیْهِمْ چھ یہود تہ ضال چھ عیسائی۔ یمن آہن مشر چھ امت محمدیس
نہیجت کرکہ آہن تہ یمن یز تہ یہودین تہ عساین ہندک پانچو بن۔



سورة بقره آیه سورہ چھ مندی تہ بسم اللہ پڑھو چاہتہ پڑھتہ تہ تسلسلہ آہ بیس چھس شر پتہ رکوع۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①	(بہ چھس) اللہ (تعالیٰ) آندنا و پتہ (پرلن) ایس حد رسول کرم کرن وول اتہ، پھیرک پھیرک رحم کرن وول پتہ۔
ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِیْنَ ②	بہ اللہ چھس سارہ و پتہ کھوتہ جا د زانن وول۔ بیسہ چھیسہ کابل کتاب، آتہ (کتہ) متز چھنہ کاہنہ شک، بیہ چھیسہ متیقن ہدایت دہن واجتہ۔
الَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِالْغَیْبِ وَ یُقِیْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ یُنْفِقُوْنَ ③	بیم غایس پتہ ایمان آنان چھتہ نماز قائم تھوان چھتہ تہ یہ کہ شتہا، اسرہن دیت مت پتہ تہر متز، چھ ترح کران روزان۔
وَالَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنزِلَ اِلَیْكَ وَ مَّا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۗ وَ بِالْآخِرَةِ هُمْ یُؤْمِنُوْنَ ④	بیسہ یہ تہ پتہ نازل ہدیت پتہ یا یہ تہ بیرون تہ نازل کرنہ آمت اول تہ پتہ پتہ ایمان آنان بیہ چھتہ تم اُخرس تہ پتہ تہ پتہ تھوان۔
اَوْ اِلَیْكَ عَلٰی هُدًى مِّنْ رَبِّهِمْ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ⑤	بیم لوکھ چھتہ (یقینا) تہتہ ہدایت پتہ (قائم) ایس تہنہ کرہ ہند طرفہ (آمت) پتہ تہ یکے لوکھ چھتہ کامیاب سپدن والی۔
اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَیْهِمْ ءَاۤءُ اَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ ⑥	تم لوکھ یو کفر کورمت پتہ اد تم تہ خبردار کرنکھ یا متہ کرنکھ۔ تم چھتہ ہشی کتہا۔ تم اتن تہ ایمان (یونانی تہ یہ حالت بلاوان)۔
حَتَّمَا لَلّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ وَاَعٰی سَمْعِهِمْ ۗ وَ عَلٰی اَبْصَارِهِمْ عِشَاوَةٌ ۗ وَ لَهُمْ عَذَابٌ	اللہ (تعالیٰ) ہن چھیسہ تہنہ دن دن تہ تہنہ دن کنن مسہر کر پتہ تہ تہنہن اُچھن چھتہ پتہ (بیومت)

لہ الم تہ بیہ کینہہ حرف ہم بعضہ سورن گوہر آمتو چھ تم چھ مقطعات ونان۔ ہم حرف چھ بعضہ جملن یا لفظن ہندہ قائمات آسان۔ کینہہ و مفیسرو چھ حرفن ہندہ ابجدی قیمت کر لکھہ یو متز کینہہ تاریخی واقعات متعلق پتہ گوہر بیان کرک ہتہ۔ تفصیلہ باپتہ و چھو تفسیر کبیر لہ اسہ ایک چھتہ تہ ترجمہ "بیسہ چھتہ ہم برو نہہ کن سپدن واجنہن (یعنی و علم دہن آتہن کتہن) پتہ تہ (تہ) پتہ تھوان" یا متقی چھتہ تم آسان ہم تہ پتہ پتہ واجنہ و حی پتہ تہ ایمان تھوان چھتہ۔

عَظِيمٌ ۝

بیر چھ تہند خاطر اکھ بوڑ عذاب (مقدر)۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ۝۱

بیر چھ کیہنہ لوکھ تھن تیریم وناں چھ نہ اسیہ چھ
اللہ (تعالیٰ) ہس پٹھ تہ پینہ وائس دہ ہس پٹھ
ایمان۔ حالانکہ تم چھن ہرگز ایمان تھوان۔

يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ وَمَا
يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝۲

تم چھ اللہ (تعالیٰ) ہس تہ تمہن لوکن پیکو ایمان
اؤتمت چھ دوکھ دین پترھان۔ مگر تم چھن
(درحقیقت) پانس وراے کالہر دوکھ دوان وور
گوو تم چھن فکر تران۔

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ۖ فَزَادَهُمُ اللَّهُ
مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ بِمَا كَانُوا
يَكْفُرُونَ ۝۳

تہند دن دن منتر اُسی اکھ بیمار پتر ہرراو اللہ
(تعالیٰ) ہن (بیر تہ) تہنتر بیمار تہ تمہن چھ لکھ
عذاب واناں۔ نیکیا ز تم اُسی ایڑ وناں۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۝۴

نیلہ تمہن و نتر پیر (ز) بتر اتر پٹھ مہ کرو فدا
تہ (اوپر) چھ وناں، اُسی چھ صرف اصلاح کرن والی
(کن دارتھ) بوڑو! یکے لوکھ چھ بلاشک فساد
کرن والی۔ وور گوو تم چھن (بیر تران) فکر تران۔

آلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا
يَشْعُرُونَ ۝۵

تہ نیلہ تمہن و نتر پیر نہ (تھ پٹھ) اُلو ایمان
پٹھیا ٹھ (نیو) لوکو ایمان اؤتمت چھ تہ وناں چھ
زلیا اُسی اُلو (تھیا ٹھ) ایمان پٹھیا ٹھ بے وقوفو
ایمان اؤتمت چھ؟ یاد تھوو! (یک چھ ایڑ وناں)
تم چھ پانے بے وقوف، وور گوو (یکتھ) چھن زاناں۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ
قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ
آلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا
يَعْلَمُونَ ۝۶

تہ نیلہ تمہن لوکن سمکھان چھ یو ایمان اؤتمت
چھ تہ وناں چھ (ز) اُسی چھن (بیر رول) مانان
اڈیلہ تم پینہن سفن خلوکھ سمکھان چھ، اقی
چھکھ وناں نہ اُسی چھ یقیناً توہر سستی، اُسی
اُسی صرف (بیر مومنین) مخولہ کران۔

وَإِذَا قَالُوا آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا بِ
وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شُيُطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا
مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ۝۷

اللہ (تعالیٰ) دیر تمہن (تہند) محولگ سزا تہ
تمہن تراو پینہن نافرمانین منتر پیر۔
یک چھ تم لوکھ، یو ہدایت تراوتھ ٹھراکی پراو،
بیر نیکیا دیر نیچہ دراو نہ ووت تمہن دنیاوی فایدہ

اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي
طُغْيَانِهِمْ بِخَمَلُهُمْ ۝۸
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اسْتَرَوْا الضَّلَالَةَ
بِالْهُدَىٰ ۖ فَمَا رَبَّحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا

كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿۱۵﴾

مَنْ لَهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا
فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ
بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمٍ لَا
يُبْصِرُونَ ﴿۱۵﴾

صَمُّكُمْ عَنِّي فَمَا لَا يَبْزَجُونَ ﴿۱۱﴾

أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٌ
وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ
فِي آذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ
الْمَوْتِ، وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿۱۱﴾

يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ
كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَرَدَّ
أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، لَٰنَ
اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۱﴾

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي
خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ ﴿۱۷﴾

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ
بِنَاءً، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ
بِهِ مِنَ الشَّجَرَاتِ بِرِزْقًا لَّكُمْ، فَلَا
تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَدَاءً وَإِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۷﴾

تہ نہ لو بہ تمو صلایت۔

تہ ہنر حالت چھینے تس شخصہ ہنر ہش سیکو ند
زول، پتہ سیکلہ تمو (نانک) تسند اوند پوکھ کاشروو
تہ اللہ (تعالیٰ) ہن نیو تہ بند گاش تہ تم تراون
(رنگہ رنگہ) انہ گن منتر (تہہ حاس منتر) ہن
پھنہ (کانبہ موکن پائے) در پٹھی پوان۔

تم بچہ زری، ککو (تہ) اڈ او کوزین نہ تم باز۔
نہ پچہ (تہند سال) تمہ روڈو پٹھو یس (گنہ)
اوبہ منتر (وسان) آسہ۔ (تہتہ روڈ) ہتہ سکو (رنگہ)
رنگہ) انہ گنہ تہ ہنگریہ تہ وزلمہ آسان چھینہ تم
چہ ترلو سکو مسرہ کہ بیکہ پینہ اونگہ پینہ
کنن منتر ٹھکان۔ حلاکہ اللہ (تعالیٰ) چہہ سارہ
کافرن تباہ کرن وول۔

قرب چہ زروزل نیہ تمہ اچہ کاشس مہنہ سیکلہ تہ
سو پرہنن چھینہ تم چہ اتہ (کاشس) منتر پکھ ہوا
تہ نیلہ (سو) تمہ انہ گن کران چھینہ تم چہ روڈہ
گزشان تہ ہنگہ اللہ (تعالیٰ) نیلہ سہ سہ کرہے
تہند یزن بل تہ وچھن بل یھنا ضایع۔ اللہ (تعالیٰ)
چہہ ہڈو پٹھو (تہہ) پرہتہ کتہ کامہ پٹھہ (نیلیک)
سہ راڈو کرہ) پٹھو قودرت تھان وول۔

اسے لوگو! سنس (تمہ) ربہ ہنر عبادت کرو۔ سیکو
توہو (تہ) تہ تم (تہ) یکم توہو ہر دن تہ گڈرہ
موتو چہ، پادو کرہ تہ چہہ اتہ توہو (پرہتہ کتہ)
قسم چہو بلو ہنہ (پٹھو)۔

(سے چہ) سیکو تہند ہا پتہ زمین فرشہ کتہ تہ
آسان پتہ کتہ بنومت چہ تہ اوبہ منتر چھن آب
وولت۔ پتہ چھن تمہ (آہ) ڈو مینون ہند تمک
برق تہند ہا پتہ کولت۔ او کو توہو ہناو لوکھ تہ
ما تہہ اللہ (تعالیٰ) ہس سکو براری کرن والی۔

وَأَنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ مَادَّعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۷﴾

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَخَوُّهُمُ النَّاسُ وَالْحِجَابَ رَأْفَةً لِلْكَافِرِينَ ﴿۱۸﴾

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَنْهَارٌ مَطَهَّرَةٌ لَهُمْ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۹﴾

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مِمَّا بَعُوضَةٌ فَمِمَّا فُوقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنََّّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا

بہ ہر گاہ امر (کلام) کہ سبب ایس امر پنیس بندس پیٹھ تابل کورمت پتھ توہر کتہ (قسم کس) شمس منتر (ہینہ آہتی) چھو۔ تیلہ اگر توہر پڑبارک چھو تہ اڑی تو اتھ ہیو اکھ سواہ! بیہ اڑی توکھ (پنہر مدد خاطر) خدایس ورے پیڑ مدگار (تہ نلاوتھ) اڑ اگر توہر تہ کوروتہ تہ توہر ہیو تہ ہرگز (تہ) کرٹھ، تیلہ بچو تمہ نابورنہہ بیٹیک زائن انسان تہ کتہ پھیلے۔ سہ پتھ کافرن ہند باپتھ تیا کرنہ آمت۔

بیہ در تہ تمن لوکن نھو شخیر یکو ایمان اونمت پتھ تہ بیہ پھکھ نیک علم کر منتر نہ تہند خاطر پتھ (تھو) بارغ یمن منتر کہ لہ پکان پھیلے۔ تیلہ تمن باغن ہندلو میوو منتر کیپتہ رزق تمن دہ پیسہ۔ تم دین یہ ہے پتھ سے رزق یس اسہ امر بروتھ دہر آمت اوس، تہ تمن نش بیہ سہ (رزق) تھہ لون میلون اتہ۔ بیہ آسن تہند خاطر تمن باغن منتر پاک جوہر تہ تمن لمن تمن باغن منتر ہر ہمیشہ۔

اللہ (عالی) چھنہ کانہہ کتھ بیان کرنہ لنتہ پتھ روزان اڑ سہ مہس ستب آسن تن یا تمہ کھوسہ ہڈے۔ اڑ ہم لوکھ ایمان تھولن پتھ تم چہر زانن نہ سہ پھیلے تہندس پروکھو ہند طرفہ بالکل پڑ (کتھ) تہ ہم لوکھ کافر گئیہ تم چہو دپان (نہ، مہجر)

لہ قرآن کرپس منتر پتھ وار یاہن جائن جنس متعلق من تختہم الاھلہ یوان۔ تختک لفظی معنی چھ تیلہ کتہ یا بوہ کتہ یعنی جنتہ کین کلبن ہندس شہلین تلو تلو آسن تمہ چہ کولہ پکان یا جنتین ہندس اختیار تل یا زیر انتظام آسن تمہ کولہ تہ جو یہ پکان یا جنتین ہنر ملکیت آسن۔ نیبہ نیبہ ہم الفاظین اسی کرو امیک با محاورہ ترجمہ، "بوہ کتہ" "منتر" یا "تل" تہ۔
سہ یا تمہ کھوتہ لو کٹ تہ ہیو ونہ۔

اللہ (تعالیٰ) سُنَدِیہ کہتے ہاؤنک منشا کیاہ چھہ؟
 (امول کہتے چھینہ بیڑہ) سُنَدِیہ وار یا مین (لوکن) امیر
 (قرآن) دُکُ غمراہ قرار دوان تہ وار یا مین (لوکن)
 چھہ امیر (قرآن) دُکُ ہدایت دوان، بیہ چھینہ سُنَدِیہ
 امیر دُکُ تہو نافرمانہ ور اے کاشبہ تہ غمراہ قرار
 دوان۔

بیم اللہ (تعالیٰ) سُنَدِیہ عہد پختہ کرنہ پتہ چھٹران
 چھہ، تہ سُنَدِیہ چھہ یتھ اللہ (تعالیٰ) رلاؤنک حکم
 دوان چھہ تھان چھہ تہ پتہ تہ پتہ چھہ فساد کران
 تہ لاکھ چھہ نو قصان تلن والی۔

(اے لوگو!) توہر کتھیا ٹھو چھو اللہ (تعالیٰ) ہمس
 (یعنی تہن کتھن) انکار کران حالانکہ توہر اسی دے
 جان، پتہ بتاؤر دُکُ توہر تہ جانلہ پتہ (بیہ لکھ دوان
 بیٹلہ) مار دُکُ تہہ، پتہ کر دُکُ تہہ سُنَدِیہ تہہ
 پتہ دیکھو توہر کس کس چھیرتہ رہنہ۔

سُنَدِیہ (خلا چھہ سُنَدِیہ تم ساری چیزیں ہم زمین مٹن
 چھہ، تہنہ فائدہ خاطر یاد کر۔ پتہ کور تہ آسمان
 کون توہر تہ تم کون کس سُنَدِیہ آسمان تہ سُنَدِیہ پتہ
 کانہ کہتے (یعنی پتہ حقیقت) زہر پٹھو زمان۔

تہ (اے انسانہ) توہر کس وقت یاد) بیٹلہ چانی سپرد کران
 ملین وون تہہ چھس پتہ پتہ لکھ چھہ بنون
 وول (دیکھ پتہ) تہو وولس زکباتہ کر کھیا اتھ پتہ
 (تہو شخص تہ) یاد ہم اتھ مٹن فساد کران تہ
 (اکھ اُکس) تہہ والن۔ تہ اسی چھہ (ہم ہم) چون تہہ
 کرنس پتہ پتہ چون شو تہہ پتہ پتہ (چھہ) تہ تہ مٹن
 چھہ تہہ پتہ پتہ اقرار تہ کران۔ (اتھ پتہ) فرودکھ
 (اللہ تعالیٰ مین) بہ چھس یقیناً تہ کتھرا زمان یہ نہ
 توہر زمان چھو۔

بیہ پتھنوو اللہ (تعالیٰ) مین آدم ساری تاؤ۔ پتہ

وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ، وَمَا يُضِلُّ بِهِ
 إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿۲۰﴾

الَّذِينَ يَتَّقُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ
 مِيثَاقِهِ ، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ
 أَنْ يُؤْصَلَ ، وَيَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ،
 أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿۲۱﴾

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ آمِنًا
 فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ
 ثُمَّ رَأَيْتُمْ تُزْجَعُونَ ﴿۲۲﴾

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ
 جَمِيعًا ، ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ
 فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ
 شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۲۳﴾

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ
 فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ، قَالُوا أَتَجْعَلُ
 فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
 الدِّمَآءَ ، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ
 نُقَدِّسُ لَكَ ، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا
 تَعْلَمُونَ ﴿۲۴﴾

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ

عَلِ الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ
هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۰﴾

دیندر تم ناوسا کون تم ملین بروئٹھ کنہ پیش تہ
فرمویں نہ اگر تو ہی صحیح کہتہ وان چھو تیلہ وڈی
تو میہ ہندک ناو۔

قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا بِمَا
عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْخَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿۳۱﴾

تو ووتس تہ چکھ بے عاب۔ اسہ چھینہ کانہہ علم ماسوات
تہ پہ تریہ اسی ہینچنا وک ہتی چھنہ۔ بے شک چکھ
تہ پہ پلڑ پلڑ علمہ وول (تہ پرتہ قوس تہ فطس تہ)
حکمت نظر تہ تھاون وول۔

قَالَ يَا اِٰدَمُ اَنْبِئْهُمْ بِاَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا
اَنْبَاَهُمْ بِاَسْمَائِهِمْ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ
لَكُمْ اِنِّيْ اَعْلَمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَ
الْاَرْضِ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ
تَكْتُمُوْنَ ﴿۳۲﴾

اتھ پچھ فرمویں (یعنی اللہ تعالیٰ ہن) اے آدم
یکن ملین ون ہندک ناو۔ پتہ ییلہ تمہ (آدم)
تہندک ناو وڈی تہ (اللہ تعالیٰ ہن) فرمویں
میہ اوس وناہ تہ ہیہ ووتنت نہ ہر تھیس آسمان تہ
زمین ہنچ کھٹھ کتہ زنان؟ تہ ہر چھس (تہ)
زنان یہ توہر تون کڈان چھو تہ (تہ) یہ توہر
کھان چھو۔

وَ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ
فَسَجَدُوْا اِلَّا ابْلٰیْسَ ؕ اَبٰی وَّ
اسْتَكْبَرَ وَّ كَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۳۳﴾

بیہ (پا وو سم وڈ تہ یاد) ییلہ اسہ ملین وول
نہ آدم ہنچ فرمانبر داری کرو۔ اچہ جو کفر مانبر داری
اما پلوز ابلیس (کرو نہ تمہ) کوز انکار بیہ کون
تکبر تہ سہ اوس (بروئٹھ پچھ) کافرو ہنچ۔

وَ قُلْنَا يَا اٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُكَ
الْجَنَّةَ وَ كُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا
وَ لَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ
الظّٰلِمِيْنَ ﴿۳۴﴾

بیہ وول اسہ (آدم) اے آدم! تہ تہ چاڈ آشنی
رؤز و جنس ہنچ تہ اتھ مشر نیہن توہر نیہنچو
رستہن (کھینو فراغتہ سان مگر بیہ) (یعنی فلائی)
تکس تکھ مگر تھو زبو نہ نہتہ ہنو توہر فلا ملو اندہ۔

فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا
مِمَّا كَانَا فِيْهِ سَوّٰ قُلْنَا اِهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ
لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَّلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرَّرٌ
مَّتّٰعًا اِلٰى حِيْنٍ ﴿۳۵﴾

تہ (تہ پتہ سپد پتھو نہ) شیطان ڈال تم (دوہوہ)
پنہ مقامہ ہنچ) اسہ (کھر ک) ڈوی تہ پتھو کڈن
تم تہ (حالہ) مشر، بیہ مشر تم اسی۔ تہ اسہ
وول (ہن زینتہ) نیرو۔ توہر مشر چھ کینہ
کینن ہندک دشمن۔ تہ (یاد تھو نہ) تہند خاطر
چھینہ اوس (گنڈتھ) وقلس نام نیہو ہنچ پچھ
روزن ہاسے تہ زندگی ہندک سامانہ (مقدار)۔
اسہ پتہ، چھو آدم نیس پرودگار اس ہنچ کینہ (دعا و آل)

نَلَقَىٰ اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهِ كَلِمٰتٍ فَتَابَ

عَلَيْهِمْ إِنَّهُ هُوَ الثَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿۳۸﴾

کلمات (تہ جو مطابق کورن دوما) تہ سہ (اللہ تعالیٰ) سیدلس کن (پنہ فضلہ سان) توجہ کروں۔ یقیناً چھ سہ (بندک ہند مقبیتہ وز) سببہ ہے توجہ کرن دول (تہ) پھیر پھیر کر رحم کرن دول۔

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۳۹﴾

اسرو ون (پتہ، گرتہو) توہی ساری تیرو اتہ (تہ یاد تھو ز) اگر ہیہ کنہ سارہ توہہ نش میانہ طرفہ کانہہ ہدایت واتر۔ ادریم لاکھ میانس ہدایت پیٹھ یکن بہن آسہ نہ کانہہ (آیندگ) خوف تہ نہ آسن ہم (بجڑ ہن غلہین پیٹھ) غمگین۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا ذُكِّرُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۴۰﴾

تہ ہم (لاکھ) کفر کرن تہ سانی آسہ ایزاون ہم چھ ضرور جہنمی (یعنی جہنمیں سیدن وال) (تہ) ہم عرشہن اتھ منتر روزان۔

يٰۤاَيُّهَا اِسْرَائِيْلُ اِذْ كُرُوْا نِعْمَتِي الَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوْا بَعْدِي اَوْفِ بَعْدِي كَمَا وَايَاتِي فَاذْكُرُوْنَ ﴿۴۱﴾

اے بنی اسرائیل! میوں سہ اسلہن پاو تریس یس مینہ تہ ہس پیٹھ کورمت چھ۔ بیہ کرو توہی میوں (سہ) عہد پور (یس) تہ ہس مینہ سرتی کورمت اوسو) تیلہ کر ہر تہ سہ عہد پور یس مینہ تہ ہس سرتی کورمت اوس۔ تہ صرف سینے (کھوڑو) بیہ (چھسو ہر ونان نہ) صرف سینے کھوڑو۔

وَاٰمَنُوْا بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكْفُرُوْا اَوَّلَ كَافِرٍ بِهٖ سَوَّ لَا تَشْتَرُوْا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيْلًا زُرَّ اَيَّايْ فَاتَّقُوْا ﴿۴۲﴾

بیہ او تھہ (کلاس) پیٹھ ایمان یس مینہ (وہنی) نازل کورمت چھ (تہ) یس تھہ (کلاس) یس تہ ہس نش چھ، ایزاون دول چھ تہ توہی سہ یو امکو (سارو ہس کھوڑ) گوڈنگی کافر تہ میانہن آسہ ہر رٹو کم مٹا۔ تہ سینے اوت (کھوڑو) بیہ (چھسو ونان نہ) صرف سینے کھوڑو۔

وَلَا تَلِيْسُوْا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوْا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۴۳﴾

بیہ مہ بلتاوو، ترا تھہ مانہہ حق باطل سرتی تہ نہ تھو زلو (ترا تھہ مانہہ) پوز کھٹھ۔

وَأَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَاَتُوْا الزَّكٰوةَ وَاذْكُرُوْا مَعَ الرَّاٰكِزِيْنَ ﴿۴۴﴾

بیہ کرو نماز قائم تہ زکوٰۃ دیو بیہ کرو خدایہ سنز خالہو عبادت کرن والہن سرتی رلہتہ خدایہ سنز خالص عبادت

اَتَا مُرُوْنَ النَّاسِ بِالْبِرِّ وَتَنَسَوْنَ

توہی بھو (بین) لوکن نیکی (کرنہ) خالہر ونان تہ

أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَثَلُّونَ الْكِتَابَ ،
أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۱۰﴾

پان پھون مشرأوتھ تھنان ؛ حلا نکر توہی چو کتاب
(یعنی قرات) پیران ، تمہ پتہ (تر) پھونا توہر عقلیہ
کام ، ہوان ؟

وَأَسْتَجِيبُنَا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ،
وَأَنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿۱۱﴾

بہ منگو صبر تہ دعا کر تھ (اللہ تعالیٰ ہس) مدد تہ
یہ کار) پتہ بے شک عاجزی پراوان والہو ورآے (زین
ہند خاطر) مشکل۔

الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا إِلَيْهِمْ وَ
أَنَّهُم إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿۱۲﴾

(تم عاجزی پراوان والی) ہم (یہ کہتے پتہ) پتہ
تھوان پتہ تر تم پتہ سنس ریس سمکن والی ، بہ
یہ کہتے پتہ تر تر تم پتہ کون پتہ گرتھن والی

يَبْرِي إِسْرَاءَ يَلَاذِكُرُوا انْعَمَتِي
الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي
فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۱۳﴾

اے بنی اسرائیل! میوں سہ احسان کرو یاد ریس میرے
توہر پتہ کورمت پتہ۔ بہ (سہ احسان تر) ز میرے
اسو توہر سارہے عالم پتہ فقیات ڈر پتہ۔

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ
نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ
وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ
يُنصَرُونَ ﴿۱۴﴾

بہ کھوڑو تھ دہ ہس تر (سیر دہ ہر) کانہہ شخص
کانہہ میں شخصہ سد قائم تھا ہیکہ تر نہ پتہ
تہہ کہ کانہہ سفارش منظور کرنہ تر نہ پتہ تہہ کہتہ
(کہ قبمک) عوضانہ قبول کرنہ تر نہ پتہ تم مدد کرنہ۔

وَإِذْ نَجَّيْنَكُمْ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ
سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ
يَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ
مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿۱۵﴾

بہ (پاؤو سہ وقت تر ہس) ییلہ اسہ توہہ فرعونہ
ہند قومہ رتہ تھ حاس منزجات دتوؤ تر سہ اوسو
تہ ہر بدترین عذاب دول۔ تہہنہ پنجون اوس ذبح کران
تہ تہنہن زنان اوس زندہ تھاوان۔ تہ اتھ کہتہ منزاس
(تہہنہ باپتہ) تہہنہ سہ ہند طرفہ اکھ بڑ آزمائش۔

وَإِذْ قَرْنَاكُمْ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمْ وَ
أَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿۱۶﴾

بہ (پاؤو سہ وقت تر یاد) ییلہ اسہ تہہنہ باپتہ
سمندس ترھین دتہ تر پتہ دتوؤ اسہ توہہ منجات
تہ تہنہن اچھن تل کور فرعونہ سد قوم عرق۔

وَأِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً
ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ
وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿۱۷﴾

بہ (پاؤو سہ وز تر ہس) ییلہ اسہ موسیٰ ہس
ترتھہن راترن ہند وعدہ کور۔ پتہ بنوو توہہ
تہہ (گرتھہ) پتہ ظالم ہنہ اکھ ووژھ (معبود)۔

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۸﴾

پتہ کورو اسہ تمہ پتہ (تر) توہہ معاف ، میتھ توہر
شکر گزار بنو۔

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ

بہ (پاؤو سہ وقت تر یاد) ییلہ اسہ موسیٰ ہس کتاب

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۵۷﴾

(یعنی توہمت) تہ فرقان (یعنی معجزات) دے دیے تھے تو ہر
 حدایت لیں۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي بِآيَاتٍ أَنْظُرُهُمْ رَبِّي فَأَكْفُرُوا بِآيَاتِي وَكَانَ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُكَذِّبِينَ ﴿۵۸﴾

سید (یا وہ سہ وقت تہ یاد) یہیلہ موسیٰ بن سینین
 قومس وون، اے میانہ قومہ (کہو لوگو!) تو ہر چھو
 وورہ پن (معیود) بناؤ تھ سینین زون پیٹھ لھینا
 ظلم کورمت۔ او کہو نمو توہی سینین یاد کرن واپس
 کن تہ پرہتھ الھ شغوس کرن سینین نفسس کھش
 یہ کتھ چھیدہ تہندک یاد کرن واپس لیش تہندہ حقہ
 سلھما جان (یہیلہ توہہ تہ کورؤ) تیلہ کور تمو توہہ
 کن فضلہ سان یہہ توہہ۔ سہ چھہ یقینا (سینین
 بندن کن) سلھما دھیان دہہ وول (تہ) چھہری چھہری
 رحم کرن وول۔

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ تَرَىٰ إِلَيْنَا آيَةً فَانظُرْ إِلَىٰ إِلَهِكَ فَانظُرْ بِظَهْرِكَ فَانظُرْ إِلَىٰ طَائِفٍ مِّنْ آلِ إِسْرَائِيلَ يَلْعَنُونَ ﴿۵۹﴾

سید (یا وہ سہ وقت تہ تہتس) یہیلہ توہہ وینا و اے
 موسیٰ! اسی مانو تہ ہرگز یاد کتھ یوتام تہ اسی اللہ تعالیٰ
 روبرو وچھہون۔ اتھ پیٹھ رڈو توہی اکر ہلاک کرن
 واپس عدلین تہ توہی اسی و (سینین کروتس ہند انجام سینین
 اچھن بروٹھہ کن) وچھان۔

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ نَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۶۰﴾

پتہ تکی و اسہ توہی تہند ہلاکتہ پتہ (سید حقوؤ) او کہو
 نہ توہی بنو شکر گزار۔

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوىٰ كُلَّوَا مِنْ طَيْبَاتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَا ظَلَمُوا نَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۶۱﴾

سید کور و اسہ توہہ اوبرک سایہ تہ تہندہ خاطر وول
 من تہ سلویٰ (سید وولو اسہ نہ) تہو شوڑو چیر و منز
 بیم اسہ توہہ دے ہی چھو اکیٹیو۔ تہ تمو کور نہ (نہرونی
 کرتھ) سون نوقصان بلکہ اسی تم سینے نوقصان کران۔

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَاكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَ

سید (یا وہ سہ وقت تہ یاد) یہیلہ اسہ وینو نہ تہہ لیتی
 منز اڑو تہ اتھ منز سینین بیٹھو کھینو فراغتہ

۱۔ پاس بخش کرن چھینہ کا نسیہ نہیں منز جائز۔ ایک مطلب چھہ پنہہ خاصہ تہ بہن نفس رخصتہ ہا رتھہ۔
 ۲۔ من تہ سلویٰ، "من" ایک نقلی معنی چھہ احسان یعنی پرہتھ قسمک رزق لیش بلا محنت الناس میلہ۔ حدیث منز چھہ
 اَلْكَلِمَاتُ مِنَ الْمَعْنَىٰ هِيَ تَرْكِبُهَا تَرْكِبُهَا مِنْ زَمَانِ اِسْتَوْذَرْتُهَا وَهِيَ اَسْمَانُ مَجْهُولُ الْوَجْهِ بَارِئَةٌ اَبْر
 قسمکو لو کہو جانواد۔

اذْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَتَوَلَّوْا حِطَّةً
تَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَسَيِّدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۱﴾

ساکن تہ (اگر کسی) دروازے اُڑو پور فرما تو ارکی کران ،
بہرے روز زکوہ و نان (بہرے نہ اُسی چیز) پور تو تراونک التجا
دکران)۔ اُسی کرو تیل تہ تہنگ خطا بیکل معاف تہ اکر
ہر رادو کہ احسان کرن واکل ضرور۔

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ
الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ
ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا
يَفْسُقُونَ ﴿۱۲﴾

(تہ تہنتہ شرارت و چھو) پتہ ہشیر تہموظابو اکھ بیاکہ
کہتہ و تہرتہ کہتہ خلاف یوسہ بہن و تہرتہ اہتر اُسس
تہتہ پتہتہ اہر بہن لوکن پتہتہ بیکو ظلم کوردت اوس
تہتہنتہ نافرمان سپدہتہ کر باہترہ آسمانہ پتہتہ اکھ عذاب
تا نزل کور۔

وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا
اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ
مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ
أُنَايْسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُّوْا وَاشْرَبُوا مِنْ
رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ
مُفْسِدِينَ ﴿۱۳﴾

بہرے (پاؤرو سہ وقت تہ یاد) تیل تہموی ہن پنہرتہ توہر باہتہ
آب منہماو تہ اہر و نیاو (تہ) نہ پتن عاہر طہائن فلان
کنہ، تہ سترہ پتہو تہ اندر باہ ناگ (تہ) پرتہ کلہس
ڈرک پرتہ لونو پتن یاہرل (اد او بہن و تہرتہ) اللہ تعالیٰ
ہندہ رزقہ منہرتہ کہنیو تہ چنیو تہ فساد کہنیو تہ کرو
نہ سہنس منہرتہ یادی۔

وَإِذْ قُلْتُمْ يُمُؤِسْ كُنْ تُضَيِّرْ عَلَىٰ طَعَامِهِ
وَإِحْدِ قَادِعٌ لَنَا رَبُّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا
تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَآئِهَا وَ
فُؤْمِهَا وَغَدَسِيهَا وَبَصْلِهَا قَالَ
اتَّسْتَبِدُّونَ الَّذِي هُوَ آذَنٌ بِالَّذِي هُوَ
خَيْرٌ أَلْهَبُوا مِضْرَافًا لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ
وَ ضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةَ وَ
الْمَسْكَنَةَ وَبَآؤُ بِغَضَبِ اللَّهِ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ
وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيَّاتِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ
بِمَا عَصَوْا وَ كَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿۱۴﴾

بہرے (پاؤرو یاد سہ وقت تہ) تیل توہر و نیاو، اہرتہ
اُسی ہکونہ اکرہے کہنیس پتہتہ صبر کر تہ۔ اد کہنی
منگ پرنہنس پرتہگا رس دہا تہ سہ کر سانہ باہتہ کہنی تہ تہ
چہرہ یاد ہم زمین وہ پداوان چھیہ، یعنی تہرہ تہرہ ترکار اللہ
کہنیو، سترہ تہ پزلن۔ (اکھ پتہتہ) وون (اللہ تعالیٰ ہن)
توہر چھو، تہو چہرہ بلہ ہم تہتہ پاکر چہ تہ چہرہ
تہو بہر تھان ہم دوسر پتہتہ چہ ہ کہنی شہرس منہرتہو،
یہ توہر تہ تہتہ چھو (تہ) میل و (تہرتہ) ضرور۔ تہ
آیہ (اد) ہمیشہ خاطر ذیل تہ بے بس کرن۔ بہرے پتہ پتہ
تہم اللہ تعالیٰ) ہندہ غضبہ ترکار۔ یہ (پتہ) اد کہنی
تہم اُسی اللہ تعالیٰ) ہندہن آیین انکار کران تہ تہتہن
اُسی تہتہتہ تہل کرہنی بہر تھان (تہ) یہ (گہ ناہ) اوس
تہتہنتہ نافرمانی کرنہ تہ ہرتہ تہرتہ کہنی (تہن اندر پاؤرو تہ)۔
بیکو لوکو ایکن اؤنمت چہ، بہرے ہم بہووی چہ بہر نصدار
تہ صابی۔ (بیکو اندر) تہرتہ تہ (ڈرک) اللہ تعالیٰ) ہم

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَ
النَّصْرَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ

الْيَوْمِ الْآخِرَةِ عَمَلٌ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۳۶﴾

پیچھے تہ آخرتہ کس دوسرے پیچھے (کابل) ایمان آؤنت
چھ تہ میرے چھ نیک عمل کر ہنتر۔ بڑی پانچ پیچھے تہند
باپتھ تہندس ریس نش تہن ہند (شوبہ دار) اجر۔ میر
نہ آسہ تہن (میرہ وائس زماں متعلق) کائہ خوف تہ
نہ آسہ تہ (پتیس زماں پیچھے) غمگین۔

وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ دَرَفَعْنَا فُوقَكُمْ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَادْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۳۷﴾

میرہ (پادوسہ وقتہ تہ ترہس) بیلی آسہ تو میرہ
عہد اوسو، پتومت میرہ اوس اسہ تو میرہ پیچھے طور
متھرومت (میرہ اوسو تو میرہ وؤنت نہ) یہ کتھھا
اوسہ تو میرہ ویتت چھو تہ رٹو چھو۔ میرہ یہ کتھھا
چھ تہ تھو یلا تھہ تو میرہ متعلق ہنو۔

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِمَّا بَعَدَ ذَلِكَ ۖ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۳۸﴾

اگر (ناکار ہدایت میلہ) پتہ (تہ) چھو تو میرہ
تھہ تہ اگر تو میرہ اللہ (تعالیٰ) سہد فہل تہ رحمت آسہ
ہے نہ تہ تو میرہ سپد ہو ضرور نہ قصان تہن واپو اندر۔
میرہ چھو کہ تو میرہ تم لوکھ (تہند انجام) پتھہ ترا تھہ پتہ
تو میرہ منتر (آستہ) سبتہ کسہ معاطس منتر جادتی
کر ہنتر آس، تھہ پیچھے اوس اسہ تہن وؤنت نہ
(گتھو تہ) ذہل واندہ ہنو۔

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿۳۹﴾

لہذا آسہ ہنو میرہ (واقعہ) تہن (لوکن) ہند خاطر تہ ہم
(تہ وقتہ) مؤہو آسہ تہ میرہ (واقعہ) سبت نہ پتہ پتہ
والہن لوکن ہند خاطر تہ عبرتک مؤہب تہ متقین ہند
خاطر نفہمت (رٹنگ باعث)

فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۴۰﴾

میرہ (پادوسہ وقتہ تہ یاد) بیلی مؤسلی ہن پتہس توہس
وؤن نہ اللہ (تعالیٰ) چھہ تو میرہ (اللہ) گائو ذبح کرکٹ
حکم دولان۔ تہو وؤن (تہ) تہ چھکا اسہ تھہہ کران؟

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَاءَ قَالُوا أَسْتَخِذُكَاهُزًّا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ

لہ صحرے سینا ہس منتر چھہ یہ کہ سلسلہ کوہن ہند مطلب چھہ بیلی اسہ تو میرہ سینا کوہس داہن سس سو نہ تہ اے و
تہ سبت چھہ بڑوارہ وغان تولس منتر اوس یہ ہو دین حکم زسبتہ کردن ہر گتھہ نہ کتہ قسبتہ کام کرنی مگر تہو
کر آتھ جلوب ووزکی۔ تہ یعنی واندہ صفت۔

تہ عربی زبانی منتر چھہ بقرہ آگاو تہ واندس دولونی وغان۔ مہرس منتر آسہ لوکھ واندس پوزا کران
لہذا تھہ سارک ہے واقعس منتر چھہ غالباً واندہے مراد۔

أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿۳۱﴾

دو پیکھ (یعنی موسیٰ بن) ۱ بہ چھس (امر کھہ لہتہ) اللہ
(تعالیٰ) سہ پناہ منجان نہ بہ سپہ (تھہ کار کھتہ) جاہل
منتر شابل۔

قَالُوا إِذْ أُنزِلَتْ عَلَيْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ لَأَن نَّقُولَ إِنَّهُمْ لَبَقْرَةٌ لَّا تَلْهَىٰ
وَلَا يَكْرَهُ عَوَانُ بَيْنَ ذَلِكَ فافعلوا
مَا تَأْمُرُونَ ﴿۳۱﴾

تمو وونس سارہ باپتھ منگ پینس ریس دھار سہ وین
امر چھتھ کڈتھ سم (گاو) کر تھہ چھتھ۔ تمو (یعنی
موسیٰ بن) وونکھ سہ چھہ فرماوان سم چھتھہ تر تھہ گاو
یوسہ نہ چھتھہ بندہ تہ نہ ورتھر، بلکہ اتھہ درمیان
چھتھہ پور بولن او کولیس حکم تو بہہ دتہ بولن چھہ، سہ
آلو بجہا۔

قَالُوا إِذْ أُنزِلَتْ عَلَيْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ لَأَن نَّقُولَ إِنَّهُمْ لَبَقْرَةٌ
لَّا تَلْهَىٰ وَيَقُولُ إِنَّهُمْ لَبَقْرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقْعَوْ
لَهُنَّ تَسْرًا لَّنظُرِينَ ﴿۳۲﴾

تمو وونس سارہ باپتھ منگ (بہہ) پینس ریس
دھار سہ وین امر واش کڈتھ نہ تہند رنگ کیتھ چھہ
(موسیٰ بن) دو پیکھ، سہ چھہ فرماوان نہ سم چھتھہ اکھ
کر گاو۔ تہند رنگ چھہ سبھا شوخ (تہ) سم چھتھہ
دھین واپن سبھاہ خوش کران۔

قَالُوا إِذْ أُنزِلَتْ عَلَيْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ لَأَن نَّقُولَ إِنَّ
الْبَقْرَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا وَلَا تَأْتِيَانِ شَاءَ
اللَّهِ لَمْهَتَدُونَ ﴿۳۳﴾

تمو وونس سارہ خاطر منگ (بہہ) پینس ریس دھار
سہ وین امر واش کڈتھ، سم (گاو) کر تھہ چھتھہ؟
امر بہے چھتھہ امر قہمہہ چہہ (سارہ) گاو بہتہ بوزہ
بولن۔ بہہ (تھو پتھر نہ) اگر اللہ (تعالیٰ) ہن یوزہ
تہ اسی کرو ضرور ہدایت قبول۔

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ لَّا ذَلُولٌ
لَّيْسُ مِنَ الْآرَاضِ وَلَا تَشْقِي الْحَرْثَ
مُسْلِمَةً لَّا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا لَنْ
نَجِدَ بِالْحَقِّ قَدَ بَحْوَهَا وَمَا كَادُوا
يَفْعَلُونَ ﴿۳۴﴾

(موسیٰ بن) دو پیکھ سہ چھہ فرماوان نہ سم چھتھہ تر تھہ
گاو یوسہ نہ چھتھہ وانہ لاکہ آوتہ نہ زمین واپر بہ تہ نہ
چھتھہ فصلس منگ دولن، سبھا چھلہ چھتھہ تس چھتھہ
کانہہ ون پر رنگ (یعنی ٹوک یا داغ) تمو وونس وونڈ
چھتھہ تہہ حقیقت (امر لہتہ) واشگاف کر موشہ۔ چناچہ
تمو کر سم (گاو) ذبح بوزہ وسے تہ تم اسی نہ بہ
کر نہ خاطر تیار۔

وَأَذِ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَآذَرْتُمْ فِيهَا
اللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿۳۵﴾

بہہ (پارو سہ وقت تہ یاد) پیلہ تو بہہ اکھ شخصیں قتل
(کرنگ دعویٰ) کور وک۔ پتہ کور و تہند حقہ اختلاف

سہ یہود اسی دعویٰ کران نہ امر چھہ حضرت عیسیٰ صلیبہ پتھہ کھالہ تھہ مار تھہ شہادت۔ بہہ دعویٰ چھتھہ درست
تھہ حالتس منتر حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیبہ پتھہ والہ آوتھہ حالتس منتر چھتھہ کانہہ از نام مؤد مت۔

حالانکہ یہ (کثیرشہا) توہم کھینٹتے تھا وان اسو اللہ
 (تعالیٰ) اوس تر نئی راون وول -
 اتھ پیچھ وون اسو نر یہ (واقعہ) وُحیون اللہ نفس
 سوتی پیش بینہ والین کیشن بین واقعات سوتی ملناوتھ
 (اد سپرو توہم اصلیت معلوم) اللہ (تعالیٰ) چھ یتھ
 کئی مہردن نرنہ کران تر توہم چھو نشانہ ہاوان یتھ توہم
 عقلہ کام ہینہو۔

تمہ بہتہ گئے بیہ تہندک دل سجت تر زن گوو تم چھ کینہ
 ہوک نہ تر کھوتہ تر ہما سجت تر کینہو مشر چھینہ کینہ
 (کینہ) بلا شک ترہ تر آسان کیو مشر دریاو نیرن چھ تر
 تموشر چھینہ کینہ ترہ تر آسان یم پھٹان چھینہ تر تمو
 مشر چھ آب نیرن ہولن۔ کیو (دلو) اندر (تر) چھ کینہ
 ترہو اللہ (تعالیٰ) ہند بیہ چھ (معانی مکان) اوسو
 بیوان۔ بیہ یہ (کثیرشہا) توہم کران چھو اللہ (تعالیٰ) چھنہ
 ہرگز تر نہ تر بے خبر۔

(اے مسلمانو! کیا توہم چھو راے نر تم (ہنودک) مانن
 تہنہر کتھ؟ حالانکہ تموشر چھ کینہ لوکھ ترہو یم اللہ
 (تعالیٰ) سند کلام بوزان چھ۔ پتہ تر فکر تر نہ پتہ چھ
 (تمیک مطلب) بگاڑن۔ تر تم چھ (امر کام ہندک) بانہ چھ
 زبر پٹھو) زانان۔

بیہ سید یم لوکھ مؤمن سمکھان چھ تر و نان چھکھ نر
 اسی چھ مؤمن۔ تر سید یم پانہ واڈاگ کن سمکھان
 چھ تر (اکھ اگس چھو تھ کھالان) چھ و نان کیا توہم چھو
 جس تر تمہ کتھ و نان بیہ اللہ (تعالیٰ) ہن توہم ہرگز
 نئی راو مشر چھینہ؟ امیک تر نیر یہ نر تم کران کیو
 (زاڈا کارلو) ہندو سو اللہ (تعالیٰ) ہس بروٹھ کینہ
 توہم پیچھ حجت قائم کیا توہم چھو نا عقلہ کام ہولن؟
 کیا تم چھنا یہ (کتھ) زانان نر تم یہ کینہ شاکھتھ تھاوان چھ
 تر یہ تم نون کڈان چھ، اللہ (تعالیٰ) چھ تر زانان؟
 بیہ چھ تموشر چھ کینہ مسٹر یم کیشنہ اپرو کتھو و راہی

فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ
 يُخَيِّئُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ وَيُزِيلُ كُفْرَهُ
 لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۷﴾

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ
 كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً وَاِنَّ مِنْ
 الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهَارُ
 وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ
 الْمَاءُ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ
 خَشْيَةِ اللَّهِ وَاَللَّهُ بِغَا فِلِعَمَّا
 تَعْمَلُونَ ﴿۷﴾

اَفَتَطْمَعُونَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا كُمْ وَقَدْ كَانَ
 فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ
 ثُمَّ يَحَرِّفُوْنَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَ
 هُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿۷﴾

وَاِذْ اَقْوَامٌ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا
 وَاِذْ اَخْلَا بَعْضُهُمْ لِيْ بَعْضٍ قَالُوْا
 اَتَّخَذْتُمْ اٰنُثٰنًا نَّهْمُ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلٰيكُمْ
 لِيُخَاجُوْكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ اَفَلَا
 تَعْقِلُوْنَ ﴿۷﴾

اَوْ لَا يَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ
 وَا مَا يُخْلِنُوْنَ ﴿۷﴾
 وَمِنْهُمْ اُمَّيُّوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ اِلَّا

أَمْ آتَيْنَا إِيَّاهُمْ آيَاتِنَا فَكَنُزُوا ۝۱۱

بِ

پیشہ کتاب ہند کہتی ہے علم چھوڑتے تھے اور تم پر تم چھوڑتے تھے

کتبہ گنڈان

لہذا ہم لوگ کہتے ہیں کہ تم نے ان کو کتاب لیکھاں چھ (تہ) اسی پر
کہہ دیا ہے (کئی شہا) مولیٰ رتبہ خاطر چھ ونان نہ یہ
(کتاب) چھ اللہ (تعالیٰ) ہند طرف تہند باچھ چھ
(اکھ کر لیا) عذاب (مقدر) بیہ (چھ اسی ونان نہ) تہند
باچھ چھ تہند بن اتھن ہند لیکھو متہ کر باعتہ (اکھ
کر لیا) عذاب (مقدر) بیہ یہ تم کماون چھ تمہو کماون
چھ تہند خاطر عذاب (مقدر)۔

بیہ چھ تم ونان نہ اسی چھو نہ (جہنم) نار کیشرو
گنڈاؤر ہتھو دو ہو علاو ہرگز نہ۔ (نرون) کیا توہ
چھو اللہ (تعالیٰ) سنہر بارگاہ نشہ کاہنہ عہد ہوتے
(اگر پڑھ کتھ چھ) تیل کر نہ سہ ہرگز پنس عہد ہند
نہ چھو توہ اللہ (تعالیٰ) ہس متعلق ترشہ کتھ ونان نیکی
توہ ہد (کیشرو) علم چھو نہ۔

کیا نہ! ہم لوگ کہتے ہیں کہ تم نے جو کچھ بدی کماون، تہ تہند
گوہاہ بیہ تمن (ترشہ نونو طرفو) ولہ۔ تم چھ جہنم
نارس منتر ہدن) اولیٰ تہ تم روزن تھو منتر۔

تہ یو لوگو ایمان اونٹ چھ بیہ چھو توہ نیک عمل کر منتر
تم چھ جنس مگر من اولیٰ (تہ) تم بس تھ منتر (ہر
ہیشہ)۔

بیہ (پاؤر سہ وقت تہ یاد ایلہ اسی بنی اسرائیل پو شہ
عہد ہتھو نہ توہی کر نہ اللہ (تعالیٰ) ہس وراوی کاہنہ
ہنر عبادت تہ ماس ماجہ سہو کرہ احسان۔ بیہ
دیتھ کئی) اشدان، یقین تہ مسکن سہو تہ۔ بیہ
(عہد تہ ہتھو) نہ لوگن سہو کرہ مہیہ رس کلام
بیہ اسی نیماز قائم تھوون تہ زکوٰۃ اسی ادا کران۔ مگر
(اسی پتہ) کیشرو (لوگو) وراوی گے و (تہو) توہی
ساری روے گردانی کران چھو تھ۔

بیہ (پاؤر سہ وقت تہ ترشہ) ییلہ اسی توہ عہد ہتھو

قَوْلِ الَّذِي يَكْفُرُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ
ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا قَوْلِ لَهُمْ
مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَذَبِيلُ لَهُمْ وَمَا
يَكْسِبُونَ ۝۱۲

وَقَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا
مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا
فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى
اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝۱۳

بَلْ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ
خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ ۝۱۴

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ۝۱۵

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ
لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ تَوَالِدِينَ
لِأَخْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَ
الْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَ
آقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ
تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَ أَنْتُمْ
مُعْرِضُونَ ۝۱۶

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ

﴿مَاءِكُمْ وَلَا تُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ اَقْرَبْتُمْ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ﴾

نہ توہی کرو جو (پانہ وانی) خواہ نہ توہن - بیہ گدی لوگ نہ بیخو بان
(بیہ پنہہ قوہی لوگ) پستہو گرو اندر تہ توہر او سو (امیک)
اقلار کوڑت، بیہ بھو توہر (تہ عہدس متعلق ہمیشہ) گواہی
دولن روڈی ہو۔

ثُمَّ اَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَ تُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ تَطْهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاِنْ يَأْتُوْكُمْ اُسْرٰى تَفْدُوْهُمْ وَ هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ ؕ اَفَتُوْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَ تَكْفُرُوْنَ بِبَعْضِ ۗ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ بَيُوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلَى اَشَدِّ الْعَذَابِ ؕ وَ مَا لِلّٰهِ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۵﴾

اد توہی لوگ بھو یکم پانہ وانی (امر عہد با وینہو) اکہ اگس قول
کران بھو تہ پستہو منتر بھون اکہ جماعت گوناہر تہ فسلم
سان (تہندن دشمن) اتھہ روٹ کران تہندلو گرو منتر کوڑت
ژہنن - تہ اگر تم توہر بش تیدی بیٹھ (امداد منگہ) رین
تہ توہر بھو لکھ فدیہ دتھ تم سیلہ تہ ترلو ناولن سینہ زن تم
(گرو اندر) کڈی (تہ) توہر پیٹھ سلام کرنہ آمت اولن تہ کیا
توہر بھو اکٹاہر ہندس اگس جھس پیٹھ توہر ایمان اتان تہ اگس
جھس بھو انکار کران ؟ اد توہر منتر یکم بیہ کران بھو جن ہند
سزا کیا چھہ (دنیائی) زندگی منتر رسولی (تہنہ) وانی
(لوہر جن میلہ) تہ قیامت دہ بہرین تم امر کھو تہ تہ کر چھس
فدایس کن چھہ تہ نہ، تہ بیہ توہر کران بھو، اللہ تعالیٰ)
پھتہ ہرز تہ انتہ بے خبر۔

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اَشْتَرُوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخْفٰى عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُوْنَ ﴿۶﴾

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوسٰى الْكِتٰبَ وَ قَفَّيْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ بِالرَّسُولِ وَاْتَيْنَا عِيْسٰى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَ اٰتَيْنَاهُ بَرُوْدًا الْقُدُسَ ؕ اَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ بِمَا لَا تَهْوٰى اَنْفُسَكُمْ اَسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَ فَرِيقًا تَقْتُلُوْنَ ﴿۷﴾

(بیہ) یکے بھو تم لوگ یکم بیہ (دنیا بیچ) زندگی پتہ سینہ واپتہ
(زندگی) کھو تہ ژہ زمان بھو ، اوکو نہ بیہ تہند فدیہ
کم کرنہ تہ نہ بیہ تمن (بیہ کڈی رنگہ) اتھہ روٹ کرتہ۔
بیہ اُس امر (بے شک) موسیٰ ہس کتاب وژہ منتر تہ
تس پتہ سوزی امر (تم) رسول (یکم توہر زمانان بھو وکھ)۔
بیہ عیسیٰ ابن مریمس (تہ) وڈی امر تہ نشانہ تہ روح القدس
وسو بخش تس طاقت (اما پوز توہر نگہ و سار نے بھہ)
تہ اد (وڈی توہی زیہ کتھ پھنا پانہند ؟ تہ) بیلہ تہ توہر
بش کاہر رسول سمہ تعلیم، ہتھہ او، ہتھہ تہندک نفوس پنداسی
نہ کران تہ توہر کوڑ و سکیر (ظاہر) تہ زن گونہ کینہہ اپڑاؤر
و توہر تہ کینہہ کرو و قول۔

وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ؕ بَل لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيْلًا مَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۸﴾

بیہ (اُس بھو پنے نہ) تمو چھہ (بیہ تہ) وونمت (نہ) سانی
دل بھو پرون منتر، (مگر بیہ کتھ چھینہ) تہ بکھ اللہ تعالیٰ
ہن چھینہ تہند کڈہ موکھ تمن پیٹھ لعنت کر منتر۔ او کوڑ بھہ

ترجمہ سیدھے ہے تم ایمان انان۔

تو سیدھے تمہیں اللہ تعالیٰ (تعالیٰ) ہرگز طریقہ الہ کتاب آئیے
یہ سہرہ تمہیں اللہ تعالیٰ (تعالیٰ) ہرگز طریقہ الہ کتاب آئیے
پہلے، تمہیں باوجود کہ ہرگز طریقہ الہ کتاب آئیے
کافرین پہلے فتح (لیکن دعا) میں آسان۔ اور سیدھے تمہیں
سہ چیز آویس تمہیں ہرگز نو تہ کورکھ تھے انکار۔ لہذا تمہیں

کافرین پہلے سیدھے اللہ تعالیٰ (تعالیٰ) ہرگز لعنت۔

سو کھتہ سیدھے ہے ناکارہیتہ بدل تمہیں ہرگز کورکھ
تھاویر ہرگز سیدھے (تہ) سہ سیدھے تہند اللہ تعالیٰ (تعالیٰ) ہرگز
نازل کرے ہرگز کلاس، اتھ کتہ پہلے ڈوبتہ انکار کرن ہر
اللہ تعالیٰ (تعالیٰ) (کیا ہر) سیدھے پسندو ہرگز سیدھے
ہرگز حلال سیدھے، پینٹ فوٹل نازل کران۔ لہذا ہم لوگ سیدھے
پہلے ہرگز سزاوار سیدھے ہرگز تہ ہرگز کافرین کتہ
سیدھے رسوا کرن اول عذاب (مقدر)۔

بہ سیدھے تمہیں ڈنہہ پیر ہرگز اللہ تعالیٰ (تعالیٰ) ہرگز نازل
کورکھتہ سیدھے، اتھ پہلے ڈوبتہ ایمان تہ تمہیں ہرگز نازل کرے
سیدھے تھ پہلے ایمان انان ہرگز سیدھے نازل سیدھے سیدھے
تہ (پہر و نان) سیدھے تمہیں پیرہ و اوس (کلاس) انکار کران۔
حالانکہ سہ سیدھے تھ (کلاس) سہرگز تمہیں سیدھے، تصدیق
کرکھتہ (کابل رنگس مشر) پوز ثابت سیدھے۔ تہر و ان
(جس) ہرگز اگر توہی (داتھی) مؤمن سیدھے کیازہ رودر
و توہی اہر ہرگز اللہ تعالیٰ (تعالیٰ) ہرگز نبین قبل کرن
پتہ لکھتہ ؟

تہر مؤمن اوس توہر نش یقینا ناکارہیتہ ہرگز امت۔ توہر ہرگز
و توہر تہر کورکھتہ سیدھے (پتہ ظالم ہرگز خدا
تعالیٰ تراوتھ الہ و ڈنہہ (پنن معبود)۔

بہ (کرو سہ وقت تہ یاد) سیدھے اہر توہر پوزتہ عہد
ہرگز اوہ تہ طور تھاویا توہر ہرگز (بہ و نان ہر) بہ

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ
مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ۗ وَ كَانُوا مِنْ قَبْلُ
يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ فَلَمَّا
جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ
عَلَى الْكٰفِرِينَ ۝۱۰

بِسْمَا اشْتَرَوْا بِهِ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَكْفُرُوا
بِمَا اَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا اَنْ يَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ فَجَاءُوْهُ
بِعَضْبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ ۗ وَلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ
مُّهِينٌ ۝۱۰

وَ اِذْ اَقْبَلْ لَهُمْ اٰمْنُوْا بِمَا اَنْزَلَ اللَّهُ
قَالُوْا نُوْمِنُ بِمَا اَنْزَلَ عَلَيْنَا ۗ وَ
يَكْفُرُوْنَ بِمَا وَاٰءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا
لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْبِيَاءَ
اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ ۗ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝۱۰

وَ لَقَدْ جَاءَكُمْ مُّوسٰى بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ
اَتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهَا ۗ وَاَنْتُمْ
ظٰلِمُوْنَ ۝۱۰

وَ اِذْ اَخَذْنَا مِيثٰقَكُمْ وَ رَفَعْنَا
فَوْقَكُمْ الطُّورَ ۗ خُذُوْا مَا اَتَيْنٰكُمْ

يَفْقُوهُ وَآسَمَعُوا، قَالُوا سَمِعْنَا وَ
عَصَيْنَا، وَ أَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ
الْعِجْلَ يَكْفُرِهِمْ قُلُوبُهُمْ بِسَمَائَاتٍ مُرَكَّمَةٍ
بِهَآئِمَا نَكْمُرَانِ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۵﴾

کینترھا ابر توہر ویت مت چھو تر رلو چہرہ تر تہ سہنر
(یعنی اللہ تعالیٰ ہنر) اطاعت کرو۔ اٹھ پیٹھ ویناوتو
(یم لولکھ توہر منتر تہر وقتہ ابر مخاطب اُسی) تر (سپٹھا
رت گوی) ابر بوز تہ (اُسی چھ پتہ وین تر) ابر چھ (ہ
حکم) نہ ماتنگ فاصلہ کوزمت تہ تہند کفر کرنہ مومکھ
گوز تہندین دن اندر ووزھ (یعنی تھی سہند محبتک بندنہ)
جائے کر تھہ لہ۔ تہ دن (تہن) تر اگر توہر مومن چھو تہ
سہ کام۔ سیمیک توہر تہند ایمان حکم دون چھو، چھینہ سلٹھا
یکھ۔

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الآخِرَةُ
عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ
فَتَمَتَّوْا الْمَوْتِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۵﴾

تہ دن (تہن) اگر اترتک گہ اللہ تعالیٰ اہس نش (ایا تم)
لولکھ تراوتھ صرف تہندی خاطر چھ تہ اگر توہر (اتھ
دعواہس منتر) پز یارک چھو تہیلہ کرک تو مرنگ تہن!

وَلَنْ يَتَمَتَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْت
أَيْدِيَهُمْ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿۵﴾

تہ (اے مسلمانو! یاد تھا ووا!) یہ کینترھا تہند لو اتھو
برونٹھ سوژھ تھومت چھ تہر کوفہ مہکن تہ تم زانہہ
تہ امیک (یعنی ابر تہمیکہ مومکھ) تہن کر تھہ تہ اللہ
(تعالیٰ) چھ فلانن زہر پٹھو زانان۔

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى
حَيٰوةٍ، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، يَوَدُّونَ
أَحَدَهُمْ لَوْ يَعْمَرُ أَلْفَ سَنَةٍ، وَمَا هُوَ
بِمُرْخِزِهِ مِنَ الْعَذَابِ، أَنْ يَعْمَرَ، وَاللَّهُ
بَصِيرٌ، بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿۵﴾

بہر لہر کھ تہ لے شک تم (تہ) بہر کینہہ تم لولکھ تہ یم
مشرک چھ، ساروہ لولو ہند کھوتہ جاہ زہرنگ ہند لالچی
تہو منتر چھ (پر تھہ) اکھ (یہا) ہترھان زہس گرشہ
ساتس وری وائس میلنہ۔ حالانکہ یہ (کھہ یعنی) تہنر
(ز پٹھ) وائس لہر ہیکہ تہس عذابہ ہنہر بچاوتھ، تہ
یہ کینترھا تم کران چھ، اللہ تعالیٰ) چھ تہ وچھان۔

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ
عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَدِئَ
بِآيَاتِهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۵﴾

تہ دن (تہن) تر یس شخص ابر باعترہ جبرائیل سہند
دشمن ابر تر تھی کر اللہ تعالیٰ) ہند حکم سہر تہ چائس
وئس پٹھہ یہ (کتاب) تارل لہ سہر تھہ (کلامس) یس ابر
برونٹھ موبڈ چھ پوز کرن واجتی چھہ بہر چھینہ مومین
ہند با پٹھہ ہدایت تہ نمہ شجری۔

لہ اشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ "ایک لفظی ترجمہ چھ "تہندر دل اُسی ووزھ (یعنی تہند محبت) چاوتہ آخر مطلب
چھ تر تہندین دن مشر اُس ووزھ ہنر پرستش کرنچ کل گئے ہنر۔

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ
وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ
لِّلْكَافِرِينَ ﴿۱۱﴾

تہ جس رؤوزن یاد نہ (سے شخیص (تہ) اللہ (تعالیٰ)
تہ تہند بن ملائکین تہ تہند بن رسول ہند تہ جبرائیل تہ
میکائیل سند دشمن آسہ تہ (تہند بن) کافرن ہند چھ
اللہ (تعالیٰ) تہ یقیناً دشمن ۔

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۖ وَ
مَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴿۱۲﴾

بہ چھ امیر تہ پہلے بلا شک ناکار نشانہ تہ نازل کر دی ہو
تہ نافرمانو ورا کی چھہ رہن کاہنہ انکار کران ۔

أَوْ كَلِمًا عَهْدًا وَعَهْدًا تَبَدَّلَ فَرِيقٌ
مِّنْهُمْ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۳﴾

بہ (یہ چھنا ناکار کتھ) ؛ بیلہ تہ تمو لوکو کاہنہ عہد
کوڑ تہ تمو منہ ترھن اکر ڈری یہ تراوتھ (یوتے اوت
نہ) بلکہ چھہ تمو منہ واریاہ اپمانس نکھہ تہ پکان ۔

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ
مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ
وَدَّاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۴﴾

بہ بیلہ رہن نش اللہ (تعالیٰ) ہند طرفہ اکھ تہلہ
رسول او میں تھہ کلاس) میں رہن نش چھہ بڑراون
دول چھہ ، تہ تمو لوکو منہ رہن (سہ) کتاب دہ اس
آمیر ، اکر فریقن تہدھو اللہ (تعالیٰ) ہند (سوروار)
کتاب پس پشت تراوتھ ۔ زن نہ رہن (جمع) زانے اس ۔

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَى
مُلْكٍ سُلَيْمٍ ۖ وَكُفِرَ سُلَيْمٌ وَلَكِنَّ
الشَّيْطَانُ كَفَرُوا ۗ يَعْلَمُونَ النَّاسَ
السَّخِرَةَ وَمَا أَنْزَلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ
بِبَابِلَ هَارُوتَ وَ مَارُوتَ ۗ وَ مَا
يَعْلَمِينَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا
نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرَا ۗ فَيَتَعَلَّمُونَ
مِنْهُمَا مَا يَفْعَلُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ
وَدَوْجِهِ ۗ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ
إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ
وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۗ وَلَقَدْ عَلِمُوا الْمِثْلَ شَأْنَهُ

سہتی مگو تم (یہودی) تھہ (طریقس) پہ تہ ہتھ بہ سلیمان
ہند حکومت بہس زانن منہ (تہند حکو مگو) باغی منہ گوتہ
اسی تہ سلیمان اوس نہ کافر بلکہ اسی (تہند) باغی
کافر ، تم اسی لوکن دوکھ دہن واجہہ کتھ ، چھناوان تہ
(پتو کو چھہ ہم یہودی) تھہ کتھ (تہ نقل کران) یو سہ
بابلس اندر دون ملائکین ہ ماروس تہ ماروس پہلے نازل
کر تہ آمیر اس ۔ حالانکہ ہم دو لوے اسی نہ کانسہ
(کلیتہ) ؛ چھناوان یوتانی یہ اسی نہ وان نہ اسی چھہ (خدا
تعالیٰ ہند طرفہ) آز ماہیر ہندس صورتس منہ (مقرر
سپرہ ہتی) اوجو (اسے سٹا بل) سانین ممکن) اکر نہ
نہ انکار کران ۔ ہتھ پہلے ہم (لوکھ) رہن (دونوں) نش

لہ دون ملائکین یعنی دون ملک ہفت بزرگن ۔ ہتھ زانن منہ شاہ باہل بخت نصرن فلسطین فتح کر تھہ بیت
المقدس لہروتھ ترھن تہ بنی اسرائیلن ہندو پہو قبیلو منہ ، داہ تبدیلہ علام بناوتھ باہل اُبن تہ ایران باغیانتا
تہ کشپہ منہ نام چھکر اوان ۔ تھو زانن منہ سپرہ یہودی ہند نہ بزرگ ماروت تہ ماروت اتناہ تہ خلیہ
ہند حکو سہتی کر تہو یہودی قومس ترھہ تربیت نہ سورسے قوم گوو باہل چہ غلامی ہنن آزار ۔

مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ثُمَّ لَيْسَ
مَآ شَرَكُوا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا
يَعْلَمُونَ ﴿۷۰﴾

تم کہتے ہیں انہیں اسی کی جگہ سے تم مہنوس تہ زنا تہ درمیان
(پانہ وانی) تفریق تراوان لہ اسی تم اسی تہ اللہ تعالیٰ
ہند حکم و والی کا نہ تہ کیو کہتو ہند (کی ضرر و آساوا
تہ تہ متقابلہ چھہ یکم (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہند دُشمن) سو کہتہ پنچھان یو ہہ ہمن ضرر و آساوا تہ
نفع دیکھہ نہ کیہہ تہ کیو لکو چھہ یقینا یہ زونمت زریس
یہ (طریقہ) پانناو، آخرتس اندر چھہ نس کا نہ تہ حصہ
تہ سہ چیزیتہ بدل جو پین پان کیہتہ تھومت چھہ، چھہ
سیٹھا ناکا، کاش کہیم زانہ ہن۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَآتَوُا
مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرًا لَّو كَانُوا
يَعْلَمُونَ ﴿۷۱﴾

بہ اگر ہم لو کہ ایمان آہ ہن تہ تقویٰ پراوہن تہ
دُشمن ترہے فکر زریس) اللہ تعالیٰ) ہند طرف سین دول
بدلہ چھہ سار و ہے کھوتہ جان (بدلہ) کاش کہیم زانہ ہن۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا
وَقُولُوا إِنظُرْنَا وَاسْمَعُوا لِكَلِمَةٍ
عَذَابٍ لِّئَلَّا تُكْفِرُوا بِهَا

اے ایماندارو! (پہنیرس تہ کیو کہتہ کران) مہ اُسو راعِنَا
وَنان بکلمہ اُسو "انظُرْنَا" و نان بیہ اُسو (تہنر کہتہ دیان
دقہ) بوزان بیہ (تھوو یاد نہ) سبکرن ہند خاطر چھہ دگر
دار عذاب (مقدہ)۔

مَا يَوْدُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ
مِّنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ
مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۷۲﴾

اہل کتابو اندر تہ بیہ مشرکو اندر کیو لو کو (ساہن رسولن
ہند) انکار کوہت چھہ، تم چھہ پسند کران نہ تو ہہ بیٹھہ بیہ
تہندس بیہ ہند طرفہ کہہ تمک خا (تہ برکت) نازل کرنہ
تہ (تم چھہ مشراوان نہ) اللہ تعالیٰ) یس ہہ تھان چھہ
تس چھہ پنہنہ رحمتہ خاطر تراوان۔ تہ اللہ تعالیٰ) چھہ
بوڈ فضل کرن دول۔

مَا تَسْخَرُونَ مِنْ آيَةٍ إِذْ أَنْتُمْ نَسِيَهَا تَأْتِي بِخَيْرٍ

یس تہ کا نہہ پیغام اُسو منسوخ کران یا مشراوانا و ان

لہ یعنی تم دہ لوے ملک صفت بزرگ اُسو مہودین خفیہ پاٹھو تربت دول تہ راز داری ہند
اوس یہ سال نہ پین راز نہ اوس مرد پنہنہ زنا بہش باوان تہ نہ اُس زمان پنہنہ راز بہج باوقہ
پنہنہس مردس نش کران۔

لہ عربی زباؤ متر چھہ "راعِنَا" تیلہ و نہ لوان ییلہ دہ لوے ڈرک برابر آسن۔ مطلب چھہ تہ تھوا سون خیال اُک
تہ تھوا سون خیال بگر مطلب بوڈ بزرگ آبر تیلہ چھہ "انظُرْنَا" و نون متاب۔ یعنی جناب سون تھوا و نہ لوان
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلام کرنہ و نہ شوہر نہ "راعِنَا" و نون بکلمہ پیر "انظُرْنَا" و نون۔

مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۱﴾

تہ اسو چھو تم کہو تہ رت یا تیجھے بیو (پیغام) بیو کولہ لڑ
دنیہ ہس اندر) انان کیا تریہ چھے نا پے زرا اللہ (تعالیٰ)
پچھ پر ہتھ کتہ کتہ پیٹھ (تینیک سہ اراد کر پور) پور
تھورت تھاون وول۔

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ، وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ
وَلِيٍّ وَلَا نَصِيٍّ ﴿۱۲﴾

تریہ پچھے نا پے زرا آسمان ہنز تہ زمینج بادشاہی چھہ
اللہ (تعالیٰ) ہنز سے تہ اللہ (تعالیٰ) ہس و لای چھہ تہند
تہ کاہنہ دوست تہ نہ کاہنہ مدد کرن وول۔ ؟

أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ
كَمَا سَأَلْتُمُوهُ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَّبِعِ
الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ
السَّبِيلِ ﴿۱۳﴾

کیا تو ہر چھو اپنسنس پیغمبر سے پچھے کئی سوال کرنی بیو شہان
پچھے کئی (ام) برو تھہ مؤمنی ہس سوال کرنہ امی اسو؟
بیو (چھو مشراوان ز) ایس شخص کفر ایمان سے تہ
بدلو، (اد) زانی تو ز) سہ ڈول سینر و تہ لہش۔

وَلَا كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُّوْكُمْ
وَمِنْ بَعْدِ إِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا مَّحْسَدًا مِّنْ
عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ
الْحَقُّ فَعَاغَوْا دَافِعَهُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ
اللَّهُ بِأَمْرٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ ﴿۱۴﴾

اہل کتاب بو منبر چھہ واراہ لوکھ امہ پرتہ زرق ہتھ تہن پیٹھ
نون سپدنت، تمہ صدہ کئی سس تہندہن پینینہ زون اندر
(پاچہ سپدنت) چھہ بیو شہان ز تہندہ ایمان انہ پتہ بناؤر
نو تہ ہر بیو کافر۔ اد تہ ہر بزرگ ز تہن کرو تو تہنا مہ
بیو کرو (تہن) درگدر یوتما ز اللہ (تعالیٰ) پین حکم تہار
فرماو۔ اللہ (تعالیٰ) پچھ بے شک پر ہتھ کتہ کرنس پیٹھ
(پور) پور تھورت تھاون وول۔

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، وَمَا
تُقَدِّمُوا وَلَا تَأْخُذُوا بِمَا نَيْبُكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ﴿۱۵﴾

بیو تھادو نماز (شرطو مطابق) قائم تہ زکوٰۃ کرو ادا۔
بیو تھادو یاد) یو سہ تہ نیکی تو ہی پیننہ ذاتہ خاطر بروٹھ
کتن سوزو، تو ہی لیون سہ اللہ (تعالیٰ) ہس لہش۔ اللہ
(تعالیٰ) پچھ یقینا تہندہ اعمال و چھان۔

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن
كَانَ هُوَ ذَا ذُنُوبٍ مِّمَّنْ تَرَكَ
قُلُوبَهُمْ بَرًا تَوَّابًا ۗ إِنَّ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ﴿۱۶﴾

بیو چھو تم (یہودی تہ نصاریٰ) دنان ز جنتس اندر
اثر تہ تھو لوکو، وراہی ہم یہودی تہ نصاریٰ آسن، ہرگز کاہنہ
ہم چھو محض، تہندہ اور زوہ سے۔ تہ ون (تہن) ز
اگر تو ہی بزرگ یارک، چھو تہندہ کرو پنڈو ڈیل پیش۔

بَلْ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ
فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۷﴾

(بیو) لو زوہ باجے لوکھ (کیا ز) اثران) نہ؟ ایس کاہنہ تہ
پین پان (اللہ) ہس پشراو بیو آسہ نیک کام
کرن وول (تہ)، اد تہندہ رس لہش پچھ تہندہ خاطر بدلہ

۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷

(چکاؤتھ)۔ تہ جن لوگن نہ آسہ (سینہ وائس زانس متعلق) کتہ قبمک خوف تہ نہ آسن تم (کتہ پتہ مس توتھس پیٹھ) عم سینہ والی۔

تہ یہودی چھہ زمان نہ نصاریٰ چھہ کتہ (پزیر) کتہ پیٹھ قائم تہ نصاریٰ چھہ زمان نہ یہودی چھہ کتہ (پزیر) کتہ پیٹھ قائم۔ حلا تکہ تم دہ نوے چھہ (اکے) کتاب (یعنی تورات) پران۔ جتھ کتہ بیک لکھ علم آسہ نہ تھاوان تم تہ آسہ تہنترے ہش کتہ کران۔ اوکڑتھ (کتھ) منتر بیک اختلاف کران چھہ تھ متعلق کر اللہ (تعالیٰ) قیامتزدہہ تہن درمیان فاصلہ۔

تہ تس (شخصہ ہند) کھوتہ کس چھہ بوڈ ظالم (دہستہ ہیکان)۔ سیر اللہ (تعالیٰ) تہنرو مسجد و رشتہ (لوکھ) چھہ رڈ۔ نہ تہن اندر یہی تھو سنداو ہتہ تہ تہنر وارانی پیٹھ گونڈن کمر۔ بھن (لوگن) ہند خاطر ادہہ مناسب نہ تہن (مسجد) اندر اترہن مگر (صلی) کھوژان کھوژان۔ تہند خاطر چھہ دنیا ہس منتر (تہ) رسوا لی تہ آخرتس منتر (تہ) بوڈ عذاب (مقدر)۔

بہ چھہ مشرق تہ مغرب اللہ (تعالیٰ) ہندی اوکڑ لوگن تہ توہو بھہ کتہ آسہ اللہ (تعالیٰ) سند توحہ۔ اللہ (تعالیٰ) چھہ یقینا وسعت دہہ وول (تہ) پٹھانن وول

بہ چھہ تم زمان نہ اللہ (تعالیٰ) ہن چھہ (پینہ خاطر) اکھ نیچو ہنودمت (تہنتر یہ کتھ چھہہ درست کینہ) سہ چھہ (پرچھہ کتہ زوری رشتہ) پاک۔ بلکہ یہ کینترھا آسمان تہ زمینہ اندر چھہ (تہ) چھہ سورسے تھو سندسے۔ ساری چھہ تہنر فرما تہر دار۔

سہ چھہ آسمان تہ نہ زمینہ ہند (کتہہ پرانہ نمونہ وائی) یاد کران وول تہ بیلہ سہ کتہ امرک (یعنی تس وجودس منتر اتنگ) فاصلہ کران چھہ تہ تھہ نسبت چھہ صرف بہ فراوان نہ "تہ سپد" تہ سہ چھہ سپدان۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصْرَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يثْلُونِ الْكِتَابَ ۚ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۳﴾

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّتَّعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۗ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا وَلَا يَخْرُجُوْنَ ۗ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۴﴾

وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ قَائِمًا تُولُوْا فَتَنَّهُ وَجْهَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۵﴾

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۗ سُبْحٰنَهُ ۗ بَل لَّهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ كُلُّ لَهٗ قَائِمٌ ﴿۱۶﴾

بَدِئِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَاِذَا قَضٰى اٰمْرًا فَاِنَّهٗمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿۱۷﴾

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُعَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَنْزِيلًا آيَةً، كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ۗ قَدْ بَيَّتْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَوقِنُونَ ﴿۱۱﴾

ترجمہ لو کہ ہم (خدا کے ہنسنے جھکنے ہنسنے) ہم تمہاراں چھنے، چھہ دنان ز اللہ (تعالیٰ) کیا نہ چھنے اسے سہو (سید سینود) کتھ کران یا اہر نش (کیا نہ) چھنے کانہہ نشان یوان؟ یتھ کتھ (بیکل) یتھ نہ پے ہش کتھ اکہ (ترجمہ لو کہ تر) کران ہم یکن برو تھہ اسی۔ تمن سارک نے ہنرک دل چھ سپد کر ہتھ ہوی۔ اسے چھہ تمن لکن ہند با پتھ ہم پڑھ کران چھہ پڑھہ رتھہ رتھہ نشان نشان کڈ تھہ بیان کرکے ہتھ (مگر ہم لو کہ چھنے مانان)۔

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴿۱۲﴾

اسے چھک تر بے شک نھہ شخبر دتھہ وول تر خبر دار کرن وول (بناوتھہ) حق (تر پتھ) ہتھہ سوزمت تر جہنمہ بین متعلق ہسی نہ تر یہ کانہہ پتھہ سگار کرنہ۔

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَ هُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ دَلِيلٍ وَلَا نَصِيرٍ ﴿۱۳﴾

تر (تر تھو یاد) یہودی سپد نے نہ زاہ تر یہ راضی نہ نہ (سپد نے) نصاریٰ (تھوش) یوانا نہ تر تھندہ دتھہ پاروی کرکھ۔ تر ون تمن ز اللہ (تعالیٰ) سند ہدایتے چھہ پڑکے پاٹھہ اصول ہدایت تر (اسے مخاطباً) اگر تر تمہ علمہ پتھہ (تر) یس تر یہ نش امت چھہ تہنزن خا ہش ہنر پاروی کرکھ تر اللہ (تعالیٰ) ہند کتھ نہ اسے کانہہ چون یار تر نہ اسی کانہہ مدرکات

الَّذِينَ اتَّبِعَتْهُمْ لِكُتُبٍ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ۗ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿۱۴﴾

(ترجمہ لو کہ) یکن اسے کتاب ڈر ہتھ چھنے ہم چھہ اسیج پاروی (تھتھ کتھ) کران یتھہ کتھ اسیج پاروی کرکے پتھہ۔ ہم لو کہ چھہ اتھ پتھہ (پتھہ) ایمان تھوان تر ہم لو کہ امیک انکار کرن تھہ چھہ نو تصان تھن لکن۔

يٰۤاَيُّهَا سَرَّاءِ يٰۤاِذَا كُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَيُّ فُضِّلْتُكُمْ عَلٰى الْخٰلِوِيْنَ ﴿۱۵﴾

اسے بنی اسرائیل! میون سہ احسان کرو یاد یس میرے تھہ پتھہ کورمت چھہ۔ یہ (یہ کتھ تر) نہ میرے ڈراؤو تھہ ہر تمام عالمن پتھہ تھوود درجہ

وَاتَّقُوا اِيَّوْ مَا لَا تَجْزِي نَفْسًا عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۱۶﴾

یہ کھوڑو تھہ دوسرے میںلزن کانہہ شخس کتھ تر معورتس مشر کانہہ بیس شخسہ سند قائم مقام ہیکہ نہ سپد تھہ تر نہ پتھہ نش کتھ تھمک معاوتہ

قبول کرنے۔ نہ دیر تس کا نپہ سفارش فایم تہ نہ
بیسہ تہن مدد کرنہ۔

بیسہ (پاؤو سہ وقت تہ یاد) بیلہ ابراہیم تہو ہندی
رین کیشرو کتھو سستی آزموو تہ تہو باو تہو کتھو)
پلوہ کر تہہ۔ (اتھ پیٹھ) فرمولس (اللہ تعالیٰ ہن)
نہ ہر چھستہ تہ یقینا لوکن ہندام بناون وول۔

(ابراہیم) دوپ تس تہ میانو اولادواندہ تہ (بناوہ
زیکھ نام)۔ (اللہ تعالیٰ ہن) فرمولس (ادکیاہ ضرور
مگر) میون وعدہ واتہ تہ ظالمین نام۔

بیسہ (پاؤو یاد سہ وقت تہ) بیلہ اسہ ہر گہر (یعنی خانہ کعبہ)
لوکن ہند خاطر چھپر چھپر سمجھ جائے تہ امن (دہنہ)
وول تمام ہنومت اس تہ حکم اوس ویتنت ابراہیم ہند ایستاد
روز سچ جائے بناوہ زبون نماز ہند مقام ہنہ وژاواسہ ابراہیم
تہ اسماعیلس شاکیدی حکم نہ میون گہر تھادو زبون
طواف کرن والہن تہ اعتکاف کرن والہن، تہ رکوع
کرن والہن تہ سجدہ کرن والہن ہند خاطر پک (تہنا)۔

بیسہ (پاؤو سہ وقت تہ یاد) بیلہ ابراہیم ویناو نہ
اسے میانہ رہو! یہ بناون اکھ امنہ وول شہر تہ بیستہ
کیو روزن والہو مشریم اللہ (تعالیٰ) ہس پیٹھ تہ
ہینہ وایس دوہس پیٹھ ایمان ان تہن کر تہ (پر تہ
گتہ قسکو) ہو عطل۔ (اتھ پیٹھ) فرمولس (اللہ
تعالیٰ ہن) نہ یس شخصس کفر کر تس (تہ) واتناو
ہر (توتہ) گتہ وفتس تاا فایدہ پتہ یمن سہ مجبور
کر تہ تار کس عدلیس کن تہ (ہر) انجام چھہ سلٹھانا کارہ

بیسہ (پاؤو سہ وقت تہ یاد) بیلہ ابراہیم اتھ گرس
وکن کھالان اوس تہ اسماعیل تہ (اوس سیدی سیدی تہ
دہنوس اوس ونان نہ) اسے سانہ پرور دکار!
سانہ طرفہ کر تہ (یہ خدمت) قبول۔ تہ پے چھکھ

وَ إِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ
فَاتَّمَّهُنَّ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ جَاءَ عَلَيْكَ لِلنَّاسِ
إِمَامًا قَالُوا وَمِنْ ذُرِّيَّتِي، قَالَ لَا يَبْنَاكَ
عَمْرَى الظَّالِمِينَ ﴿۱۲۵﴾

وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ
وَ آمْنًا، وَ اتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ
مُصَلًّى، وَ عَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَ
إِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ
وَ الْكَائِفِينَ وَ الرَّكْعِ السَّجُودِ ﴿۱۲۶﴾

وَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا
أَمِنًا وَ اذُرْنِي مِّنْ الثَّمَرَاتِ مَن
أَمِنَ مِنْهُمْ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ، قَالَ وَ
مَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ
إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَ يَبُوءُ الْمَصِيرُ ﴿۱۲۷﴾

وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ
الْبَيْتِ وَ إِسْمَاعِيلُ، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا
إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۱۲۸﴾

(یس) سپٹھا بوزن وول (تہ) سپٹھا زانن وول (چھ)۔
 اے سائبر پرورگاڑا بیہ چھی ژریہ اسی پتہ اتجا کران
 نہ (اسر) دوہ لونی بناو تہ پیڑی فرمانبردار (بند) تہ
 سانو اولادو اندر تہ (بناؤن) اکھ فرمانبردار جماعت تہ
 اسر ونہر سائی (متاسب حال) عبادتکو طریقہ، تہ اسر
 کون کر تہ (پنہ) فضلہ سان تو تہ۔ بے شک چھک
 تہ (پنہن بدن کون) سپٹھا دیان دتہ وول (تہ) پھر
 پھر کر رحم کرن وول۔

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَ مِنْ
 دُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ . وَاَرِنَا
 مَنَّا سِكَتًا وَ تَبَّ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ
 التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۳﴾

اے سائبر پرورگاڑا سون چھ بیہ اتجا نہ (یکم وہے اندر
 سوزتن (تہ) اکھ تہ رسول یس جن چائی آسے پڑتہ
 بوزناو، تہ بیہ پٹھناو جن کتاب تہ حکمت بیہ کر
 تمون پاک۔ یقیناً چھک تہ غلبہ تھاون وول (تہ)
 حکمت وول۔

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ
 يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ
 الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيهِمْ . اِنَّكَ اَنْتَ
 الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۱۴﴾

بیہ یس شخصس ورائی سیکو پن پان ہلاک کورمت اسر
 کس ہیکہ ابراہیم بندس دپس سدی روے گردانی
 کر تہ؟ تہ اسر اوس سہ بے شک تہ دنیہ اس اندر
 تہ برگزیدہ کورمت تہ آخرتس اندر تہ اسر یقیناً نیکو کاران
 سدی (گنہراونہ امت)۔

وَ مَنْ يُّزَعَبْ عَنِ مِلَّةِ اِبْرَاهِيْمَ اِلَّا مَنْ
 سَفِهَ نَفْسَهُ ، وَ لَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا
 وَ اِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۱۵﴾

یہ لکھو بندر پرورگاڑا کس وون نہ (سائی) فرمانبردار
 پرلو! تھی وونس (درجواب) نہ سنے چھسہ
 (برو تھو پیٹھ) سارک نے عالمن ہندس پرورگاڑا
 فرمانبردار پرلو موتر۔

اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ ، قَالَ اَسْلَمْتُ
 لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴿۱۶﴾

بیہ کور ابراہیم پنہن نیچون تہ (تہ کئی کور)
 یعقوبن تہ (پنہن نیچون) امر کتہ ہند تہ کپد
 (تہ وونک نہ) اے میانو گو برو! اللہ (تعالیٰ)
 ہن چھ بے شک یہ دین تہند باپتہ ترورمت او
 کئی کوتانی ٹرنلو نہ ہرگز کوتانی نہ تو
 (اللہ تعالیٰ بندر) یوہ فرمانبردار سیدو۔

وَ وَصِيًّا بِهَا اِبْرَاهِيْمَ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبَ يٰٓاِبْرٰهِيْمَ
 اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكَ الدِّيْنَ فَلَا
 تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿۱۷﴾

کیا توہ اسر واتمہ وقتہ موجود؟ یہ لکھو یعقوبس موت
 (یعنی یہ تہ) او تہ سیکہ تہ پنہن نیچون وون

اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ
 الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ

بَعْدِيَاءَ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ
آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
إِلَهُمَا وَاحِدًا * وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۳۷﴾

تر تو ہی کھو بہتر عبادت کرو میہ پیچہ بہ تمو وون (تس
در جواب) تر اسی کرو پچائیس معبود (بہتر) تو پچائیس
بدن اجدادن ابراہیم تو اسماعیل تو اسحاق سندس
معبود بہتر عبادت، ایس کنے معبود چھہ تو اسی چھہ
تہذی فرما تہر دار۔

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ
وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۳۸﴾

یہ چھہ سہ جماعت لھو (پنن دور پوہ کر تھہ) موہتر
چھہ۔ یہ کثیرھا تمہ کوو (تمیک نفع نوقصان) چھہ
تس کی کیت۔ تو یہ توہہ کوو (تمیک نفع نوقصان)
چھہ توہہ کیت تو یہ کثیرھا تمہ کران اسی تھہ متعلق
بیوہ نہ توہہ (کیتہ) بہر تھہ۔

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا
قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا * وَ
مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۳۹﴾

توہہ بوڑوا بہر (تم چھہ بیہ وٹان تر یہودی یا
نصاری بنو، توہہ بو (تھہ کئی) ہدایت۔ تر وون (تمہن
تر، پتھہ پٹھو) توہہ، بلکہ ابراہیم ایس (خدایس کن) تمن
وول اوس تسند دین (پراوو) بیہ (تھوو یاد تر) سہ
اوس نہ مشرک کو مشر۔

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا
أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
وَيَعْقُوبَ وَالرُّسُلَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يُؤْتِي مُوسَىٰ
عِيسَىٰ وَمَا أُوْتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ * لَا
تُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ * وَنَحْنُ لَهُ
مُسْلِمُونَ ﴿۴۰﴾

توہہ وولو تر اسی چھہ ایمان تھوان اللہ (تعالے) ہس
پتھہ بیہ تھہ پیٹھہ بیہ اسہ کن نازل کر نہ امت چھہ بیہ
یہ کثیرھا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب تو (تہذی)
اولادن پتھہ نازل سیدت اوس بیہ یہ کثیرھا موسیٰ
تو عیسیٰ، ہس دہر امت اوس تو (یتھہ کئی) یہ کثیرھا
(باقے) نبین تہنک رہہ ہند طرفہ دہر امت اوس
(تھہ تمام وحی پتھہ)۔ اسی چھہ تھو اندر اوس
(نبیس تو بیس نبیس) در میان (کاتھہ) تو (چھہ)
فرق کران تو اسی چھہ تہذی فرما تہر دار۔

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ
أهْتَدُوا * وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ
فِي شِقَاقِ فَسَيْكُمْ فَيَكْفُرُ اللَّهُ * وَهُوَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۴۱﴾

اگر تم لوگ (یتھہ پٹھو) ایمان ان یتھہ کئی توہہ
تھہ (تعلیم) پتھہ ایمان اونت چھو، تو (بس)
تمو لوہ (تیل) ہدایت۔ دچھہ بوڑو اگر تم چھہ
تو (زانی زلو تر) تم چھہ صرف اتھائس پتھہ (کمر
گڈ تھہ) اتھہ صلواتس اندر بچاوی تہذی اللہ (تعالے)
ضرور تمن (ہند شہر) رتھہ سہ چھہ سبھہ ہے

بوزن وول (تہ) سبھ ہے زانن وول۔
 (اے مسلمانو! میں تو توہر اُسی تہ پڑا وول) اللہ تعالیٰ
 سُن دین۔ تہ دینس (یعنی دین بچاؤس) اندر کس
 ہنیکہ اللہ تعالیٰ، ہس کھوتہ بہتر آستہ۔ اُسی
 چھ تہندی عبادت کرن والی۔

تہ وول (حسن کیا توہی چھوا اللہ تعالیٰ) ہس متعلق
 اسر ستر نیاسے لاگان؟ حالانکہ سہ چھ سون (تہ)
 پروردگار تہ تہند (تہ) پروردگار، تہ سانی اعمال چھ سانہ
 با پتھ تہ تہندی اعمال چھ تہند با پتھ تہ اُسی چھ
 تس ستر اخلاص (یعنی خالص تعلق) تھا وول۔

(اے اہل کتاب! کیا توہی چھوا (یہ) دنان تہ ابراہیم
 تہ اسماعیل تہ اسحاق تہ یعقوب تہ (تہندی) اولاد اکر
 یہودی یا نصاریٰ؟ تہ وول (حسن) کیا توہی چھوا جاد
 زانان کہہ اللہ تعالیٰ؟ تہ تہند کھوتہ جاد
 ظالم کس ہنیکہ اُستہ لیس سہ گواہی کھتہ لیس
 تس نش اللہ تعالیٰ) ہند طرفہ اُسر؟ تہ اللہ
 تعالیٰ) چھ تہرگز تہر نشہ لے خیر یہ توہی کران چھو۔
 یہ چھ سہ جماعت لیسہ (پنن زمانہ بلوہ کر تھ) موہتر
 چھتہ۔ یہ کینترھا تہر کوو (تہیک نفع نو تصان) چھ
 تہر خاطر تہ یہ توہر کوو (تہیک نفع نو تصان)
 چھ تہند با پتھ۔ یہ یہ تم کران اُسی تھ متعلق
 یہ و نہ توہر پتر تھنہ۔

کم عقل لوکہ دن ضرور نہریم (مسلمان) کھو چہرین پھری
 تہ قبلہ نشہ پتھ پتھ تم (برونٹھ) اُسی (یہیہ تم پتھ
 کتھ کرن) تہ (حسن) وول نہ مشرق تہ مغرب چھ اللہ
 تعالیٰ) ہندی۔ سہ بیس یہ تھان چھ تس چھ اُکھ سیز
 و تھ تا وول۔

تہ (اے مسلمانو! پتھ پا تھی توہر اسر سیز و تھ تا و تہر چھو)

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً
 وَنَحْنُ لَهُ عِيدُونَ ﴿۱۹﴾

قُلْ اتَّبِعُونِي فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا
 وَرَبُّكُمْ وَكُنَّا أَعْمَالُنَا وَكُنَّا أَعْمَالُكُمْ
 وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿۲۰﴾

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
 وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْكَشْبَاطَ كَانُوا
 هُودًا أَوْ نَصْرَى، قُلْ إِنْ كُنْتُمْ
 أَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ وَمَنْ أَظْلَمُ
 مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةَ عِنْدَ اللَّهِ
 وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۲۱﴾

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا
 كَسَبَتْ وَلكُمْ مِمَّا كَسَبْتُمْ وَلَا
 تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۲۲﴾

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا
 وَلَهُمْ عَن قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا
 عَلَيْهَا قُلْ لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ،
 يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿۲۳﴾

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

پہنچنا وہاں یہ توہمی (برونٹھ) زاناں اسوم نہ۔
 او کو تو (سینلہ بہ یوت فغیل کرن وول چھس تہ)
 توہمی تھوو میہ یاد، ہم (تہ) روزو و توہمی بلکن
 بیہ بیو میانی شکر کرن والی تہ میانی نہ شکر میہ کرو۔
 اے لوگو! یو ایمان آؤنت چھو، صبر تہ دعا کر تھ
 مٹگو (اللہ تعالیٰ سند) مدد۔ اللہ (تعالیٰ) چھ بیشک
 صبر کرن والین سبتی (آسان)۔

بیہ یکم لوکہ اللہ (تعالیٰ) سنتر و تہ مارنہ یوان چھ
 بہن نسبت مہ و لو (دہرگز یہ) نہ تم چھ مورج نہ
 (تم چھنہ مورج) بلکہ چھ زندہ، وونی گوو تہ ہ
 چھو نہ فکر ترن۔

تہ اسی آزماوو و توہمی ضرور کینترھا خوف تہ بوجھ
 (سبتی) تہ مالو تہ زوو تہ میون نہ تکی (ہند) دسو
 تہ (اے رسول!) تہ بوز ناؤکہ (یکم) صبر کرن والی
 خوش خبر۔

بیس چھہ نیلہ (تہ) کانہہ مصیبت بیہ (تم چھنہ کارن)
 ونان چھہ نہ اسی چھہ اللہ (تعالیٰ) ہند کی بیہ چھہ تسو
 کن چھہ تہ گترھن والی۔

یکے چھہ تم لوکہ بیکن پیٹھ تہ ہندس پروردگار ہند طرفہ
 برکت (نازل ہدان) چھنہ تہ رحمت (تہ)۔ تہ یکے لوکہ
 چھہ یو ہدایت لوہ مت چھہ۔

صفا تہ مروہ چھہ بے شک اللہ (تعالیٰ) ہند لوشتاؤند
 او کو یس شخص امہ کرگ (یعنی خانہ کعبہ) حج یا عمرہ
 کر تہ تس چھنہ بہن درمیان تمیز پکنس کانہہ گوناہ تہ
 یس تہ کانہہ شخص پس نہ تو تہ کانہہ نیک کام کر (سہ)
 زائن نہ) اللہ (تعالیٰ) چھہ (نیک کارن ہند) قدر دان
 بیہ چھہ (سہ) سہا زان وول۔

یکم لوکہ سہ (کلام) کھان چھہ یس امہ سنہو ہشتاؤ تہ
 ہایتہ سان نازل کورمت چھہ امہ پتہ نہ اسی چھہ تہ ہتھ
 کتابہ اندر تہ ہتھ بیان کورمت۔ ہتھی ہو کہ لوکہ چھہ

فَاذْكُرُونِي اذْكُرْتُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا
 تَكْفُرُونِ ﴿۱۸۶﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا
 بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ
 الصَّابِرِينَ ﴿۱۸۷﴾

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 آمَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿۱۸۸﴾

وَلَنْبَلُوا لَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
 وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَ
 الثَّمَرَاتِ، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿۱۸۹﴾

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا
 إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿۱۹۰﴾

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ
 رَحْمَةٌ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۱۹۱﴾

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ
 فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا، وَمَنْ تَطَوَّعَ
 خَيْرًا، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿۱۹۲﴾

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ
 الْبُحْتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ
 لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ، أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ

اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّحُونَ ﴿۱۹﴾

یمن پیٹھ اللہ (تعالیٰ) لعنت کران چھ تہ (باقی) لعنت کران واپ (تہ) چھ لعنت کران۔

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا
فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ
الرَّحِيمُ ﴿۲۰﴾

آ، وہوں گنو پینو توبہ کوز تہ (پین) اصلاح کوز تہ
واش کڈتھ کوز تہ (خدا پیہ بندن ممکن ہند) بیان، ادر
یتھین لوکن پیٹھ کرم فضل سان توبہ۔ بیہ پھس بہ
(پنن من بندن کرن) سبھا توبہ کرن وول (تہ) پھیر
چھیر رحم کرن وول۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَرَاءً
أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿۲۱﴾

پلو لوکو انکار کوز تہ کفر کس حاس منترے گے مڑتھ،
یتھین لوکن پیٹھ چھ لے شک اللہ (تعالیٰ) منتر،
ملیکن ہنرتہ بیہ سارہ لے لوکن ہنر لعنت۔

خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ
العذاب وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿۲۲﴾

تم روزن اتھ منتر (آدر)، نہ پیہ ہن (ہند عذاب
کم کرن تہ نہ پیہ ہن (شاہر کھانج) موہت دہن۔

وَاللَّهُمَّ لَهُمْ آجَلٌ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ
الرَّحِيمُ ﴿۲۳﴾

بیہ چھ تہند معبود (پننس ڈالس اندر) کنے معبود۔ نس
ورائی چھنہ کانہہ معبود (سہ چھ) سارہ روس کرم کرن
ول (تہ) پھیر رحم کرن وول۔

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ
اِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي
تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَ
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ
فَأَخْيَأَ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ
فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ
الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۲۴﴾

آسمان تہ زمینہ ہنر یا والیشہ، رات تہ دنہ چھ بروتھ
پنن تہ ہن ناوان (تہ جہازن) منتر یہ بنی آدمس نفع
دہن والی چیز ہتھ سمندر منتر جہازن چھین، بیہ تھ آس
منتریس اللہ (تعالیٰ) ہن اوہر منتر وول پتہ کرن تہ
وسر زمین تہ کرم منتر پتہ زہن تہ اتھ اندر چھال وول
پر تھ قسمکو جانور۔ بیہ ہواون ہندس اوہر پکتاوس منتر
بیہ تھ اوہر منتریس آسمان تہ زمین منتر ہن مسخر
چھ، چھ (بلشک) تہ قومہ باپتھ نیس عقل کام، ہواون
چھ، کرم یا (قسمکو) ہنسان۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ
أندادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَ
الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى
الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ
أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ

تہ کینہہ لوکہ چھ تھویم غیر اللہ منتر (اللہ تعالیٰ ہن)
ہمسر بناوان چھ۔ تم چھ ہن اللہ (تعالیٰ) بند محبتکو
پاٹھو ٹاٹھنار کرن۔ یکم لوکہ ٹوبن چھ تم چھ سارہ ہن
کھوتہ ہوا اللہ (تعالیٰ) ہن لول بران تہ یکم لوکہ (امر)
ظہکو مرنکب ہیرک (متر چھ) اگر تم (تھ ساعتس) نیلہ
تم عذاب (برونچہ کید) وچین، (کنہ پاٹھو وول) وچین

ثُمَّ يُذِ الْعَذَابِ ۝۳۱

(تیلہ تلگہ ہیکہ لوزن) ز سارے قودرت پھیر اللہ تعالیٰ
ہے۔ پیہ بیر ز اللہ تعالیٰ چھ سخت عذاب کرن دول
(تہ کاش تم لوکھ وچھ من سہ وقت) تیلہ تم لوکھ
مہنتر فرمانبرواری کرنہ یوان اُس ترھینہ گڑھن بمن
لوکن نشیم فرمانبردار اسی، تہ عذاب وچھین (پینہو
اچھو) تہ تہندر سڈی (نجاہو) ڈرلیہ گڑھن (تہند
شرکہ کنی) ترھینہ۔

تہ ایم لوکھ (کفر کن امن ہندک) فرمانبردار اسی و من
(نہ) کاش اسہ اسہ ہے پیہ اکولہ (دنیہ ہس اندر)
پھیرتہ گڑھن (فصیحہ) تہ اسی تہ پدہ بو تہن (کفر
کین امن) نشہ الگ تہ کنی (از) تم اسہ نشہ
الگ پدے پیہ۔ تہ کنی ماو امن اللہ تعالیٰ (تہ تہندر
اعمال چھ تھو پین ہند نتیجہ) چھ (کیفہ) ہمسوس (ایم)
تم نے پیٹھ (وبال بھتہ پین) تہ تم ہیکن نہ ہسر گڑ
(جہنمیکہ) نار منہر نہر تھ۔

اے لوکو! یہ کیتھار ز پتس اندر چھ تمہ مشر یہ کیتھار
سطل تہ شوڑ چھ (تہ) کھینو تہ شیطاس سڈی مہ پکو
پدس پودہ رلاوتھ سہ چھ بے شک تہند نون دشمن۔

سہ چھو تہہر سلقین کران صرف بڈی تہ بے حیالی تہ
امیک (یعنے امر کہتہ ہند) تہ توہی و لو اللہ تعالیٰ (ہس
متعلق ایڑ دا یرو تھ سہ کتھ یوسہ نہ توہی زانان چھو۔

بہ تیلہ تمن و نہ پیہ نہ تہج (یعنے تہہ کولج) کرو
پاروی یس اللہ تعالیٰ) من تارل کورمت چھ تہ تم چھ
ونان نہ (نہ) اُس کرو صرف تمہ (طریقہ) چھی پاروی
تہ پیٹھ اسہ پیڑی جد اجلا و چھو۔ اچھا اگر بہندر جد اجلا
کینہی تہ عقل آسہن نہ تھالان تہ نہ آسہ ہن سینر وتہ
پیٹھ پکان (تہ توتہ کر ہنہاہ تم ترصے کامہ؟)۔

تہ پیہ لوکو کفر کورمت چھ تہند حال چھ تس شخفہ مند ہو
یس تھہ چھیزس آلو دول چھ یس آلو تہ کر نیکہ وراے کینہی

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ
اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ
الْأَسْبَابُ ۝۳۲

وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّنَا كُنَّا
فَتَبَرَّأْنَا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا
كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ
حَسْرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ
مِنَ النَّارِ ۝۳۳

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِنَّمَا فِي الْأَرْضِ
حَلَالًا طَيِّبًا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
الشَّيْطَانِ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝۳۴
إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَإِن
تَقَوْا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَخْلَمُونَ ۝۳۵

وَإِذْ أَيْدِي لَهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ
قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ بَاءً نَاءً
أَوْ لَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ
شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۝۳۶

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي
يَنْحِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً

پہنچنے بوزان۔ ہم لاکھ چھ زرر، کٹی تہ اُنی اوکڑی چھکھنے
فکر تران۔

اسے لوگو! کیو ایمان اونمت چھو، تمو پاکیزہ چیزو منتر
ہم اسہ توہر دتی ہتی چھو کھیپو تہ اگر توہی (پڑی پانچا)
اللہ (تعالیٰ) ہنترے عبادت کرن چھو تہ تمی سُد شکرانہ
(تہ) کرو۔

تمو چھ توہر پیٹھ صرف مسردار، رتھ، سورماز تہ تم چیز
سوام کرو متو ہم اللہ (تعالیٰ) ہند وراہی بہر کانہہ ہند
ناو کرنہ آہی آسن۔ وول گودیس شخصس (ہم چیز ورتاوس
منتر انتر خاطر) مجور گرتھ تہ نہ اسہ سہ قولوس مقابلہ
کرن وول تہ نہ اسہ حدود ہیرتین وول ہنس چھنہ
کانہہ گناہ۔ اللہ (تعالیٰ) چھ بود بخش مار (تہ) پھیری
پھیری رحم کرن وول۔

ہم لاکھ سو (تعلیم) کھٹان چھو ہوسہ اللہ (تعالیٰ) ہن
(الہی) کتاب منتر نازل کر پتر چھنہ تہ تم بدلہ چھو کم
کیتھسا مول وول کران۔ تم چھو یقینا پسینن مٹرن منتر
صرف نار بران تہ قیامت دہہ نہ کر اللہ (تعالیٰ) ہن
سیتو کلام تہ نہ گنتر او ہن شو تری۔ بیہ چھ ہنہ
باپتھ کر یوٹھ عذاب (مقصد)۔

یکے چھو تم لاکھ کیو ہدایت تراوتھ مگر اہی تہ مغفرت
تراوتھ عذاب پر وو۔ او نارس (یعنے ناکوس عذابس)
چھ ہنہ تران بانہ چھو حارانی لایق۔

یہ عذاب سپد امر خاطر اللہ (تعالیٰ) ہن چھنہ یہ
کتاب برحق نازل کر پتر۔ تہ کیو لاکو ہتھ کتاب متعلق
اختلاف کورمت چھو تم چھو بے شک اُنتھہ سوس
عداوتس منتر (ہنہ آہی)۔

تہند مشرقس تہ مغربس کن ہتھ کرن چھنہ کانہہ بڑ
ہکی۔ ابا پوز پور پور نیک چھ سہ شخصس سنیو اللہ (تعالیٰ)

صُمُّ بَكْمَ عُمِي فَهَمْ لَا يَخْقَلُونَ ﴿۱۷﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اكْلُوا مِن طَيِّبَاتِ
مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ
رَآيَاهُ تَعْبُدُونَ ﴿۱۸﴾

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَ
لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ
فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا
إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُودٌ ذَوِجَبِّمٌ ﴿۱۹﴾

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ
مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا
أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا
النَّارَ وَلَا يَكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۲۰﴾

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلٰةَ
بِالْهُدٰى وَالْعَذَابُ بِالْمَغْفِرَةِ ۖ فَمَا
أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿۲۱﴾

ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَ
إِنَّ الَّذِينَ اٰخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي
شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿۲۲﴾

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ

أَمَّنْ بِأَلْتِهِ وَ الْبُيُوتِ الْأَخْرِي وَ الْمَلِكِيَّةِ
وَ الْكِتَابِ وَ النَّبِيِّنَ وَ آتَى الْمَالَ عَلَى حَيْثِهِ
ذَوِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسْكِينِ وَ ابْنَ
السَّبِيلِ وَ السَّائِلِينَ وَ فِي الرِّقَابِ
وَ آتَاكَ الصَّلَاةَ وَ آتَى الزَّكَاةَ وَ
الْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذْ عَاهَدُوا وَ
الضَّالِّينَ فِي الْبِلَادِ وَ الضَّالِّينَ
حِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۳۰﴾

ہمس، آخر تہ کس دوہس، ملائکین، الہی، کتابہ تہ
سارک نہ نبین پیوہ ایمان اولن بیہ دیتن (پین)
مال تہند (یعنی اللہ تعالیٰ ہند) اولہ امستانہ تہ
یتیم تہ مسکین تہ مسافرن تہ منگہ وین تہ غلام
ہند (آزاد کرن) باپتہ۔ بیہ کرن نماز قائم تہ زکوٰۃ
کون ادا۔ بیہ نیلہ نیلہ (تہ) کانہ عہد کونکہ سہ
عہد پور کرن اول، تہ (خا ص کر تہ) شکی تہ بیمار مشر
تہ جنگہ کر وقتہ صبر کرن اول چھ (پور پور نیک)۔ بیہ
لنکھ چھیم (پنہ توہی) پڑیا کر ڈالیہ تہ بیہ لاکھ چھ پور
تقویٰ پراون اول۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ، أَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ
الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ،
فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ
بِالْمَعْرُوفِ وَ آذِ الْإِنْسَانَ بِالْخِسَابِ،
ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ،
فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ﴿۳۱﴾

اے لوگو! یو ایمان اونٹ چھ توہہ پیوہ چھ قتل کاتہن
ہند حقہ برابرک بدلہ ہون فرض کرنہ امت۔ اگر (قاتل)
آزاد (مرد) آسہ تہ تسو (قاتل) آراون تہ اگر (قاتل)
غلام آسہ تہ تسو (قاتل) غلام تہ اگر (قاتل) زمان آسہ
تہ تسو (قاتل) زمانہ (گنہہ بدلہ ہون)۔ مگر تیس
(قاتل) توہ ہندس بائی ہند طرفہ کیتہ (تاوان) معاف
کرنہ بیہ تہ مناسب صلوتس اندر ہیکہ (مقتولہ مند وارث
تہ مہ تاوان) و صلوت کرنہ تہ زبر پاٹو چھ (قاتل) تہ
تاوان) تس کن ادا کرن (واجب) بیہ چھ ہندس پروردگار
ہند طرفہ سہولیت تہ رحمت۔ اہ لیس شخص اس (مکملہ)
پتہ تہ جاوتی کر تہند باپتہ چھ کر لوٹھ عذاب (مقدر)۔
تہ اے عقلہ والہو! تہند خاطر چھ (اتہ) بدلہ ہنس
منز زندگی (ہند سامانہ تہ بیہ حکم چھ اوسے) چھ
توہی چھو۔

وَ لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي
الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۳۲﴾

ییلہ توہہ مشر کاتہہ موت (یعنی مرتک وقت) پتہ تہ
ہرگاہ سہ (من دول) سبھا مال ہاداد پتہ کن تراو
تہ توہہ پیوہ چھ فرض کرنہ امت ز ماس ماجہ تہ
نز دیک انسان (ہند حقہ) کرنہ (امر) مغر وچ وصیت کرنہ۔

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ
الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا، وَالْوَصِيَّةُ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿۳۳﴾

لہ پتہ آس منز چھہ و میتک مراد وراثتک مال تقسیم کرن تکیا نہ تہ متعلق چھ اللہ تعالیٰ ہن (جاری)

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَأَنَّمَا
إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، إِنَّ
اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۸۱﴾

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُؤَسَّدٍ أَوْ إِثْمًا
فَأَضَلَّ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، إِنَّ اللَّهَ
عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۸۲﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۸۳﴾

آيَاتِ مَا مَعَدُّواذَاتِ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ
مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ،
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذْيَةُ طَعَامٍ
مُسْكِينٍ، فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ
لَهُ، وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿۸۴﴾

شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْ
الْفُرْقَانِ، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ
فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ

تقویٰ کرن والین پیٹھ پچھ (یہ کہتہ) واجب۔

مگر ایس شخصیں یہ (وصیت) تمہارے کہ بوزن پیتہ بدلاؤ تہ
تمہیک گوناہ پچھ صرف پچھنے یک تمہ بدلاؤن۔ اللہ (تعالیٰ)
چھہ بے شک زہر پانچھ بوزن وول (تہ) سہیٹھا زانن وول۔

اد ایس شخصیں کانہہ وصیت کرن وایس لیش طرفدارکی
یا گوناہ (سوزد) سیدس کھوڑ تہ تمن کرناو پانہ وازی
صلح، تیلد چھہ تس کانہہ گوناہ۔ اللہ (تعالیٰ) بہتھ

بے شک بوڑ بختن مار تہ پھیرک پھیرک رحم کرن وول۔
اے لوگو ایمو ایمان اونٹ چھو، لوہ ہر پیٹھ تہ پھیر بوزن
درنہ (پچھ پانچھ) فرین کرنہ آمت پچھ پانچھ تمن
لوکن پیٹھ فرین کرنہ آمت اوس یک توہہ ہر وٹھ گذرے
ہتر چھہ۔ پچھ توہی (روحانی تہ اتلائی گمزورینشہ) پچھو۔

(اوبو ڈرو توہی روز) کینہہ گرنیز ہندک دودہ۔ تہ
توہ ہر مشر ایس شخصیں بیمار آسہ یا سفرس مشر آسہ
تس پز بین دین مشر گرنہ (پوہ کرنہ) تہ تمن
لوکن پیٹھ یک امیک (یعنی روزہ درنک) طاقت آس
نہ تھاولن، چھہ (قدیر کنہ) اُکس بسکینہ مند (مقدور)
مطابق) کھون دین واجب۔ تہ ایس شخصیں پوہ فرماہی دارکی
سان کانہہ نیک کام کر یہ آسہ تہند خاطر بہتر تہ
اگر توہی علم تھولن چھو تہ (تیلد ہنکو و توہہ فکر تہ
نہ) تہنہنہ روزہ درنہ پچھ تہند خاطر سہیٹھا جان۔

رمضانک رچھہ چھہ سہ (رچھہ) سیمہ کہ حقیقہ قرآن (اکرم)
نازل کرنہ آمت چھہ۔ (سہ قرآن) ایس سارہنہ انسان
ہندہ خاطر ہدایت (بتاؤدھ سوزنہ آمت) چھہ۔ تہ
ایس پانس اندر صاف دلائل تھولن چھہ (تہ دلائل)
یکن ہدایت وہ پلان چھہ تہ آتھ سدی چھہ (قرآن مشر)

تفصیلی احکام برونیٹے بیان کرک ہتو۔ بلکہ مایس ماجہ تہ آشناون سدی رت سلوک کر پچھ وصیت
یا پسندہ جایداد چھہ وصیت یا یہ تاکید کرن نہ میوں جایداد گرنہہ شرعیہ مطابق یا گرنہہ یں یا
فلانی فلانی غار وارث آشناوس تہ گرنہہ کیشرها دین۔

الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلَا
لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى
مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۳۸﴾

الہی نشان تہ ۔ او کبڑ توہر مشرئیں شخصیں یہ رتھہ
(اتھہ حلس مشر) و پھہ (رہ سہ نہ آسہ بیار تہ نہ آسہ
سفرس مشر) قس پیز نہ سہ در یہ (رتھہ) ۔ تہ لیس
شخصیں بیار آسہ یا سفرس مشر آسہ، قس پیٹھ چھیلے
بین دہ ہن مشر گر بند (پوہ کر ڈہ واجب) ۔ اللہ (تعالیٰ)
چھ تہند با پتھہ سہولیت بیٹھان تہ تہند با پتھہ چھینہ سہولتی
بیٹھان ۔ تہ (یہ حکم چھہ تمہو امہ موکھہ دیمت نہ پتھہ
توہر شکی مشر ہنہ پتھہ پتھہ تہ) چھہ توہر گر بند پوہ کر ڈہ
تہ اتھہ (کتھہ) پیٹھہ کر ڈہ اللہ (تعالیٰ) سہد کجہر (بیان)
نہ تمہو چھو توہر ہدایت دیمت یہ چھہ توہر (توہر ہنہ)
شکر کرن والی ہنہو ۔

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي
قَرِيبٌ ۚ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا
دَعَا ۚ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي
لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿۳۹﴾

تہ (اسے رسول!) بیلہ میاڈ بند تریہ میہ متعلق پڑ
تہ (تہ وکھ جواب نہ) یہ چھس (بھن) نہر دیک (ہنہ)
بیلہ دعا کرن وول میہ اودہ تہ یہ چھس سہد دعا قبول
کران ۔ او کبڑ پیز نہ تم (دعا کرن والی تہ) کرن میون
حکم بر سر تہ میہ پیٹھہ اغن ایمان چھہ تم ہدایت ہنہ ۔
توہر چھو روز ڈری ہنہن راترن مشر سپنہن آسٹہن
نش گر تھنک اجازت ۔ تم چھیلہ تہند با پتھہ اکھ (یعنے
اکر قہمک) لباس تہ توہر چھو تہند با پتھہ اکھ (یعنے
اکر قہمک) لباس ۔ اللہ (تعالیٰ) چھہ زانان نہ توہر آسہ
وہنہن نفس ہنہن تھنی کران او کبڑ کور تمہو توہر ہنہ
پیٹھہ فتنہ ستر توہر تہ تہند (امر حاضر ہند) کورن
اصلاح ۔ لہذا گر تھو توہر وور (بے فکر یا تمہو) بھن
نش ۔ تہ یہ کینٹھا اللہ (تعالیٰ) ہن تہند نا طر مقدر
کورم تھہ تہ تھانڈو ۔ یہہ کینٹھو تہ چنیو یوتانی توہر
صبح سفید کھ سیاہ کھہ ہنہ بیون ہنہ پتھہ ۔ امہ
پتھہ کر ڈہ (صبح پیٹھہ) کاکت تام روز پوہ ۔ تہ یہیلہ
توہر سون مشر اعتکافس (بہتھہ) آسہ تہ بھن (یعنے

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى
نِسَائِكُمْ ، هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ
لِبَاسٌ لَهُنَّ ، عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ
تَخْتَلُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا
عَنكُمْ ، فَالَّذِينَ بَشَرُوا هُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا
كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا
حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ
الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ، ثُمَّ أَتَمُّوا
الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ، وَلَا تُبَاشِرُوا هُنَّ وَ
أَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ، تِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ ، فَلَا تَقْرُبُوهَا ، كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ

يَتَّقُونَ ﴿۳۸﴾

آتشین (پنشن) نیش مہ گڑھو۔ ہم چھ اللہ (تعالیٰ) ہندک
(مقرر کرکے ہو) حد۔ اور کئی مہ گڑھو توہر توہر (ہن)
نزدیک (تہ)۔ اللہ (تعالیٰ) چھ یتھ پاتھی لوکن
ہند باپتھ پنہی احکامات بیان کران یتھ زن ہم (سنا
ہیو نشہ)۔

بہی مہ کھیو توہر پنہی (یعنی پنشن ہن ہندک)
مال (جائیداد) پانہ واہی (رہتھ مہلتھ) اپہر (تہ)
چھنہ فرسبہ) سہتر۔ بہی مہ ہنوکھ ہم (مال) ٹانگن

نش (اپہر مقدمہ بناوتھ) یتھ توہر لوکن ہندین
مان ہند کانہ حصہ زانہ ماہتھ تاہا ہر پاتھی، ہم کھرو۔
ترہ چھی تہندن متعلق سوال کران، تہ دیکھ ہم چھ
لوکن (ہنن عاک کالین) تہ حجہ مہ کھ وقت معلوم
کرہنک سامانہ۔ بہی یہ چھنہ کانہ پنہی نہ توہر اُترو
گران اندر تہندلو پوت اٹگنو کھو۔ بلکہ پورنیک چھ
سہ شخص یس تقویٰ پلو تہ گرن اندر اُسو (توہر)
تہندلو دروازو کئی اڑان۔ بہی پراوو توہر اللہ
(تعالیٰ) سہ تقویٰ یتھ زن توہر کامیاب ہدو۔

بہی گرو اللہ (تعالیٰ) سہتر و تہ ہن لوکن سہتر جنگ
ہم توہر سہتر جنگ کران چھ تہ (کانہ پٹھ) مہ کھرو
جادی (بہی تقویٰ یاد نہ) اللہ (تعالیٰ) چھنہ جادی
کران والہن سہتر ہرگز محبت کران۔

بہی یتھین تہ ہم (ناہتھ جنگ کران والہ) لہیوکھ ہم
کھو کھو کھو کھو کھو کھو کھو کھو کھو کھو کھو
توہر کھتھ تھو تھو تھو تھو تھو تھو تھو تھو تھو
کھوتہ (تہ) جادی سہتر (تھنکان دہن دول)۔ بہی توہر
مہ کھرو ہن سہتر مسجد سراس نزدیک (یا تھ اندر کھو)
جنگ (توت تام)، یونام ہم (پانہ) توہر سہتر تھ منہ

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
وَتَذْكُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَثَمِ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿۳۹﴾

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآهْلِ، قُلْ هِيَ
مَوَافِقَةٌ لِلنَّاسِ وَالْحَجَّةُ وَلَيْسَ الْبِرُّ
بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَ
لِحَتِّ الْبِرِّ مَنْ اتَّقَىٰ وَأَتُوا الْبُيُوتَ
مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴿۴۰﴾

وَ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ
يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿۴۱﴾

وَ اقْتُلُوا هُمْ حَيْثُ تَوَقَّفْتُمُوهُمْ وَ
آخِرِ جُوهْمُ مِّنْ حَيْثُ آخَرِ جُوهْكُمْ وَ
الْفِئْتَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، وَ لَا
تُقَاتِلُوا هُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ
فَاقْتُلُوا هُمْ، كَذَلِكَ جَزَاءُ

لہ اسلام بہر بڑھتھ میل عرب گر جس نیران اسی پتہ اگر کتھ حاجتہ گروا پس میں یہیہ ہیکھ تہ سید
بہر اسی تہ گر اڑان۔ اتھ اسی متر چھ تہ جاہلی ہند زمانہ کر رسم نش مسلمان منع کرنہ آمت۔

الْكَافِرِينَ ﴿۱۷﴾

جنگ (شروع) کرن نہ۔ تہ اگر تم توہمہ سستی (تہ تہ) جنگ کرن۔ تیلہ کر لیکھ توہمہ تہ تم قتل۔ بئین کافرن کبیت چھہ یوہے سزا۔

اد اگر تم بازین، تہ اللہ (تعالیٰ) چھہ بے شک بوڈ بختن مار (تہ) پھیر پھیر کر رحم کرن وول۔

بیہ کرو توہمہ جس سستی توت تام جنگ نہ کاشہہ ہفتہ روز نہ پتھہ کن باتے تہ دین سید محض اللہ (تعالیٰ) ہند تھطرے۔ اد اگر تم بازین تہ (یا) تھوور (ظالمو وراے بھتہ کاشہہ پیٹھہ رٹھہ (کھارن بجائز)۔

سزمتہ وول ریتھہ چھہ سزمتہ واپس ریتس بدل تہ سار نے عزتہ والین چیزن ہند (یعنے تہند جنگ) چھہ بدلہ ہتہ یوان او کوئی لیس شخص توہمہ پیٹھہ جوتی کر توہمہ تہ شیولس (تسنز) جادتی ہند (توت) بدلہ پتہر ہن تھو توہمہ پیٹھہ جادتی کر تھتر آسہہ تہ اللہ (تعالیٰ) سہ تقویٰ پراوو بیہ تراوہ اللہ (تعالیٰ) چھہ بے شک تقویٰ کرن والین سستی (آسان)۔

بیہ کرو اللہ (تعالیٰ) ستر و تہ منتر (مال تہ جان) تریج تہ سینتوہے اتھو مہ تراوو (پنن پان) ہاکس منتر بیہ کرو احسان تہ ہتر۔ اللہ (تعالیٰ) چھہ بے شک احسان کرن والین سستی ٹاٹھتار کرن۔

بیہ کرو اللہ (تعالیٰ) ہند (راضی گزہنہ) موکھہ حج تہ عمرہ یوہہ۔ پتہہ اگر توہمہ (کے باعہہ کوئی حج تہ عمرہ کرن ہتہ) ٹھاکناوہ بیو ادیہ کیتھہا قرآنی توہمہ ستر سیدرو (کرو ذبح) تہ یوتانی نہ قرآنی پینتہ جایہ پیٹھہ واپہ، پینن کلن مہ کا سوس مس۔ تہ لیس کھہ توہمہ منتر بیمار آسہہ یا پینتہ کلہ (واد) سستی تن تکلیف (واتان) آسہہ (تہ اگر سہ کس مس کاساوی) تمس پیٹھہ آسہہ (امموکھہ) روہہ یا صدقہ یا قرآنی ہند رنگہ کینہہ فدیہ (وواجب)۔ پتہہ تیلہ توہمہ امس مسز

فَاِنْ اَنْتَهُوَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَفُوٌّ ذَّحِيْمٌ ﴿۱۸﴾

وَكَاتِلُوهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةً وَ يَكُوْنَ الدِّينُ لِلّٰهِ ؕ فَاِنْ اَنْتَهُوَ فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۹﴾

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ؕ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿۲۰﴾

وَانْفِقُوا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا بِاَيْدِيكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ وَذٰ اَحْسِنُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۲۱﴾

وَ اَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ؕ فَاِنْ اُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ؕ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا اَوْ صَبِيًْا اَوْ اَذًى اَوْ مِن رَّاسِهِ فِدْيَةٌ مِّنْ صَبِيًْا اَوْ صَدَقَةٌ اَوْ تَسْلِيْمٌ ؕ فَاِذَا اَمِنْتُمْ فَلِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ؕ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيًّا مِّثْلَةَ اَيَّامٍ فِي

الْحَجَّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ
عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ
أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ
اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ﴿۱۱۰﴾

بیو تہ (تہ وقتہ) بیس شخص عمرہ مکہ فایده (تہ شخص)
تجس سترہ (رأوتھ) تہ تہ یوسہ قربانی تہ سہل یاٹھو
(تہ) بیس سپتہ بیگہ (سوکرن) تہ بیس شخص
(کنہ قربانی بند توفیق) لہر تہ، تہ پٹھ چھ ترہن
دوہن ہنہر روزہ تجس (یعنی تجہ کین دوہن) منہر (واجب)
تہ سٹھ (دوہ روزہ) بیلیہ (اسے مسلمانو!) توہی (پنہنہن
گرن کن) ولہس (پھتھ) بیو۔ ہم گئے پوہر داہ۔ یہ
تہ حکم چھتہ شخصہ ہنہر تھاطہ نیو ہنہر شری باثر
مسجید حرامس نکہ روزان والی آسن تہ۔ بیہ پراؤ توہر
اللہ (عالی) سندر تقوی تہ تراؤ ہر اللہ (عالی) سندر
سزلیجہ یقینا سنجت (آسان)۔

الْحَجَّ أَشْهَرُ مَعْلُومَاتٍ ۚ فَمَنْ قَرَضَ
فِيهِتِ الْحَجَّ فَلَا رَفْتٌ وَلَا فُسُوقٌ وَلَا
جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۚ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ
خَيْرٍ يَعْلَمَهُ اللَّهُ ۚ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ
خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ۚ وَاتَّقُوا نِيَّ أُولِي
الْأَلْبَابِ ﴿۱۱۱﴾

حج (کرکو رتھ) چھ (سارہنے ہنہر) تراؤ ہر ماؤ
تہو رتھ۔ لہذا بیس یمن اندر حج (کرنگ اراد) پوہر
کر (سہ تھاون یاد ہر) تجس (یعنی تہن دوہن) منہر
تہ تہ آس کا نہ تہو حج کتھ کرہ، تہ کانہہ نافرمانی
تہ نہ کنہ قہمک نیاسے کرن (بایز) تہ نیکی (ہنہنہر)
یوسہ تہ (کام) توہی کرہ۔ اللہ (عالی) پرمہر ناو
تھہ (یعنی تہج قدر) ضرور۔ بیہ تلو و تہ خرچ
(سترہ) تہ (یاد تھو) ہر بجاؤ رت و تہ خرچ چھ تقوی
تہ اسے عقلہ والہو! میون تقوی پراؤو۔

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ
رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَقاتِ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۚ
وَإِذْ كُرُوهُ كَمَا كُذِّرْتُمْ ۚ وَانْ
كُفْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لِمَنِ الضَّالِّينَ ﴿۱۱۲﴾

تہنہر باپتھ چھتہ (یہ) کانہہ گوناہ نہ توہی کرہ (حجہ)
کین دوہن منہر) پستہس پرور دگار سندر کانہہ فضل
تہشش۔ بیہ بیلیہ عرفاتہ پیٹھ توہی پوت پھیرو تہ
”مشعر الحرامس“ بیس کرہ اللہ (عالی) سندر ذکر تہ
بیٹھ پاٹھو تھو توہی ہریت دہیت چھو سہ کر لہن (تہی
مطابق) یاد۔ تہ امہ بروٹھ مسو و توہر بے شک ٹھراؤ
اندہ۔

یہ یعنی اگر ساری مسلمان حجہ کس مومنس پیٹھ بہتھ عالم اسلام باپتھ غورو فکر کرن تہ پانہ وانی راہ
پراؤتھ کرن مسلمان ہنہر بہو دی ہنہر فکر تہ بیہ چھتہ گوناہ، تھکھی تجس سترہ تجارت کرن تہ گوناہ چھتہ۔

بہ نیت پلٹ لوکھ (پوت) پھیران روڈی ہتی چھ تتی
 پلٹ پھیر توہی تہ (پوت) تہ اللہ (تعالیٰ) ہس
 منگو مغضرت۔ اللہ (تعالیٰ) چھ بے شک بخش بار
 (تہ) چھیر چھیر گرم کرن وول۔

پتہ نیلہ تو، سینہ عبادت پرور کر تھہ مع کلو تہ ()
 پرانی زمانس منتر (پتہ جد اجداد یاد کر کر کر پانچ
 کر لوں اللہ (تعالیٰ) یاد۔ یا (اگر ہنیو تہ تمہ
 کھوتہ تہ) جاد دل گنتھہ کر لوں یاد۔ کیہنہ
 لوکھ چھ تھو یکم (ینی) ونان روزن چھ زراے
 سانہ پروردگار اسہ دتہ پتھو دتہ ہس اندر آرام
 تہ تہند چھتہ اترس منتر کانہہ تہ حصہ آسان۔
 تہ تمن اندر چھ کیہنہ (تھو تہ آسان) یک ونان
 چھ زراے سانہ پروردگار! اسہ د (بھد) دتہ
 ہس منتر (تہ) کامیابی تہ اترس اندر (تہ د)
 کامیابی بہ پچا و اسہ نار کہ عذابہ لیتہ۔

یکے چھ (تم لوکھ) پہنہ خاطر تہنہز (نیک) کماہ
 موکھ (ٹوایک) اکھ سپٹھا بوڈ حصہ (مقدر) چھ
 تہ اللہ (تعالیٰ) چھ سپٹھا جلد حساب چکاون وول۔
 بیہ کر لوں (بیم) گنتھہ دوہن منتر اللہ (تعالیٰ)
 یاد۔ پتہ یس شخصس وترھ کر (تہ) دوہن دوہن
 منتر بے (گڑھ واپس) ہس چھنہ کانہہ گوہناہ تہ
 یس شخصس پتہ روز تس (تہ) پتھنہ کانہہ گوہناہ
 (یہ وعد) چھ نلس شخصہ سہد باپتھ یس تقوی
 پراو تہ توہی پراو اللہ (تعالیٰ) سند تقوی
 تہ زانو ز توہی ساری ہیو (اگر دوہہ) سونہر اوکھ
 تس بروٹھ کن ہنہ۔

بیہ چھ کیہنہ انسان تھو (تہ آسان) پہنہ کتھ
 دیہیہ) دنیا چہ زندگی متعلق توہہ (سپٹھا) پرتیوہ
 چھنہ معلوم سپدان تہ تم چھ (کتھہ کر تہ ورتھہ
 (احلاس) پتھ یس تہندک دس اندر چھ، اللہ

تَمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ
 وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
 رَحِيمٌ ﴿۳۰﴾

فَإِذَا قُضِيَتْكُمْ مَنَاسِكُكُمْ فَاذْكُرُوا
 اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ
 ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا
 آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ
 مِنْ خَلَقٍ ﴿۳۱﴾

وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي
 الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً
 وَقَدْ آتَى النَّارَ ﴿۳۲﴾

أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ
 سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿۳۳﴾

وَإِذْ كَرِهَ اللَّهُ فِي آبَائِهِمْ تَخَبُّهُ
 فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ
 وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ
 تُحْشَرُونَ ﴿۳۴﴾

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا
 فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿۳۵﴾

(تعالے) ہس گواہ مھہراوان حساب لکھو تم چھ (ذکر)
سارنے لڑایہ گرن ہند کھوتہ جاد لڑایہ گری آسان۔
بیہ بیلہ تم تا کم بنان چھ نہ فساد (پاؤ) کرنہ
تہ زراعت تہ مخلوق تباہ کرنہ کہ غرضہ چھ تم (سار)
ہے) ملکس اندر دوان پھیران۔ حساب لکھو اللہ
(تعالے) پھتہ فساد پسند کرن۔

بیہ بیلہ تمن و نہتہ بیہ ز اللہ (تعالے) سند
تقویٰ پراوو تہ (پینو) عزت (رچھتہ ہند)
چھتہ تمن گو نہ ہس پھتہ آما کرن۔ لہذا امہ
(تسمہ کمین لوکن ہند) خاطر چھ جہنم کافی تہ سوہ
چھتہ یقیناً سلہٹھا کچھ روزن جاتے۔

بیہ چھ کینہہ انسان تھو (تہ) آسان یم اللہ
(تعالے) سند رضا حاصل کرنہ موکھ پنس زوس
کینہہ (ہے) ترہناک چھ تہ اللہ (تعالے) چھ
(پنسنہ یقیناً اخلامہ والین) بدن پھتہ سلہٹھا
شفقت کرن وول۔

اے لوگو! یو ایمان اوتمت چھو، توہی ساری
ہیو فرمانبرداری (ہندس ڈائرس) ہنر تہ شیطانس
سینو مہ پکبو پیرس پود رلاوتھ۔ سہ چھ بے شک
تہند نون دشمن۔

بیہ اگر توہہ امہ باوجود تر توہہ ہنش چھ ٹاکار نشانہ
آتھو زنگہ نٹے و تینہ زابو ز اللہ (تعالے)
چھ بے شک غالب (تہ) حکمتہ وول۔

ہم (لوکھ) کتھ (کتھ) چھ امہ وراہی پیار و فی ز اللہ
(تعالے) بین جن ہنش اوہر ساین مشر بیہ (بین)
فرشتہ (تہ) اچہ کتھ ہند قاصد بین کرنہ تہ ساری
معاملہ چھ اللہ (تعالے) ہسے کن پھیرتھ گزہان۔
تہ سہ (بنی اسرائیلن پر ترھو تو ز امہ کاتیاہ
نئی نئی نشانہ اسو جنم دتی متی تہ بیس شخص اللہ
(تعالے) ہنر (کاہنہ) نعمت بدلاؤ امہ پتہ ز سوہ

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ
فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ
لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿۳۱﴾

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ
الْعُرْضَةُ بِالْأَلَامِ ۗ فَحَسْبُ لَهُ جَهَنَّمُ ۗ وَ
كَيْفَ الْمُهَادِ ﴿۳۲﴾

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ
ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ ذُو
الْعِبَادِ ﴿۳۳﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي
السَّلَامِ كَآفَّةً ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
الشَّيْطَانِ ۗ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿۳۴﴾

فَإِن زَلَلْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ
الْبَيِّنَاتُ فَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ﴿۳۵﴾

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي
ظُلْمٍ مِّنَ الْعَمَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ وَقُضِيَ
الْأَمْرُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿۳۶﴾

سَلِّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمَا آتَيْنَاهُم مِّن
آيَاتِنَا ۗ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الحَقَابِ ۳۷

سیدس حاصل (تہ تحریر آسہ یہ حقیقت نازی ہنرا) اد
(سہ تھاون یاد زہ) اللہ (تعالیٰ) پھہ سحت سزا
د تہ وول۔

یو لوکو کفر پروومت پھہ تمن پھہ دنیاوی زہندی
نوش شکل کر تھہ لونہ آہتر تہ تم پھہ تمن لوکن
ٹھہ کران یو ایمان اوتمت پھہ، تہ (تھہ مقابل)
یو لوکو تھوی پروومت پھہ تم گنہن یمن (کفار)
پھہ قیامت دہہ غالب۔ تہ اللہ (تعالیٰ) یس
پترھان پھہ تس پھہ بے حساب دوان۔

ساری لوکھ اسی کے (خیال تھوان)۔ پترہ سوزی
اللہ (تعالیٰ) ہن نبی نوحہ پترہ دہہ والی تہ خبردار کران
والی بناوتھہ۔ بیہ سوزان تمن سترہ سق پھہ کتاب
پھہ سہ (یعنی اللہ تعالیٰ) لوکن درمیان تمن
کھن متعلق فاصلہ کریمین مشرتمو اختلاف یاد
کورمت اول مگر (سید بیہ زہ) صرف ہموہ لوکو
یمن سہ کتاب دہہ آہتر اس کور، تمہ پترہ زہن
بشو اسی ٹاکاہر نشانہ آہتر، پانہ وانی سرکشی
(تہ فساج) کفر تھہ (یعنی کتابہ) متعلق اختلاف۔ اد
کفر فی اللہ (تعالیٰ) ہن مؤمن پنہ حکمہ سترہ تھہ
پترہ تام پھہ متعلق یو لوکو اختلاف کورمت ادس
تہ اللہ (تعالیٰ) یمنس پسند کران پھہ تس پھہ
سینر وتر پھہ پکناوان۔

کیا تو بہ چھو زانجہ تھومت زہ تو ہی گزہو جناس
اندرا نزل؛ امہ باوجود زہونہ چھنہ تو بہ پھہ تمن
لوکن ہنر (ہش تکلیفچ) حالت آہتر، یکم تو بہ
برونٹھہ گدرے پترہ پھہ، تمن وائر تنگی (تہ) تہ
تکلیف (تہ)، بیہ آسے تم زہر پٹھو کھوتر ناوتہ پھہ
زہ (تہرہ و تھک) رسول تہ تس سترہ ایمان ان والی
ون زہ اللہ (تعالیٰ) سہ مدد کرنا واتہ؛ یاد
تھاوو! اللہ (تعالیٰ) سہ مدد پھہ بے شک نزدیک

ذِينَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا
بَسَخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ الَّذِيْنَ
الَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَاَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
وَاللّٰهُ يَزِدُّكَ مِنْ يَّشَاءٍ بِخَيْرٍ حَسَابٍ ۳۷

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً تَدَّبَحَتْ
اللّٰهُ النَّبِيِّْنَ مُبَشِّرِيْنَ وَ مُنذِرِيْنَ
اَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ
بَيْنَ النَّاسِ فَيَمَّا اٰخْتَلَفُوْا فِيْهِ
اٰخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْ بَعْدِ
مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنٰتُ بَعِيًّا بَيْنَهُمْ
فَهَدٰى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اٰخْتَلَفُوْا
فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِ اللّٰهِ يَهْدِي
مَنْ يَّشَاءُ لِي صِرٰطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۳۷

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ وَّلَمَّا
يَاْتِكُمْ مِثْلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ
مَسْتَهْمِلِ الْبِاسِءِ وَالضَّرَّاءِ وَذَلُّوْا
حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا مَعَهُ مَتٰى نَضُرُّ اللّٰهُ اِلَّا اَنْ
نَضُرَّ اللّٰهُ قَرِيْبًا ۳۷

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا
 أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ وَإِلَىٰ مَنْ تَسْتَمِعُونَ
 السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ
 اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿۳۱﴾

تم چھی تریہ پرتھان نہ تم کیاہ کن خرچہ؛ تروکھ
 (نہ) یس تہ رت مال توہر دیو سہ چھ (تہندس) ماس
 ماجہ، نزدیکی اشناون، تہین ہستکین تہ مسافرن
 ہند (گوڈ نیک) حق۔ تہ یوسہ تہ نیک کام توہر کرو
 اللہ (تعالیٰ) چھ بے شک تہ زبر یا سھو زانان۔

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كَرْهٌ لَّكُمْ
 وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
 وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ
 وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۲﴾

جنگ کرن چھ توہر پیٹھ فرض کرنہ یوان (تہ) اللہ
 حاس منتر (چھ) فرض کرنہ یوان) نہ سہ چھو توہر
 ناپند۔ بلکل ممکن چھ نہ توہر اوسو کانہہ چیز ناپند
 کران حالانکہ سہ اسہ تہندہ خاطر رت۔ بیہ (بیستہ)
 چھ ممکن نہ توہر اوسو کانہہ چیز پسند کران حالانکہ سہ
 اسہ تہندہ خاطر بیہ چیز متقابلہ ناکارہ، تہ اللہ (تعالیٰ)
 چھ زانان تہ توہر چھو نہ زانان۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ
 قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنِ
 سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
 وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ
 وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ، وَلَا
 يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَبْرُؤُكُمْ
 عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ
 مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ
 فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا
 وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
 فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۳۳﴾

یم لوکھ چھی تریہ حرمتہ واپس رتس متعلق یعنی اللہ
 منتر جنگ کرن متعلق پرتھان تروکھ (نہ) اللہ
 منتر جنگ کرن چھ بیہ بڑ (خرابی منتر) کہتہ تہ اللہ
 (تعالیٰ) سننر وتہ رتسہ ٹھاک کرن تہ آندہ (یعنی
 اللہ تعالیٰ سند) تہ عزتہ واجتہ مسید ہند انکار کرن
 تہ تمکو روزن والی تمہ اندہ کڈتہ تھنہ چھ اللہ تعالیٰ
 ہس رتس (تمہ کھوتہ تہ) بجز کہتہ۔ تہ فتنہ (تہ فساد)
 چھ قتلہ کھوتہ تہ بوڈ (گوناہ)۔ تہ یم لوکھ۔ اگرچہ
 طاقت آسہ ہے۔ روزہن توہر سنی جنگ کرن چھ
 زن توہر تہندہ دینہ رتسہ پھر ہو۔ بیہ یس (تہ)
 توہر اندہ پرتنہ دینہ رتسہ چھیر (تہ) پتہ منتر (تہ)
 کفر ہے پیٹھ۔ اچ (سہ تھاون یانہ) بیچین لوکن
 ہندہ اعمال گرتھن بیہ دنیا ہس منتر (تہ) تہ اترس
 منتر (تہ) ضالع۔ تہ بیٹھو لوکھ چھ جہنمہ (کس
 نارس منتر سدن) والی (تہ) رتہ روزن تھ منتر (تہ) کل
 نام)۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ
 هَاجَرُوا وَآجَا هُدًى فِي سَبِيلِ اللَّهِ

یمو لوکو ایمان اونمت چھ تہ یمو ہجرت کر مہر جمیعہ
 تہ اللہ تعالیٰ) سننر وتہ چھکھ جہاد کورتہ بیٹھو

أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ، وَاللَّهُ
عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۰﴾

لوگھ چھ بے شک اللہ (تعالیٰ) ہند رحیم و وسیع
تہ اللہ (تعالیٰ) چھ سپہا بخش مار (تہ) پھیری
چھ پھر رحم کرن وول۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ
لِلنَّاسِ ، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ،
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُثْفِقُونَ قُلِ
الْعَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿۱۱﴾

تم چھی تریہ شرابس تہ زارس متعلق پیرتھان
تہ و نکھ (زہ) بکن (کاہن) منز چھ بوڈ گوناہ
(تہ لوقصان) ، بیہ چھ لوگن ہند خاطر کین اندر
(کویا) فایڈ (تہ) مگر تہند گوناہ (تہ لوقصان)
چھ تہند فایڈ کھوتہ سپہا ہوڈ۔ بیہ چھی تریہ تم
(لوگھ) پتہ) پیرتھان زہ تم کیا کرن خرچ ہتر و نکھ
زہ یوت نہ کلپنس منز تراوہ۔ چھ کوی چھ اللہ
(تعالیٰ) پنہر حکم تہند باچھ بیان کران چھ توہر
سوچس کام پنیو۔

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَيَسْأَلُونَكَ
عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ
خَيْرٌ ، وَإِن تَحَايَطُوا
هُم فَاِخْوَانُكُمْ ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ
الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ، وَكَوْشَاءُ
اللَّهُ لَا غَنَّةَ لَكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۱۲﴾

چھ دنیاہس متعلق (تہ) امترس متعلق تہ بیہ چھی ہم
(لوگھ) تریہ یقین متعلق (تہ) پیرتھان۔ تہ و نکھ (زہ)
بکن ہند اصلاح کرن چھ سپہا زہ کام۔ تہ اگر
توہر یمن سدی رلہتہ مپلہتہ روزو تہ (تہ) منز چھ
کاہنہ خرچ تہ کیاہر) تم چھ تہند بایہ تہ اللہ (تعالیٰ)
چھ فساد کرن واپس ، اصلاح کرن واپس مقابلہ زہ پانچو
زانان۔ تہ اگر اللہ (تعالیٰ)۔ سترہ ہے تہ۔ توہر
تراوہ ہے و مشقتس منز۔ اللہ (تعالیٰ) چھ یقیناً
غالب تہ حکمتہ وول

وَلَا تُشْرِكُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ
يُؤْمِنُوا ، وَ
لَا مَآةَ
مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ
مِّنْ مُّشْرِكَةٍ
وَكَوْ
أَعَجَبْتُمْ
كُمُ ، وَلَا
تُنْشِكُوا
الْمُشْرِكِينَ
حَتَّىٰ
يُؤْمِنُوا ،
وَكَوْ
مُؤْمِنٍ
خَيْرٌ
مِّنْ
مُشْرِكٍ
وَكَوْ
أَعَجَبْتُمْ
كُمُ ،
أُولَٰئِكَ
يَدْعُونَ
إِلَى النَّارِ
، وَاللَّهُ
يَدْعُوهُ
إِلَى
الْحَيٰةِ
وَالْمَغْفِرَةِ
بِإِذْنِهِ
، وَيُبَيِّنُ
آيَاتِهِ

تہ توہر ہر کرو مشرک زانن سدی خاندن یوتانی
تہ تم ایمان ان۔ تہ اکھ مؤمن کثیر چھ یقیناً
اُکس (آزاد) مشرک زانہ ہند کھوتہ جاو جان آسان
اِسوہ آسئو توہر (کا تراہ تہ) پسند۔ تہ (تہ)
پاٹھی) مسلمان زانن ہر کرو مشرک مردن سدی خاندن
(توتانی) یوتانی تہ تم ایمان ان۔ تہ اکھ مؤمن
غلام چھ اُکس مشرک (آزاد) ہند کھوتہ (تہ) یقیناً

لہ عفو لفظک چھ تریہ معنی ، اصلاح کھوتہ شوتہ ، پنہر ضرورتہ علاوہ ، بیہ منگنہ وراس دینہ بیہ ۔

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۲۴﴾

جادو جان آسان۔ یاد دوسے سے توہمہ (کوتاہہ) پسند
آسی و، ایم لوگھ پچھ تارس کن الوکران تہ اللہ تعالیٰ
پچھ پستہ حکم سستی جنتس تہ مغفرتس کن ناد
دوان تہ لوکن ہندہ پاپچھ پچھ پیڑی (معرفتی) نشانہ
واش کدھہ بیان کران سیتھہ تم نصیحت رن۔

بیر جھی ایم (لوگھ) تریہ ماہواری (ہند بن دوہن نتر آشرہ
نش مگرھتس) متعلق (تہ) پیرزھان۔ تہ کدھہ زہ
سہ پچھ کھ ضرر واتان وول (کار)۔ او کوئی رُو زو
توہری ماہواری (ہند بن دوہن) مفر آشنو لنتہ الگ
تہ یوتانی نہ تم پاک (تہ صاف) سپدن، جن نش
مہ گڑھو، او سیلہ تم سران کر تھہ پاک سپدن تہ
پیاری کو توہمہ خدای حکم دیتت چھو (تپاری) بیو
جن نش۔ اللہ تعالیٰ پچھ (جن سستی) ایم پھپر
پھپر تہ کن رجوع کران چھہ اے شک ٹاٹھنار کران۔
بیر پچھ (سہ ظاہری تہ باطنی) صفائی تھون ولہن ستر
(تہ) محبت کران۔

تہنتہ آشرہ چھہ تہندہ پاپچھ (اکتھمک) زمین زراعت
او کوئی توہمہ پتھ کو تہ پتھو پینس زراعتس
نش بیو۔ تہ پاس کیت سُو رُو (کیشھا) بروٹھہ (تہ)
تہ اللہ تعالیٰ سُد تقوی پر اوو۔ بیر ترائو ز توہمہ
چھو نش روبرو سپدن والی۔ تہ تہ د مؤمنان تھہ
دوہس متعلق) خدش نصیر۔

تہ توہمہ مہ بتا ولون اللہ تعالیٰ نیک سلوک کرنس
تقوی کرنس تہ لوکن درمیان اصلاح کرنس (یعنی پتھن
معاملن) مگر پستہن قسمن ہند نشانہ تہ اللہ تعالیٰ
پچھ زہر پاطھی بوزن وول (تہ) سٹھا زان وول۔
اللہ تعالیٰ کرک و تہ توہمہ تہندہ پو قسمو منتر لچو

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، قُلْ هُوَ
أَذَىٰ فَاَعْتَرِزُوا ۖ وَاللِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ
وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا
تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ
اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ
يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿۲۵﴾

نِسَاءٌ كُمْ حَزَبَتْ لَكُمْ فَأْتُوا حَزَبَكُمْ
أَنِّي سَأَلْتُ رَبِّي قَدْ مَوَّالًا نَفْسِكُمْ، وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْفُونَ، وَبَشِّرِ
الْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۶﴾

وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ
أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ
النَّاسِ، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۷﴾

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ

سہ لغو قسم چھہ تم قسم ایم عاوتہ کو کھینہ پوان چھہ، یا کدھہ وقتہ چھہ انسانس شرارت آسان
تہ سہ پچھ سوچینہ کرنہ ورائی قسم ماوان۔ مگر ایس قسم زانتھہ ما تھہ ماونہ بیہ شتھہ پچھہ
چھہ انسان رنہ پوان۔

قسمن پیٹھ باز پیرس۔ وہ فی گوو میس (گوناہ) تہندلو
دلو (اراد کر تھ) کموو تھ پیٹھ کرک و لو ہبہ
باز پیرس۔ تہ اللہ (تعالیٰ) پٹھ سلہا بختن مار (تہ)
بردر بلر۔

یم لوکھ پنہنن آشنین (متعلق) قسم کھیوان (تہ تمن نیش الگ
روزان) چھ۔ تہندہ خاطر چھ (صرف) ترورن رہن
تام پیان (بایز)۔ اد اگر (آتھ) وقس متر صلح
کرنو کہ خیالو، رجوع کرن تہ اللہ تعالیٰ چھ یقیناً
سلہا بختن مار (تہ) پھپر پھپر رحم کرن وول۔
تہ اگر تم طلاق فاصلہ کرن۔ تہ اللہ (تعالیٰ) پٹھ
یقیناً بھاپو وول (تہ) سورے زان وول۔

تہ یمن زان طلاق میلہ تمہ تھون ترین حیض (یعنی
تریبہ لڑ حیض پیش) تام پن پان ٹھاکا و تھ تہ اگر
تمن اللہ (تعالیٰ) ہس (پیٹھ) تہ آخر تہ کس دوسرا
پیٹھ کہاں چھ تہ (تمن روزن خبر زہ) یہ کثیرھا
اللہ (تعالیٰ) ہن تہندہ من شری بان من پاد کر تھ
تھومت چھ۔ تہندہ با پتھ چھنہ نہ کھنن بایز تہ اگر
تہندہ خاوند پانہ وادی اسلوح کرنک اراد کرن تہ تم چھ
اتھ (مدتس) اندر اندر تمن (پنہ آشنہ بناو تھ) (۲۸)
واپس نہک جاد حقدار۔ تہ پتھ پاٹھو یمن (زنان)
پیٹھ کیپہ ذمہ واپر پھید۔ قاید مطابق چھ (تھ)
کئی (تمن تہ) کیپہ حقوق) حاصل، وہ فی گوو مردان
چھنیہ جمن پیٹھ اگر رنج برتری حاصل۔ تہ اللہ
(تعالیٰ) پٹھ غالب تہ حکمت وول۔

وَلَكِنْ يُوْأخِذْكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبُكُمْ
وَاللَّهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۲۷﴾

لَكٰذِيْنَ يُوْثِنُ مِنْ نَّسَائِهِمْ كَبُصْ
اَزْبَعَةِ اَشْهُرٍ قٰنَ قٰوُ وَاِنَّ اللّٰهَ
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۲۷﴾

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ
عَلِيْمٌ ﴿۲۸﴾

وَالْمَطْلَقُ يَنْزَعُ بِأَنْفُسِهِمْ
ثَلَاثَةَ قُرُوْبٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ
مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْ آحْوَاسِهِمْ إِنْ كُنَّ
يُؤْمِنْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ
بُعُوْثُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ إِنْ
أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاللِّزْجَالُ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ
وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿۲۸﴾

لہ ایلا و چھتھ متمس زمان میس خاوند پیٹہ زانہ سرتو دون بازن ہندہ تعلقات ترمنس ہست کھیوان
چھ پیٹہ شخص ہیکر جابو کھوتہ جاد ترہن رہن تعلق تر تھہ، تہ پتہ پتہ پتہ یا صلح کرن یا طلاق کرن تہ تم چھ
لاہر تھہ۔

الطَّلَاقُ مَزْنٌ مِمَّا مَسَّكَ بِمَعْرُوفٍ
 أَوْ تَشْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ، وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ
 تَأْخُذُوا بِمَا أَنْتُمْ مُؤْمِنُونَ شَيْئًا إِلَّا أَنْ
 يَكْفَىٰ قَوْلًا بَلَّغْتُمْ
 إِلَهُكُمْ مَا حُدَّ اللَّهُ فَلَاحُكُمْ عَلَيْهِمَا
 فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
 تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۳۰﴾

تینہ طلاق (بیعت منزر رجوع ہیکہ سپدتھ) پچھ
 دوہی لٹ (سپدتھ ہیکہ) تمہ پتہ گرتھ (یا تہ)
 مناسب طریقےس پچھ (سو) تھا کتاوئی یا گرتھ پتہ
 سلوکہ سان روخصت کرنی تہ تہندہ باپتھ پھتہ
 تریک (یعنی تمہ مالک) یس توہہ تہن بروکھوت
 مت پچھو، کاٹھہ حصہ تہ (والیس) نیلن جائزہ
 (صورتہ) وراڈی زبین (دوہ لونی) آسہ خطہ ز
 تمہ ہیکہ نہ اللہ (تعالیٰ) ہندہ (گندکرتی) حد
 قائم تھوتھ۔ لہذا اگر توہہ یہ اندیشہ آسہ ز
 دوہوے، ہیکہ نہ اللہ (تعالیٰ) ہندہ (گندکرتی)
 حد قائم تھوتھ۔ تہ سو (زمان) یہ کتہ شہا فدیہ
 کنہ دیہ، تہ متعلق آسہ نہ بیکن (دوہ لونی) مشر
 کائتہ (کاٹھہ گمناہ۔ بیک پچھ اللہ (تعالیٰ) ہندہ
 (گندکرتی) حد۔ او کتہ مہ نہو توہہ تہو ہتہ
 تہ بیک لوکھ اللہ (تعالیٰ) ہندہ (گندکرتی)
 حد و نہر نیکن (زادی تو ز) تے لاکھ پچھ (اصل)
 ظلم۔

پتہ اگر (پچھہ کنہ بیان کرنہ آمتنن دوہن طلاقن
 ہندہ گڈرنہ پتہ تہ خاندتس ترنیم) طلاق دیہ تہ
 سوہ زمان آسہ نہ (تمہ پتہ) تمہ ہندہ خاطرہ جاپز

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَكَ مِنْ بَعْدِ حَتَّى
 تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهَا، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ

لہ عام طور پچھ سانہ زمانہ عالم یہ زمان زبیس شخص پینہ آسنہ پکوٹے ترے طلاق دیہ تہندہ طلاق پچھ
 بائن سپلان یعنی پتہ ہیکہ نہ سہ تس سہتی تو نام بیہ خاندکرتھ؛ یو نام نہ سوہ بیہ کائتہ مردوس سہتی
 خاندکرتھ نمہ گرتھ یا تہس طلاق ہیکہ نہ۔ اوے پچھ کتہرو مولویو حلوک غار اسلامی مسئلہ
 کوڈمت۔ صحیح صورت پھتہ یہ زقرآن کریم پچھ فرماوان الطَّلَاقُ مَزْنٌ یعنی طلاق بائن
 پچھ دوہی لٹ سپدتھ ہیکہ پچھ پتہ ز گوتہ دیہ مرد پینہ زمانہ ہندک طہرس (یعنی بیکن
 دوہن سوہ پاک آسہ تہن منزر طلاق تمہ پتہ ہیکہ سہ طلاق والیس تہ رجوع کر یا عدت موکلنہ
 پتہ کر سہ پینہ زمانہ سہتی نوو نکاح، پتہ بیہ کتہ ساہ پانواڈی ناچاکی سپدس پچھ دیہ سہ مرد پینہ زمانہ
 طلاق۔ گو یا طلاق پچھ دوہی لٹ ثابت، لہذا اکی لٹ ترے طلاق دتھ سہ بائن قرار دیں پچھ قرآن کریمس
 خلاف۔ یہ گرتھ زانن تر تکہ منزر دیہ امت طلاق یا کائتہ ہندہ جہر موکلہ دیمت طلاق پچھتہ جائیز۔

يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۳۰﴾

یوتانی سو تمس ورائی (کاتبہ) بیئے ہندس نکاح
مترجمہ ہے۔ ادا کر سہ (تہ) تس طلاق دیہ تمن
دہ نونی چھتہ دو بار رجوع کرنس پیٹھ کا نہہ گوناہ۔
مگر شرط چھتہ یہ زرجن گرتہ یقین آسن زرجم یکن
اللہ (تعالیٰ) ہندس (گندک ہتی) حد قائم تھوتہ
تہ یم چھ اللہ (تعالیٰ) ہندس (گندک ہتی) حد
یکن سہ علمہ والین لوکن ہند باچہ واش گد تھ
بیان کران چھ۔

تہ سیلہ توہی زنائن طلاق دیو تہ تہہ واتن پینس گتہ
آتمس مدس (یعنی تہ کس اتھی حدس) تام تیلہ یا
تہ رٹیوگہ تم مناسب طریقس پیٹھ یا کرٹیوگہ مناسب طریقہ
سان تہہ رحمت۔ بیہ مہ رٹیوگہ تہہ تکلیف دیہ خاطر
(امری پتہ) زرجن پیٹھ کرو (پتہ بیہ) سختی۔ اپوس
شخص پیٹھ گئی کر (زاد تو ز) تھی کور پینس پاس
پیٹھ فلم تہ توہی مہ بناو اللہ (تعالیٰ) ہندس حکم
مٹھٹن لایق۔ بیہ تھوتہ تہہ نشر یاد بیہ اللہ
(تعالیٰ) ہندس طرف توہی دیہ آہتر پھینو۔ بیہ
(تھا و تہہ یاد) یہ تھی توہی پیٹھ نازل کورمت
چھ یعنی کتاب تہ حکمت۔ نہ سہ چھ توہی تہہ کر
دوس نفیحت کران۔ بیہ پرا و اللہ (تعالیٰ) سند
تھوتی تہ زانو ز اللہ (تعالیٰ) چھ پر تہہ کا نہہ
کتھ زبر پاتھو زانان۔

بیہ سیلہ توہی زنائن طلاق دیو تہ تہہ پین عدت
پوہ کرن تہ توہی مہ کرو تمن پینن خاوندن ستر
نکاح کرنس ٹھاک، سیلہ تم نیک طریقس پیٹھ پانہ
واڈی رضامند سین۔ یہ پھیرہ کتھ پیچھ توہی
متر پر تہہ تس شخصس نفیحت کرنہ یوان چھنیہ
یس اللہ (تعالیٰ) ہس تہ آخر تہ کس دہ ہس پیٹھ
اچان تھوان چھ (تہ فکر شرک نوز) یہ کتھ چھنیہ
تہہند تھہ ساروہے کھوتہ جاد برکتر واجتو تہ پانہ

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجْلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَتَحَدَّوْا
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، وَلَا
تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَإِذَا كُرُوا
نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ
مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظَمَ بِهِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۳۱﴾

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا
تَعْضَلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا
تَرَاضُوا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ذَلِكَ
يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ
الْيَوْمِ الْآخِرِ، ذَلِكَ أَذَى لِّكُمْ وَأَظْهَرُ، وَ
اللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۱﴾

وَالَّذِينَ يُضْعِفُونَ أَوْلَادَهُمْ حَوْلَيْنِ
 كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتَزِعَهُ الرِّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ، لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ وِزْرًا
 لِشِعْهَا، لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ
 بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
 بِوَلَدِهِ، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ.
 فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تِرَاضٍ
 مِّنْهُمَا وَتَشَاؤُرٍ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا، وَإِنْ أَرَدْتُمْ
 أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
 اسَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
 بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۲۲﴾

وَالَّذِينَ يُنَوِّقُونَ مِثْلَكُمْ وَيَذَرُونَ
 أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
 أَشْهُرًا عَشْرًا، فَإِذَا بَلَغْنَ
 أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
 فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
 خَبِيرٌ ﴿۲۱﴾

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ

تہ اللہ (تعالیٰ) چھہ زمانان تہ توہی چھونہ زمانان۔
 تہ ماجر چاون پستین شترین پور دھان وڑین تام
 دود (یہ حدایت چھہ) جن ہند خا طہر سکر دود
 چاون (گندہ آفتس و قس تام) پور کرن پھرین
 تہ بیس مال سندر شتر چھہ تندر مہ چھہ قاید
 مطابق جن (دود چاون واجین) ہند کھین چھین تہ
 جن ہند پو شک۔ کانبہ شخصس پھہ چھینہ تندر
 طاقت کھوتہ چاؤ ذہہ واری تراونہ یوان۔ کانبہ ماجہ
 گزہہ تہ تندر شتر سندر دود دکھ دہین تہ نہ گزہہ
 ماس تندر شتر سندر باعہہ (دکھ دہین)۔ تہ
 واری شس پھہ (تہ) چھہ پھہ (کرن لارم) تہ
 اگر تم دودوے پاتہ واری رضامندی تہ مشورہ سدی
 دود ترش پھرین تہ جن پھہ چھینہ (اتھ مشر)
 کانبہ گوناہ۔ بیہ اگر توہی پستین شترین (کانبہ بیس
 زمانہ اتھ) دود چاوناون پھرین تہ تہ پھہ
 چھینہ کانبہ گوناہ، بیلہ زن توہی سہ (معاوضہ) مناسب
 یا ٹھہ ادا کرو بیس تہ ہر دین مقرر کورمت چھو۔ تہ
 اللہ (تعالیٰ) سندر تقویٰ پراوہ بیہ زابوزر بیہ کینترھا
 توہی کران چھو، اللہ (تعالیٰ) چھہ یقیناً تہ وچھان۔
 تہ تہ ہر مشرین (لوکن) روح قبض کرنہ یوان چھہ
 تہ تم چھہ (پانس پھہ کن) آشرہ تراوتھ گزھان
 (پیزہ ہر) تمہ (آشرہ) چھون پین پان ثرون
 رہن (تہ) دھن (دوہن) تام ٹھاکناوتھ۔ پتہ بیلہ
 تمہ پین گندہ آمت مدت پور کرن۔ تمہ بیہ کینترھا
 (تہ فاصلہ) پانس متعلق کرن تمیک چھہ تہ ہر
 کانبہ گوناہ۔ تہ بیہ توہی کران چھو اللہ (تعالیٰ)
 چھہ تمہ ہنہہ باخیر۔

بیہ زمانن سدی نکاح کرنہ کس عرضداشت متعلق

خُطِبَةُ النِّسَاءِ أَوْ اذْكَرْتُمْ فِيْ اَنْفُسِكُمْ
 عَلِمَ اللهُ اَنَّكُمْ سَتَدُّوْنَ كُرُوْهُنَّ وَلٰكِنْ
 لَا تُوَاۡعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّا اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا
 مَّعْرُوْفًا وَلَا تَعْرُضُوْا عَقْدَةَ النِّكَاحِ
 حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهُ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ
 اللهُ يَخْلَعُ مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ فَاخْذُرُوْهُ
 وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۳۸﴾

۳۸

یوہر کہتہ توہی اشارہ پاشو (بتمن) ولو یا سپنہن دین
 اندر تھوو۔ تھہ پچھہ پچھہ توہر کا نہہ گوناہ - اللہ
 (تعالیٰ) پچھہ زانان نہ توہر بیو ضرور تہند خیال مگر
 توہر مہ کروہ بتمن سستی ترور ترور (کا نہہ) معاہدہ
 ووی گوویہ (پچھہ اجازت) نہ توہر ولو بتمن کا نہہ
 مناسب کہتہ - تہ یوتانی (عدتک) حکم سپنہن معیادس
 واتہ (تہ) توہر مہ کروہ (توتام) نکاح کرناک پوہتہ
 ارادہ - بیہ زانو نہ تہندن دین منترہ کیشہا (تہ) پچھہ
 اللہ (تعالیٰ) پچھہ تہ زانان - او کز کھوڑو توہر اتھہ
 (کہتہ) تہ زانو نہ اللہ (تعالیٰ) پچھہ سپنہاہ بتمن مار (تہ)
 برد بار -

توہر پچھہ کا نہہ گوناہ اگر توہر زانان تمہ وقتہ تہ طلاق
 دیوہ پیلہ زن توہر بتمن اتھہ تہ لوگت آسہ وہ یا مہر
 (تہ) آسہ نہ مقرر کوہمت - تہ اتھہ موہوتس منترہ
 و توہر (توہر) دیوہ کیشہ ساماہ بتمن مناسب پاشو
 دولت مندس پچھہ (پچھہ یہ کہتہ) تہند طاقتہ مطابق
 (الزمر) تہ نادارس پچھہ (پچھہ) تہند طاقتہ مطابق (الزمر)
 نیو کارن پچھہ پچھہ (اسہ یہ کرن) واجب (کوہمت)۔
 اگر توہر بتمن تمہ بروٹھ نہ توہر آسہ بتمن پچھومت
 مگر مہر آسہ و مقرر کوہمت، طلاق دیوہ، تہ (تھہ
 صورتس منترہ) سس (مہر) توہر مقرر کوہمت آسہ
 و، تسمیک نہیف پچھہ (بتمن سوالہ کرن) اسہ (صورتہ)
 وراہی نہ تہہ (زانانہ) کرن توہر مہر معاف - یا کر سہ
 (شخص) معاف، سیمو ہندس انھس منترہ نکاح گندک
 اختیار آسہ - تہ تہند معاف کرن پچھہ تقویٰ ہس جہاد
 نزدیک تہ توہر مہ آسہ یا نہ وراہی (ورتا و کرتہ وز)
 احسان کرن تراوان (بیہ تھوو یاد ز) یہ کیشہا
 توہر کرن پچھہ اللہ (تعالیٰ) پچھہ (تہ) یقینا و پچھان

لَا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ اِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ
 مَا لَمْ تَمْسُوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ
 فَرِيْضَةً يَّوْمَ مِتَّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ
 قَدْرُهُ وَاَعْلَى الْمُقْتَدِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا
 بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلٰى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۳۹﴾

وَ اِنْ طَلَقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ
 تَمْسُوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً
 فَرِيْضٌ مَّا فَرَضْتُمْ اِلَّا اَنْ يَّخْفُوْنَ اَوْ
 يَخْفُوْا الَّذِيْ بَيْنَهُ عَقْدَةُ النِّكَاحِ
 وَاَنْ تَخْفُوْا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاَلَا
 تَنْسُوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اِنَّ اللهَ بِمَا
 تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۴۰﴾

۴۰ یعنی زانانہ ہند وکیل یا ولی ۔

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ
الْوُسْطَىٰ ۖ وَتَوَمُّؤِا لِلَّهِ قِنْتَيْنِ ﴿۲۵﴾

فَإِنْ حِفْظُهُمْ فَرَجًا لَّا أَوْ ذِكْرًا تَاءً فَإِذَا
آمَنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا
لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿۲۶﴾

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَكُمْ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ
أَرْوَاجًا ۖ ذَٰلِكَ مَا كُنْتُمْ عَلِيمًا
بِالْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ حَرَجْتُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْتُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ
مِنْ مَّعْرُوفٍ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۲۷﴾

وَاللَّهُ طَلَّفْتِمْ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا
عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿۲۸﴾

كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُونَ ﴿۲۹﴾

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَكُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَخْرَجُونَ مِنْكُمْ
وَهُمْ أَوْلَىٰ بِحَدِّ الْمَوْتِ مِمَّا قَالُوا لَهُمْ
اللَّهُ مُؤْتُونَ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿۳۰﴾

تو ہم تمہارے (سارے) نمازوں میں تہ (خاص کر تہ)
مندی میں نماز میں پورے خیال۔ تہ اللہ (تعالیٰ) سے تہ
خاطر سپرد فرما کر دار بیعتہ استناد۔

بہ اسے خوف آسے، تہ پیدل یا سوار آسے
تہ (پورے نماز)۔ پتہ سید تہ امن حاصل سپرد
تہ اللہ (تعالیٰ) کر لیں یاد تہ کیا تہ چھو تو
(تہ کینہا)، چھتا و تہ، یہ تہ توہر (برونہ) زمان
اسی۔

بہ یہ کم لوگ توہر مشرکین عالمی مژمن تہ آشنہ پتہ
کن تروان تہ تم کرن سینین آشنہ بند حقہ اس
ڈریس نام قایم و اتا و یخ یعنی یمن (گرو اندر) نہ
کڈ یخ وصیت۔ و وری گوو اگر تم (پاڑی پانے) مژمن
تہ پانس متعلق یوسہ پڑیونی کتہ تم کرن تمیک چھو
توہر کا تہ گوناہ تہ اللہ (تعالیٰ) چھ غالب تہ حکمتہ
وول۔

بہ یہ بین زنان طلاق دہہ یہ بہن تہ چھ پنہو حال تو
میطابق کینہ سامانہ دین ضروری۔ یہ کتہ چھینہ (اسہ)
متقین پیچہ واجب (کڑمتر)۔

یہ کتہ تہ اللہ (تعالیٰ) تہ تہند (قایم) خاطر پنہو
حکم و اش کڈ تہ بیان کران یہ تہ زن توہر فکر ترو۔

کیا تہ و تہ تہ تا تہن لوکن ہنر خبر ہم مرہہ ہنر پنہو
خاطر پنہو گرو اندر در اتو اسے سید تم (تہ لہو کو)
ساہہ بڈر اسے؟ اتہ پیچہ و زن تہن اللہ (تعالیٰ)
ہن نہ توہر مسرو۔ تہ پتہ کر کر تم تہ زندہ اللہ
(تعالیٰ) چھ بے شک (بوڈ) فعیل کرن وول و وری
گوو واریاہ لوگ چھنہ شکر کران۔

یہ یعنی بنی اسرائیل، ہم فرعونہ ہند ہمہ ہسہ مشر دریاے۔
یہ یعنی تہنر تافرمانی کہہ ہیو اللہ (تعالیٰ) ہن تہن ساری فاتحہ پتہ طاقت
وایس تہ پتہ کورن تہن معاف تہ تہن ورن فتح۔

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۷﴾

تو ہرگز اللہ (تعالیٰ) ستر و تر جنگ تہ زانو ز
اللہ (تعالیٰ) چھ سبھا بوزن وول (تہ) وارا زان
وول۔

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
فِيُضْعِفُهُ لَهُ آخْضَعًا فَأَكْثُرَ زَكَاةً وَاللَّهُ
يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴿۳۸﴾

کیا کانہہ چھا؟ یس اللہ (تعالیٰ) ہس، (پسنہ مالک)
اکھرت مگر شریفہ دیہ! چھتہ سہ تھہ تہہرہ ہایتھہ جاہ
جاہ ہرراو، تہ اللہ (تعالیٰ) سہد چھہ ہتہ سنت ز
سہ (چھہ) ہنہ سہد مال، توان تہ (تھہ چھہ) ہرراوان
تہ توہرہ ہو (اخر) تسو کن چھہ تھہ ہنہ۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَكِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ
مَنْ بَعَثَ مُوسَى إِذْ قَالَ لِنَبِيِّ لَهُمْ
ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ
أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا
وَبَنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ
تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
بِالظَّالِمِينَ ﴿۳۹﴾

کیا تہ سیدے ناجی اسرائیل کہن کہن تھہ ہن
لوکن ہنہد حال معلوم؟ یکم موسیٰ ہس ہتہ گڈے
وتی چھہ؟ ییلہ ہمو اکس نبیس وون ز سانہ خا طہ
کر لوکن کانہہ (شخس) بادشاہ (بناوتھہ) استاد
چھہ اسی (تس ماتحت سیدتھہ) اللہ (تعالیٰ)
ستر و تر جنگ کرو۔ تھو وون چھہ تہ سید ز اگر
تہ ہہ پیٹھہ جنگ فرض کردہ ہتہ تہ توہی کرو ہہ چھہ؟
تھو وون تہ سید ہہ تہ اسہ کیا چھہ گوہت ز اسہ
کرو تہ اللہ (تعالیٰ) ستر و تر جنگ حالانکہ اسی چھہ
پسنہو گرو اندہ کڈہ آہتہ تہ شریو ہنہ (چھہ)
ترہینہ کرنہ آہتہ (مگر ییلہ کہن پیٹھہ جنگ فرض کرنہ
آو تہ ہمو اندہ گے اکس لو کچہ (پسنہ) جہاز وراک
(باقی) ساری چھہ تھہ۔ تہ اللہ (تعالیٰ) چھہ ظامن
ز ہر پانچو زانان۔

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ
لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ
الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ
وَلَمْ يَأْتِ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ
أَصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ
وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلَكَةً مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۴۰﴾

تہ ہنہد کہن وون کہن تہ اللہ (تعالیٰ) ہن چھہ
طالوت (یعنہ جدعون) بادشاہ بناوتھہ (اسہ کامر خا طہ)
استاد گوہت۔ ہمو وونس، تس کہتہ پانچو ہیکہ اسہ پیٹھہ
کلونتھہ مہلہہ، ییلہ زن اسی تس مقابلہ کلونتھہ جہاد
سہد چھہ؟ تس سہزہ تہ کانہہ ترہہ جہاد، مالی ووزری
تہ عطا۔ تھو وونکھہ اللہ (تعالیٰ) ہن چھہ تس بے شک
توہہ پیٹھہ فضیلت ڈر ہتر تہ تس چھن علمی تہ جہما فی
لحاظہ (تہنہد کھوتہ جہاد) وسعت عطا کر ہتر۔ تہ

اللہ (تعالیٰ) ہمیں پیشتر جان چھ، اُس چھ پتہ پتہ ملک،
عطا کران تہ اللہ (تعالیٰ) چھ سپہا وسعت عطا کران
وول (تہ) وارہ زانن وول۔

بیر وون بہندرک شیمان تہن ز تہنر کلوت وول چھ
بیر (تہ) ز تہ ہر میلہ و (اکھ تہنہ) تولوڈ چھ شتر
تہندرک پروردگار ہند طرفہ (تہندرک باپتہ) دیک قرار
(اسہ) تہ تہر چیزک با تہ حصہ اسہ ایس موسیٰ
ہندلو تعلق دارو تہ مارونہ ہندلو تعلق دارو (پانس
پتہ کن) تروو۔ ملا یک آسن تہ تہ تہنہ ہتہ۔
اگر توہر نوین چھو تہ ہتہ (تہنہ) شتر چھ تہندرک
خاطر یقینا اکھ (بولڈ) ہنشان۔

پتہ ہیلہ طاوت پتہ فوج ہتہ دراو تہ تہو وون
ز اللہ (تعالیٰ) چھ اکھ کولہ ہند دسی یقینا
توہر اکھ امتحان ہنہ وول۔ اچہ نیو تہر اکھ لہنہر
(ہیلہ برتہ تریش) چھ تہ تہنہ میہ سستی (والبتہ
روہون) تہ نیو تہر اندر تہ تہ تہ اسہ ہیک میہ سستی
تس وراسہ نیو تہر شتر پتہ دوزہ سستی اکھ تہنوب
کھنڈ چہو وولس پیہہ اسہ تہ کا تہہ الزام)۔ (سپد
بیر) پتہ چھ تہو شتر کیشرو ورائی (باقے سار
وسے) تہر (کولہ) شتر تریش۔ پتہ ہیلہ تہ پانہ
تہ (بیر) تہ لوکھ پکوتس سستی ایمان اونمت اوس
تہ تہندرک لشکر سستی مقابلہ کرنک ہیکل کیہنہ
طاقت (مالپوز) ہین لوکن پڑھ اس ز تہن چھ
اللہ (تعالیٰ) ہس سستی ملاقات سپان وول تہو
وون ز سپہا لوکھ جہاز چھ اللہ (تعالیٰ) ہند
حاکمہ سستی ہین جہازن پیہہ غالب آمتہ تہ اللہ

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ
يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ
رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَ
آلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَةً لِّكُم مَّا كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۴۱﴾

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ
اللَّهُ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ
فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي
إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَفَشَرِبُوا
مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا
بِالْيَوْمِ مَرَجًا لُّوتٌ وَجُنُودُهُ قَالَ الَّذِينَ
يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقَوْنَ إِلَى اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ
قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ
وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿۱۴۲﴾

لہ تولوڈ چھ تابوت۔ نطق کا شتر صورت۔ ایک نقلی معنی چھ صندوق یا ناو، مگر استعارہ یا لٹچھ ایک معنی دل یولو
ہنہ۔ (مفردات لغب)

(تعالیٰ) چھ صبر کزن والین سرتی (اسان) او
کئی چھنہ کھوڑ تک کینہی وجہ۔

بہ سیدلہ تم جالوت تہ کیند فوجہ (کر مقابلہ) خاطر
(میسر) درے تہ تمو وون، اے سائہ پروردگار
اسہ پیٹھ کر صبر نازل تہ سائی کھوڑ تھاو (میدان
جنگس منتر) ٹھیکرا و تھہ بہ کلاہین، کافرین خلاف
اسرا تھہ روٹ۔

پتہ (ترجمہ) تمو جنگس منتر ووٹھہ تہ) دژ تمو اللہ
(تعالیٰ) ہند ارادہ مطابق جس شکست تہ داوودن
کور جالوت قبل، تہ اللہ (تعالیٰ) ہن کر تس
حکومت تہ حکمت عطا بہ یہ کینترہا تس (یعنی
اللہ تعالیٰ ہس) منظور اوس تمیک کورن تس
(یعنی داوودس) علم عطا۔ اگر اللہ (تعالیٰ)
انسان (شرارتہ نشہ) دور تھو ہے تہ، یعنی کینترن
(انسان) کینترن ہند دسی (ٹھاکناو ہے تہ) تہ
زمینہ گرتھہ ہے تلک پیٹھ۔ اماہ یوز اللہ (تعالیٰ)
چھ سارہنے عالمن پیٹھ بوڈ فبول کرن وول۔
(او کئی چھ سہ یہ فساد بہناوان)۔

یم چھ اللہ (تعالیٰ) ہندک آہ۔ یم اسی تہ
پرتھ بوز ناوان چھتھ۔ اتھ حاس مشر نہ ش
چھکھ حقس پیٹھ (قایم) تہ تہ چھکھ یقیناً
رسولو اندر۔

یم رسول (بہنتر کتھ ہیر کتہ سپر) چھ تم یو مشر
اسہ کینترن، کینترن پیٹھ فضیلت بختمشتر اس۔ یو
مشر چھ کینہ تھو یکن سرتی اللہ (تعالیٰ) ہن کلاہ
کور۔ تہ یو اندر کوری کینترن ہندک (صرف) درجات
ہند تہ عیسیٰ ابن مریمس اسی اسہ ٹاکاہر دلاہل دژ
تہ تہ روح القدس دس اوس تس طاقت بختمت۔ تہ

وَكَيْفًا بَرَزُوا لَجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا
رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّثْ
أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿۱۰۱﴾

فَهَرَمُوهُمْ يَادُّنِ اللّٰهُ تَا وَ قَتَلَ دَاوُدُ
جَالُوتَ وَ اٰتٰهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَ الْحِكْمَةَ
وَ عَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَ كُوَلَّا دَفَعُ اللّٰهُ
النَّاسَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لِّفَسَادٍ
الْاَرْضِ وَ لِكِنَّ اللّٰهَ ذُو فَضْلٍ عَلٰى
الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۰۱﴾

تِلْكَ آيَاتُ اللّٰهِ تَشْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ
وَ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۱۰۱﴾

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللّٰهَ وَ رَفَعَ
بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَ اٰتَيْنَا
عِيسٰى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَ
اٰتَيْنَاهُ بُرُوْجَ الْقُدُسِ وَ كُوَلَّيْنَاهُ
اللّٰهُ مَا اَقْتَتَلَ الذّٰبِنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ

مَنْ بَعْدَ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ
اِخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَن آمَنَ وَمِنْهُمْ
مَنْ كَفَرَ وَكَوْشَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا بِهِ
وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿۱۳۱﴾

ہر گاہ اللہ (تعالیٰ) بیترہد ہے تو ہم لوگ تمہیں پستہ
(آہستہ) آس۔ تم کہیں نہ مانا کہ نشانہ پستہ پانہ وانی
لڑائی (جنگ) اما یز (تعبت چھ نہ) جنو کوڑ (اسہ)
یا جوہد) اختلاف۔ چنانچہ کثیر و اولن تمہو اندر ایمان
تہ کثیر و کوڑ انکار۔ تہ اگر اللہ (تعالیٰ) بیترہد ہے
تیار کہیں نہ ہم لوگ پانہ وانی لڑائی (جنگ)۔ مگر اللہ
(تعالیٰ) یہ بیترہاں چھ تی چھ کران۔

اے ایماندارو! یہ کثیرھا اسہ تو بہر دیتت چھو تمہر منہ
کرو خرچ (خدا یہ منہر وتہ یوت ایکو) سہ دودہ سینہ
برونٹھ بیہر دودہ بہ نہ کتہ قہمک (ہیون کنن) نہ
دوستی تہ نہ سفارش (کارگر) سپر۔ تہ (اللہ عکس)

انکار کرن والی چھ (پنہنس پانہ پلٹھ) ظلم کرن والی
اللہ (تعالیٰ) چھ سہ (ذات)۔ نیس ورآے عبادتک
(بیہ) کانہہ حقدار چھنہ، کابل زندگی وول، (پنہنس
ذاتس منہر) قائم (تہ سارہنہ) قائم تمہون وول۔

تہ چھ تہس نہہ تہ نہ بندر۔ یہ کثیرھا آسمان منہر چھ
تہ یہ کثیرھا زمینہ منہر چھ (تہ سورہ) چھ تمہر سہ
کس چھ نیس تہنہر اجازتہ ورائی تہس برونٹھ کسہ
سفارش کر؛ یہ کثیرھا جن برونٹھ کتہ چھ تہ یہ کثیرھا
تمہن پتہ کتہ چھ (تہ سورہ کیہنہ) چھ سہ زمانہ تہ

تمہیکن نہ تہنہر مرضی ورائی تہنہر کاتہہ (تہ)
حصہ لبتہ۔ تہنہر علم چھ آسمان پلٹھ (تہ) تہ
زمینہ پلٹھ (تہ) حاکم تہ تہس چھنہ تمہن راچہ کرہ
تھکر اولن۔ بیہ چھ سہ شانہ بوڈ (تہ) عظمتہ وول۔

دیہر کس معاس منہر چھنہ کتہ قہمک جبر (جائزہ تہ
کیا) ہدایت تہ گمراہی منہر (باہمی) فرق چھنہ مانا کہ
سپہر منہر۔ ام کو (زانو نہ) نیس شخصس (پنہر مرضی

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا
مِمَّا كَرِهْتُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمَ
لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا حُلَّةَ وَلَا شَفَاعَةَ
وَالظَّالِمُونَ ﴿۱۳۲﴾

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ، لَهُ مَا فِي
السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي
يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، يَعْلَمُ
مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا
يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا
شَاءَ، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، وَهُوَ
الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿۱۳۳﴾

لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ وَقَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ
مِنَ الْعِْيِ، فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ
يُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ

لہ امیک نفی معنی چھ منہر اولن حضرت ابن عباس چھ فرماوان انکرسی العکس کرسی چھ علمس
ونان۔ یہ کتہ چھ حاکم تہ کرسی ونان۔ (مفردات راغب)

سیدو نیکی بشتہ ٹھاک کرن واپس (یعنی تسنن کتھ ماتہ
فیشہ انکار کرتہ اللہ تعالیٰ) اس پیچھ اپمان تھو اد تم
رؤط مضبوطی سان (اکھ) نہایت مقبوط اعتماد لایق
پینر یس تہ (زینہ) پھٹن وول پتھ ، تہ اللہ تعالیٰ
پتھ سٹھا بوزن وول (تہ) واران نون وول۔

اللہ تعالیٰ پتھ تمن لوکن ہند دوست یکم اپمان
نان پتھ ، سہ پتھ تمن گنہو منہر گدھہ کاشس کن
انان تہ یکم کافر پتھ تہندک دوست پتھ نیکی بشتہ ٹھاک
کرن واول (لواک)۔ تم پتھ تمن محاشہ منہر گدھہ گدھہ
کن نوان۔ تم لواک پتھ ناول (یعنی نارس منہر سون
واول)۔ تم روزن تھہ منہر۔

کیا تریہ نیش و اثر ناتس شخصہ پینر خبر یس امہ
(تکبر کر) باعتہ ز اللہ تعالیٰ) ہن اس تسن
حکومت دتھ تھہ و منہر ، اوس ابراہیمس سرت
تپرس پروردگارس متعلق بحث (بحث) کرنہ لوگت۔
(یہ سید تیلک) سید ابراہیمس (تس) وون ز میون
پروردگار پتھ سہ یس زند تہ پتھ کرن تہ ماران تہ
پتھ۔ تم وولس (تھہ پتھ ز) پتھ (تہ) پتھس زند
کرن تہ ماران۔ ابراہیمس وولس (ز اگر یہ کتھہ
پتھہ) ، اد اللہ تعالیٰ پتھ آتاس مشرق کتھ
انان نر اتن سہ (وون) مغربہ کتھ۔ اتھ پتھ گتھ
سہ کافر پتھ تہ پتھ۔ تہ اہ اوس سیدنے تہ کیاہ
اللہ تعالیٰ پتھہ ظالم لوکن (کامیابی ہنر) وتھ
لوکن۔

تہ کیا تریہ پتھہا کاٹھہ انسان) تمس شخصس ہیو

الْوَثْقَىٰ لَا انفصامَ لَهَا وَ اَللّٰهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ ﴿۵۶﴾

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ
مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ وَ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا اَوْلِيٰئُهُمُ الطَّاغُوْتُ
يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ
اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا
خٰلِدُوْنَ ﴿۵۶﴾

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْ حٰبَسَ اِبْرٰهِيْمَ فِي
رَبِّهٖ اَنْ اَتٰهُ اللّٰهُ الْمَلَكُ رَآٰءً
اِبْرٰهِيْمَ رَبِّي الَّذِيْ يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ
اَنَا اٰمِي وَاُمِيتُ . قَالَ اِبْرٰهِيْمُ فَاِنَّ
اللّٰهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاَتَتْ
بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ
وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۵۶﴾

اَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلٰٓى قَرْيَةٍ وَ هِيَ خٰوِيَةٌ

لہ یہ ضمیر ہیکہ حضرت ابراہیمس کن تہ پتھہ تھہ یعنی اللہ تعالیٰ ہن اس حضرت ابراہیمس زوتانی
بادشاہت ڈر منہر تہ منہر وول اوس سہ تہ ہوتن بحث کرن۔

عَلَىٰ عُرُوْشِهَا قَالِ اَنْتِ يُحْيِي هٰذِهِ اللّٰهُ
 بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ
 عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ۗ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۗ
 قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۗ قَالَ
 بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ اِلَىٰ
 طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهٖ ۗ وَ
 اَنْظُرْ اِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنُجْعَلَكَ آيَةً
 لِلنَّاسِ ۗ اَنْظُرْ اِلَىٰ الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا
 ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا ۗ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ۗ
 قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۲۰﴾

(وحيث)؛ ایس اکہ تبھہ شہر کنو دراو۔ یہ حال
 اوس نہ سہ اوس پشو ورا کی وکراونہ آمت؛ تم کو وون
 (یہ وچھتہ) نہ اللہ (تعالیٰ) کر کر اتھ، امر چہ
 وَاَنْتِ بِرَبِّہٖ اَبَادٌ؟ اتھ پیٹھ تھووسہ اللہ (تعالیٰ)
 ہن ہنس ورس تام (بندر منتر) مار تھہ پتہ تلمن
 سہ بیہ (تہ) فرمولس (اے میانہ بنہ) تہ کس
 کاس تام چھکھ (اتھ حالتر منتر) رُو دمت؛ تم
 وونس ہر چھس اکس دہس یا دہس کنہ حصس
 تام (اتھ حالتر منتر) رُو دمت، (اد) فرمولس
 (اللہ تعالیٰ ہن، بیہ چھ ٹھیک) بیہ چھکھ تہ
 (اتھ حالتر منتر) ہنس ورس تام تہ رُو دمت۔ وون
 وچھ تہ سنس کھنس چنس (یعنی، تم کہن سامان)
 نہ سہ ما پٹھ پھلورمت، بیہ وچھ تہ سنس خرس
 کن (تہ بیہ کن دہ لونی ہند سلامت رُو دن وچھتہ
 زان نہ چون خیال تہ چھ پنہنہ جایہ دمت تہ سون
 خیال تہ) تہ یہ چھ اسہ اڈ کو کورمت چھ تہ
 لوکن ہندہ با پٹھ اکھ نشان بنا و تھہ بیہ وچھ اڈو جن
 کن نہ اسی کتھ پانٹھ چھ کبہ پنہنہ پنہنہ جایہ تھ و تھ
 جوران پتہ چھ اسی کن پیٹھ مان کھلان اڈیلہ چھس
 پیٹھ (حقیقت) پلوہ پانٹھ ظاہر سپتہ تہ تم کو وون نہ
 ہر چھس زانان نہ اللہ (تعالیٰ) چھہ پر چھہ چنرس
 پیٹھ قومرت تھون وول۔

وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰہِیْمُ رَبِّ اَرِنِیْ کَیْفَ تُحْیِ
 الْمَوْتٰی، قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ، قَالَ بَلٰی
 وَلٰکِن لِّیَطْمَئِنُّ قَلْبِیْ، قَالَ فَخُذْ
 اَدْبَعَةَ مِنَ الطَّیْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَیْکَ ثُمَّ

بیہ اکرو سہ واقعہ تہ یاد (نیلہ ابراہیمین و نیاو نہ اے
 میانہ پرور وکار مینہ و تہ نہ تہ کتھ پانٹھ چھکھ مورہ
 نہ نہ کرن؛ فرمولس کیا تہ چھہ نا ایمان اوتمت؛
 دوپس (یعنی ابراہیمین) کیانہ نہ؛ (ایمان تہ چھہ

لہ یہ شہر چھہ یروشلم ایس با پکو بادشاہ بخت نصرن حملہ کر تھہ برباد تہ زمینا و کر تھہ۔
 حضرت حزقیاس ہوو اللہ تعالیٰ ہن کشف منتر نہ ہنس ورس تام گتھہ یہ
 شہر بیہ زندہ تہ آباد (حزقیل باب ۲۷)

اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ
ادْعُهُنَّ يَا زَيْنَبُكَ سَحِيحًا وَاَعْلَمْ أَنَّ
اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۳۵﴾

بلاشک حاصل سپردمت (وہ ذگوو) میں پڑھ رہی
ہوں کہ الطیباتہ خاطر۔ (اللہ تعالیٰ میں) فرمویں
اتھا؛ تو انکے ترورجاناوار تہ تم کرکھ سوکھ۔ پتہ
تھو پرتیہ کنہ باس پٹھ تمو اندر اکھ (اکھ) حصہ
پتہ درہمن ناد، تم پن ورتھ ورتھ تری کن (وہا)
تہ زان ز اللہ (تعالیٰ) چھ علیہ وول تہ حکمتہ وول۔
یم لوکھ پتہ مال اللہ (تعالیٰ) سنزوتہ خرچ کران
چھ۔ تہنتر (امر کامہنتر) مثال چھ تہ اتاجہ
پھلج ہش، یس (ووتھ) سٹھ، ہلکڈ تہ پرتھ
ہلس آسن ہتھ پھلک تہ اللہ (تعالیٰ) پتہ سنہ
خاطر پتھان چھ لس چھ (امر کھوتہ تہ) ہکمانہ
دوان تہ اللہ (تعالیٰ) چھ وسعت دنہ وول تہ
سٹھان زان وول۔

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ
سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةٌ
وَحَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۶﴾

یم لوکھ پتہ مال اللہ (تعالیٰ) سنزوتہ خرچ کران
چھ۔ پتہ خرچ کرکھ چھ کنہ رتھ منت تھا وان
تہ نہ چھ کنہ رتھ اگر اذا واتاوان۔ تہنترس پرورگار
رتھ چھ تہن (ہندین اعمالن) ہند بدلہ (رتھتھ)
بہ نہ تہ اسرتھن کنہ قہمک خوف تہ نہ گرتھن تم
عملمین۔

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ لَمْ يَلْبَسُوا مَا أَنفَقُوا مَنًّا ۗ
لَّا أَدَّىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۳۷﴾

رتھ کتھ (کرتھ) تہ (خطا) معاف کران چھ تمہ صدقہ
کھوتہ بجادرت بیٹھ پتہ (پندر کڈنہ باپتھ) اذا
واتاوان (شرع) سپرتھ اللہ (تعالیٰ) چھ بے نیاز
(تہ) بردبار۔

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن
صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَدَىٰ ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ
حَلِيمٌ ﴿۳۸﴾

اے اہل تارو! توہو مہ کرو پتہ صدقہ احسان پھرتہ
تہ تکلیف دنہ (چہ علم) سرتھ ضلج، اس شخصہ پندر
پاٹھو یس لوکن لو باو خاطر مال خرچ کران چھ؛

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا
صَدَقَتَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَدَىٰ ۗ كَالَّذِي
يُنْفِقُ مَالَهُ رِجَاءَ النَّاسِ وَالْأَيْوُسِ

لہ صرھن، کیتھو لوکو چھ امیک معنی کورت "تم جاناوار کرکھ قتل" کراتھ ملوتس مشرچہ اینیک
(پانس کن) بے معنی روزان، حالانکہ لوقتس مشرچہ امیک معنی سوکران تہ (مفردات رافب)
لہ امیر آتہ چھ ثابرت ز افس بیار ترس بہن سٹھ ہتھ ترک اناج نہرچھ۔

يَا لَيْلَىٰ وَالْيَمَانُ وَالْأَخْرَجُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ
صَفْوَانَ عَلَيْهِ تَرَابٌ فَأَصَابَهُ دَابِلٌ
فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ
وَمَا كَسَبُوا، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْكَافِرِينَ ﴿۵۹﴾

تہ اللہ (تعالیٰ) ایس تہ آخرت کس دوس پہنچ
پہنچتہ ایمان تھوان تہ کیا ز تھو ہنر حالت چھتہ تمہ
کنہ پہنچ ہنر ہتھ پہنچ کینہہ نمیشتر (پہنچتہ) آسہ
تہ تھتہ پہنچ پیسیر چرؤک رؤد تہ سہ کر تھتہ (چھتہ)
بیہ (صاف کنہ پیل - کم (چھتہ تھتہ لوکھ نہ) یہ
کینترھا تم زینان چھتہ تمیک کا نہہ حصہ تہ چھتہ نہ
تہن اٹھو لوان - بیہ چھتہ امر قسمہ کین کا ہنر
اللہ (تعالیٰ) (کامیابی ہنر) دتھ ناوان -

وَمَثَلِ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ
ابْتِغَاءَ مَرْضَاتٍ اللّٰهُ وَتَغْيِيثًا مِّنْ
أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ بَرْبُوعٍ أَصَابَهَا
دَابِلٌ فَاتَتْهَا أَكْهَامًا ضَخْفَيْنِ ۚ فَإِن لَّمْ
يُصِبْهَا دَابِلٌ قَطْلٌ، وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۶۰﴾

تہ یم لوکھ پنچ مال اللہ (تعالیٰ) ہنر رضامندی
حاصل کرنہ خاطر تہ پن پن پان مضبوط کرنہ خاطر
خرچ کران چھتہ ہنر (یعنی تہنہ خرچ) حالت چھتہ
تہ بائچ ہنر یس وو گنیاس آسہ (تہ) تھتہ
آسہ چرؤک رؤد پیومت پیہ سستی تھو دھگتہ
میو دیت مت آسہ تہ (پنچ حالت آسہ نہ نہ)
اگر تھتہ چرؤک رؤد پیسیر نہ تہ روم چھنوکے تہ
(روز تہ خاطر سٹھا) تہ یہ کینترھا توہی کران
چھو اللہ (تعالیٰ) چھتہ تہ وچھان -

أَيُّوُدٌ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ
نَّجِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ، لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ
وَاصَابُهُ الْكِبَرُ وَ لَهُ دُرِّيَّةٌ
ضَعْفَاءٌ ۚ فَأَصَابَهَا عَصَا فِيهِ نَارٌ
فَاخْتَرَقَتْ، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ
لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿۶۱﴾

کیا توہ ہنر چھا کا نہہ شخص بیترھا ان؟ زس گوڑھ
کھنر باغا تہ دھچ باغا آسن تھتہ منتری کوہ
پکان آسن (تہ) تھتہ منتر آسن پر تھتہ قسمکو میو
میلان (روزان) تہ سہ آسہ بجرن تہ آورومت
تہ نس آسن لوکھ (لوکھ) بچہ - پتہ یہ تھتہ ہنر
اکھ تھتہ واوان تھتہ منتر نار (ہو) آسہ تہ سہ
(باغ) پیسیر ڈنڈہ - (وچھو) اللہ (تعالیٰ)
چھتہ تھنہ (فاید) باچھتہ تھتہ پٹھو پنچ حکم بیان
کران - تھتہ زن توہی فکر (ہتھتہ کام) امر کران

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا مِن
طَيْبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَسُّوا الْخَبِيثَاتِ مِنْهُ
تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِأَخِذِيهِ إِلَّا أَنْ

اے ایماندارو! یہ کینترھا توہی کمومت چھو تہ یہ
کینترھا امر تھنہ باچھتہ زمینہ منتر کمومت چھتہ
تہ منتر کروہی رتہ تہ پاکیزہ چیز (اللہ تعالیٰ)
ہنر تہ تھتہ توفیق آسہ تہ تہ تھتہ خرچ تہ لوہ

میرا سو (صدقہ باجیہ) تہمتھ ناکارہ چیز ارادہ سان
تزارتھ کڈان یو منتر توہی خرچ تہ چھو کران مگر
پنہ خاطر کرو نہ سہ زانہ قبول امر ورائی زہ اللہ
(قبول کرنس) منتر لاگو توہی وچھتھ اوجھہ - بیہ
زراؤ زہ اللہ (تعالیٰ) چھہ (ہلکل) بے نیاز تہ حمدک
سہٹھا سقدار۔

شیطان چھو توہی محتاجی نشہ کھوڑناوان تہ توہی
چھو بے حیالی ہند تلفین کران تہ اللہ (تعالیٰ) چھو
توہی پنہ طرفہ اگر بچہ ہتھاشہ ہند تہ بڑ فضلک
وعدہ کران بیہ چھہ اللہ (تعالیٰ) وارہ وسعت دہ
وول تہ سہٹھا زان وول۔

سہ لیس بیڑھان چھہ حکمت چھیس عطا کران تہ لیس
حکمت آسہ عطا کرنہ آسہتر، اچ (زراؤ زہ) لیس
میول اللہ) سہٹھہ بے نفع دہ وول چہر تہ (باد
روزی توہی) عاقلو ورائی چھہ کاہہ نصیحت ران۔

بیہ یہ کیشرھا تہ توہی (خدا بے ہند) خاطر خرچ کرو
یا یہ کیشرھا تہ توہی تڈلہ مانو۔ اللہ (تعالیٰ) چھہ تہ
بے شک زانان (سہ دلو توہی تہیک نیک بدلہ)
تہ ظالمن ہند آسہ نہ کیشی تہ مددگار۔

اگر توہی غمہ وانہ صدقہ دلو تہ یہ (تہ) چھہ سہٹھا
جان (طریقہ) تہ اگر توہی تم (صدقہ) کھٹھہ غریبن
دلو تہ یہ چھہ تہند (نفسہ) خاطر جاڈرت تہ سہ
(اللہ تعالیٰ) کر (امرہ باعترہ) تہنتر کھی یا بدیہ توہی
نشہ دور تہ یہ کیشرھا توہی کران چھو، اللہ (تعالیٰ)
چھہ تھہ واقف۔

تم (سینر) وہہ انہی چھہ چانہ مٹہ۔ وہی گویس
اللہ (تعالیٰ) بیڑھان چھہ لیس چھہ (سینر) وہہ
پہٹھہ انان بیہ لیس تہ رت رت مال توہی (خدا بے
سز و تہ) خرچ کرو تہیک نفع آسہ و توہی پنہن
زوسنہ (کیت)، حقیقت چھہ یہ زہ توہی چھو چھہ

تُعْمِضُوا فِيهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَمِيدٌ ﴿۳۷﴾

الشَّيْطَانُ يَعِدُّكُمْ الْفَقْرَ يَا مَرْكُومَ
يَا لِحَشَاءٍ، وَاللَّهُ يَعِدُّكُمْ تَخْفِيرًا
مِّنْهُ وَفَضْلًا، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۸﴾

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ، وَمَن
يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا
كَثِيرًا، وَ مَا يَدَّكُرُ إِلَّا أُولُو
الْأَلْبَابِ ﴿۳۹﴾

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ
مِّنْ نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، وَ مَا
لِظَّالِمِينَ مِّنْ أَنْصَارٍ ﴿۴۰﴾

إِن تَبَدُّوا وَالصَّدَقَاتُ فَنِعْمًا هِيَ، وَإِن
تُخْفُوا هِيَ وَتَوَاتَوْهَا الْفُقَرَاءُ فَهِيَ
خَيْرٌ لَّكُمْ، وَ يَكْفُرْ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ،
وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۴۱﴾

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ
يَهْدِي مَن يَشَاءُ، وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ
فَلَا نَفْسِكُمْ، وَ مَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ
وَجْهِ اللَّهِ، وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ
يُؤْتِكُمْ إِلَيْكُمْ، وَ أَنْتُمْ لَا تظَلُمُونَ ﴿۴۲﴾

خریج صرف اللہ (تعالیٰ) سے تو تیرے بیٹے سے نہ خراب کران تیرے مال تو ہی خراب کرو گے یہ تو تیرے پورے پورے (والیس) دینے - تو تیرے بیٹے سے نہ ظلم کرنے۔

ایسی چیز کہ بیان کرنے سے آہنی صدقہ چھ (تمن حاجت مند ہند خا طریک اللہ (تعالیٰ) ہنتر و تہ (دو کیو کا مو لستہ) چھ (رٹنہ چھ آہنی - تم ہیکن نہ مکنس منتر (آزادی سان) چھ گرتھتھ۔ (اللہ) بے خبر (شخص) چھ (تہنہ) سوالہ لستہ بچتہ کہ باعترہ ہن غار مو حراج زمانان - تو ہی ہیکو تہنتر شکلہ تلہ پرنہ ناوتھ نہ تم چھتہ لوکن اکا د گرتھتھ سوال کران - بیہ یس تہ رت مال تو ہی (اللہ تعالیٰ ہنتر و تہ) خریج کرو۔ اللہ (تعالیٰ) چھ بے تنک تہ لستہ پرنہ پاتھو زانی باب۔

یکم لوکہ پینر مال رتس تہ تہ دولس تہ پلوشہ (پاتھو تہ) تہ تہ ولہ (تہ اللہ تعالیٰ ہنتر و تہ) خریج کران روزان چھ۔ تہنہ با چھ چھ تہنہ س پرور دکا رتس تہنہ اجر (رتھرتھ) - بیہ نہ

آہہ تمن کا تہ خوف تہ نہ سیدن تم غمکین - یکم لوکہ سو د کھوان چھ تم چھ بلکل تھ پاتھو استاد سیدان چھ بیس پیٹھ شیطانہ سہ (یعنی پاکا زکی بند) سوت حملہ آسہ - بیہ (حالت) چھتہ امہ کنی نہ تم چھ و نان (روزان) نہ (ہیون) کو تہ تہ چھ بلکل سو د کی پاتھو - حالانکہ اللہ (تعالیٰ) ہن چھ (ہیون) کو تہ بجائز قرار دیت تہ سو د کھن حرام کو رت - او کو (تھو یاد نہ) یس (شخص) بش تو ہندس پرور دکا رتس ہند طرف کا تہ نصبت

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعْقُفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَاقًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿۳۰﴾

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالْئِيلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۳۱﴾

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقْوَمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۳۲﴾

۱ یعنی یکم لوکہ دینہ چلین کا لین منتر آہر آس تہ دنیا چھتہ کماوتھ ہیکان۔

(واجب کتھ) واپر تہ سہ بیبہ (تہ لوزتھ خلاف ورزی
کرتہ ہنہ) باز۔ اڑیہ (لین دین) تھو امہ بروٹھ
کوزمت چھ تمیک نفع چھہ تہندے تہ تہند معالجہ
چھہ اللہ (تعالیٰ) ہس عالجہ، تہ یکم (لوکھ) بیبہ
(سکے کام) کرن تہ چھہ (ضرور) ناپ (دزن)
وآلی۔ تہ روزن تہ متہ منتر پیدتھ۔

اللہ (تعالیٰ) کر سوڈ نابود تہ صدقات ہر اڑیہ
چھہ اللہ (تعالیٰ) پرتھہ کاتہہ برٹس کافر س
(تہ) برٹس گوناہ گارس پتہ کران۔

یکم لوکھ ایمان انان چھہ تہ نیک تہ مناسب حال
کاسہ کران چھہ تہ نماز چھہ قائم تھوان تہ ترکوآ چھہ
دوان تہندہ باپتھ چھہ تہندس پروردگارس تہند
پزری پاٹھو تہندہ اجر (رڑھتھ)۔ تہن نہ (تہ)
آسہ کتہ قسماک خوف تہ نہ سپدن تہ غمگین۔

اے ایماندارو! اللہ (تعالیٰ) سند تقویٰ پانساو۔
تہ اگر توہی نمون چھو تہ سوڈ (کصاہ) منتر یہ
کینرھا باپہ آسہ تہ تہنو تراوتھ۔

تہ اگر تہم یہ کور و نہ تہ اللہ (تعالیٰ) تہ تہند
رولہ ہند طرفہ (برپا سپدن والہ) جنگک تھو
یقین۔ بیہ اگر توہی سوڈ ہنہ توبہ کرو تہ کاتہہ
تہندہ کاتہ چھہ تہ کیا ز (تہند مولہ وصول کرن چھہ
تہندہ باپتھ جائیز۔ اٹھ صولس منتر) نہ کرو توہی
(کاتہہ پیٹھ) ظلم تہ نہ سپدن تہم پیٹھ ظلم۔

بیہ اگر کاتہہ (قرصدار تنگ دست پیدتھ بیہ تہ
اوسوڈ عالی (سیلس) تام پز و تس مہ ہلت دنی
تہ اگر توہی لوز شوڑ تھوان چھو تیلہ زانو ز تہند
(اُمس شخصس مول تہ) صدقہ (کتہ) دین یہ تھ
سارہ وہے کھوتہ رت (کار)۔

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ۗ
اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿۷۸﴾

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ
آتَوْا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يُحْزَنُونَ ﴿۷۹﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا
مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ
مُؤْمِنِينَ ﴿۸۰﴾

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ
اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ دُؤَسُ
أَمْوَالِكُمْ ۗ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿۸۱﴾

وَإِن كَانَ دُؤَسُ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ
مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن
كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۸۲﴾

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۲۰۶﴾

بہ کھوڑو تھہ دوہس بیہہ دوہہ توہی اللہ تعالیٰ
ہس کن واپس نہہ بیو پتہہ بیہہ پیرتہہ کاتہہ (تہہ)
پلوہ (پلوہ) دنہہ بیہہ تھہ کوہمت آسہہ تہہ تمن پتہہ
بیہہ تہہ (کاتہہ) ظلم کرنہہ۔

اے ایماندارو! بیلہ توہی اکھ اُکس گنڈتھہ معیاد
تھا طرہ ووزم ووزم ووزم بیو تہہ تھہ کرو (پانہ وانی)
تخریب۔ بیہہ پیزہ کاتہہ کھارک لیکھہ توہہ درمیان
یہ (ط سیدمت معاہدہ) انصار سان تہہ کاتہہ کھارک
گرتھہ نہہ (لیکھتس) انکار کرن تہہ کیاہ اللہ تعالیٰ
ہنہ چھہ سہہ (لیکھن)، چھیتومت او کوئی پیزہ تس نہہ
سہہ لیکھہ (ضرور)۔ تہہ تخریب گرتھہ سہہ لیکھتا و ان
بیو سہہ سہہ حق آسہہ بیہہ پیزہ تس نہہ (لیکھتا و نہہ
ونہہ) اللہ تعالیٰ سندیس تہہ پورورگار پتھہ
تقویٰ نظر تہہ تھاون تہہ تمہہ مشنہ نہہ کتھی چھوئی
راون۔ تہہ اگر سہہ شخصیں بیو سہہ ذمہ حق چھہ نادان
یا کمزور آسہہ یا تس آسہہ نہہ لیکھتا و تک طاقت تیلہ
پیزہ تہہ بلہ تہہ کارنہہ (یا معتبر) (سہہ تخریب)
انصار سان لیکھتا و ان۔ بیہہ آسہہ توہی (چھتس موہتس
پتھہ) پتھہ مشنہ نہہ زرنی گواہ مقرر کران۔ تہہ ہر گواہ
نہہ زرنی گواہ ملین تہہ تیلہہ بیم لوکھہ توہی (گواہ تھوئی)
پتھہ جان چھو دکھ، جو مشنہ بناو لوکھہ اکھ مہنیو تہہ نہہ
زنا نہہ گواہ تہہ ورن زنا ن ہند شرط چھہ او کوئی تہہ
بیو اندر اُکس مشرف گرتھہ نہہ کس موہتس مشنہ دوہو لوہو
مشنہ (پرتھہ) اکھہ بیس اُکس (کتھہ) یاد پاو۔ بیہہ
تیلہہ گواہن ناد کرنہہ بیہہ ہم گرتھہ نہہ انکار کرنہہ۔ بیہہ
او لوکھہ (لین دین) آسہہ تن یا بوڈ توہی مہہ آسہہ
میعاد پتھہ (تخریب) لیکھتس مشنہ کایان۔ بیہہ کتھہ
چھہ اللہ تعالیٰ) ہس نزدیک جاوہ انصار و اجز
تہہ گواہی جاوہ درست تھاون و اجز۔ بیہہ چھہ (اکھہ
کتھہ تہہ نہہ پتھہ) جاوہ نہہ (ان و اجزی) ز توہی

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ
بِدِينٍ إِلَىٰ آخِلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ،
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ،
وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ
الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ
شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ
يُمْلِهُ هُوَ فَلْيُمْلِلْ لِیْهِ بِالْعَدْلِ، وَ
اشْتَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ
فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ
امْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ
الشَّهَادَةِ أَنْ تَضَلَّ إِحْدَاهُمَا
فَتَذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب
الشَّهَادَةُ إِذَا مَا دَعُوهُ وَلَا تَسْمَعُوا
أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ
آخِلِهِ، ذَلِكَمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
أَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا
تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، وَ
أَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، وَلَا يُضَادَّ
كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، وَإِنْ تَفَعَّلُوا
فَأِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَ
يَعْلَمُكُمُ اللَّهُ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلَيْكُمْ ﴿۳۷﴾

توڑو نہ شکس مشر (اوکو چھ لین دینک
 لیکھن ضروری) اسہ (صورتہ) وراری نہ باپار
 آسہ اتھو اتھی۔ یہ زن توہر پانہ وائی (مال تہ رقم)
 ہولان دولن (تمی وقتہ نیاسے مولاولن) چھو۔ تھتھ
 صورتس اندر (لین دین) نہ لیکھنک چھنہ توہسہ
 پیچھ کانہہ گھناہ۔ بیہ تیلہ توہر پانہ وائی، ہون کھن
 کرو تیلہ آسہ زلو گولہ بناوالن۔ بیہ (رؤزک توہ کھتھ
 یاد نہ) نہ گرتھ کھتھس تکلف دہہ یں تہ نہ گواہس
 تہ اگر توہر (تہ) کرو تہ یہ (کھتھ) آسہ توہہ
 منہر تافرمانی (ہنر علامت)۔ بیہ پترو توہہ
 اللہ (تعالے) سند تقویٰ پراون تہ (اگر توہر) پہ
 کرو (اللہ تعالیٰ) دیو توہہ علم تہ اللہ تعالیٰ
 چھہ پرتھہ چہنر زبر یا طھر زانان۔

تہ اگر توہر سفرس پیچھ آسوتہ توہہ میلہ و نہ
 کانہہ لیکھن وول تہ تیلہ چھہ (امیک اولہ بدل کانہہ
 چیز) گرو تھاولن۔ اوکو اگر توہہ مشر کانہہ شخص
 کھنہ (پنیں) اساتلا زانہ (تہ تس دہہ کپنہ رقم)
 تہ یس امانت وار زانہ آسہ تس پتہ سند (پنہ
 امانت تھون والی سند) امانت (مگنہ ویر) واپس
 کرن۔ تہ پنیں رحین واپس اللہ تعالیٰ سند
 تقویٰ پراون۔ بیہ نہ آسوتہ شہادت (زاہ)
 کھنان۔ تہ یس سہ کھتھہ تھو سہ چھہ بے شک سہ
 (شخص) بیجو سند دل گھناہ گھار چھہ۔ بیہ (تھا ویہا)
 یہ کینرھا توہر کران چھو اللہ تعالیٰ چھہ تہ
 زبر یا طھر زانان۔

یہ کینرھا تہ آسان تہ زمینہ مشر چھہ تہ چھہ اللہ
 تعالیٰ سندے تہ یہ کینرھا تہن دین دلن اندر چھہ
 اد تہ توہر نون کڈو تو یا کھتھہ تھاوک تو۔ اللہ
 تعالیٰ، بیو توہہ تمیک حساب۔ پتہ یس بیٹھہ
 تہ تس بختہ تہ یس بیٹھہ تس دہہ عذاب۔ تہ

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا
 كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً، فَإِنْ آمَنَ
 بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلَئُوَ الَّذِي أُوْتِيتِ
 آمَانَتُهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا
 تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، وَمَنْ يَكْتُمْهَا
 فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ، وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿۳۷﴾

۳۷

اللہ ما فی السموات وما فی الارض،
 وان تبتدوا ما فی انفسکم او تخفوها
 بحکمکم بواللہ، فیکفول من یشاء
 ویعذب من یشاء، واللہ علی کل
 شیء قدير ﴿۳۷﴾

اللہ (تعالیٰ) چھ پرچھ اکیس چھس پیٹھ بار قوموت
تھون دول۔

یہ کثیرھا تہ اسی رسولس پیٹھ تسندس پروردگار
سند طرفہ نمازل کرنہ آمت چھ تھ پیٹھ چھ سہ
(پانہ تہ) ایمان تھون تہ (باتہ) مؤمن تہ (چھ
ایمان تھون) یکم چھ سہ اسلم اللہ (تعالیٰ) تہ
تسندس ملائکن تہ تسندس کتابن تہ تسندس رسولن
پیٹھ ایمان تھون (بہ چھ ونان تہ) اسی چھ تسندس
رسولن مندر (اکھ) اکیس درمیان (کائتہ) فرقی کران۔
بہ چھ یہ ونان تہ اسہ چھ (اللہ تعالیٰ سند حکم)
بوزمت۔ تہ اسی چھ تسندس (دلی) فرمانبردار سندر
وتہ۔ (یم لوکھ چھ دعا کران تہ) اے سانہ پروردگار
اسی چھ پانہ بخشائش سنگان تہ تریہ کن چھ (اسہ)
چھ تہ یں۔

اللہ (تعالیٰ) چھ تہ کائتہ شخصس پیٹھ تمہ سوائے
یہ تسندس طاقس اندر اسہ کائتہ ذمہ واری ترولان
یوسہ تہ (پتر) کام کر مہتر اسہ (سہ) اسہ تسندس
خاطر (قایدہ واجبی) تہ یوسہ تہ (بچھ) کام
کر مہتر اسہ (سہ) پیٹھ تس پیٹھ (وبال بتھ)۔

(بہ چھ تم بہ ونان تہ) اے سانہ پروردگار!
اگر تہ کالہ اسہ تہ گرتھ یا غلطی کرو تہ اسہ
دہن تہ سزا۔ اے سانہ پروردگار! اسہ پیٹھ
تراور تہ (تھ پاتھ) ذمہ واری تھ پاتھ تہ
جن لوکن پیٹھ تراومہتر اسہ یم اسہ بروٹھ


(گدر سیتہ) چھ۔ اے سانہ پروردگار! تھ پاتھ
تلاوی تہ اسہ تھ (سہ بور) تھیح (لیتہ ینمہ
کر تھیح) اسہ ہیکتہ تھتہ۔ بہ کر اسہ عفو، بہ
کر اسہ مغفرت، بہ کر اسہ رحم (تہ کیا تہ) تہ
تھکھ سون والی۔ او کو کر اسہ کافرن ہنر جہا تہ

خلاف مدد۔

أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ
رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَ
مَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ سَلَامًا لِّفَرَقِ
بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِمْ وَقَالُوا سَمِعْنَا
وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ
الْمَصِيرُ ﴿۳۳﴾

لَا يَكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا لَّوْ شِعَهَا، لَهَا
مَا كَسَبَتْ وَرَعَاهَا مَا اُكْتَسَبَتْ،
رَبَّنَا لَا تَوَاجِدْنَا إِنْ تَوَسَّيْنَا أَوْ
أَخْطَأْنَا، رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا أَصْرًا
كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا،
رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ،
وَاعْفُ عَنَّا، وَاعْفِرْ لَنَا، وَارْحَمْنَا،
أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكُفْرِيِّينَ ﴿۳۳﴾

۳۳



سورة آل عمران: یہ سورہ مجیدنی ہے بسم اللہ ہے چھ آیتہ زہدہ ہے آیتہ بیس چھس وہ کون

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①

الکَمَّ ①

اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ②

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا
لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَا
الْاِنْجِيلَ ③

مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ
الْفُرْقَانَ هَ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِآيٰتِ
اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَاَللّٰهُ عَزِيْزٌ
دُوْابِتِّقَاہِ ④

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِى الْاَرْضِ
وَلَا فِى السَّمٰوٰتِ ⑤

هُوَ الَّذِىْ يُصَوِّرُكُمْ فِى الْاَرْحَامِ كَيْفَ
يَشَاءُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ⑥

هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ
آيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاٰخَرُ
مُتَشٰبِهٰتٌ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِى قُلُوْبِهِمْ

بہ چھس اللہ (تعالیٰ) سُنَد ناو ہے (پرلن) یس حسب
رؤس کرم کرن وول اتہا پھیر پھیر کر رحم کرن وول چھ
بہ اللہ چھس سار وہ کھوتہ جہاد زانن وول۔

اللہ (تعالیٰ) چھ سو ذات زکوم (ہندہ وراہی چھہ کاہنہ
عہادس لایق۔ سہ چھ کابل زہدی وول (پننس ذاتس
منز) قایم ہے (سارہ نے) قایم تھون وول۔

تو چھہ شریہ پیٹہ یہ کتاب حق ہے تازل کر ہتر۔
یوسہ تھہ (وحیہ) یوسہ نیہ (کتاہ) بروٹھہ (آہتر)
آس پور کرن واجز چھہ ہے تو آس نیہ بروٹھہ
لوکن ہدایت دہہ باچھہ تورات ہے انجیل تازل کر ہتر،

بہ چھہ تو قاصد کرن وول نشاہ تازل کورمت۔
یو لوکو اللہ (تعالیٰ) ہندین نشانن انکار کورمت ہے چھہ
تہندہ خاطر چھہ بے شک کر یوٹھہ عذاب (مقدر) ہے اللہ
(تعالیٰ) چھہ غالب ہے، سزا دہہ وول۔

اللہ (تعالیٰ) ہس نش چھہ ہرگز کاہنہ چہرہ تہ ترہاہہ۔
(نہ) زمپنس منز تہ نہ آسمانس منز۔

سے چھہ یس شرک بانن منز تو ہہ ترہہ صورت دوان
چھو ہرہہ بیٹہ ہان چھہ تہس وراے چھہ کاہنہ
عہادس لایق تہ سہ چھہ غالب ہے (تہ) حکمتہ وول۔

سے چھہ نیو شریہ پیٹہ یہ کتاب تازل کر ہتر چھہ نیو
کیہہ (آیہ تہ) چھہ محکم آیہ یک نیہ کتاب ہندہ
سیخ بنیاد چھہ تہ کیہہ بہہ (آیہ چھہ یک) متشابہ چھہ

۱۔ محکم چھہ ہم آیہ بین منز خاص قرآن کریم چھہ تعلیم بیان کرنہ آہتر چھہ۔

۲۔ متشابہ چھہ ہم آیہ بین منز چھہ من کتابن سدی زلوزہ تعلیم بیان کرنہ آہتر چھہ۔

زَيْعًا فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ
الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ
تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ
 يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا
 وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ①

اور یمن لوگوں ہندینوں میں بھرتی ہو کر
عرضہ تہ بیتہ (کتابہ امیر حقیقہ پورہ) پھیر کر تہ خاطر
جن آبن اکاد گرتھان یکم بیتہ (کتابہ منتر متشابہ
چھ۔ بوزوے تہ امیک تفسیر چھنہ اللہ تعالیٰ) اس رؤے
تہ علمس منتر پور پور دستگاہ تھادوں والیو بغیر
کانہہ زانان۔ یکم ونان چھ (ز) اسی چھ اتھ
(کلاس) پیٹھ ایمان تھوان، (بیر یکم ونان چھ زبیر)
سورے چھ سائیس پروردگار ہند طرفے تہ غلطی والیو
ولے چھنہ کانہہ تہ نفیحت زبان۔

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَ
هَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ
الْوَهَّابُ ①

اے سائے ربہ! تہ مد کر سائی دل ہدایت دہہ پتہ
ہو۔ بیر کر اسہ پیہنو رحمت عطا۔ تہبے چھاکھ بیٹنگ
سیدھا عطا کرن ول۔

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ
فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ②

اے سائے ربہ! تہ چھاکھ ساری لوکھ سو نہراون
ول ول تہ دوہر بیتہ (بیتس) منتر کانہہ شک
(شیر) چھنہ۔ اللہ تعالیٰ) چھنہ ہرگز وعدہ لانی کرن۔
یکم لوکھ کافر چھ تہندکر مال تہ تہندکر اولادین نہ
اللہ تعالیٰ) اس متھاپہ کہنہی تہ بکار تہ بیرے
لوکھ چھ جہنمک زان۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُخَيِّرَ عَنْهُمْ
أَمْوَالَهُمْ وَلَا أَوْلَادَهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَ
أُولَئِكَ هُمُ قُلُوبُ النَّارِ ③

یہند طریق چھ فرعونس پتہ یکن والین تہ رتمن
لوکن ہندس طریقس سہتر راون یکم رتمن بروٹھ
اسی۔ تھو اسی سائی نشانہ اینا وری تہ۔ اتھ
پیٹھ رڈ تہ اللہ تعالیٰ) ہن تہنرو غلطیو کورتہ
اللہ تعالیٰ) سہد عذاب چھ کر پوٹھ (آسان)۔

كَذَّابٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ، وَ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَآخَذَهُمُ اللَّهُ
بِذُنُوبِهِمْ، وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ④

یکم لوکھ کافر چھ رتمن وں ز توہر بیو ضرور عاجز
کرتہ تہ جہنم کں بیو سو نمبر اتھ تہ۔ تہ سو
چھنیہ سہٹھاہ یکھ روزن جاے۔

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَعْتٌ لَّيْسَ لَهُمْ
تُحْسِرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، وَيَبئسَ الْمِهَادَ ⑤

رتمن دون جمارن منتر یکم اکھ اکیس سہتر جنگ
کران اسپ، اوس پڑر پاتھو تہندہ باپتہ اکھ نشانہ
اکھ جماعت اسی (تھو منتر) اللہ تعالیٰ) سہتر ونہ
جنگ کران تہ دو یکم اسی انکار کرن واجزی۔ تم (لمان)

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِتْنَتِ الَّذِينَ اتَّقَوْا
فِيئَةُ تُفَارِقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ أُخْرَى
كَافِرًا يَرَوْنَهُمْ مِّثْلَيَّهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ
وَ اللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنُصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي

ذٰلِكَ لِحُجْرَةِ لَادِي الْاَبْصَارِ ﴿۱۰﴾

اُمّی بکن (کافرن، سینو یو ہے) اُچھو ستریتینہ
کھوتہ دوگنہ و پھان تہ اللہ (تعالیٰ) یس بیہرہان
چھ تہس پھ پین مدد دتھ طاقت بخشان۔ اٹھ (کھتھ)
مشر چھتھ اُچھ والین ہند خاطر بے شک اکھ نصبت۔
لوکن چھ (عام طور) پسندینہ والین چھین یعنی زنانہ،
نیچون تہ سونہ تہ روہ پھ کین رتھرتھ خزانہ،
خوش شکل گرین، چارواہن ہند تہ زراعتک محبت
رتھرتھ مشر ہاونہ آمت، بیہ چھ دنیاوی زندگی
ہند سامانہ تہ اللہ (تعالیٰ) تہ چھ سہ (ذات)
تیس نش نہایت شوہر دار ٹھکانہ چھ۔

تہ دیکھ (ز) کیا ہمہ ونوا توہ ہر امیر کھوتہ (تہ)
جاو رت چھنہ؟ ہم لوکھ تقویٰ پران، تہند خاطر
چھ تہندس پروردگارس نش تقویٰ بارغ بکن مشر
کولہ پکان چھتھ، جن مشر یس (تہ) بیہ چھ
(تہندہ باچھ امیر علاو) پاک آشنہ تہ اللہ (تعالیٰ)
سند رضا (مقدر) بیہ چھ اللہ (تعالیٰ) پستین
پاک بندن و پھان۔

ہم ونان چھ (ز) اسے سانہ پروردگار! امیر چھ
پزری پاٹھو ایمان اونمت اوکوز کرتہ سانی خطا
معاف تہ امیر بجاو نارکہ عذاب نشہ۔

ہم صبر کرن والی تہ پوز دن والی تہ فرمانبردار تہ
(خدا یہ ہند خاطر پینو مال) خرچ کرن والی تہ
سحر وقتن (یعنی پتر مرہ پیار) استغفار کرن والی چھ۔

اللہ (تعالیٰ) چھ انصافہر مطابق یہ گواہی دوان
زہ حقیقت چھتھ بیہہ زہیمس ورائی چھنہ (بیہ)
کانہہ معبود۔ بیہیہ ملک تہ تہ علمہ والی تہ چھ
بیہ شہادت دوان) زہیمس ورائی چھنہ کانہہ (تہ)
عبادتس لوق سہ چھ غالب (تہ) حکمتہ دول۔

اللہ (تعالیٰ) ہس نش چھ اول دین بے شک کمال
فرمانبردارکی۔ تہ ہوتہ لوکو بکن کتاب دہنہ آہتراس

ذٰیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ
وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ ﴿۱۱﴾

قُلْ اَوْ نَبِّئْكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكَ ۙ لِلَّذِيْنَ
اٰتَقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتْ تَجْرِي مِّنْ
تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَاذْوَابٌ
مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ
بَصِيْرٌ بِالْعٰبِدِ ﴿۱۲﴾

الَّذِيْنَ يَقُولُوْنَ رَبَّنَا اِنَّا اٰمَنَّا
فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَرَقْنَا عَذَابَ
النَّارِ ﴿۱۳﴾

الضّٰرِبِيْنَ وَالضّٰدِقِيْنَ وَالْقَوٰتِيْنَ وَ
الْمُتَفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحٰرِ ﴿۱۴﴾

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۗ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَ
اُولُو الْعِلْمِ قٰٓئِمًا بِالْقِسْطِ ۗ لَا اِلٰهَ اِلَّا
هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۱۵﴾

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۗ وَ مَا
اٰخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ

تمہ پر یہ کہ تمہیں نشان اوس علم آمت، کوڑ پانہ وازی فسافہ
کجو اختلاف - بیہ نیس اللہ (تعالیٰ) سندین نشان
انکار کر (سہ تمہاوں یاد نہ) اللہ (تعالیٰ) چھ بے
شک جلد بے حساب بہتہ وول۔

وہوڑی اکریم (لؤکھ) تریہ سستی جگر کرن تہ تہ وکھ
تر مہ تہ تمو لؤکو بیک میانی یادو کار چھ، چھ پانہ پان
اللہ (تعالیٰ) ہنتر فرمانبردار کی منز لوگمت تہ بیک
لؤکن کتاب دنہ آمہتر چھینہ (تہمن) ون بیہ اُمین
(یعنی بیک کتابہ وراے چھ) تہ کیا توہم (تہ) چھوا
فرمانبردار سپان ! اڈ اگر تم فرمانبردار سپان (زبانو
تر) تیلہ لوب تمو ہدایت - تہ اگر تمو بچھ پھیر تہ
پجانہ ذمہ چھ صرف (تہمن تام پیغام) واتناون۔ تہ
اللہ (تعالیٰ) چھ بدن وچھان۔

بیک لؤکھ اللہ (تعالیٰ) ہندین آین انکار کران چھ تہ
ناحقہ چھ نسیین قبل کرن بیٹھان تہ (تمہ علاوہ)
لؤکن منز انفاقک ہدایت کرن والہن تہ چھ تم قبل
کرن بیٹھان، تہ دہمن کرٹھہ عذابخ نمبر۔

بیک چھ تم لؤکھ) تہ بیک ہندر اعمال بیٹھ دنیا ہس
(منز تہ) تہ منز منز (تہ) ضایع گترھن تہ
تہند آسو نہ کینتو تہ مددگار۔

کیا تریہ پھینا تہمن لؤکن ہند علم بین شریعتک
اکھ حصہ دنہ اوس آمت ؟ (زینیلہ) تہمن اللہ
(تعالیٰ) ہنتر کتابہ کن آلو کر تہ یوان چھ بیٹھ زن
سو تہمن درمیان فاصلہ کر تہ تمو منز چھ کینتہ لؤکھ
(تہتہ) نافرمائی کران بچھو بچھو گترھان۔

یہ (بچھ پھرن) چھ اڈ کجی تہ تم چھ ونان ز گترینز
ہندو کینتو دوہو وراڈی پھو تہ اسہ ہرگز نار تہ یہ
کیتہرھا بہتان تم گنڈان چھ تمو چھ تہمن تہندس
دلپس (یعنی دہنہ کس معاملس) متعلق دفا دتیت۔
تیلہ آسو تمہ دوہد بیٹھ (پنس) منز کانہر شک

مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَخْبًا بَيْنَهُمْ، وَمَنْ
يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ
الْحِسَابِ ⑤

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ
مَنِ اتَّبَعَنِ، وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا أَسْلَمُوا فَإِنْ أَسْلَمُوا
فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ
الْبَلَاءُ، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ⑥

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ
يَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَيَقْتُلُونَ
الَّذِينَ بَاءَ مَوْزُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ،
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ⑦

أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ⑧

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ
الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ
بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّوْا فَرِيقًا مِّنْهُمْ وَهُمْ
مُّعْرِضُونَ ⑨

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا الْكَافِرُ
إِلَّا آيَاتًا مَّا عَدُوذَاتٍ، وَعَرَّهْمُ فِي
دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ⑩

فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْتَهُمْ لِيُجَادِبَ فِيهِمْ

(شبه) چھپو، تم سو سراو کہ تہ تہند حال کیاہ آسہ؟
تہ پر تہ شخصن یہ کینترھا کموت آسہ یہ تہ
(تہ وہہ) تہ پلور پلور دہہ تہ تہن پلہہ یہہ
تہ اکہنہ تہ، ظلم کرنہ۔

تہ ون اے اللہ! میں سلطنتک مابک چھاکہ تہ
میں سیرھاان چھاکہ تہس چھاکہ سلطنت دوان تہس
سیرھاان چھاکہ تہس چھاکہ سلطنت اتہہ، ہولن۔ تہ
میں سیرھاان چھاکہ غلبہ چھی ہس بختان تہ میں
سیرھاان چھ ہن ذہیل چھین کران۔ سورے ہرر
چھہ (بجائی ہے اتھس منر تہ تہ چھاکہ یقین
پر تہ کتہ چیزس بیٹھ تودرت تھون وول۔

تہ چھین رات دوہس منر داخل کران تہ دوہ چھین
راٹ منر داخل کران بیہ چھین مورس نش زو دار
کڈان تہ زو دارس نش مورس کڈان تہ میں سیرھاان
چھاکہ جسابہ روستے چھہس دوان۔

مومن مہ بناون مومن تراوتھ کافرن دوست، صرف
چھہ تہن نش پلور یا تھو پچھہ روزتے تہند خاطر
جائیز۔ میں میں شخصن (توہہ منر) تیتھ کر تہس
آسہ اللہ (تعالیٰ) ہس ستر کتہ تہ کتہ منر کانہہ
تعلق (تہ اللہ (تعالیٰ) چھو توہہ پنہ عذاب
نہہ کھوڑناوان تہ اللہ (تعالیٰ) ہس کتہ آسہ و
(توہہ پتو لکن) چھہ تھ گرتھن۔

تہ ون تہن (ہ) یہ (کینترھا) تہندین وچہن اندر
چھہ، تہ اڈ یا کھتھ تھاور تو یا لون کڈو تو اللہ
(تعالیٰ) زانہ تہ (پر تہ صلوس منر) تہ یہ کینترھا
تہ آسمان منر تہ یہ کینترھا منر تہ (سورہ) زمان تہ
اللہ (تعالیٰ) چھہ پر تہ کتہ چیزس بیٹھ تودرت
تھون وول۔

تہہ دوہس کھوڑو)۔ نیمہ دوہہ پر تہ کانہہ شخصن
پر تہ تکی یوسہ تہو کر مہر آسہ (پانس) برو تھہ

وَدُوبَيْتَ كُلِّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا
يُظْلَمُونَ ﴿۷۱﴾

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ
مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ
وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِإِيدِكَ
الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۷۱﴾

تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ
فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ
وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ
تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۷۱﴾

لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ
دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ لَّا أَنْ تَتَّقُوا
مِنْهُمُ تُقْمَهُ وَيُحِذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ
إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿۷۱﴾

قُلْ إِنْ تُحْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ
تُبَدُّوهُ يَخْلَعَهُ اللَّهُ، وَيَعْلَمُ مَا فِي
السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۷۱﴾

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ
مُحَضَّرًا ۗ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ

کہہ موجود ہے، یہی ہے ہدیٰ تم کو کرمش آسہ
سوتہ، سہ کرمنا زکاش آتھ (ہدیٰ) تہس
منزہاگ آسہ ہے واریاہ ترہین۔ یہی چھو توہہ
اللہ تعالیٰ) پینتہ عذابہ رشتہ کھوثر ناولن تہ اللہ
تعالیٰ) چھ پینتہ بنکن پیٹھ واریاہ شفقت کرن
وول۔

تر و نکھ تر (اے لوگو) اگر توہی اللہ تعالیٰ ہے
سوتی محبت تھاوان چھو تیلہ کرو میانی پاروی سہ
(تر) کر (تھ صورتس منز) توہہ سوتی ٹاٹھنی
تہ توہہ بختہ و تہندہر خطا۔ تہ اللہ تعالیٰ) چھ
بوڈ بخش ہار (تر) پھیری پھیری رحم کرن وول
تہ و نکھ تر (تر) توہی کرو اللہ تعالیٰ) تہ تہندس
رسولہ سنز اطاعت (اتھ پیٹھ) اگر تہ تھ پھرن
اد (یاد تھو و تر) اللہ تعالیٰ) چھنہ کافرن
سوتی ہرگز محبت کران۔

اللہ تعالیٰ) ہن اُس آدمس تہ نوحس تہ ابرہیم
ہندس خاندانس تہ عمران ہندس خاندانس بے شک
سار نے عالمن پیٹھ فقیلت ڈر مشر۔
(تھو اُس) اُکس تھس نلسس ا فقیلت ڈر مشر
یس اُکھ اُکس سوتی پور پاٹھی ہشر تھاوان وول
اوس تہ اللہ تعالیٰ) چھ سبھا بوزن وول تہ
واریاہ زان وول۔

(یاد پاو) ییلہ عمران ہند خاندانہ چہ (اکر) زانہ
وولن تر اے میانہ پروردگار! یہ کیشٹھا میانس
شکس منز چھ (سہ) چھ میہ آزاد کر تھ تر یہ
ندرانہ پیش کش تھومت۔ لہذا کرن تر (سہ)
میانہ طرفہ بیتھ کئی و تھ کئی قبول۔ بے شک چھ
ترہے سبھا بوزن وول (تر) واریاہ زان وول۔
یہ تہ ییلہ سہ سہ زہتہ راگیہ۔ تہ وولن اے
میانہ پروردگار! میں ہے چھ یہ کور ہنر شکہ

أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَ
يَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، وَاللَّهُ دَرُوفٌ
بِالْعَبَادِ ﴿۱۷﴾

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
يُحِبِّبْكُمْ اللَّهُ وَ يُغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وَاللَّهُ
عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۸﴾

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا
فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ ﴿۱۹﴾

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَ نُوحًا وَ آلَ
إِبْرٰهِيْمَ وَ آلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿۲۰﴾

ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ، وَاللَّهُ
سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۱﴾

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَدَّوْتُ
لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي
إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿۲۲﴾

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا
أُنْثَىٰ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ، وَ

منزہتہ ہمیشہ، تو یہ کثیر شہادتس زاو اللہ (تعالیٰ) اوس تہ (سار وے کھوتہ) بجاہ زانان - تہ (تمہر مند کو چھمت) نیچو چھتہ اُمس کور ہند کر پاتھو (اکن ممکن) - بیہ (وونون ز) میہ چھہ اُمس ناو سریم کورمت تہ بہر چھس یہ تہ اُمس ہند کر اولاد مردود شیطانتس ہنتہ (یعنی تہند حملہ ہنتہ) پچاس پینہ ہس منتر دوان -

اد کر تہند کر پروردگارن سو سبھہا رتی پاتھو قبول - تہ سو آہ نفیس پاتھو رچھتہ تہ زکر یا بیوہ تہند کھیل - نیلہ گنہ وز زکر یا گر کس سار وے کھوتہ شوہر دار حصص منتر تنس ہنتہ کترہ ہے (تہ) تنس ہنتہ اوس کانہہ (تہ کانہہ) رزق لبان - (تہ زکونو) تمہر وون (اگر دوہہ ہی وچھتہ) اے سریم! یہ کترہ آو چاہہ یا چھہ؟ تمہر وونس اللہ (تعالیٰ) ہند دربارہ اللہ (تعالیٰ) یس بیہرہان چھہ یقیناً چھہ تنس جساہہ رستہ دوان -

اد کر کور زکر یا ہن پنسنس پروردگارن آلو (تہ) وون تنس، اے میانہ پروردگار! تہر بخوش میہ (تہ) پینہ دربارہ پاک اولاد - تہر چھکھ بے تنک دعا چھہ قبول کرن وول -

اتھ بیٹھہ ڈر ملاکو تنس (تمہر وزر) نیلہ سہہ گر کس سار وے کھوتہ شوہر دار حصص منتر نماز پلان اوس آواز، ز اللہ (تعالیٰ) چھہ تزیہ یحییٰ ہنتر شوہر منتر دوان، یس اللہ (تعالیٰ) ہنتر اکھ کھتہ پلوہ کرن وول آسہ تہ (تمہر علاو) آسہ سردار تہ (گمہ ناہو ہنتہ) پتھہ رتن وول تہ نیکن منتر سپد (ترقی کرچھہ) نیہ -

تمہر وون، اے میانہ پروردگار! میہ کہتہ پاتھو ہنہ (میانہ زندگی منتر، وائس لین وول) - نیچو؟ بوہر وے تہ میہ چھہ بچہر آمت تہ میاڈ آسہن

لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتُهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿۳۱﴾

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ ۖ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا، قَالَ يَمْرُئِمُ أَنَّىٰ لَكَ هَٰذَا، قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۳۱﴾

هُنَّارِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ، قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً، إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿۳۱﴾

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَ سَيِّدًا وَ حَسُوًّا ۗ وَأَنبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿۳۱﴾

قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ، قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يُفَعِّلُ مَا يَشَاءُ ﴿۳۱﴾

چھ ہاتھ (گیمٹر) ، فرمونس اللہ (تعالیٰ) چھ
پتھے (قودرتہ وول) سہ یہ بیٹھان چھ (تہ)
چھ کران۔

تھ وون (پتہ) اے میانہ پرور دگار! مسیا نہ
باپتھ دکا نہ حکم ، فرمونس نہ تریہ چھے یہ حکم
نہ تہ کرکھ نہ ترہن دوہن تام لوکن سدی اشارو
ورای کتھ تہ پنن پرور دگار کرہن سپٹھا یاد تہ
صبح شام کرکھ تسنہز سبح۔

بیہ (پاؤوسہ وقت یاد) بیلیہ ملاکیو وون ، اے
مریم! اللہ (تعالیٰ) ہن پتھکھ تہ یقینا برگزیدہ
کر مہتر تہ پاک کر مہتر بیہ چھنکھ تہ سارہنے
عالم ہنرو زناو منہز نزار مہتر۔

اے مریم! تہ بن پننہس پرور دگار سوز فرماہوار
بیہ کر سچو ، بیہ کر توحید مطابق عبادت کرن
والہن سدی رلٹھ توحید مطابق عبادت۔

یہ چھ غاہر چہو خبرو منہز (اکھ خبر) یہ سہ اسی
تریہ پیٹھ وحی (بند دگر ظاہر) کران چھ۔ تہ
بیلیہ تم پننی تہر (او مہکھ) لایان اسی نہ تمواندہ
کس کر مریمہو خبر گیری تہ تہ اوسکھ نہ تمہن
نش۔ تہ نہ اوسکھ تہ (تمہ وقتہ) تمہن نش
بیلیہ تم (پانہ وانی) تروان اسی۔

(پتہ پاؤوسہ وقت یاد) بیلیہ ملاکیو وناو ، اے مریم!
اللہ (تعالیٰ) چھے تریہ پننہ کلام دگر (اکیس نیچوکی
سوز) بشارت روان۔ تسد ناو اسیہ مسیح عیسیٰ ابن
مریم۔ بیس (یتھ) دنیہ ہس تہ اترس اندر باوقار
اسیہ تہ (خداہ ہندو) مقربو منہز اسیہ۔

بیہ کر منہس (یعنی لہ کجارس) منہز لوکن سدی کتھ
تہ اڈ وہر وانہہ وایتھ (تہ)۔ تہ سہ اسیہ نیک

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً. قَالَ آيَتُكَ أَلَّا
تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا ذُرًّا
أَذْكُرُ بِكَ كَثِيرًا وَسِيِّحٌ بِالْعِشِيِّ وَالْأُبَّكَارِ ۝

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ يَمْرُؤُاِنَّ اللَّهَ
اضْطَفُكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى
نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ۝

يَمْرُؤُا اِقْتَرِي لِرَبِّكِ وَاشْجِرِي وَادْكِي
مَعَ الرَّاٰكِحِينَ ۝

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ اِلَيْكَ
وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقَوْنَ اَقْلَامَهُمْ
اَيْتُهُمْ يَكْفُلْ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ
اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ۝

اِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ يَمْرُؤُاِنَّ اللَّهَ
يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ ۙ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ
عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِي الدُّنْيَا
وَالْاٰخِرَةِ وَ مِنَ الْمَقْرَبِيْنَ ۝

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ
الصّٰلِحِيْنَ ۝

لو کو مشر۔

تمہ دون، اے مہمان پروردگار! میانہ سر رکھتے کئی
 بیسے شر، مہانکر کا نشہ (تہ) بشرن پھنہ میہ پھومت
 فرموس اللہ (عالیٰ سند کرُن) پھنہ پھنہ (آسان)
 سہ یہ پھنہ پھنہ پھنہ پھنہ پھنہ پھنہ پھنہ پھنہ
 کتہ کتہ ہند فاصلہ کران پھنہ آتی پھنہ متعلق صرف
 یہ فرماوان تر " تر یہ وہودس، تر سہ پھنہ پھنہ
 وہودس یوان "

تر (پتہ ڈرنس بشارت ز) تس، پھنہ پھنہ (اللہ علیٰ)
 کتاب تر حکمت (یعنی حکمتہ چہ کتہ) بیہ (پھنہ پھنہ)
 تورات تر انجیل۔

بیہ (سوز ترس) بنی اسرائیل کن رسول (بنائوتہ یہ
 پیغام، پھنہ) تر یہ پھنہ تو ہر نش تہندس پروردگار
 ہند طرفہ اکھ نشان پھنہ آمت (تہ سہ پھنہ یہ ز)
 بہ کر تہندس خاطر جاننا وار ہندس پھنہ پھنہ
 (مخلوق) پھنہ پھنہ پھنہ پھنہ پھنہ پھنہ
 نوو روح پھنہ پھنہ تم اللہ (عالیٰ) ہند حکم
 وڈ وڈ سیک تر یہ کران اللہ (عالیٰ) ہند حکم
 اون تر پھنہ لہ پھنہ تر مودی ہمتی کر کہ زرنہ
 تر یہ کتہ پھنہ کتہ پھنہ تر یہ کتہ پھنہ کتہ پھنہ
 گرن مشر جمع کر پھنہ پھنہ پھنہ پھنہ (تہ) اگر
 توہی مؤمن اسوتیلہ آہہ اتھ مشر تہند با پھنہ اکھ
 نشان۔

بیہ پھنہ (بہ سہ لوجی) پھنہ پھنہ پھنہ (آہتر)
 پھنہ یعنی تورات، پھنہ کران وول (پھنہ) آمت
 بیہ (پھنہ آمت) تر کتہ پھنہ پھنہ پھنہ پھنہ
 اسی کر تہ آہتر۔ (تہ) کر کہ تہند با پھنہ حلال۔ بیہ
 پھنہ پھنہ پھنہ پھنہ پھنہ پھنہ پھنہ پھنہ

قَالَ تَرَبَّاتِي أَلَيْسَ لِي ذَكَرٌ وَلَمْ يَمَسَّ سِنِي
 بَشَرًا، قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا
 يَشَاءُ، إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ
 كُنْ فَيَكُونُ ﴿٥٠﴾

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ
 وَالْإِنْجِيلَ ﴿٥١﴾

وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ
 جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، إِنِّي أَخْلَقُ
 لَكُمْ مِنَ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ
 فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، وَأُبْرِئُ
 الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَأُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ
 اللَّهِ، وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَ مَا
 تَكْتُمُونَ، فِي بُيُوتِكُمْ، إِن فِي ذَلِكَ
 لَآيَةً لِّكُمْ، إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٥٢﴾

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ
 وَ لِأَجْلِ كَتْمِ بَعْضِ الَّذِي خَرَّمَ عَلَيْكُمْ
 وَ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، فَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَاطِيعُونَ ﴿٥٣﴾

اکھ نشانہ ہوتے آمت او کو پیر او تو ہی اللہ
(تعالیٰ) سدا تقویٰ بیہ کرو میا فی اطاعت۔

اللہ (تعالیٰ) چھ بے شک میون (تہ) پروردگار
تہ تہند (تہ) پروردگار، او کو کرو تو ہی تو ہی
عبادت۔ یہی چھ سئیز و تہ۔

پتہ نیلہ عیسیٰ بن تہند کبہ انکار و چھ تہ وون زہ
اللہ (تعالیٰ) ہند خاطر کم (لوکھ) چھ میا فی مدگار!
حوا یو وونس (ز) اسی چھ اللہ (تعالیٰ) ہند
(یعنے تہند دیگر) مدگار۔ اسی چھ اللہ (تعالیٰ)
ہس پیٹھ ایمان تھون تہ تہ روز گواہ زہ اسی چھ
فرمانبردار۔

اسے سب پروردگار! یہ کیشترھا تہ نازل کورمت
چھ تہ تہ پیٹھ چھ اسی ایمان تھون تہ اسی چھ
تہیس رسول ہند پاردو کار بنے ہتہ او کو لیکھ
تہ اسے گواہن منتر۔

تہ تمو (یعنے مسیح ہند و دشمنو) تہ کر تہ تہ
اللہ (تعالیٰ) ہن تہ کر تہ تہ۔ تہ اللہ (تعالیٰ)
چھ سارہ تہ تہ کرن والہن منتر جادوت تہ تہ
کرن وول۔

(سہ وقت پاوو یاد) نیلہ اللہ (تعالیٰ) ہن وون
اسے عیسیٰ! یہ دے تہ (طبی طریقس پیٹھ) موت
تہ بیہ نختہ پنہن دربارس منتر عزت تہ کافر
(ہندو الزامو) ہتہ کر تہ پاک بیہ یک چہ
پاردو کار چھ تہن دہہ تہن لوگن پیٹھ یک انکار کرن
والی چھ، قیامتہ کس دہہس تاہ غلبہ، پتہ آسہ و
تہ ہر بیہ کون چھ تہ یں او کو بہ تہ ہر در میان
تہن کتھن ہند قاصدہ یمن منتر تو ہی اخلاق کران چھ
او یک لوکھ کافر چھ تہن دہہ بہ ہتہ دنیاہس (منتر
تہ) تہ انترس منتر (تہ) سخت عذاب تہ تہند آسہ
تہ کتھو تہ مدگار۔

إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوا
هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿۱۰﴾

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ
مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ
نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ
بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿۱۱﴾

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ
فَاكْتَتَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿۱۲﴾

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، وَاللَّهُ خَيْرٌ
الْمَاكِرِينَ ﴿۱۳﴾

إِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَ
رَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ
كَفَرُوا وَاجْعَلْ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ
الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ لِي
مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ
فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿۱۴﴾

فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعْدِبْهُمْ عَذَابًا
شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ
مِنْ نَاصِرِينَ ﴿۱۵﴾

بہرے ایم لوگہ مؤمن چھ تہ تمو چھہ نیک (تہ
مناسب حال) علمہ کرک مشر۔ جس دیہ سہ تمس
(علمن) ہندہ (پور) پورہ اجہر۔ اللہ (تعالیٰ) چھہ
ظاہر سستی حجت کرن۔

یہ یعنی آہ تہ حکمتہ واجز تعلیم چھی اسی تر تہ پرتہ
بوز ناولن۔

(یاد تھا ویر) اللہ (تعالیٰ) ہس بئس چھ عیسیٰ
سند حال یقینا آدمہ ہندہ حاکم پانھو، سہ (یعنی
آدم) کور تمو ہو چھہ میشر لشر پاد۔ پتہ ووشن س
متعلق ز تہ یہ و بوس تہ سہ ہنوتن و بوس س۔
یہ چھہ چانس پروردگار ہندہ طرفہ سنی او کز مس بن
تہ شک کرن و ابو اندر۔

و فی ذلک شخص، تر تہ بئس (الہی) علم ہنر پتہ
تر تہ سستی اتھ متعلق بحث کر تیلہ ون تر (سز)
و لو اسی لوگہ پنی گبر ناد دتھ تہ توہی اسی لوگہ
پنی گبر، اسی (لوگہ) پنہ زنابہ تہ توہی (لوگہ)
پنہ زنابہ، تہ اسی لوگہ پنی پان تہ توہی (لوگہ)
پنی پان، پتہ کرو تا نگر لاکتھ دعائہ اپز ایرین
تہ صہو اللہ (تعالیٰ) سنتر لعنت۔

بے شک چھہ یو ہے پوز بیان تہ اللہ (تعالیٰ)
ہس وراہی چھہ کانبہ (تہ) عبادتس لایق تہ پزک
پانھو چھہ اللہ (تعالیٰ) ہے غالب تہ حکمتہ دول۔

اج اگر تم پھیرن (یاد تھا ون تیلہ ز) اللہ (تعالیٰ)
چھہ فسادین بلا شک زبر پانھو زانان۔

تہ ون (ز) اے اصل کتاب! (کم از کم) بیو
تو تہ اکیس تر تہ کتبہ کن یوہہ اسہ تہ توہہ در میان
برابر چھہ (تہ سم چھہ یہ کتبہ) ز اسی کرو نہ
اللہ (تعالیٰ) ہس وراہی کانبہ ہتر تہ عبادت
تہ کانبہ پنہ کرون تہ تمو سند شریک تہ نہ اولن

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
فَبُورَ فِيهِمْ أَجُورُهُمْ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
الظَّالِمِينَ ﴿۵۱﴾

ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ
الْمُحْكِمِ ﴿۵۱﴾

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ
خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ
فَيَكُونُ ﴿۵۲﴾

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ
الْمُتَرَدِّينَ ﴿۵۳﴾

فَمَنْ حَاكَمَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ
الْحِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْنَا دَعُؤُا أَبْنَاءَ نَا
أَبْنَاءَ كُمْ وَنِسَاءَ نَا وَنِسَاءَ كُمْ وَانْفُسَنَا
أَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتِهَلْ فَتَجْعَلْ لَعْنَتَ
اللَّهِ عَلَى الْكٰذِبِينَ ﴿۵۴﴾

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ
إِلٰهٍ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ﴿۵۵﴾

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلَيْكُمْ
بِالْمُفْسِدِينَ ﴿۵۶﴾

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ
سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا
اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ
بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا

مُسْلِمُونَ ﴿۵﴾

اِسْمِ اللّٰهِ (تعالیٰ) تراوتھ پانہ وَاذِ اٰلِہٖ بِمَا کَانَ یُرِیْکُمْ
بناولان۔ اِدْرِکُمْ بِحَیْرَتِہٖ تَبٰرَکَہٗ وَتَعٰلٰہٗ وَنُزُۤوْلِہٖ
رُوۡزِوۡجِوَاۡہٗ زُرُّوۡاۤہٗ بِہٖ (خدا یہ ہند کی) فرما ہر روز
اے اہل کتاب! توہری کیا زہ چھو ابراہیمس متعلق
بجواد لہ لاکان۔ بیلیہ زن تورات تہ انجیل بے شک
تس پتہ نازل کرنہ آستر چھئیہ۔ اِدْرِکِیَہٗ ہر چھو نا
بکر تران؟

يٰۤاٰہْلَ الْکِتٰبِ لِمَ تَحٰجُّوۡنَ فِیۡۤ اٰیٰتِہٖۤمُ
وَمَاۤ اُنزِلَتْ التَّوْرٰةُ وَالْاِنْجِیْلُ اِلَّا
مِنْۢ بَعْدِہٖۤاۤ اَفَلَا تَحْقِلُوۡنَ ﴿۵﴾

بُزُرُوۡا! توہری چھو تم لوکھ ہم بتن کتھن متعلق بخت
کران رُوۡدِکُمۡ ہر چھو ہم بتن ہند توہر علم اوسو۔
اِدْرِکِیَہٗ چھو توہری (وونی) بتن کتھن متعلق
بخت کرنہ لگرتی ہم بتن ہند نہ توہر کہنی (تہ)
علم چھو، حالانکہ اللہ (تعالیٰ) چھہ زانان تہ توہر
چھو نہ زانان۔

هٰۤاٰتُمۡہٗۤ اَوْلَآءَ حَآجَّتُمۡ فِیۡمَا لَکُمۡ
بِہٖۤ عِلۡمٌ فَلِمَ تُحٰجُّوۡنَ فِیۡمَا لَیۡسَ
لَکُمۡ بِہٖۤ عِلۡمٌ ؕ وَاَللّٰہُ یَعْلَمُ وَاَنتُمۡ لَا
تَعْلَمُوۡنَ ﴿۵﴾

ابراہیم نہ اوس یہودی تہ نہ نصرانی، بلکہ اوس
سہ (خدا یس کن) کہنتھ روزن وول (بہ اوس)
فرمانبردار تہ مشرکو اندر اوس نہ۔

مَا کَانَ اِبْرٰہِیۡمُ یَہُوۡدِیًّا وَّلَا
نَصْرٰنِیًّا وَّلٰکِنۡ کَانَ حَنِیۡفًا مُّسْلِۡمًا وَّ
مَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِکِیۡنَ ﴿۵﴾

ابراہیمس سستی جاو تعلق تھاون والی چھہ لوکو منز
یقینا (تہ بلشک) ہم لوکھ ہم ہند کی باروکار چھہ۔
بہ (تمہ علاقہ) یہ نبی تہ ہم لوکھ ہم (اوس پیٹھ)
ایمان اولن۔ تہ اللہ (تعالیٰ) چھہ مؤمن ہند
دوست۔

اِنَّ اَوَّلِ النَّاسِ بِاِبْرٰہِیۡمَ لَلَّذِیۡنَ
اتَّبَعُوۡہٗ وَهٰذَا النَّبِیُّ وَالَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا
وَاَللّٰہُ وِلِیُّ الْمُؤْمِنِیۡنَ ﴿۵﴾

اہل کتابو اندر چھہ اہل جماعت تمنا کران نہ کاش
ہم کرنہ توہر ہر ہر ہر چھہ پنس پانس
محرابی منز تراوان تہ فکر چھکھ نہ تران۔

وَدَّثَ ظٰلِمَۃٌ مِّنۡ اٰہْلِ الْکِتٰبِ لَوِ
یُضِلُّوۡکُمۡ ؕ مَا یُضِلُّوۡنَ اِلَّاۤ اَنۡفُسَہُمۡ وَا
مَا یَشعُرُوۡنَ ﴿۵﴾

اے اہل کتابو! توہری کیا زہ چھو وچھتھ کرنتھ
اللہ (تعالیٰ) ہند پن آیں انکار کران؟ حالانکہ
توہر چھو گوہری ڈر ہر۔

یٰۤاٰہْلَ الْکِتٰبِ لِمَ تَکْفُرُوۡنَ بِآیٰتِ
اللّٰہِ وَاَنتُمۡ تَشہَدُوۡنَ ﴿۵﴾

اے اہل کتاب! توہری کیا زہ چھو زاننتھ ماہنتھ
حق باطلس سستی رلاوان تہ حق چھو کھان۔

یٰۤاٰہْلَ الْکِتٰبِ لِمَ تَلْبِیۡسُوۡنَ الْحَقَّ
بِالْبَاطِلِ وَاَنتُمۡ تَعْلَمُوۡنَ الْحَقَّ وَاَنتُمۡ
تَعْلَمُوۡنَ ﴿۵﴾

بہ چھ اہل کتابو اندر اکھ جماعت وان تر بہ
کثیرھا مومنین پیٹھ تارل کرنہ آمت چھ تھتھ
پیٹھ اہلو دہلیس گوڈیکس حصس منتر اپمان تہ
تہ کس پیٹھ حصس منتر کروی (تمہ لنتہ) الکار
شاہد ماہ تم تہ پھیرن (امہ دسی)

بہ (چھ وان تر) تس شخصس وراہی یس
تہندہ دہنچ پاروی کران آسہ، مہ ماہو کانسہ
ہند، تر ونکھ (نر) اصل ہایت یعنہ اللہ (تعالے)
سند ہدایت چھ بیر ز کانسہ گوڑھ تہنچہ کپتہ
میلن یٹھ توہہ میولمت اوسو۔ یارن تم تہندس
پروردگارس بروٹھ کتہ توہہ سستی جگہ۔ (بہہ)
ونکھ تر فضل تہ چھ بے شک اللہ (تعالے)
سندس اتھس منتر۔ سہ یس بیترھان چھ تس
چھ فضل بختان۔ بہ چھ اللہ (تعالے) سہا
وسعت دہر وول (تہ) وراہ تران وول۔
سہ سیمس بیترھان چھ (تس) چھ پنہ رحمتہ
باپتھ تران تہ اللہ (تعالے) چھ بوڈ فغول
کرن وول۔

بہ چھ اہل کتابو اندر (کانہ) بیٹھ تہ ہرگاہ
شوتس (مالک) اکھ افسر امانتہ پاٹھ رکھ تہ
سہ کری تہ تر یہ واپس تہ تمواندر چھ (کانہ)
بیٹھ) تر ہرگاہ تر تس اکھ دینار امانتہ پاٹھ
دکھ اوسہ دہی تہ تر یہ سہ تہ واپس۔ ماسویہ
امر کہ تر تر روزکھ تس (کس پیٹھ) وہ دہر۔
یہ (کھ) چھہ امر کہو تر تم چھ وان تر اسہ پیٹھ
چھہ امین (یعنہ عربہ کہن روزن واپن) منغلن
کانہ رٹ تہ تم چھ اللہ (تعالے) ہس پیٹھ
زانہ (مانہ) اپز لاگتھ تھوان۔
یٹھ کو تہ بلکہ یس شخصس یز عہد پور کر
تہ تقویٰ پراو تہ (سہ چھ متقی) اللہ (تعالے)

وَقَالَتْ طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
آمَنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَيْنَا آمَنُوا
وَجْهَ النَّهَارِ وَكَفَرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ﴿۳۷﴾

وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ
قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ
أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ
عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ
يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۸﴾

يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ
ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۳۹﴾

وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنَ إِذَا تَأَمَّنُوا بَقِطَارٍ
يُؤَدُّهُ إِلَى الْبَيْتِ وَمِنْهُمْ مَنَ إِذَا تَأَمَّنُوا
يَدِينَارًا لَا يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ
عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيَّةِ سَبِيلٌ وَ
يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُمْ
يَعْلَمُونَ ﴿۴۰﴾

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿۴۱﴾

چھ متفقین سستی بے شک محبت تھاوان۔
 یم لؤکھ اللہ (تعالے) ہس سستی پیند پرمہند
 تہ تموم بدل کے مول لہ وصول چھ کران جن لوکن ہند
 آسہ نہ اترتس منز کا نہ حصہ تہ قیامتس دوہہ کر
 نہ اللہ (تعالے) جن سستی کہتہ تہ نہ وچھ جن کن
 نہ گنتر راو جن پاک تہ تہند با پتہ چھ کر لوتھ غلاب۔
 (مقدر)

بہ چھ تمو منز بے شک اکھ فرقاہ (تیقہ) ریم
 پسنہن زبون کتاب ہند (یعنے تورا تہ کہ) ذکر وٹھن
 دوان چھلہ تیقہ توہی تہ (بہ بتم ونان چھ کتابہ
 منز زانو۔ حالانکہ تہ چھتہ کتابہ منز آسان تہ تم
 چھ ونان نہ یہ چھ اللہ (تعالے) ہند طرفہ بیلہ زن
 تہ چھنہ اللہ (تعالے) ہند طرفہ (آسان) تہ تم چھ
 زانہ (مانہ) اللہ (تعالے) ہس پدہ پز لاگتہ
 تھاوان۔

کانشہ (پز یارس) انسانہ ہندس شانس چھنہ بیہ شایان
 نہ اللہ (تعالے) دیہ تس کتاب، حکومت تہ نبوت
 تہ سہ ونہ (بہ نہ) توہی بؤ اللہ (تعالے) ترا وٹھ
 میانی بند۔ بلکہ (چھ تیقہ انسان بیہ ونان نہ) توہی
 سپرہ خدایہ ہندی تہ کیا نہ توہی چھو (الہی) کتابہ منز
 تعلیم دوان بہہ او کو نہ توہی چھو (بہ ہز بان یا کران
 بہہ چھ) نہ یہ (تہند خاطر میکنے) نہ توہی دیویہ
 ہدایت نہ توہی بناو لؤکھ ملایک تہ نبی پنہ رب، کیا
 توہی دیویہ تہند مسلمان سپرہ پتہ کفر چ (یعنے
 کفر پر اونچ) تسلیم۔

بہہ (کرو سہ وقت تہ یاد) بیلہ اللہ (تعالے) جن
 (اہل کتابن) سارہنہ نبین ہند پوتہ عہد ہز راو

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۰﴾

وَأَنَّ مِنْهُمْ لَفُرِيقًا يَلُونِ أَلَسْتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ ۚ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۱۰﴾

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ وَلَٰعِنَ كُونُوا رَبَّازِينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿۱۰﴾

وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَدْبَابًا ۚ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۱۱﴾

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ

لہ یعنی دہن بدل چھ دنیاہ ملی، ہوان۔

لہ یعنی تورت پلان چھ انسانی عبارتہ رلاوتہ تلاوت کران تیقہ لوکن دھوکہ لگہ۔

نہ یوں ہے کہ کتاب تم حکمت ہے تو ہر دم و دم و دم۔ پتہ پتہ
تو ہر نبی کا نبی (تبیحہ) رسول میں سے کلام پتہ پتہ
کرن و دل آہے میں تو ہر نبی چھ، اڈ تو ہی اڈی
زیو تس ضرور پانچھی ایمان، بیہ گزیدہ تس ضرور
مدد کرن (بیہ) فرما و بیان نہ کیا تو ہی چھوا اقرار
کران تہ اتھ پیچھ چھوا میانی (یعنی میانہ طرفہ)
ذمہ واری قبول کران؟ (تہ) تمہو و نیاس، آ!
اُسی چھ اقرار کران۔ فرمودیکہ، وہ فی رُوز و توہی
گواہ تہ پتہ پتہ چھیس تو ہر سستی گواہ ہو مشر (الکھ گواہ)۔
وہ فی میں (شخص) ابر عہد پتہ پتہ چھیر تہ پتہ لکھ
آسن فاسق۔

اڈ کیا، تم چھا اللہ (تعالیٰ) بندہ دینہ و رابی
(بیہ کا نبی دینا) یہ سترہاں؟ حالانکہ آسمان تہ
زمینہ اندر میں (کا نثرھا تہ) چھ، خوشی سان (تہ)
ناخوش گزیدہ (تہ) چھ تہ تہ سے فرمانہ وارتہ تس
کن پیہ (بیہ) پتہ پتہ تہ۔

تہ و ن (نہ) اُسی چھ ایمان چھوان اللہ (تعالیٰ) میں
(پتہ) بیہ یہ کینترھا ابر پیٹہ نازل کرنہ آمت چھ
(تہ پتہ)، بیہ یہ کینترھا ابر پیٹہ، اسماعیل
تہ اسماعیل تہ یعقوب تہ (تہ بندین) اولاد ن پیٹہ
نازل کرنہ آمت اوس بیہ یہ کینترھا موسیٰ میں تہ
عیسیٰ میں تہ (باقی) سارہ نے نبیین تہندس
پروردگار بندہ طرفہ دینہ آمت اوس بیہ تمہو مشر
چھن نہ کا نبی الھ اگس نبش بدون زانان۔ بیہ چھ
اُسی تہندہ فرمانہ وارتہ۔

تہ میں شخص اسلام و رابی کا نبی (بدل) دین
(چلاؤن) یہ سترہاں، اڈ (سے تمہاؤن یاد نہ) سے بیہ
نہ تس نبش ہرگز قبول کرنہ تہ آخرت اندر سپہ
سے نوقسان تنن و البو اندر۔

یکم لکھ ایمان اتہ پتہ انکار کی گامتی چھ تہ

ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا
مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَكَلْتُمُصْرَتَهُ، قَالَ
ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذٰلِكُمْ أَصْرِي
قَالُوا ءَأَقْرَرْنَا، قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا
مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿۷۰﴾

فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ فَأُوْلٰٓئِكَ هُمُ
الْفٰسِقُونَ ﴿۷۱﴾

أَفَغَيْرِ دِينِ اللّٰهِ يَبْتَغُونَ وَلَہٗٓ اَسْلَمَ
مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ طَوْعًا
وَ كَرْهًا وَّ اَلَيْسَ یُذْجَعُونَ ﴿۷۲﴾

قُلْ اَمَّا بِاِلٰهِ وَمَا اُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا
اُنزِلَ عَلٰی اٰبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِیْلَ وَاِسْحٰقَ
وَ یٰحْقُوْبَ وَاَلِیَسٰقَ وَاَمَّا
اُوْتِیَ مُوسٰی وَاَعِیْسٰی وَاَلنَّبِیُّوْنَ مِنْ
رَبِّہُمْ لَآ نُفَرِّقُ بَیْنَ اَحَدٍ مِّنْہُمْ وَا
نَحْنُ لَہٗٓ مُسْلِموْنَ ﴿۷۳﴾

وَمَنْ یَّبْتَغِ غَیْرَ الْاِسْلَامِ دِیْنًا فَلَنْ
یُّقْبَلَ مِنْہٗ وَاُوْھُوْا فِی الْاٰخِرَةِ مِنَ
الْخٰسِرِیْنَ ﴿۷۴﴾

كَيْفَ يَهْدِي اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ

إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۳۰﴾

أُولَئِكَ جَزَاءُ هُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَكُوتِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿۳۱﴾

خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَخَفُونَ عَنْهُمْ عَذَابٌ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿۳۲﴾

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۳۳﴾

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ زَادَوا كُفْرًا لَنْ نُقْبَلَ تَوْبَتَهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ﴿۳۴﴾

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَمَاتُوا هُمْ كُفْرًا لَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿۳۵﴾

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِنْ مَّا تَحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿۳۶﴾

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِلْبَنِيِّ إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ

شہادت چھکھ ڈر مشر نہ (یہ) رسول چھ پڑ لور تہ بہن لیش آسن (بیہ) دسپلہ تہ آ مشر بہن کتھ پائو انہ اللہ (تعالیٰ) ہدایتس پیٹھ ؛ تہ اللہ (تعالیٰ) چھنہ ظاہن ہدایت دوان یم لوکھ چھ تھو نہ بہنہ سزا چھ نہ نہ بہن پیٹھ آسن اللہ (تعالیٰ) ہنہنر) تہ ملا یکن (ہنہنر) تہ سارہنے لوکن ہنہنر لعتت۔

تم روزن اتھ (عفتس) مشر نہ (تہ) بیہ بہن (پیٹھ) یہ عذاب کم کرنہ تہ نہ یہ بیہ بہن ڈیکر تراوتہ۔

جمو لوکھ وراہی یم امر پتہ توبہ کرن تہ اصلاح کرن تہ اللہ (تعالیٰ) چھ بے شک سبھا بخش وول (تہ) پھیرک پھیرک رحم کرن وول۔

یم لوکھ ایمان انہ پتہ انکاری گا تہ آسن تہ تم آسن پتہ کفرس مشر بیہ ہن تہ بروٹھ دراہر ، بہنہ توبہ پیہ نہ ہرگز قبول کرنہ ، تہ یکے لوکھ چھ (تم) یکن و تھ راو۔

یم لوکھ انکاری گا تہ آسن تہ کفر چھ ہائز مشر بہ آسن موہو۔ جمو مشر بیہ نہ کاشہ لیش زمینہ اوت سون (تہ) یہ سہ فد یہ کتہ پیتس کر ، ہرگز قبول کرنہ۔ یکن لوکن ہنہنر چھ کر لوٹھ عذاب (مقعد) تہ بہنہ آسہ نہ کپڑ تہ مددگارہ

توہی ہیکو نہ ہرگز پور پور نیکی لیتھ یوتانی نہ پسنیو ٹاٹھو پوسپنو مشر (خدا یہ بند خاطر) خرچ کرؤ۔ تہ یس کانبہہ چہر تہ توہی خرچ کرؤ اللہ (تعالیٰ) چھ تھ پور پائو زانان۔

پرہتھ کانبہہ کھین اوس بنی اسرائیل ہنہنر باہتھ حلال۔ تمہ حصہ وراہی یس

عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ
التَّوْرَةُ، قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ
فَاتْلُوهَا إِنَّ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿۵﴾

اسرائیلیں (یعنی حضرت یعقوب) تورات
نازل سپدنہ بروٹھ پنہ خاطر مسکروہ
گنڈرومت اوس۔ تہ و نکھ ہر گاہ توہر
ہند باپتہ حلال۔ تہ و نکھ ہر گاہ توہر
پڑ یارک پھو تہ تورات اوتہ سو پڑو۔

وونی ہم (لوکھ) امہ پتہ (تہ) اللہ
(تعالیٰ) ہس ایز لایگتھ تھون، اہ
تہ لوکھ آسن نطلم۔

فَمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ مِنْ بَعْدِ
ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۶﴾

تہ و نکھ نہ اللہ (تعالیٰ) ہن پھ پوز
وونمت، او کوز کرو توہر ابراہیم
سند دپنچ پآر وک، یس دخالیں
کن (تہمتہ روزن وول اوس بیہ اوس
نہ سہ مشر کو منہر۔

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ
ابْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَمَا كَانَ مِنَ
المُشْرِكِينَ ﴿۷﴾

سار وے کھوتہ گو ڈنیک گر یس تمام
لوکن ہند (قاید) خاطر بناونہ امت
اوس پھ سہ یس مکس منہر چھ، سہ
پھ سار وے عالمو خاطر برکتر وول
(مقام) تہ ہدایت (دنگ باعت)۔

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي
بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴿۸﴾

تھ اندر پھ کاتیاہ پر ہر لوڈی نشاہ
ابراہیم مند قیام گاہ پھ (سہ) تہ
یس تھ اندر داعسل سپد سہ پھ
امنس منہر یوان تہ اللہ (تعالیٰ) ہن پھ لوکن
پہ پھ فرمن کورمت نہ ہم کرن امہ ترک
حج۔ (یعنی) یس (تہ) تھ تانی گرتھنک
توفیق لبہ، تہ یس انکار کر اہ (سرتھان)
یاد نہ (اللہ تعالیٰ) پھ تمام عالمو
نشہ بیہ پرواے۔

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ اِبْرَاهِيمَ وَ
مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، وَيَلْتَمِسُ عَلَى النَّاسِ
حُجَّ البَيْتِ مِنَ اسْتِطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيلًا
وَ مَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ
العَالَمِينَ ﴿۹﴾

ثرون نہ) اے اہل کتاب! توہر کیا نہ پھو
اللہ تعالیٰ) ہندن آین انکار کران حالانکہ اللہ

قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ
بِآيَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا

تَعْمَلُونَ ﴿۱۱﴾

قُلْ يَا هَذِهِ أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن أَمَنَ تَبِعُونَهَا عَوجًا وَأَنتُمْ شُهَدَاءُ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۱۱﴾

(تعالے) چھ تہندین اعمالن پیٹھ بکران ۔
 بیہ کن (تو نہ) اسے اہل کتاب! بیس
 ایمان انان چھ تس کیا ز چھو تو ہی اللہ
 (تعالے) سنز وتہ نش ٹھاک کران ۔ تو ہی
 چھوون پر وتھ، ہجر پرا و وئی یبترھان
 حالانکہ تو ہی چھو (اتھ پیٹھ) گواہ۔ تہ
 یہ کینرھا تو ہی کران چھو اللہ (تعالے) چھو
 تمہ نش ہرگز غافل۔

اے مومنو! اگر تو ہی تمہو لو کو اندر بین
 بکتاب دینہ آمشر اس، کتہ فریقہ اطاعت
 کبرو اور تم بتا و نو تو ہس تہند

ایمان اتہ پتہ بیہ کافر۔
 بیہ تو ہی کتہ پاٹھی کبرو کفر سبیل زن
 تو ہی تم لوکھ چھو بین اللہ (تعالے) ہندر
 آہ پترتھ بوزناوتہ یوان چھ؟ بیہ چھ
 تو ہی منتر تندر رسول (موجود) تہ بیس
 شخص اللہ (تعالے) سنز چھین جہاے

منگہ اور (زانی تو) سہ او سنز وتہ پکناوتہ۔
 اسے ایماندارو! اللہ (تعالے) ہندر تقویٰ پرا و
 تہکو ساری شرط ہتھ تہ تو ہی گرتھ صرف تھ
 حاس منتر موت بین ز تو ہی اسو پور فرما ندرار۔

بیہ رٹو تو ہی سارک اللہ (تعالے) سنز زر چھہ تہ
 چھکرہ متہ بیوتو۔ بیہ پا وک تو اللہ (تعالے) سند
 (سہ) احسان یاد بیس تم تو ہی پیٹھ کورمت چھ
 بیلا تو ہی (اکھ اکر ہندر) دشمن اسو، تم کو کور
 تہندین دین منتر لول پا و بیہ کس نیس منتر تو ہی
 تہند احسانہ کوز بے ہار زینہ و، بیہ اسو تو ہی
 اکس نار کھو کس دس پیٹھ مکر تو ہی بجا وک تو ہی
 یٹھ کوز چھ اللہ (تعالے) پیٹھ آہ تہند خراطر
 بیان کران بیٹھ تو ہی ہدایت لبو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا
 فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
 يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفْرِينَ ﴿۱۱﴾

وَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ وَ أَنْتُمْ تُلَّ
 عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَ فِيكُمْ رُسُلُهُ وَ
 مَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى
 صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿۱۲﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ
 تَقَاتِهِ وَ لَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ
 مُّسْلِمُونَ ﴿۱۳﴾

وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَ لَا
 تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
 إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ
 فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَ كُنْتُمْ
 عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ
 مِنْهَا، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
 لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۱۴﴾

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۵۱﴾

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَا
اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ
الْبَيِّنَاتُ، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۵۲﴾

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ
فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ
أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا
العَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿۵۳﴾

وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ
فَإِنَّهُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمُ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۵۴﴾

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ
وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ ﴿۵۵﴾

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَإِلَى
اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿۵۶﴾

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ
الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، مِنْهُمْ
الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۵۷﴾

بہ گزشتہ توہمہ منزاکہ جماعتہا برتھہ آہنہ سیمچ
کام صرف یہ آہہ نہ سو وہیہ (لوکن) نیکی کن ناد
بہ وہیہ نیک کھن ہنر تعلیم تہ بدیہ لہنہ رطہ
پتھہ تہ یکے ٹوکھ چھ کامیاب سیدن والی۔

بہ مہ بنو توہر بہن لوکن ہندرک پانچو پیم ٹاکا
نشانہ مینہ پتہ چھکنہ آہیہ تہ ہمو کوز (پانہ والی)
اختلاف پادہ، تہ پیم نہ لوکن ہندرک باپتھ چھہ
(تمہ دوہہ) ہار عذاب (مقدر)۔

یہیہ دوہہ کیہنہ ہتھی پرنیہ سیدن تہ کیہنہ ہتھی
گرشہن کرہنہ اہ پین لوکن ہندرک ہتھی کرہنہ کرہنہ
(ہنن یہیہ ونہنہ) کیا (یہ چھنا پوز نہ) توہر آہو
سپنہ ایمان انہ پتہ کافر سیدن ہتھی۔ او کوز
وچھو پسنہ کافر سیدن کہ باعتہ امر غزاک
منہ۔

تہ پین لوکن ہندرک ہتھی پرنیہ سیدن تم آسن
اللہ (تعالیٰ) ہندرک رحمتس منہ (تہ) تم آسن
تھہ منہ (ہر ہمیشہ) روزہ وئی۔

پیم چھہ اللہ (تعالیٰ) ہندرک آہیہ پین اندر حق چھہ
(تہ) پیم آسی تہ پرتھہ بوزنا وان چھتھہ تہ اللہ
(تعالیٰ) چھنہ کلہم عالمو منہ گنہ تہ عالمس پتھہ
گنہ قہمک ظلم کرن یہ ہرہان۔

بہیہ یہ کیشہا آسمان منہ چھہ تہ یہ کیشہا زمینہ
منہ چھہ (تہ سورہ) چھہ اللہ (تعالیٰ) سندہ
تہ اللہ (تعالیٰ) ہس کئے پین ساری معا ملہ
چھہ پتھہ وائناونہ۔

توہر چھو (سارہ وہے کھوتہ) برہ جماعتہ لہو
لوکن ہندرک (قایدہ) خاطرہ پاد کرہ آہ ہرہ چھہ۔
توہر چھو نیکی ہندرک ہدایت کران تہ بدیہ لہنہ چھو
پتھہ ران بہ چھو اللہ (تعالیٰ) ہس پتھہ ایمان
تھوں تہ ہرگاہ اہل کتاب تہ ایمان انہ ہن تہ ہن

ہندہ خاطر گرتھ ہے بجاؤت تمہن اندر چھ کیشہ
 نمونہ تہ، تہ بجاؤ چھہ تمہن منتر نافرمان۔
 یکم لوکھ ہیکن نہ معمولی ادا ورنہ ورنای توہر کیشہ
 نو قصان وناؤتھہ بیہ اگر تم توہر سستی جنگ سکران
 ادر تم تران توہر کن تھہر پھرتھہ۔ پتہ ہیکہ نہ تمہن
 کنہ اندر مدہ مپلتھہ۔

یستین تہ تم لہنہ پن تمہن پیٹھ چھہ ذلت نازل
 کرنہ آمہتر۔ امہ وراے نہ تم پن اللہ (تعالیٰ)
 ہندس کنہ عہدہ (کس) یا لوکن ہندس کنہ عہدہ کس
 پتہ ہس تل (تم ہیکن نہ تمہ ذلتہ نشہر پچھتہ)۔ بیہ
 چھہ تم اللہ (تعالیٰ) ہندہ غنیکہ نشاہ نہ سیمتہ، تہ
 بے بسی (ہنتر حالت) چھہہ تمہن سستی گنتہ
 تھونہ آمہتر۔ یہ چھہ امہ موکھ (کرنہ آمت) نہ تم
 اسی اللہ (تعالیٰ) ہندس پن آین انکار کران تہ ہنگتہ
 منگہ اسی سبب قتل کرن یہ تھہان یہ کتھہ اسی
 (تمہن اندر) تہنتر نافرمانی کرنہ تہ حد نمبر گناہ تو آسہ
 موکھ (لہنہ یوان)۔

تم ساری لوکھ چھہ ہوی۔ اہل کتابہے اندر پچھ
 اکھ ترشہ جماعت تہ یوسہ (پنس عہدس پیٹھ) تاہم۔
 چھہہ۔ تم چھہ راز پھرن اللہ (تعالیٰ) ہندس آسہ
 پران تہ سجدہ (تہ) چھہ کران۔

تم چھہ اللہ (تعالیٰ) ہس پیٹھ تہ یہ تہ واپس
 دوہس پیٹھ ایمان تھوان تہ نیکی ہند ہدایت کران
 تہ بدیہ نشہر پتھہ رمان تہ نیک کامن منظر اکھ اس
 برونتھہ نیران تہ یکے لوکھ چھہ نیکی اندر۔

بیہ یوسہ نیکی تہ تم کرن تھہہ بیہ نہ بنے قدری کرنہ
 تہ اللہ (تعالیٰ) چھہ تقویٰ پرلون والہن نہ بر پانگہ رانان۔

یکم لوکھ کافر چھہ، تمہن نہ پکاوان تہندر مال تہ نہ
 تہندر اولاد اللہ (تعالیٰ) ہندہ عذابہ نشہر۔ بیہ
 چھہ تم لوکھ، نادر واری (یعنی نارس ہون والی)۔ تھہ

لَنْ يَضُرَّوْكُمْ اِلَّا اَذًى وَاِنْ
 يُفَارِقُوْكُمْ يُوَلُّوْكُمْ اِلَّا دَارًا تَمَّ لَا
 يُنْصَرُوْنَ ﴿۷۰﴾

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلٰتُ اَيِّنْ مَا تُثَقِفُوْا
 اِلَّا يَحْبِلُ مِنَ اللّٰهِ وَحَبْلٌ مِّنَ النَّاسِ وَاِ
 بَاءٌ وَيَغْضَبُ مِنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ
 الْمَسْكَنَةُ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا
 يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَ يَفْتُلُوْنَ
 الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا
 وَ كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿۷۰﴾

لَيْسُوْا سِوَاۤءٍ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ
 قٰتِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اَنۡاۤءَ الْبَيْلِ وَا
 هُمۡ يَشۡجُدُوْنَ ﴿۷۱﴾

يُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَاَلْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَا
 يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
 الْمُنۡكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ وَا
 اُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۷۱﴾

وَمَا يَفۡحَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكۡفَرُوۡا وَا
 اللّٰهُ عَلِيۡمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿۷۲﴾

اِنَّ الَّذِيۡنَ كَفَرُوْا لَنْ نُغۡنِيَ عَنْهُمُ
 اَمْوَالَهُمْ وَاَلۡاٰوَادَ لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ
 شَيْۡئًا وَاُولٰٓئِكَ اَصۡحٰبُ النَّارِ هُمۡ

فِيهَا خَلِدُونَ ﴿۱۱﴾

مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ
أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا
أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ، وَمَا ظَلَمَهُمُ
اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۱۲﴾

منزورون (تم) بسوزی۔

یہ کثیرھا ہم لوگہ نزدیکہ چہ زندگی متعلق خرچ کران
چہ خرچ مثال چھہ تمہ ہواج ہش بیتہ منزسجت
ترنیار آس۔ (تہ) سہ چلہ بتہ قومہ کہ زمین زراعتہ
پیٹھو نیوسنس پانس پیٹھ ظلم کورمت آس۔ پیٹھ
کر سہ تہ تباہ، تہ اللہ (تعالیٰ) ہن کور نہ ہن
(لوگن) پیٹھ ظلم، ووزی گوو تم چہ پسنین زون
پیٹھ پانس ظلم کران۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً
مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْمُرُكُمْ بِالْحَقِّ وَالْإِ
دَارِ عَنكُمْ، قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِن
أَفْوَاهِهِمْ، وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ
أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ
تَعْقِلُونَ ﴿۱۳﴾

اے ایماندارو! پیٹھ لوگہ تراوتہ مہ بناؤ لیکہ (بدل
لوگہ) سر باجر۔ تم چہ توہہ سستی بدسلوکی
کرس کاٹہہ چھہ نہ کران (تہ) تہند تکلفنس مشر
ہنہ یں چھہ خوش کران (تہنتر) دشمنی چہ تہندو
دہانو تہنہ مشر بیہ یہ کثیرھا تہندین وچھن مشر
کھٹہ پھ تہ چہ (تمہ کھوتہ تہ) جاو۔ اگر توہر
عقلہ کام ہنہ واپ چھو تیلہ چہ اسہ تہندہ باچہ پیٹھ
آیہ واش کڈتہ بیان کرک ہتہ۔

هَآنَتُمْ أَوْلَاء تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمُ
وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا الْقُومُ
قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ
الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، قُلْ مُؤْمِنُوا
بِغَيْظِكُمْ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ
الصُّدُورِ ﴿۱۴﴾

بوزو! توہی چھو تم لوگہ ہم تمن سستی لول چھو وناوان
سالانہ تم چھہ توہہ سستی لول وناوان۔ تہ توہی
چھو (سر) سلبم کتابہ پیٹھ ایمان انان تہ تیلہ تم
توہہ سمکھان چھو اتی چھو وناوان (ز) اسی (تہ) چھ
ایمان تھولن۔ تہ تیلہ تم بیوان سیدان چھہ او چھہ تم
توہہ خلاف شرارتہ سستی اونگہ تراپان۔ تہ ون (تمن
ز) گترھو مسرو پیٹھ شرارتہ سستی۔ اللہ (تعالیٰ)
چھہ شک وچھو ہر تمام تہ زانان۔

إِن تَمَسَّكُمُ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَرَأَى
نُصْبِكُمْ سَيِّئَةً يَفْرَحُوا بِهَا، وَإِن
تَضِيدُوا وَتَقْتُلُوا، لَا يَصُرُّكُمْ
كَيْدُهُمْ شَيْئًا، إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ
مُحِيطٌ ﴿۱۵﴾

اگر توہہ کاٹہہ کامیابی حاصل سیدو، او تمن چھہ بد
لیوان، تہ اگر توہہ کاٹہہ تکلیف واتہ و تہ تھہ پیٹھ
چھہ تم خوش گرشان۔ تہ اگر توہی صبر کرو تہ تقویٰ
پر او تیلہ وناوان و نہ تہنتر (مخالف) چل توہہ
کھنی (تہ) نوقصان تہ یہ کثیرھا تم کران چھہ اللہ
(تعالیٰ) چھہ یقینا تھہ ملے تباہ کرن وول۔

بہ (اگر سہ وقت یاد) میلہ تر سپنہن گر کہن نش
صبح صبح او موکھ درایکھ - نہ مؤمن بہناؤ کھ جنگ
با پتھ تہنن مقرر کر مشن جاین پیٹھ تر اللہ
(تعالیٰ) پتھ (چاڈ دغا) سہا بوزن وول (تہ توہر
لوکن ہندک حالات) زبر پاٹھ زان وول -

(پتھ کر سہ وقت یاد) میلہ (زن تم حالات و پتھ)
توہر مشن نہ درک بزدلی ماوس پیٹھ تیار سپد کتہ
مسی حالانکہ اللہ (تعالیٰ) اوس تہند دوست - بہ
پیز مؤمنن اللہ (تعالیٰ) ہس پیٹھ توکل کرن -
تہ (امر بروئٹھ جنگ) بدس مشن میلہ توہر پس
پاپہ اوسو ، پتھ اللہ (تعالیٰ) ہن توہر مدد دیت
مت - او کتہ پراوو توہر اللہ (تعالیٰ) سند تقویٰ بیٹھ
زن توہر شکر گزار بنو -

(سہ وقت تر کر یاد) میلہ تر مؤمنن زن اوسکھ
نہ کیا تہند با پتھ سپنا یہ (کتھ) کانی نہ تہند پرورگار
کر و توہر (آسمان پیٹھ) منزل سپدک متہو تریو
ساسو ملاکیو ہند موسی مدد ؟

کیا سپدہ (کانی) ؟ اتر توہر صبر کرو تہ تقویٰ پراوو
بہ اگر تم (کافر) و ذی توہر پیٹھ حملہ کر تھہ بین
تیلہ کر تہند پرورگار پانڑو ساسو بر لوہر حملہ کرن
والہو ملاکیو ہند موسی توہر مدد -

بینہ پھینہ اللہ (تعالیٰ) ہن یہ (کتھ) صرف او
مہکھ مقرر کر مشن نہ تہند خاطر آسہ تہ شجر تہ
تہندک دل بین امہ ستر اطمینان ، نہتہ چھ مدد
صرف) اللہ (تعالیٰ) ہندک طرفہ (یوان) یس غلبہ
وول (تہ) حکمت وول چھہ -

(بہ چھ اللہ تعالیٰ ہن یہ کتھ) او موکھ (مقرر
کر مشن نہ سہ (اللہ تعالیٰ) تر ٹ کافرن ہند
الہ حصہ یا کر تم ذہل بیٹھ زن تم ناکام (سپدکھ)
واپس گزھن -

وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تَبَوُّئِ
الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللّٰهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۷﴾

اِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتَيْنِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا
وَاللّٰهُ وَاَلَيْهُمَا رَدٌّ عَلَى اللّٰهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۳۸﴾

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَاَنْتُمْ
اَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ﴿۳۹﴾

اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ اَلَنْ يَكْفِيَكُمْ
اَنْ يُمَدِّدَ بِكُمْ بِثَلَاثَةِ اَلَافٍ مِنَ
الْمَلٰئِكَةِ مُزْبِنِينَ ﴿۴۰﴾

بَلٰى اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوا اَوْ يٰۤاَتُوْكُمْ
مِّنْ قُوْرِهِمْ هٰذَا يُمَدِّدْكُمْ رَبُّكُمْ
بِخَمْسَةِ اَلَافٍ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ
مُسَوِّمِينَ ﴿۴۱﴾

وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ وَا
لِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِمَا نَصَرُ
اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿۴۲﴾

لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْ
يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوْا خٰٓئِبِيْنَ ﴿۴۳﴾

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴿۱۱۰﴾

چون چھتو بیٹھ معاملس منتر کھنٹی (دُخل، یہ سورسے
چھتو خدایہ ہندس اکتس منتر) ادر سہ تمن پیٹھ فضل
کرکرتن یا تمن عذاب دیتن (مگر تم چھتو عذابس
لا بیٹھ) تہ کیا ز تم چھتو فلالم۔

وَاللَّهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ
يَغْفِرُ لِمَن يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَّشَاءُ ۗ وَاللَّهُ
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۱۱﴾

میں یہ کیتھرا آسمان منتر چھتو تہ یہ کیتھرا
زمین منتر چھتو (تہ سورسے) چھتو اللہ (تعالے)
سندسے۔ سہ یس یہ تھرا من چھتو تس چھتو بختان تہ
یس یہ تھرا من چھتو تس چھتو عذاب دوان۔ میں چھتو اللہ
(تعالے) سبھا بختن بار (تہ) چھتو کھپری رحم
کرن وول۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا
الرِّبٰوَ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا
اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۱۱۲﴾

اے ایماندارو! توہی مہ اُسو (پننن مائس پیٹھ)
سود کھولن۔ یس مائس) حد روس ہراوان چھتو تہ
اللہ (تعالے) سند تقویٰ پراوو بیٹھ زن توہی کامیاب
سپرو۔

وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ اَعَدَّ لِلْكَافِرِيْنَ ﴿۱۱۳﴾

میں کھوڑو تمہ نارس یس منکر ہند با پتھ تیار
کرتہ آمت چھتو۔

وَ اطِيعُوا اللّهَ وَ الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُوْنَ ﴿۱۱۴﴾

میں کرو اللہ (تعالے، سنز) تہ تہندس رسولہ
سنز اطاعت۔ بیٹھ زن توہی رحم کرتہ میں۔

وَ سَارِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَ
جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَ الْاَرْضُ ۗ
اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۱۵﴾

میں بھگو بروٹھ پننن پروردگار ہند طرفہ نمازل
سپدن واجنہ بختاشہ (کن)، تہ تھتہ جنس کن
یہیک ممول آسمان تہ زمین چھتو تہ یس تقویٰ
پراون والین ہند خاطر تیار کرتہ آمت چھتو۔

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ
وَ الْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِيْنَ عَنِ
النَّاسِ ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۱۶﴾

بیم (متقی) خوشحالی (منتر) تہ تمہ چھو ہنس
منتر (تہ خدایہ سنز وتہ) خرچ کران چھتو، تہ
شکھ تراپن وال تہ لوکن عفو کرن وال چھتو۔ تہ
اللہ (تعالے) چھتو احسان کرن والین سندس ماٹھنیا
کران۔

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا اِفْحٰشَةً اَوْ ظَلَمُوْا
اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّهَ فَاَسْتَغْفَرُوْا
لِذُنُوْبِهِمْ ۗ وَ مَن يَّغْفِرِ اللّٰهُ لَشَيْءٍ

وون گوو (تمن لوکن ہند با پتھ) بیم کاٹھہ کچھ کام
کرتھ یا پننن زون پیٹھ علم کرتھ اللہ (تعالے)
ہس یاد کران چھتو تہ پننن تقوون ہنر معافی

إِلَّا اللَّهُ تَدْوَلُ صِدْوًا عَلٰی مَا فَعَلُوا
وَهُمْ يَخْلَمُونَ ﴿۳۰﴾

بیشترهاں چھ، تہ اللہ (تعالیٰ) ہس وراہی کس
پچھ خطا بخشیتھ ہیکان ہتہ یہ کثیرھا تمو کورمت
آسان پچھ تھہ پیہہ چھنہ (تم) تراہتھ (مانتھہ)
اکبر کران۔

أُولَٰئِكَ جَزَاءُ هُمْ مَغْلِبَةً مِّن رَّبِّهِمْ
وَجنتُكَ تَجْرِي مِّن تَحْتِهَا إِلَّا نَهْرُ
خَالِدِينَ فِيهَا، وَنَحْمُ أَجْرَ الْعَمَلِينَ ﴿۳۱﴾

یک لوکھ چھ تھہ زہ ہند جزا آسہ ہندس پرو دکاہ
ہند طرفہ (نازل سپان واجز) بخشش تہ تھہ
باغ میں مشر نہر پکان آسن۔ تہ تم روزن کن
اندربسان تہ کام کرن والین ہند یہ بدلہ کوتاہ
رت پچھ۔

قَدْ خَلتْ مِّن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ، فَيَسْئَرُوا
فِي الْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ ﴿۳۲﴾

توہہ بروٹھ چھ عمل کرہی وارا دستور آسی ورتہ
(تمن ہندی نتیجہ ہے وچھو آسنو) ادر مینہ
مشر چھو تہ وچھو زہ (تم صابطہ) اپراون
والین ہند انجام کیٹھ (کھری ون) سپد۔

هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَنُورٌ
لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۳۳﴾

یہ (ذکر) چھ لوکن ہندہ خاطر سہٹا وضاحت
کرن وول تہ تقویٰ پرلون والین ہند با پچھ
ہدایت تہ نصیحت۔

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمْ
الْأَعْلُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۳۴﴾

بیہ مہ تاوو توہی کمزوری تہ مہ ہیو عم۔ تہ
ہرگاہ توہی مؤمن چھو تیلہ روزو توہی سرس۔

إِنْ يَمْسِسْكُم قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ
قَرْحٌ مِّثْلَهُ، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا
بَيْنَ النَّاسِ ، وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ
أَمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمُ شُهَدَاءَ ، وَاللَّهُ لَا
يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿۳۵﴾

ہرگاہ توہہ کانہہ چھو کہ گہ و تہ تمن لوکن تہ
چھ تیلہ چھو لوکت۔ تہ یک (غلبرگ) دوہ چھ
تھہ زہ آسی چھ کہ یک لوکن مشر وار وار پھرناناون
روزان (تہ تم نصیحت رن) بیہ تھہ اللہ (تعالیٰ)
تمن لوکن شہ راو پو ایمان اونمت پچھ۔ تہ توہہ
مشر بناو (کثیرن) شہید۔ اللہ (تعالیٰ) چھنہ
ظالمین پسند کران۔

وَلِيُمَيِّضَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ
الْكَافِرِينَ ﴿۳۶﴾

بیہ تھہ ، یک مؤمن چھ ، تمن کر اللہ (تعالیٰ)
پاک تہ صاف تہ کافرن کر ہارک۔

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا
يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَ
يَعْلَمَ الضَّالِّينَ ﴿۳۷﴾

کیا توہہ چھوا (یہ) فکر توڑمت تہ توہی سپدو
جنتس مشر داخل۔ حالانکہ وہ گری نہ اللہ (تعالیٰ)
ہن توہہ مشر تم لوکھ تمنی یک مجاہد چھ تہ نہ کرن

وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ
 أَن تَلْقَوْهُ ۖ فَقَدْ رَآيْتُمُوهُ وَآنتُمْ
 تَنْظُرُونَ ﴿۷﴾

تم تمنا کرنا اور موت سے پہلے تمہیں
 اسے دیکھنا تو تمہیں اسے دیکھنا
 ہوا اور تم اسے دیکھ رہے تھے۔
 (۷)

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۖ قَدْ خَلَتْ مِن
 قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَأَبْرَأُ مِنَ
 الَّذِي أُخْلِقُكُمْ وَأَنَا عَلِيمٌ
 بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۸﴾

محمدؐ تو رسول ہے۔ اس سے پہلے
 رسولوں نے آئے ہیں۔ کیا میں
 ان سے بے پروا ہوں جو اللہ نے
 تمہیں پیدا کیا ہے اور میں ان کی
 کیا کرتوتوں سے واقف ہوں؟
 (۸)

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ
 اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا ۚ وَمَن يُرِدْ
 ثَوَابَ
 الذُّنْيَانِ لِيَمُنَّ بِهَا ۖ وَمَن يُرِدْ
 ثَوَابَ
 الْآخِرَةِ لَنُؤْتِيهِ مِنْهَا ۖ وَ سَنَجْزِي
 الشُّكْرِيْنَ ﴿۹﴾

ہر نفس کو موت سے پہلے اللہ کے
 حکم کے بغیر نہیں مرنا دیا جاتا۔
 اور جو دنیا کی زندگی کے ثواب
 چاہے وہ دنیا کی زندگی میں
 ان کے ثواب سے لے لے گا اور جو
 آخرت کی زندگی کے ثواب چاہے
 اللہ ان کے ثواب سے لے لے گا۔
 (۹)

وَكَايِنٍ مِّن نَّبِيٍّ قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ
 كَثِيرٌ ۖ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا
 ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿۱۰﴾

اور کئی نبیوں نے اپنے پیروؤں کے
 ساتھ شہید ہوئے اور ان کے پیرو
 یوں نے ہمت نہ ہاری اور نہ
 کمزور ہوئے اور نہ ہار گئے۔
 اللہ صابروں کو پسند کرتا ہے۔
 (۱۰)

وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا
 اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِي
 أَمْرِنَا ۚ وَ تَبَتَّ أَفْئِدَتُنَا وَ انصُرْنَا عَلَى

ہم نے کہا تو ہمارے رب! ہمیں
 اپنی گناہوں اور اسرافوں سے
 بخش دے اور ہمارے دل کو
 ہمت سے لیس دے اور ہمیں
 ہمارے دشمنوں پر فتح عطا کر دے۔

الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿۳۰﴾

فَاتَّخَذْتُمُ اللَّهَ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحَسَنَ
ثَوَابِ الْآخِرَةِ ، وَ اللَّهُ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ﴿۳۱﴾

۱۵
۱۶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَطِيعُوا
الَّذِينَ كَفَرُوا يَزِدُّكُمْ عَلَى
أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿۳۲﴾

بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴿۳۳﴾

سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا
الزَّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ
بِهِ سُلْطَانًا ، وَمَا لَهُمُ النَّارُ وَيَسَّ
مَثْوَى الظَّالِمِينَ ﴿۳۴﴾

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدًا إِذْ تَحُسُّوهُمُ
بِأَذْنِهِ ، حَتَّى إِذَا فِشَلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ
فِي الْآمِرِ وَعَصَيْتُمْ مَن بَعْدَ مَا
أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ ، مِنكُمْ مَن يُرِيدُ
الدُّنْيَا وَمِنكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ،
ثُمَّ صَرَّفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ، وَلَقَدْ
عَفَا عَنْكُمْ ، وَ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۵﴾

سَازِ قَدَمِ تَهْ كَافِرَن خِلَافِ كِرَامِهِ مَدِي -
اتھ پیٹھ دُبیت جمن اللہ (تعالیٰ) ہن دُنیہ ہک
بدلہ (تہ) اُخترتک جاد رت بدلہ (تہ) - تہ اللہ
(تعالیٰ) چھہ اصمان کرن والین لول بران۔

اے ایماندارو! ہر گاہ توہی جمن لوکن خیر فرما نہ راکا
کرو ایم کافر چھہ تہ تم پھرنو توہر پوت کھوری
والیس نیہ کنی توہی گاٹہ تلن والہو منفر بنو۔

(توہی چھو نہ خاہ تلن والی) بلکہ چھہ اللہ (تعالیٰ)
تہند مدگار تہ سہ چھہ سایہ وہے مدد کرن والہو
کھوتہ جاد رت۔

ایم لوکہ منکر چھہ ، اسی تراوو تہندین دن اندر بے
شک ثابت۔ او مومکھ نہ تمو چھہ سہ چھہ اللہ
(تعالیٰ) سد شریک مھہرومت - بیج تھو کاہنہ
دیل نازل چھہ کر مہتر۔ تہ تہند ٹھکانہ چھہ ناز
تہ ظلمن ہند ٹھکانہ کوتاہ خراب چھہ۔

بہ کور اللہ (تعالیٰ) ہن توہر سستی بین وعدہ
بے شک پور (تمہ وقتہ) - بیلہ کہ توہی تمہ بند
کھمہ تم مارک مارک فناہ اُسوکھ کران یوتانی نہ
- بیلہ توہر ڈبجیر تروو تہ (رسول اللہ بندہا)
حکس متعلق کورو پانہ وافی جگڑ تہ یہ کینڑھا
توہی بیٹھان اُسو، تھو اوسو تہ توہر ہوومت
تمہ پتہ کورو (توہر) نافرمانی۔ (تہ تھو کور بین
مدد بند) کیبہ اسی توہر منر دنیا تھانڈہ وئی
تہ کیبہ اسی توہر منر آخرت تھانڈہ وئی - پتہ
بیجا وکی و تھو توہر تہنر آزمائش کرنہ مومکھ
تھن (دشمنان) ہند حملہ ہنہ - بہ چھو تھو
یقینا توہر معاف کورمت تہ اللہ (تعالیٰ) چھہ
مومین پیٹھ بارہ فضل کرن وول۔

بیلہ توہر دو ان تران اُسی و تہ کانیہ کن اُسی و تہ

إِذْ تَضَعُ دُونَكَ لَتَأْتِيَكَ عَلَىٰ سَاقِ

وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَاكُمْ
فَأَنَّا بَكُمْ عَمَّا يَعْبُوكُمُ لِكَيْلًا تَحْزَنُوا
عَلَى مَا قَاتَلْتُمُ وَلَا مَا آصَابَكُمْ وَاللَّهُ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۸۵﴾

پوت چہرہ تہ نظر تہ دیوان، حالانکہ رسول اوسو توہہ
تہنہنر مار وہے کھوتہ پتو سہہ ہماثر مشر (وودہن)
آلو دیوان۔ اتھہ پیٹھ دیوتہ تہ (اللہ تعالیٰ ہن)
توہہ اکر عمر بدل بیکہ اکھ عم بیتھ یہ کیشہا توہہ
نش اتھہ گوتمت پتھ تہ لیس (دوکھ) توہہ وومت
پتھو تھہ پیٹھ گرتھو نہ توہی عملین تہ یہ کیشہا
توہی کران چھو، اللہ (تعالیٰ) پتھ تہ پلور پاتھ

زانان۔

پتہ کر تہ امر عمر پتہ توہہ پیٹھ دل دنجہ تھون
واجبہ حالت یعنی بندہ نازل یوسہ توہہ مشر
اکس دوس پیٹھ حاوی سپدان اس تہ اکھ دور
اوس بیتھ نہ تم اسی تہند لو زوو فکر مند کر تھہ
تھاوک ہتی۔ تم اسی اللہ (تعالیٰ) ہس نسبت
جاہلیتہ (کر زبانہ) کین عثمان ہندک پاتھ اپزک
گمانہ کرن۔ تم اسی زبانہ، کیا حکوتس مشرہا
سون تہ کینہ (دخول)؛ تہ ونکھ (ز) حکومت
چھ سر سالم اللہ (تعالیٰ) سترہے۔ تم (مناقی)
چھ پنہن دن اندر تہ کیشہا کھان یہ نہ تم تہ
نش ظہر کران چھہ۔ تم چھہ دیان اگر سون (تہ)
حکوتس مشر کینہ دخل آسہ تہ اسی گرتھ ہو
نہ سہن مار۔ تہ ونکھ ہر گاہ توہی پنہن گرن
اندر (تہ) روزہ ہو۔ توہہ بین لوکن پیٹھ لڑائی
کر تہ فہن کر تہ آہتر چھہ۔ تم آسہ ہن (قبول
سپتھ) پنہن لر تراوہ چہن جاین کن ضرور
درامتی بیتھ اللہ تعالیٰ بین حکم پلور کرہے) بیہ
بیتھ یہ تہندین وچہن اندر چھہ اللہ تعالیٰ کرہے متع
از مالیش تہ یہ کیشہا تہندین دن اندر چھہ تھہ کرہے فہ
(تہ پاک)۔ تہ اللہ تعالیٰ چھہ وچہن ہنر کتہ تہ زہر پاتھ زانان
نیہ دوہہر دولوسے فوج اکھ اکیس بیتھ لجاہہ تمہ
دوہہر یو توہہ مشر تھہر پھریاہہ تم یہ تھہاہ

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ
أَمْنَةً نُعَاسًا يَخْشَى طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ
وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ
يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ
الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ
الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ
لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا
يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَان لَنَا
مِن الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قَاتَلْنَا هُنَا قُلْ لَوْ
كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ
كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى
مَضَاجِعِهِمْ وَ لِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي
صُدُورِكُمْ وَ لِيُمَحِّصَ مَا فِي
قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ
الصُّدُورِ ﴿۸۶﴾

لَا الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى
الْجَمْعِينَ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ

يَبْخُسُ مَا كَسَبُوا ۗ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿۵۱﴾

۱۶

شیطان صرف تہندلو کینشو اعمالو کئی پچھ تراوی تہ ووژی پچھ اللہ (تعالیٰ) ہن بے شک تمہن معاف کوزمت۔ اللہ (تعالیٰ) پچھ یقیناً سبھاہ بخشن بار (تہ) برد بار (یعنی تہ برد کرن وول)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا ذَا قُلُوبٍ مَّرِيضِينَ ۚ وَإِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُرُبًا لَوْ كَانُوا عِنْدَ نَاكِمَاتِ مَا كَانُوا وَاقِعِينَ ۚ وَمَا قَتَلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ۚ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۵۲﴾

اے ایماندارو! توہر مہ بنو تمہن لوکن ہندک پامٹو ہم کافر گاہتر پچھ تہ سینہن باین متعلق چھ دپان بینہ زن تمہن ملکس منز (جہاد کر غرضہ) سفرس نیلن چھ، زہر گاہ ہم اسہ بش روز ہن تیلہ نہ مرہن تہ نہ میہن قول کرنہ پچھ اللہ (تعالیٰ) تمہن ہنر (اکتھ) تہندس دلس منز حسرتک باعث بناو۔ تہ اللہ (تعالیٰ) ہے) پچھ زندہ کرن تہ مارن۔ تہ یہ کینشہا توہر کران پچھو اللہ (تعالیٰ) پچھ تہ وچھان۔

وَلَمَّا قَتَلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْلَادَكُمْ كَمَا كَفَرْتُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿۵۳﴾

ہر گاہ توہر اللہ (تعالیٰ) ستر و تہ منز قبل کرنہ بیو یا مسرو تہ یقیناً آسہ اللہ (تعالیٰ) ہنر بخشش تہ رحمت سبھا بہتر تمہ کھوتہ یہ تمہ جمع کران چھ۔

وَلَمَّا قَتَلْتُمْ أَوْلَادَكُمْ لَآ إِلَى اللَّهِ تُخْشَرُونَ ﴿۵۴﴾

ہر گاہ توہر مسرو یا قبل کرنہ بیو تہ توہر بیو بے شک (صرف) اللہ (تعالیٰ) ہس کئے سوتوہ

فِيمَا رَحِمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿۵۵﴾

اد تہ چھکھ تمہ تمہ شاپہ رحمتہ کر باعثہ (کئی) یوسہ اللہ (تعالیٰ) ہند طرفہ (ثریہ) دنہ آہتر پچھ، تمہن کیت نرم (دل) واقعہ سپدنت۔ تہ اگر تہ بد اخلاق تہ سنگ دل آسہ کھ تہ ہم لولک تہ ہن تریہ بش (تہ گزہ ہن پھلہ چھانگر) لہذا تہ کر تمہن معاف تہ تہندہ خاطر منگ (خلاس) بخشائیش تہ حکومتہ (کین معاملن) منز آس ہن سبتو مشور کران (یعنی تمہن آس مشورہ ہوان) پتہ بینلہ تہ (کتہ کتہ ہند) پونختہ ارادہ کرکھ تہ اللہ (تعالیٰ) ہس پچھ کر توکل۔ اللہ

(تعالے) چھ توکل کرن والین سستی اول ورتاوان ہرگاہ اللہ (تعالے) توہمہ مدد کرک و تہ توہمہ پیٹھ (ہیکر) نہ کاہنہ غالب (بیٹھ) - تہ اگر سہ توہمہ مدد کرن تراوتیلہ کس چھ یس توہمہ تس پتہ مدد کرک و - تہ مؤمنس پتر اللہ (تعالے) ہس پیٹھ توکل کرن -

بہ چھنہ کانسہ نبی ہندس شانس یہ شایان ز سہ کر کر خیانت تہ یس شخص خیانت کر سہ کر پسنہ خیانتہ سستی حاصل کورمت (مال) قیامتہ دوہہ پانے نون - پتہ پیہہ پر ہتھ کاہنہ زوس (تہ) پلور پلور دہوہ یہ تھو کورمت آسہ تہ تمن پیٹھ پیہہ نہ کاہنہ ظلم کر تہ -

کیا یس شخص اللہ (تعالے) ہندس رضا ہس پتہ چھ پکان، ہیکیا تس شخصس ہو آستہ؟ یس اللہ (تعالے) ہند طرفہ (تازل سیدن وول) غضب ہتھ واپس پھیر تہ تسد ٹھکانہ آسہ جہنم تہ سہ جائے چھیہ (روز نو کہ حساب) سٹھا ناکارہ تم (لوکھ) چھ اللہ (تعالے) ہس بش مختلف درجن پیٹھ - تہ یہ کیشرھا تم کران چھ اللہ (تعالے) چھ تہ وچھان -

اللہ (تعالے) ہن چھ مؤمنن پیٹھ یقینا احسان کورمت نیلہ تھو تمن کن تھوے منتر اکھ رسول سوز، یس تمن تسندرک آسہ پرتھ بوز نادان چھ تہ تمن پک کران چھ بہ چھ تمن کتاب تہ حکمت ہنچنا وول، تہ تم آسہ (امر بروٹھ) بے شک نہر (وانہ) گھراہی منتر (پیٹھ) -

بہ کیا (یہ چھنا پوز؟ تہ) نیلہ (تہ) توہمہ کاہنہ بیٹھ تکلیف ووتوہیمہ دوگنہ توہمہ (پانہ) واتورمت اوسو تہ توہمہ ووتوہیمہ ز یہ کسہ پیٹھ چھ (امت) - تہ وول (تمن) ز سہ چھ (پانہ) تہنہد پینہ طرفہ

إِنَّ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۚ وَإِنَّ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَاعْلَىٰ اللَّهُ فَالْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٦١﴾

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَخْلُفَ، وَمَنْ يَخْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦٢﴾

أَفَمَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَا دُهُ جَهَنَّمَ ۚ وَرِئُوسَ الْمُصْبِرِينَ ﴿١٦٣﴾

هُمُ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٤﴾

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَوْفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿١٦٥﴾

أَوَلَمْ آصَابْكُمْ مِصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا ۚ قُلْتُمْ إِنَّ هَذَا قُلٌ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦٦﴾

آمت - اللہ (تعالیٰ) چھ یقیناً پرچہ کتبہ پیٹھ
قودرت تھوں وول۔

بہہ نیمہ دو ہر دو لخمے جمانز اکھ اُکس بھہ لجاہ
(تمہ دو ہر) یہ (تکلیف) تو بہہ وا تراو وُسہ اوس
اللہ (تعالیٰ) ہندی حکمہ سستی (وومت) تر اہر
موکھ (وا تراو ویتھ) زسہ مؤہن نئی راوہے۔

بہہ نئی راوہے منافقن - تہ (منافقن) اوس
وتہ آمت زر وُلو اللہ (تعالیٰ) ہنر و سہ
کرو جنگ تہ (دشمنہ سندا حملہ) زکا وو۔ (بیتھ
پیٹھ) ہجو وون ز ہرگاہ اُسی جنگ کرن زانہ ہو
تیلہ بیہ ہو ضرور تو بہہ سستی۔ تم (لاکھ) اُسی
تمہ دو ہر ایمانہ کھوتہ کھرس جاہ نزدیک تم
اُسی پسنہو دلاو سستی تہ کینترھا وناں بہہ
تہندین دن منراوس۔ تہ یہ کینترھا تم کھسان
چھ اللہ (تعالیٰ) چھ تہ سار وہے کھوتہ جاہ
زانان۔

(یم چھ تم لاکھ) میوزن پسنہن باین متعلق
ترتھ حالتز منرا تر پانہ اُسی تم (پتھ) بہتھ
روزیہ، ونیاو، ز ہرگاہ تم سانی کتھ مانہ ہن
تیلہ بیہن تہ قبل کرنہ، تر ون (تمن) زاکر
توہر پز یاکر چھو تہ پسنہ پانہ ہتہ تاوہ
تون (وونی) موت تر لئاوتھ۔

یم لاکھ اللہ (تعالیٰ) ہنر و تہ منرا قبل کرنہ
آہتو چھ، تم مہ زانکھ مؤدر سستی۔ تم چھ
پسنس پروردگارن ہن زانہ (تہ) تمن چھ رزق
دنہ یوان۔

تم چھ تھہ پیٹھ خوش یہ اللہ (تعالیٰ) ہن
تمن پسنہ فضلہ سستی دیت مت چھ۔ بہہ چھ
تمن متعلق (تہ) خوش یم تمن پتہ تھ ونب
چھتہ تمن سستی رلے ہتہ (تکیاز) تمن (تہ)

وَمَا آصَابَكُمْ يَوْمَ تَلَقَى الْجَمْعِ
فِي آذَانِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۹۵﴾

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا ۖ وَقِيلَ لَهُمْ
تَعَالَوْا فَاقْتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ
ادْفَعُوا، قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّا
اتَّبَعْنَاكُمْ، هُمْ لِلْكَافِرِينَ مِيذَانٌ قَرِيبٌ
مِنْهُمْ لِأَلِيمَانَ يَقُولُونَ يَا قَوْمِ هُمْ
مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿۹۶﴾

الَّذِينَ قَالُوا لَّا خِوَانَ لَهُمْ وَقَعَدُوا
لَوْ آطَاعُونَا مَا قَتَلُوا، قُلْ قَادِرٌ ذَا
عَن أَنفُسِكُمُ الْمَوْتِ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ﴿۹۷﴾

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ أَمْواتًا، بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ
يُرزَقُونَ ﴿۹۸﴾

فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ،
وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا
بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، الْآخِوْفُ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۹۹﴾

تہندیں مذہبی بائیں) آسہ نہ کاہنہ خوف تہ
نہ آس تم غمگین۔

تم چھ خوش سپدان تھہ بجز نعمت پٹھہ لوسہ
اللہ (تعالیٰ) بندہ طرفہ (تمن عطا) سپز مٹر چھینہ
تہ (تہندس) فطلس پیٹھہ تہ تہ اتھ کتھ پیٹھہ تہ تہ
اللہ (تعالیٰ) چھتہ مؤمن بند اجر ضایع کران۔

یو لوکو اللہ (تعالیٰ) تہ تہندس رسولہ سند حکم
پانہ چھو کہ لہ گشہنہ پتہ (تہ) قبول کور۔ تمونہز
یو بین فرض رتی پاٹھہ تکہ وول تہ تقویٰ پروو
تہندہ خاطر چھہ بوڈ اجر۔

(پم چھ) تم (لوکھ) بین دشمنو ویاوہر لوکو چھہ
توہر خلاف (شکر) جمع کورمت او کوز کھوڑو توہر
تمن۔ اد اُم (کلان) ہر روو بیہ من تہ تہند
ایمان تہ تمو وون نہ سائہ خاطر چھہ اللہ (تعالیٰ)
کافی۔ تہ سہ کوتاہ رت کار ساز چھہ۔

لہذا پھیرک تم اللہ (تعالیٰ) بندہ طرفہ کہہ لوفقتنا
ورایہ بیڑ نعمت تہ بوڈ فضل ہتھہ واپس۔ تہ تم
بجز اللہ (تعالیٰ) تہندس رضہ ہس پتہ تہ اللہ
(تعالیٰ) چھہ بوڈ فضل کرن وول۔

یہ (کھوڑو ناون وول) چھہ صرف (اکھ) شیطان
سہ چھہ پسنین دوستن کھوڑو ناوان۔ اگر توہر
مؤمن چھو تہ بیکن (شیطان) مہ کھوڑو تہ
نیہ کھوڑو۔

بیہ پم لوکھ کفرس مفر وٹھہ (وٹھہ) بروہنہ
پکان چھہ تم مہ کزونی نہ تریہ غمگین۔ تم ہیکن تہ
اللہ (تعالیٰ) ہس ہرگز کاہنہ ضرر وائتاوتھہ اللہ
(تعالیٰ) چھہ بیہرہان نہ اترتس مفر تھوہ تہ تہند
باپتھہ کاہنہ حصہ۔ بیہ چھہ تہندہ خاطر بوڈ عذاب (تعالیٰ)
یو لوکو ایمان تراوتھہ کفر پروومت چھہ تم ہیکن
تہ اللہ (تعالیٰ) ہس کاہنہ ضرر وائتاوتھہ تہ تمن

بَسْتَنْبِشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِّنَ اللَّهِ وَ
فَضْلِهِ ۗ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ
الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۷﴾

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَالرَّسُولِ
مِّنْ بَحْدٍ مَّا آصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۚ
لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا
أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿۱۸﴾

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ
النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا كُمْ فَاخْشَوْهُمْ
فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا
اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿۱۹﴾

فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلِهِ لَمْ
يَمَسَّسْهُمْ سُوءٌ ۚ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ
اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿۲۰﴾

إِنَّمَا ذُكِرَ الشَّيْطَانُ يَخْوَفَ أَوْلِيَآءِهِ ۚ
فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا مِنَّا ۚ إِن كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ ﴿۲۱﴾

وَلَا يَحْزَنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي
الْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَن يُضِرُّوكُمُ اللَّهُ شَيْئًا
يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي
الْآخِرَةِ ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۲۲﴾

إِنَّ الَّذِينَ اسْتَرَوْا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ
لَن يُضِرُّوكُمُ اللَّهُ شَيْئًا ۚ وَلَهُمْ

عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۳۷﴾

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا
نُمِيلُ لَهُمْ خَيْرًا لَّا لِنَفْسِهِمْ. إِنَّمَا نُمِيلُ
لَهُمْ لِيُبْزَدُوا أَثْمًا. وَ لَهُمْ عَذَابٌ
مُّهِينٌ ﴿۳۸﴾

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا
أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَاتِ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ. وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُطِيعَكُمْ عَلَى
الْغَيْبِ. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَخْتَصِي بِمَنْ يُرِيدُ
مَنْ يَشَاءُ. مَرَفَاتٌ مِّنْهُ. وَ اللَّهُ وَدُّ سَلِيمٌ. وَ
إِنْ تَوَلَّوْا فَنُؤَادٌ يَلْعَنُكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿۳۹﴾

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا
أَنْهَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ. بَلْ
هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ. سَيُطَوَّقُونَ مَا
بَخُلُوْا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ
السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ. وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ ﴿۴۰﴾

۱۸
۹

لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ
اللَّهَ فَقِيرٌ وَ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ. وَ سَكَتُ بِكَ
مَا قَالُوا وَ قَتَلَهُمْ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ
حَقٍّ. وَ تَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿۴۱﴾

کیت آسہ کر لو گھ عذاب۔

بہ یہ ہم لوگھ کافر چھ ہم مہ زانن نہ سون تم دیکھ
تراون چھ تہندین زون ہند خاطر جان۔ اسی
یس دیکھ تم تران چھ۔ تمیک نتیجہ آسہ
صرف (تہند) گوناہن منتر جاو ولہن ین تہ
تہند خاطر چھ روا کرن وول عذاب (مقدر)۔

(یہ) اوس نہ ممکن (ہے) نہ یہ سہ ساس پیٹھ
تو ہی (لوگھ) چھو اللہ (تعالیٰ) تراوہے (توہر
ہوین) موبن تھو پیٹھ۔ یوتانی سہ (اللہ تعالیٰ)
ناپاکن پاکو نشہ بیون کڈتھ دیہ ہے تہ۔ اللہ
(تعالیٰ) بیکہ ہے تہ توہر غایس پیٹھ آگاہ کر تھ۔
وہ ڈگوو اللہ (تعالیٰ) چھ تراون پینو رسولون
یس پترھان چھ او کو اوتوہر ایمان اللہ
(تعالیٰ) ہس تہ تہندین رولون پیٹھ۔ تہ اگر توہر
ایمان اوتو تہ تقویٰ پر اوو توہر میلہ و یوز اہر۔

بہ یہ ہم لوگھ تھہ (یعنی مالہ کس دس) منتر یس
اللہ (تعالیٰ) ہن تمہن پینہ فضلہ سستی دیت
چھ۔ بخل کران چھ۔ ہم مہ زانن ہرگز (یہ) پینہ
خاطر جان بلکہ چھ یہ تہ تمہن کیت ناکار۔ بین
مالن منتر ہم بون نخل کران چھ، قیامتر دوہر پیہ
یقیناً تمہن ہنزر بناوتہ (تہ پیہ تہندین ہن منتر
تراونہ) تہ آسان ہند تہ زمینہ ہند میراث چھ اللہ
(تعالیٰ) ہند خاطر ہے تہ یہ کینترھا، توہر کران چھو
اللہ (تعالیٰ) چھ تمہ نشہ باخبر۔

یہو لوگو (یہ) وومنٹ چھ نہ اللہ (تعالیٰ) تہ ہے
چھ محتاج تہ اسی چھ آسن اول۔ اللہ (تعالیٰ)
ہن چھ تہنتر (یہ) کتھ وار پاٹھ یوز مہتر۔ اسی
تھوہو تمہن ہنزر یہ کتھ بہ تہند نا حقہ نبی قول
کرنس پتہ روزن لے شک لیکتھ تہ اسی وونون
دزنگ عذاب تہ شو۔

ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ آيِدِيكُمْ وَ أَنْتَ اللَّهُ
لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿۳۸﴾

الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عِندَنَا آيَاتٌ
وَأَنْتَ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْآنٍ
تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن
قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَ بِالذِّكْرِ قُلْتُمْ
فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۹﴾

فَإِنْ كَذَّبْتُمْ فَسَقَدْتُمْ كَذَّبْتُمْ
قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَ الذِّكْرِ
الْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿۴۰﴾
كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ، وَ إِنَّمَا
تُؤْتُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ،
فَمَنْ رُحِزَ عَنِ النَّارِ أَدْخِلَ الْجَنَّةَ
فَقَدْ فَازَ ، وَ مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ
الْغُرُورِ ﴿۴۱﴾

لَتُحْلَوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ
لَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن
قَبْلِكُمْ وَ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا آذَى
كَثِيرًا ، وَإِنْ تَضَيَّرُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ
مِن عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿۴۲﴾

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ

یہ (عذاب) آسہ تمہ کہ سبب یہ (کثیرشہا) تہمت دلو
اتھو بروٹھ کن سوزمت چھ تہ حق چھ یہ نہ
اللہ (تعالیٰ) پھنہ بندن پیٹھ ظلم کران ۔

یہ لوگو وو منت چھ نہ اللہ (تعالیٰ) ہن چھ اسہ
یقینا سنا کہدی حکم و سیت نہ اسی مانو نہ (تھ و قس
نام) کانہ رسولہ ستر کتھ یوتانی نہ سہ ترشہ
قریبانی (ہند حکم) انہ سیتھ نار کھوان لہ آسہ ۔ تہ
ون (جن) نہ کہو یا رسولو چھ توہہ نش میہ بروٹھ
ٹاکار نشانہ اذی ہو ۔ بیہ سہ (پچیر) تہ یس توہر
بیان کران چھو ۔ اہر توہر پڑیا کر چھو تہ تم قہل
کرنس کیا نہ لجاو پستہ ؟

پستہ اگر تم تہہ اپزانو اہ (توتہ کیاہ گوہ) تہہ
بروٹھ تہ چھ کہو یا رسول اپزانو آہو کیو ٹاکار
نشانہ تہ ہایت نامہ ، بیہ پر نہ لونہ شہ پشتر انیاہ
پر سیتھ کانہ نہو چھ مونک مسز ترش وول تہ
توہہ بیو صرف قیامتہ دوہہ تہندی (یعنی تہہ
اعمالن ہندی) پورہ بلہ دہہ ۔ اہ یس نارہ نشہ
دور تھونہ بیہ تہ جنس مغز داخل کرنہ بیہ سہ
سید کامیاب تہ دنیاوی زندگی (ہند سامانہ) چھ
صرف فریب دہہ وول عارضی سامانہ

توہہ بیو تہندی مالو تہ زوو کئی ضرور آزوادہ
بیہ بوزو توہہ ضرور تمہن لوکن نش میں توہہ بروٹھ
کتاب دہہ آہتر اس ، بیہ تمہن نش (تہ) ہم
مشرک چھ سبھا اذیت (دہہ واجنہ کتھ)
تہ اگر توہہ صبر کرو تہ تقویٰ پراوو ، تیلہ چھہ
یہ یقینا ہمتہ چھو کامہو مشرک ۔

بیہ (کرو سہ وقت یاد) سبیلہ اللہ (تعالیٰ) ہن

لہ مراد چھ سوختنی قومہابی ۔ یمیک رواج ہندیں ، یہودیوں تہ ایمانی مؤمن مشراوس
تم اسی قومہابی کر تھہ نارس مشرزلان ۔

أَذْتُوا الْكُتُبَ لَتَبَيِّنَنَّهَ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبَيَّسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿۳۸﴾

تَمَنُّ لَوْ كُنْ يَمِينِ كِتَابٍ دِنْرَ آمَنْرٍ حَبِيْبِيْ . عَمْدٌ مَبْتَرُو
نَرِ تَوْبِيْ كُرْبُوْلِيْنَ يِي (كِتَاب) صُرُوْر لَوْ كُنْ نَشْ نَشْرُ
تِي يِي تَهْمَاوَلُوْلُنْ نِيْ كَهْمَا تَهْ زَانِهِيْ . مَكْرَتَمِيْ بَاوَبُوْدُ دِيْر
تَمُوْسُوْ سِيْنِيْ تَهْتَرُ يِيْتَهْ كُنْ دَارَتَهْ تِيْ سُوْ تَرَاوَتَهْ
رُوْمَكُهْ كَم (كَيْتَرَهَا) مَوَلُ . يِي كَيْتَرَهَا تَم رِيْمَان
يِي حِيْجِهْ سُوْ كُوْتَاهْ نَاكَارِ يِي حِيْجِهْ .

لَا تَخْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَاوَا وَيُحِبُّوْنَ أَنْ يُحْمَدَ ذَا إِمَالِهِمْ يَفْعَلُوْا فَلَا تَخْسَبَنَّهْمُ بِمَفَاظِرِهِمْ مِنَ الْعَذَابِ . ذَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ﴿۳۹﴾

تِيْ تَمَبْنِيْ بَا يِي حِيْجِهْ كُرْبُوْلِيْ حِيْجِهْ عَذَابِ (مَقْدَر) .
بِيْ آسْمَانِ تِيْ زَمِيْنِيْ مَبْتَرِ حَكُوْمَتِ حِيْجِهِيْ اللّٰهُ (تَعَالَى)
نَبْرِيْ تِيْ اللّٰهُ (تَعَالَى) حِيْجِهْ بَرِيْجِهْ كَهْتِيْ يِي حِيْجِهْ پَلُوْر
يَا طَهْمُوْ قَادِرِ .

ذِيْلَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ . وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۴۰﴾

آسْمَانِ تِيْ زَمِيْنِيْ مَبْتَرِ يِي حِيْجِهْ پَلُوْر كَرْنِ ، تِيْ رَاكْتِهْ تِيْ دُوْه
يِي حِيْجِهْ بَرُوْنِيْ حِيْجِهْ يِي حِيْجِهْ مَبْتَرِ حِيْجِهْ عَقْلِيْ وَالِهِيْ مَبْتَرِ بَا يِي حِيْجِهْ
پُرُوْرِيْ يَا طَهْمُوْ كَبُوْرِيْ يَا بَشَانِيْ (مَوْجُوْد) .

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاٰخْتِلَافِ الْاَنْبِيَآءِ وَالنَّهَارِ لَآيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ﴿۴۱﴾

رَمِّ عَقْلِيْ وَآلِي) يِي مَوْجُوْدِيْ تِيْ مَبْتَرِهْ ، تِيْ مَبْتَرِهْ ، تِيْ مَبْتَرِهْ
لَرْنِ يِي حِيْجِهْ رُوْزَتَهْ تِيْ اللّٰهُ (تَعَالَى) مَبْتَرِ يَادِرْ لَرْنِ
(رُوْزَان) حِيْجِهْ . بِيْ آسْمَانِ تِيْ زَمِيْنِيْ مَبْتَرِ يِي حِيْجِهْ
يَادِرْ كَرْنِ مَبْتَرِ حِيْجِهْ مَبْتَرِ سُوْحِيْنِ كَامِ مَبْتَرِ يِي حِيْجِهْ
(بِيْ حِيْجِهْ وَنَانِ زِي) اِيْ سَانِيْ پَرُوْر دِيْ كَارِ ! تَرِيْ
كُوْرِيْ تَهْ يِي (عَالَم) بِيْ قَائِيْ يَادِرْ تَرِيْ حِيْجِهْ كَه
(بَرِيْجِهْ بِيْ مَقْصِدِ كَامِ كَرْنِيْ بَشَرِيْ) يِي حِيْجِهْ . لَهْنِيْ
بِيْ حِيْجِهْ اِسْمِ تَرِيْ نَا كَرِيْ عَذَابِيْ بَشَرِيْ (بِيْ حِيْجِهْ بِيْ حِيْجِهْ سَانِيْ
زَنْدِيْ بِيْ مَقْصِدِ بَشَرِيْ بَشَرِيْ) .

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ . رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا . سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۴۲﴾

اِيْ سَانِيْ پَرُوْر دِيْ كَارِ ! يِي حِيْجِهْ تَرِيْ نَارِ اِنْدَرِ تَرَاوِيْنِ سُوْ
كُوْرِيْ تَهْ تَرِيْ يِي حِيْجِهْ ذِيْلِ تِيْ حِيْجِهْ مَبْتَرِ اِسْمِ
تِيْ كَانِهِيْ تِيْ مَدِدْ كَارِ .

رَبَّنَا اِنَّكَ مَن تَدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اٰخَرْتَهُ ، وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِّنْ اَنْصَارٍ ﴿۴۳﴾

اِيْ سَانِيْ پَرُوْر دِيْ كَارِ ! يِي حِيْجِهْ تَرِيْ نَارِ اِنْدَرِ تَرَاوِيْنِ سُوْ
كُوْرِيْ تَهْ تَرِيْ يِي حِيْجِهْ ذِيْلِ تِيْ حِيْجِهْ مَبْتَرِ اِسْمِ
تِيْ كَانِهِيْ تِيْ مَدِدْ كَارِ .

رَبَّنَا اِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي

اِيْ سَانِيْ پَرُوْر دِيْ كَارِ ! اِسْمِ حِيْجِهْ بُوْرْمَتِ بِيْ شَكِ

يَلِدَا يَمَانٍ أَنْ آمِنُوا بِنِعْمَةِ رَبِّنَا فَأَعْمَلُوا صَالِحًا
رَبَّنَا فَاعْرِضْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا
سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْآبِرَارِ ﴿۱۷﴾

تیس ناد دینہ والی سند آلو میں ایمان (دینہ)
تھا طر ناد دوان چھ (تہ ونان چھ) زہ سنس
پروردگار الٰہ ایمان۔ لہذا اسے اولن ایمان۔ او
کون، اے سائے پروردگار! تڑ کر سائی قفطور
معاف تہ سائے بدہ بیکھ اسے نش و تھراوتھ
تہ اسے دینیک سنتی (رلاوتھ) وفات۔

(بیس) اے سائے پروردگار! اسے دینہ (کیتھا)
تیمیک تڑیہ سنس رسولن (ہنر زبانی) اسے سنتی
وعدہ کوروت چھتھ۔ تہ قیامتہ دہ ہر کرک زہ نہ
اسے ڈیل۔ تڑ چھکھ نہ زانہ سنس وعدہ خلاف
کران۔

چنانچہ، تہندک پروردگار لوز تہند (دعا، یہ
ونان) زہ یہ کر نہ توہر مشر کائسہ عمل کران والی
سنر عمل ضایع او (سہ) مرد آسرتن یا
زنان۔ توہی بھو اکھ اُکس سنتی (تعلق تھون
والی)۔ لہذا بکو ہجرت کر تہ تم آہ تہند بو
گرو اندر کر نہ تہ میانہ وتہ مشر او تھن کلکف
دینہ تہ تھو کور جنگ تہ آہ قبل کر نہ۔ بہہ مٹاؤ
یقینا تہنہر بڑیہ (یعنی تھن بدین بند اثر)
تھن نشہر تہ یہ کرکھ تم بے شک تھن بائن
مشر وائل بکن مشر نہر پکان آسن۔ اللہ
(تعالیٰ) ہند طرف میلہ تھن (یہ انعام) بدلہ
کیت۔ اللہ (تعالیٰ) تہ چھ سہ بیس بش
رہ تہ کھوتہ رت جزا چھ۔

یم لکھ کافر چھ تہند ٹکس مشر نے پھروک
چھین بیتھن تڑیہ دوکس مشر تراوی۔

یہ چھ عارضی نفع بیہر پتہ تہند ٹھکانہ جہنم
آہ تہ سہ چھ سبھو ہے۔ بچھ ٹھکانہ
وہ فی گوو کیو لوکو سنس پروردگار سند تقویٰ

رَبَّنَا آتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَ
لَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا
تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿۱۸﴾

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ
عَمَلَكُمْ غَائِلٌ مِّنْكُمْ مَّن ذَكَرَ إِذْ أُنزِيَ
بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَا جَرُوا
وَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ أُذْذُوا فِي
سَبِيلِنَا وَ قُتِلُوا وَ قُتِلُوا الْكَافِرِينَ عَنْهُمْ
سَيِّئَاتِهِمْ وَ لَا ذُخْلَنَّهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْآبَاءُ نَهْرٌ ۖ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ
اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿۱۹﴾

لَا يَغُرُّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي
الْبِلَادِ ﴿۲۰﴾

مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَ
يُسِسُ الْمَهَادُ ﴿۲۱﴾
لِكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ


جَعَلْتُكَ تَجْعِدِي مِنْ تَحْتِهَا الْآنْهَرُ
خَلِيدِينَ فِيهَا نَزَلَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا
عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لَّا بَرَارٍ ﴿١١﴾

پروومت چھ تہندہ خاطر چھ تھو باغ یمو
منزری نہر پکان چھیہ - ہم روزن تمن اندر
ہمیشہ - اللہ (تعالیٰ) ہندہ طرفہ آسہ یہ
پڑھو لوزی ہندہ رنگہ ، تہ یہ کینشہا اللہ
(تعالیٰ) ہس ہس چھ تہ چھ نیک لوکن ہندہ
خاطر بہ تہ رتے۔

وَأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ
إِلَيْهِمْ خُشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتُرُونَ بِآيَاتِ
اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٢﴾

تہ اہل کتابو اندر چھ کینشہ لوکھ لے شک تھو
(تہ) یم اللہ (تعالیٰ) ہس (پہچھ) بہ
یہ کینشہا) تہ ہر پہچھ نازل کرتہ آمت چھ تھہ
پہچھ) بہ یہ کینشہا تمن پہچھ نازل کرتہ آیاو
(تھہ پہچھ تہ) ایمان تھوان چھ ، تہ سستی چھ
اللہ (تعالیٰ) ہس برو تھہ کتہ عا جزی پراون
واکی - تہ اللہ (تعالیٰ) ہندہن آین بدل
چھنہ کم معول رمان - یم چھ تھو لوکھ مکن ہندہ
بدلہ تہندس پروردگار ہس تہندہ باچھہ (رڑھتھہ)
چھہ - اللہ (تعالیٰ) چھہ جلد حساب کرن وول۔
اے ایماندارو! صبرس ہنیو کام تہ (دُشمنہ ہندہ
کھوتہ جاد) صبر کروو تہ سرحدن ہنہر بگمانی کرو
بہ پراوو اللہ (تعالیٰ) سُد تقویٰ سیتھ
زن توہی کامیاب سپرو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اضْبِرُّوا وَ
صَابِرُوا وَ رَاطِبُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣﴾



سورة نساء، یہ سورہ چھ مدنی تہ بسم اللہ پہچھ چھ اھہ کھ تھہ تہ سستھہ آہ بہ چھس رڑوہ کروہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١٤﴾

(بہ چھس) اللہ (تعالیٰ) سُد ناو ہتھہ (پرلن) ہس
حدہ روس کرم کرن وول (تہ) چھہرہ چھہرہ رحم کرن
وول چھہ۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي
خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْهَا

اے لوکو! چھنس پروردگار سُد تقویٰ پراوو سیکر
توہی اکی جانہ اندر یاد کرکو و۔ تہ (صرف) تمہ

رَوَّجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رَجَالًا كَثِيرًا
وَرِيسَاءَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
رَقِيبًا ۝

(کہ جنسہ) نسبتہ کوڑن تہندہ جوڑ پآد۔ تہ پتہ پتہ
دھنویو لہندہ واریاہ مسرد تہ زنانہ (دنیہ ہس مشر
پآد کڑتھ) تیلر اولن۔ بیہ پراوو اللہ (تعالے)
سند تقویٰ (او کئی تہ) نہ تہندہ ڈسی چھو توہی
پانہ وانی سوال کران تہ خاص کڑتھ اُشناوی (ہین
معاملن) مشر (ہینو تقویٰ ہس کام) اللہ (تعالے)
چھ تہ ہر پٹھ بے شک بکران۔

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا
الْيَتِيمَاتِ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ
إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۝

بیہ دیو یتیم تہندہ مال تہ پاک (مال) کہ
بدلہ مسر رلو ناپاک (مال) تہ تہندہ مال مہکھیو
پنٹن مان سدی (رلاوتھ) پہ چھ یقینا بوہ
گوناہ۔

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ
فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي
وَوَلَّتْ وَرَبِّ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَحْدِلُوا
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ
أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝

بیہ اگر تہ ہر (پہ) خوف آسہ و نہ توہی ہیکو نہ
یتیم (ہندس حقس) مشر انصاف کڑتھ تہ یوہ ہر
(صورت) تہ ہر پسند بیو (کرو، یعنی غارتیم)
زنانو مشر کرو دوان دوان (سیدی) تہ ترہن
ترین (سیدی) تہ ترون ترہن سیدی نکاح۔ وونی
گوو اگر تہ ہر (پہ) خوف آسہ و نہ توہی ہیکو
نہ عدل کڑتھ، تیلہ کرو اگر ہسے (زنانہ) سیدی
یا تہن (کنہرن) سیدی ہم تہندہ اتھس مشر چھیہ
نکاح۔ (یہ طریقہ چھ اتھ کتھ) سیدھا نزدیک
نہ توہی بیو نہ ظالم۔

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ
طِبَّنَ لَكُمْ مَعْنَىٰ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ فَسَافِكُلُوهُ
هَيْنًا مَّرِيًّا ۝

بیہ کرو زنانہ تہندہ مہر خوش دلی سان ادا پتہ
اگر تم پسندہ دلچسپ خوشی سیدی تہ مشر کینترھا
تہ ہر دلو، تہ یہ ترہتہ نہ تہ چھ تہندہ مسر تہ
انجام کہ لحاظ نہ تہ، تہ کھیو توہی بلا شک۔

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ
اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝

تہ نافرہن مسر آسو دوان پتہ مال ہم اللہ (تعالے)
ہن تہندہ باپتھ آسر بناو کہ ہر چھ (دوان گوو)
تہو مشر آسینو کہ ہم کھیواں چواں بیہ (آسینو کہ)

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَغْفِرْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَحْسِيبًا ۝

پوشاک لاگان تہ بجا سز (تہ برہر) کتھہ اسیو کھو فان۔
 بیہ روزو یتیمین ہنر آزمایش کران توت تام یوت
 تام ہم خاندس (الایق واتسہ) واتن پتہ اگر
 توہی ہمیں اندر فہمیدگی (ہندر آثار) موہیو
 تہ تہندر مال دیو ہمیں واپس، تہ تہندر
 ہوان سپنہ (کرفہ) سستی مہ کھینو ہم (مال)
 نا بجا یز پانھی تہ ولی (ولی) تہ یس کاہنہ
 مالدار آسہ تس پز (یہ مال ورتا تہ ہنہ) دورے
 روزن۔ ووز گوو یس لاچار آسہ سہ کھینا
 مالہ منہ) متاسب رنگس منہ۔ پتہ ییلہ توہر ہمیں
 تہندر مال واپس کرو تہ ہمیں (تہ ہمیں) روہرو
 کرو گواہ مقرر تہ حساب ہنس کیت چھہ اللہ
 (تعالیٰ، کئے، کافی)۔

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۝

بیہ چھ مردان ہند (تہ) تہ زنان ہند تہ اکھ صہہ
 مقرر۔ تہہ (مالس) منہ یس تہندر مول موج
 تہ نزدیک آشنا پتہ کن تراوتہ گزہن۔ اہ تہ
 (تہرہ) منہ ہم آسہ نکومت یا جاہ۔ (یہ) چھہ
 اکھ گزہتہ صہہ یس (خدا تعالیٰ ہند طرفہ) مقرر
 کرہ امت چھہ۔

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْضُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝

بیہ ییلہ (تہرہ) باگراو تہرہ وقتہ (بہرکینہ)
 آشنا تہ یتیم تہ مسکین (تہ) یس تہ امہ منہ دیو
 ہمیں (تہ) تہ ہمیں ولو بجا یز (تہ برہر) کتھہ۔

وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ كُفْرًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ يُخْفُونَ ۚ فَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝

بیہ ہم لوکھ کھوژان آسن نہ اگر ہم پانس پتہ کن
 کمزور اولاد تراوتہ گئے تہ ہمیں کیا بہرہ؟ ہمیں پز
 (ہمیں یتیمین متعلق تہ) اللہ (تعالیٰ) سہندر
 نوحس کام، یس۔ بیہ پز نہ ہمیں وٹن صاف تہ سیز کتھہ۔

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۚ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۝

ہم لوکھ ظلمہ سستی یتیمین ہند مال کھوان چھہ ہم
 چھہ یقیناً ہمیں سڑن منہ چھراہ نار بران تہ
 ہم سہندر بے شک رہہر تہ صہو یس نارس منہ۔

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي آوَادِكُمْ لِلذَّكَرِ
مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً
فَوقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن
كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْيِي
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ
إِن كَانَ لَهُ وَكَدَّ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ
وَكَدَةٌ وَرِثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ
فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ
مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ
أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ
أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّن
اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿۵﴾

اللہ (تعالیٰ) چھ تہندین اولاد ہند حقہ توہم
حکم دون (زیرکس) مردہ مند (حصہ) چھ دون
زنان ہند حصس برابر، تہ اگر اولاد (پھراہ)
زنانہ آسن تہ وہ یو جاہ آسن تہ تہندہ خاطر
(تہ) چھ (تمہ بجایداک) یہ تمہی (مرن وائی)
چھ کن تر وومت آسہ، ترتیبہ منتر نہ حصہ (تہ)
مقرر تہ اگر (صرف) اکھ (زنان) آسہ تہ تہندہ
خاطر چھ (ترکک) نصف تہ اگر تس (مرن
وایس) اولاد آسن، تہ تہندس مایس ماجہ
ہند باچھ (تہ زن گوو) تمہ اندر پرتھہ اکھ
سند باچھ چھ تمہ ہند ترکہ منتر شمیم حصہ
(مقرر) تہ اگر تس اولاد آسن تہ تہ تہندہ
آسہ (صرف) تمہ سند مول موج تہ تہندہ ماجہ
چھ ترتیبہ حصہ (مقرر) - وہ فی گوو اگر تس
بائی (بینہ موجود) آسن تیلہ چھ تہندہ ماجہ کیت
شیم حصہ (مقرر - یک ساری حصہ سیک ادا)
تہندہ وصیت تہ (تہند) قرضہ (نکھ والنہ) پتہ
توہر چھو تہ زنانہ ز تہندین مایس (بزرگ بین)
تہ تہندین بیچون منتر کس چھ تہندہ باچھ جاہ
نفع واتنوں وول - اللہ (تعالیٰ) ہند طرفہ
چھ (یہ) فرض مقرر کرنہ آمت - اللہ (تعالیٰ)
چھ یقینا سبھا زنان وول (تہ) حکمتہ وول -
سہ یہ کیشرہا تہندہ آسہ تراوتہ گردھن اگر بہمن
اولاد آسن تہ تہ بہمن ہند (ترک) منتر چھ نصف
(حصہ) تہند - تہ اگر تہندہ اولاد (موجود) آسن
تیلہ یہ کیشرہا تمہ تر وومت آسہ تمیک چھ ژورم
(حصہ) تہند - (یک حصہ آسن) وصیت تہ تہندہ
قرضہ (نکھ والنہ) پتہ (چھ کن بیکہ ہمتہ مالہ
منتر) - تہ اگر توہر اولاد آسنو تہ تہ یہ کیشرہا
توہر چھ کن تراوتہ گردھو تمہ منتر چھ ژورم

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن
لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَكَدَّ ۚ فَإِن كَانَ لهنَّ وَكَدٌ
فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکُن مِن بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِيَن بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ
الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُم إِن لَّمْ يَكُن لَّکُم
وَكَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَکُم وَكَدٌ فَلَهُنَّ
الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُم مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ
تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ

يُؤَدَّتْ كَلَلَةً أَوِ امْرَأَةً وَلَئِن لَّمْ يَكُن لِّكَ إِخْوَةٌ فَأَخَذَتْ
 فَلَئِنَّ دَاجِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ ۖ فَإِن
 كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ
 فِي الثَّلَاثِ ۖ مِن بَعْدِ وَصِيَّةِ يُؤْصِي
 بِهَا أَوْ دَابِّينَ، غَيْرِ مَضَارٍّ ۖ وَصِيَّةٌ مِّن
 اللَّهِ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿۳﴾

(حصہ) بہن (آئینہ) ہند۔ تہ اگر تو بہ اولاد
 آسنو تہ یہ کیشہا تو ہی چھ کن تراوتھ گڑھو
 تمہ منڑ چھ اٹھم حصہ) تہند۔ (یکم حصہ
 آسن) وصیت تہ (تہند) قرضہ (نکھہ والنہ)
 پتہ۔ بیہ نیئیس مردہ سنڑ یا زنا نہ ہنرواٹ
 باگراوہ یوان چھہ اگر تس نہ آسہ مول تہ نہ
 اولاد مگر تس آسہ کانہہ بوسہ یا بیئہ تہ ہمو اندر
 چھہ پرہتھ کانہہ ہند شنیہم (حصہ) تہ والا تم
 جاوہ آسن تیلہ سپن تم (سدری) تر نیئیس حصہ
 منڑ شریک۔ (یکم حصہ سپن) وصیت تہ (من
 والی سند) قرضہ (نکھہ والنہ) پتہ (بچے متہ
 مالہ مطابق)۔ کانہہ گڑھہ نہ (اتھہ باگرس منڑ)
 ضرر و آناون مقصد آسن۔ تہ اللہ (تعالیٰ) ہند
 طرفہ چھہ یہ محکم (تو بہہ دہو یوان)۔ اللہ (تعالیٰ)
 چھہ یوہ زان وول تہ برد بار۔
 یکم چھہ اللہ (تعالیٰ) ہند (مقرر کرکے متی)
 حد تہ یکم لوکھ اللہ (تعالیٰ) تہ تہندس
 رسولہ سنڑ اطاعت کرن، بہن کر سہ بہن باغین
 منڑ دا نخل، بہن منڑ نہہر لیکان آسن تہ تم
 روزن ہمیشہ بہن اندر تہ بیہے چھہ بڑ کامیابی۔
 تہ نیئیس (شخص) اللہ (تعالیٰ) تہ تہندس رسولہ
 سنڑ نافرمانی کر، بیہ نیہر تہندو (گنڈ تھہ
 تہاوکہ متہو) (حد و نیہر تس کر سہ نازن منڑ دا نخل
 بیہہ اندر سہ اکیس ز چھس ملہس تام روزن گڑھہ
 تہ تہندہ خا طہر چھہ رسوا کرن وول عذاب (مقدر)۔

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، وَمَنْ يُطِغِ اللَّهَ وَ
 دَسْوَلَهُ يَدْخُلْهُ جَنَّةٌ تَجْرِي مِنْ
 تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، وَذَٰلِكَ
 الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۴﴾

وَمَنْ يَتَّصِلْ
 اللَّهُ وَدَسْوَلَهُ يَدْخُلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، وَذَٰلِكَ
 عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿۵﴾

لہ "خلود" لفظ چھہ جنس تہ جہنم رسولی متعلق یوان مگر قرآن کریم کیو بیو مقادمتلہ چھہ
 ثابت نہ جنت روزہ ہمیشہ تہ جہنم چھہ غرضی۔ امیک عذاب گڑھہ کہ دہ بہہ ختم۔ اور
 کن چھہ بیہہ جایہ "ز چھس ملہس تام" ترجمہ کرنہ امت۔

وَالَّذِينَ بَاتَيْنَ اللَّيْلَ حَاشَةً مِنْ نِسَائِكُمْ
فَأَشْتَسُهُمْ ذَا عَلَيْهِمْ أَزْوَاجٌ فَاتَّبَعُوا نِسَاءَهُمْ
فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُمْ فِي الْبُيُوتِ
حَتَّى يَتَوَقَّعَ الْمَوْتَ أَوْ يُجْعَلَ اللَّهُ
لَهُمْ سَبِيلًا ﴿۱۱﴾

بہ تہمترو زناؤ منبر بیکہ کنہ بیکہ کارس لہ
نزدیک گرتھن بتمن متعلق سنبو بتمن پیٹھ
پسنیو (اشاوتہ ہمایو) منبر زورگواہ۔ اد اگر
بتم (زورگواہ) شہادت دن تہ توہر تھو یو کہ
بتم (پسنیو) گرن اندر توت تاہ رٹھہ نہ بتم پی
موت یا کرٹ اللہ (تعالیٰ) تہندہ تھطر کاتہہ
(بیاکھ) وتھ۔

وَالَّذِينَ يَأْتِيَنَّاهُمْ مِنْكُمْ فَادُّوهُمْ مَا
بَانَ تَابًا وَأَصْلَحًا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿۱۲﴾

بہ تہ بہ منبر بیک نہ مرد بیکہ کارس نزدیک گرتھن
تہ توہر دیو بتمن اذا! پتہ اگر بتم دو نوے تویہ
مرن تہ اصلاح کرن۔ تیلہ کر یو کہ چشم پوشی
اللہ (تعالیٰ) پتھ یقیناً سبٹھ ہے تویہ قبول کرن
وولتہ، پھیر پھیر رحم کرن وول۔

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ
يَعْمَلُونَ الشُّرُوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ
مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ
عَلَيْهِمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿۱۳﴾

اللہ (تعالیٰ) ہس پیٹھ چھہ صرف بتمن لوکن
ہندہ تھطر تویہ (قبول کرن واجب) بیک جہالتہ
سستی کنہ ہدی ہندہ مجرم وار سپن تہ پتہ کرن
بتم وولی وولی تویہ۔ تہ بیک لو کہ چھہ تھو بیکمن
پیٹھ اللہ (تعالیٰ) مہربانی کران چھہ تہ اللہ (تعالیٰ)
چھہ سبٹھا زان وولتہ، حکمتہ وول۔

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ
السَّيِّئَاتِ ۚ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمْ
الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ وَالَّذِينَ
يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارًا ۚ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا
لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿۱۴﴾

بہ تویہ (کہ قبول سپنک حق) چھہ بتمن لوکن
ہندہ تھطر بیک بدیہ کران گرتھان چھہ یوتانی نہ
تیلہ بتمو اندر کاتہہ موت (بیک ساعت) نزدیک
پوان چھہ تہ سہ چھہ ونان مینہ کور بے شک ووزی
تویہ، تہ نہ چھہ بتمن لوکن ہندہ تھطر (تویہ قبول
سپنک حق) بیک کفر چھہ حائر منبرے مران چھہ
بیک لو کہ چھہ تھو نہ بیکمن ہندہ تھطر چھہ اسر کر یو کہ
عذاب تیار کوڑت۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِدْ لَكُمْ
أَنْتُمْ

اسے ایماندارو! تہندہ تھطر چھہ (بہ) بجایز نہ

تَرْتَوُوا النِّسَاءَ كَرَاهًا، وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ
إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَأْ حَشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ، وَ
عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ⑤

تو ہر نبوی زبردستی سان زنان ہند کر وارث تہ تو ہر
مہ کر لو لکھ تم امر غرضہ تنگ از یہ (کتبہ شہا) تو ہر
تجن دیتت چھو تمہ منتر نیو لکھ کینہ (مہبتہ الیس)
پتھ روڈ ہر گاہ تم کینہ نینہ (وانہ) بدیہ ہنر ہرم
دار آسن (تہ تمہ خاطر چھ حکم پیہہ کینہ امت)
بیہ کرو تجن سیدی رت سلوک، تہ ہر گاہ تو ہر
تم ناپسند کر لو لکھ تہ (یاد تھوور ز) بیکل ممکن
چھ (بیہ) نہ تو ہر کرو لکھ چیز ناپسند تہ اللہ
(تعالیٰ) کر تھہ منتر سپہا (پہن) بہمتی
(ہند سامانہ) پاؤ۔

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ
زَوْجٍ، وَآتَيْنَتْهُمُ إحدَاهُنَّ قَنَاطَرًا
فَلَا تَأْخُذْ وَامْنُهُ شَيْئًا، اتَّأَخَذُ وَنَهَ
بُهْتَانًا وَرِثْمًا مُبِينًا ⑥

بیہ اگر تو ہر (اگس) آستہ ہنر بجایہ (بلاک) آستہ
بدلاؤنی سترھو تہ تو ہر چھو تمہ منتر اگس،
(مالک) لکھ انبار تہ دیت مت تہ (توتہ) مہ
ہنیوس تمہ (مالہ) منتر کہنی (تہ واپس)۔ کیا
تو ہر نیواس (سہ مال) تو ہمت لاگتھ تہ منہ
(وانہ) گو ناہر ڈر لیبہ ؟

وَكَيْفَ تَأْخُذُ وَنَهَ وَقَدْ أَقْضَى
بِعَضِّكَ إِنْ بَعْضٌ وَآخِذَنْ مِنْكُمْ
مِّبْتَا قَاغْلِيظًا ⑦

بیہ کتھہ پاٹھی ہنیو تو ہر (سہ مال) نتھ ؟ سیدہ
زن تو ہر پاؤ وانی لکھ اگس بش گیمتی چھو تہ
تمہ (آستہ) چھو تو ہر لکھ پا بیدار عہد ہوتہمت
بیہ تمہ زنا تو منتریم تمہند لو مالو بیری بنو نکاح
منتر از منتر آسن، پینہ کانسہ سیدی نکاح کرو۔
ووڈی گوو بیہ (بروٹھ) گوو (تہ گوو) بیہ (فعل)
اوس یقیناً چھہ تہ طیش دہ وول بیہ اوس بیہ
سپہا بدرسم۔

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، إِنَّهُ كَانَ
فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ⑧

تو ہر پیہہ چھہ حرام کردہ آستہ تمہنر ماجر تہ تمہنر
کوہ تہ تمہنر بینہ تہ تمہنر پوچھہ، تہ تمہنر
ماسہ، تہ تمہنر باؤر، تہ تمہنر پینر تہ تمہنر
(دوہ) ماجر یو تو ہر دوہ دیتت آسہ و تہ
تمہنر دوہ بینہ تہ تمہنر ہشہ تہ تمہنر تمہ
ووہ کوہ یم تمہنر تن آستہ منتر آسن یکن

حَرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ
وَأَخَوَاتِكُمْ وَعَمَّاتِكُمْ وَخَالَاتِكُمْ وَبَنَاتِ
الْأَخِي وَبَنَاتِ الْأَخِي وَأُمَّهَاتِكُمُ الَّتِي
أَرْضَعْتُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ
وَأُمَّهَاتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبِكُمُ الَّتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِنَ نِسَائِكُمُ الَّتِي

دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَمَنْ لَمْ يَكُوا نُؤَادًا خَلْتُمْ
 بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ، وَحَلَّ لِرَبِّ
 أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ، وَ أَنْ
 تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ .
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٧﴾

سیدی توہہ خلوت کوڑت چھو۔ تہہ تم آسن
 تہندین گرن اندر چھپہ بوان، مگر ہر گاہ توہہ
 بہن (آشنین) سیدی خلوت کوڑت آسہ و
 نہ تہہ تہہ چھپہ (تہہنزن کورہن سیدی
 نکاح کرس منز) توہہ کائہہ گوناہ۔ بیہ
 (یہہ کئی) تہہندین بہن تہہنہن ہنہ
 آشنہ، ہم تہہند پشہر آسن (چھپہ
 توہہ پٹہ حرام) بیہ بیہ (تہہ) ز توہہ کڑوگھ
 زہہ بنہہ (پہنہن نکاح منز آنہہ) یکہ
 ووزہ گوو بیہ ہونہہ گوو (تہہ تہہ گوو)۔ اللہ
 (تعالیٰ) چھہ سبہا بخش بار (تہہ) چھپہ
 چھپہ رحم کرن وول۔

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا بَيْنَ
 مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
 وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ
 تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
 مُسَافِحِينَ ، فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ
 مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً
 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ
 بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٠﴾

بیہ (ہونہہ پٹہ) نکاح منز آہنزنانہ (تہہ
 چھپہ توہہ پٹہ حرام) صرف توہہ زانو وراہی ہمہ
 تہندین ہلکیتس منزین۔ بیہ چھہ اللہ (تعالیٰ)
 ہن توہہ پٹہ فہن کوڑت۔ تہہ ہم یو (پہہ
 کئی چھکاوتہ آہنزنانو) وراہی آسن ہم چھپہ
 توہہ پٹہ (نکاح کڑہہ) حلال۔ (یعنی یہہ پٹہ پٹہ)
 ز توہہ کڑوگھ (ہمہ) پہنہو مالو کس طلب ہنہ
 چھہ یہہ ز توہہ آسو خاندن کرن والی تہہ زنا کرن والی
 آسو نہہ۔ پٹہ (چھہ پٹہ شرط نہہ) اگر توہہ بہن
 ہن نفع ہلکت آسہ و تہہ توہہ کڑو بہن وعہہ
 کڑو آہن مہر تہہ برابر ادا۔ تہہ (مہر) مقہہ
 سپہنہ پٹہ یہہ (کئی ہنہ) پہہہ توہہ پٹہ وراہی
 رضامند گڑہو تہہ متعلق آسہ و نہہ توہہ کائہہ
 گوناہ۔ اللہ (تعالیٰ) چھہ بے شک سبہا زان
 وول (تہہ) حکمتہ وول۔

وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ

بیہ یس کائہہ) توہہ منز آزاد موہن زان

سستی خاند کرکند، طے طاقت آسہ نہ تھا وان
 (سہ) کرن تہنیزو بلکیس منز آسٹرو (زنانو)
 لینے تہنیزو مؤمن کنیزو منز گانہ سستی نکاح
 تہ اللہ (تعالیٰ) چھ تہندس اپانس سار وہے
 کھوتہ جاد زانان۔ توہر چھو اکھ اہس سستی
 (تعلق تھاوان) لہذا کرو تمہن سستی تہندس ماہکن
 ہند اجازتہ سستی نکاح۔ بیہ کرو تہندس مہر
 اتن دستور مطابق ادا، مگر بیلیہ تم پاکیز
 آسن تہ زنا کرن واجبہ تہ ترور یار بانوان وینہ
 آسن تہ۔ پتہ بیلیہ تم نکاح تل من اتہ ہرگاہ
 تمہ کہے بی حیاتی ہنر جرم وار سپدن تہ تہند
 سزا آسہ آزاد زانوانیہ لہیف۔ یہ (اجازت)
 چھ تم کیت یس توہر منز گوناہس کھوتران
 آسہ۔ تہ تہند صبر کرن چھ تہند خاطر جاد
 رت۔ تہ اللہ (تعالیٰ) چھ سپٹا بخش وول
 (تہ) پھیری پھیری رحم کرن وول۔

اللہ (تعالیٰ) چھ بیٹھان نہ یکم لوکہ توہر بڑوٹھ
 (گذرے ہتر) چھ۔ تہندس (طور) طریقہ کر تہند
 باپتہ بیان تہ کر (تمہن کن) تہنر رہمانی بیہ
 کر توہر پیٹھ شفقت تہ اللہ (تعالیٰ) چھ سپٹا
 زان وول تہ حکمتہ وول۔

بیہ چھ اللہ (تعالیٰ) بیہ بیٹھان نہ توہر
 پیٹھ کر شفقت تہ یکم لوکہ بد خاٹھن پتہ
 لگان بھہ تم چھ بیٹھان نہ توہر نمو وار ایدر کن۔

اللہ (تعالیٰ) چھ بیٹھان نہ توہر کرو (بارس)
 لہر تہ انسان چھ کمزور پاؤ کر تہ امت۔

اے ایماندارو! توہر مہ کھنیو پیچڑ مال پانہ وازی
 نامائیز پاٹھو۔ ووزی گوو پانہ وازی رضا مندر سالن
 باپار کر رنڈ (مال حاصل کرن) چھ جہیز بیہ

يَتَّكِهَ الْمُحْصَنَاتُ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا
 مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتْيَتِكُمْ
 الْمُؤْمِنَاتِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَيْمَانِكُمْ
 بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ، فَإِنْ كُفِرْتُمْ
 بِأَذْنِ أَهْلِيهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ الْمُحْصَنَاتِ غَيْرِ مُسْفُحَاتٍ
 وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، فَإِذَا أُحْصِنَ
 فَإِنَّ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ
 مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ،
 ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، وَأَنْ
 تُضَيَّرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، وَاللَّهُ غَفُورٌ
 رَحِيمٌ ﴿٥١﴾

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
 الرِّيبَةَ مِنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ
 عَلَيْكُمْ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٢﴾

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَ
 يُرِيدَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهْوَاتِ أَنْ
 تَعْمَلُوا أَمِينًا عَظِيمًا ﴿٥٣﴾

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ، وَ
 خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴿٥٤﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا
 أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، إِلَّا أَنْ
 تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ،

مہ کرو پیڑ پان قول اللہ (تعالیٰ) بیٹھ
یقیناً توہمہ پیٹھ پھیر پھیر کر رحم کرن وول

تہ لیس (شخص تہ) یہ (یعنی بیٹے سہ مال کھینک)
جادتی تہ ظلمہ کہ عادتہ کوز کر، سہ دیون اسی
ضرور تارس مندر ڈارتھ تہ یہ (کرن) بیٹھ
اللہ (تعالیٰ) ہس نش سہل۔

یو (کھو) نشہ توہی پتھ رٹنہ یوان بھو، اگر
ہمو مندر بیجو بیجو (کھو) نشہ توہی دور
روزو تہ اسی کرو تہند کر عاب دور تہ توہ کر رو
عزتہ واجنہ ہایہ مندر داخل۔

بیہ بیٹھ (چیز) اسی اللہ (تعالیٰ) ہن توہمہ
مندر کینٹرن، کینٹرن پیٹھ فضیلت ڈر مندر چھینہ
تمیک طمع مہ کرو۔ یہ کینٹھا مردو کمومت
چھ تمہ مندر چھ تہند حصہ تہ یہ کینٹھا
زنانو کمومت چھ تمہ مندر چھ تہند حصہ، تہ
توہی منگو (صرف) اللہ (تعالیٰ) ہس تہند فضلک
حصہ۔ اللہ (تعالیٰ) چھ یقیناً پرستھ اکھ چیز
سہما زان وول۔

بیہ چھ امہ پرستھ اکھ (شخص) کتو تہندس
توکس متعلق وارث مقرر کرک ہوتی۔ (تم وارث
چھ) مول، موج تہ نزدیک آشناو بیہ تم (تہ) کین
سیدی توہمہ پھرتہ عہد و پیمان کرک ہوتی چھو (یعنی
آشہ یا خاوند) لہذا دیو، تم تہ کین مقرر
سیدمت حصہ تہ اللہ (تعالیٰ) چھ یقیناً پرستھ
گنہ کتھ پیٹھ بنگران۔

مرد چھ زنان پیٹھ بنگران (بناوہ آہی) تمہ
فضیلتہ موکھ یوس اللہ (تعالیٰ) ہن تمو مندر
کینٹرن کینٹرن پیٹھ ڈر مندر چھینہ، بیہ امہ
موکھ زہتمو چھ پستہ مالو مندر (زنان پیٹھ)
خرچ کوومت، لہذا نیک زانہ چھینہ فرما تہ رار

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿۵۱﴾

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا ظُلْمًا
فَسَوْفَ نُضَلِّهِ نَارًا، وَكَانَ ذَلِكَ
عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿۵۲﴾

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبِيرَ مَا تُنْهَوْنَ
عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَ
نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴿۵۳﴾

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ
عَلَى بَعْضٍ، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبُوا، وَ لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبْنَ، وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ،
إِنَّ اللَّهَ كَانَ يَكُلِّ شَيْءًا عَلَيْهِمًا ﴿۵۴﴾

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ، وَالَّذِينَ
عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُمْ
نَصِيبُهُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿۵۵﴾

الرِّجَالِ قَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ
اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ، فَالصَّالِحَاتُ قَنِيئَاتٌ حَافِظَاتٌ
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، وَالَّتِي تَخَافُونَ
نُشُوزَهُنَّ فَيَعْطَوْهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ

فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ بِ قَانَ
أَطْعَنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿۳۵﴾

تہ اللہ (تعالیٰ) ہند مدد سستی پوسیدہ کھن
ہنتر حفاقت کرن واجنہ آسان۔ تہ یمن ہنتر
نافرمانی ہند تو بہ خوف آسہ و۔ یمن کرو (اوپر)
نصحت تہ تمہ تر او لیکھ شو یمن کھن مشن
کئے زنہ بیہ دیکھ چوب پتہ ہر گاہ تم تہنتر
اطاعت کرنی لکن تیلہ مہ ترھاٹو یمن خلاف
کاٹہ بہانہ۔ اللہ (تعالیٰ) چھ بے شک سٹھا
تھوڈ (تہ) بوڈ۔

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْحَثُوا
حُكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحُكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ
يُرِيدَ الْأَصْلَاحَ يَوْفِقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿۳۶﴾

ہر گاہ تو بہ یمن دوہوئی (بازن) ہند پانہ وازی
(تعلقن مشن) اختلاف گزھنک خوف آسہ و تیلہ
کرو اھ فاصلو تندیو (یعنی مرد دہلو) آشنا و منتر تہ اٹھو
تندیو (یعنی زنانہ ہندلو) آشنا و منتر مقرر۔ پتہ اگر تم دوہوئی
(تامل) صلح کرناون بیٹھن تہ اللہ (تعالیٰ) کرن دوہوئی
(بازن) درمیان بلہ ترار پانہ۔ اللہ (تعالیٰ) چھ یقیناً
سٹھا زان وول (تہ) خبر دار۔

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَ
بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَ
الْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَ
الْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ
السَّبِيلِ وَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَلًا فُجُورًا ﴿۳۷﴾

بیہ کرو توہی اللہ (تعالیٰ) سنر عبادت تہ کاٹہ
چیز مہ بتاویون تندیو شریک۔ بیہ (کرو) مائس
ماجہ سستی (سٹھا) احسان تہ (بیہ) رشتہ دارن
تہ یقین تہ مستکین سستی، تہ (تھہ پانہ)
آشنا ہمساین تہ قد آشنا ہمساین بیہ لری (ہن)
والین لوکن تہ مسافرن تہ مہندی توہی مالک چھو
(یمن سستی کرو احسانک سلوک) تہ یکم کبر کرن
والی تہ تھدی تالی یکن والی آسن یمن بیٹھنہ
اللہ (تعالیٰ) زانہ تہ پسند کران۔

بِالَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ
بِالبخلِ وَيَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَهُمُ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ، وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا
مُّهِينًا ﴿۳۸﴾

یکم (پانہ تہ) بخل کران چھ تہ (ہن) لوکن
(تہ) بچھ بخل کرتیج و تھ ہوان۔ بیہ یہ کینترھا
اللہ (تعالیٰ) ہن پسندہ فضلہ سستی یمن دہیت
چھ تہ چھ کھٹان، تہ آسہ بچھ کافرن ہند
باپتھ ذلیل کرن وول عذاب تیار کورمت۔

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُم رِثَاءَ

بِیہ یکم لوکھ پیچھ مال لوکن ہونہ خاطر خرچ

النَّائِسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالشَّيْطَانِ لَكَ قَدْرَيْنَا
فَسَاءَ قَرِينًا ﴿۳۱﴾

کران چھ تہ نہ چھ اللہ (تعالیٰ) ہس پیٹھ ایمان
تھوان تہ نہ پتہ پتہ واپس دوہس پیٹھ (تمن
ہند انجام آسہ خراب) تہ تمیس (شخص) شیطان
سوتی بوج آسہ (سہ تھاون یاد نہ) سہ چھ
سبھا خراب سوتی بوج۔

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ
اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿۳۲﴾

بہہ تمن پیٹھ کیانا (قہر) اوس (وسان) ہرگاہ
تم اللہ (تعالیٰ) ہس تہ پتہ پتہ واپس
دوہس پیٹھ ایمان اپن ہن۔ تہ یہ (کیشرها)
اللہ (تعالیٰ) ہن تمن دیمت چھ تمہ منز
کر ہن (تسزوتہ) خرج تہ اللہ (تعالیٰ)
ہس چھ تمن متعلق پوڑ پاطھ علم۔
اللہ (تعالیٰ) کر نہ زانہہ اکھ ذر تہ ظلم۔ بہہ
اگر کانسہ کانہہ نیکی آسہ تہ سوہ ہر لوہس بہہ
دیس پس نہ طرفہ (تہ) سبھا پوڑ اجہر۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَك
حَسَنَةٌ يُّضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ
أَجْرًا عَظِيمًا ﴿۳۳﴾

بہہ تہند حال کیاہ آسہ بیلبہ اسی پر پتہ کنہ نماز
منز اکھ گواہ اون تہ تہ انوکھ تمن لکن متعلق
گواہ (بتاوتھ)۔

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَ
جِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴿۳۴﴾

تمہ دوہہ، ایکو کفر کورمت چھ بہہ چھاکھ (تمس)
رولہ سنز نافرمانی کر مہز، کرن تمنا نہ (کاش)
تمن پیٹھ پیہہ ہے زمین برابر کرنہ تہ تم ہیکن
تہ اللہ (تعالیٰ) ہس نش کانہہ کتھ کھٹھ۔

يَوْمَئِذٍ يَبُودُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَعْوَسُوا
الرَّسُولَ لَوْ تَسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَوَلَا
يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ﴿۳۵﴾

اے ایماندارو! یونانی تہ توہی پسین حواسن منز
اوسو، نماز نزدیک مہ اوسو گرھان تھہ ولس
تام نہ توہی یہ کیشرها ونان (تہ پران) چھو تہ
پہیو (نہ) فکر ترن، تہ نے (گرٹھو زلو) بہہ
عسل آسہ کس حالتس منز (نماز نش)، یونانی
سلن کرو (نہ) ماسوایہ تمہ کہ نہ توہی اوسو تہ
یکوئی، بہہ اگر توہی بنار اوسو یا سفرس پیٹھ
اوسو (بہہ اوسو بہہ عسل، تیلہ اوسو تیمم کرن)
یا توہہ منز آسہ کانہہ نمبر نہ تہ امت یا اوسو

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا
الصَّلَاةَ إِذْ كُنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى
تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنْبًا إِلَّا
عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِن
كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ
أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ
النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا
صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَ
أَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا ﴿۳۶﴾

توہی زنا ن سستی صوجبت کر تھ تہ امہی (یعنی
 بیہ غسل امہی) تہ توہی میلہ و نو آب - ادر
 پاک میتر ہند اراد کرو (یعنی تیمم کرو) پتہ
 پھر تاوو (توہی تم میتر دار اتھ) پینہن بھنن
 تہ اتھن پیٹھ - اللہ (تعالیٰ) چھ یقیناً سلھا
 معاف کرن وول اتہ، ورا بھشن ہار -

کیا تریہ یھینا تمہن لوکن ہند حال معلوم یمن (الہی)
 کتابہ منتر کیہنہ حصہ دتہ آیاو نہ تم چھ تمہا ہی
 پاناوان تہ بیستھان چھ نہ توہی (تہ) دلو (اہل)
 ورتہ ہنہ -

بہ چھ اللہ (تعالیٰ) تہندین دشمن تہند کھو جاو
 زانان تہ اللہ (تعالیٰ) چھ دوستی منتر کانی - تہ
 اللہ (تعالیٰ) چھ مددگار آسہ کنز تہ کانی -

یم لوکھ میہودی چھ تمو منتر چھ کیہنہ (خلیہ تہن)
 کھن پنہو جاو ہنہ اولہ بدل کران تہ ونان چھ
 نہ اسہ بوز تہ (تمہ باوجود) کر نافرمانی - بیہ
 (چھی ونان نہ) بوز سانہ کتھ، (خدا بیہند کلام)
 گوشہ نہ تریہ زاہ بوزناو نہ یمن، بیہ (چھ
 ونان) تہ کر سون لحاظہ - (بیہ کتھ پتھ تم) پتہ
 نہو وٹھتھ اپڑی پاٹھو ونان تہ دپس منتر
 چھ طعنہ دیوان - ہر گاہ تم بیٹھ کنز و نہ ہن
 نہ اسہ بوز تہ اسہ موان بیہ (ونہ ہن نہ بوزو
 تہ اسہ پیٹھ کرو (رحمتی) نظرہ - تہ تہند
 خاطر گڑھ ہے جاو رت تہ درستی ہند باعت (مگر
 تم روڈ نہ صرف اسہ ہنہ محروم) بلکہ کر اللہ
 (تعالیٰ) ہن تمہن پیٹھ تہند کھن سبہ لعنت
 ادر کنز چھنہ تم ایمان انان -

اے لوگو! یمن (الہی) کتاب دتہ آیاہ! بیٹھ
 (کتابہ) پیٹھ ابو ایمان یوسہ اسہ (ووفی) مارل
 کر منتر چھنہ تہ یوسہ تھ (الہی کلاس) پور کرن

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوتُوا نَصِيْبًا مِّن
 الْكِتٰبِ يَشْتَرُوْنَ الضَّلٰلَةَ وَيُرِيْدُوْنَ
 اَنْ تَضِلُّوا السَّبِيْلَ ﴿۵﴾

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَاكُمْ ۗ وَكَفٰى
 بِاللّٰهِ ذٰلِيْمًا ۙ وَكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا ﴿۶﴾

وَالَّذِيْنَ هٰذَا وَاٰخِرَ فُوْنِ الْكَلِمَةِ
 عَنْ مَّوٰضِعِهِ ۙ يَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا ۙ
 عَصَيْنَا ۙ اَسْمَعُ غَيْرَ مُسْمِعٍ ۙ وَاَعْنٰ اَيْتًا
 بِالسَّنَنِ ۙ وَطَعْنَا فِي السِّيْرِ ۙ وَكُو
 اَتْهُم قَالُوْا سَمِعْنَا ۙ وَاَطَعْنَا ۙ
 اَسْمَعُ ۙ وَاَنْظُرْنَا لَكَ اَنْ خَيْرًا لَّهُمْ ۙ
 اَقْوَمَ ۙ وَلٰكِنْ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ ۙ فَلَا
 يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿۷﴾

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوتُوا الْكِتٰبَ اٰمِنُوْا بِمَا
 نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّن قَبْلِ اَنْ
 تَطْمِئِسَ وُجُوْهُكُمْ فَرُدُّوْهُ اَعْلٰى اَذْبَارِهَا ۗ اَوْ

واہنر چھیہ یس توہہ نش (بروٹھے موجود)
 چھ ، امہ بروٹھ ز اسی کروکہ توہہ منتر پڑ
 مہنوی ہلاک تہ تم پھروکہ تہنرو تھرو وار
 یا تھہ پٹھو امہ سبتہ والہن پٹھ لعنت کر یاہ
 تھہ پٹھو کرو تم پٹھ (تہ) لعنت تہ
 اللہ (تعالیٰ) سہنر کتھ روتہ (ضرور) پڑ سبتہ
 اللہ (تعالیٰ) کر تہ (یہ کتھ) تہ تہبہ معاف ز
 تہہ یہہ (کاتہہ) شریک تھہرو تہ ، تہ یس
 (گوناہ) امہ تہہ ادنہ آسہ سہ اہ تہو ہنہ
 حقہ تہہہ ، معاف کر یس تہ تہو اللہ (تعالیٰ)
 ہس سبتہ (کاتہہ) شریک تھہرو مت آسہ تہ
 ز اڈ تو ز) تہ کڑ سبتہ یڑ ہدی (ہنر کتھ)۔

کیا تہہ چھینا تہن لوکن ہنہ حال معلوم ہم
 پینس پانس پاک گھنراوان چھہ ؟ (تہن چھہ
 یہ حق) بلکہ اللہ (تعالیٰ) یس سہرھان چھہ تس
 چھہ پاک قرار دوان تہ گھنرہ آنچہ ہنرہ کھہ منتر
 فتیس برابر تہ یہہ تہ (تہن پٹھہ) ظلم کر تہ
 وچھہ اہم کتھ پٹھو چھہ اللہ (تعالیٰ) ہس پٹھہ
 اہر لاکتھ تھولن تہ یہ کتھ) چھہ کافی (جہک
 تام) ٹاکا گوناہ ۔

کیا تہہ چھینا تہن لوکن ہنہ حال معلوم ہم
 (الہی) کتابہ منتر کینہہ حصہ دہہ آیاو (ز) تم
 چھہ بیہ قایدہ (کتھن) تہ حد نہنن والہن پٹھہ
 ایمان تھولن تہ کافرن متعلق چھہ ونان ز ہم
 لاکھ چھہ مؤمنن ہنہ کھوتہ جادہ صداہت یافتہ ؟
 ہم چھہ تم لاکھ ہمکن پٹھہ اللہ (تعالیٰ) ہن
 لعنت کڑ منتر چھہ تہ سہنس پٹھہ اللہ (تعالیٰ)

لَعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ ،
 دَ كَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿۱۰﴾

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ
 يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَ مَنْ
 يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا
 عَظِيمًا ﴿۱۱﴾

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنْفُسَهُمْ
 بِاللَّهِ يَزْكِي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ
 فَتِيلًا ﴿۱۲﴾

أُنظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ،
 وَ كَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا ﴿۱۳﴾

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ
 الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجَنَّةِ وَالطَّاعُوتِ
 وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ
 مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ﴿۱۴﴾

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ، وَ مَنْ
 يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَهُ نَصِيرًا ﴿۱۵﴾

لہ یہودیو منتر یو لوکو سبتہ جس معاملس منتر نافرمانی کر یاے ۔

عہ الجنت ۔ بیہ قایدہ کتھ

أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمَالِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ۝

لعنت کرے کہ تم لوگوں میں نہ زانہہ تلوں (کاٹنے) مدگار کیا جس میں ہند چھا نکو متس منتر کاٹنے حصہ؛ تیلہ دن نہ تم لوگوں کھنڈر آٹھ ہندس ترپوں مستب تہ۔

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مَلَكًا عَظِيمًا ۝

یا یہ (کینرھا) اللہ (تعالیٰ) میں پسند فضلہ سہی لوگوں دیت مت چھ۔ کیا تم چھا تھ پیٹھ تمن سہی حد کران؛ (ہرگاہ یہ کتھ پھیے) تیلہ ہے اسہ ابراہیم ہندس اولاد (تہ) کتاب تہ حکمت ڈر ہنڈر اس تہ اسہ اس تمن (بیہ) ہر حکومت ڈر ہنڈر۔

فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ۝

پتہ اولن تمو منتر کینر تھ (لو کتاب) پیٹھ ایمان تہ کینر روڈر تمو منتر تمہ ہنڈر کتھ تہ جہنم چھ پیش منتر سہی جا۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُضَلِّيهِمْ نَارًا، كَلِمًا تَنْصَجَتْ جُلُودُهُمْ بِدَلَّتْهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝

ہمو لوگو سائین آین الکار کورمت چھ اسی دموکھ تم جلد (ہے) نارس منتر ڈارتھ۔ تیلہ تمن کتہ ویز ترہ (ڈرتھ) گلن اسی دمو تمن ہمو بدل ترہ (تہ اسی کرو) اسہ موکھ یٹھ تم غلا ترشن۔ اللہ (تعالیٰ) چھ بے شک غائب (تہ) حکمتہ وول۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَوَسُدُّوا عَنْهُمْ زُلْفَىٰ ظِلًّا ظِلِيلًا ۝

بیہ یمو لوگو ایمان اوتمت چھ تہ تمو چھ نیک اعمال بجا آتی ہوتی تم کروکھ اسی ہنڈر ہنڈین باعن منتر ڈانبل بیمن منتر کولہ پکان آسن تم گرتھن تمن منتر ہمیشہ روزان۔ تہنڈ خاطر آسن تمن منتر پاک آٹھ تہ اسی کروکھ تم گرتھن شہلیس منتر روزنہ خاطر ڈانبل۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝

اللہ (تعالیٰ) چھ تمو یقینا (اسہ کتھ) حکم دوان نہ توہر کرو امانت تہنڈس سقدان حوالہ بیہ (یہ نہ)۔ تیلہ توہر لوگوں درمیان قاصلہ کرو تہ عدلہ سان کرو قاصلہ۔ اللہ (تعالیٰ)۔ بیہ کتھ ہنڈر توہر نصحت کران چھو سو پھیے بے شک

سپٹھو ہجو جان۔ اللہ (تعالیٰ) مجھ یقیناً سپٹھا بوزن وول (تہ) ووجھن وول۔

اے ایماندارو! اللہ (تعالیٰ) ہنر اطاعت کرو بیہ کڑو رٹلو ہنر تہ اطاعت تہ محکمان ہنر تہ (کڑو اطاعت)۔ اچ ہرگاہ توہر (حاکم سیتو) کتہ کتہ منتر اختلاف کڑو تہ ہرگاہ توہر اللہ (تعالیٰ) ہس تہ پتہ پتہ وائس دہس پیٹھ ایمان تھوان ہجو تیلہ گرتھہ یہ (مقدیمہ) اللہ (تعالیٰ) ہس تہ رسوس کن زمین (تہ) تہندہ محکمہ مطابق گرتھہ یہ معاملہ طے کرن) یہ کتہ چھتہ بہتر تہ انجامہ کہ لحاظہ جادو بر۔

کیا تریہ ووجھتہ نامن لوکن بند حال یکم وول کران چھہ نہ یہ (کتھ شرا) تریہ کن تازل کرتہ آمت چھہ تہ (بیہ) یہ تریہ بروٹھ تازل کرتہ آمت اوس، تھہ پیٹھ چھہ ہجو ایمان اونمت تہ اہر باوہو تریہ اوس حکم دہہ آمت نہ ہجو چھہرین اتھ مہ کرناون فاصلہ تہ تہندہک وئس پیٹھ مہ لکین۔ تم چھہ بیٹھان نہ ہم نے اتھ کرناون فاصلہ تہ کیاز شیطان چھہ بیٹھان نہ ہم تراوہ خطرناک گھراہ منتر۔

بیہ ییلہ نامن ونہہ یوان چھہ نہ یہ کتھ شرا اللہ (تعالیٰ) ہن تازل کورمت چھہ تھہ کن تہ رسوس کن بیو تہ تہ چھہکھہ منافق وچھان نہ ہم چھہ تریہ ہنس جادے چھہ تزلان۔

پتہ کیاز (چھہ یہ سپدان نہ) ییلہ نامن پیٹھ تہندہک کاہن ہندہک چھہ منتر کاہنہ مصیبت یوان چھہ تہ ہم چھہ (مبارک تہ) تریہ ہنس (چھہ) اللہ (تعالیٰ) ہنر درہے کڑو کڑو یوان نہ باللہ اسہ کریاوہ صرف نیک سلوک تہ صلح کرناونک ارادہ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٠﴾

۵۰

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿٥١﴾

وَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُتُوفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴿٥٢﴾

فَكَيْفَ إِذَا آصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ آيَاتُهُمْ ثُمَّ جَاءُواكَ يَخْلِفُونَ ؕ يَا اللَّهُ إِنَّ أَرْذَلَنَا إِخْسَانًا ؕ تَتَوَفَّيْنَا ﴿٥٣﴾

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي
قُلُوبِهِمْ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ وَعَظَّمَهُمْ
قُلُوبَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ⑤

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ
بِإِذْنِ اللَّهِ وَكَوْنَهُمْ إِذْ ظَلَمُوا
أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ
وَأَسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا
اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ⑥

فَلَا ذَرْبَكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى
يُحْكَمُوا لَكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا
يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا
قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ⑦

وَكُونُوا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ أَوْ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا
فَعَلُوا إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَكَوْنَهُمْ فَعَلُوا
مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ
أَشَدَّ تَثْبِيثًا ⑧

وَإِذَا لَاتَيْنَهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا
عَظِيمًا ⑨

وَلَمَّا دَعَا إِلَهُمُ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ⑩

ہم چھ تم لوگوں پر یہ (کینٹھا) تہندین دین منفر
پچھ اللہ (تعالیٰ) پچھ تہ (زیر یا مٹی) زانان
لہذا روزِ ثورتمن نش دورہے تہ نصیحت کرکھ تہ
تہندین نفس متعلق ون یمن کارگر کتھ۔

بہ پچھتہ اسہ کا پتہ رسول (تہ) امہ غرضہ وراہی
سوزمت نہ اللہ (تعالیٰ) ہند حکمہ سستی گرتھ تمکو
ہنتر اطاعت کرتہ پتہ تہ سبیلہ تمکو پستہن زون
قلم کر یاو ہر گاہ (تمہ ویر) تم تریہ نش بیہن
تہ اللہ (تعالیٰ) ہس بخشش منگہ ہن تہ رسول
تہ منگہ ہے تہندہ حقہ بخشش۔ اد تم لہہ ہن
ضرور اللہ (تعالیٰ) ہس سبھا شفقت کرن وول

(تہ) پچھری پچھری رحم کرن وول

اد چائس رہہ ہنر دہے، اوتانی نہ تم (پر تھ)
تھ کتھ منفر تھ متعلق جس تنازع گرتھ تریہ
حکم (یعنی فاصلہ) بناونے۔ تہ پتہ لیس فاصلہ
تہ کرکھ تمہ سستی پستہن دین منفر کتہ تسبیح
تنگی لین تہ۔ تہ پورہ پاٹھی فرما سہ در سیدن
(نہ)، (توتانی) آسن نہ تم ہرگز ایمان دار۔

تہ اگر اسی یمن (پہ) حکم دہہ ہو نہ توہی
کرو پتہ پان قبل لہ یا یہ نہ پستہو گرو مشر
نہو! اد کینٹھ وراہی کرہن نہ (تتومہ لوکھ)
یہ (کام) تہ ہر گاہ تم سہ (کام) کرہن پتہ
جس نصیحت کرنہ یہ ہے، اد تہندہ خاطر سیدہے
تہ جاد رت تہ جاد پوختہ گی ہند باعث۔

تہ تھ صورتس منفر دہہ ہو اسی یمن لہ شک
(سبھا) بوڈ بدلہ۔

تہ (بہ)، ناہ ہو یمن اسی ضرور سبھوتھ۔

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ
الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ
الَّذِينَ هُمْ فِي حَيَاتِهِمْ صَالِحِينَ ۚ
وَالَّذِينَ هُمْ فِي حَيَاتِهِمْ صَالِحِينَ ۚ
حَسَنٌ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ۝

ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ
عَلِيمًا ۝

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ
فَإِنْفِرُوا نَجَاتٍ أَوْ تَفِرُوا جَمِيعًا ۝

وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ ۚ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ
مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ ۚ لَئِنْ
أَكُن مَعَهُمْ شَهِيدًا ۝

وَلَيْنِ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولُنَّ
كَانَ لَوْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ
يَلِيَّتِنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَوْهًا قَوْرًا
عَظِيمًا ۝

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۚ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ
نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ

تہ یکم (لوگھ تہ) اللہ (تعالیٰ) تہ تمہیں رسولہ
سوزا طاعت کرن تم سیدن تمن لوکنہ منتر
شامل یمن پیچھ اللہ (تعالیٰ) ہن انعام کوڑمت
چھ۔ یعنی نیسین، صدیقین، شہیدین تہ صلح منتر
تہ یکم لوگھ چھ (سیٹھو ہے) برور سوزا باج۔
یہ فعل چھ اللہ (تعالیٰ) ہند طرفہ تہ اللہ (تعالیٰ)
چھ سبھا زان وول۔

اسے ایماندارو! پینن بچاو (کرنگی سامانہ) تھو
(ہر وقت تہ تیار تہ) (ادگر منتر) لوکن جہان
منتر نہر تو یا بچن جہان منتر نہر تو (ہمیشہ
اسی زو سفاظنگ کر سامانہ سوزو تھوان)۔

بہ چھ تو بہ منتر کیٹنہ (انسان) یقینا تھو (تہ
آسان) حکم (پیرچھ کامہ ہندس موقعس پیچھ)
ضرور چھ روزان تہ ہر گاہ تو بہ کانہ مصیبت ولتہ
و تہ ونان چھ ز اللہ (تعالیٰ) ہن کوڑ مینہ پیچھ
احسان نہ بہ اوس نہ تمن سوزو ساضر۔

تہ ہر گاہ اللہ (تعالیٰ) ہند طرفہ تو بہ کانہ فضل
(سید بخ کتھ) واتہ و تہ تم چھ ضرور ونان نہ
کاش بہ (تہ) آسہ تمن سوزو یقینا نہ بہ
(سیٹھا) بڑ کامیابی لہہ ما، زن نہ تمن تہ تو بہ
درمیان کانہ دوستی ہند تعلق اوس یہی نہ۔

لہذا یکم لوگھ دنیاوی زندگی تراوتھ آخرت پانسان وان
چھ تمن یز اللہ (تعالیٰ) سوزو تہ جنگ کرن۔ تہ
یس اللہ (تعالیٰ) سوزو تہ جنگ کر اد سہ قبل
کرتہ بیسین یا سہ غلبہ لہرتن، اوسہ دموتس
جلد (ہے سیٹھا) بوڑا ہر۔

بہ تو بہ کیا چھو (گومت) نہ تو بہ چھو نہ جنگ کران

۱۔ بیٹھ آیس منتر چھ مع، ہن کس معنیس منتر استعمال سڈمت۔ پتھکنو گوو نونفا
مع الأبرار یعنی یہ نہ نیک لوکن منتر شامل کرکھ ہر اسہ وفات۔

الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا
أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ
أَهْلُهَا ۖ اجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً
وَاِجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ﴿۱۰﴾

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ
الَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ
الطَّاغُوتِ ۖ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۗ إِنَّ
كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿۱۱﴾

ع

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا
أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ ۖ فَلَمَّا كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالَ
إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ
كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَ قَالُوا
رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۗ لَوْ لَّا
أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَاءُ
الدُّنْيَا قَلِيلٌ ۗ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ
اتَّقَىٰ ۗ وَلَا تظَلَمُونَ قِتِيلًا ﴿۱۲﴾

اللہ (تعالیٰ) پہنچ رہے تھے کہ تمہیں کمزور مردوں
تہ زنانوں تہ شرین ہنر (وتہ) ہم وانان چھ
نہ اسے سانس پروردگار! اسے کہہ دینا کہ تمہیں
تیمیکو روزوں والی ظالم چھ تہ پستہ درگاہ ہنر
سوزن سون کاٹھہ دوست بناؤ تھہ تہ پستہ دربار
منتر کرن کاٹھہ سون مددگار بناؤ تھہ استا۔

ہم لڑکھ مؤمن چھ ہم چھ اللہ (تعالیٰ) پہنچ رہے تھے
جنگ کران تہ ہم کافر چھ ہم چھ شیطانہ ہنر
جنگ کران۔ اوکزی کرو توہی شیطانہ ہنر
سوتی جنگ۔ بے شک چھ شیطانہ ہنر تہ ہنر

کمزور (آسان)۔

کیا تیری بھی ناہن لوکن ہنر معلوم ہنر
ونہ آیاو نہ توہی تھو پستہ اچھ پستہ رتھہ تہ
نماز کرو قائم ہنر دلجو زکوٰۃ (مگر تم اسے جنگ
کمن مال دار) وہی گوؤ نیلہ ہنر پستہ جنگ
کرن فرس کرنہ او تہ یکدم لگو تمو منتر کینہہ
انسان لوکن ہنر تھہ پاستھ کھوڑنہ پستہ پاستھ
کھوڑنہ پستہ بلکہ تمہ کھوڑ تہ ہادے۔ ہنر
نہ اسے سانس پروردگار! تریہ کیاز چھہ جنگ
کرن اسے پستہ فرس کوڑت! اسے کوہہ ہنر
تریہ کینتر کالہ ہنر مہلت؛ تہ ونکھہ نہ
دنیہ ہک قاید پستہ موسیٰ پایہ تہ ایس تقویٰ پلناو
تسند ہنر پستہ پستہ واپس (زہنگ) ہنر
تہ توہی پستہ پستہ نہ کھوڑنہ ہنر ہنر اوت
(تہ) ظلم کرنہ۔

توہی ہنر تہ اسو موت رتھہ توہی ہنر
مقبوط قرآن منتر (تہ کوہہ) اسو۔ ہنر
(یعنی پستہ کتہ چھ کاونہ آمتین لوکن) کاٹھہ ہنر
وانان چھہ تہ (ہنر) چھہ وانان نہ ہنر اللہ
(تعالیٰ) ہنر طرفہ تہ اگر کاٹھہ ناکارگی وانان

أَيُّنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ
كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ ۚ وَإِن
تُصِيبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ
عِنْدِ اللَّهِ ۚ وَإِن تُصِيبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا
هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ۚ قُلْ مَن عِنْدِ

اللَّهُ، فَمَا لَ هُوَ إِلَّا الْقَوْلُ لَا يَكَادُونَ
يَفْقَهُونَ حَرِيثًا ۝

چھکھ تہ وانان چھو زریہ چھہ چاتہ طرفہ۔ تہ
ونکھ (ز) سورے (کیپتہ) چھہ اللہ (تعالے)
ہندری طرفہ۔ لہذا یکن کیاہ چھہ گو مت زریہ
چھہ کاتنہہ کتھ فکر ترس نزریہ (تام تہ)
واتان!

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا
أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ
وَإِزْلَمْتَ لِلنَّاسِ رُسُولًا، وَكَفَى
بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝

یس ہر تر تریہ واتی سہ چھہ اللہ (تعالے) ہند
طرفہ تہ یوسہ ناکارگی تریہ واتی سہ چھہ تریہ
پستہ طرفہ تہ اسہ چھکھ تہ لوکن ہند خ طرفہ
رسول بناوتھ سوزمت تہ اللہ (تعالے) چھہ
کافی گواہ۔

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ
تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۝

یس رسولہ سہز اطاعت کر (تہ زانی تو ز) تم
کر اللہ (تعالے) سہز اطاعت تہ یکن لوکھ تھر
پھرتھ گے تہ (یاد تھو ز) اسہ چھکھ تہ تہ
تہن پیٹھ راچھدر بناوتھ سوزمت۔

وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ
عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي
تَقُولُ، وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبْتَغُونَ
فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، وَ
كَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝

بہ چھہ تم وانان (ز سانی کام تہ چھہ) فرمانبردار
پتہ بیٹہ تریہ بش نیس تریہ ان چھہ تہ تمواندر
چھہ اگہ جماعت یوسہ تھہ یہ کتھ تہ وانان چھہ
(روتلہ) مخالف تدہ ہر کران تہ (رات کیت) ہم
تدہ ہر تم کران چھہ اللہ (تعالے) چھہ تہن لیکھت
رتھر ہر آوتھ تھاوان۔ اوکتر روز تہ تہن بش دور تہ
اللہ (تعالے) ہس پیٹھ کر توکل۔ تہ اللہ (تعالے)
ہس پتہ چھہ بہ کاتنہہ کار ساز سہ حاجت۔

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ، وَلَوْ كَانَ
مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ
اِخْتِلَافًا كَثِيرًا ۝

اد کیا تم لوکھ چھنا قرآن متعلق سوان سوچان
بہ (چھنا زانان ز) ہر گاہ سہ اللہ (تعالے) ہند
ورایہ (کاتنہہ بیٹہ) ہند طرفہ آسہ ہے؟ تہ تم
سہ ہن تھہ اندر یقینا وراہ اختلاف۔

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ
أَدْعَاؤُهُمْ، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى
أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ
يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ، وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ

بہ بیٹہ (تہ) تہن بش امیخ یا خوف کاتنہہ
کتھ واتان چھہ تہ تم چھہ تھہ مشہور کرتھ تھاوان
تہ اگر تم (یکہ کتھ) رسول کن تہ پتہن جان
کن تریہ ہن، اد تمواندر ہم (لوکھ) یس کن کتھن

عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْعُهُ الشَّيْطَانُ
إِلَّا قَلِيلًا ﴿۳۷﴾

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا
نَفْسَكَ وَحَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى
اللَّهُ أَنْ يَكْفِيَ بِأَسَ الَّذِينَ كَفَرُوا
وَاللَّهُ أَشَدُّ بِأَسَاءٍ وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿۳۸﴾

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ
نَصِيبٌ مِمَّا هِيَ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً
سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِمَّا هِيَ وَكَانَ
اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْبِتًا ﴿۳۹﴾

وَإِذَا حُجِبْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ
مِمَّا أوردُوهَا، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿۴۰﴾

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ
الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وَ مَنْ أَصْدَقُ
مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴿۴۱﴾

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ وَاللَّهُ
أَرَدَّكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ، أَلَا تَرِيدُونَ أَنْ
تَهْتَدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ
فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿۴۲﴾

ہنراصلیت (معلوم کر تھہ ہرکان چھہ ، تم لہہ ہن
(ہن ہنر حقیقت) تہ ہر گاہ تو ہہ پلٹھ اللہ
(تعالے) سُد فقول تہ تہنر رحمت آسہہ ہ تہ
کڑ تہو وراہی مکیو ہو تو ہہر شیطاںس پتہہہ
لہذا کر تہ اللہ (تعالے) ہنر و تہ جنگ تہ ہیکھ
نہ پتہہہ پانہ وراہی (کائنہ ہند) ذمہ وار تھہر لو تہ
تہ (چانی کلام چھہہ پھرا بہ نہ) تہ کر کھہ مؤمن
آماجہ ۔ سبھا ممکن چھہہ ز اللہ (تعالے) کر کافر ن
ہند جنگ بند ۔ تہ اللہ (تعالے) سُد جنگ چھہہ
(سار وے کھوتہ) ہادے مہن سجت (آسان)
تہ تہو سُد عذاب (تہ) چھہہ (سار وے کھوتہ)

ہادے مہن سجت (آسان) ۔
یس (شخص) ہر سفرش کر تہنر تہا طر آسہہ
تہہ منزاکھ حصہ تہ یس شخص چھہہ سفرش
کر تہہ اندر آسہہ تہنر تہا طر (تہتھہ) حصہہ
بہہ چھہہ اللہ (تعالے) ہر تھہہ کتھہ پٹھہہ پلوہہ
قوہرت تھوان ۔

بہہ ہیلہہ تو ہہ کائہہ دُعا کر تہہ ہہو تہ تو ہہہ کُرو
تہہ کھوتہ رت دُعا یا کُرو (کم سے کم) تہتھہہ (دُعا)
واپس ۔ اللہ (تعالے) چھہہ ہر تھہہ کتھہ ہند حساب
ہنر وول ۔

اللہ (تعالے) چھہہ سہ ذات زہ) تس وراہی چھہہہ
کائہہہ معبود سہ روز و تو ہہہ بلا شک قیا متہ ہنر
دہ ہس نام جمع کران ۔ ہنیمہ کس ہنس منز کائہہہ
شک چھہہہ تہ اللہ (تعالے) ہند کھوتہ ہاد کسہنر
کتھہ ہنیکہہ ہنر آسٹھہہ ؟

بہہ تو ہہہ کیا چھہہ (گومت نہ) منا نقن متعلق چھہہ
(توہہ) نہ رُدر (گومتی) ہنیلہہ زن یہ توہہ کومت
چھہہ تہہہ ہاعٹہہ چھہہ اللہ (تعالے) ہن ہنر و کرمی
کڑ ہنر ۔ کیا یس اللہ (تعالے) ہن ہلاک کومت

چھ سہ بیٹیوں کو توہمی و تہ پیٹھ اُنھہ؟ تہ یس اللہ (تعالیٰ) ہلک کر تہ بکھ نہ تہ بندہ ناطلسہ زانہہ کاٹہہ و تہ۔

تم چھ بیترہان نہ پتھر پاتھی تم (پانہ) کافر سیدے ہتھی چھ۔ کاش توہمی تہ بیدو (تہ پتھی پاتھی) کافر۔ تہ (تم تہ توہمی) گترہو ہوئی۔ اوکھ یوتانی (نہ) تم اللہ (تعالیٰ) ہتھی و تہ ہجرت کرن توہمی مہ بناوین تم اندر کاٹہہ اکھ دوست۔ پتہ ہرگاہ تم پتھی گترہن تہ توہمی ٹیوٹھ تم تہ نیت ہن بیوٹھ (تہ تہن) سر لاکھ قتل تہ تم مشر نہ بناوین (کاٹہہ) دوست تہ نہ (کاٹہہ) مدگار۔

صرف تم لوگو وراثی ہم (یا تہ) کتہہ تہ تہس تہس سوتی تعلق تھوان آسن بین تہ توہمی درمیان (کاٹہہ) معاہدہ آسہ (تہ) تم بین توہمی ہنش اللہ حالتز مشر نہ توہمی سوتی جنگ کرنہ (نہتہ) تہ پنسن قوس سوتی جنگ کرنہ ہتھی آسن (تم) پنسن سپن مشر انقباض تھوان تہ اگر اللہ (تعالیٰ) ہتھی ہے تہ تم ہن ہے یقینا توہمی پیٹھ غلبہ، تہیلہ کرنہ تم ضرور توہمی سوتی جنگ لہذا ہرگاہ تم توہمی ہنش بوٹھ کھسن تہ توہمی سوتی کرن نہ جنگ تہ توہمی کن تراون صلح (کر بیخ بنیاد) تہ اللہ (تعالیٰ) ہن تھان نہ تہندہ ہتھی ہنن خلاف (جادتی ہنن) کاٹہہ و تہ (ہتھی)۔

توہمی بیوٹھ ضرور (کیتہہ) ہن لاکھ (تہتھی) نہ تم چھ بیترہان نہ توہمی ہنش (تہ) روز ہن امنس مشر تہ پنسن قوس ہنش تہ روز ہن امنس مشر نیلہ نیلہ تہ تم قناس کن پتھر و تہ آہ تہ تہ چھ تہ مشر ہتھی واررک لاینہ یوان روڈی ہتھی اد ہرگاہ تم توہمی ہنش دور روزن نہ تہ توہمی کن

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَّالِيَاءَ وَلَا نَصِيرًا ①

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصْرَتِ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَا تَوَقَّافًا لِلَّهِ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ فَإِنْ اعْتَذَلُوكُمْ فَلَمَّ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقَوَا إِلَيْكُمُ السَّلْمَ ۖ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ②

سَتَجِدُونَ الْآخِرِينَ يَرِيدُونَ أَنْ يُبَادِلُوا بِآمَنَتِكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكَسُوا فِيهَا ۚ فَإِنْ لَمْ يَخْتَرُوا لَكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلْمَ وَيَكْفُوا إِلَيْكُمْ فَخُذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا

لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴿۱۲﴾

۱۲

صلح (کریخ بنیاد) تراوان (ہ) تہ پینڑ اتھو پتھ
 رٹن (ہ) تیلہ رٹوگھ توہی تم تہ یستہ دکتیا
 توہی بیوگھ (تہ) کریوگھ قبل تہ پیم لوگھ پتھ
 تھو نہ اسہ چھہ تھن تھلاف توہہ پرزلوڑی دپل
 ڈرہ مپتر۔

بہیہ شوہر نہ سگانہ مؤمنس ز سہ کر سگانہ مؤمنس
 قبل۔ ماسوایہ (امہ کر ز) وشقہ (سوتی گترہ
 تیرہ کتھ) تہ یس ڈمون) سگانہ مؤمنس انڑنی
 منتر قبول کر تہ (تس پیٹھ چھینہ) اکھ مؤمن (غلام
 ہنر) گردن آزاد کرنی بہیہ چھہ رتہ مول (یعنی
 نون بہا) دین (واجب) یس مقولہ ہندن وارثن
 دین پیہ ماسوایہ امہ (صورتہ) کہ ز تم تراوس
 صدقہ کنہ۔ تہ اگر سہ (مقتول) تہند کتہ دتھن
 قومہ منتر آسہ تہ سہ آسہ (پانہ) مؤمن تیلہ چھینہ
 (صرف) اکھ مؤمن (غلام ہنر) گردن آزاد کرنی
 (سپٹھا) تہ اگر سہ (مقتول) کنہ تھہ قومہ
 منتر آسہ یکن تہ توہہ درمیان معاہدہ آسہ تیلہ
 چھہ رتہ مول (قاتلس) پیٹھ واجب) یس
 تس (مقتول ہندن) وارثن دین پیہ۔ یحہ
 پٹھ چھینہ اکھ مؤمن (غلام ہنر) گردن آزاد
 کرنی تہ ضروری۔ تہ یس نہ (تھہ سنب تلہ)
 لہر۔ تیلہ چھینہ تس دھن رتھن پے در پے روڑ
 ڈرنہ (واجب) یہ (نرمی) چھینہ اللہ (تعالیٰ)
 ہند طرفہ شفقتہ کر ونگر تہ اللہ (تعالیٰ) چھہ پٹھا
 زانن وول (تہ) حکمتہ وول۔

بہیہ یس (شخص) سگانہ مؤمنس زاننہ ماننہ قتل
 کر تہند سزا چھہ جہنم (تہ) سہ گزھ تھہ اندر
 یز کال تا روزان تہ اللہ (تعالیٰ) سپد تس
 پیٹھ ناراض تہ تس کر (پسنہ دگاہہ ہنہ) دور۔
 تہ تہند یا پتھ کر سپٹھا، بوڈ عذاب تیار۔

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْتُلَ مُؤْمِنًا لَا
 خَطَاةَ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ
 رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى
 أَهْلِهَا إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ
 قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ
 رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ
 بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ
 مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
 مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
 شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ذَلِيلَةٌ مِنَ اللَّهِ
 وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿۱۳﴾

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا
 فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَ
 غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ
 عَذَابًا عَظِيمًا ﴿۱۳﴾

اے ایماندارو! سیدے توہم اللہ (تعالیٰ) سبز
و تہ سفر کران آسو تہ چھان بہن آسو کران۔ تہ
یس توہم سلم کرو تس مہ آسو (یہ) و نان
نہ تر چھک تہ مؤمن۔ توہم چھو دنیاوی زندگی
ہند سامانہ بہن تھان۔ اہ اللہ (تعالیٰ) ہس
نش چھو واریاہ مال غنیمت۔ گوڈ آسو توہم
(تہ) تھقی۔ پیہ کوز اللہ (تعالیٰ) ہن توہم
پیٹھ احسان لہند توہم پیٹھ چھ لازم (نہ) توہم
آسو چھان بہن کران۔ یہ کینترھا توہم کران چھو
تہ نشہ چھ اللہ (تعالیٰ) بے شک خیر دار۔

مؤمنو مشر تھقی بہتھ روزن والی بکن کانہہ
ضرر چھتہ وومتت چھنہ برابر آتھ بہکان) تمن
ستہ بیک پیتر مال تہ جان بہتھ اللہ (تعالیٰ) سبز
و تہ جہاد کرن والی چھ۔ اللہ (تعالیٰ) ہن چھہ
پسنو مالو تہ جانو ستہ جہاد کرن والین
(پتھ کن) بہتھ روزن والین پیٹھ درجس مشر
فضیلت ڈر مشر بہ پیٹھ سارنہ ستہ اللہ
(تعالیٰ) ہن جانرک وعدہ کورمت۔ تہ اللہ
(تعالیٰ) ہن چھہ جہاد کرن والین (پتھ کن)
بہتھ روزن والین ہند کھوتہ (سپٹھا) بڑ اجرک
و وعدہ کریمہ (ضرور) فضیلت ڈر مشر۔

(امہ فتنیک معنی چھ) تسنہ (یعنی خدایہ بندہ)
طرفہ واراہ درجات تہ مغفرت میلن تہ رحمتک
حاصل سپدن تہ اللہ (تعالیٰ) چھ سپٹھا
بختن ہار (تہ) پھیر پھیر رحم کرن وول۔

بکن لوکن ملاکو اتھ حالتر مشر وفات ڈر نہ تم
آسو سپنن روزن پیٹھ ظلم کرو نہ تم ورن
تسین نہ توہم کتھ (خیاس) مشر آسو و ہ تم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا
لِمَن آتَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلْمَ كَسْتُمْ
مُؤْمِنًا ۖ تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَازِمُ كَثِيرَةٌ
كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ
عَلَيْكُم فَتَبَيَّنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝۱۰

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ
اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ
الْحُسْنَ، وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى
الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۝۱۰

دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً، وَكَانَ
اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝۱۰

۱۰

إِنَّ الَّذِينَ تَوَقَّعُوا الْمَلَائِكَةَ ظَالِمِينَ
أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فَايَمَنَّا بِكُمْ، قَالُوا كُنَّا
مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ، قَالُوا أَلَمْ

تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿۱۵﴾

(یعنی ہجرت نہ ہوتی تھی ہجرت ہوتی تھی) و تنگہ در جواب
نہ اسی اسی ملکس مشر کمزور زانہ یوان (ا) و
کئی کئی ہجرت) تم (ملک) دیکھ جواب، کیا
اللہ (تعالیٰ) سبز زمین اسی تاہ کشتار؟ نہ
تو ہی کئی ہو تھی مشر ہجرت۔ لہذا تم لوگوں
ہند ٹھکانہ آسہ بہتیم تو سہ چھین روز نہ کہ لحاظ
سہما (ہے) خراب بجائے۔

إِلَّا الْمُشْتَغَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿۱۶﴾

وہ فی گوئی تم لوگ ہم مردو، زنانو تہ شرلو مشر
پڑی کئی کمزور اسی (تہ) تم اسی تہ کئی تہ بیک
طاقت تھوان تہ نہ اسی کا نہ تہ تہ تمن نظر
گرتھان۔

فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا ﴿۱۷﴾

تم لوگوں ہند باجہ چھین اللہ (تعالیٰ) سبز نجاش
نزدیک، تہ کیا نہ اللہ (تعالیٰ) چھینی سہما
معاف کرن وول (تہ) بخشنہ وول۔

وَمَنْ يَهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعَمًا كَثِيرًا وَسِعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿۱۸﴾

بہی یس (شخص تہ) اللہ (تعالیٰ) سبز و سہ
ہجرت کر سہ لہ ملکس مشر حفاظتہ ہجہ واریاہ
جایہ تہ نہ شمال (ہند سامانہ) تہ یس (شخص)
اللہ (تعالیٰ) تہ تہ رسولس کن بہتہ گر سہ
ہجرت کرتہ نہیر بہتہ پیہ تہس موت۔ (ا) زانی
تو نہ (تہ) تہ ہر گو اللہ (تعالیٰ) ہس مسہ تہ
اللہ (تعالیٰ) چھ سہما (ہے) بخشن وول
(تہ) چھیری چھیری رحم کرن وول۔

۱۸

بہ ہر گاہ تو ہی کھوڑان چھو نہ کا فر تراو تو ہی
مصیبت مشر۔ (ا) بیلہ تو ہی ملکس مشر سفر کرو
تہ تو ہی چھو نہ کا نہ گونا نہ نماز کرو تہ صوفیہ کا
چھ بے شک تہ تہ نہ وائہ دشمن۔

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ كُنْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿۱۹﴾

لہ سفرس مشر چھ برو تہ نماز قصر کرنک اجازت۔ بہتیم چھ مراد نہ ہر تو ہی
دشمن نہ خوف تہ اسی تیلہ پرو نماز وول وول۔

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ
 الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ
 وَلْيَأْخُذُوا آسِرَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا
 فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَاءِكُمْ وَلَا يَطَّرُوا
 طَائِفَةَ الْآخَرَىٰ كَمَا يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا
 مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ
 وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ وَذَٰلِكَ
 لِكَيْ تَتَّقُوا اللَّهَ وَأَسْلِحَتَكُمْ
 وَآمَنْتُمْ عَلَيْكُمْ فِيمَا مَلَئَتْ
 وَأَحَدَةٌ ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
 إِنْ كَانَ بِكُمْ أذىٌ مِنْ مَطَرٍ
 أَوْ كُنْتُمْ مَرَضَىٰ أَنْ تَضَعُوا
 حِذْرَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ
 لِلْكَافِرِينَ ۝۱۵

بہ بیٹیلے تو (پانچ) پھرتی آسکھ تو تیر پیرنا ویکھ
 تم نماز تہ (پیر یہ نہ) تمو منتر جہاز ہند اکھ حصہ
 سپر تریہ سستی استاد تہ پین سلح سامانہ منن
 سستی۔ پتہ بیٹیلے تم سجدہ کرن تہ تم سپرک تو ہر
 پتہ کنہ (حفاظتہ باپتہ) استاد۔ پتہ پین جماتہ
 ہند بیکھ حصہ سستی ونب نماز چھنہ پیر منتر (رونبہ
 کن) تہ پرن تریہ سستی نماز تہ تم روزن بچاک
 سامانہ تہ پین سلح ہوتہ۔ یک لاکھ کافر چھہ تم
 چھہ بیٹھکان زکاش تو ہی سپر ہو پینہو ہتھیار
 ہنہ غافل تہ تم کرن یکدم تو ہر پیٹھ حملہ ستہ
 ہرگاہ روہ موکھ تو ہر تکلیف آسہ و یا تو ہی سید
 آسو تہ پینہ ہتھیار (پتھر) و اللہ تھولس پیٹھ
 چھو نہ تو ہر کانہہ گوناہ۔ تہ کر تھہ تہ گرشھن
 ساری احتیاط کرن۔ اللہ (تعالیٰ) ہن چھہ یقینا
 کافر ہند باپتہ رٹوا کرن وول عذاب تیار
 کر تھہ تھو مت۔

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ
 قِيَامًا وَتَعْوَدًا وَعَلَّ جُنُوبَكُمْ ۗ
 فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۗ إِنَّ
 الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا
 مَوْفُوتًا ۝۱۶

اد بیٹیلے تو ہی نماز پڑتھہ موکھو تہ اللہ (تعالیٰ)
 روزیون وودنہ تہ بہتہ تہ لر تراوتھہ یاد کران
 پتہ بیٹیلے تو ہی اطمینان کیو تہ نماز پیری زہو
 شپتھ سنبالتھہ۔ نماز چھہ بے شک مؤمنین
 گنڈتھہ و تھس پیٹھ (ادا کرنی) اکھ فرہن تھہروہ
 آ منتر۔

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۗ إِنْ تَكُونُوا
 تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا
 تَأْلَمُونَ ۗ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا
 يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
 حَكِيمًا ۝۱۷

بہ مہ کریو تو ہی یہ قوم (دشمن ہند) تلاش
 کرنس منتر سستی۔ اگر تو ہر تکلیف سپرک
 چھو تیلے پتھہ پاٹھ تو ہر تکلیف سپرک چھو
 جس تہ چھہ تکلیف سپرک تہ تو ہی چھو اللہ
 (تعالیٰ) ہس نش سبج (یعنی تمہ فضل تہ کر بچ)
 وومید تھاوان سبج نہ تم وومید تھاوان چھہ
 تہ اللہ (تعالیٰ) چھہ سٹھا (ہے) زائن وول
 (تہ) حکمتہ وول۔

۱۵
۱۶

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ
اللَّهُ، وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ﴿۱۵﴾

وَأَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَحِيمًا ﴿۱۶﴾

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ
أَنْفُسَهُمْ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ
خَوًّا أَنَا آثِيمًا ﴿۱۷﴾

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا
يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ
يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، وَ
كَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿۱۸﴾

هَآئِنْتُمْ هَآؤَآءَ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فَمَنْ يُجَادِلِ اللَّهَ
عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ
عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿۱۹﴾

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ
ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا
رَحِيمًا ﴿۲۰﴾

وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُ

اسے چھپے تریے کن (یہ) صداقت بڑے کتاب
بے شک اوکو نازل کر مہتر تر تر کرکھ لوکن
ورمیان فاصلہ تمہ (حقہ) دوسی یس اللہ (تعالیٰ)
ہن تریے ہوومت پچھے۔ بیہ بڑے نہ نہ تر خیانت
کرن والین ہند کتہ تر ون وول۔

بیہ منگ اللہ (تعالیٰ) ہس (تہتر) بخشش
اللہ (تعالیٰ) پچھے یقینا سبھا (ہے) بخشش
وول (تہ) پھیرے پھیرے رحم کرن وول۔

بیہ مس کر تر مجاہدہ تم لوکن ہند کتہ یکم پستین
نفس ہند خیانت کرن چھ۔ یکم (لوکھ) خیانت
مشر بڑے ہتر تہ سبھاہ گوناہ گار آسن، تم
پچھتہ اللہ (تعالیٰ) پسند کرن۔

تم چھ لوکن نش پر دم حقوان تہ اللہ (تعالیٰ)
ہس نش چھتہ پر دم حقوان۔ بوڑے تہ تہیلہ
تم راس یشھن کتھن ہند مشورہ کرن آسان
چھ، یکم اللہ (تعالیٰ) پسند چھتہ کرن، تہ سہ
(اللہ تعالیٰ) چھ تم نش آسان۔ تہ یہ کتہ ترھا
تم کروڑی چھ اللہ (تعالیٰ) چھ تمہ تباہ تہ
برباد کرن وول۔

بوزو! توہی چھو تم لوکھ یکم تہند کتہ دنیاوی
زندگی مشر خر وان رودی ہتر چھ مگر قیا مشر دہ
کس تر تہند کتہ اللہ (تعالیٰ) ہس سترے یا کس
اسے تہند سفاقت کرن وول؟

تہ یس شخص تہ کا نہہ بدی کر یا پسنس نفس
پچھ ظلم کر تہ پتہ پتہ اللہ (تعالیٰ) ہس
نش (پستین گوناہن ہنر) معافی۔ اچ سہ لہ
اللہ (تعالیٰ) ہس سبھا بخشش وول (تہ) پھیرے
پھیرے رحم کرن وول۔

بیہ یس شخص کا نہہ بدی کر تمیک کرن پتہ

عَلَّ تَفْسِيهِ ، وَ كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
حَكِيمًا ﴿۱۲﴾

(پھر تہ) تھی پیٹھ تہ اللہ (تعالیٰ) چھ سہٹا
زانن وول (تہ) حکمتہ وول۔

وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ آثِمًا تَمَّ
يَزِرْهُ بِهَا بَرِيئًا فَقَدْ اخْتَمَلَ
بُهْتَانًا وَلَا تَأْمَأْمِئْنَا ﴿۱۳﴾

بہ بیس شخص کائہ اثر یا گوناہ کر پتہ دیہ کائہ
بے قصور تھی تھی الزام اد (زاد تو زہ) تھی تھی
اک اپریک تہ تہ وانہ گو نہت بور۔

وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَ رَحْمَتُهُ
لَهَمَّثَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضْلُواكَ ،
وَمَا يُضْلُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَ مَا
يُضْرُونَكَ مِنْ شَيْءٍ ، وَ أَنْزَلَ اللَّهُ
عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ مَا
لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ، وَ كَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ
عَظِيمًا ﴿۱۴﴾

بہ ہر گاہ تھی پیٹھ اللہ (تعالیٰ) سند فضل تہ
تہتر رحمت آسہ تہ تہ تہ تم (یعنی دشمن)
سپر ہن پنس بد ارادس متر کامیاب (چنانچہ)
تمو متر اوس اکی ڈری (امر کتہ ہند) پو تہ اراد
کوڑمت تہ تہ کر ہے نے ہلک مگر تم کر ہن
تہ پتہ پانہ ورائی کائہ ہلک تہ تہ ہیکہ
نے تہ کہی تہ تہ نقصان و اتناوت تہ اللہ
(تعالیٰ) ہن چھ تہ پیٹھ کتاب تہ حکمت
نازل کر تہ تہ یہ کتہ تہ زانان اوس کھ
تہ (تہ) چھ تہ ، تہ تہ تہ تہ پیٹھ
چھ اللہ (تعالیٰ) سند بوڈ فضل۔

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ
بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ
النَّاسِ ، وَ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ
مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا
عَظِيمًا ﴿۱۵﴾

تہن لوکن ہند مشورہ او کپور تر اوتھ ہم صدقہ
یا نیک کتہ یا لوکن در میان اصلاح کرنک حکم
دوان چھ ، چھ تہ تہ تہ وار یا ہن مشورن متر کائہ
تہ رزہر (آسان) تہ بیس شخص اللہ (تعالیٰ)
سند رضا تر ہند تہ تہ تہ تہ (یعنی نیک
مشورہ کر) اسی دوتس (جلدہے) سہٹا

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا
تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ
الْمُؤْمِنِينَ لُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَ نُصَلِّهِ
جَهَنَّمَ ، وَ سَاءَ ثَمَامٍ ﴿۱۶﴾

تہ بیس شخص (تہ) ہدایت پور یا تھی لون گر تہ
پتہ (اُمس) رسولس سہٹا اختلاف نے کران گر تہ
تہ مؤمن ہند طریقہ وراے (کنہ بیس طرقتس)
پیٹھ پکے۔ اسی لوکن سہ تھی چہر س پتہ تہ
پتہ سہ لوگت چھ۔ تہ سہ دمون اسی جہنم
دارتھ تہ سہ چھ واراہ کچھ ٹھکانہ۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ
يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، وَمَنْ
يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿۳۱﴾

اللہ (تعالیٰ) بخشنے پر ہرگز سہ (گونا گاہ) نہ
تسند پیسہ (کاٹنے) شریک بناوے نہ یس گونا گاہ
تمیہ و سبھ آسہ (سہ) اچ پیسہ سہ حقہ پیسہ
(س) کر معاف۔ نہ یس شخص کاٹنے اللہ
(تعالیٰ) تسند شریک بناوے اچ (زانی تو زہ)
سہ پیسہ سبھ و تہ لستہ سبھا دور۔

إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنثَاءً وَإِنْ
يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا ﴿۳۲﴾

تم چھنہ اللہ (تعالیٰ) تراوتھ بے زو چیز و
ورائی (کاٹنے) آلو دو ان سبھ چھنہ تم بچھو
چھس شیطانس ورائی (بہ کاٹنے) آلو دو ان۔
(شمس شیطانس) یس اللہ (تعالیٰ) ہن
(پستہ درگاہہ لستہ) دور کورمت چھہ تہ (پیچہ)
پہ (ونیاو تر بہ تمہ چاہو بندو مشر ضرور اکھ
گنہ تھ حصہ۔

لَعَنَهُ اللَّهُ، وَقَالَ لَا تَخْذَنْ مِنْهُ
عِبَادًا، إِنَّكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴿۳۳﴾

تہ تم کرکھ ضرور گمراہ تہ پڑی پاٹھو دیا وکھ
(بچہ بچہ) وہ میتر تہ تہ تم نش کر ڈاڈ کرکھ
کرکھ تہ تہ تہ تہ تہ تہ تہ تہ تہ تہ تہ تہ تہ
کوف کرکھ تہ تہ تہ تہ تہ تہ تہ تہ تہ تہ تہ تہ
تبدلی تہ یس اللہ (تعالیٰ) تراوتھ شیطانس
دوست بناوے تہ (زلاو زہ) سہ آونہ وانہ گاس
مشر پینہ۔

وَلَا ضَلَّ اللَّهُ مَا كَانُوا يَدْعُونَ، وَلَمْ يَكُنْ
لَهُمْ شَرِيكٌ فِي شَيْءٍ، وَإِن يَدْعُوا
فَلَيْبَسَنَّكُمْ إِذَا نَادَوْا، وَلَا مَرْتَبَةٌ
لَهُمْ، فَلْيَغْيِرْ بَرَكَةَ اللَّهِ، وَمَنْ يَتَّخِذِ
الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ
خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿۳۴﴾

سہ (شیطان) چھہ تم و عہ دو ان تہ اکثر تھا و ان
بہ چھنہ شیطانس تم سبھ تسبو فریبہ چھو کتھو
ورائی (کتہ کتہ ہند) و عہ کران۔
تمن لوکن ہند کھانہ تہ چھہ چھہ تہ تم لین
نہ تمہ لستہ کتہ تر لپچ جائے۔

يَجِدُهُمْ وَ يَمَنِّيهِمْ، وَ مَا يَجِدُهُمُ
الشَّيْطَانُ إِلَّا عَرُودًا ﴿۳۵﴾

بہ پیو لوکو ایمان اوتمت چھہ تہ نیک کامہ چھکھ
کر مشر، اسی کرکھ تم ضرور تھن باعن مشر

أُولَئِكَ مَا دَأَبَهُمْ جَهَنَّمَ، وَلَا يَجِدُونَ
عَنْهَا مَجِيصًا ﴿۳۶﴾

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

الْأَثَرُ خَلِيدٍ بَيْنَ فِيهِمَا آدَاءٌ وَعَدَاةٌ
حَقًّا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴿۲۷﴾

لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ
الْكِتَابِ، مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزِيهِ، وَ
لَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا
نَصِيرًا ﴿۲۸﴾

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ
أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَدِ انْتَهَىٰ بِذُنُوبِهِ
الْجَنَّةَ وَلَا يُظَلَّمُونَ نَقِيرًا ﴿۲۹﴾

وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَّا مِمَّنْ أَسْلَمَ
وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ
إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ
خَلِيلًا ﴿۳۰﴾

وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَ
كَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ﴿۳۱﴾

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، قُلِ اللَّهُ
يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، وَمَا يُثَلِّي عَلَيْكُمْ فِي
الْكِتَابِ فِي يَتِمَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا
تُؤْتُونَ مَنَّا كِتَابَ لَهُنَّ وَتَرَعَبُونَ
أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ
مِنَ الْوِلْدَانِ، وَأَنْ تَقُومُوا لِلنِّسَاءِ

وَأَنْتُمْ لِيَكُنَّ كَبْرًا مِنْكُمْ فِيكُمْ
مَنْزُورًا، تَمَّ هَمِيشَةُ رُؤْيَا - (يہ چھ) اللہ
(تعالیٰ) سُنْدِ پُورِ وَعَدِ - تہ اللہ (تعالیٰ) ہند
کھوتہ کسٹیز کتھ ہیکہ ہاد پُز آستھہ ؟

نہ چھ تہندلو آرزویو مطابق (سیدن وول) تہ
نہ اہل کتابن ہندلو آرزویو مطابق - (بلکہ ہیس
شخص کاشہ ہیکہ کر تہس یہ تہمی مطابق بدلہ
دہو تہ سہ ہیکہ تہ اللہ (تعالیٰ) ہس وراہی
کاشہ ہین دوست لبتھ تہ نہ مددگار۔

تہ ہم لوکھ، ادر مرد ستن یا زنانہ، مؤمن
آستہ کس حالتس مشرنیک کامہ کرن، ہم
سیدن جناس مشر دا نخل تہ تہمن پٹھہ ہس نہ
کھنڈر آنچہ ہند ترہ نییک اوت (تہ) ظلم کرنہ۔

ہس تہس شخصہ ہند کھوتہ ہاد کتھ دین چھ
رت داستھ ہیکان)؟ ہینو ہاد رتی پٹھو
ہل کران ہین پان اللہ (تعالیٰ) ہس حوالہ
کھوتہ آستہ تہ ابراہیم ہند دینچ پاروی (اختیار)
کر ہنڈر آستہ، ہس سلامتی سان پکن وول ہس
تہ اللہ (تعالیٰ) ہن اوس ابراہیم (ہین) نخل
دوست ہنومت۔

ہس یہ کثیرھا آسمان مشر چھ تہ یہ کثیرھا
زمینہ مشر چھ، (سورے) چھ اللہ (تعالیٰ)
سندے، تہ اللہ (تعالیٰ) چھ ہر چھ (کتبہ)
چیزک پور پور علم تھاوان۔

ہس یہ بھی لوکھ تہیہ (اگر کھوتہ ہاد) زنانہ
(نکاح) متعلق (حکم) دریافت کران۔ ترون
(ہمن) اللہ (تعالیٰ) ہن چھ توہم تہمن
متعلق اجازت دہیت تہ یہ توہم (ہتھ) کتابہ
مشر (ہس بجایہ) پڑھہ ہوزانہ آمت چھو
سہ چھ تہمن ہتہم زنانہ متعلق ہس نہ

بِالْقِسْطِ، وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿۱۸﴾

تو ہی تہہندہ مقرر کرنہ آہتر حق ادا کران چھو
مگر جس سوتی چھو نکاح کرن بیشرہان۔
تہ (بیہ) چھہ کمزورہ کورین متعلق، بیہ
(اومو توہی یہ حکم دہن آہمت) نہ یتیمین سوتی
رؤزورہ الصافک معاملہ کران تہ یوسہ نیک کام
تہ توہی کرو (یاد تھووہر) اللہ (تعالیٰ) چھہ
تہ زبیر پٹھو زانان۔

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَغْلِهَا يُشْوَرًا أَوْ
إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا
بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، وَإِنْ
أُخْضِرْتِ الْأَنْفُسَ الشُّحُّ، وَإِنْ
تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿۱۹﴾

بیہ ہرگاہ کانسہ زانہ پتس خاوندہ سہد طرفہ
کھوچرک یا نا پیرسانی ہند اندیشہ آہسہ تہ تم
دوہونی چھہ کانسہ گمانہ نہ تم کرن کتہ طرفہس بیہ
پانہ وانی صلح، تہ صلح چھہ (سار وپے کھوتہ)
بیہتر، تہ لوکن ہندین نفس منتر چھہ بخل
(کرنک خیال) پانہ کرنہ آہمت۔ بیہ اگر توہی
نیک کامہ کرو تہ تقویٰ پراووہر (یاد تھووہر
نہ) یہ توہی کران چھو تمہ انتہہ چھہ اللہ (تعالیٰ)
پیرک پٹھو خبردار۔

وَلَنْ تَسْتَظِيحُوا أَنْ تَحْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ
وَلَوْ حَرَضْتُمْ فَلَا تَوِيلُوا لِكُلِّ الْمَبِيتِ
فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمُعَلَّقَةِ، وَإِنْ تُصْلِحُوا
وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿۲۰﴾

بیہ یوز وے توہی (عدل کر بیچ کاتراہ تہ)
خاہش کرو۔ توہی ہیکو تہ زنانہ درمیان
(توتہ) عدل کرتھہ۔ لہذا توہی مہ کرو (پکل
اکو ہے کن) جاد مال (تیمیک نتیجہ یہ نیر)
نہ سو (دویم) بیہ مخر باگ او زانہ (چیرک)
پٹھو تراونہ، تہ اگر توہی (پانہ وانی) صلح
صلح نہ کرو تہ تقویٰ پراووہر (یاد تھووہر)
اللہ (تعالیٰ) چھہ بے شک بخش وول (تہ)
چھیرک پھیرک رحم کرن وول۔

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِنْ
سَعْيِهِ، وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿۲۱﴾

تہ ہرگاہ تم (دوہوے) اکھ اُکس نش الگ نیک
تہ اللہ (تعالیٰ) بناو (تمو منتر) پرتھہ اُکس

۱۸ یعنی یتیم کورین متعلق یمن ہر کانسہ چھہ بروٹھ تہ پراسان کرن وول آہسہ۔
۱۹ یعنی پانہ وانی ہشر میوہ یا مزار، رل نو۔

پسندہ طرفہ سبب کثرتہ اسلوب حال تہ اللہ (تعالیٰ)
چھہ وسعت دینہ وول (تہ) حکمتہ وول۔

بسیہ یہ کثیرھا آسمان منتر چھہ تہ یہ کثیرھا زمینیہ
منتر چھہ (سورے) چھہ اللہ (تعالیٰ) سندس
تہ بکین لوکن توہہ بروٹھہ کتاب دینہ آسمتر
اس، اسہ چھہ بتمن (تہ) تہ توہہ تہ تاکیری
حکم دینتہ نہ توہہ پراوو اللہ (تعالیٰ) سند
تقویٰ، تہ ہرگاہ توہی انکار کرو تہ (یاد تھوو
نہ) یہ کثیرھا آسمان منتر چھہ تہ یہ کثیرھا
زمینیہ منتر چھہ (تہ سورے) چھہ اللہ (تعالیٰ)
سندس۔ تہ اللہ (تعالیٰ) چھہ بے نیاز تہ
بے شمار تعریفین ہند حقدار۔

بسیہ یہ کثیرھا آسمان منتر چھہ تہ یہ کثیرھا
زمینیہ منتر چھہ (تہ سورے) چھہ اللہ (تعالیٰ)
سندس۔ تہ اللہ (تعالیٰ) چھہ پرہہ کاہہ
ضروری سفاقت کرن وول۔

اے لوگو! اگر سہہ پیشہ تہ توہہ مارو تہ
بین ولوکن، ابنہ، تہ اللہ (تعالیٰ) چھہ اٹھ
(کتھہ) پیٹھہ (پوڑ) پوڑ قومرت تھاون۔
یس شخصیں دنیاہک بدلہہ بیترھان آسہ، اڈ
(سہہ بوزن نہ) اللہ (تعالیٰ) ہس ریش چھہ
دنیاہک (تہ) تہ آخرتکی (تہ) وہ لونی قسمن
ہندر (انعام تہ اللہ (تعالیٰ) چھہ سبھہ
بوزن وول (تہ) وچھن وول۔

اے ایماندارو! توہی بٹو پوڑ پاتھر انقاس
پیٹھہ قایم روزن واول (تہ) اللہ (تعالیٰ) ہند
خاطرہ گواہی دینہ واول۔ ہرگاہ (تہنتر گواہی) توہہ
پانس (نہات) یا مائس ماجہہ یا نزدیک آستان
خلاف (تہ گڑھان) آسہ۔ ہرگاہ (سہہ) یس
خلاف گواہی دینہ آسمتر چھہ (مادار آسہ یا

وَاللّٰهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ، وَ
لَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اٰذَنُوْا الْكِتٰبَ مِنْ
قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنْ اتَّقُوْا اللّٰهَ ، وَاِنْ
تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا
فِي الْاَرْضِ ، وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيْدًا ﴿۱۹﴾

وَاللّٰهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ، وَ
كَفِيْ بِاللّٰهِ وَكِیْلًا ﴿۲۰﴾

اِنْ يَشَآءْ يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَاْتِ
بِاٰخَرِيْنَ ، وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيْرًا ﴿۲۱﴾

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ
ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ، وَكَانَ اللّٰهُ
سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿۲۲﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا
قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ
أَنْفُسِكُمْ أَوَالِوِ الْوَالِدِيْنَ وَالْأَقْرَبِيْنَ ، اِنْ
يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ اَوْلىٰ بِهِمَّآ
فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ، وَاِنْ
تَلَوْا اَوْ تَعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا

۱۹
۲۰
۲۱
۲۲

تَعْمَلُونَ خَيْرًا ﴿۱۷﴾

محتاج آسہ تہ اللہ (تعالیٰ) پیچھے (دو توفی صورتیٰ منتر تہند کھوتہ) جاوے کن دو توفی ہندرت بیہترہ ون۔ اوکھو مس آسو توہر کونہ ڈہیل) خاہترہ ہنتر پاروی کران۔ بیچھ زن توہر عدل کرٹھ ہیکو تہ ہرگاہ توہر (کاہنہ شہادت) کھٹو یا (پوز ونہ رتہ) مسرو کھور پیچھ تہ (یاد تھاوو ز) یہ کینترہا توہر کران پیچھ اللہ (تعالیٰ) پیچھے یقینا تمہ رتہ آگاہ۔

اسے ایماندارو! ایمان ابو اللہ (تعالیٰ) ہس پیچھے تہ تہندس رسول پیچھے تہ تہہ کتاب پیچھے یوہ سو تھو پستہس رسول پیچھے نازل کر مہتر چھینہ، بیہ تہہ کتاب پیچھے یوہ سو تھو (امیر) بروٹھ نازل کر مہتر چھینہ۔ تہ یس شخص اللہ (تعالیٰ) ہس تہ تہندین ملائکن تہ تہندین کتابن تہ تہندین رسولن تہ پلوس پیسہ وائس دہ ہس انکار کر، تہ (زبانو ز) مس پیچھ حد حیرہ جیہ مہتر ای منتر ہینہ آمت۔

یکو لو کو ایمان اولن پتہ کوڑکھ انکار۔ بیہ اوکھ ایمان تہ بیہ کوڑکھ انکار، پتہ گے کفرس منتر (بیہ من تہ) بڑان، اللہ (تعالیٰ) کر تہ ہرگز جنم معاف تہ نہ تاوتن (نجات) وٹھ۔

تہ بوز ناوکھ مناقق (پہ) خبر زہ تہندہ خاطرہ چھ کر لوٹھ عذاب (مقدر)۔

یم مؤمن تراوتھ کافرن دوست بناون چھ کیا تم چھا جنم رتہ عزت کی خاہترہ؛ اگر شہہ کتھ چھینہ (تیلہ) تھون تم یاد ز) عزت پیچھے (سر) سألیم اللہ (تعالیٰ) ہند ہے اکتس منتر۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَيَّ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِن قَبْلُ، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿۱۸﴾

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا أَذْأَدَٰ ذَا كَفَرُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُفْرِكَهُمْ وَلَا لِيُهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿۱۹﴾

بَشِيرِ الْمُنْفِقِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَلْيَتَّخِذُونَ عِنْدَهُمُ الْعِدَّةَ فَإِنَّ الْعِدَّةَ يَتَّبِعُونَ جَمِيعًا ﴿۲۰﴾

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَعْبُدُوا مَا لَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿١٠٠﴾

بیمہ چھ تھو توہمہ پیٹھ پتھ کتابر اندر یہ (حاکم) نازل کریتھ تھومت نہ سئلہ توہمہ اللہ (تعالے) بندہن آین متعلق انکارک اظہار بوزو یا بتمن (آین) سوتو ہزل کرتہ یوان بوزو تہ تمن (مخولہ کرن والہن) سترہ مہ بہو۔ (توت تانی) یوت تانی تم تمہ وراہی بیم کتہ کتھ مشر آورہ گرتھن ہن)۔ توہمہ آسو تھ (مخولہ بازن نیش بہنہ کس) صورتس مشر بے شک ستنہ ہوک (زانتہ ستنہ واولی)۔ اللہ (تعالے) روز بے شک منافقن تہ کافرین سارنہ جہنمیس مشر جمع کریتھ۔

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُفْرِهِمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْنَةٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَدْ إِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْكُمْ عَلَيْهِمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ يَخُصُّكُمْ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٠١﴾

(تمن منافقن) ایم تہندہ حقہ تباہی باچتھ پیار وئی روزان چھ، تہ ہرگاہ توہمہ اللہ (تعالے) بندہ طرفہ کانہن فتح (حاصل) سپر و تہ (توہمہ) چھو ونان تر کیا اسی اسی نا توہمہ سوتو؛ تہ اگر کافرین (کامیابی ہند) کانہن حصہ میلہ اہ (تمن) چھو ونان تر کیا اسی آیایہ تاہ توہمہ پیٹھ غالب؛ تہ (اسر) بچاوسے و (نا) توہمہ مؤمنن نشہ؛ لہذا کر اللہ (تعالے) توہمہ درمیان قیامتہ دوہم فاصلہ۔ بیم وہ نہ اللہ (تعالے) ہرگز کافرین مؤمنن پیٹھ غلبہ۔

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يُذَكِّرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٠٢﴾

منافق چھ یقینا اللہ (تعالے) ہس دوکھو دین سترھان۔ تہ سہ وہ تمن تہندہ دوکھک سزا۔ بیم سئلہ تم نماز کن گرتھنہ باچتھ استاد سپلان چھ تہ کاہل سان چھ استاد سپلان چھ لوکن اوان تہ اللہ (تعالے) ہس چھ گے یاد کران۔ تمن ہنتر حالت چھیہ (یاد خلیس تہ غفلتس) مشر باگ آسان۔ نہ چھ تم سکن (مؤمنن) سوتو تہ نہ چھ تم ہمن (کافرین) سوتو۔

مُذَبِّذِينَ بَيْنَ بَيْنٍ ذَلِكَ لَأَلَّ إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَأَلَّ إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿١٠٣﴾

تہ نیکس اللہ (تعالیٰ) ہلاک کر تہ لیکھ تہ
تہند خا طہر ہرگز (بخاریج) کا تہہ و تہہ -
اسے ایماندارو! مومن تہڑو تہہ مسہ بنا و لوکھ
کا بفر (پنٹی) دوست۔ کیا تو ہی چھو بیترہاں
ز اللہ (تعالیٰ) ہس دیو پانس خلاف نہہ
(وانہ) الزامک (یعنی الزام دیک) موقعہ؟

منافق آسن یقیناً جہنمہ کس سنورس مشر
سارہ وہے کھو تہ تلہ کہہ کس حسس مشر تہ
تہو لیم ہن تہ ہرگز (کا تہہ) تہہند مدگار۔
جمو لوکو ورا ہی میو تو ہی کوڑ تہ اصلاح کوڑو کہ
تہ اللہ (تعالیٰ) ہند موی بیترہا کھ (پنٹی)
حفاظت، تہ پنٹی عبادت کرکھ خا لیس اللہ
(تعالیٰ) ہند باپتہ۔ اہیم لوکھ چھ مومن
مشر شامل تہ اللہ (تعالیٰ) دیہ مومن
عنقریب بوڑا ہر۔

ہرگاہ تو ہی شکر کرو تہ ایمان اہو، تیلہ کیا
کر اللہ (تعالیٰ) توہہ عذاب و تہہ؟ تہ
اللہ (تعالیٰ) ہے) چھ قدر دان تہ سہا
زان وول۔

اللہ (تعالیٰ) چھنہ ناکار کھہ ظاہر کرنی
پند کران وہہ تو گوڑ نیس پیدھ ظلم کرنہ
آمت اسہ (سہ ہیکہ تمہ ظلمک اظہار کرکھہ)
تہ اللہ (تعالیٰ) چھ سہا بوزن وول
(تہ) زبر پاتھو زان وول۔

اگر تو ہی کا تہہ نیکی نئی کرلو یا سمہ کھو
یا (کا تہہ ہنتر) یڈی معاف کرو اہ (زانونہ)
اللہ (تعالیٰ) چھ یقیناً سہا معاف کرن
وول (تہ) سہا تمہ درتہ وول۔

ہیم لوکھ اللہ (تعالیٰ) ہس تہ تہہدہن
رسولن انکار کران چھ بیہ چھ اللہ (تعالیٰ)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا
الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ
سُلْطَانًا مُبِينًا ۝

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الذَّرِّ الْأَسْفَلِ مِنَ
النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ۝

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا
بِاللَّهِ وَآخَلَصُوا لَهُمْ دِينَهُمْ لِيَكُنُوا
مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ
الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ
أَمْنتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ۝

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالشُّؤْمِ مِنَ
الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ
سَمِيعًا عَلِيمًا ۝

إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخَفُّوهُ أَوْ تَخْفُوا
عَنْ سُوءِ قَاتِ اللَّهِ كَانَ عَفْوًا قَدِيرًا ۝

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ
يُرِيدُونَ أَنْ يُفْسِدُوا قَوْلَ اللَّهِ

وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سُبُلًا ﴿۱۱۱﴾

أُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ حَقًّا، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿۱۱۲﴾

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرُهُمْ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿۱۱۳﴾

يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الضُّعْفَةُ بِظُلْمِهِمْ، ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذٰلِكَ، وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطٰنًا مُّبِينًا ﴿۱۱۴﴾

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِثْقَالَ ذَرَّةٍ، وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّثْقَالَ عَرِينٍ ﴿۱۱۵﴾

ہمس تہ تسدین رسولن درمیان فرقی کرنی میسرھان تو بیمہ چھہ وانان ز اسی مانوگھ کیہنہ (رسول) تہ کینشن کرو اکار بیمہ چھہ میسرھان ز اتھہ درمیان (درمیان) پانناو و کانہہ و تھاہ۔ تم لوگھ چھہ پلو تھہ کافر تہ اسہ چھہ کافر بن ہنہ خاطر رسوا کرن وول عذاب تیار کورمت

بیمہ بیمو لوگو اللہ (تعالیٰ) ہمس تہ تسدین (سارنے) رسولن پیٹھ ایمان اون تہ تمو کرو نہ تمو (رسولو) منز کانسہ اوس منز (تہ) فرقی۔ تم لوگھ چھہ تمھو ز سہ وہہ رتمن جلد تہندک اجر۔ تہ اللہ (تعالیٰ) چھہ سہما

بجشن ہار (تہ) چھپرک چھپرک رحم کرن وول اہل کتاب چھی تریہ مطالبہ کرن ز تہ کرکھ تمن پیٹھ آسمانہ پیٹھ اکھ کتاب نازل (تہ) پیٹھ مہ کر تہ تعجب) تہ کیا ز تمو کروو موسیٰ ہمس امہ کھو تہ تہ بوڈ مطالبہ۔ تمو و نیاوتس ز تہ بلون اسہ اللہ (تعالیٰ) تہ پانٹھو، اج تم رڈ تہندک ظلمہ کہ باعہتہ ہلاک کرن واک عذابن تہ تمو ہنو اکھ ووترھ (پن معبود)، سبیلہ زن تمن بش تنی (تنی) نشانہ آہتر اسی، پتہ کور اسہ امہ (قصور) نشہ (تہ) درگذر تہ اسہ دیت موسیٰ ہمس نرہ وانہ علیہ۔

بیمہ تھز روو اسہ تمن پیٹھ پلو تھہ عہد ہوان طورہ تہ اسہ وون تمن ز بیمہ دروازہ اترو پور فرمانبروری سان۔ بیمہ وون اسہ تمن (بیتہ) ز سبتس (یعنے سبتہ کس معالس)

لہ عربی محاورہ مطابق چھہ امیک معنی یہ تہ اسہ بنی بنی اسرائیل طور پہاڑ کس دانش تل بیتھ بروٹھ کتہ کوہ طور اساد اول۔

مشرکوں کو جہاد کی بیعت سے روکنا کہ
پہلے ہی عہد۔

پہلے ہی عہد بین عہد پھڑپھڑاوتہ (کہ باعث) تہ جن
ہند اللہ (تعالیٰ) ہندین آئین انکار کرنے، تہ
تہنہرو ہنگہ منگہ نبین قبل کر پھو کوششو
(ہند سبب) تہ یہ (کہتہ) ونہہ موکھ ز سادی
دل چھ پردن اندر۔ (پردن اندر) نہ بلکہ چھ
اللہ (تعالیٰ) ہن تہنہد کفر موکھ ہن (ہندین)
دین پیٹھ مہر کر مشر او کئی چھنہ تم بلکل ایمان
انان۔

بہ تہنہد کفر (موکھ) تہ تہنہد سرکس
(کہ سببھا) بڑ توہمت لاکھ تھوہ موکھ۔

بہ تہنہد (یہ کہتہ) ونہہ موکھ ز اللہ (تعالیٰ) اندر رسول
مسیح عیسیٰ ابن مریم کورسہ شیک قبل (چھ تہنہ ہر ایسولت)
بیلہ زن تہنہ کورسہ قبل تہ نہ مورکھ صلیبس پیٹھ
کھا تہ بلکہ یہ معاطرہ او تہنہد باپتہ مشتبہ کرنے تہ
یو لوگو اللہ مشر اختلاف کورسہ چھ تم چھ بزرگ
پاٹھو (اللہ متعلق پانہ) شمس مشر۔ تہ ہن
چھنہ اللہ متعلق کا تہ تہ پڑھ وول علم۔ ہم چھ
محض خیالی کہنہ پتہ لگے ہو تہ تہو کور نہ نہ
ہرز قبل۔

حقیقت چھنہ یہ نہ اللہ (تعالیٰ) ہن دیت تس
پتس دربار مشر جزیک تھنر سکین اللہ
(تعالیٰ) چھ غلبہ وول (تہ) حکمتہ وول۔
اہل کتابو اندر آسہ نہ کہ تہ یس اللہ (واقص)
پیٹھ پنہ مرنہ بروٹھ ایمان روز نہ انان۔ تہ
سہ آسہ قیامتہ دوہہ تہن پیٹھ گواہ۔

لہذا (تہ) ظلمہ کہ باعث یس یہودی ہند طرفہ
(ظاہر سید) کرے اسہ تہن پیٹھ حرام تم صاف

فَمَا تَقْضِيهِمْ فَيِنَّا قَهُمْ وَكُفِّرِهِمْ
بِأَيْتِ اللَّهِ وَتَقْلِهِمُ الْآثِيَاءَ بغير
حَقِّ قَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ
اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا
قَلِيلًا ﴿٣٧﴾

وَ يَكْفُرِهِمْ وَ قَوْلِهِمْ عَلَى مَذِيَمَةٍ
بُهْتَانًا عَظِيمًا ﴿٣٨﴾

وَ قَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى
ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَ
مَا صَلَبُوهُ وَ لَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَ إِنَّا
الَّذِينَ اِخْتَلَفُوا فِيهِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا
يَفْعَلُونَ مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَ
مَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿٣٩﴾

بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَ كَانَ اللَّهُ عَزِيزًا
حَكِيمًا ﴿٤٠﴾

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِهِ
قَبْلَ مَوْتِهِ وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ
عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿٤١﴾

فَيُظْلَمُونَ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا
عَلَيْهِمْ طَبِيعَتِ أَجَلَتْ لَهُمْ وَ بَصَدَهُمْ

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۝

تہ پاک چینہ یکم (گوٹو) تہندہ خاطر حلال ماسی
کرتہ آوتو تہ (بیہ) اللہ (تعالیٰ) ہنتر
وتہ نش واریا من باز تھونہ موکھ (میول ہن
یہ سزا)

بیہ تہندہ سووی کار بار کرتہ کہ باعیتہ تہ ، نیکی
زن تم تمہہ ہنتر منع کرتہ آوتو ماسی - (بیہ)
لوکن ہندو مال ناحقہ کھپتہ کہ سببہ (میول
ہنن یہ سزا) تہ اسہ پھہ تمو مفر سکافرن
ہندہ باپتہ کرلوٹھ عذاب تیار کورتہ۔

ووفی گوڈو کیو (میہودوی) اندر یکم لوکھ ٹھلس
اندہ پو ختہ چھہ ہنتم تہ (بیہ) مؤمن (مسلمان) تہ
چھہ اپان انان ہنتمہ (الہی کلاس) پیٹھہ یہ تریہ
پیٹھہ تازل کرتہ آمت چھہ تہ یہ کیشترھا) تریہ بروٹھہ تازل
کرتہ آمت اوس تہ (خاص کرتہ) نمازٹھیک پاتھو پر
والین تہ زکوٰۃ ذبہ والین تہ اللہ (تعالیٰ) ہس
پیٹھہ تہ پتہ پتہ واپس دوہس پیٹھہ اپان ان
والین (لوکن) دو ماسی ضرور (سدھا) بوڈو اجر۔

یقیناً اسہ چھینہ تریہ پیٹھہ (تہ) وحی (تازل)
کرتہ ہنتر ہنتمہ پاتھو اسہ نواص تہ تس پتہ (بین)
نسین پیٹھہ وحی (تازل) کرتہ ہنتر ماسی بیہ ماس
ابراہیمس تہ اسماعیلس تہ اسماعلس تہ یعقوبس
تہ (تندن) اولادن بیہ عیسیٰ ہس تہ یونس
تہ یونس تہ ہارون تہ سلیمانس پیٹھہ (تہ)
وحی (تازل) کرتہ ہنتر - بیہ ذریہ اسہ داوودس
(تہ) اکھ کتاب۔

بیہ چھہ کہو یارسول تھو یمن ہنتر خبر اسہ
(امر) بروٹھہ ڈر ہنتر چھہ - تہ کہو یارسول
چھہ تھو یمن ہند اسہ تریہ نش (کاہنہ) ذکر
کورتہ - تہ اللہ (تعالیٰ) ہن کر یاو موسیٰ

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

لَكِن الرَّاٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَ
المُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ
وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ الْمُؤْمِنِيْنَ
الصَّلٰوةَ وَ الْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ
بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ اُدْلِيْكَ
سَنُوْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝

۲۲
۲۱

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى
نُوحٍ وَ التَّيْمِيْنَ مِنْ بَعْدِهِ ۝ وَ أَوْحَيْنَا
إِلَى إِبْرٰهِيْمَ وَ إِسْمٰعِيْلَ وَ إِسْحٰقَ وَ
يَعْقُوْبَ وَ الْإِسْبٰطَ وَ عِيْسَى وَ أَيُّوْبَ وَ
يُوْنُسَ وَ هٰرُوْنَ وَ سُلَيْمٰنَ ۝ وَ آتَيْنَا
دَاوُدَ رِبُوْدًا ۝

وَدُسْلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ
قَبْلَ وَ دُسْلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ
وَ كَلَّمَ اللّٰهُ مُوسَى تَكْلِيْمًا ۝

ہیں سب سے سیدھا بیان پانچویں کلام۔
اسے سوزا یہ تم (یعنی موسیٰ) ہیں سب سے ذکر کرنے
آہستی رسول (خوشخبر دینہ والی تہ خبردار کن والی
رسول بناؤ تہ ، سیتھ زن جن رسولن ہند (ظاہر
سیدہ) پتہ اللہ (تعالیٰ) ، ہس پیچھ لوکن ہند
کا نہہ الزام روز ہے تہ ، تہ اللہ (تعالیٰ)
چھ غالب (تہ) حکمتہ وول۔

وہ فی گوو اللہ (تعالیٰ) چھ گواہی دیوان تمہ
کلامہ دس یہ تمہ شریہ پیچھ تازل کورمت چھ
نہ تمہ چھ یہ پستس عمامس پیچھ مشتہل
کر تہ تازل کورمت ، تہ ملایک (تہ) چھ گواہی
دیوان تہ اللہ (تعالیٰ) سوز گواہی چھ
سار و بے کھوتہ بالا۔

یو کفر یہ روومت چھ تہ اللہ (تعالیٰ) ہنز و تہ
تہ چھ لوکہ ٹھاکا وک ہوتی۔ تم چھ بے شک
بڑ پارک گمراہ۔

یو کفر یہ روومت چھ تہ ظلم چھ کورمت اللہ
(تعالیٰ) ہیکہ نہ تمہ ہرگز بخشتہ تہ نہ ہیکہ
جہنم چہ و تہ وراے کا نہہ و تہ تاوتہ۔

تم مرتضیٰ تہ مشرا بکس (ز پچس) مدتس تام
روزان تہ یہ کہتہ چھ اللہ (تعالیٰ) ہند با پتہ سہل
اے لوکہ ! یہ رسول چھ تمہندس پروردگار ہند طرف
توہدش حق ہیتہ امت او کہی انو توہر ایسان۔
تہند خاطر آسہ ہررت۔ تہ مگر توہر انکار کرو، اہ
(یاد تھو ز) یہ کینشہا آسان تہ زمینہ اند
چھ، تہ چھ یقینا اللہ (تعالیٰ) سندے۔ تہ اللہ
(تعالیٰ) چھ سیدھا زبان وول (تہ) حکمتہ وول۔
اے اہل کتاب ! توہر مہ ہینو پستس دپتس
(یعنی دینہ بکس معاملس) مشرا مبالغس کام بیہ

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَ مُنذِرِينَ لئَلَّا
يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ
الرُّسُلِ، وَ كَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ
أَنْزَلَهُ يَعْلَمُهُ ذَا الْمَلَكُوتِ
يَشْهَدُونَ، وَ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٣٥﴾

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ صَدُّوا عَن سَبِيلِ
اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿٣٥﴾

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ ظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ
اللَّهُ لِيُغْفِرْ لَهُمْ وَ لَا لِيَهْدِيَهُمْ
طَرِيقًا ﴿٣٥﴾

إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا
أَبَدًا، وَ كَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٥﴾

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَهُمُ الرُّسُولُ
بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَمِنُوا خَيْرًا لَّكُمْ
وَ إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي
السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ، وَ كَانَ اللَّهُ
عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ
وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، إِنَّمَا

میرا رسول اللہ (تعالیٰ) ہنس متعلق پتھر کھینچ
 ورائی (دیکھتی) ونان۔ مسیح ابن مریم اوس
 اللہ (تعالیٰ) سُنَد صرف (اکھ) رسولِ بیہ تہنتر
 (اکھ) بشارت یوحنا تمہو مریمس پیٹھ نمازل کرنا
 بیہ اوس تہنتر طرفہ اکھ رحمت، او کو اُتو تو ہر
 اللہ (تعالیٰ) ہنس (پیٹھ) تہ تہنتر سارہے
 رسولن پیٹھ ایمان تہ (بیٹھ کئی) مہ وُوفو نہ
 (خدا) چھ تریہ (امر کھتہ نشہ) بیو باز (بیہ) آسہ
 تہنتر خا طر سپہارت۔ اللہ (تعالیٰ) ہے
 چھ کتے معبود، مہ چھ (امر کھتہ نشہ) پاک نہ
 تس آسہ اولاد۔ یہ کتہا آسمان تہ زمین مشر
 چھ (تہ سورے) چھ تہنتر۔ تہ اللہ (تعالیٰ)
 ہنتر حفاظت پتہ پتہ بیہ کاتبہ ہنتر حفاظت ضرور
 مسیحس مگر نہ ہرگز یہ کتہ، ہر نہ مہ (بیہ)
 اللہ (تعالیٰ) سُنَد اکھ بندہ زانہ) تہ نہ لگہ مقرب
 ملائکین (یہ ہر) تہ عین (لوکن) تہنتر (خدا
 تعالیٰ ہنتر) عبادت کرنی عار گزہ تہ تکبیر کرن
 سہ (یعنی خدا تعالیٰ) سہ ہراو ہنتر سارہے ضرور
 پتہس دربارس مشر۔

ادیم لوکھ مؤمن آسہ تہ تمو آسہ نیک (تہ ایمان
 کہ حالہ مطابق) عملہ کر مشر ہنتر دیہ سہ تہنتر
 یوہر پوہر بدلہ تہ پتہنتر فضلہ سوتی دیہ ہنتر (بیہ
 ہنتر) جاہ تہ عین لوکن عار گیاو تہ کبر کرنا
 ہنتر دیہ سہ کر لوٹھ عذاب تہ تم لین تہ اللہ (تعالیٰ)
 ہنس ورائی (کاتبی) پتہ دوست تہ مددگار۔

اے لوگو! توہر ہنتر چھ تہنترس پروردگار ہنتر
 طرفہ اکھ نئی ڈپل آہنتر۔ تہ اسہ چھ توہر کن اکھ
 پر نزلون نور نمازل کورمت۔

لہذا یو لوگو اللہ (تعالیٰ) ہنس پیٹھ ایمان اونمت
 چھ تہ تمہ دسی چھ (تمو پتہ) بجاو کورمت ہنتر

الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلًا
 اللّٰهُ وَكَلِمَتُهُ اَلْقَوْلُ الَّذِي مَزِيْمٌ وَّرُوْمٌ
 مِّنْهُ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِۦ ۗ وَّ لَا
 تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ۚ اِنْتَهُمْ اٰخِرًا لَّكُمْ
 اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ سُبْحٰنَهُ اَنْ
 يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ ۚ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ
 وَّ مَا فِى الْاَرْضِ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيلًا ﴿١٣٠﴾

لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ اَنْ يَّكُوْنَ
 عَبْدًا لِلّٰهِ وَّلَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ
 وَّمَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِۦ
 يَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرْهُمُ الرَّايُّ
 جَمِيْعًا ﴿١٣٠﴾

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
 فَيُوَفِّيهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدُهُم مِّنْ
 فَضْلِهِۦ ۗ وَاَمَّا الَّذِيْنَ اَسْتَنْكَفُوْا
 اَسْتَكْبَرُوْا فَيَعۡزُبُهُمۡ عَذَابًا اَلِيْمًا
 وَّلَا يَجِدُوْنَ لَهُم مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ
 دَلِيْلًا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿١٣٠﴾

يَاۤ اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ
 مِّن رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَا لَكُمْ نُورًا مِّمَّنَّا ﴿١٣٠﴾

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاَعْتَصَمُوْا بِهٖ
 فَسَيُزِيْدُهُمۡ فِى رَحْمَةِ مِّنْهُ وَّفَضْلِهٖ

وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا ﴿۳۱﴾

کریم ضرور پستہ میں بھی رحمت تہ میں پس
فطرس مشر و انزل تہ جن ماو پاس کن بینہ
واجب الہ سیز و تہ۔

تم چھی تریہ (اگر قسم کس " کلام " ہس متعلق)
قوی پر ترهان ، تر و نکھ اللہ (تعالیٰ) چھو
توہ (تجسس) کلاس متعلق حکم بوڑ ناوان -
ہرگاہ کاہنہ تینہ شخص سر ز تس آسہ تہ اولاد
تہ تس آسہ الہ بینہ او یہ کینہ تہو پتہ کن
ترومت آسہ تمیک نصف چھ تسند (یعنی تس
بینہ ہند) تہ اگر (سہ بینہ سر تہ) تس آسہ
تہ اولاد تہ سہ (تسند یوس) آسہ تسند (یعنی
تسند ساری ٹرکگ) وارث تہ ہرگاہ نہ بینہ
آسن تہ یہ کینہ تہو (بائی) پتھکن ترومت
آسہ تہکو تریو مشر نہ حصہ چھ تہندک ، تہ اگر
تم (وارث) بائی بینہ آسن ، مرد (تہ) تہ زانہ
(تہ) تہ (تہو مشر) آسہ مرد سند (حصہ) دون
زنان ہندن حصن برابر۔ اللہ (تعالیٰ) چھ تہند باہتہ
(میر کتہ) بیان کران - او کو تہ تہ تہ تہ تہ تہ
گترھو تہ اللہ (تعالیٰ) چھ پر پتہ کاہنہ کتہ
جان پٹھو زانان۔

يَسْتَفْتُونَكَ، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي
الْكَلَامِ، إِنْ أَمْرًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ
وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ،
وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ،
فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلُثَانِ
مِمَّا تَرَكَ، وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً
رَجَاةً وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْأُنثِيَيْنِ، يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ
تَضِلُّوا، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۳۲﴾

لہ سر مران دول مرد یا سر مران واجب زانہ تہس تہ مول زبند آسہ تہ نہ آسہس کاہنہ اولاد۔



سُورَةُ مَائِدَةٍ، يه سُورَه چھ مدنی تہ بسم اللہ ہوتہ چھ اٹھ کھ ہتہ تہ اکوہ آپہ بیچس شرکہ کرنا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

(ہر چھس) اللہ (تعالیٰ) سُنَد ناو ہوتہ (پران) میں صبر رُوس کرم کرن وول (تہ) پھیر پھیر کر م کرن وول چھ۔

اے ایماندارو! پیڑی اقرار کرو توہر۔ تہنہد باچھ چھ (گھاسہ خور) چارواہی حلال قرار دہن آہر تہو وراہی پتہد تہوہ (قرآنس منفر) پُر تہد بوز ناوہن پیسہ، شرط چھ یہ نہ توہر ناوہن تہ (امہ اجازتہ کتہ) اجرامہ کس حالتس منز شکار کرن جائزہ بیشک اللہ (تعالیٰ) یہ بیسہ حال چھ (تہ) چھ قہلہ کرن۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْ فُؤَايَا لِحُقُوقِهِمْ أَجَلَّتْ لَكُمْ بِهِمَّةُ الْأَنْعَامِ وَلَا مَا يَمْثُلُ عَلَيْكُمْ غَيْرُ مَجَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمَةٌ لِأَنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ①

اے ایماندارو! اللہ (تعالیٰ) ہندہن (مقرر کرکے متہن) ہتہن ہنر بے حرمتی مہ کرو، تہ نہ حرمتہ والہ رہتہ تہ نہ (حرمس کن ہنر ہنر واجہتا قربانی) ہندہن جانوں) ہنر تہ نہ (تہرہن قربانی ہنر) میں حرمس منفر ذبح کرہ باچھ ہتہن کبہ ہنہن مالہ تالہ تراوتہ آس، تہنہ کرو بیت الحرامس کن ہنرہن والہن لوکن (ہنر بے حرمتی) ہم پسنس رہر سُنَد فہنل تہ رضا تہانہن چھ۔ تہ بیلہ توہر اجرام کھولو اہ کرو (بے شک) شکار تہ کہ توہر (تہوہ سقہ) عداوت نہ تہوہ مسی و توہر مسجد حرامہ ہتہ چھ رُہ تہو، گوتہد تہ تہوہ ہتہ کتہ پیچھ آماد کرن نہ توہر تہ کرو جادہی۔ توہر کرو مہی تہ تقویٰ (چہن کاہن) منفر بانہ واکہ (اکہ اکہ سُنَد) مدد تہ گوناہ تہ جادہی (ہنر کتہن) منفر مہ مسو (اکہ اکہس) مدد کران۔ تہ اللہ (تعالیٰ)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَلِّوْا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِنِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا، وَاللَّهُ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، سُوا اتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ①

سند تقویٰ پیرا و تہ اللہ (تعالیٰ) سند سزا چھ
یقیناً سخت آسان)۔

تو ہم پیٹھ چھ حرام کرنے آمت مردار، تہ رتھ تہ
سور باز تہ سہ (جانور) یس پیٹھ اللہ (تعالیٰ)
سند ورائی (بیہ کالنبہ ہند) ناو ہتہ آمت آسرا
بیہ ہڑٹ چیرہ سوتی موڈمت یا کتہ مؤنڈ اوزار
کر چھوکر سوتی موڈمت بیہ تھنر پیٹھ پیٹھ موڈمت
بیہ ہینگ ٹھکنہ بیہ سوتی موڈمت (جس نور)
تہ یس (کالنبہ) ڈرنڈن کھیومت آسہ، تجھس
ورائی تیسس تو ہم (سرنہ بروٹھ) کش کورمت
آسہ و۔ بیہ یس (جانور) کتہ دلوی دیوتا سرنہ
استھانس پیٹھ ذبح کرنے آسہ آمت چھ حرام کرنے
آمت۔ بیہ زار کھو (تہرو سوتی حصہ معلوم کرن) تہ
چھ حرام) ہرھ کام کرنی چھیہ نافرمائی (سوتی
مچرا)۔ یک لاکھ کافر چھیہ تم چھ از تہند دینہ
(کرنقصان واتنا ونہ) ہتہ ناوہ مید گاہتہ۔ او
کئی مہ کھوترو تو ہی تمن تہ مینہ کھوترو۔ از چھ
میہ تہند (قاید) خاطر تہند دین کمل کورمت
تہ تو ہم پیٹھ چھ پنن احسان پور کورمت تہ تہند
خاطر چھیم اسلام بطور دین پسند کورمت۔ وہہ
گوو یس شخصس بھ چھ (ہندس حالتس) مشنر
مجبور سپر تہ سہ آسہ نہ گوہ نہ ہس کن بیل گرضن
وول (تہ حرام چیرہ و مشنر کھنیہ کینہ) اد (یاد
تھوو) نہ اللہ (تعالیٰ) پیٹھ یقیناً (مجبوری
ہنن فطیلین ہند) سبھا بخش ہار (تہ) چھیر
چھیر۔ رحم کرن وول۔

تہ یہ چھی مسلمان پیر تھان نہ تہند با چھ کیا
چھ حلال کرنے آمت؟ تہ واکھ نہ تہند با چھ
چھ (ساری) طیبہ چھ حلال کرنے آمت۔ تہ

حَرَمْتُ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَالْحَمَّ
الْخَنِزِيرَ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ
الْمُنْحَنِقَةَ وَالْمَوْقُودَةَ وَالْمُتَرَدِّيَةَ
وَالتَّطِيحَةَ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا
ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ
تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ
الْيَوْمَ يَنْدَسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ
فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ
لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا
فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ
إِلَيْهَا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ①

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلْ أُحَلَّ
لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ
الْجَوَارِحِ مُكَلَّبِينَ تَعْلَمُونَ لَهُنَّ وَمَا

عَلِمَكُمْ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ⑤

(بیمہ) شکار کرو جو انورو مشریم توہمی شکارک طریقہ بیچتا توہ سو کر لیں، ہیکار توہمی چھو کہ تم تہہ (علم) یہ بیچتا وان لیس اللہ (تعالیٰ) ہن توہہ بیچتا وان تہو تہ لیس (شکار) تم تہہ با پتہ رتھ تھوان تمہ اندر کھنئو تہ تھہ بیچہ آسو اللہ (تعالیٰ) سندا ناو ہوان تہ اللہ (تعالیٰ) سندا تقویٰ پیر اوو۔ اللہ (تعالیٰ) پتھ یقینا جسد حساب ہنہ وول۔

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ، وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلْلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ، وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ⑤

از پتھ توہہ کو ساری پاکیز چیز حلال کرنے آہتر تہہ تہہ بیچہ پتھ حلال تہہہ (روئت) کھن بین کتاب دہہ آہتر آس تہہ تہہہ (روئت) بیچہ تھن کیت حلال۔ بیمہ پاک وامن مؤمن زنا تہہ تہہ تم پاکلاسن زنا تہہ پیم تھو لاکو مشراسن بین توہہ بروتھ کتاب دہہ آہتر (پتھ تہہہہ با پتھ جائیں) بیلڈرن توہوی تم نکاحن مشرا نیکہ، نہ نر بدکاری ہندی جرم دار بیتھ تہ نہ کھن کھن یا لپن لاگتھا تھن دیو تہہہ مہر۔ تہہ لیس شعہن ایمان تھوان کھر (بیسر) کران پتھ تہہ (زانو زہ) تھو پتھ عمل کے ضایع تہہ سہہ آسہہ انرس مشر کا پتھ لیس والہو مشر۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ

اے ایماندارو! بیلڈر توہمی نمازِ خاطر و تھو تہہ پتھ تہہ کھن تہہ وٹن تام آسو پتھ (تہہ) چھلان بیمہ آسو پتھن کلن مسح کران تہہ تر تھن تام (آسو) پتھ کھر (تہہ چھلان) بیمہ اگر توہی جنہی آسو تیلہ آسو سرن کران۔ بیمہ اگر توہی بیمہ (آسو) یا سفر مشرا سو (تہہ توہی آسو جنہی) یا توہی مشرا بیمہ کانہہ تہر تہہہ بیمہ آسو و توہہ آشتن سہتہ ہستری تہہ کر مشر تہہہ آب میلہ و تہہ توہہ اور پاک منٹر ہنہہ تہہہم کرے تہہہ مشر (کینہہ گرد رتھتھ) ملو پتھن تہہہن تہہہن۔

مَنْ حَدَّحَ وَلَا يَكُنْ يَرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ
وَأَلْبِسْتُمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ①

اللہ (تعالیٰ) چھتے توہم پیٹھ کنبہ قسبح متعلیٰ کرنی
یہ ترہان۔ وہ فی گوؤ سہ چھ توہم پاک کرن تہ توہم
پیٹھ پتن احسان پور کرن یہ ترہان۔ یتھ زن توہم
شکر کرو۔

وَإِذْ كَرُّوا زِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَمِيثَاقَهُ
الَّذِي دَانَقَكُمْ بِهِ، وَإِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَ
أَطَعْنَا، وَاتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِمْ
بِذَاتِ الضُّورِ ②

بہ تھارو یاد اللہ (تعالیٰ) سند سہ احسان یس
تھو توہم پیٹھ کورمت چھ بسہ سہ پوختہ
عہد (تہ) یس تھو توہم (تمہ وزہ) ہیشراو و
یسیلہ توہم و نیاو و، زہ اسہ چھ بوزمت تہ اسہ
چھ فرمانبردار سپدہ متی۔ تہ اللہ (تعالیٰ) سند
تقویٰ پراوو۔ اللہ (تعالیٰ) چھ سپنہ چہ کتھ تام،
زہر پاطھی زانان۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَقْوَامًا يَتَذَكَّرُونَ
اللَّهُ شَهِدًا، وَلَا يَخْرُجْ مِنْكُمْ
شَئَانٌ قَوْمٍ عَلَىٰ آلا تَعْدِلُونَ، إِنْ لَمْ
هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ③

اے ایماندارو! توہم سپوہ انصافہ سان گوہی
دوان اللہ (تعالیٰ) ہند خاطر استاد، تہ کنبہ
قویج دشمنی سینہ توہم اتھ کتھ پیٹھ آمادہ کرو
زہ توہم کرو تہ انصاف۔ توہم کرو (مضرد) انصاف
سہ چھ تقویٰ ہس جاد نزدیک تہ اللہ (تعالیٰ)
سند تقویٰ پراوو۔ یہ کینترھا توہم کران چھو اللہ
(تعالیٰ) چھ بے شک تمہ ہشہ خبردار۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ④

یہو لوکو ایمان اونمت چھ تہ نیک عملہ کر تہ چھ
تہن سبتی چھ اللہ (تعالیٰ) ہن وعدہ کورمت
زہ تہندہ بایتھ پھینہ بخشائش تہ (سہٹھا) بود
اجر (مقدار)۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا ذَكَرُوا بِآيَاتِنَا
أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ⑤

تہ یہو لوکو کفر پورومت چھ تہ سانی آیت چھکھ
ایزاکر متی۔ تم لوکھ چھ جہنمی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ كَرُّوا زِعْمَتَ
اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا
لَكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ
عَنكُمْ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُؤْمِنُونَ ⑥

اے ایماندارو! توہم کرو یاد اللہ (تعالیٰ) ہنہ
پانس پیٹھ نعمت الیوسہ تمہ وقتہ سپدے (یاہ) بیلہ
اکر قومس ارادہ کر یلو زہ توہم پیٹھ تراو اتھ۔
تمہ وزہ رڈ تھو تہندہ اتھ توہم ہش پتھ۔ بسہ
پراوو اللہ (تعالیٰ) سند تقویٰ۔ تہ مؤمنین پز
اللہ (تعالیٰ) ہسے پیٹھ توکل کرن۔

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ⑤

بِسْمِ اللَّهِ (تعالیٰ) ہن پچھ یقیناً بنی اسرائیل پوہ ختہ عہد ہوئی تہ اسہ اسی تمو مشرہ باہ سردار کھڑا کری ہو۔ تہ اللہ (تعالیٰ) ہن اوس (بن) فرسوموت (ز) اگر توہو نماز شپہر تھ سنیا لھ پورو تہ زکوٰۃ دیو تہ میانہ رسولن پیہہ ابو ایمان تہ پریہہ رنگہ کرو تہ بند مدد تہ اللہ (تعالیٰ) ہس دیو پینہ مالہ مشرہ کیتہ تہ (تہ) کس رنگس مشرہ او بہ پچھس یقیناً توہہ سوتہ (تہ) بہ کہ توہہ بنش تہنہنر ہدیہ دور تہ بہ کرو و لوہو یقیناً یقیناً باعن مشرہ دا نخل بین مشرہ کولہ پکان آسن مگر یس (شخص) توہہ مشرہ امہ پتہ تہ انکاس کام ہنیہ تہ (سہ زاین ز) سہ پچھہ سینر و تہ بنش ڈولمت۔

فَمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ⑥

تہ ہن ہند پوہ ختہ عہد پھراونہ سببہ کریا بہ اسہ ہن پیہہ لغت تہ بہندہ دل کریا بہ سجت تہ زن گوو تہم پچھ (کتاب ہندک) لفظ پسنہو جاپو ہتہ ڈالان تہ بیہہ کتہ ہنہن لہجت کرنہ آیاہ۔ تمیک اکھ حصہ پچھہ تمو مشرہ و مت تہ تہ روزکہ کینہرو (شخصو) وراہی ہن بنش کنہ (نہ) کنہ) خیانتس متعلق پے پتاہ لبان۔ لہندہ کر تہ ہن معاف تہ ہن کر درگدر تہ اللہ (تعالیٰ) پچھہ احسان کرن والہن یقیناً لول بران۔

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ⑦

بِسْمِ بِيْم لُوکھ ونان پچھہ نہ اسی پچھہ نصاریٰ۔ اسہ ہتہ او ہن (تہ) عہد، پتہ مشرہ و تمو (تہ) اکھ حصہ تمہ کتہ ہند بیہہ ہن لہجت کرنہ آہتر اوس۔ او تروو اسہ ہن در میان قیامتہ کس دوہس تاکہ عداوت تہ سہنہ دشمنی۔ تہ یہ کینہرہا تہم کلان اسی اللہ (تعالیٰ) کر ہن جلد تہ پچھہ خیردار۔

يَا هَلْ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا

اے اہل کتاب! سون رسول پچھہ توہہ بنش آمت

(تو) یہ کثیر تھا تو ہی کتابی مشترک کسان اسی پر
سے چھ تمہرے مشترک سبھا (حصب) تو ہمہ نشی بیان
کران تہ واریاہ قصور تہ چھ سہ معاف کران۔
(آ) تہند با چھ اللہ (تعالیٰ) ہند طرفہ
اللہ نور تہ اللہ گاہر کتاب آمیز۔

اللہ (تعالیٰ) چھ تمہن (لوکن) ہم تہند رضاہس
پاروی کران چھ تمہرے سلامتی ہنرن وتن پیٹھ
پکناوان تہ پستہ حکم ستر چھ تمہن اہر گہ پیٹھ
نورس کن کڈتھ نوان تہ سیزوتہ کن چھ تمہن
رہبری کران۔

ہم لوکھ ونان چھ نہ بے شک چھ اللہ (تعالیٰ) ہے
مسیح ابن مریم، ہم چھ بے شک کا فر سید کیوتہ۔
تہ ون (تمہن) اگر اللہ (تعالیٰ) مسیح ابن مریمس
تہ تہنر ماجہ تہ (تمہن) تمام لوکن ہم زمینہ منر
(موجود) چھ ہلاک کرن۔ نیز تہ تہس مقابلہ کس
چھ گنہ کتھ ہند طاقت تھوان ؟ تہ آسمان تہ
زمینہ تہ یہ کثیر تھا تمہن دریان (موجود) چھ تمہن
(سارہے) پیٹھ چھ اللہ (تعالیٰ) ہنرے حکومت۔
سہ یہ کثیر تھا) یہ تھان چھ تہ چھ یاد کران
تہ اللہ (تعالیٰ) چھ پر چھ اکس کتھ پیٹھ بلور
پور قدرت تھوان۔

بہ چھ یہودی تہ نصاریٰ ونان نہ اسی چھ اللہ
(تعالیٰ) ہندک تیجوری بہ (چھ) تہندک دہا تھو۔
تہ ونکھ اد کیاز چھو تو ہمہ سہ تہند لو قصور و
سبب عذاب دوان ؟ (تھکوتہ نہ یہ زن توہر ونان
چھو) بلکہ ہم (باتے انسان) تو یاد کر کر تہ
چھ توہر تہ چھو تمہ نے ہند کہی بشر۔ سہ
ہمیں پسند کران چھ (تس) چھ بخشان تہ تیس
یہ تھان چھ (تس) چھ عذاب دوان۔ تہ آسمان
تہ زمینہ منر تہ یہ کثیر تھا ہمیں (دہ لونی) دریا

يَمِينُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ
مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ قَدْ
جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿۱۱﴾

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ
سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ
الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ
إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۱۱﴾

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ
الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ
يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُنزلَكَ
الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَآمَةً وَمَنْ فِي
الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ
وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۱﴾

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ
اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ
بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ
خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ
مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ
الْمَصِيرُ ﴿۱۱﴾

بچھ بہمن (سارنہ) پیٹھ پھیلا اللہ (تعالیٰ) بہمن
حکومت۔ تہ تسی کُن چھ (سارنہ) پھیلا
گردھن۔

اے اہل کتاب! توہ بہمنش پھ سون رسول آمت،
سہ پھ رسولن ہند سلسلہ شہینہ گڑھن پتہ توہ بہمن
بہمن (سانہ کتھ) بیان کران بیٹھ زن توہ بہمن (سہ)
وہو نہرا بہمن نہ آو کانہہ خہ شجر دہن وول تہ
نہ آو کانہہ خبر دار کرن وول اہو کتھ پھ توہ بہمنش
اکھ خہ شجر دہن وول تہ خبر دار کرن وول آمت تہ
اللہ (تعالیٰ) پھ پر پتہ اُکس کتھ پیٹھ پور پور
قہرت تھوان۔

بہ (کرو سہ وقت یاد) بیلاہ موسیٰ ہن پنہن قومس
ونیا نہر اے میانہ قوم! توہ کرو اللہ (تعالیٰ)
سند (سہ) اسان یاد میں تھو (تہ ویر) توہ پیٹھ
کریا و بیلاہ تھو توہ بہمن منز نی مقرر کریا یہ تہ توہ بہمن
بناوے تو بادشاہ تہ توہہ ڈرانو تہ کیشٹھا یہ نہ
(دُنیا بہنو) زانی بہنو قومو منز کاشی ڈرانو۔

اے میانہ قوم! توہ سپدو تھہ پاک کرری
موسس زمپانس اندر داہل میں اللہ (تعالیٰ)
ہن تہند خاطر لیکھتھ عقومت پھ تہ تھہ پھرتھ
گرٹھ نہ پوت پھیلا تھ میں تیلہ بہنو توہ ہنسا پتھ
واپس۔

تمو وولس اے موسیٰ! تھہ (مکس) منز پھ
بے شک اکھ زبردست قوم (روزان) تہ
تہ یوتانی نہ تہم (لوکھ) تہہ منز نبین، اُسی سپدو
نہ تھہ اندر ہرگز داہل۔ وہڈ گوو ہگاہ تم تہ
منز نبین نہ تیلہ پھ اُسی بے شک تھہ اندر داہل
سپان والی۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا
يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى قَثْرَةٍ مِّنَ الرَّسُولِ
أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ
وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ
وَلَا نَذِيرٌ، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۰﴾

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ ادْكُرُوا
نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ
أَنْبِيَاءً وَجَعَلَ لَكُم مَّلُوكًا وَإِنَّكُمْ
لَمَ يَأْتِيكُمْ أَحَدٌ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿۱۱﴾

يَقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ
الَّتِي كَتَبْنَا لِلَّذِينَ آمَنُوا مِن قَبْلِكُمْ
وَاجْعَلُوا فِيهَا قَوَامًا
يُحْرِمُونَ ﴿۱۲﴾

قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا
جَبَّارِينَ ۖ وَإِنَّا لَن نَّذْخُلُهَا حَتَّى
يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا
لَادْخِلُونَ ﴿۱۳﴾

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنحَمَهُ
اللَّهُ عَلَيْهِمَا إِذْ خَلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ
فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ عَلَيْهِمُوعَدٌ وَعَلَى
اللَّهُ فِتْنَتَكُمْ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۷﴾

(اگر، اللہ تعالیٰ ہنس) کھوڑن والیوں اندر دھکیلو
شخصوں میں پیٹھ اللہ (تعالیٰ) ہنس احسان
کوڑمت اوس، وون (اتھ پیٹھ بہن) نہ توہر
گڑھو بہن پیٹھ (جملہ آور سپد تھ) تھ درواز
مشتر دا نخل۔ نیلہ توہر تھ مشر دا نخل سپدو
تہ توہر بیو بے شک غالب۔ تہ اگر توہر نمون
چھو تہ اللہ (تعالیٰ) ہنس پیٹھ (کرو توکل) ہیہ
(چھو اسی وناں نہ تسو پیٹھ) کرو توکل۔

قَالُوا يَوْمَئِذٍ إِنْ كُنْتُمْ إِدْعَاؤُنَا
دَامُوا فِيهَا فَأَذْهَبَ آتَتْكَ وَرَبُّكَ
فَقَاتِلْنَا إِنَّا هُنَا قَاعِ دُونَ ﴿۱۸﴾

تمو وون (نہ) اے نمون! یوتانی تم (لوگ) تھ
اندر چھ اسی سپدو تہ تھ نہ سپس اندر نہ نہ
دا نخل، لہذا تہ تہ چون رب (دو نوے) گڑھو تہ
کرو (تم ستر) جنگ، اسی روزو ہر حال
مشر نیتر نے بہتھ۔

قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَآخِي
فَأُفَرِّقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿۱۹﴾

دوہن (یعنے نمون ہنس) اے میانہ پروردگار!
بہ چھس نہ پستہ پاپہ (ورائی) تہ پسنس باس
ورائی کانسہ پیٹھ ہرگز اختیار تھوان۔ او کتو کر تہ
امہ در میان تہ بغاوت کرن والین لوکن در میان
فرق۔

قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ
سَنَةً يَتَيَّبُوهَا فِي الْأَرْضِ، فَلَا تَأْسَ
عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿۲۰﴾

فرمودن (یعنے اللہ تعالیٰ ہنس، اگر چانی میں تھ
پھین) او تم چھ ستیم (ملکہ) نشہ تر تھین دور
ین (تام) یقیناً محروم کر تہ یوان۔ تم روزن سہ
نگس اندر در بدر (گڑھتھ) او پر یور پھیران۔ لہذا
مہر بغاوت کرن والین لوکن پیٹھ افسوس۔

وَأَثَلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ
قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا
وَلَمْ يَتَّقِبْ مِنَ الْآخَرِ، قَالَ
لَا أَقْبَلُكَ، قَالَ إِنَّمَا يَتَّقِبُ اللَّهُ
مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿۲۱﴾

بہ (اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) تہ بوز ناوکھ
یم آدم ہر بندہ دن دن نیوون ہند قصہ صحیح پٹھو
(یعنے تمہ وقتک قصہ) نیلہ تمو دو شو یو اکھ
قربانی پیش کر تہ تمو مشر آیہ اکی سنز (قربانی)
قبول کر تہ تہ دو یو سنز قربانی آیہ تہ قبول کر تہ
(یتھ پیٹھ) تمہ (پسنس باس) وون (نہ)
بہ کر تھ تہ ضرور قتل۔ تمہ ووس نہ اللہ (تعالیٰ)

چھ صرف متفقین ہنتر (قربانی) قبول کران۔
 اگر خرید یہ قتل کرنہ موکھ میہ کن پین اتھہ زیوٹھ
 کورٹھہ (تہ، اد) بہ زیوٹھ او نہ ہرگز تر قتل کرنہ
 موکھ پین اتھہ تر یہ کن بہ چھیس سار نے عالمن
 ہنتر رحیم و اہلس خدایس یقینا کھوٹران۔

بہ چھیس بے شک بیٹھان نہ تر ٹکھ میون گوناہ
 (تہ) تہ پین گوناہ تہ (ہمیشہ خاطر بار) نیکیک
 نتیجہ یہ آسہ نہ تر سپدکھ جہانیدو مشر تہ یہ چھ
 فالمن ہند سزا۔

(سیور ہنتر قربانی قبول اس نہ سپنر ہنتر) تس
 سید پین بوعے قتل کرٹھہ ترھنسن پیٹھ دل راضی
 تہ تم کوور سٹھ قتل یٹھ پیٹھ (سٹھ) نوقصان تلن
 والین منتر (شابل) سپد۔

اد سوز اللہ (تعالے) ہن اکھ کاو یس زمین
 کدان اوس او کتو نہ تس لاو نہ سپنس بائی
 ہنتر لاش کتھہ یاٹھ دو براو؟ تم وون ،
 ہے انوس! میا فی روسی ہیکہ (یوت تہ)
 سپد تھ نہ بہ گرتھہ ہائیس کاوس ہیو تہ سپنس
 بائی ہنتر لاش کر ہن غاب۔ اد سپد سٹھ ہنتر لاش
 اسپر کتو کر یاو اسپر بن اسراہیلن پیٹھ فرض نہ رہتم
 تھون خیال نہ) یس کانسٹھ سس امیر ورا تہ قتل
 کر نہ تم تہ اسپر قتل کورمت یا ٹکس منتر اسپن
 فساد و زورومت تموزن تہ تموز تمام لوکھ قتل
 تہ یس جس زہر کر زن کرکے تموز تمام لوکھ زہر
 تہ سانی رسول اسر جس ہن یقینا نئی نشانہ
 ہیٹھ آرتو۔ توتہ چھہ تموز واریاہ (لوکھ) ٹکس
 منتر جہاد تہ کران روزان۔

یم لوکھ اللہ (تعالے) ہس تہ تہنر رسوس
 ستر جنک کران چھہ، تہ فساد کر عزم چھہ ٹکس
 منتر (جنک کس نارس و ہنتر دنہ موکھ) روان

لَوْ لَمْ يَسْطُرْ لِي يَدَكَ لَتَقْتُلَنِي مَا
 أَنَا بِمَا سَطُرَ يَدِي إِلَيْكَ لَا قَتْلَكَ
 لِي إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿۵۱﴾

إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ أَيُّ ثَمِينٍ وَلَا تُمَكِّ
 فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ
 جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿۵۲﴾

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ
 فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۵۳﴾

فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ
 لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُؤَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ
 قَالَ يُوَيْلَتِي أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ
 هَذَا الْغُرَابِ فَأُؤَارِي سَوْأَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ
 مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۵۴﴾

مَنْ أَجَلٌ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي
 إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ
 نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
 النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا
 أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ
 رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنْ كَثُرُوا مِنْهُمْ
 بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَكُسْرٌ فَوَن ﴿۵۵﴾

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ اللَّهَ
 رُسُومًا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ
 يُقْتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ

(پھیران) تہند مناسب سزا چھ یوسے زتمو
 مشر یین الھ الھ قتل کرنہ یا یین صلیس پٹھ
 الوند تراوتھ مارنہ یا یین تہندری اتھ تہ تہندری
 کھور مخافتہ موکھ ٹرٹھ ترھنہ۔ یا یین تم
 ملک مشر کڈھ ترھنہ لہ (ہرگاہ) یہ (سزا
 میلپکھ تہ یہ) سیدھے تہند خاطر دنیا ہس
 مشر رسوائی (ہند باعث) تہ تم آخرس مشر تہ
 چھ تہند باپتھ (سبھاہ) بوڈ عذاب (مقدر)۔
 مگر یکم لاکھ امر بزوتھ ز توہری لہو تم پٹھ
 قولو۔ توہ کرن، تہ زانو ز اللہ (تعالیٰ) چھ
 بے شک سبھا بخش وول (تہ) پھیر پھیر
 رحم کرن وول (اوسے چھ تم توہ کرن والی
 سزاہہ ہنہہ بچاوتھ تھاوکرتی)۔

اے ایماندارو! اللہ (تعالیٰ) سند تقویٰ برادو
 تہ تہندس درگاہس مشر ترھانڈو قرب حاصل
 کرنہ چھ وتہ تہ تسنر وتہ مشر کرو کوشش
 یچھ زن توہری کامیاب سپرو۔

یکم لاکھ کافر چھ اگر یہ کیشرا (تہ) زمینس
 اندر (موجود) چھ (تہ) سورے تہ تیوتے
 تھ سبتی (بیہ مال تہ) جس ہن آسہا یچھ
 زن تم قیامتہ کر دوہر عذابہ بدل دہن۔ توہ
 بیہ ہے نہ تہ جس ہن طرفہ قبول کرنہ تہ
 جس ہنڈ خاطر چھ کرلوتھ عذاب (مقدر)۔
 تم یہترھن ناب مشر نیرن مگر ہرگز ہکن نہ تمہ
 اندر نہ تھ بیہ چھ جس ہنڈ خاطر الھ قایم
 روزن وول عذاب (مقدر)۔

بیہ یس مرد ژور آسہ تہ یوسہ زنان ژور آسہ
 جس دولونی ہندری اتھ ژرٹو تمہ (جبرمہ) بدل

وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ
 الْأَرْضِ، ذَلِكَ لَهُمْ جِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَ
 لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۵۱﴾

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْرَأُوا
 عَلَيْهِمْ، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ
 رَحِيمٌ ﴿۱۵۲﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ
 ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ دَجَا هَذَا فِي
 سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۱۵۳﴾

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي
 الْأَرْضِ جَمِيعًا مِثْلَ مَا
 لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
 مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ، وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۵۴﴾

يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوكَ مِنَ النَّارِ وَمَا
 هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا، وَ لَهُمْ عَذَابٌ
 مُقِيمٌ ﴿۱۵۵﴾

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا
 أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ

اللَّهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۱۵۱﴾

یس، تم کو کورنت چھ۔ (یہ چھ) اللہ (تعالیٰ)
ہند طرفہ سزا کس صورت میں اللہ (تعالیٰ)
چھ غلبہ وول (تہ) حکمت وول۔

اد یس شخص سے علم کر رہے تھے تو یہ کر رہے
اصلاح (تہ) کر رہے اللہ (تعالیٰ) کو یقیناً یس
پیٹھ فعل۔ اللہ (تعالیٰ) چھ بے شک بخش
وول (تہ) پھیر کر پھیر کر رحم کرن وول۔

ثریہ پھینا معلوم کر اللہ (تعالیٰ) چھ سزاوات
ز آسمان ہنر تہ ز سپنج حکومت چھ تہ تہ
سہ نہیں (عذاب دین) پسند کران چھ (تس)
چھ عذاب دوان۔ تہ یس (معاف کرن) پسند
کران چھ (تس) چھ بختان۔ تہ اللہ (تعالیٰ)
چھ پر چھ کس کتھ یوسہ سہ کر رہے تہ تہ تہ
کرنس پیٹھ (پلور) پلور تہ درت تھون وول۔

اے رسول! ثریہ مہ کر رہے تہ لوگ غمگین ہیں
پس نہو آسو سستی ونان چھ نہ اسہ چھ ایمان
اؤنمت تہ تہندو دلو چھ ایمان اؤنمت۔ تم
منزہ یم لوگ کفرس (یعنی کفر چ کتھ قبول
کرنس) منز و تہ کران چھ۔ تہ یہودین منز
تہ چھ کیہ تہ (تھو لوگ یم) ایہ کتھ زہر پانگ
بوزان چھ۔ (تم) چھ (یکہ کتھ) جاد جاد
بوزان بیس اکیس جاد ہند (بوزان تہ) باچھ
یوسہ نہ ثریہ نیش آہ۔ تم چھ (خدا یہ تہ) کتھ
تہند پسنہ جایہ (پیٹھ تھون) پتہ (تہ جایہ)
والان۔ تم چھ ونان زہر گاہ تہہ پتھ پتھ پتھ
(حکم) دہ بیو تہ قبول کر رہے! تہ ہر گاہ
تہہ پتھ پتھ پتھ پتھ (حکم) دہ بیو نہ تہ (تہ)
پتھ (تہ)۔ (تہ قبول مہ کرو) تہ اللہ (تعالیٰ)
بیو ستر آزمائش ہند ارادہ کر تہ میکہ نہ تہند
خاطر اللہ (تعالیٰ) ہس مقابلہ کہنی کر تھ۔ یم

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ
اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ
رَحِيمٌ ﴿۱۵۲﴾

أَلَمْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ، يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ
يَشَاءُ، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۵۱﴾

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ
يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ
قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنُ
قُلُوبُهُمْ ۗ وَ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا ۗ
سَمِعُونَ لِلْكَذِبِ سَمْعُونَ لِقَوْمٍ
آخِرِينَ، لَمْ يَأْتُوكَ ۙ يُحْزِنُونَ
الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَا ضَعَبَ ۙ يَقُولُونَ
إِنْ أُرِينَا هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ
تُؤْتُوهُ فَاحْذَرُوا ۗ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ
فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ
قُلُوبَهُمْ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۗ وَ
لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۵۲﴾

لَوْ كَفَرَ بِهِ (تسبی) نہ اللہ (تعالیٰ) ہن کور تہ تہند کر
دل صاف کرنک (کبیتی) ارادہ یکینا نہ تہند خاطر
چھینہ (تہند لو اعمالو کئی) یتھ دنیا ہس منتر (تہ)
رہو آئی (مقدر) تہ آخرتس اندر (تہ) چھ تہند
با پتھ (سپٹھا) بوڈ عذاب (مقدر)۔

تم لوکھ) چھ ایتر کتھ جان پاٹھ بوزان (تہ)
حرام چھ جاڈ جاڈ کھولن لہذا ہر گاہ تم تریہ نش
(کا تہ نیاسے پتھ) بین اڈ تہ تمن در میان فاصلہ
کر تہ یا تمن بش الگ روز تہ، تریہ ہیکہ نے
نہ تم (دو لونی حالتن منتر) کینہ نو قصان و اتاوتھ
تہ تہ (تھوڑی ز سانی نصیحت یاد ز کئی تہ صورتس
منتر) اگر تہ فاصلہ کرکھ، تمن در میان گزھ
(ہر حالتس منتر) الفاصلہ سان فاصلہ کرن -
اللہ (تعالیٰ) چھ یقینا صاف کرن والین
سوتی لول ورتاوان۔

بہ تم کتھ پاٹھ ہیکہ نے تریہ حکم بتاوتھ
سیلہ زن تمن نش تورات تہند کئی الہی حکم
پتھ موجود چھینہ۔ پتھ چھ تمہ باوجود تم تمہ
پھران تہ تم چھنہ ہرگز مومن۔

اسہ کر یا یہ بے شک تورات ہدایت تہ نوڑ برہ
تازل۔ تمہ ڈسی اسی فاصلہ کران یہودین ہند
با پتھ تہی، بیم (سانی) فرما سیر دار اسی تہ عارف
تہ عالم تہ، امیر موکھ نہ تہند ڈسی آیایہ اللہ
(تعالیٰ) ستر کتابہ ہنر حفاظت بہ پتھ تہ
تم اسی تھ پتھ نگران۔ اوکزی مہ کھوڑو لوکھ
لوکن تہ میہ کھوڑو تہ توہی مہ رٹو میانو آیو
بل کم مول۔ تہ بیم (لوکھ) تمہ (کلام) مطابق
یس زن اللہ (تعالیٰ) ہن تازل کورمت چھ،
فاصلہ کرن نہ۔ اڈ تہ چھ (تکرہ) کا فیر۔

بہ اوس اسہ تھ (توراتس) منتر تمن پتھ

سَمْعُونَ لِيَكْذِبَ الْكَلُونَ لِلْسَّخْتِ
فَإِنْ جَاءَ ذَاكَ فَأَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ
أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ
فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۚ وَإِنْ حَكَمْتَ
فَأَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ ﴿۷۰﴾

وَكَيفَ يَحْكُمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ
فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ
ذَلِكَ، وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿۷۱﴾

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَ
نُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ
أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَ
الْأَخْبَارُ يَمَّا اسْتُخْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ
وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا
النَّاسَ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا يَأْتِي
ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿۷۰﴾

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ

بِالْتَفْسِ وَالْعَيْنِ وَالْعَيْنِ وَالْأَنْفِ
بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنِ وَالْأُذُنِ وَالسِّنِّ
بِالسِّنِّ وَالْجُرُودِ وَالْقِصَاصِ، فَمَنْ
تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ لَمْ
يُخَکِّمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ ۝

وَقَفَيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعَيْسَى ابْنِ
مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
وَمِنَ التَّوْرَةِ وَأَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ
هُدًى وَنُورٌ، وَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ
يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَ هُدًى وَ
مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۝

وَلِيُخَکِّمَ أَهْلَ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
فِيهِ، وَمَنْ لَمْ يُخَکِّمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

وَأَنْزَلْنَا لِيُخَکِّمَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ
الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاخُكُّم
بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ
أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ
لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ
مِنْهَا جَاءَ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ
أُمَّةً وَاحِدَةً لَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي
مَا آتَيْتُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، إِلَى اللَّهِ
مُوجِعَكُمْ جَمِيعًا فَيُنزِلُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ

فرسہ کوڑمت ز تر و بدل زو تہ اچھ بدل اچھ
تہ لنتہ بدل نس تہ کتہ بدل کن تہ دنہ بدل دند
تہ بیہ (زخمی بدل) زخم چھ ہیو سے بدلہ -
دو ذی گووہ یس شخصوں (بین) یہ (حق) تراوی
تہ تشہد باپتہ سپد (تشہد یہ فعل) گوہ نہ ہیچہ
معافی ہند باعث - تہ ہم لوکھ تمہ (کلامہ)
مطابق فاصلہ کرن نہ یس اللہ (تعالیٰ) ہن
نازل کوڑمت چھ - ادر تے چھ تر کر ظالم -

بیسہ سوز اسہ ہمن پتہ تہندین پدکر آکھن پیٹھ
عیسیٰ ابن مریم یس تراوی کس تہ تہ شخص آکھن
کران اوس یس تس بروٹھ کنہ اوس بیہ اس اسہ
تس انجیل ڈر مشر جیتہ اندر ہریت تہ نور اوس
بیہ اس سے تہ تراوی تقدیق کران یوہ سے تس
بروٹھ کنہ اس بیہ اس سے تقویٰ پراون والہن
ہند خاطر ہریت تہ نصیحت -

بیسہ پتر انجیل والہن ز اللہ (تعالیٰ) ہن یہ اکیر تہ
تہ مشر نازل کوڑمت چھ، تہ مطابق کرن فاصلہ
تہ ہم لوکھ، تمہ (کلامہ) مطابق فاصلہ کرن نہ
یس اللہ (تعالیٰ) ہن نازل کوڑمت چھ - ادر
تے چھ (پوشہ) ہاشی -

بیسہ چھیہ اسہ تریت پیٹھ یہ کتاب حقس پیٹھ نازل
کر مشر - سو چھیہ پاس بروٹھ میر کتابہ (ہنن
کھن) پور کرن واجو بیہ چھیہ تہ پیٹھ
راچھدر - لہذا کر تر ہمن در میان فاصلہ بیہ کتابہ
مطابق یوہ اللہ (تعالیٰ) ہن تریت پیٹھ نازل کر تہ
چھیہ تہ یس حق تریت کن آمت چھ سہ تراوی تہ
سہ کر تہ تہ ہمن خا ہن ہنر پاروی، اسہ پھ
توہ ہنر ہر کانسہ ہند باپتہ (پنہ پنہ استعدا
مطابق البہمی) آس تام واتنہ باپتہ اکھ لوکھ
یا بیڑ و تہ بنا و مشر بیہ ہر گاہ اللہ (تعالیٰ) بیترہ

فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿۵﴾

ہے تو توہم (سارنہ) بناو ہے اگے جماعت
مگر (تھکے کلاس متعلق) تہند امتحان ہستہ
موکھ یس تو توہم پیٹھ نازل کریاو (کورن نہ
تیقہ) لہذا کرو ٹیکین منزاکھ اگس بروٹھ
نیرنہ خاطر مقابلہ تکلیار اللہ (تعالے) ہستہ
کن چھو توہم سارنہ پھیرتھ گڑھن میلہ زن
سے توہم ہمن تمام معادن منزکین منز توہم
اختلاف متواوان اسی و اصلیتہ ہنہ خیردار کرو۔
بہ اے رسول! تر کرکین درمیان تمہ (کلامہ)
دسی قاصدہ یس اللہ (تعالے) ہن (ترہ پیٹھ)
نازل کورمت چھ تر ہر کر تہننن خا ہمن
ہنر پاروی تر ہمن ہنن روز ہشیار نہ ہنہ تم ترہ
قیلس منز تراوتھ اللہ (تعالے) ہند نازل کرہ
کلام ہنہ دور ہنہ - پیٹھ الحر تم پھیرن تر زان
نہ اللہ (تعالے) چھ ہنہ ہنن دیہ ہنہ
کیشرو گونہ ہو موکھ سزا، تر لوکو منز ہنہ واریہ
عہد پھڑراون واکر۔

کیا تم چھن الہی کلام نازل سپدنہ برو ہنہ قاصدہ
پند کران؟ مگر مومن ہنن تہ چھنہ اللہ (تعالے)
ہنہ کھوتہ جاہرت قاصدہ کرن وول کینہ۔

اے ایماندارو! بیہودی تر نصاریٰ مہ بناو لوکھ
(پینر) مددگار (تکلیار) ہنو منز چھ کیہہ
کیشرن ہندر مددگار۔ تر توہم منز یس (ترہ)
ہمن ہنن مددگار بناو سہ آسہ یقینا، ہنو ہسے
اندہ اللہ (تعالے) چھنہ ظالم لوکن ہرگز کامیاب
ہنن (وتھ ہاوان)۔

بہ وچکھ تر ہنم لوکھ ہیندن دین منز ہما رکی
چھہ، نہ تم چھہ یہ ونان ونان ہمن (کافرین)
کن دوان دوان گڑھان (ترہ) ونان چھکھ
نہ اسی چھ (اتھ کھتہ) کھوٹران، نہ اسہ پیٹھ

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَ
لَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ
أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ
اللَّهُ إِلَيْكَ، فَإِن تَوَلَّوْا فَاغْلَمَ أَتَمًا
يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ
ذُنُوبِهِمْ، وَإِن كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ
لَفَاسِقُونَ ﴿۵﴾

أَوْحَكُمُ الْجَاهِلِيَّةَ يَبْغُونَ، وَمَنْ أَحْسَنُ
مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿۵﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا
الْبُهُودَ وَالتَّضَارَىٰ أَوْلِيَاءَ، بَعْضُهُمْ
أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَوَيْلٌ
لَّكَ مِنْهُمْ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ ﴿۵﴾

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ
يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن
تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، فَخَسَىٰ اللَّهُ أَن يَأْتِيَ
بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُضِحُّوا

(دینہ) کا نہ مصیبت سے عنقریب ان اللہ تعالیٰ
(تہنہ) فتح (حاصل کرنے کی سامانہ) یا پینہ طرفہ
کا نہ (بیاکھ) صورت حال (و جوڑس) سب سے
تم تھے کتھ پیچھ تادم سپرن یوہہ تمہو پستانہ
دلن اندر کھٹتھ تھامو مہتر پھیہ۔

بہ یہ لکھ مؤمن چھہ تم ون نہ کیا کے چھا
تم لوکھ یو (سختہ کھوتہ) سخت قسم کر کر کر
ونیاو نہ اسی چھہ پور پٹھو تو ہر سوتی! تہنہ
اعمال گئی ضایع ادر تم بنے یہ گاڑ لین والی۔

اے ایماندارو! توہہ مشرئیس (شخص) پینہ دینہ
بشہ پھیرتہ (سے تھاون یاد) اللہ (تعالیٰ)
انہ (سختہ جاپ) جلدے اکھ تہتھ قوم یکن سوتی
سے لول ورتاوان آسہ تہ تم آسن تس سوتی لول
ورتاوان۔ ہم مؤمنن پیچھ شفقت کرن والی آسن
تہ کا قرن کتی آسن سخت۔ تم کرن اللہ تعالیٰ
سینر وتہ جہاد تہ گائنیہ طامت کرن والی سندرئس
طامتس کھوتن تہ۔ یہ چھہ اللہ تعالیٰ سندرئس
سے یکن پسند کران چھہ (یہ فعل) چھہ رتہ دلون
تہ اللہ تعالیٰ چھہ وسعت بخشن دول (تہ)
سپھا زانن دول۔

تہنہ مددگار چھہ صرف اللہ تعالیٰ تہ تسند
رسول بہہ تم مؤمن ہم نماز قائم تھوان چھہ تہ
زکوٰۃ دوان چھہ۔ تہ تم چھہ (سوتی) پوختہ
پٹھو تھالیس کن زانن والی (موتہ)۔

بہ یہ لکھ اللہ تعالیٰ، ہس تہ تہنہ رسول
تہ مؤمنن پینہ مددگار بناوان چھہ (تم زانن نہ)
بے شک چھہ اللہ تعالیٰ سینر جماعت
قالب (سپد تہ روزن واجتی)۔

اے ایماندارو! یکن توہہ بروٹھ کتاب دینہ
آسن تمہو مشرئیس تہنہ دینس مخلہ تہ گرن

عَلَىٰ مَا أَسْرَوْا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ ﴿۵۶﴾

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهْلَاءُ
الَّذِينَ اتَّسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ
لأنهم لمعكم، حيطت أعمالهم
فأصبحوا خسرين ﴿۵۶﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَزِدْ
مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللَّهُ
بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، أَذِلَّةٍ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ
يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ
لَوْمَةً لَّا آئِدٍ، ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ
مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۵۶﴾

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ
آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ
يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿۵۶﴾

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا
فَأِنَّ جِزْيَ اللَّهِ هُمْ الْغَالِبُونَ ﴿۵۶﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ
اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَا بَغْيًا مِنَ الَّذِينَ

أُتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارُ
أَوْلِيَاءُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُفْرَهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۵۰﴾

(کیت سامانہ) بناؤتھ مقصومت چھہ برتم تہ
(تمو وراے بیٹے) کافر تہ مہ بناؤ لوکہ (نہ)
مددگار تہ اگر توہی مؤمن چھو تہ اللہ (تعالے)
سند تقویٰ پراوو۔

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا
هُزُؤًا وَعِجَابًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا
يَعْقِلُونَ ﴿۵۱﴾

بہ نیلہ توہی (لوکن) نماز خاطر ناد چھو کران
تہ برتم چھہ تھہ مٹھہ تہ گنڈن بناوان۔ یہ (ظرفہ)
چھہ (تمن اندر) اوکوز (موجود) نہ برتم چھہ تھہ
لوکہ نیم نہ عقلم کام، ہوان چھہ۔

قُلْ يَا هَلْ الْكِتَابَ هَلْ تَنْقُمُونَ مِنَّا
إِنَّمَا أَنْزَلْنَا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا
مَّا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَآنْ أَكْثَرَكُمْ
فَاسِقُونَ ﴿۵۲﴾

تہ ون تمن نہ اے اہل کتاب! توہی چھو نہ
اسہ امر ہواہی کاشہ عاب لگان نہ اسہ چھہ اللہ
(تعالے) ہس پیٹھ (تہ) تہ یس (کلام) اسہ
پیٹھ نازل کرنہ امت چھہ (تھہ پیٹھ تہ) تہ یس
(کلام تہ) بروٹھ نازل کرنہ امت اوس۔ تھہ
پیٹھ (تہ) ایمان اونمت تہ (بہ چھو عاب نزلان)
اوکوز نہ توہہ مشر چھہ جاد (اللہ تعالے ہندک)
بامعی۔

قُلْ هَلْ أَنْتُمْ كُمْ بِشَرِّ مَن ذَٰلِكَ
مَثُوبَةٌ عِنْدَ اللَّهِ ۚ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ
وَعَضَبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ
وَ الْخَنَازِيرَ وَ عَبَدَ الطَّاغُوتَ ۚ
أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَ اضَلُّ عَن سَوَاءِ
السَّبِيلِ ﴿۵۳﴾

تہ ون (تمن) نہ کیاہہ ونوا توہہ تمن (لوکن) ہند
حال؟ یمن ہند بلہ اللہ (تعالے) ہس نش
تس (شخصہ) ہند کھو تہ (یس توہی ناپند کران
چھوون) بدتر چھہ۔ تم چھہ (تم) لوکہ۔ یمن
پیٹھ اللہ (تعالے) ہن لعنت کر مشر چھہ
بہ یمن پیٹھ تمواہین، غضب نازل کورمت چھہ
تہ یجو اندر چھہ تمواہین (کنیترن) واندر تہ سور بناؤ
موتلہ، تہ یجو شیطانہ ہنر ہنگی کر مشر چھہ
تمن لوکن ہند ٹھکانہ چھہ سبھاہ چھہ تہ تم چھہ سبز
وتہ نش جادے دل متہ۔

وَإِذَا جَاءَ وَكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ خَلَوْنَا
بِالْكَفَرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ ۚ وَاللَّهُ

بہ نیلہ تم توہہ نش ہوان چھہ تہ ونان چھہ نہ
اسہ چھہ ایمان اونمت نیلہ نل تم کفر ایمنہ

اعْلَمُوا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۷﴾

کھڑکے عقیدے، ہتھ دماغل سپرکرتو اسی
تہ تم اسی (پتہ) سہ عقیدے، ہتھ دماغل تہ
یہ کیشہا تم کھان چھ تہ چھ اللہ (تعالے) سار
وہے کھوتے (جاد زانان)۔

بیسہ تہ چھبکھ، تم اندر واریاہ وچھان نہ تم چھ
گوتہس تہ جادتی تہ حرام کھینس کن جاد زو
گرھان۔ یہ کیشہا تم کران چھ سہ چھ بے شک
سبھا ناکار۔

عارف (لوکھ) تہ عالم کیاہ چھنہ تم ایز و نپہ
تہ حرام کھینہ نشہ پتہ رمان؟ یہ کیشہا تم کران
چھ تہ چھ یقینا سبھا ناکار۔

بیسہ چھ یہودی و نان نہ اللہ (تعالے) سبھس
اتھس بیھہ ناکل کرٹھ۔ یہ کیشہا تم وؤ نمٹ
چھ تمہ باعشہ بن (خود) تہندین اتھس ناکل
تراوہ تہ تم پتھ بیہ لعنت کرنہ (تم چھ ایز
ونان)۔ حقیقت چھ بیہ نہ تمہ سبھ چھ کشاہ
سہ پھکنی بیترھان چھ خربچ چھ کران تہ یہ
کیشہا چھنہس پرور وگاہ سبھ طرف تہ یہ پتھ نابل
کرنہ آنت چھ تہ کرہتمو اندر واریاہن بے شک
سرکش تہ کفرس منہر بیہ تہ (جاد تینز) تہ
اسہ چھ کرہمتر قیامتہ تام تم در میان
عدوت تہ بعض پاہ۔ بیلیہ تہ زاہ تمو لڑا بیہ
ٹاٹھ کرنہ قہمہ کس نارس ووش دیت تہ اللہ
(تعالے) ہن کور سہ ترحبتہ تہ تم چھ ٹکس اندر
فساد با پتھ دو ان (چھیلن) تہ اللہ (تعالے) چھنہ
فسادین پسند کران۔

بیسہ گھر اصل کتاب ایمان انہ ہن تہ تقویٰ پلڑہن
تہ اسی کرہو چھنہز ناکار گیہ ضرورہ تمہن بش
دور تہ ضرور کرہوگھ تم (کیستہ قسمہ چھن) نمہز
والین باغبن اندر دماغل۔

وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي
الْآثَامِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّخْتَاءَ
لَيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۸﴾

لَوْ لَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَابُ
عَنْ قَوْلِهِمُ الْآثَامَ وَالْعُدْوَانَ
لَيْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿۱۹﴾

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُوبَةٌ
عَلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلَعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدُ
يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُثْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ
وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ
إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَ
الْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعِدَاةَ وَالْبَعْضَاءُ
إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَلِمًا أَوْ قَدْرًا نَارًا
لِّلْحَرْبِ أَطْفَالَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي
الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ ﴿۲۰﴾

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا
لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَآذَخَلْنَا لَهُمْ
جَنَّتِ النَّعِيمِ ﴿۲۱﴾

وَلَوْ أَنَّهُمْ آقَامُوا التَّوَارِثَ وَالْإِنْحِيَالَ
وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ
فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ
أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءٌ
مَا يَخْمَلُونَ ﴿۶﴾

بہے اگر تم توارث نہ انجیل سے یہ (کثیر شاہ)
تہنڈس رہے ہند طرف (دوڑ) تم پیٹھ نازل
کرنے آمت چھ، تہ ظاہر کرن روزہن اوجرور
کھینے ہن تم پسند پیٹھو کنی تہ تہ پسندو
کھوروتی تہ (کھینے ہن)، تمو اندر چھ (بیشک)
اکھ جماعت اعتدلس پیٹھ مگر واریاہ چھ تمو اندر
تھو نہ یہ (کثیر شاہ) تم کران چھ تہ چھ پیٹھا
ناکار۔

۳۴

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ
مِنْ رَبِّكَ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ
رِسَالَاتِهِ، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ،
إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿۷﴾

اے رسول! پھانس رہے ہند طرف سے (کلام تہ)
ثریہ پیٹھ نازل کرن آمت چھ سہ واتاوا (لوکن نام)
تہ ہرگاہ ثریہ (تہ) کوڑھ نہ تہ (گویا) ثریہ چھتہ
تند پیغام (سٹے) واتوتم، تہ اللہ (تعالے)
تھوی ثریہ لوکن (ہند حملہ بشر) محفوظ تہ اللہ
(تعالے) ما و سہ کا فر لوکن ہرگز (کامیابی
ہنر) و تھ۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ
تُقِيمُوا التَّوَارِثَ وَالْإِنْحِيَالَ وَمَا أُنزِلَ
إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ، وَلِيُزِيدَكُمْ كَثِيرًا
مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ
طُغْيَانًا وَكُفْرًا، فَلَا تَأْسَ عَلَى
الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿۸﴾

تہ لون (ز) اے اہل کتاب! یونانی توہم توات
تہ انجیل بہے یہ کثیر شاہ تہنڈس رہے ہند طرف
توہم پیٹھ نازل کرن آمت چھ تہ ظاہر کرو نہ
توہم چھو نہ (تھو و قلس نام) کینہ (دہڑ) کھ
پیٹھ (قائم) تہ یہ کثیر شاہ پھانس رہے ہند طرف
ثریہ پیٹھ نازل کرن آمت چھ سہ ہر راو
تھو اندر واریاہن سرکشی تہ کفرس مشر ضرور
او کتو مہ کر تہ تھ کا فر قوس پیٹھ افسوس۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا
وَالضَّالِّينَ وَالنَّصْرَىٰ مِنَ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلْ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۹﴾

بہر لاکھ ایماندار چھ تہ ہم یہودی چھ تہ (بہیہ)
صالی تہ نصاریٰ چھ (تھو اندر) یسوع (تہ) اللہ (تعالے)
سہ پیٹھ، تہ پتہ ہینہ وائس دوس پیٹھ پڑکاپٹ
ایمان اوتمت چھ بہے چھ تھو نیک عملہ کر مشر نہ
آسہ تمہن (ہینہ والہ زمانک) کا تہ خوف تہ نہ آس
تم (پتھ کن گاتھس و قلس پیٹھ) عملین۔
اسہ ہشاو بے شک بنی اسرائیل پھرتہ عہد تہ تمہن

لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ

کُنْ سَوَآءٍ كَمَا يَأْتِيكَ الرُّسُلُ - سبیلہ زانیہ، تمہیں کونسی کاہنہ رسول سے (تعلیم) ہوتی ہے اور یہی تمہیں تہنہ دل پسند کسی نہ کران تہ کینہہ اپڑاؤ کہ تمہو تہ کیشن اس کسی تم قبل کران یہ پڑھان۔

بہی زون تمہو ایہ، نہ کاہنہ فتنہ گزیرہ نہ پاد (ابہ سبتی)، اور کئی گے تم اڈی تہ زُرک پتہ کور اللہ (تعالیٰ) ہن شفقتہ سان ہنم کُن توتہ مگر، تمہو اندر گے واریاہ بہی اڈی تہ زُرک تہ یہ کیشنہا، تم کران چھ اللہ (تعالیٰ) چھ تہ وچھان۔

یہو لاکو یہ ووتمت چھ نہ یقیناً اللہ تعالیٰ، سبے چھ مسیح ابن مریم، تم چھو پدے ہوتی ضرور کافر تہ مسیح بنے اوس ووتمت نہ اے بنی اسرائیل! توتہ کر اللہ (تعالیٰ) ہنہ عبادت یس سون اتہ، پروردگار چھ تہ تمہند اتہ، پروردگار چھ۔ کتھ چھ یہیہ نہ یس (شخص کاہنہ، اللہ تعالیٰ) نہ شریک بناو تہ (نہا تو نہ) اللہ تعالیٰ، ہن چھ جنت تہس پیچھ حرام کوہنت تہ تہند بھکانہ چھ جہنم تہ ظاہن ہند (آب) نہ کاہنہ (تہ) مددگار۔

یہو لاکو یہ ووتمت چھ نہ اللہ تعالیٰ، چھ یقیناً تریو مشرک تہ تم اتہ، پدک بے شک کافر تہ اکیس معبودس وراہی چھنہ بیاکھ کاہنہ معبود تہ یہ کیشنہا تہم وان چھ اگر تم تہ نش باز آہیہ نہ تہ تمہو مشرک تہ کفر پروہنت چھ ہنم وایہ ضرور کر یوئمہ عذاب۔

ادہ تم لوکھ چھنا اللہ تعالیٰ، ہس کُن تمان؟ تہ تہس (چھنا پسنہن گونہن ہنہر) معانی منگان، نیلہ زن اللہ تعالیٰ) سبھا بخش وول اتہ، چھہر کچھہر تم کران وول چھ۔

مسیح ابن مریم اوس صرف اکھ رسول، تہس برہنم رسول (تہ) چھ فوت پدے ہوتی۔ بہی تہنہر موج

أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ رُسُلًا، كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ، فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿٥﴾

وَحَسِبُوا أَنَّا لَنَكُونُ فِتْنَةً فَعَمُوا وَصَمُوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُوا كَثِيرًا مِّنْهُمْ، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٦﴾

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنِي لِي إِسْرَائِيلَ، اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ، إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا فِيهَا النَّارَ، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٧﴾

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ، وَإِنَّمَا كَفَرُتُمْ إِعْمًا، وَمَا يُقُولُونَ كَيْفَ تَسْمَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذْ يَدْعُوكَ إِلَى اللَّهِ وَرَبِّهِمْ، فَسَمِعُوا، وَإِن كَانُوا لَنَاصِرِينَ ﴿٨﴾

أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٩﴾

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، لَا رَسُولٌ، قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ، وَآمَنَ

صَدِيقَةً، كَأَنَّا يَا كُلِّبِ الطَّعَامَ، أَنْظَرُ
كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظَرْنَا
يُؤْفِكُونَ ﴿۵۱﴾

اُس سبھا پُر مَیڈ۔ تم دونوں اُس کہیں کھووان
(روزانہ)۔ وُجھ! اُسی کتھ پانٹھو چھ تہند (تائید)
تھطر ڈیلہ بیان کران۔ پتہ وُجھ نہنن ہند خیال
کتھ پانٹھو چھ بلاون یوان۔

قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ
لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ ﴿۵۲﴾

تُر وُجھ (نہ) کیا توہی جیوا اللہ (تعالیٰ) تراوتہ تم (جن
ہنر بندگا کران ہم نہ توہر نوقصان واتاؤنک طاقت
چھ تھوان تہ نہ تائید واتاؤنک؟ تہ اللہ (تعالیٰ)
ہے چھ یس سبھاہ بوزن وول (تہ) سبھا زان
وول چھ۔

قُلْ يَا هَلْ الْكِتَابَ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ
غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ
قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا
وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿۵۳﴾

تُر وُجھ نہ اے اہل کتاب! سینس دپنس متعلق
مہ ورتاؤو نا جائیز (پانٹھو) حد کھوتہ جاد مبالغہ
ہیہ مہ کروہن لوکن ہننن تھیشن ہنر پانٹھو
ہم امہ بروٹھ (پانٹہ تہ) گھراہ سپرک ہوتہ چھتہ
(ہیہ) واریاہ چھ ہتو گھراہ کرک ہوتہ تہ (پانٹہ چھ
شیر و تہ نش ڈول ہوتہ۔

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ
عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ،
ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿۵۴﴾

بن اسرائیلو اندر پچو کفر پاننومت چھ تم پٹھ
آیاہ داوؤد تہ عیسی ابن مریم ہنر زیو لغت
کرہ (تہ) یہ سپرے یاو او کو نہ تمو کر یا سپہ
نافرمانی تہ، تم اُس حد نیران۔

كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنْكَرٍ فَعَلُوهُ،
لِيُنسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿۵۵﴾

تم اُس تہ اگہ اگس ناپسند کتھ ہنرہ ہیہ کو تم جرم
وار سپرک (ہتو اسپہن)، ٹھاک کران۔ یہ کتھ
تم کران اُس تہ اوس یقینا سبھا ناکارہ۔

تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ
كَفَرُوا، لِيُنسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ
أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي
الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿۵۶﴾

تُر وُجھیکہ تمومنز واریاہ نہ ہم (لوگہ) کا ہر چھ
ہنن چھ ہم (پنن) مددگار بناوان۔ یہ ہتو پننہ
مرضی سبتی بروٹھ سوزمت چھ تہ چھ سبھا
بچھ۔ یوسہزن یہ کتھ چھنہ نہ اللہ (تعالیٰ)
چھ ہنن ناراض گوومت تہ تم روزن عدلیس اندر

۱۔ مسیح علیہ السلام سب کہیں کھووان چھ امہ کتھ ہنر وپل نہ سہ اوس نہ خدا۔ انجیل
منز چھ مسیح بند کہینک چہنگ ذکر (مرقس باب ۱۱ آیت ۱۸۱۴)

پیٹھ۔

بیسے ہرگاہ تم ایمان تقویٰ میں اللہ (تعالیٰ) سے
(پیٹھ) تہ (اُسی) نہیں (پیٹھ) تہ تہ
پیٹھ سے اُسی (نہیں) پیٹھ تازل کرنے آمت
پیٹھ، تیلے بناؤ میں نہ تم جس چیز مددگار مگر
تمو منتر چھ والا نا فرمان۔

وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ
مَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمَآ تَحْذُؤُهُمْ أَوْلِيَاءَ
لَئِن كُنْتُمْ كَافِرِينَ ۝۷

تہ لہیکہ مومنین سیدی عداوت تھا ولس منفر یقیناً
یہودی تہ تم لوکھ یک مشرک چھ ساروے کھوتہ
جادو سخت۔ تہ مومنین سیدی محبت کرنے کہ لحاظ
لہیکہ تہ تمواندر ساروے کھوتہ نزدیک تم لوکھ
یکم یہ ونان چھ نہ اُسی چھ لھارکا۔ یہ کہتہ
چھ او کئی نہ تہ اندر چھ کپتہ لوکھ) عالم تہ عابد
بیسے او کئی نہ تم چھ نہ تکبیر کران۔

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاؤَةً لِلَّذِينَ
آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۚ وَ
لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ
آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا تَصْرَىٰ، ذَلِكَ
بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيَسِينَ وَزُهَبَانَاؤًا أَنَّهُمْ
لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۝۸

بیسے تیلے تم سے (الہی کلام) بوزان چھ یس نہیں
رسول پیٹھ تازل کرنے آمت چھ تہ (اے مخاطب!)
تہ چھکھ وچھان نہ یو تاہ تمو حق پر نہ نومت یہتھ
تمہ کہ باعث چھ تہ تہنتر اچھ تہ تہ تہ اوش ماران
تم چھ ونان تہ اسے سانبہ پروردگار اسے چھ ایمان
اونمت لہذا لیکھ سون ناو (تہ) گواہن سیدی۔

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَىٰ
الرَّسُولِ تَرَىٰ اعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ
الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ
رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ۝۹

بیسے اچھ ونان نہ) اسے کیاہ چھ گوتمت) نہ اُسی
انور ایمان اللہ (تعالیٰ) سے (پیٹھ) تہ تہ
پزرس پیٹھ یس اسے بش آمت چھ تیلے زن اُسی
خاہش تھوان چھ نہ سون پروردگار کرن اسے
نیک لوکن منفر دا تھل۔

وَمَا كُنَّا لَنُؤْمِنُ بِاللهِ وَمَا جَاءَنَا
مِنَ الْحَقِّ، وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا
مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ۝۱۰

او کئی کر اللہ (تعالیٰ) جس تہنتر (امر) کہتہ
بدل تم جنت عطا یکن منتر کولہ پکان
آسن۔ جس منتر گشھن (تم) ہمیشہ روزان۔

فَاتَّقُوا اللهَ يَمَا قَالُوا اجْتَنِبِ تَجْرِي
مِن تَحْتِهَا اَلَا نَهَرُ خُلُودِيْنَ فِيْهَا ۚ وَ
ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ۝۱۱

تہ یہ ہے چھ نیکو کارن ہند بدلہ۔
تہ یو لوکو کفر پر وومت چھ تہ سادی آہ چھکھ
ایز او کئی۔ تم لوکھ چھ جہمی۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَكْذِبُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
أَصْحَابُ الْجَحِيْمِ ۝۱۲

اے ایماندارو! یہ کثیرھا اللہ (تعالیٰ) بن تہند
 باپتھ حلال ٹھہرومت چھ تہ منبر منہ ٹھہر اوپاک
 پاکیزہ (چیز) حرام، تہ گندھ (حدو منہ سپرو
 نمبر۔ اللہ (تعالیٰ) چھتہ گندھ) حدو نمبر
 نیرن والین لیتد کران۔

بیہ یہ کثیرھا اللہ (تعالیٰ) بن توہر دیت مت
 چھو تہ منبر کھیو حلال (تہ) پاکیزہ (چیز) بیہ
 پراوو (تہس) اللہ (تعالیٰ) سند تقویٰ، نیس پٹ
 توہر ایمان تھوان بھو۔

تہند لو تہسو منبر دیو تہ اللہ (تعالیٰ) توہر
 بے ہوو (تہس) پیٹھ سزا بلکہ تہند پوتہ تہ قسم
 کرس (تہ پتہ پھٹراوس) پیٹھ دیو توہر
 سزا۔ لہذا تہیک (یعنی قسم پھٹراونک) لغاب
 چھ دہن مسکین (درمانی) کھین کھیوان
 (تہتھ کھین) بیٹھ توہر پننن گرکین کھیوان
 چھو یا تہن ہند پوتھک یا اکھ گردن (غلام منبر)
 آزاد کرے۔ اڑ نیس تہ (پتہ) میسر سپر
 تیلہ چھ تریہ دہ روز (درہ) تہس پیٹھ واجب
 تیلہ توہر قسم کرو (تہ پتہ پھٹراوو، تہ)
 یہ گوو تہند بن تہس ہند کفار۔ بیہ اسو توہر
 پننن تہس ہنر حفاظت کران (اللہ تعالیٰ)
 چھ پننن آہ تہند باپتھ پتھ پاتھو بیان کران
 بیٹھ توہر شکر کران والی ہو۔

اے ایماندارو! شراب تو زار تہ پوتہ تہ چیرن
 ہندک تہر چھو محض ناپاک تہ شیطانی کار اوکھ
 بچو توہر بھو (منبر پر سچہ کہ) ہنہ بیٹھ زن توہر
 کامیاب سپرو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرَّمُوا طَيِّبَاتِ
 مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ
 لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿۵﴾

وَكُلُوا وَمِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبَاتٍ
 أَتَقْوُونَ اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿۵﴾

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ
 وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمْ لَا أَيْمَانَ
 فَكَفَّارَتَهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ
 أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَسْوَتُهُمْ
 أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
 ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا
 حَلَفْتُمْ وَارْحَمُوا حَفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ
 يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۵﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ
 الْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ
 عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
 تُفْلِحُونَ ﴿۵﴾

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْحَمِيرِ وَالْمَيْسِرَةِ
يَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ
فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ⑤

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ
وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا إِنَّمَا
رَسُولُنَا ابْلَغُ الْمُبِينِ ⑥

كَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا
اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ
اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَآخَسَنُوا
اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ⑥

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَبِئْسَ اللَّهُ
بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالَهُ أَيْدِيكُمْ وَ
رِمَاكُمْ لِيُعَلِّمَهُ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ
بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ
فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ⑤

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ، وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُم مُّتَعَمِّدًا
فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ
بِهِ ذَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بُلِغَ
الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ
عَدْلٌ ذَلِكَ صِيًّا مَا لَيْدُونَ وَبِالْأَمْرِ ۝۴
عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ، وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ

شیطان چھ صرف یہ بیٹھان نہ توہمہ در میان تلوہ
شرابہ تہ زار دسی عدوت تہ کہینہ تہ اللہ تعالیٰ
بندہ ذکر تہ نماز بشتہ ٹھکانو و کیا وہ فی ہیکل
وا توہمہ (میو کھو بشتہ) پتہ روزتہ ؟

بہ کرو اللہ تعالیٰ (بتہ) اطاعت تہ رکولہ
بتہ (بتہ) کرو اطاعت تہ ہشیار روزو، بہ اگر
توہمہ (امیر منہیبہ پتہ تہ) پھیر کر و تیلہ زانو
نرسانس رسولس چھ صرف واش گدی گدی
واتناوتے اوت ملہ۔

یو لوکو ایمان آؤنت چھ تہ (بہ) چکھ نیک
کامہ کر مشرہ تیلہ بہ تم تقویٰ پران تہ ایمان
اتن تہ نیک عملہ کرن بہ کرن تقویٰ (ہس منز
ترقی) تہ ایمان ان تہ پتہ تہ کرن تقویٰ (ہس
منز بہ ہن ترقی) تہ احسان کرن اہ بہ کیشٹھا
اتہ) بہ کھین تھہ پیٹہ (آسہ) تہ تمن کائہ گونہ
تہ اللہ تعالیٰ) چھ احسان کرن والین سترہ محبت
کرن۔

اے ایماندارو! اللہ تعالیٰ) کرمزور تہنتر آڑنیش
اگر (پس پایہ) چیز یعنی شکار کہ ذریعہ بیتہ ستانی
تہند کہ اتھ تہ نیز بیان آسن۔ بیتہ اللہ تعالیٰ)
ہن لوکن نون کدی نیم تنہائی منز تہ تس کھوتان
چھ۔ پتہ یس (شخص) امر (حکمہ کر بوز تہ) پتہ
(تہ) جادتی کر تہند خاطر آسہ تیلہ کروٹھ عذاب
اے ایماندارو! توہمہ مہ ارسو اجرام کس حالتس منز
شکار مارن تہ توہمہ منز یس (شخص) تہ نا تھہ
مانتھ مارہ، اہ یس (شکار) تمہ قتل کورمت آسہ
تمہ قہمک (چارووسے) آسہ (تس) بدلہ دکنہ
دین (نیمیک فاصلہ توہمہ منز نہ انصاف کرن
وہل انسان کرن۔ تہ سہ چارووسے چھ کعبس تام
(قرہائی خاطر) واتناون تہ ضروری تہ) اگر

اللَّهُ مِنْهُ، وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿۱۱﴾

تمیگ طاقت آسپس نہ تیل، آسپس کفار دین، یعنی کینٹرن مسکین کھن کھیاون یا تنھ برابر روز تھاونہ بیٹھ زن سہ (مجرم) پنہنہ کامہ ہند بد انجام د پتراو۔ ووز گوو یہ (پتھ کن) گڈریومت پھ سہ پھ اللہ (تعالیٰ) ہن معاف کورمت تہ یس شخص بیہ (تی) کر تس بیہ اللہ (تعالیٰ) تہنہ بزرگ (سزا تہ اللہ (تعالیٰ) پھ غالب (تہ بکارگ) سزا دہن وول۔

أَجَلٌ لَّكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلنَّسَاءِ وَالْوَحْيَ عَلَيْهِمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿۱۲﴾

سمندری شکار کن تہ سہ کھنوں پھ تہنہ تہ سفر کرن والین ہند شطہر جائز کرنہ آمت۔ مگر یوتانی توہر احرام کس حالتس منز موشکی ہند شکار پھ (تھہ وفتس تام) توہر بیہ حرام کرنہ آمت، تہ توہر پراوو اللہ (تعالیٰ) سند تقویٰ سیمہ ہندس دربارس منز توہر یکجا کر تہ نہنہ بیو۔

جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَمًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ، ذَلِكَ لَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۱۳﴾

اللہ (تعالیٰ) ہن پھ کعبہ یعنی محفوظ گہ لوکن ہنز راکی ترقی ہند ذریعہ بنومت تہ بیہ حرمتہ اولی رتہ تہ قربانی ہندک چار اولی تہ سیم چارواہن ہنس مالہ تراونہ آسپن آمشہ (تم تہ یہ پھ او کتہ کوومت) نہ توہر زابوزیہ کیشہا آسمان اندر پھ تہ یہ کیشہاز مینہ منز پھ اللہ (تعالیٰ) پھ ہن سارنہ زنان۔ تہ اللہ (تعالیٰ) پھ یقیناً پرتھ چرک علم تھاون وول۔ یاد تھونہ اللہ (تعالیٰ) پھ عذاب ونس اندر (تہ) سجت تہ اللہ (تعالیٰ) پھ سبھا بختن ہر (تہ) مہربان تہ۔

رَاعُوا أَنَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۴﴾

رسولس پیٹھ پھ صرف (کتھ ہند) واتناون (واتہ) تہ اللہ (تعالیٰ) پھ سوکتہ زبر یا کھو زنان، یوسہ (عملی طور) تہنہ روسی ظاہر پدان چھینہ تہ (سوتہ) یوسہ (وہن علی طور) ظاہر پدکتر

مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۵﴾

پہنچتے۔

تو وہ کھڑے رہے کار (چیز) بیٹیکہ نہ فائدہ مند
(چیزیں) برابر آہستہ۔ اور توہم بے کار چیزیں
بیادتی کٹا رہے پسند آسوں۔ لہذا اسے عقلمند واپس!
اللہ (تعالیٰ) سداً تقویٰ پر اوڑھ لیتے تو ہر کامیاب
گرتے ہو۔

اے مؤمنو! (بتمن) کتنے متعلق مرہم سو کران کو ان
(بیم) ہر گاہ توہم پیٹھ ظاہر کرنے ہیں تو تمہیں
تکلیف کا باعث بنیں۔ تو اگر توہم تھو وقتس منز
بتمن نسبت سوال کرو بیٹیکہ قرآن نازل کرنے یوں
پیٹھ تیلے ہیں (بتمن) توہم پیٹھ ظاہر کرنے۔ اللہ
(تعالیٰ) پیٹھ پانے (نہانتہ مانگتہ) بتمن ہستہ
بیان کرنے ہستہ خاموش روڈمت تو اللہ (تعالیٰ)
پیٹھ سبٹھا بختن وول آتہ، سوچیں سمجھیں کام ہستہ
وول۔

توہم ہر بروٹھ چھو اگر توہم ہستہ کتنے متعلق
سوال کری ہستی (مگر بیٹیکہ جواب میں لکھتے تہ) تمہ
(کہ ماننے) ہستہ کوڑکھ (اد) انکار۔
نہ (تہ) پیٹھ اللہ (تعالیٰ) ہن بچہ ہستہ (بناونہ)
باپیٹھ حکم دیتے نہ سائے نہ تہ نہ وصیلہ
نہ حامی بناونک۔ مگر ہم (لوکھ) کافر چھو ہم پیٹھ
اللہ (تعالیٰ) ہس پیٹھ اپز توہمت (لگتہ) تمہوں
تہ تمہ منز چھو واریاہ عقلمند روہستہ۔

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ
أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ
يَأْتِيهِ الْبَابُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۱۳﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَن
أَشْيَاءَ إِن تَسْأَلُوا تَسْأَلُوا عَن
تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ
تَبَدُّ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا، وَاللَّهُ غَفُورٌ
حَلِيمٌ ﴿۱۳﴾

قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ
أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ﴿۱۳﴾

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ
وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ، وَلَئِنِ الَّذِينَ
كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وَ
أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۱۳﴾

لہ بَحِيرَةُ: عسلی سم وونٹ لیند کن ترہ نمبہ آسن آہستہ۔ بیٹیکہ وونٹ نہ داہ بچہ زابمتہ آسہ
ہن تہس آس یوں کن ترہ نمبہ تہ سو مس کام ہستہ رہا کرنے یوں۔
لہ سَائِبَةُ: بیٹیکہ کانسہ وونٹنہ آسہن پانتر بچہ زابمتہ تہ سو آس بیٹہ تراونہ یوں۔
لہ وَصِيلَةٌ: بیٹیکہ ترہا وچہ اکھ کچہ پوت تہ اکھ کچہ پوت ڈکر زبوان آس تہ بتمن آس
نہ ذبح کران۔ نہ اکھ ہستہ مارنہ ہستہ ہستہ بیٹیکہ تکلیف۔
لہ حَامٍ: نہ تر وونٹ لیند نہ لکھ داہ بچہ سپرہن نہ تہ اوس یوں بیٹہ تراونہ۔
نہ آس تہس سوار کران تہ نہ آس کتہ نیمبہ کام، یوں۔

وَاذْأَقْبَلْ لَهُمْ تَعَاكُوَالِي مَا أَنْزَلَ اللَّهُ
وَالرَّسُولِ قَالُوا أَحْسَبُنَا مَا وَجَدْنَا
عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا
يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿۵﴾

بہے بیلیہ بتمن و نر نہ پھ یوان نر خدایہ ہندس تا نزل
کر کر مہتس (کلاس) تہ (تہندس) رسولس کن بیو
تہ تم چھ و نلن نر اسر ہتھہ کتھہ پیٹھہ پینز جد جلا جلا
و چھوتو اسی (تہ) چھہ سائہ خاطر کٹائی کیا ہر گاہ
(یہ صورت آسہ نر) تہندک جلا جلا آسہ ہن نلن
تہ صیح و تھہ آسہ ہن نہ زانان (توتہ روزناہ) تم
پنس سندس پیٹھہ قایم)۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ
لَا يَصْرِكُمْ مَنْ صَلَّى إِذَا اهْتَدَيْتُمْ، إِلَى
اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۵۳﴾

اے مومنو! توہر کرو پستین نزلن ہنز (رایہ
کر مریخ) بکر بیلیہ توہر ہلایت لبو تہ کانسہ ہنز
گر اہی و اتا و کو و نہ توہر توہر قصان۔ توہر سارہ
چھو اللہ (تعالیٰ) ہس کتے چھہ تہ گرتھن لہذا
یہ کثیرھا توہر کران چھو، سہ کر کر و توہر تہ
بنتہ خیر وار۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ
إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ
الْوَصِيَّةِ اثْنِ ذَوَاعِلٍ مِنْكُمْ أَوْ
آخَرِينَ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ
صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ
مُصِيبَةُ الْمَوْتِ، تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ
الصَّلَاةِ فَيُقْسِمُنَّ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لَا
نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، وَ
لَا تَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِيَّانًا إِذَا لَمِنَ
الْأَثْمِينَ ﴿۵۴﴾

اے مومنو! بیلیہ توہر مفر کانسہ موت (یک وقت
نزدیک) بیہ تہ وصیتہ کر وقتہ پز کر و توہر
پانہ و اذ کو اہی (ہند طریقہ) ہتھہ کتہ (تھاوان)
نر توہر مفر سپن نر انصافہ و اذ گواہ (مقرر)
یا نر گواہ (یکم توہر مسلمانو ہنز آسن نہ بلکہ)
آسن دو پیرو ہنز، (یہ قاعدہ آسہ تھہ صورتس
ہنز) بیلیہ توہر ٹکس اندر سفر کر و ذی ا سو
تہ توہر پیٹھہ سپد موتک مصیبت تا نزل (تہ
توہر سپد نو نہ پینز گواہ میسر)، توہر (مومن
ہنز جماعت) تھاکتا و لوکھ (تھہ صورتس اندر) تم
دو نوے گواہ) نماز پتہ تہ تم دو نوے (بیلیزن)
توہر (تہنر گواہی پیٹھہ) شک آسہ و، و ن
اللہ (تعالیٰ) سہ قسم توہر نر اسی چھہ امر (شہادت)
بنتہ دین، کانسہ قاید نظر تل تھاوان۔ اذ (یکم
ہند سقہ اسی گواہی دوان آسو) سہ کو نہ آسن
سون اشنا و ہے تہ اسی تھا و نہ اللہ (تعالیٰ)
ہنز (مقرر کر مہر) شہادت (یعنی پوز و ننگ

فرمن، کھٹھہ۔ اگر اسی تہ کرو تہ اُسو سپرو
(تھہ صلوئس منز) گونہہ مگار۔

اد اکر (پتہ پین) یہ کتھ ننے بہ زیو دوشو لو چھ
(پانس پیٹھ) گونہہ واجب کورٹ۔ تہ بہ نہ شخص
سپان (بیو وارٹو) یعنی مورد ہندو اُشاو منز (مین
خلاف گورڈ تہ کپو دیو شخصو حق قائم کورٹ اوس
(گواہی خاطر) اسلا تہ تم ورن اللہ (تعالے) منز
درہے کڑتھ ز سانی گواہی چھید (مین) گورڈ مین
دون گواہن ہنر گواہی کھوتہ جاد پیز تہ اسہ کڑ تہ
(پسنہ گواہی منز) کانبہ جادتی۔ اگر اسہ تہ اسہ
تیٹھ کورٹ تہ اُسی گرتھو ظالم گننراوڑ۔

یہ طریقہ ازہ تمن (گورڈ مین گواہن) اتھ کتھ جاد
تزدیک زہ تم دن شہادت پڑو (واقعہ) مطابق یا
کھوژن (اتھ کتھ) نہ تہند لو قسو پتہ مین
(کینہہ) بیہ قسم (تہند کہ قسم رد کر نہ مکھ) پیش
کر نہ۔ تہ اللہ (تعالے) سہ تقوی پراوو بیہ کڑ
تسین حکمن ہنر جان پاتھ اطاعت تہ (یاد
تھاووز) اللہ (تعالے) چھنہ بتمر پھرن ہدایت
دوان۔

بیہ (کرو سہ دوہ یاد) بیہ دوہ اللہ (تعالے)
سولن سونراو تہ ونبکھ توہہ کیا جواب اوسو
دینہ آمت ؛ تم ورن اسہ چھنہ حقیقی علم
خاہر چین کتھ ہند اہل علم پتھ صرف، ثریہ۔
تمہ وقتہ ورن اللہ (تعالے) (عیسی ابن مریم تہ)
نہ اے عیسی ابن مریم! یوسہ لغت میہ ثریہ
پیٹھ تہ چانہ ماہر پیٹھ نازل کریا یہ سہ کر یاد
(یعنی) بیلہ میہ پاک و صیہ سوتی ثریہ مدد کریا
تہ اوسکھ لوکن سوتی لو کپاس منز (تہ) اڈور وانہ
منز تہ (رہوانیہ تہ چہ) کتھ کران۔ بیہ اکر سہ
وقت تہ یاد (بیلہ میہ تہ کتاب تہ حکمت (چہ

فَإِنْ عُرِثَ عَلَىٰ آلِهِمَا اسْتَحَقَّ إِثْمًا
فَأَخْرَجَ يَفْقَهُ مِمَّا مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ
اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَادِينَ فَيُقْسَمِينَ
بِاللَّهِ لَشَهَادَتِنَا أَحَقُّ مِنْ
شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِلَّا إِذَا
لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۵﴾

ذَلِكَ أَذَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ
وَجْهِنَا أَوْ يَحْكُمُوا أَن كُرْدًا أَيْمَانٌ بَعْدَ
أَيْمَانِهِمْ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا، وَاللَّهُ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿۵﴾

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا
أَجَبْتُمْ، قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا، إِنَّكَ أَنْتَ
عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿۵﴾

إِذْ قَالَ اللَّهُ لِيُوسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ
نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ
أَيْدَتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَنْ تَكَلِّمَ النَّاسَ
فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ
وَالحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ، وَإِذْ
تَخَلَّقْنَا مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي
فَتَشْفَعُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي

کہتے، بیچھونو کہ تہ تورات تہ آجیل (، بیچھونو مکھ) تہ ییلہ تہ میانہ حکمہ سیدی میتر ہنتر خصلت تمھون والیو (فردو مشنر) جانوار پاڈ کرنگی پاٹھو ملہ مخلوق پاڈ کران اوسکھ پیتہ اوسکھ تہ تمن اندر چھو کہ لایان تہ تم اسی میانہ حکمہ سیدی مونس لایق گزھان تہ تہ اوسکھ میانہ حکمہ سیدی اُنی تہ پتھر لد بڑی کران سہ ییلہ زن میانہ حکمہ مودر سہ کران اوسکھ بیہ ییلہ میہ بنی اسرائیل (بیم تہ قبل کرنگ ارادہ تھوان اسی) تہ تہ نش پتہ رُڈ (تہ وقتہ) سبیلہ تہ تمن نش دلایل پتہ آکھ تہ تموندون کافرو بیم ہے چھ تہ واپہ دو کو دہن واجہہ کہتہ ۔

بیہ (کر سہ وقت تہ یاد) ییلہ میساچانین (حوارین ایضہ خرائٹ) کن وھی سوز نہ میہ پتہ تہ میانس رٹوس پتہ اُو ایمان ۔ تموندون (تہ وھی ہنک ہوا بس مشنر) نہ اسی چھ ایمان انان تہ تہ روز گواہ نہ اسی چھ فرمانبردارن مشنر (شابل گاہتہ)۔
بیہ (کر سہ وقت تہ یاد) ییلہ خواربو وون نہ اے عیسیٰ ابن مریم! چاہتس رتس چھا طقت نہ سانہ خاطرہ والہ آسمانہ پتہ (کھنہ چنہ بڑتہ) اکھ خان؟ (تہ پتہ) وون مسچن اگر توہی (پڑی) مؤمن چھو تہ اللہ (تعالیٰ) سُنہ تقویٰ پراورہ۔

وَتُبْرِي الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي ۚ وَإِذْ أَخْرَجَ الْمُؤْمِنِينَ بِإِذْنِي ۚ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَثَلَكُمْ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهُمْ إِنَّا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿۱۱۰﴾

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي ۚ قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنبَاءِ مُسْلِمِينَ ﴿۱۱۱﴾

إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يُعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ ۚ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۱۲﴾

لہ بیچھونو جانوار مٹھون چھاہ دتھ بچہ کران چھ متھے کنو چھکھ تہ تہ روتھانی قابلیتہ والین شخصن چنہ تہ بیگ چھاہ دتھ تمن روتھانی پروازس قابل بناوان۔

سہ یہودی اسی انہن تہ پتھر لدن ناپک گنزراوان (احبار باب ۱۳ تہ باب ۲۱) مسیح علیہ السلام کرکے تم بے قصور ثابت ۔

سہ خداتعالیٰ ہس بقار ہیکے نہ کا نہ مودرن زندہ کر تہ ۔ بیستین چھ روتھانی مودر مسرادہ تہ تہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلمن متعلق قرآن کریمن مشنر آمت چھ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

(انفال ۲۵۱) یعنی سہ چھو تہ ہر آلودوان سیتہ نہ تہ ہر کرکے و زندہ

قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَّقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿۱۷﴾

تمو (حواریو) وون نہ اسی چھہ بیٹھان نہ تہہ (کھینہ) منہ کھینو تہہ ساڈل سپن مطمئن نہ رن سون خد چھہ تو درتہ وول، بیہ سپد اسہ یقین نہ تہہ وونٹھ اسہ پوز۔ تہہ اسی سپدو اتھ متعلق کوئی دس لایق۔

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عَيْدًا إِلاَّ دَرِينَا وَآخِرُ نَارِ آيَةٍ مِنْكَ وَادْرُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿۱۸﴾

(اتھ پیٹھ) وون عیسیٰ ابن مریم، اے اللہ! اے سائہ پروردگار! اسہ پیٹھ کر آسمانہ پیٹھ کھینہ چہرہ بورت (اکھ) خان نازل یس اسہ (سچی گو) منہ گوٹو تہہ حصہ باچھہ تہہ عید (کرنک) موجب، اسہ تہہ آخری حصہ باچھہ تہہ سپد عید (کرنک باعث) تہہ چانہ طرفہ (اسہ) اکھ نشان تہہ تہہ اسہ (پنہ کتہ) رزق تہہ تہہ چھکھ ساروہے رزق دہہ والہو منہ بہترین رزق دہہ وول۔

قَالَ اللَّهُ إِنَّي مُنْزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَمْ أُعَذِّبْهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿۱۹﴾

اللہ (تعالیٰ) ہن وونٹھ بہہ کر توہہ پیٹھ تہہ تہہ (مائدہ) بلا شک نازل۔ مگر یس اکھ توہہ منہ تہہ (کر نازل گرھنہ) پتہ ناشکری کر۔ اچہ بہہ دہہ تہہ تہہ عذاب نہ دنیاہس منہ دہہ نہ تہہ عذاب بیہ کاسی (توس)۔

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ آتَتْ قُلَّتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُخِي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ، قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ حَقٌّ إِلاَّ أَنْ كُنْتُ فُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ، تَعَلَّمَ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ، إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿۲۰﴾

بیہ ییلہ اللہ (تعالیٰ) ہن وون، اے عیسیٰ ابن مریم! تہہ وونٹھا لوکن نہ مینہ تہہ میانہ ماہر بنا وون اللہ (تعالیٰ) ہس وراکی معبود؟ تہہ تمو وون درجواب نہ تہہ چھتھ (اسی تمام غالبو نشہ) پاک گنہ رواون۔ میون شوہر ہے نہ نہ بہہ وہہ (سو کتھ) بیٹیک نہ مینہ حق اوس، تہہ اگر مینہ تہہ وونٹھ اسہ ہے تہہ تہہ اہی ضرور تمیک پتہ۔ یہ کینٹھا میانس دس منہ چھہ تہہ چھکھ (تہہ زانان۔ تہہ کینٹھا میانس دس منہ چھہ بہہ چھس نہ تہہ) زانان۔ تہہ چھک بے شک (سارہے) غاہہ چہہ کتھ زہر پٹو زان وول۔

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ

میںہ دنیاہہ تمہن صرف سوے کتھ بیٹیک تہہ مینہ

کافر سینس پروردگار ہندو شریک بناواں۔
 سہ چھ خدایا سیمو توہر سرچھو (نم دار) پیش
 نشہ پاؤ کرک توہر چھو۔ پتہ کون (زندگی ہند
 وقتہ خاطر) اکھ معیاد توہر بیہ چھ بدل بیاکھ
 معیاد تہ سیمیک فلم صرف تسواوت چھ پتہ تہ
 چھو توہر شک کران۔

بیہ چھ آسمان تہ زمین مشرے خدا بیس تہندک
 سر تہ زانان چھ تہ تہندک نہ کتہ تہ، تہ پہ
 کیشہا توہر کب کران چھو تہ تہ چھ زانان۔

بیہ آو نہ بہن لوکن نش تہندک پروردگار ہندو
 نشاؤ مشر زنیہ کا نہہ نشاؤ مگر (بہند طریقہ
 یہ رودت ز) تم چھ تہ نشہ صرف رکھ کرانی
 کران آہو۔

او کو نیلہ کا بل حق (یعنی قرآن) بہن نش آو
 تہ تہ تہ کوڑ جو انکار، وونی نیر تمیک یہ
 نتیجہ زمین کتھن متعلق تم مٹھ کران اسر
 جلدے بہن بہن، بہن ہند واقعہ سپد سچہ
 خبر میلنہ۔

کی بہن چھناپے نہ بہن بروٹھ کاتہ بہن زمان
 (ہندک لوکھ) یکن اسر زسپنس مشر تیوت طاقت
 بحتمت اوس یوت طاقت توہر (سیمہ زمانہ کہن
 لوکن) تہ بخش تہ، کرک اسر ہلاک؛ بیہ سوزاؤ
 اسر بہن پیٹھ ددراپہ روڈ والاں اوہر تہ تمہ
 سوتو آسہ اسر ہرٹھ تہر پکناؤک مشر پم تہندک
 قبھس تہ اتھس تل پکان آسہ، پتہ کرک اسر
 تم تہندو گو ناہو کو ہلاک تہ توہر پتہ کوڑ اسر
 بیاکھ اکھ نسل پاؤ۔

بیہ اگر اسر تہ پیٹھ اکھ کاغذک پیٹھ لیکھنہ آہن
 کتاب نازل کرہو بیٹھ تم پستہو اتھو سوتو چھو
 بہن تہ کافر وہن بہن توہر پہ چھ اکھ ٹاکا فریب۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ
 أَجَلَكُمْ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ
 تَمْتَرُونَ ﴿٦٠﴾

هُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ
 يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا
 تَكْسِبُونَ ﴿٦١﴾

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا
 كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٦٢﴾

فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ
 يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ
 يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦٣﴾

أَلَمْ يَرَوْا كَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ
 قَرْنٍ مَكَّنَّهِمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ يُمَكِّنْ لَكُمْ
 وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِذْرَابًا وَجَعَلْنَا
 الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ
 فَكَفَرُوا بَعْدَ ذَلِكَ وَجَعَلْنَا مِنَ
 بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿٦٤﴾

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَابٍ
 فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا
 إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٦٥﴾

وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا مَلَكٌ، وَلَوْ
أَنْزَلْنَا مَلَكَ لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا
يُنظَرُونَ ﴿۱﴾

بہے چھ (مخالف) وناں۔ اُس پٹھ کو نہ آکا نہ
ملک نازل کرنے؟ تہ اگر اُس کا نہ ملک نازل
کرے، اور (تیلہ ہے) فاصلے گزرتے ہے پتہ پتہ
ہے نہ تمہیں موبت دینے۔

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَ لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَ
لَكَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلِيْسُونَ ﴿۲﴾

بہے (گرتے پتہ یاد تھاؤں نہ) ہر گاہ اُس یہ
(پیغمبر) ملائکہ مشر تجویز کرہاں تو تہ دہر ہو
اُس تس مسرت سننے شکل تہ تمہیں پٹھ کرے
توتہ (اُس) سوکتہ مشتبہ تہہ وئی کہن تم مشہ
واجب زمان چھ۔

وَلَقَدْ اسْتَفْهِزَّ عَادٌ بَدْسِلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ
بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ
يَسْتَفْهِزُّونَ ﴿۳﴾

بہے ہم رٹول تہیہ بروٹھ گدرے متو چھ تمہیں سرتی
تہ آئیہ ٹھٹھ مٹول کرنے۔ نتیجہ دلاویہ نہ تمہو
مشر بیو ٹھٹھ مٹول کرےو تم وئی تمہی عذاب
تہہ، تہہ سرتی تم ٹھٹھ مذاق کران اُس۔
تہ ون تمہ (ہنا) پھیرو زمینہ مشر پتہ وچھو
اپران والہن ہند انجام کیا چھ سپدان۔

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظروا كيف
كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿۴﴾

تمہیں پر تھو تر آسمان تہ زمینہ مشر یہ کینٹھا
چھ سہ کھڑ سندر چھ؟ (تمیک جوب کیا دتے تم،
او کو، تہے) ون (تمہیں) اللہ (تعالیٰ) سندر
تمہ چھہ پستس نفس پٹھ رحمت فرض کرے
تھاو ہتر سہ روزو توہر قیامتہ کس دہ ہس
تام سہ سہراوان۔ اتھ کتھ اندر چھنہ کا نہ شک
نہ تم لوکھ بیو پتو رو گاش مشر تراورہ تم ان
تہ (امر بد اعمالی ہند سہہ) ایمان۔

قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
قُلْ لِلّٰهِ، كَتَبَ عَلٰٓى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ
لِيَجْزِيََكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ
فِيْهِ، الَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا
يُؤْمِنُوْنَ ﴿۵﴾

بہے یہ کینٹھا راتر (ہنر انہ گڑ) تہ دہ ہس
(یعنے دہر گاشس) مشر مؤبود چھ تہ سورے
چھ سندر (یعنے خدایہ سندر) تہ سہ چھ سہما
بوزن دول اتہ، وارلہ زان وول۔

وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الْاٰبِلِ وَالنَّهَارِ، وَهُوَ
السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿۶﴾

تہہ وکھہ کیابہ بناؤناہ اللہ (تعالیٰ) ہس ورائیہ
یس آسمان ہند تہ زمینک پاؤ کرن وول چھ،
بیاکھ دوست؟ نیلہ زن سہ چھ (سارے انسان)

قُلْ اَغْيَرَ اللّٰهُ اَتَّخِذُ وَاٰلِهًا فَاطِرِ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعَمُ وَاَلَا
يُطْعَمُ، قُلْ اِنِّيْٓ اُحْسِنُ اَنْ اَكُوْنَ اَدُوْلًا

مَنْ أَسْلَمَ دَلَّ لَا تَكْفُورَ مِنْ
الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۰﴾

رَبِّقِ دَوْلان تہ لئس چھنہ (کانہہ ہندہ طرفہ)
رَبِّقِ دِنہ یوان - تہ وکئہ ! مینہ چھہ محکم دینہ
آمت نہ بہ ہنہ سارہ ہے کھوتہ بوڈ فرما تہ رار
بیہ یہ نہ (اے زکول!) تہ مینہ مُشتر کو منہ
ہکھ ؟

قُلْ إِنْ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ
يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۱۱﴾

تہ ون زگر بہ پئنس پروردگار ہنہ فرمائی کہہ
تہ بہ چھس اکہ بڑ وکس عذاب کھوتان ۔

مَنْ يُضْرَفْ عَنْهُ يَوْمٌ فَقَدْ رَحِمَهُ
وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿۱۲﴾

ئس لئس سہ عذاب (طالہ او تہ (زانی تو زہ تہ
دہ بہ کور خداین ئس پپہ رحم تہ یہ چھینہ
سپہا بڑ کامیابی ۔

وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ
لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمَسُّكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۳﴾

بیہ ہر گاہ اللہ (تعالیٰ) تہ کانہہ ضرر واتاوی
ادئس ورائی ہیکہ تہ سہ کانہہ دور کڑتھ تہ اگر
سہ تہ کانہہ رزہر واتاوی تہ سہ چھہ پرتھ
کھہ پپہ قادر ۔

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ
الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿۱۴﴾

بیہ چھہ سہ پئنان بدن پپہ غالب تہ سہ چھہ
بجہ حکمتر وول (تہ) سارہ وپے حالاً تو ہنہ خبران

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۚ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ
بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ
هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرْكُمْ بِهِ وَ مَنْ
بَلَغَ أُمَّتُكُمْ لَتَشْهَدُنَّ أَنَّ مَعَ اللَّهِ
إِلَهَةً أُخْرَى ۚ قُلْ لَا أَشْهَدُ ۚ قُلْ إِنَّمَا
هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا
تُشْرِكُونَ ﴿۱۵﴾

تہ ون سارہ ہے کھوتہ جاڈ پز (گواہی دینہ)
واجب کوس ہستی چھینہ - پیتہ ون (پانے جواہ)
کنہ (نہ اللہ تعالیٰ) : سہ چھہ توہ ہر تہ مینہ
درمیان گواہ - تہ مینہ کن چھہ یہ قرآن (شریف)
وحی کرتہ آمت سیتہ نون امہ کر ذلیعہ بہ توہی (مینہ)
والعذابہ ہنہ (ہشیار کرو - بیہ تم ساری) تہ مین
تام یہ واہہ - کیا توہی چھو یہ گواہی دوان نہ اللہ
(تعالیٰ) ہس ورائی چھہ کبہتہ بیہ معبود تہ ؟ (تہ
پیتہ) وکئہ (پسنہ طرفہ) نہ (توہی روزی توہیہ
پز گواہیہ دوان) بہ چھنہ بیہ گواہی دوان -
(بیہ) وکئہ نہ سہ (خدا) پچھہ پئنس ذاتس منہ
صرف کئے خدائے تہ بہ چھس تمہن چینہ ہزار
ہکم (چینہ) توہی خدایہ ہندہ شریک بناوان

پھو کوکھ -

تم لوگوں میں اسے کتاب ڈر پتر بھیجیے تم بھی اتھے
(پڑوس)، تمھے کئی پڑوس ناوان تھائی تم پنہن
تیجوں پڑوس ناوان چھ، مگر ہم لوگوں گائس مشنر
پینے تہ پنی زو (تہ) تراو کو گائس مشنر تم چھنہ
ایمان انان -

الَّذِينَ اتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ
كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ ۗ وَالَّذِينَ
خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۶﴾

بہ تہند کھوتہ جادو عالم کس ہیکہ اوستہ یس اللہ
(تعالیٰ) ہس پیٹھ ایڑ نوڈ راوان چھ یا تھو ہندو
نشانہ پڑاوان چھ؟ پڑ کتھ چھنیہ یہ نر ظالم چھنہ
زانیہ کامیاب سپان -

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ
الظَّالِمُونَ ﴿۱۷﴾

بہہ سیمہ دوہہ اسی تم ساری سونہراو کوکھ، پتہ یکو
سائی شریک ٹھہراو کی ہوتی چھ ہمن وٹو نہ تہندو
(بتاؤ کی ہوتی) تم شریک کتہ چھ یمن متعلق
توہی دعویٰ کران اسی و (نہ تم چھ اللہ تعالیٰ
ہندی شریک) -

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ
لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا آيِنَ شُرَكَاءِكُمْ الَّذِينَ
كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿۱۸﴾

پتہ ون تم امہ کس جو ایس مشنر صرف یہ زوال اللہ
(یعنی اللہ تعالیٰ مشنر درہے) یس سون (پوز)
پرور و گار چھ - اسی تہ اسی (یسی) نہ مشرک -
و چھ! تم کتھ پاٹھ ون (بیتھ موقمس پیٹھ)
پنہن زون متعلق ایڑ - تہ یہ (کیتھرا) تم امہ
برونٹ بہتان بازی کران اسی، (تہ سورے) اگر تھ
ہمن مشنر -

ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا
وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿۱۹﴾

بہہ چھ ہوتو مشنر کیتھہ (لوکھ) تھو یس توہہہ (یعنی
تہننر کھن) کن داران چھ حالانکہ اسے چھ
تہندہن دن پیٹھ پردہ تراوی ہوتی - بیتھ زن ہمن
یہ فکر تہ (نہ) - بہہ چھ تہندہن کن زبر (پاڑ
کرنہ آمت) تہ اڈ اگر تم پر تھہ اکھ (تہسک)
نشان و چھن، تم ان نہ تھہ پیٹھ ایمان - یوتانی
(چھ تہننر حالت و اثر مشنر) نہ ییلہ تم تہنر نش
یوان چھ تہ تہنر ہوتی چھ مجادلہ لاگان - کافر چھ

أَنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَ ضَلَّ
عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۲۰﴾

وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۖ وَ جَعَلْنَا عَلَىٰ
قُلُوبِهِمْ أَسِنَّةً ۖ أَنْ يَفْقَهُوهُ وَ فِي
أَذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَإِنْ يَرَوْا كَلِمَةً
يُؤْمِنُوا بِهَا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ
يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ
هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿۲۱﴾

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَ
لَا يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا
يَشْعُرُونَ ﴿۳۵﴾

وہاں یہ (قرآن) چھٹے صرف بروٹھوں میں ہنر و آستان۔
بیس چھوٹے امیر (بہین تہ) پتھڑاں تہ
(پانہ تہ) چھ امیر (بہین تہ) دور روزان۔ اما پوز تم چھینہ
پانس وراڑی کانسہ ہلک کران و وڈی گوڈ تمن چھینہ
فکر تزان۔

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ دُقُّوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا
يَلَيْتُنَا لَوْلَا ذَاكَ كُذِّبَ بآيَاتِ رَبِّنَا
وَلَا تَكُوْنُ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۳۶﴾

بیس ہرگاہ تہ تم (تمہ وقتہ) وچھہکھ۔ سبیلہ تم جھنس
بروٹھ کتہ استاد کرنہ پن تہ سبیلہ تم (وہن) اے
کاش! کہ اسی پتھ ہو (ایما پنج حالتہ ہتھ) واپس
انہ تہ اسی ایزاؤ ہو کہ تہ زانہہ آیندہ پنس پروردگار
سندہ نشانہ (تہ تریہ سپدی تہندہ ایزاؤ پنج حقیقت
معلوم)۔

بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ
قَبْلُ، وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا لَمْ تُعْنُوْا
وَلَا لَهُمْ لَكُذِبُوْنَ ﴿۳۷﴾

حقیقت چھینہ یہ تہ یہ (کثیر شاہا) تم (امیر بروٹھ) کھٹھ
تھاوان اسی تہ چھ تمن پتھ پلڑ پٹھ و اشکاف
گوشت۔ تہ اگر تم (واپس) انہ یہن تہ تم
کرہن دوبارہ بیہ تی۔ سبیلہ نش تم پتھ رٹنہ
یوان اسی تہ تم چھ یقینا (پنس دعواہس منتر)
ایزایری۔

وَقَالُوا لَآ اِنَّ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا
نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ ﴿۳۸﴾

بیس چھوٹے وناں زسانہ سبیلہ دنیاوی زندگی وراڑی چھینہ
(بیس) کانہہ (زندگی) تہ نہ یو اسی (آخرت منتر)
تکلیف۔

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ دُقُّوْا عَلَى رَبِّهِمْ، قَالَ
الْكَافِرُ هَذَا بِالْحَقِّ، قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا
قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ
تَكْفُرُوْنَ ﴿۳۹﴾

بیس ہرگاہ تہ تم (تمہ وقتہ) وچھہکھ۔ سبیلہ تم پنس
پروردگار بروٹھ کتہ استاد کرنہ پن (تہ) سہ
فرماؤ (تمن)، یہ (دویم زندگی) چھنا پتھ؛ (تہ)
تم دن جواب، امیر چھ پنس پروردگار سبیلہ
دوسے، کیا نہ؟ (ضرور چھینہ پتھ)۔ سہ
فرماؤ پتھ، سبیلہ تہ ہو تو اہر پتھ انکار (تہ تمہ
پتھ و پتھ روزنہ کتہ عذاب (یعنی تمیک منتر
وچھو)۔

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ
حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا

یو لکو اللہ (تعالیٰ) سند ملاقات (ملاقات کتہ ملہ)
ایزو و تم چھ نوقصاس اندر ہتہ آتہ۔ یوت تانی

زیریں سہ ساعت ہنگہ منگہ تمں پیٹھہ وا تھہ پیڑ
 تہ تم وٹن ہے الفوس ! تمہ کو تا ہی کنی یو سہ
 اسہ تمہ (ساعتہ) کہ حقہ کر تہ تم آسن تمہہ
 وقتہ پیڑ باری پنپنن پشتن پیٹھہ ہتھہ - بلوزو !
 یسلا یوں تم تنگ سہ آسہ سیٹھا (ہے) ناکارہ۔
 بیہ یہ دنیاوی زندگی چھنہ گندہ تہ تما شہہ ورا ی
 (کہنہ) تہ یکم لاکھ تقویٰ پراوان چھہ، تہندہ خاطر
 چھہ آخر تک گر یقینا بہتر۔ کیا تمہ بہتر تہ چھونا تو کہ
 عقلمہ کام ہوں ؟

اگر چھہ بے شک زانان (تہ) یہیہ کہتہ چھینہ پیڑ نہ
 یہ کینتر تھا تم وناں چھہ تہ چھہ تریہ ضرور غمگین کران
 تہ کیا نہ تم چھی تہ تریہ اپراوان بلکہ چھہ ظالم
 (اللہ تعالیٰ) مندرن آین زاننہ ما تھہ انکار کران۔
 تہ تریہ برو بھم رسول تہ چھہ بے شک اپراوانہ آہو۔
 اد اسر باوجود نہ تم آہے اپراوانہ تہ تمں آو تکلف دہن
 تم رودر صبر کران یوت تام نہ تمں دوت سوان
 مدد، تہ اللہ تعالیٰ) ہنزن کتھن چھنہ کا نہہہ
 بلاون وول تہ تریہ نش چھہ رسولن ہنر کینہہ خیر
 یقینا امرتہ۔

یہ ہرگاہ ہمیں (کافرن) ہنر روے گردانی تریہ
 گوب چھہ باسن تہ ہرگاہ تریہ مغز طاقت چھہ
 ز زمپنس اندر گنہ سرونگہ ہنر یا آسمانس کن
 گنہ، میر ہنر تھانڈ ہیکھ کر تھہ (تہ) پتہ ہیکھ
 تہندہ خاطر کا نہہہ نشانہ اُنہہ (اد) بے شک کر
 تہ ! تہ ہرگاہ اللہ تعالیٰ) سیر تھہ ہے تہ تمں
 کر بے ضرور ہدایتس پیٹھہ مع لہذا منہ بن تہ بے
 خیر و منبر۔

یہ لاکھ بولان چھہ، تہ چھہ (کہتہ) قبول کران۔ تہ
 (یکم) مولود (چھہ) اللہ تعالیٰ) طہ تمں تمود۔

يَحْسَرَتْنَا عَلَىٰ مَا فَزَّطْنَا فِيهَا، وَهُمْ
 يَحْمِلُونَ أَوَّادَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ، أَلَا
 سَاءَ مَا يَزِيدُونَ ﴿۷﴾

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ
 وَ لَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ،
 أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۷﴾

قَدْ نَعَلِمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ
 فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَئِكَ الظَّالِمِينَ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ يُجْحَدُونَ ﴿۷﴾

وَلَقَدْ كُرِّمَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا
 عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، أَوَّادًا حَتَّىٰ أَنصَلَهُمْ
 نَصْرُنَا، وَلَا مُبَدِّل لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، وَ
 لَقَدْ جَاءَكَ مِن تَبَائِئِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۷﴾

وَإِن كَانَ كِبْرُ عَالِيكَ إِعْرَاضَهُمْ فَإِن
 اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ
 سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، وَ كُو
 شَاءَ اللَّهُ لَجَمْعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا
 تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿۷﴾

يُرْجَعُونَ ﴿۲۷﴾

پتھر میں تم تسکین دہیں نہ۔

﴿۲۷﴾

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْنَا آيَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ
قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً
وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۲۸﴾

بہے چھو تم وہاں نہ تہندس پروردگار ہند طرفہ کوہ
آو تس پیٹھ کا نہہ نشانہ نازل کرنہ؛ شہر و کھ نہ
اللہ (تعالے) چھ اتھ (کہتہ) پیٹھ بے شک قادر
نہ کا نہہ نشانہ کر نازل۔ اما پوز تمہو منہر چھسہ
ولاء (یہ کہتہ) زانان۔

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ
يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّةٌ أَمْثَلُكُمْ
مَا فَزَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى
رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿۲۹﴾

تہ زمینہ پیٹھ پکن والی ساری (نرو دار) تہ بہ
پتھو دونوں وہے پکھو سرتی و پھن والی جانور
چھ تہندی یا ٹھی جہا شہ۔ اسہ کر نہ بیٹھ کتابہ
اند کہینہ تہ کئی۔ پتھر میں ہم (یعنی گوہ ڈیچو
بیان کرنہ آشہر لوگو منہر انسان) پتھس پروردگار
کن سحر اوتھ نہ۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَا تَنَاصُتُمْ وَبِكُمْ فِي
الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَاءُ اللَّهُ يُضِلُّهُ وَمَنْ
يَشَاءُ يُجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۳۰﴾

بہہ پھو لوگو ساری آہہ ایز اورد ہتہ چھہ تم بہ
زری تہ کئی (تہ) انہ گمن منہر چھہ (پیٹھ)۔ اللہ
د تعالے) ہمیں بیٹھہ (تس) کر ہلاک تہ ہمیں
بیٹھہ تس کر سینہ و تہ پیٹھ (قائم)۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَدَابِ اللَّهِ أَوْ
أَنْتُمْ السَّاعَةُ أَعْبَرُوا اللَّهَ تَدْعُونَ ۚ إِنْ
كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۱﴾

تہ دن نہ توہی و ہو تہ (سہی) نہ اگر توہہ پیٹھ
اللہ (تعالے) سند عذاب بہہ یا توہہ پیٹھ بہہ
(وعدہ دنہ آمت) ساعت۔ بہہ ہر گاہ توہی نہ تہ
چھو تہ کیا توہی کروا (تہ وقتہ) اللہ (تعالے)
ہس و رہی کاسہ (ہمیں) آلو۔

بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ
عَنِّي وَإِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿۳۲﴾

نہ ہمیں نہ؛ بلکہ توہی کرو توہی آلو۔ پتہ اگر نہ بیٹھہ
تہ ہمیں (تکلیفہ کر کاسہ) با پتھہ توہی (تس) آلو
کرو نہ کر ضرر نہ دور، تہ توہی مشر ا و ہوں نہ
ہیں توہی (خدا یہ سند) شریک مہہ ہراوان چھووان
بہہ چھہ اسہ توہہ برو تھو ہن توہن کن (رسول)
سوزی ہتہ تہ (ہم رسول ہنہ پتہ) اسہ آسہ تم
منکر) او موکھ مالی تہ ہدنی تکلیفین منہر آوراوہ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ
فَاتَّخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَالَهُمْ
يَتَضَرَّعُونَ ﴿۳۳﴾

لہ یعنی خدا تعالیٰ ہندین قولوں میں تابع چھہ۔

فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۷۰﴾

موتو نہ تم پر اوں عا جزی۔
پتہ کیا نہ سید نہ تہ نہ سیدہ تمس پیٹھ سون عذاب
آیاو تہ تم پر اوبن عا جزی۔ بلکہ تم تہبت در
دل (بہ ہن تہ) سجت۔ تہ یہ تم کران اس شیطاں
ہوہو تمس تہ، تہ بصورت کر تہ۔

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ۗ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً ۖ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴿۷۱﴾

پتہ سیدہ تمو سو (کتہ) مشر او یوسہ تمس یاد پاوہن
یوان اس تہ اسہ تراوی تمس پیٹھ پر تہ کتہ چسپنہ کر
دروازہ سیدہ۔ یوت تامتہ نہ سیدہ تم تہ پیٹھ خوش
سیدہ یہ تمس دتہ آو تہ اسہ کڑی تم ہنگتہ منگہ عا لب
مشر متقل۔ تہ پیٹھ تم یکدم ناوہید سیدہ۔

فَقَطَّعَ دَائِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۗ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۷۲﴾

لہذا یو نظام کورمت اوس تہبتی مولی تہ آہ تہ سہ
تہ (تثابت سید نہ) سارنہ تعریفین ہند تقار پیٹھ
اللہ (تعالی) ہے یس سارنہ عالمن ہند پروردگار پیٹھ
تہ وکتہ نہ وئی تو تہ سہی (نہ) ہر گاہ اللہ (تعالی)
تہبتہ بوزنگ طاقت تہ اچھ گاش ضایع کر تہ تہبتہ
دلن کر موہرتہ اللہ (تعالی) ہس وراہی کس پیٹھ
معبود؟ یس تم (ضایع گاوتہ چیز) تو ہس
(واپس) اہتہ دی و۔ وچھ! اسی کتہ پاٹھو پیٹھ
پھری پھری (تہ بیون بیون انداز سان) آہ بیان
کران۔ اما پوز تم پیٹھ تو تہ روے گردانی کران گڑھان۔
تہ وکتہ نہ وئی تو تہ سہی نہ اللہ (تعالی) سند عذاب یوہ
تہہر پیٹھ ہنگتہ منگہ (دوتہ دینہ روستہ) یا تہ پاٹھو
پیسہ تہ کیا نظام لوکو وراہی سیا (بیکہ کانہہ شخصس)
ہلاک کر نہ؟

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَ أَبْصَارَكُمْ وَ خَتَمَ عَلٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ ۗ أُنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْذِقُونَ ﴿۷۳﴾

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَ أَبْصَارَكُمْ وَ خَتَمَ عَلٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ ۗ أُنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْذِقُونَ ﴿۷۳﴾

یہ چکھ اسے رسول صرف توہنخبر دہن خاطر تہ خبردر
کر نہ با پتہ سوزان۔ پتہ پیم لوکھ، ایمان اتن تہ
اصلاح کرن تمس (نہ) اسہ (آئینہ با پتہ) کتہ
تہبتہ فوت تہ نہ سیدن تم (پتھکن گامستن کوتاہن
پیٹھ) عملگین۔

وَمَا نُزِيلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَ مُنذِرِينَ ۚ فَمَنْ أَمَنَ وَ أَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۷۴﴾

یہ یو سانہن آہن ہند انکار کورمت پیٹھ تمس سیدہ

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ

بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿۱۰﴾

تہنہ زونا فرمایو سبب عذاب۔

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ لِي مَلَكٌ ۚ
إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۚ قُلْ هَلْ
يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۗ أَفَلَا
تَتَفَكَّرُونَ ﴿۱۱﴾

تر و نگھ سبب چھسو نہ تو بہ یہ و نان ز میہ نش چھ
اللہ (تعالیٰ) بندگی خزانہ تہ نہ (یہ ز) بہ چھس
غاب زانان تہ نہ چھسو بہ تو بہ یہ و نان۔ ز بہ چھس
ملایک، بہ چھس صرف بتیح پاروی کران، یہ میہ کن
و می کر نہ اُمت چھ۔ تر و نگھ ز کیا اُون تہ کاشدر
چکیا ہوئے اُسٹھ؟ اُو کیا تو تہ چھونا تو ہی سوچین؟
تر کر گھ امہ (کلام) کہ ڈر لیر تم لوگھ خبر دار ہم اٹھ
کتھ کھوژان چھ ز تم بن تہندس پروردگار کن
بمع کر تھ نہ بیبلہ نہ تس سوا تہند کا تہ مدگار اُس
(تہ) نہ اُس کا تہ سفارش کرن دول۔ (اُو کتہ کر گھ
تم خبر دار)، میٹھ تم تقویٰ پراون۔

وَأَنْذِرِ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ أَنْ يُخْشَرُوا
إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ دُونَهُ دَلِيلٌ وَلَا
شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۱۲﴾

بہ سہ کر تر ڈر تہن لوکن ہم پتس پروردگار
صبحن تہ شام تہند تو تہ بہ شہان تس آلودوان
چھ۔ تہند حسابک کا تہ حصہ تہ چھتہ چانہ ذمہ
تہ چانہ حسابک کا تہ حصہ چھتہ تہند ذمہ۔ اُو کتہ
(ہر گاہ) تر تہن ڈر ڈکھ تہ تر سپدکھ ظالم۔

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ
بِالْعَدْوٰۤى وَالْعِشْيٰۤى يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۗ مَا
عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ
حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ
فَتَكُونَنَّ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۳﴾

بہ چھ اسہ تہو منتر کینہ کینش ہند دسی جتہ پاتھو
آرناو کہ تو میٹھ تم (آرنا میٹھ منتر تراونہ آہی لوگھ)
ونن ز کیا اللہ (تعالیٰ) ہن کورا اسہ منتر کین (ذیل)
لوکن پیٹھ احسان؟ (رت گونو) کیا خدا چھنا شکرانہ
کران ولہین (سارو پے کھوتہ جاو) زانان؟

وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوْٓا
اٰهٗٓ لَآءِ مَنَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ بَيْنِنَا ۗ اَلَيْسَ
اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشَّاكِرِيْنَ ﴿۱۴﴾

بہ ییلہ تر یہ نش تم لوگھ ہن ہم سانہن آہن پیٹھ
ایمان انان چھ تہ تر ون (تہن ز) تو بہ پیٹھ آہن
ہمیشہ سلامتی۔ تہندی پروردگارن چھ (تہند پاتھ)
پنس پانس پیٹھ رحمت فرمن کر پتہ۔ (پتھیا ٹھو)
ز تو بہ منتر کین (کا تہ) و شہن کا تہ بڈی کر تھ
گر تھ تمہ پتہ کر تو بہ تر اصلاح۔ اُو تس (خدا یس)
چھ یہ وصف ز سہ چھ سپدھا بختن ہار (تہ) چھہرہ

وَاِذْ اٰجَآءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا قُلْ
سَلِّمْ عَلٰىكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهٖ
الرَّحْمَةَ ۗ اِنَّهٗ مِنْ عَمَلِ مِثْلِكُمْ سُوءًا
بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَصْلَحَ ۗ فَاِنَّهٗ
عَفُوٌّ رَّحِيْمٌ ﴿۱۵﴾

وَكذَلِكَ نَقُصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
 الْمُجْرِمِينَ ﴿٥١﴾

پھیری رحم کرن وول۔
 بیہ چھہ اسی نشانہ یہ تھے پاٹھو واش کڈو کڈی بیان
 کران (بیٹھ حق نہ) تو بیٹھ مجرمین ہند طریقہ ظاہر

۱۱

قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ
 مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا آتِيَهُمْ أَهْوَاءُكُمْ
 قَدْ ضَلَلْتُمْ إِذْ أَذَمَّا مَا آتَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿٥٢﴾

سید۔
 تر وون (تسن) نہ میہ چھہ آمت سہنت منع کرنہ نہ
 بہ کر (تسن) (ایزین معبودن) ہنز عبادت میں توہر
 اللہ (تعالیٰ) ہس وراہی آلو کران چھو۔ تر وون
 (تسن) بہ چھس تو تمہنرن پس پایہ ٹا ہشن ہنز
 پاروی کران (اگر بہ تہ کر، اڈ زانی تو نہ) تھہ صوٹس
 منتر سپس بہ گراہ تو بہ چھس نہ ہارت لبہ و نہو
 (لوکو) منتر۔

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ
 مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا
 لِلَّهِ يَفْضُ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿٥٣﴾

تر وون (تسن) نہ بہ چھس پنسن پرور و گاب ہند
 طراہس کا ڈیلہ پٹھہ قایم تہ توہر چھوٹے (پرور و گاب)
 اڈرومت۔ بیٹھ کتھ متعلق توہر جلدی کران چھو
 سہ چھتہ میہ نش۔ قاصد چھہ اللہ (تعالیٰ) ہند
 سہ اختیار منتر۔ سہ چھہ پزروان نہ بیہ چھہ سہ
 قاصد کرنس منتر ساروہے کھوتہ جان۔

قُلْ لَوْ أَنِّي عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَفَضِي
 الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
 بِالظَّالِمِينَ ﴿٥٤﴾

تر وون (تسن) نہ بیٹھ چیزس متعلق توہر جلدی
 بیٹھہان چھو اگر سہ میہ نش آسہے تو میہ تہ
 توہر (میلن) آسہے (اختلاف والہ) مسلک قاصد
 (کرتام) سپدنت۔ تہ اللہ (تعالیٰ) چھہ ظالمین
 ساروہے کھوتہ جاو زانان۔ (میلہ بیٹھہ تہ کر
 قاصد)۔

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ
 وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُرُوجِ وَمَا تَسْقُطُ
 مِنْ دَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي
 ظَلْمِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَأْسٍ
 إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٥٥﴾

بیہ چھہ تس نش قایم چہ کتہر تس وراہی چھہ
 کانہہ تم (قاب) زانان تہ یہ کینرھا خشکی تہ
 سمندرس منتر چھہ تہ چھہ سہ زانان تہ کانہہ پتہ
 و تھہر چھہ پتہ پوان مگر سہ چھہ تہ زانان تہ
 زمینہ چین اڈ گن منتر چھہ کانہہ دانہ پھول تہ
 نہ کانہہ اوڈر (چھہ) تہ نہ ہوکھ (چھہ) میس
 (تہدس) ٹاکاہر سفاقتس منتر آسہہ نہ۔

تہ سے چھ میس رات کیت تہند رُوح قبض کران
چھ تہ یہ کیشرا توہی دوہر کران چھو تہہ چھ
زانان - پتہ چھو توہہ دوہر تہلان بیٹھ زن اکھ تہ
میس مقرر پُدمت چھ پلور کرنہ بیہ بیہ پتہ
تہند واپس گرتھن تہس کوں چھ - تہ یہ کیشرا توہی
کران چھو تہج دیو سہ خیر -

بیہ چھ سہ پنہن بدن پیٹھ غالب تہ سہ چھ
توہہ پیٹھ کران (مقرر کر تھ) سوزان (روزان)
یڑ تازی زینیلہ توہہ مشر کائہ موت بیٹھ رُوح چھ
تہ سانی سوزنہ آہتہ (ملاک) چھ تہند رُوح
قبض کران تہ تم چھنہ دھکس تعمیل کرنہ شرا
چھو نہر کران -

پتہ بین تم اللہ (تعالیٰ) ہس کوں چھ پتہ تہہ
میس تہند پوز وائی چھ، پوزو! فاصلہ چھ تہند
اختیار مشرتہ سہ چھ حساب بہتر والہن مشرتہ
سار مے کھوتہ جلد (حساب) بہنہ دول -

تہ دن (جن) ز توہہ کس چھو خشتی ہند پتہ سند
کبو مھیتو ہنہ سچاوان نیلہ توہی ماجزی سان تہ پتہ
پاٹھو تس آلو دتھ دنان چھو ز اگر سہ اہہ نیلہ مھیتہ
ہنہ سچاوی تہ اسی سپدو ضرور شکر گزار -

تہ دن (جن) ز اللہ (تعالیٰ) ہے چھو توہہ تمہ
ہنہ (تہ) تہ بیہ پرتہہ اکھ اضطرار تہ پرتہہ فی
ہنہ (تہ) سچاوان - تمہ پتہ (تہ) چھو توہہ ترک
کران -

تہ دن (جن) سہ چھ اتھ (کتھ) پیٹھ قادر تہ
توہہ پیٹھ کر عذاب نازل توہہ پیٹھ کبہ یا تہند
پد پتہ کبہ یا ملتا ورو توہہ (اکھ اہس خلاف)
پانہ وائی بیون بیون توہہ ہندس صور تس مشرتہ

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا
جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثْكُمْ فِيهِ
لِقَابِي أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ
ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۱﴾

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ
عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ
الْمَوْتُ تَوَفَّاكُم رُسُلَنَا وَ هُمْ لَا
يُفْقِرُونَ ﴿۱۲﴾

ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، أَلَا لَهُ
الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ﴿۱۳﴾

قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنَ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَ
الْبَحْرِ تَدْعُوْنَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّئِنْ
أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ
الشَّاكِرِيْنَ ﴿۱۴﴾

قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَ مِنْ كُلِّ كَرْبٍ
ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ﴿۱۵﴾

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ
عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ
أَرْضِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ لُتَيْمًا وَ يُذِيقَ
بَعْضَكُمْ بِأَسْبَغٍ، أَنْظِرْ كَيْفَ نَصْرُفُ

الْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿۱۱﴾

تہ تو بہ منتر و اتناؤ کیٹرن، کیٹرن ہند کنہ
تکلیف۔ وچھ اسی کتھ پانچھی چھ ٹاکار ولسپہ چکر
چھمر و نان بیٹھ زن بہن بکر تر۔

وَكَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ وَهٗوَ الْحَقُّ ؕ قُلْ لَسْتُ
عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿۱۲﴾

بیہ چھ پانچ قومن یہ (مسلم یعنی محمد رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم ہند پیغام) ایڑ مٹھرو مت۔ حالانکہ
سہ چھ پوز۔ تر دن بہن تر بہ چھس نہ تہند ذمہ
وار۔

لِكُلِّ نَبِيٍّ مُّسْتَقَرٌّ ۖ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿۱۳﴾

پر چھ اکر پیشگوئی ہند چھ اکھ حد (یعنی وقت)
مقرر آسان تہ توہر زانو جلدیے (حقیقت کیا چھیہ)۔
بیہ میلہ تر ہم لوکھ وچھکھ کم سانہن آین ہند
حقوئے گند کتھ کران چھ تہ تھ وقتس تام روز
تر بہن ہنس نوب بیٹھ وقتس تام ہم اور ورائی
کنہ بیس کتھ منتر آوری گرتھن نہ۔ تہ اگر
شیطان ثریہ مشراویسی دیچ پوز یاد پینہ پستہ
چہر نہ تر ظالم قومس ہنس۔

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا
فَاعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي
حَدِيثٍ غَيْرِهِ ؕ وَإِنَّمَا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰنُ
فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِىٰ مَعَ الْقٰوِمِ
الظٰلِمِيْنَ ﴿۱۴﴾

بیہ ہم لوکھ تقویٰ پر اون چھ تہند ذمہ چھنہ بہن
(نامناسب کتھ کرن واپن لوکن) ہند حسابک کانہ
حصہ۔ بلکہ چھ تہند سب نفیست کرنی بیٹھ زن ہم
(تہ) تقویٰ پر اون۔

وَمَا عَلَىٰ الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ
شَيْءٌ ۚ وَلٰكِنْ ذِكْرٰى لَعَلَّهُمْ
يَتَّقُونَ ﴿۱۵﴾

بیہ تراؤکھ تر ہم لوکھ یو سنس دپس گردن تہ
تہا شہ ہنوت چھ تہ دنیاوی زندگی چھ ہم فریس
منتر تراؤتھ تھادی ہتہ۔ بیہ کریمہ (الہی کلام کر)
ڈرلیع نفیست بیٹھ (بڑھ کتھ سپر نہ) نہ کانہ زو
بیہ تہند کھادی سہ کر سببہ کنی تھ کنی ہلاکتس
اندر وار تھ دنہ نہ خلائس ورائی آسہ نہ تہند کانہ
مددگار تہ سفارش در۔ بیہ اگر ہم پر چھ اکھ (تہمک)
بلکہ تر دن تہ بہن ہنس بیہ نہ تہ قبول کرنہ۔ ہم
چھ ہم لوکھ ہم تہتہر کھایہ ہند سببہ ہلاکتس اندر
تراؤنہ آسہ۔ بہن میلہ تہند کتھ کنی چنوں کیت توت
رہر ہو آب۔ بیہ آپکھ کرؤیٹھ عذاب۔

وَإِذَا الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْهُمْ لَعِبًا
وَلَهْوًا وَعَرَّتْهُمْ الْحَيٰوةُ الۡدُنْيَا وَذَكَّرَ
بِهٖٓ اَنْ تَبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ ؕ كَيْسَ
لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وِزِيْرٌ ۗ وَلَا شٰفِيْعَةٌ وَّ اِنْ
تَعَدَّلْ كُلُّ عَدَلٍ لَّا يُؤْخَذْ بِهَا ؕ اُولٰٓئِكَ
الَّذِيْنَ اُبْسَلُوْا بِمَا كَسَبُوْا لَهُمْ شَرَابٌ
مِّنْ حَمِيْمٍ ۗ وَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۗ بِمَا كَانُوْا
يَكْفُرُوْنَ ﴿۱۶﴾

۱۳

قُلْ أَتَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا
وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ
هَدَيْنَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ
الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا ۚ لَهُ
أَصْحَابٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْهُدَىٰ أُئْتِنَاهُ
قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۚ وَأُمِرْنَا
لِنُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۶﴾

تَرُون (تہن، کیا اُسی کروا اللہ تعالیٰ) ہس
درا آئی تس آلو لیس نہ اسہ (کا منہ) نفع دوان
چھ تہ نہ چھ ضرر واتناوان ؛ تہ کیا اللہ تعالیٰ
سندہ ہدایت دہ نہ پتہ کیوا اسی تس شغفہ ہندہ پانچو
نوت کھوری والیس ہنہ لیس ہتھو پھری (لوکھ)
ہنہ تہ پتہ ڈالہ ہتھ آسن گاہی ؛ (تہ اسہ)
اسہ حالان (تہ پریشان) سپدان - تنہدہ کیشہ
سہتہ باجو ہتھ ہتھو یکم تس آلو دتھ (یہ دنان) چھ
نہ اسہ ہنہ اولہ ، مہتہ ہدایت لیکھ - تہ وان
(یمن کا قرن) نہ اللہ تعالیٰ) سہدے ہدایت
چھ بے شک اصلی ہدایت تہ اسہ چھ حکم دہ آمت نہ
اسی کرو سارہنہ عالمن ہندس پرور دگاہ ہنہ فرماہی
بیہ (چھ) یہ (تہ ہدایت دہ آمت) نہ نمازہ کرو ساری
شرط ہتھ ادا تہ سہ خدا بتاوان پنہ اسپر تہ سہ
چھ نہیں کن توہر سو نہراوتہ ہنہ بیہ -

وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَهُوَ
الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿۷﴾

بیہ سہ چھ نیکی آسمان تہ زمین حقہ (تہ حکمتہ)
سہتہ پاؤ کرکہ موتی چھ - بیہ سہ دہ ہد سہ ونہ نہ
(میانہ منشاء مطابق) ہتھ کتھ (سپدان) ادا تھ کتھ
سپد - تہنہ کتھ چھ سپد تھ روزان واجہ تہ سہ
دوہہ پوس چھ کتھ دہ بیہ - حکومت اسہ (تہ دوہہ)
(صرف) تسر (حاصل) - (سہ) چھ کتھ تہ عیاں
(کتھ) نازن دول بیہ چھ سہ حکمتہ دول (تہ خبردار
بیہ (کرو یاد) نیلہ ابراہیم پسنس ٹاس آرس
یہ ونیاو نہ تہ چھ کتھ (کیشہ) پتہ مہبود بناوان ؛
ہر چھتہ تہ تہ چون قوم ہنہ وانہ گراہی ہنہ پھان -

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
بِالْحَقِّ ۚ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ ۚ
قَوْلُهُ الْحَقُّ ۚ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ
الصُّورُ ۚ عَلَيْهِ الْغَيْبُ وَالشَّهَادَةُ ۚ وَهُوَ
الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿۷﴾

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَرَدْتَ اتَّخِذُ
أَصْنَامًا إِنَّمَا إِلَهُكُمُ الرَّحْمَنُ الَّذِي
صَلَّىٰ عَلَيْكَ ۚ قَالَ

بیہ اسی ابراہیم تہ پانچو آسمان تہ زمینس
پتہ (پنہ) بادشاہت لاوان (مہتہ سہ علم کامل
سپد) تہ مہتہ نہ یقین کرن والہو اندر سپد -
(اکھ) وہ سپد مہتہ (نہ نیلہ راتہ تس پتہ پر دہ

وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿۸﴾

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا ۖ قَالَ

هَذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ
الْأُرْفِلِينَ ﴿۴﴾

ترو تہ تمو وُجھ اکھ تارکھ - تمو وون ایہ چھا
میون پروردگار (اَسُن ممکن)؛ پتہ ییلہ سہ
لوس تہ تمو وون نہ بہ چھسک نہ لوس واکر پسند
کران۔

فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي ۖ
فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي
لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ﴿۵﴾

(تمہ پتہ) ییلہ تمو پرلو تراوان زون وُجھ تہ تمو
وون نہ یہ چھامیون پروردگار (اَسُن ممکن)؛ پتہ ییلہ
سوتہ لوس تہ تمو وون نہ اگر میون پروردگار میں
ہایت دیہ ہے تہ تہ بہ تہ آہہا مزور مگر اہن ہنر
جماش مشنر۔

فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّي
هَذَا أَكْبَرُ ۖ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يُقَوْمِ لِي
بِرِيءٍ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿۶﴾

پتہ ییلہ تمو آفتاب پر نزلان وُجھ تہ تمو وون - یہ
چھامیون پروردگار (اَسُن ممکن)؛ یہ چھہ بلاشک
ساروہے کھوتہ بوڈ پتہ ییلہ سہ (تہ) لوس تہ تمو
وون نہ میں توہی (خدا یہ سُن) شریک بناوان چھون
بہ چھس تس بکل بے زار۔

رَبِّي وَجْهَتْ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا ۚ مَا أَنَا
مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۷﴾

میں پھیرہ پنن توہر یقیناً (ساروہے) وتہ ہجو ریشہ
بچان تس خدایس کن نیجو آسمان تہ زمین پاد
کرکوتہ چھہ تہ بہ چھس نہ مشرکواندر۔

وَكَانَ جَهُ قَوْمَهُ، قَالَ اتَّخَذُوا فِي
اللَّهِ وَقَدْ هَدِينَا، وَلَا آخَافُ مَا
تُشْرِكُونَ بِهِ ۚ إِنَّمَا أَنِ شَاءَ رَبِّي شَيْئًا
وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۚ أَفَلَا
تَتَذَكَّرُونَ ﴿۸﴾

بہ تندی قومس یوتھہ تس سبتو بحث کرکھ کامیاب
سپدن (تہ) تمو وونکھ، کیا توہر چھو میں سبتو
اللہ (تعالیٰ) ہند حقیقت بحث کران ییلہ زن میں
تہ پانہ چھہ ہایت دینیت؛ تہ میں توہر اللہ
(تعالیٰ) سُن شریک بناوان چھون بہ چھس نہ
تس کھوتران - بے شک! ہرگاہ میون پروردگار
کنہ کتہ ہند اراد کر (تہ تس چھس کھوتران)
میانہ پروردگارن چھہ پر پتہ اُکس چیزس علمہ
سبتو احاطہ کورمت - اد کیا توہر چھو نا فکر تران؛
تہ بہ کتہ پاٹھی ہیکہ کھوتھہ تھہ (چیزس) میں
توہر (خدا یہ سُن) شریک بناوان چھون؛ ییلہ
زن توہر چھو نہ تھہ (چیزس) اللہ تعالیٰ سُن
شریک بناونس کھوتران یہ تھہ متعلق تمو توہر

وَكَيفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ
أَنكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ
عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ
بِالْأَمْنِ ۚ إِنَّ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۹﴾

پہلے کانہہ (پہلے نازل چھنڈ کر موشر لہندا
اگر توہمی (کینڈ) علم تھاوان چھو تیلہ (دو نو تر)
اسہ دیو فرلقو منتر کس اکھ چھ امنک (یعنے
امنس منتر روزنک) جاہ حقار؟

یمو لوکو ایمان اون تہ بتو رلوو تہ پین ایمان طللس
سیتہ تینے لوکن ہنر خاطر چھ امن (مقدر) تہ
تھے چھ حدیت لبین وال۔

تہ یہ اس سانہ طرفہ (دہ آمہر اکھ) دہل (یوہوہ)
اسہ ابراہیمس تہدس قومس جوف بیچنا و مہتر اس۔
اسی یس بیڑھان چھن درجن منتر چھن تھنراولن۔
چون پروردگار چھ بے شک حکمتہ دول (تہ) زہر
پاٹھو تران دول۔

تہ اسہ اسوس (یعنے ابراہیمس) اسحاق تہ یعقوب
عطا کرہتہ۔ اسہ اوس (تہن) سارنہ حدایت
دیتہ۔ (تہ امہ بروٹھ اوس) اسہ نواس تہ ہدایت
دیتہ تہ تہدو (یعنے ابراہیمہ ہتدو) اولادو منتر
داؤدس تہ سلیمانس تہ ایلیس تہ یوسفس تہ موسیٰ
تہ ہارونس (تہ اوس اسہ ہدایت دیتہ) تہ
پاٹھو چھ اس زہر پاٹھو کام کرن والین بدلہ دروان۔

بیہ اوس، ذکر یاہس تہ یحییٰ ہس تہ عیسیٰ ہس
تہ ایلیاس تہ (ہدایت دیتہ) ایم، سدکی
اسی نیکو منتر۔

بیہ اوس، اسماعیلس، تہ ایتیسع ہس تہ یونس
تہ لوطس (تہ ہدایت دیتہ) بیہ اس اسہ یمن
سارنہ تمام عالمن پہلے فقہیت ڈہ مہتر۔

بیہ تہندین جہن اجدان تہ تہندین اولدان تہ
تہندین باین تہ (اوس اسہ ہدایت دیتہ) تہ اسہ
اسی ہم ترارک ہوتہ تہ ہم اس اسہ سینر و تہ
کن رہبر کی کر مہتر۔

اللہ (تعالیٰ) ہندر ہدایت دیک طریقہ چھ یوہے

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ
بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمَنُ وَهُمْ
مُهْتَدُونَ ﴿٦٧﴾

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى
قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ
رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٦٨﴾

وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا
هَدَيْنَاهُ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ
وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ
وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ
نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

وَذَكَرْنَا وَيْحَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلًّا
مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٧٠﴾

وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُوسُفَ وَلُوطًا
كُلًّا فَضَلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾

وَمِن آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ
وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُم إِلَى صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيمٍ ﴿٧٢﴾

ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن

يَشَاءُ مِنْ عِبَادٍ ۚ وَكَوْا شُرَكَاءَ الْوَالِدِ
عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿۱۱﴾

یہ تیرے کہ اولیاء سے پستوں بندو مشرکوں سے پستوں چھ
تس چھ و تھ اولان تہ اگر تم شرک کرین تہ ہم
کینہہ اعمال تم کران اسی (تم) گزھ ہنکھ امر سستی
شاید -

أَدْلَيْتَ الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ وَ
الْحُكْمَ وَ التُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا
هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا
بِهَا بِكْفِرِينَ ﴿۱۲﴾

تھے لو کہ چھ میں اسے کتاب تہ ناملہ کرینج ناکارکی
تہ نبوت و شر مشرکس - اور اگر تم لو کہ امیک (یعنی
نبوتک) انکار کرن تہ اسے چھ سہ اس (نیس)
قوس (یعنی مسلمان) حوالہ کر مشرکیم انکو منکر
چھن -

أَدْلَيْتَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبَدَّلَهُمُ
آفْتِنَةً، قُلْ لَا أَشْرُكُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ
هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿۱۳﴾

یعنی (پیٹھ کنہ ذکر کرنہ امتین لوکن) دیت اللہ
(تعالے) ہن ہدیت لہذا کر تہ تہند ہدایت پادری
تہ دن آتس نہ ہر چھو نہ تو ہر آتھ پیٹھ کانہہ
سزوری منگان - یہ ہے چھیت تمام عالمن ہند
خاطر صرف اکھ نصیحت -

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَن
أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا
وَ هُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قُرْآنًا طَيْسَ
تُبَدُّوْنَهَا وَ تَخْفُونَ كَيْثِيْرًا وَ عَلِمْتُمْ مَا
لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَ لَا آبَاؤُكُمْ قُلْ
اللَّهُ ۖ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ
يَلْعَبُونَ ﴿۱۴﴾

بہ نیلہ تمو یہ کتھ و نیایہ نہ اللہ (تعالے) ہن کوڑ
نہ کانسے بندس پیٹھ کینہہ تہ نازل تہ تمو لو کو اوس
نہ اللہ (تعالے) سند (یعنی تہند صفتان ہند انڈاز
تتھ کتھ کوڑت چھ کتھ کران پڑے - تہ دن
آتس) نہ سہ کتاب یو ہر موسیٰ ہن اسی مشرکس
تہ سہ اس لوکن ہند ہایتہ نور تہ ہدایت - سہ
گھر اس نازل کر مشرکس؛ تو ہر چھوون سہ ورقہ
ورقہ کران تو ہر چھوون سہ نظر ہر (تہ) کران تہ
دتمہ منہر (چھو واریاہ حصہ) کھان (تہ) حلالک
تو ہر چھو تہ کینہہ (ہینچنا و نہ آمت یہ نہ تو ہر
زانان اسی و تہ نہ اسی) تہند ہر جد اجداد
زانان) تہ دن آتس، نہ اللہ (تعالے) ہن (ہے
اس سہ نازل کر مشرکس) یہ تہ تہرا و لو کہ تم تہند ہر
ایس مشرکینہ و نہ -

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقٌ
الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ لَتُنذِرَ أُمَّ

بہ چھ یہ (قرآن) اکھ (تہند شاپہ و اجز) کتاب - یو ہر
اسے نازل کر مشرکس چھیت (تہ سہ) چھ برکثرو سستی

الْقُرَىٰ وَ مَن حَوْلَهَا ۚ وَالَّذِينَ
يُوْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ
هُم عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿۵﴾

بریتھ تہ میس (کلام) امر برونھ اوس تتھ چھینہ پلور
کرن واجیز (تہ اسہ چھینہ یہ اوکئی تا نزل کر مہر
نہ ترہ دکھ امر ڈو لوکن ہلایت) تہ سیتھ زن تہ
ام القریٰ (یعنی ملکر روزن وال) بیہ یم تتھ اُنڈر
پلور (روزان) چھہ خبر دار کر بھہ۔ تہ یم لوکھ پتہ
پتہ واجنہین (وعدہ دنہ آمترن کتھن) پٹھ ایمان
انن چھہ تم چھہ تتھ (کتا بہ یعنی قرآنس) پٹھ (تہ)
ایمان انن۔ بیہ چھہ تم پستہن نمازن ہند تہ ہمیشہ
خیال تھاولن۔

وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ
وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ
وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ
الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ
آخِرُ جَوَا أَنفُسِكُمْ ۚ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ
عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى
اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ
تَسْتَكْبِرُونَ ﴿۵﴾

بیہ کس بیگہ کس شخصہ ہند کھوتہ جاہ ظالم اہستہ
یس زابتہ مانیتہ اللہ (تعالیٰ) ہس پٹھہ ایز نوو
راوتھ تھہو) یا یہ ونہ نہ میہ پٹھہ چھہ وحی (نازل)
کرنہ آمتر۔ سیلہ زن کس پٹھہ وحی آسہ نہ (نازل)
کرنہ آمتر۔ تہ سیتھ کھوتہ شخصہ ہند کھوتہ
(جاہ ظالم کس بیگہ اہستہ) یس یہ ونان چھہ نہ
یہ کیترھا اللہ (تعالیٰ) ہن نازل کورمت چھہ بہ
تہ کربے شک سیتھ (کلام) نازل۔ بیہ اگر شہ
(سہ وقت) وچھہ بھہ سیلہ ظالم موتہ کھن کر کھیرن
مشر آورنہ بین تہ ملائک آسن (یہ ونان) پٹھہ
اتھہ دارن نہ پٹھہ زوگہ لوکھ نمبر۔ یہ کیترھا
توہر اللہ (تعالیٰ) ہس متعلق ناحقہ ونان اُسو
بیہ یہ زن توہر تسدن آسن ہند حقہ تکبیرس
اُسو و کلام ہوان، تمہہ کئی بیو توہہ از رسوائی
ہند غلاب دنہ۔ (تہ تریہ ہی اکھ ہنہیہ کرون
نظاہ بوزنہ)

بیہ (تمہہ وزہ ونو اُس نہ) تھکتو اسہ توہر گوہ ڈیکہ
لہ یاد کرنا یو (تھکتو کئی) چھو توہر (وونی)
اسہ نش کئی کئی ترنی واقر ہوت۔ تہ یہ کیترھا اسہ
توہہ اساتہ رنگہ دیمت اوسو تہ چھو توہہ پستہن
تھن پتھ کن ترورومت تہ (یہ کیا کتھ چھینہ ر)

وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ
أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ وَ تَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ
ظُهُورِكُمْ ۚ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ
الَّذِينَ رَعِمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ ۚ
لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَ ضَلَّ عَنْكُمْ مَا

كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿۱۱﴾

اُسکی بچھت تو چھان از تہندک اتم سفارش در تہ ہمہ سیتی (مہند سچہ) توہر اُسو و دعوی کران نہ اتم چھ تہ ہمہ (پچھ حکومت کرنس) منز (خدا یہ نہک) شریک - تہندک پانہ وانی رشتہ چھ (دوڑی) بلکل تر صیتی ہتی تہ یہ کینترھا توہر و نان اُسو و تہ (سورے) چھ تہ ہم نش روومت -

۱۱
۱۲

اللہ (تعالیٰ) چھ پیزی پاٹھو پھلین تہ آچھن پھاٹہ ناؤن وول۔ سہ چھ موروس بنش زیند کڈان تہ زیندک بنش چھ مورج کڈن وول۔ تہندک اللہ (تعالیٰ) چھ یہ۔ لہذا وئی تو توہر کتہ کئی چھو پھرتہ نتر یوان؟

إِنَّ اللَّهَ فُلِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ، يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ، ذَلِكُمْ اللَّهُ فَأَلَّىٰ تُوَفَّقُونَ ﴿۱۲﴾

سہ چھ صیص تون کڈن وول تہ تم کو چھ رات اراکک باعث بناو پتر تہ آفتاب تہ زون چھن حسابک ذریعہ بناو ہتی۔ یہ انداز چھ تسدیس غائب (تہ) سہاہ زان وول چھ۔

فَالِقُ الْأَصْبَاحِ، وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، ذَلِكْ تَفْقِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿۱۳﴾

بیہ چھ سہ سیکر تہندک باپتہ تارکہ یاد کرک ہتی چھ تہ زون توہر خشکی ہندین تہ سمندر کین مشکلاتن منز و تہ ہندپے لبو۔ اسہ چھ علمہ والہر توہر باپتہ نشانہ و پڑھنا و تہ بیان کرک ہتی۔

ذَٰهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّجْمَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ، قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۱۴﴾

بیہ چھ سہ سیکر توہر کی زوہر لپتہ یاد کرک ہتی چھو۔ پتر چھ تم (تہندک باپتہ) اکھ عارضی روزن جاسے تہ اکھ زبٹہ مدتہ خاطر روزن جاسے مقرر کر پتر۔ اسہ چھ فکر ترن والہن لوکن ہند خاطر نشانہ و پڑھنا و تہ بیان کرک ہتی۔

وَ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرًّا وَمُسْتَوْدَعًا، قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴿۱۵﴾

بیہ چھ سہ سیکر آسمانہ پچھ آب وولمت چھ پترہ (وچھو کتہ پاٹھو) چھ اسہ امہ کر ذریعہ پترہ پترہ و و پناو یاد کورت بیہ چھ تہ کہ ذریعہ فعل یاد کورت بیہ اُسو (ٹیلین منز) پترہ پچھ پتلو کڈان چھ۔ بیہ چھ کھنر کھو منز یعنی تہ کھو جامو منز بون کن اوپانہ کھنر (ترنور) کڈان۔

وَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، وَ مِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْحِهَا قَنَوَانٌ، وَ مِنْ زَيْتُونٍ وَ جَبْتٍ مِنْ أَعْنَابٍ، وَ الزَّيْتُونُ وَ الرُّمَّانُ مُشْتَبِهًا وَ غَيْرَ مُتَشَابِهٍ،

أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۗ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۳۰﴾

بہ چھ دھین ہندک، زیتون کی تہ و اُن ہندک تھو
باغ دکھلان، میو منفز کینہ پانہ و اُن اگھ اگھ ہوک
چھ تہ کینہ، مختلف چھ۔ بیبلہ (تو اندر پر ہتھ
قسم کس کس) میو نیلان چھ تہ تمیک میو تہ
تمیک پٹن گڑھ و چھن۔ تھق اندر چھ اپکان
ان واپن ہندر باچھ بے شک (واراہ) نشانہ۔

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ
وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِخَيْرٍ
عَلِيمٌ ۗ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰی عَمَّا يُصِفُونَ ﴿۳۱﴾

بہ چھ تمو اللہ (تعالیٰ) ہس سبتی چنو اندر
شریک مقرر کرے ہتی۔ بیبلہ زن تمو (خدایان)
تم یاد کرے ہتی چھ تہ تمو چھ تہنہ حقہ زانہ
کرنے اپڑے پاٹھو، نیچوڑ تہ کور بناوڑ مشر
سہ چھ پاک تہ یہ کینہ شہا تم بیان کران چھ
تہر ہتھ چھ سہ (تھنہ تو ایلا)۔

بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ اَنۢى يَكُوۡنُ لَهُ
وَكۡدٌ وَّلَمۡ تَكُنۡ لَهُ صَاحِبَةً ۗ وَخَلَقَ كُلَّ
شَيْءٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۳۲﴾

آسمان ہند تہ زمینک چھ (سہ) بلا نمونہ یاد
کرن وول۔ تس کتھ پاٹھو ہیکہ نیچوڑ اُس تہ
بیبلہ زن تس کاتہہ آشنی اُس نہ۔ بہ تمو چھ
پر ہتھ اگھ چیز یاد کورے تہ سہ چھ پر ہتھ کاتہہ
کتھ زانان۔

ذِكۡرُ اللّٰهِ رَبِّكُمۡ ۗ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۗ خَالِقُ كُلِّ
شَيْءٍ ۗ فَاَعْبُدُوۡهُ ۗ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيۡلٌ ﴿۳۳﴾

بہ چھ تہنہ اللہ (تعالیٰ) یس تہنہ پروردگار (تہ)
چھ۔ تس ہوا چھنہ کاتہہ معبود۔ سہ چھ پر ہتھ
کاتہہ چیز یاد کرن وول۔ لہذا کرو تمو سبھ عبادت
بہ چھ سہ پر ہتھ کتھ (چیزس) پوٹھ نگران۔
نظر چھنہ تس تام و اتھ ہیکان مگر سہ چھ نظر
تام سہ و اتان بہ چھ سہ مہربانی کرن وول (تہ)
حقیقت زان وول۔

لَا تُدۡرِكُهُ الْاَبۡصَارُ ۗ وَهُوَ يُدۡرِكُ الْاَبۡصَارَ ۗ
وَهُوَ الْغَیۡبُ الْخَبِيرُ ﴿۳۴﴾

تہنہ س پروردگار ہند طرفہ چھ و لپہہ آشرہ اد
نیچوڑ تم زانہ۔ تس آسہ (تسہ یہ کار) چھنہ
(نابیر) خاطر تہ نیچوڑ ہجر (پرورد) تس کسبہ

قَدۡ جَآءَ كُمۡ بَصَآرٌ مِّنۡ رَبِّكُمۡ ۗ فَمَنۡ
اَبۡصَرَ فَلِنَفْسِهٖ ۗ وَ مَنۡ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ۗ وَ
مَا اَنَا عَلَیۡكُمۡ بِحَفِیۡظٍ ﴿۳۵﴾

سہ بیٹھ انسان ہیکہ نہ چھنہ علم کہ زور خدایس و چھتھ۔ مگر اللہ (تعالیٰ) چھ پنہ
نفسہ سبتی انسانس نزدیک ہتھ پنہ دیدار کرناوان۔

(تسند یہ کار) پانچے بار۔ یہ تہ چھس نہ تہنز
حفاظت کرن وول۔

تہ تیتھے پانچھ چھہ اُس رنکہ رنکہ طرفو آپہ چھہ
پہہری اتان۔ (تیتھہ تہن پپٹہ تہجت سپہ) بیہ
تیتھہ تہم (یہ) ون نہ تہ تہ تہجت پورنت (یعنے
پُرنتہ بوزنومت تہ تہجت پور کر ہنتر) بیہ تیتھہ
اُس یہ علمہ والہ قومہ (کر فایده) باپتہ بیان کرو۔
یہ کینترھا پانچس پروردگار ہنتر طرفہ تہ تہ پپٹہ
نازل کرنہ یوان چھہ تہتہج کر پادوی۔ تس ورانی
پپٹہ (بیہ) کاتہہ معبود تہ تہ پپٹہ مشرک کتہ تہتہ۔
بیہ اگر اللہ (تعالے) تہ تہ تہ ہے تہ تہم کر ہن نہ
شُرک تہ اسہ کوزکھ تہ تہ تہن پپٹہ محافظ مُقرر
تہ نہ چھکھ تہ تہن پپٹہ تہن۔

بیہ سہ ولو توہر تہن بدرد یمن تہم اللہ (تعالے)
ہس ورانی (دعاہن متر) آلو دو ان چھہ۔ تہ و ن
تہ دشمن تہنتہ جہالتہ کر باعثہ اللہ (تعالے) ہس
بدرد۔ پپٹہ پانچھ اسہ پپٹہ اگر قومہ باپتہ
تہنتر اعمال خوبصورت کر تہ تہ تہ تہ۔ پپٹہ
تہن پپٹہ پروردگار کتہ پپٹہ تہ تہن تہ تہ پپٹہ
سہ تہن تہ تہ تہ کر یہ تہم کران اُس۔

بیہ چھہ تہم اللہ (تعالے) ہنتر پپٹہ تہ تہ تہ تہ
نہ اگر تہن تہن کاتہہ تہ تہ تہ تہ تہ تہ تہ
منورہ قبول۔ تہ و ن (تہ تہ تہ) ز نشاہ تہ تہ تہ
اللہ (تعالے) ہس تہ تہ تہ تہ تہ تہ تہ تہ
باو و، نہ تہ تہ تہ (تہ تہ) تہ تہ (لوکھ)
ان نہ (تہ تہ) ایمان۔

تہ اُس پپٹہ کہ تہنتر دل تہ تہ تہ تہ تہ تہ
تہ تہ و ن تہ تہ (تہ تہ) پپٹہ گو تہ تہ تہ تہ
تہ تہ تہ و وکھ تہنتر سرکشین متر و تہ تہ تہ۔

وَكَذَلِكَ نُنصِرُ الْكَلِيبَ وَرَبِّقُولُوا
دَارَسْتَ رَبَّنَا لِقَوْمِهِمْ لِقَوْمِهِمْ يَكْفُرُونَ ﴿٥٩﴾

رَبَّنَا مَا أَذْرِي إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِلَّا إِلَهُ
الْأَهْوَى وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿٥٩﴾

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، وَمَا جَعَلْنَاكَ
عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ
بِوَكِيلٍ ﴿٥٩﴾

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ
كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ لَمْ
يَرْبَهُمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنْتَبِهُنَّ بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿٥٩﴾

وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ
لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، قُلْ
إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعُرُكُمْ
أَنَّهَا إِذْ أَجَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٩﴾

وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا
لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَدُّهُمْ
فِي طَغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٥٩﴾

وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا إِلَيْهِ أَوَّامِنًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَئِن كُنَّا لَأَكْثَرَهُمْ يَجهَلُونَ ﴿۱۷﴾

بیسے ہرگاہ اسی تمہیں پیٹھ ملائیک نازل کرہو تو مہر دہ کرہن تمہیں سبوت کلام تو پرچہ کانہہ چیز کرہو اسی تمہیں برونیٹھ کہہ اتاد۔ تو تہر انہ ہن نہ تم اللہ (تعالیٰ) ہند بیٹھہنہ وراہی ایمان۔ بلکہ چھہ تمہو منز واریاہ جابل۔

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَاطِئِينَ الْأَرِيسِ وَالْحَيِّطِ يُؤَخِّرُونَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ قَدْ زُهِمَ وَمَا يفتَرُونَ ﴿۱۸﴾

بیسے اسی اسہ بیٹھہ پاٹھو انسانو تو جتو منز بتو مہر کرہ پرچہ اکیس نبی ہندہ دشمن بناوی مہر۔ تمونز چھہ کیشہ کیشہن دوکھہ دنہ باپتھہ (تہندہن دن منز) بدخیل تراوان۔ یوسہ خالی ٹاو باوچ کتھہ چھہیہ اسان، تو ہرگاہ چون پروردگار بیٹھہ ہے تو تم کرہن نہ بیٹھہنہ! اوکچہ کرکھہ تم تہہ تہندہ پڑ تہہ نظر انداز۔

وَلِتَضَعِيَ لِأَيِّهِ أَفئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَاللَّيْزُوهُ وَلِيُفتَرُوا مَا هُمْ مُفتَرُونَ ﴿۱۹﴾

تہہ خدا (تعالیٰ) ہن چھہ بیہ اوکچہ یوتھمت) بیٹھہ زن قیامتس پیٹھہ ایمان نہ ان والہن ہندہ دل (تہندہو اعمالو کچہ) بیٹھہ نہ کتھن کن تمہہ تہہ بیٹھہ تم یہ (یعنے ایڑا) پسند کرہن ہن تہہ بیٹھہ تمہہ سینہن اعمالن ہندہ تیجہ وچہن۔

أَفخَيْرَ اللَّهِ أَبتَغِي حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُفتَرِينَ ﴿۲۰﴾

(تہہ وکھہ) کیا ہر تھاندنا اللہ (تعالیٰ) اس وراہی بیاکھ کانہہ فاصلہ کرن وول؟ بیٹھہ زن تو تو ہسہ پیٹھہ ٹاکار کتاب سوز مہر چھہیہ۔ تو کین اسہ کتاب دہر مہر چھہیہ تم چھہ زنانن نہ سو چھہیہ پڑہ سان چائس پروردگار ہندہ طرفہ نازل کرہو آمہر۔ لہذا مہرین تہہ جگہ کرن والہو منز۔

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۲۱﴾

چائس پروردگار ہنہ کتھہ (تہہ) روز حقہ تہہ افہافہ سان پڑہ سیدتھہ تہہ کیناز، تہہن کتھن چھہنہ کانہہ بدلان وول بیہ چھہ سہہ جان پاٹھو بوزن وول تہہ زبر پاٹھو زانن وول۔

وَأَن تَطِعَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا

بیسے اگر تہہ بڑا تہہ پیٹھہ ہن والہو منز واریاہن ہنہن کتھن ہنہ پاردوی کرکھہ تہہ تم کرہن تہہ اللہ (تعالیٰ)

الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿۱۱﴾

ہنر و تہ نش گمراہ۔ تم چھو صرف گمانچ پاروی کران بیہ
چہ تم تکیسی کہہ کران۔

إِنْ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿۱۲﴾

جون پروردگار چھ زبر پاٹھو زبان تس بیس تسنر و تہ
نشہ ڈران چھ تہ سے چھ تمہن تہ جان پاٹھو زبان یو
ہدایت لڑیت چھ۔

فَكُلُوا مِنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۳﴾

لہذا اگر توہر تہدین نشان پٹھ اپسان انان چھو او
کو تہ پٹھ اللہ (تعالیٰ) سند ناو ہینہ آمت آسہ تہ
منز کہنیو۔

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّتُمْ عَلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنْ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿۱۴﴾

تہ توہر کیا چھو (گومت)؟ توہر چھو نہ تمہ منز کہہ جان
یتھ پٹھ اللہ (تعالیٰ) سند ناو ہینہ آمت چھ اسمہ
باوہر نہ تمہو (اللہ تعالیٰ ہن) چھ توہر بروٹھ
کہ تہ سورسہ کہینہ و پڑھنا و تھ بیان کورمت یہ تمہ
تہندہ باچہ حرام کورمت چھ۔ ماسواپہ ابکہ نہ توہر
سپرو مجبور ا تہ واریاہ (اکھا چھ کہہ پڑھلمہ و رآلی
یقینا چنہو ناہتر مطابق (لوکن) گمراہ کران۔ چون
رب پٹھ بے شک حد نمبر نیرن والہن زبر پاٹھو زبان۔
بیہ گمہ چھو ناہری شکہ (نشہ) تہ امچہ حقیقتہ (دوہڑو)
نشہ پٹھ۔ ہم لاکھ گوناہ کھاوان چھ تمہن پیہ تیک
یہ تم کھاوان چھ بے شک بلہ دہن۔

وَذَرُوا ظَاهِرَ الْأَثِمِ وَبَاطِنَهُ، وَإِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْأَثَمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۱۵﴾

بیہ مہ کہنیو توہر تمہ منز یتھ پٹھ اللہ (تعالیٰ)
سند ناو ہینہ آونہ۔ تہ یہ عمل چھیر بے شک نافرمانی۔
تہ شیطان چھ یقینا چنہنہن (دوستن ہندین دن منز
(تھو خیال) تراوان روزان۔ یتھ زن تم توہر سڑی
شرون۔ تہ ہرگاہ توہر تمہن ہنر فرماہر ڈاری کر و تہ
یقینا سپرو توہر مشرک۔

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا كَفَىٰ ذِكْرًا لِلَّذِينَ عَلَيْهِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَيْسَ بِأَعْلَمَ إِلَىٰ أَوْلِيائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿۱۶﴾

تہ بیس شخص مہرہ آسہ پتہ آسہ سہ اسہ زندہ کورمت
تہ تہندہ خاطر آسہ تہتہ گاش مقدر کورمت۔ تہیر کہ
ذریعہ سہ لوکن منز چھیران تھوران آسہ سہ چھاس شخصہ
ہندہ پاٹھو (آسہ پھان)؟ تہیر سہ حال یہ آسہ
زبر آسہ انہ گمن منز (پیومت تہ) تمہو منز آسہ نہ

أَوْ مَنْ كَانَ مِيثًا فَأَخْبَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ۚ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۷﴾

گنہ دوز تہ (نمبر) نیلان۔ یتھے پٹھو چھہ گا قرن
ہندہ ٹاٹھ تہندہ اعمال شوہ دار بناوتھ لوہہ آہتی۔
بیہ چھہ اہر پر تھہ اکیس بستی مشن اہکی بڑی بڑی
تجریم تھیں بناوہوتی (یعنی تم چھہ پیڑ بد اعمال رہڑ
شکلہ مشن دھیان) سیمیک نتیجہ یہ چھہ آسان نہ تم
چھہ تھہ (بستی) مشن (نسیبین تھلات) تروہ یہ کران
مگر تکرہ چھہ تم پسنینہ زون تھلات تروہ یہ کران۔
وہ فی گوڈ تھن چھہ نہ فکر تھان۔

بیہ نیلہ تھن بٹش کاہنہ نشان یلان چھہ، تہ تم چھہ
ذمان ز یوتانی نہ اہر تھتے کلام دہن بیہ بیس اللہ
(تعالے) ہندین پیغیبرن دہن آمت چھہ، اُسو الوہ
برگز تہ ایمان۔ اللہ (تعالے) چھہ (ساروہے کھوتی)
جاد زانان، نہ سہ کتہن تھاو پیڑ پیغیبری۔ بیکو
لوکو گوناہ کورنت چھہ تھن واتہ اللہ (تعالے) ہند
طرفہ ضرور ذلت تہ کر لوٹھ عذاب، اہر باعشہ ز تم
چھہ (نسیبین تھلات) تروہ یہ کران۔

بیہ تھیس اللہ (تعالے) ہدایت دیک اراہ کران چھہ
تسند سپنہ چھہ اسلام باچھہ مشن راوان تہ تھیس
گمراہ کرنک اراہ کران چھہ تسند سپنہ چھہ تنگ
کران۔ زن تہ چھہ سہ تھنرس کن کھسان آسان
(تہ) یتھے پٹھو چھہ اللہ (تعالے) تھن لوکن
پٹھہ ہم نہ ایمان انان چھہ، عذاب تاہل کران۔
توہ یہ چھہ پانس پرور دکاہ ہنر سہوتھ، اہر چھہ نصیبت
رہن والہن ہندہ باچھہ نشانہ واش کد تھہ بیان کرکہ ہوت۔

تہندہ ٹاٹھ چھہ تہندس رہہ ہندس دربارس مشن، سلاقی
ہندہ مگر تیار۔ تہ یہ کثیرہا تم کران چھہ تمہ کو چھہ
تہندہ مددک۔

بیہ (کرو یاد) سہ وہہ نیلہ سہ تھن سارنہ جمع کر
(تو پتہ ویکھ) اسے چنہ لوہ! توہہ اُسو د انسانو
مشن واریاہ (پانس سوتو رلاوتھ) نیہتہ تہ تہندہ انسان

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ
أَكْبَرًا مَّجْرِمِينَهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا
يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا
يَشْعُرُونَ ﴿۳۶﴾

وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ
نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ
رُسُلُ اللَّهِ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ
رِسَالَاتِهِ ۗ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا
صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا
كَانُوا يَمْكُرُونَ ﴿۳۷﴾

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ
صَدْرَهُ لِلدِّينِ سَلَامٍ ۗ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ
يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا
يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ ۗ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ
الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۳۸﴾

وَهَذَا صِرَاطٌ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۗ قَدْ
فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿۳۹﴾
لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ
وَاللَّهُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۴۰﴾

وَيَوْمَ يَخْشَرُهُمْ جَمِيعًا ۗ لِيَمْعَشَرَ
الْحَيَاتِ قَدْ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْآرَائِسِ ۗ
وَقَالَ أَوْلِيُّهُمْ مِنَ الْآرَائِسِ رَبَّنَا

مددگار و نر، نر اسے سانہ پروردگار! اسے مقرر چھ
 کثیر و کثیر بنش فایده سمیت تہ اسی چھ پینس شہ
 مدتس و آتی ہوا، ایس تریہ سانہ خاطر مقرر کوزت اوتہ
 سہ فرماوند چھ تہند بھکانہ شہہ منتر رُوڑو توہر
 اگس ز پینس مدتس تام مایویہ ایگر نہ خدایہ سنہر
 مرمعی بیترہ بدل کیہند۔ چون رب چھ بے شک
 حکمتہ وول (تہ) سبھا زانن وول۔

یتھ پاٹھو چھ اسی کیہندہ ظلم کیہنن ہندک دوست
 بناوان تمہ کامہ ہند باعشہ یوسہ تم کران چھ۔

اسے چون تہ انسان ہند ٹولہ! کیا توہی مشر آسہ نا
 تہندک رسول توہر بنش؟ ہم توہر میانی آسہ پڑتھ
 ہوزناون اسی و تہ آڑو کہ دوہ کہ ملاقاتہ نشہ اسی
 و توہر خبردار کران۔ ہم ون نہ اسی چھ پاس خلاف
 (پانے) گواہی تارن۔ تہ دنیاوی زندگیہ تراور تم
 فریہ منتر تہ تموتار پاس خلاف (پانے) گواہی
 نہ تم اسی کاقر۔

یہ (پینسین ہند سوزن) اوس اسہ سبہ نہ تہند
 پروردگار ہیکر ہے نہ شہن ظلمہ سان تباہ کر تھ، نیلہ
 تنگ روزن و آل غفلتس منتر آسہن۔

بیہ چھ پر بچہ شخصہ ہند (یا توہر) خاطر تہند لو
 اعمالو مطابق درجہ مقرر۔ تہ چون پروردگار چھندہ
 تمہ نشہ غافل یہ ہم کران چھ۔

بیہ چھندہ چون پروردگار کانہ محتاج بیہ چھ سہ
 رحمتہ وول۔ اگر سہ بیترہ تہ توہر کردہ ہاک تہ چھکو
 اکہ بیہ توہر کہ سہ منتر استاد کرک ہوتہ چھنو (تہ پانے)
 ایس سہ بیترہ تہ تس بناو تہند (ہاک کر نہ) پستہ
 تہند جانشین۔

نیہہ اکتہ (ہند توہر ستر و عدو کر تہ یوان چھ سہ روز
 ضرور (پڑ) سپد تہ توہر ہیکر نہ کتہ پاٹھو تہ اسہ
 عاجز کر تھ۔

اَسْتَمْتَمْتَمَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَ بَلَّغْنَا
 اَجَلَنَا الَّذِي اَجَلْت لَنَا، قَالَ النَّارُ
 مَثُوْبِكُمْ خُلِدِيْنَ فِيْهَا اِلَّا مَا
 شَاءَ اللّٰهُ، اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۵﴾

وَ كَذٰلِكَ نُوَلِّيْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ
 بَعْضًا اِمَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿۱۶﴾

يَمَعَشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَأْتِكُمْ
 رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ وَ
 يُنذِرُوْكُمْ لِقَاءِ يَوْمِكُمْ هٰذَا، قَالُوْا
 شٰهِدْ نَاعِلٌ اَنْفُسِنَا وَ عَزَّ ثَمَّ الْحَيٰوةُ
 الدُّنْيَا وَ شٰهَدُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَنْهُمْ
 كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ﴿۱۷﴾

ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكًا
 الْفَرٰى يَظْلِمُوْا اَهْلِيْهَا غٰفِلُوْنَ ﴿۱۸﴾

وَ لِكُلِّ دَرَجٰتٍ مِّمَّا عَمِلُوْا وَ مَا
 رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۹﴾

وَ رَبُّكَ الْعَنِيْ ذُو الرِّحْمَةِ، اِنْ يَشَآءُ
 يُذْهِبْكُمْ وَ يَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ
 مَا يَشَآءُ كَمَا اَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةٍ
 قَوْمٍ اٰخِرِيْنَ ﴿۲۰﴾

اِنَّ مَآئُوْا عَدُوْنَ لَآ اِيْتٍ وَّ مَا اَنْتُمْ
 بِمُعْجِزِيْنَ ﴿۲۱﴾

تر دن، اسے میانہ قوم! توہم کرو پتیس طریقیں پیٹھ
عمل، بہ تر کر (پتیس طریقیں پیٹھ) عمل - پتہ کرہ
توہم جلد سے معلوم نہ سیکر ہو کر (یعنی دنیوی بہک)
انجام کہندس حقس مشرچھ سیدان کہتھ پھیدہ سیر نہ
فللم جہنہ (نہ شہے) کامیاب گھر جان۔

بیہ جھ تہو تہمہ زراعتہ مشر تہ تہو چار وایو مشراہیم
تہو (خدا تعالیٰ ہن ا پاد کر کر ہوتو جھ اکھ حصہ اللہ تعالیٰ)
سند مقرر (کرتھ تھوومت) پتہ جھ تہم پتہ تہو گمانہ ہوتو
دنان نہ لوت گوو اللہ تعالیٰ) ہندر خاطر تہ لوت گوو
سانہن شرکین ہندر خاطر (پتہ جھ پتہ دعویٰ کران نہ)
یس تہندن شرکین ہند (حصہ) جھ، اسے تو چھندہ
اللہ تعالیٰ) ہس واتان تہ یس اللہ تعالیٰ) سند
(حصہ) جھ، اسے جھ تہندن شرکین واتان۔ تم
کو تاہ بچھ فاصلہ جھ کران۔

یتھے پٹھ اوس مشر کو مشر وار یا ہن تہند بو مشرکو
تہند ہلاک کر نہ موکھ تہ تہند دین جن پٹھ شک اور
کر نہ خاطر تہندن اولاد ہند تہل کرن شوہر دار
کرتھ ہوومت۔ تہ ہر گاہ اللہ تعالیٰ) بیڑ ہے تہ
تہم (مشرک) کر ہن نہ تھہ کھو لہذا تم تہ تہ تہند
اپز تہ کر تہ نظر انداز۔

بیہ جھ تہم پتہ تہ گمانہ کس بنیادس پیٹھ دنان نہ فلانی
چار دوسے تہ فلانی زراعت (کھیون) جھ مع۔ بہن
ہیکر صرف سے کہیتھ یس متعلق اسی دنو۔ بیہ (چوٹان
نہ) کیٹھ چار وایو جھ تہو نہ تہند تھہ جھتھ (سوار
یا بار با پتھ) حرام کر نہ آمہز تہ کیٹھ چار وایو جھ تہو
نہ تہم جھنہ جن پیٹھ (ذبح کر نہ ویر) اللہ تعالیٰ)
سند ناوہوان۔ نس (یعنی اللہ تعالیٰ ہس) پیٹھ
(تہند یہ قول تہ فعل) جھ بانر شہ لاکہ کر نہ کر (آسان)
سے دیر تہن تہر اپز کھو یس تم بنا وان جھ، ضرور
سزا۔

قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي
عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۖ مَنْ تَكُونُ لَهُ
عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿۶﴾

وَجَعَلُوا إِلَهَهُ مَقَادِرًا مِنَ الْحَزْثِ وَ
الْأَنْعَامِ تَصَيِّبًا فَقَالُوا هَذَا إِلَهُهُ
بِرْغَمِهِمْ وَهَذَا لَشُرْكَائِنَا ۚ فَمَا كَانَ
لِشُرْكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَا كَانَ
إِلَهُهُ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرْكَائِهِمْ ۚ سَاءَ مَا
يَحْكُمُونَ ﴿۶﴾

وَكَذَلِكَ دَرَبَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءُ هُمْ لِيُزِدُوهُمْ
دِرْئِيْلِيْسُوا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ ۚ وَكُوشَاءِ
اللَّهِ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَ مَا
يَفْتَرُونَ ﴿۶﴾

وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَأَحْزَانٌ حِجْرٌ ۖ لَا
يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَأَ بِرْغَمِهِمْ وَ
أَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا
يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءٌ
عَلَيْهِمْ ۚ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا
يَفْتَرُونَ ﴿۶﴾

وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذِكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مِّمَّتَهُ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿۱۶﴾

یہ چھ بتم ذبان تر یہ کینٹھا پین چاروین ہنرن
یُرِن منز چھ تر چھ نخلص سانبن مردن ہندر
باچھ تر سانبن آنتین پپھ چھ حرام کر تر آنت
وو فی کوڈ اگر سہ سورج آسہ تر بتم (ساری) چھ
تھ منز شریک - سہ دیہ ضرور بتم تہنتر کھ
ہندر سزا - یاد تھا وو، نہ سہ چھ حکمتہ دول تر پہا
زانن دول -

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا أَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿۱۷﴾

بتم لوکھ چھ گاڈ لین والی سپرے ہتی یو پینز اولاد
بے وقوفی سان زاننہ رو سنتے قتل کرے ہتی چھ - تر
یہ کینٹھا اللہ (تعالے) ہن بتم دیت نت اوس
تر چھ بتم اللہ (تعالے) ہس پپھ ایز نوؤ راوتھ
(پانس پپھ) حرام کوڑت تر بتم چھ عمرآہ کا ہتی
تر بتم چھ ہدایت لین والو منز (بے ہتی) -

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّتٍ مَّعْرُوشٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالزَّمْكَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿۱۸﴾

سے خدا چھ - نیمو نکر دکن پپھ استاد سپن والی
بارغ تر دکھو ورا لی استاد سپن والی بارغ تر کھنر
تر زراعت پین ہندر منز بیون بیون چھ، بیہ نرتون
تر وان پاد کرے ہتی چھ تھ سورس منز نہ تم چھ پانہ
والی (ہوی تر) تر (کینٹرن رنگن منز چھ تر) نہ
ییلہ بتم کلین مہو لگن تر توہر کھنیو تہندر مہو -
تر فصل لونہ تر مہو والہن) کہ وہ کڑن تسد (یعنے
خدا یہ سند) حق ادا تر اسرافس مہو مہو کام بکلیاز
سہ چھنر اسرافس کام پینہ والہن پندر کران -

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَرِشَاءٌ كُلُوا مِنَّمَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿۱۹﴾

تر چار والو منز چھ بار چار والی تر تر لوکھنہ تر چھ
اللہ (تعالے) ہن یہ کینٹھا توہر دیت چھو، توہر
کھنیو تہر منز تر شیطا نہ ہندر قدمن سدی مہو رلاو
قدم - سہ چھ بے شک تہندر ماکار دشمن -

ثَمَنِيَّةٌ أَزْوَاجٌ مِنَ الصَّانِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْرِزِ اثْنَيْنِ قُلْ الذَّكَرَيْنِ

(تکو چھ) اٹھ جوہر (پاد کرے ہتی) تہر لوہر منز نہ تر
ترھاو لوہر منز نہ - تر دن بتم نہ کیا تہر چھان نہ تر

حَرَمَ أُمَّ الْأُنثَيَيْنِ أَمَا اسْتَمَلْتُمْ عَلَيْهِ أَذْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ ، كَيْتُؤُنِي بِعِلْمِهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۷﴾

وَمِنَ الْأَيْلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ، قُلْ إِيَّاكَ كَرِهَ أُمَّ الْأُنثَيَيْنِ أَمَا اسْتَمَلْتُمْ عَلَيْهِ أَذْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ ، إِنْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَضَعَكُمُ اللَّهُ فِي بَهْدِهِ ، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ، إِنْ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۷﴾

حرام کر کے مٹی کہنے نہ ماؤں کہنے میں چیز مادن بندلو شرکی بانو (پانس منتر) ولہتہ تھومت چھہ۔ (سہ چھن حرام کورمت) اگر تواری پیز یارک چھو تہ میںہ وونو (یہ کہتہ) گنہ علمہ جہہ بنیاد پیٹھ۔

بہ (چھو تھو) وونو منتر نہ تہ گینو منتر نہ (پاد کر دہرت) نہ ونگھ کیا تھو چھادہ نوے نہ حرام کر کے مٹی کہنے دہ نوے ماؤں کہنے میں چیز مادن بندلو شرکی بانو (پانس منتر) ولہتہ تھومت چھہ (دیکھو) تواری آسو وا تہ وقتہ موجود میںہ تہ ہد اللہ (تعالیٰ) مہن امیک حکم دہرو وونو (اگر نہ تہ) ادر کس ہیکہ تھو ہند کھوتہ جا دظلم آہستہ ، میں اللہ (تعالیٰ) ہس نہ زانتہ ماہتہ او کون اپیز لاگتہ تھو نہ لوکن کر زانہ ورائی گھراہ۔ یقیناً چھتہ اللہ (تعالیٰ) ظلم لوکن و تہہ ہوان۔

تہ وون تمن نہ یہ کینتھا میںہ کن تازل کرنہ آمت چھہ ہر تہ چھس نہ تہہ منتر تس شخصس پیٹھ میں کائہہ چیز کینون ییشہہ کائہہ چیز حرام لبان مورہ یا کونہ رتہ یا سور باز ورائی (سور باز) او کون نہ سہ چھہ ناپک یا (چھس) تسق (حرام لبان) یعنی سہ چیز یٹھ پیٹھ خلیس ورائی بہ کائہہ ہند ناو آسہ ہینہ آمت۔ مگر میں شخصس (یہ کھینس پیٹھ) مجبور سپر تہ سہ آسہ نہ (شرعیاتس) بھتہ پینہ وول یا حد نبہر نین وول۔ تہ (سہ تھاون یاد نہ) چون رب چھہ پڑی پٹھو سٹھا بخش مار (تہ) پھیری پھیری رحم کرن وول۔

بہہ ہم لوکھ بیہودی چھہ اسہ اوس تمن پیٹھ ہر بھتہ کائہہ چنچہ وول جالوزہ حرام کورمت۔ تہ گاو (تہ دانس) تہ تہرس (تہ تھادوس) منتر آسہ اسہ

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِهِمْ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُورًا أَوْ لَحْمَ خنزير فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْبِ اللَّهِ بِهِ ، فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَايِعٍ وَلَا عَاطِلٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۷﴾

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا

أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِحَسْبِ عَمَلِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَنَّا الصَّادِقُونَ ﴿۵۰﴾

تمن پٹھ، تمہن وہ نونی ہندی چرب حرام کُری ہو
صرف نہ سہ (چرب) ایس تہندہن پلشن تہ اندرین پٹھ
اسہ یا ایس کُری آڑی جہ سہتی سہاتہ آسہ۔ پلاوس
اسہ تہنہن نافرمانی کئی تمن سزا دہیت تہ آسہ
یقیناً پُز یارو۔

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ
وَاسِعَةٍ ۖ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ
الْمُجْرِمِينَ ﴿۵۱﴾

پتہ اگر تم تریہ ایزاونے تہ ترون تمن تہندہ
پروردگار بچھ کھلہ ڈولہ رحمتہ وول تہ تندہ عذاب
دیگر نہ مجرم لوکن لشتر دور کر نہ پتہ۔

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ
مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا
مِنْ شَيْءٍ ۚ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن
قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بِأَسَنَاءِ قُلْ هَلْ
عِنْدَكُمْ مِن عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَاءِ ۚ إِن
تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِن أَنتُمْ إِلَّا
تَخْرُصُونَ ﴿۵۲﴾

یکو شرک کوزت چھ، (تم، وں ضرور نہ اگر اللہ
(تعالیٰ) پتہ ہے تہ نہ کہ ہو اسی (زانہ) شرک
تہ نہ کہ من سانی جد اجداد تہ نہ کہ ہو اسی کا پتہ
چیز حرام۔ ہم تمن بروٹھ (گڈے ہتی) چھو تمہو
(تہ) اسی پتہ پاٹو (سانی وحی) ایزاو پتہ تہ
وقس تام تہ تمہو تہ نہ سون عذاب۔ تہ وں تمن
توہ نیش جھا کا پتہ تہتہ علم ایس توہی اسہ خاموش
کر نہ خاطر پیش کر تہ بیکیوں؟) تہتہ کُرو سہ
سانہ خاطر پیش۔ توہی چھو نہ گمانہ ورا تہ کتہ چیز
پاروی کران تہ توہی چھو صرف اندازہ سہتی کتہ کران۔
تہ وں تمن (تہنہن بے عقل کتہ پتہ ونان) نہ اثر
کران واجہو دلیل پتہ اللہ (تعالیٰ) ہندی ہے
قبض منہ تہ ہر گاہ سہ پتہ ہے تہ توہی سارہ
دیہ ہو ہایت۔

قُلْ قَلِيلٌ مِّنَ الْحُجَّةِ الْبَالِغَةِ ۚ فَلَوْ شَاءَ
لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۵۳﴾

تہ وں تمن، نہ پتہ گواہ انیکو نادہتہ، ہم پہ
گواہی دن نہ اللہ (تعالیٰ) ہن چھ یہ (یعنی فلان
فلان) چیز حرام کوزت پتہ اگر تم تہتہ گواہی
دن تہ تمن سہتی رلیتہ، دن نہ تہ گواہی، تہ تمن
لوکن ہننن تھاپن ہنن پاروی تہ کُری نہ تہ، یو
سانی آہ ایزاو ہتی چھ تہ ہم لوکھ پتہ پتہ زانہن
دکھن، پٹھ اپمان چھنہ انان تہ ہم چھو تم پننن
پروردگار ہندی شرکپ (تہ) بناوان۔

قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ الَّذِينَ
يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا ۚ فَإِن
شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعِ
أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ الَّذِينَ
لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ۚ هُمْ يَدْرِبُهُمْ
يَخْرَدُونَ ﴿۵۴﴾

۵۴

قُلْ تَعَالَوْا آتِلْ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ
عَلَيْكُمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَ
بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا
أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ إِنَّكُمْ تَرُدُّوهُمْ
إِلَيْهَا هُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ
مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ
الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَضَعْتُ
بِهِ لَعْنَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۵۷﴾

تر و ان (تمن) ز رولو بر بوز ناوو توہم تہ پرتھہ یہ
تہندی برن توہم پیٹھ حرام کورنت چھہ (تند حکم
چھہ) ز توہی مہ کر لوین تس سستی کاہنہ شریک
تہ مابس ماجہ سستی کرو احسان تہ مابس سید تہ
کہ خوف کوز مہ کر لویکھ پنہر اولاد قتل۔ اسی چھو
توہم تہ رزق دوان تہ تمن تہ۔ بیہ مہ محترھو
بدرین (بکل) نزدیک۔ نہ بکو مشرتنمین (بدرین)
(تہ) نہ کھنٹھ (بدرین) بیہ یہ ز ر سہ زوئیس (قبل
کرن) اللہ (تعالے) ہن منع کورنت چھہ مہ کر لوین
(شرعیہ) کہ یا قولونہ کر (اجازت و رازی قتل اللہ
تعالے) چھہ امہ کتھ ہند توہم تاکیدی حکم دوان
یہ ز ن توہر (بدرین) بیٹھ روزو۔

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي
هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا
تُكَلِّفُوا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ
فَاعِدُوا لَهُمْ وَأَلْوَكَا نَ ذَا قُرْبَىٰ ذَوِّ عَهْدٍ
اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَضَعْتُ بِهِ لَعْنَكُمْ
تَذَكَّرُونَ ﴿۵۸﴾

بیہ (چھہ) اللہ تعالیٰ یہ حکم دوان (تہ) توہی مہ محترھو
تیبہ ہندیس ماس نزدیک بے احتیاطی سان یونام
نہ سہ جوانی واہر بیہ اسی انصاف سان مین تول پور
(پور) دوان۔ اسی جینہ کاہنہ شخصس تیبہ طاقتہ
کھوتہ چاد حکم دوان۔ بیہ (یہ) سیکہ توہی کاہنہ
کتھ، ووفو تہ انصافس ہنیو کھام او زن سہ شخصس
(سین متعلق کتھ و سہر آسہ امہر) پنہر آشناویہ
کونہ آسہ۔ تہ اللہ تعالیٰ سہ عہد (تہ) کرو پور
سہ چھو توہم امہ کتھ، ہند تاکیدی کر لوین نہ توہسہ
سپرو نصیحت مابس۔

وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ
وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ
سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَضَعْتُ بِهِ لَعْنَكُمْ
تَتَّقُونَ ﴿۵۹﴾

بیہ بچھ بے شک یہ میانی سیز و تھ، لہذا می و تہ
چکو تہ بین بین و تن پتہ مہ لگو تیبہ ہنو تم توہم
توتہر (یعنی خدا بر ستر) و تہ ہتہ اور پور (ڈالہتھ)
سہ چھو توہم امہ کتھ (کتھ) ہند او کوز تاکیدی کر لوین نہ
توہی سپرو تقویٰ پراون والی۔

ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَىٰ

بیہ سیکہ نیکی پراوہر چھہ، تس پیٹھ (نعت) پور

لہ کاہنہ شخصس چھہ ہر اجازت ز ر سہ نہر شرعیہ یا قولون پنہر شخصس مشرتہ مجرم قبل کرن چھہ ہر حکم سچ کھام۔

الَّذِينَ أَحْسَنَ وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَ
هَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّعَلَّاهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ
يُؤْمِنُونَ ﴿۱۹﴾

۱۹
۴

کرتہ، با پتہ تہ پیرتہ اکر کتھ ہنز و تیرھنے کرتہ
خاطر تہ ہدایت دہ تہ رحم کرتہ کر عترتہ اُس اسہ
موسیٰ ہس کتاب و تہ ہتر میتہ زن تم پسنس
پرور و گار ہندس طاقاس پیٹھ ایمان انہ ہن۔

وَ هَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ
فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا عِلَّالَكُمْ تَزَحْمُونَ ﴿۲۰﴾

بیہ یہ (قرآن) پتھ ترٹھ کتاب پیٹھ اسہ تانزل کر ہتر
چھیتہ (تہ یہ) چھیتہ برکتہ واجتہ، او کو کرہ اوج
پاروی تہ تقویٰ پراو میتہ توہر پیٹھ رحم کرتہ پیہ۔

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ إِلَهُكُمُ عَلَىٰ
طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا، وَإِنْ كُنَّا عَنْ
دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ ﴿۲۱﴾

(میتہ زن تہ سپرنہ) نہ توہر ڈونو (کتہ دہ ہہ) نہ
اسہ بروٹھ اُس صرف دہن بجا ترٹھ پیٹھ کتاب تانزل
کرتہ آہتر تہ اُس اُسی جنہ ہند پر نہ رشتہ پور قابل۔

أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ
لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ، فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ
مِّن رَّبِّكُمْ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً، فَمَنْ
أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَ
صَدَفَ عَنْهَا، سَنَجْزِي الَّذِينَ
يَصْدِفُونَ عَنَّا أَيْتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ
بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ﴿۲۲﴾

یا (پتھ کتہ ہہ) ڈونو نہ اگر اسہ پیٹھ کتاب تانزل کرتہ
پیہ سے تہ اُس لبر ہو یقینا تہ ہند کھوتہ جاد ہدایت
نی تو تہ ہندس پرور و گار سہ طرفہ چھیتہ توہر ہس
تخو ڈیل تہ ہدایت تہ رحمت آہتر۔ لہذا (یاد تقوو
نہ) نیجو اللہ (تعالیٰ) ہند کر آیہ اپراو تہ جنہ
(پیٹھ ایمان انہ) رشتہ روڈ پتہ۔ تہ ہد کھوتہ ظالم
کس اُسہ؟ اُسی دہو ضرور جنہ یکم سامن آمین
(پیٹھ ایمان انہ) رشتہ پتہ روزان چھ، تہ ہند
پتہ روزنہ موکھ کڈر عذابک سزا۔

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ
أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ،
يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ
نَفْسًا رَّيْمًا نَهَا كَمْ تَكُنْ أَمَدَتْ مِنْ
قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا، قُلِ
انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿۲۳﴾

تم چھ صرف اتھ کتھ پیارن نہ جنہ ہس یہ میں
ملایک یا پین جن پرور و گار یا پین چائس پرور و گار
ہند کر کینہ نشانہ۔ نیمہ دہ ہہ چائس پرور و گار ہند
کینہ نشانہ ظاہر سدن، کالنہ نفس نیجو تہ
بروٹھ ایمان اسہ نہ اونمت یا پسہ ایمانہ کر باعثہ
آسمن نہ رتر حاصل کورست (تہ دہ ہہ) دہ نہ ہند
ایمان انہ فایدہ۔ تہ وکتھ نہ توہر پیٹھ، اُس
تہ چھ یقینا پیارن۔

إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا بَيْنَهُمْ وَكَانُوا

یہو لکو جن دین چھلہ چھلہ کور تہ لوگہ لوگہ سپد

۱۹ یعنی یہودیہ نصاریٰ۔ یہ اوس مشرک ہند خیال و گرنہ انجیل چھہ شر پتہ کتاب

چون چھن بہن سوتو کاٹھہ تعلق، تہنہند معاملہ پچھ
 صرف اللہ (تعالیٰ) ہندس اتھس منز اچ سہ دیہ
 بہن جمع خبر یہ کثیرھا تم کران اسی۔

یوہی کر ہنڑ چھید تہہ (ہنگی ہند) کھوتہ آسہ تہنہند
 حق داہنہ گون۔ تہ یوہی کر ہنڑ چھید بہن پیہ
 صرف تہوتے سزا دہن تہ بہن پیہ پیہ نہ ظلم کرنہ۔

تہ ون بہن ر مینہ چھید میانی پروردگارن بے شک
 سیزوتہ کن رہی کر ہنڑ، تہنہند دپنہ کن یس
 گنہ، ہجر ورائی چھ۔ یعنی ابراہیم ہندس دپنہ
 کن یس پزرس پیہہ تقایم اوس تہ سہ اوس تہ مشرکو
 اندر۔

تہ ون بہن نہ میانی نماز تہ میانی قربانی تہ میانی
 نہنگی تہ بیون مران چھ اللہ (تعالیٰ) ہندی خاطر
 یس سارنہ عالمن ہند پروردگار چھ۔

(تہ) تس چھنہ کاٹھہ شریک تہ مینہ چھ امیک
 حکم دہنہ آنت تہ ہر چھس ساروہے منز گودھ ڈنیک
 فرما تہ دلر۔

تہ ون کیا ہر شہانہندا اللہ (تعالیٰ) ہس ورائی
 (کاٹھہ بیکہ) پروردگار ہندس حیثیتس منزہ بیلیہ
 زن سہ پرتھہ اکہ چھنہوج پرورش کرن دول چھ
 تہ پرتھہ کاٹھہ نفس یہ کثیرھا کماوان چھہ تمیک
 (وبال) چھہ تسو پیہہ پھوان تہ کاٹھہ بورسمن واجو
 (ہستی) بیکہ نہ دویمہ (ہستی) ہند بورسبتھہ پرتہ
 آسہ و توبہ پنسنس پروردگارن کنے پھسپرتھہ
 گرتھن۔ پرتہ دیوہ سہ توبہ تہ کتھہ ہنڑ خبریتھہ
 منز توہی اختلاف کران اسی و۔

تہ سہ چھہ تینو توہی دنیاہس منز (گودھنمکن لوکن
 ہندی) تقایم مقام بناو کہوتی چھو تہ توبہ منز چھن
 کیشنر کیشنر پیہہ او موکوہ درجن منز برتری دہن
 مشرانہ تمی یہ کثیرھا توبہ دیہنت چھو تھہ منز

شَبِيحًا كُنْتُمْ فِي شَيْءٍ مِّنْهُم فَاِذْ لَمَّا
 اَمَرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يَنْتَبِهْهُمْ بِمَا
 كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿۳۰﴾

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَلِهَا
 وَ مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى اِلَّا
 بِمِثْلِهَا وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿۳۱﴾

قُلْ اِنِّيْ هَدَيْتُ رَبِّيْ اِلَى صِرَاطٍ
 مُّسْتَقِيْمٍ ۚ دِيْنًا قَدِيْمًا قَدِ اِنَّزَلْنَاهُ
 حَيْثُ نَفَا ۚ وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿۳۲﴾


قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَ نُسُكِيْ وَ مَحْيَايَ وَ
 مَمَاتِيْ رِبُّوْنَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴿۳۳﴾

لَا شَرِيْكَ لَهٗ ۚ وَ بِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ
 الْمُسْلِمِيْنَ ﴿۳۴﴾

قُلْ اَعْبُدُوْا اللّٰهَ اَبْنِيْ رَبًّا وَ هُوَ رَبُّ كُلِّ
 شَيْءٍ ۚ وَ لَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْنَهَا
 وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى ۚ ثُمَّ اِلَىٰ
 رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ
 بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿۳۵﴾

وَ هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ
 رَاقِعًا بَعْضُكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ وَّ كَذٰلِكَ
 لِيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَا اَنْتُمْ اِلٰى رَبِّكُمْ
 سَرِيْعُ الْعَقَابِ ۚ وَاِنَّ لَكُمْ فُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۳۶﴾

کر تہنتر آزمائش - چائیس پروردگار سندر سزا چھ
 بے تنک جلد یوان تہ سہ چھ یقینا سہا بخش ہار
 تہ چھری چھری رحم کرن دول -



سورة اعراف ۱- یہ سورہ چھ گلی تہ بسم اللہ بہتہ چھ آتھ نہتہ تہ ستھ آتھ بیس چھس ترؤوہ کرؤاع۔

دہر چھیس (اللہ تعالیٰ) سندر تاو بہتہ (پرلن) یس
 حد رؤس کرم کرن دول (تہ) چھری چھری رحم کرن
 دول چھ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①

بہر چھس اللہ ساروہ کھوتہ جاہ زانن دول تہ پڑویر
 اکھ عظمتہ واجوز کتاب یوسہ تریہ کن تانزل کرنہ آہر
 چھینہ (تریہ چھتہ تہ یہ پاوہ بناوہ میتر) لہذا چائیس
 سپنس مہ سپرن امر کجہ کاٹھہ تنگی پاوہ (امر کجہ تانزل
 کرنک غرض چھ یہ نہ) تہ کر کجہ امر کجہ ذریعہ (ہزن
 واکر بیوہ والہ عذابہ لہتہ) ہشیار - بیس چھینہ یہ کتاب
 مؤمنین کرکھ اکھ یاد پاوان واجوز کتاب۔

الْمَصَّ ②

کِتٰبٌ اُنزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي
 صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَاذْكُرَ
 لِلْمُؤْمِنِيْنَ ③

اُسو چھ پین لوکن ومان نہ (کلام) توہہ کھ
 تہنتر پروردگار سندر طرفہ تانزل کرنہ آمت چھ پھ
 کرو پاروی - بیس تس (خدا یس) وراہی یکم (تہنتر
 خیالہ) بیس کار ساز چھ تہنتر پاروی مہ کرو، اماہ
 پوز توہہ چھو نہ کہنی لغت رٹمن۔

اَتَّبِعُوا مَّا اُنزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَ
 لَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءَ، قَلِيْلًا
 مَّا تَذَكَّرُوْنَ ④

بیس چھ واریاہ بستی ترشہ یکم اسہ ہلاک کر سون
 عذاب آو تمہن نش رات گیت سندر منتر یا نیلہ تم
 دوہرن آرام کران اوس۔

وَ كُمْ مِّنْ قَرِيْبَةٍ اٰهْلِكْنٰهَا فِجَاءَ هَا
 بِاَسْنَا بِيَاثًا اَوْ هُمْ قَاتِلُوْنَ ⑤

لہذا نیلہ تمہن نش سون عذاب آو تمہ وقتہ اوس
 تہنتر زینو پھتہ صرف یہ کتھ نہ اوس اوس یقینا ظالم۔

فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ اِذْ جَاءَهُمْ بِاَسْنَا
 اِلَّا اَنْ قَالُوْا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ⑥

فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَ
لَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ۝

او کوئی پرزہو اُسی ضرور (تمن لوکن تہ) یمن
کن رسول سوزنہ آہو اُسی تہ اُسی پرزہو رسولن تہ
ضرور۔

فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَ مَا كُنَّا
غَائِبِينَ ۝

پتہ کرو اُسی ضرور تمن بروٹھ کتہ پسنہ علمہ مطابق
حقیقت بیان تہ اُسی اُسی تہ نو منہ تمن لوکن نش
غائب (ہمیشہ اُسی تہندہ حالات و چھان)۔

وَ الْوِزْنَ يَوْمَئِذٍ بِالْحَقِّ ۚ فَمَنْ
تَقَلَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ۝

یہ تمہ (یعنی قیامتہ کر) وہہ چہ تمام اعلان ہند
قولن اکہ ثبات سپز مشر حقیقت۔ ہندہ وزن گوڑی
درائے تم لوکہ سپن باسرا (لوکن مشر شابل)۔

وَ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ
الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا
كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ۝

تہ پھندہ وزن لوتی درائے تہ (زبانو) پتہ لوکہ
چہ پسنہ زون ہندس معاملس مشر کاٹ لین
والی (تہ ہتو چہ پتہ زو گائس مشر تراوی ہتو) یہ
چہ او کوئی سپد ہت نہ تم اُسی سانہن آہن (ہندہ
معاملس) مشر ظلمس کام، ہوان۔

وَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ إِذْ
أَنزَلَ فِي سَمَوَاتٍ مَّاءً فَسَجَدَ لَهُ
أَلْوَانٌ ۝

یہ اوس اہہ توہہ زمپس مشر ضرور طاقت ہت
تہ آتہ مشر اُسی تہندہ خاطر (رنگہ رنگہ) روزگار کر
سامانہ مقرر کرے ہت۔ اما پوز توہی چھو تہ کہہ شکر
کران۔

وَ لَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا
لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا
إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ۝

یہ کرانیو اہہ توہی (گوڑی کچر واجہہ شکلہ مشر) پاد
تیمہ پتہ (تہندہ حالہ مطابق) توہہ صوڑر بخشا ویاو
پتہ ویاو ملائکین نہ آدمہ سوز اطاعت کرو اتھ پیچہ
ملائکو تہ کرانیہ (آدمہ سوز) اطاعت مگر ابلیس کر
نہ۔ سہ بنیو نہ اطاعت کرن والہ اندر۔

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۚ
قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۖ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ
وَ خَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ۝

(اتھ پیچہ) وون نس (خلاین) نہ میانہ حکمہ باوجود
کھو مقویاکہ تہ سبجہ کر نہ نشہ باز؟ توہہ ویت
جواب نہ ہر چھس اُہس (آدمہ سوز)
کھو تہرت۔ تہ چھتہ میانس فطرتس مشر
نار مقومت تہ تہدس فطرتس مشر چھتہ
اُدر میٹرہ ہند صفت تھومت۔

لہ تیمہ کھو کران اُدر میٹر پرچہ کانہہ شکلہ دتھ بانہ بناوان چہ۔ تہ پتھ پاٹھو چہ (جاری)

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ
تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ
الضَّالِّينَ ﴿۱۰﴾

(اللہ تعالیٰ ہن) فرمود (اگر یہ کتھ چھیتے تے) تہ
نیرے تیکر (جنت) منز تے کیا نہ چاڑے خاطر چھینے
مناسب نہ تہ ہیکھ اتھ منز تکبرس کام - بیعت نیر
تہ چھاکھ ذیل لوگو منز!

قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿۱۱﴾

تہ دون (اے میاں پروردگار) میں دیتھ دوہا
تام موہلت بیلتہ تم تھو تہنہ یں -

قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿۱۲﴾

(اللہ تعالیٰ ہن) دیت نس جواب تہ چھ (چاڑے
منگے مطابق) موہلت دنہ یوان -

قَالَ فِيمَا آغُوبْتَنِي لَا أَفْعَدَنَّ لَهُمْ
صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿۱۳﴾

تہ دون - ہیکیا تہ تہ چھتھس بہ ہلاک کوزت او
کوز بہہم بہ ہمن (انسان) ہند خاطر چاڑے
سیر و تہ پھ -

ثُمَّ لَا يَبْقَىٰ لَهُمْ مِنَ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَ
مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَن أَيْمَانِهِمْ وَ عَن
شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿۱۴﴾

پتہ ہیکہ بہ ہمن نش ہمن بڑو تھ کوز تہ ، تہ ہمن
تہ کوز تہ ، ہمن کھین کوز تہ ، تہ ہمن کھو و رک
کوز تہ (یہ تہ تم و رقلوگھ) تہ تہ لہ ہیکہ تہ ہمن
منز واریاہ شکرانہ کرن واکر -

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا لَمَنْ
تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمَلَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ
أَجْمَعِينَ ﴿۱۵﴾

(اللہ تعالیٰ ہن) فرموس ، نیہ جایہ نیر گرتھ!
چاڑے ہیہ ہمیشہ مذمت کرتے تہ تہ روزگھ درگاہ
منز کڈتھ تھنہ آمت - تم (تہ) ہیکو (انسانو)
منز چاڑے پاروی کرن (بہ چھس ہمن و نان نہ)
توہہ ساروہے ستو برن بہ جہنم -

وَيَا دَا مَ اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ
فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَ لَا تَقْرَبَا هَذِهِ
الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۶﴾

یہ اے آدم! (بہ چھ تہ و نان نہ) تہ تہ
ہون ستی بوج رُووہ جنس منز او بیتن توہر
نیشہو ، کھینو (تہ چینیو) تہ یہ (منع کرے آہس)
کھس نش کڑی نہ تہ ، تہ ہنو توہی فاکو اندر -
اتھ پھ ترو شیطان ہمن (دوونی آدمس تہ تہنہس

فَوْشَوْسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا

بقیہ حاشیہ:۔ ادر نیشہ ہنز فطرت تھون وول انسان پر تھہ قسمی اخلق، نیچتھ ہیکان - تہاری

فطرت وول ہیکہ نہ کابھی ماتحت رُوہ تھ -

نہ یعنی تہنہ رُوہانی سیدارس تام د میںہ موہلت -

نہ اتھ کھس چھ مراد تم ایو منز کثیر و کاموش آدمس تہ تہنہ ذر تہ مع کرنہ آمت اوس -

وَرِيَّ عَنْهُمَا مِنْ سَوَاتِرِهِمَا وَقَالَ مَا
نَهَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ⑩

سوتو با جس دلس (منتر وسواس میتہ تر یہ کیشترھا
تہندو بلو عالیو منتر بہمن ہشتہ کھٹتہ تھونہ آمت اوس
سہ کرہے نون۔ تہ وون نکہ پیہہ کلہ ہنش پتھ
تہندی پروردگارن توہد صرف اہو سوکھ منع کوزمت
ز میتہ توہی دونوسے بونہ ملایک، یا توہر دونوسے
ہونہ ہمیشہ زندگی۔

وَقَاسَمَهُمَا إِيَّانِي لَكُمْ مِنَ النَّصِيحِينَ ⑪

یہ وون (شیطان) بہمن قسم کرر کرر نہ بہ چھس
توہد دونونی کیبت رت کا پتھ ون۔

فَدَلَّيْهُمَا بِخُرُوبِهِ فَلَمَّآ ذَاقَا الشَّجَرَةَ
بَدَّثَا لَهُمَا سَوَاءً لَّهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ
عَلَيْهِمَا مِنْ دَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا
رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ
وَأَقْبَلْ لَكُمْ آتِ الشَّيْطَانِ لَكُمْ عَدُوًّا
مُبِينًا ⑫

پتہ کرن تم دونوسے فریب دتھ پنتہ مقامہ ہشتہ
دور۔ اہ پیہہ، تم دونوسے وے اہر (ٹھک کررہ
آمتہ) کلہ پیہہ کیشترھا ترہتہ نیو تہ تہندو بلو عالیو
(منتر یہ کھٹتہ اوس تھ) گولو بہمن پیہہ نسیر تہ
تم لگو جننتہ کر پارا وک سامانہ پانس ولنتہ تہ بہمن
دونونی کوز تہندی پروردگارن آلو (تہ وون نکہ)
کیا میتہ اوسونا توہد دونونی اہر کلہ ہشتہ ٹھاک
کوزمت تہ یہ اوسونا وونمت نہ شیطان چھو توہد
دونونی ہند دشمن؟

فَالَا رَيْبًا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ
لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ⑬

تمو دونوسے وے وون۔ اے سانہ پروردگار! اہر
کوز پنتہن نون پیہہ ظلم تہ اگر تہ اہر بخنکھ نہ
تہ اہر پیہہ رحم کرکھ نہ تیلر سپو اسی توہد قصان
سکن والیو اندہ۔

قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ
لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُشْتَقِرٌّ وَمَتَّاعٌ إِلَى
حِينٍ ⑭

فرمون یعنی اللہ تعالیٰ بہن) توہی بہو کلہم میتہ
توہد منتر سپدن کیبتہ کیشترن ہندی دشمن تہ تہندہ خاطر
اہر ہیتھو ز سپنس منتر روزن جاے تہ کیشترس
کالس تام آسہ و فایدہ سکن (مقدر)۔

قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَ
مِنْهَا تُخْرَجُونَ ⑮

پتہ فرمون نکہ ہیتھو ز سپنس منتر روزو توہی زندگی تہ
ہیتھو منتر مسرو تہ اسی اندہ بیو توہی کد تہ سہ

۹

لہ یعنی تم لگو توہد تہ استغفار کررہ۔

لہ امر آہ تہلہ چھو ہنابت نہ کانہہ انسان ہیکر نہ زہدیتہ نمبر نہر تھہ آسمانس پیہہ گزشتہ۔ تہ پتھ پتھ
خلفی سان حضرت عیسیٰ علیہ السلام تہ حضرت ادیس علیہ السلام ہس متعلق خیال کررہ یوان چھ۔

لَبِئْسَ مَا آتَا رَبِّي سَوَآتِكُمْ وَرِيشَاءَ وَ
لِبَاسِ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ
مِن آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿۱۰﴾

لَبِئْسَ مَا آتَاكُمْ لَا يَفْتِنَكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا
أَخْرَجَ أَبْوَابَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ
عَنكُمْ لِبَاسَهُمْ لِيُرِيَهُمْ مَا سَوَّاهُ لَكُمْ
إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ
لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطَانَ
أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۰﴾

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا
عَلَيْهَا آيَاتِنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ
اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ اتَّقُوا اللَّهَ عَلَى
اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۱﴾

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا
وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ هَٰذَا كَمَا بَدَأَكُمْ
تَعُودُونَ ﴿۱۲﴾

فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ
الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيْطَانَ
أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ
أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿۱۳﴾

اے آدم، شدو اولادو! اسر چھ توہر کیت اکھ
بتیتھ لباس پاؤ کورمت یس نہنزن کھنڈھ تھان
واجنبن جان کھان چھہ بیہ چھہ پاراو (کرنگ
موجب تر) تر تقویٰ کب لباس (تر) چھہ سارو
کھوتہ بہتر لباس۔ یہ (لباس حکم) چھہ اللہ
(تعالیٰ) سندو محکو اندر تیتھ توہر نفیحت ہو۔

اے آدم، شدو گوہرو! تیتھہ توہر خیران (اللہ تعالیٰ)
سبز و تریش (ڈالو)؛ تیتھہ تھی تہنڈ مول روج
جنہ تر منز کجایہ۔ تمہن دونو نیو تھی تہنڈ پوتک
تھیہ۔ تیتھہ زن، تمہن نش تہنڈ کھنڈھ تھان
والو چہر تھی راوہے۔ سہ تر تہنڈ قیلہ چھو توہر
تتر پیٹھ دھیان، سیتہ پیٹھ توہر تم دھیان
چھو کہ نہ۔ اسر چھہ شیطان کافر ہندی دوست
بتاؤ تھی۔

بیہ نیلہ تم (کافر) کانہہ چھہ کام کران چھہ تر
ذنان چھہ (نہ) اسر اسی بیڑ جد اجداد اٹھو
پیٹھ لگو تھی تر اللہ (تعالیٰ) ہن چھہ اسر اہر
کے حکم دیت مت، تر دیکھ اللہ (تعالیٰ) چھہ
زاہ کچھ کھن ہنڈ حکم دوان۔ توہر چھو اللہ
(تعالیٰ) ہس متعلق تمہ کتھہ انڈر پاٹھو ذنان کبہ
توہر زانان چھو تھی۔

تر دیکھہ میڈا ربین چھہ میںہ انصانک حکم دیت مت
بیہ یہ نہر پرتھہ مسہر نش اوسو پین توہر درست
کران تر اللہ (تعالیٰ) سبز عبادت تہنڈے حق قرار
دوان اوسو تھی آلو کران۔ تیتھہ پاٹھو تھی توہر دس
تہمت اوسو، بیہ چھہ توہر اکہ دوہر تھی حاس کھن۔
اُبس قرعین دیت تھی ہدیت مگر بیکہ اکھ فریق چھہ،
تیتھہ پیٹھ مٹھی و اُجب کام ہتر چھہ (یعنی سہ چھہ
مٹھی ہی ہنڈ مقدار سپر تھی مت)، تمہو چھہ اللہ (تعالیٰ)
تراوتھہ شیطان پتو دوست بتاؤ تھی تر تم بیہ

يَبْنِيْ اٰدَمَ خُدُوًا زَيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿۳۶﴾

خیال کران نہ تو چھ ہدایت لو بہت۔
اے آدم ہندو نیچو! پرستہ مسجد تزدیک آسو
پاروہ (کرنگو سامانہ) پانٹوان بیہ کھینو تہ چیلو
اما پوز اسراف مہ کرو۔ بیکیانہ سہ (اللہ تعالیٰ)
چھہ مصرفن پسند کران۔

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اُخْرَجَ لِحِبَابِكُمْ ۗ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۗ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ كَذٰلِكَ نَفْصَلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ﴿۳۷﴾

تر وکھہ نہ اللہ (تعالیٰ) سندیہ پاروہ میں تمکو
پستین بدن ہند خاطر کوڑمت چھہ، کھو چھہ
حرام کوڑمت؛ یتھہ پاٹھو رزقہ منز پاک پاکیزہ
چیز تہ (کھو چھہ حرام کرے ہوتی)۔ تر وکھہ یم
(پاک چیز) چھہ (دراصل) یتھہ دنیاہس منز
(تہ) ملوہن ہوتی تہ قیامتہ دوہہ آسن صرف
یہنہ اوت ہوتی۔ یتھہ پاٹھو چھہ اسی پتہ نشانہ
علمہ والہن لوکن ہند خاطر داش کدہتہ بیان
کران۔

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَا مَا بَطَّنَ وَا الْاِثْمَ وَا الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَا اَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَا اَنْ تَقُوْلُوْا عَلٰى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۷﴾

تر وکھہ میانی ہرور دھکارن چھہ صرف بد اعمال
اد تہ تھو آسن یا کھیتہ آسن، تہ گوناہ تہ نا سچ
سرکش، حرام کر ہتہ۔ بیہ یہ کہتہ نہ توہی ٹھہراویون
کانہہ بیٹھہ و بورد اللہ (تعالیٰ) ہس سہتی شریک
ہتھو ہند با ہتھہ تمکو (یعنی اللہ تعالیٰ ہن) کانہہ
ڈپل آسہ نہ نازل کر ہتہ، بیہ یہ کہتہ تہ (جین
حرام قرار ڈر ہتہ) نہ توہی لاگو اللہ (تعالیٰ)
ہس پچھہ تڑھہ ایڑہ انٹہ یمہ توہی زانانے چھوہ۔
بیہ چھہ پرستہ قومہ با ہتھہ (اند وانگ) اکھ وقت
گنہتہ۔ اہ کوہی میلہ ہتھہ (اند وانگ) وقت
واتہ تہ تم نہ ہین تہ ہتھہ اکھ ساعت ہتھہ
روزتہ تہ نہ ہین (اکھ ساعت) ہر ونٹہ ہتھہ۔

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ۗ فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَفِدُّوْنَ ﴿۳۸﴾

اے آدم ہندو فرزندو! یو دوسے تو ہریش توہم
منہر پیغمبر بناوتھہ سوزنہ ہن، ہتھہ پاٹھو نہ تم آسن

يَبْنِيْٓ اٰدَمَ اِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَفْقَهُوْنَ عَلٰىكُمْ اٰيٰتِيْٓ ۗ فَمَنْ اٰتٰقَ وَا

۷ یعنی پاکیزہ دل تہ ہریم ہتھہ تہ پاکیزہ شک لاگتہ آسو مشہدن منز اڑان۔

أَصْلَحَ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزُونُ ﴿۳۹﴾

تو بہ برونیٹھ کتہ میاں فی آیہ پڑھتہ بوزر ناوان تہ بیم لوکھ تقویٰ پراون تہ اصلاح کرن ، تمن آسہ نہ (آئینہ با پتھ) کتہ قبیمک خوف تہ نہ آسن تم (پتہ نہ کتہ پتھ) عملین ۔

وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۴۰﴾

بیہ تم لوکھ بیم سائین آین انکار کران چھ تہ بیہ چھ تکبر کرتہ تمونہ نہ روہ گردانی کران ، تم چھ جہنمی ۔ تم روزن تھہ (جہنمس) منفر ایس ز پتھس مدرس نام پتھہ ۔

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۗ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ الْعَذَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَدْعُوهُمْ أَن قَالُوا آيِنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ۗ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿۴۱﴾

لہذا (وہی تو ز) تہ نہ کھوتہ ظالم کس ہیکہ آسہہ یس اللہ (تعالیٰ) ہس پتھہ اپز (وہتہ) افترا کران آسہ ؟ یا ہیکہ اللہ (تعالیٰ) ہندو آیہ اپز اوک ہتو آسن ؟ تمن لوکن روز مقرر کرکڑ مہ سزاہہ منفر پتھ حصہ واتن ۔ یوت تام ز ہیکہ تمن بش سانی ملایک زو کڈنہ موکھ واتن تہ تم ونکھ زہ تم (شریک) کتہ چھو مین توہی اللہ (تعالیٰ) ہس وراہی آلو کران آسہ ؟ تمہ وقتہ دن بیم لوکھ جواب نہ ، تم گے اسہ بش غاب تہ تم دن پتھس پانس پتھہ پانس شہادت زہ تم آسہ انکار کرن لوہن منفر شابل ۔

قَالَ إِذْ خُلُوا فِي آمَةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِبِّ وَالْأَنْبِيسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّىٰ إِذَا دَاكُرُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولِهِمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَصَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ۗ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٍ وَلَكِن لَّا تَعْلَمُونَ ﴿۴۲﴾

ادونہ (تمن اللہ تعالیٰ) گتھو ! گتھتھ ٹر لو جہنم کس نارس منفر تمن امن سوتی بیم توہہ برونیٹھ چنو تہ انسانو منفر گڈرے منفر چھیدہ ۔ ہیکہ کاتہ ہتہ (نارس منفر) داہل سپر تہ (پانس برونیٹھ) ہیکہ (ہیکہ جٹاٹ) کرہعت ۔ یوت تام ز ہیکہ ساری اتھ (نارس) منفر داہل سپر تھ موکھ تہ یو منفر پتھہ (داہل سپرن واجو جماعت) ونہ پانس برونیٹھ میرا جٹاٹ متعلق ۔ اے سائہ پروردگار ! یو لوکو کرکڑ آسہ گمراہ لہذا ڈرہ مین جہنمس منفر کہو یا گمراہ جاد عذاب ۔ (اتھ پتھہ) فرماو اللہ تعالیٰ سارہ نہ چھ جاد عذاب میلان مگر توہی چھو نہ زانان ۔

وَقَالَتْ أُولَهُنَّ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿۵۱﴾

﴿۵۱﴾

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُلَاجِعَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ۚ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴿۵۲﴾

لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۚ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿۵۳﴾

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا وِزْرًا وَلَا وُجْهًا وَلَا أَوْتًا وَلَا حَبْرًا ۚ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۵۴﴾

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَيْلٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ أَنْ تَرَوْهُمُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ۚ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلًا بِآيَاتِنَا بِالْحَقِّ ۚ وَنُودُوا أَنْ يَتَّبِعُوا آلَ الْإِنشَاءِ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ حِبْطٌ ۚ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴿۵۵﴾

﴿۵۵﴾

تہ (اتھ پیٹھ) ورنہ تو مشر کو ٹونیک قوم پانس پستہ
سینہ واپس توںس، توہیہ اسی نہ اسہ پیٹھ کاٹھہ بڑی
(نہ توہیہ گرتھہ و کم عذاب دینہ یں) لہذا تہ ہونہ پونہ
اعمالو کون عذاب۔

تم لوگ یوں سناؤ آپ اپنا اور میرا چھو تو کبر کرتے
پھکھہ توہیہ رومے گردانی کر مہتر۔ تہنہ باہتہ
سین نہ آساہکی دروازہ میلیہ تراونہ تو تم سپدن نہ
جنس اندر داخل۔ یوت تام نہ وونٹ اثر
سہتر نہ پاوی کہنے۔ تہ اسی چہ مجھ میں یہ تھے
پانچویں جزا دوں۔

(تہ) تہنہ باہتہ اسیہ و تھرن تہ جہنہ تہ تہن پیٹھ
اسن وونٹ تہ امی (جہنہ) مشر۔ تہ یہ تھے پانچویں
چہ اسی خط من جزا دوں۔

بسے یوں لوگو ایمان اون تہ یونیک عملہ کر مشر چھینہ
(تہن روزن یاد نہ) اسی چھینہ کوہ زوس پیٹھ تہنہ
ہیکہ کھوتہ چاد ذہر واری تراون۔ تم لوگ، چہ جہنہ
(یعنے جنس گرتھن واری) تھہ مشر گرتھن تم ہمیشہ
روزان۔

تہ اسی نمو تو جنس تو ہندو بسینو مشر الگ الگ ہند
حقہ سورے حد تہ کدورت گرتھہ تہ نہر اس تہنہ
قبض تہ اختیار تل لہ یکان تہ تم ون سارہ
تقرض ہند حقدار چھ اللہ (تعالی) ہے۔ سیکو
اسہ ایچ (یعنے جہنہ) و تھہ ماوتہ اگر اللہ (تعالی)
اسہ ایچ (تہ ہاوس نہ اسی ہیکہ ہونہ نہ ہے
تہ ایچ) و تھہ لبتہ۔ سانس رہہ ہندہ پیغمبر
اُسی بے شک پوز ہتھہ اسہ نش آہتر۔ تہ تہن

۱۔ یعنی تہنہ جنس مشر داخل پہلن بسے نا ممکن ہونہ۔ الا تم پیٹھ کر اللہ (تعالی) رحم۔
۲۔ یہ اسی بے تل چہ ثابت سپدن نہ قرآن کریم مشر میں آہن مشر جنس متعلق تجری میں تھہ انڈھار
یوان چہ تہہ چہ یہی مطلب نہ تم نہر اس جنس میں ہندس اختیار تل۔

پیسہ تمہارے ہاتھ پہنچے تو تم نے یہ پچھلے سے جنت نیکی تو ہے
 وگرت پچھو بناؤ تو آؤ جو اعمال کو کچھ تو ہے
 بجا ان اسوؤ -

تو جنتی لوگ دن جہنمیں آلو تو تنکھ اسے سہو لیں
 و عدسے انی پروردگار کو کورمت اوس سہو لوب
 اسے پوز - کیا تو ہے تہ پچھو اسے و عدسے تہندکر
 پروردگار کو تہ پچھو کورمت اوس پوز
 لوبت - اتمہ پیٹھ و ن (جہنمی) اوہ (اوہ)
 اتی دیہ اکھ اعلان کرن و لا تم در میان زور کرکچہ
 (تہ و ن) نہ بین ظالم پیٹھ اس خدایہ ہنزلقت
 یم (لوکن) اللہ (تعالیٰ) سہو و تہ نشہ پچھ رمان
 اسے تہ اتھ و تہ اندر اسے سہو ترھا نڈان تہ سہو
 اسے تم پتہ پتہ و اجبہ (زندگی) نشہ منکر -

تہ بین دہ لونی (یعنی جنتیں تہ جہنمیں) منز اسے
 اکھ ٹھور تہ اعراض پیٹھ اس کینہہ لوگہ یم سارہ
 تہندبو جہنم ہندبو نشاوتلہ اس پر پرناوان
 تہ تم کرن جنتیں (و پچھتہ) آلو تہ و تنکھ تو ہے
 پیٹھ اس سلامتی - تم (یعنی مخاطب جنتی) اس پ
 و تہ جنتس منز و اہل سپرک ہو - مگر جنتس منز
 مرہ صنگ (تو تہ اس ضرور تھاوان -
 تہ پیلہ تم (جنتیں) ہنر نظر جہنمیں کن پچھناوہ
 ین تہ تم و ن اسے سارہ پروردگار! اسے متہ بناوہ
 تہ ظالم قومہ منتر -
 تہ اعراض و آل لوگہ و ن کینہہ (جہنمی) لوکن بین
 تم تہندبو جہنم ہندبو نشاوتلہ پر پرناوان اسے
 نہ و اتنوو و تو ہے تہندکر تعدادن کا تہ فایدہ تہ نہ
 تہندبو (تو دعویٰ ہو) جہنمیں ڈاکھس پیٹھ تو ہے
 منکر کران اسوؤ -

وَ تَادَىٰ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ
 أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا
 فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا
 قَالُوا نَعَمْ فَإِنَّ أُولَٰئِكَ بَيْنَهُمْ
 لَغَنَّةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿۷﴾

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ
 يَبْغُونَ نَهَا عِوَجًا وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ
 كَفِرُونَ ﴿۸﴾

وَ بَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَ عَلَى الْأَعْرَافِ
 رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَتِهِمْ ۚ وَ تَادَىٰ
 أَصْحَابِ الْجَنَّةِ أَن سَلَّمَ عَلَيْكُمْ ۚ لَمْ
 يَدْخُلُوها وَ هُمْ يَطْمَحُونَ ﴿۹﴾

وَ إِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ
 النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مِمَّنْ أَلْفَمُوا
 الظَّالِمِينَ ﴿۱۰﴾

وَ تَادَىٰ أَصْحَابِ الْأَعْرَافِ رِجَالًا
 يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَتِهِمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ
 عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَ مَا كُنْتُمْ
 تَشْتَكِبُونَ ﴿۱۱﴾

أَهْوَأَ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ
اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ
عَلَيْكُمْ وَلَا أُنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿۵﴾

(پتہ و ن جنتین کن اشارہ دیکھ جہنمیں کیا ہم چھا
تے لوگہ یمن متعلق توہی قسم کرکے و نان اسی
و نہ اللہ تعالیٰ) کر نہ زہیے یمن سیدو جنتک
معاہدہ؟ (پتہ فراو اللہ تعالیٰ) یمن جنتی لوکن
یم جنتس اثر نہ با پتہ پیار و ن استاد آسن نہ (گروہ
توہی اترو جنتس منتر! تے تہ آسرو توہی
(آیندس متعلق) کا نہ خوف تہ نہ کردو توہی گذرے
متہ نہ تک کا نہ واقعہ دل ملول۔

و تَادَىٰ أَصْحَابِ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ
أَنْ أَيْضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا
رَزَقَكُمُ اللَّهُ، قَالُوا لَئِن لَّا اللَّهُ حَرَمَ مَهْمَا
عَلَى الْكُفْرَيْنِ ﴿۱۱﴾

تہ جہنمی لوگہ و ن جنتین کن مخاطب سپدہ نہ اسہ
کن تہ سوزی تو تریشہ و اما۔ بیہ یہ کیشہا توہی
اللہ تعالیٰ) یمن دیتت چھو تہ منتر دیتو اسہ تہ
کیشہا اتھ پیٹہ و ن جنتی اللہ تعالیٰ) یمن بھہ
یم دو نو سے چیز کافر ن پیٹہ حرام کرکے ہوتے۔

الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَ لَعِبًا وَ
غَرَّ ثَهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، قَالِيَوْمَ
نُنسِفُهُمْ كَمَا نُسِفُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ
هَذَا، وَ مَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿۱۱﴾

(تہم کافر) یکو بین و ن اُن تہ گدن بنوومت
اوس تہ دنیاوی زندگی اسی تم دوکس منتر تراوے
تھاوی ہوتے۔ لہذا (اللہ تعالیٰ) جہ تہن و نان)
نہ اسی تہ تراوے تم از کہ وہ ہتھے پاٹھی پتہ
پاٹھی۔ توہی نہ وہ کہ سمکٹ (خیل) بلکل
تراوے تہمت اوس۔ بیہ اسہ باعث نہ تم اسی
سائین آین داد کرکے انکار کران۔

وَ لَقَدْ جِئْنَهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ
عِلْمِ هُدًى وَ رَحْمَةٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۳۴﴾

بیہ چھو اسہ یمن اکھ سبھا عظمہ واضح کتاب در ہنتر
یوہی اسہ علم کس دوکس پیٹہ و اش کرکے بیان کرکے
چھینے (اتھ سانس منتر نہ) سو چھینے کوہن کوہن ہنتر
خاطر ہایت تہ رحمت۔

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ، يَوْمَ
يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ
مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَ شَرُّهُمُ بِرَبِّنَا بِالْحَقِّ،
فَهَلْ لَنَا مِنْ شَفَعَاءٍ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ
نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، قَدْ
خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مَنَّا

کیا ہم لوگہ چھا ان، نتیجہ کتاب ہنتر (پیٹہ کرکے و ن
منتر کتھن ہنتر) حقیقتہ (ہندس ظاہر سپدس)
پہلان؟ نتیجہ وہہ اسچ حقیقت واضح سپد
ہم لوگہ یو (اسہ) برزخہ یہ تراوے ہنتر اوس، و ن،
سائس رہہ ہندس پیغیر یہ و نان اسی تہ اسی یوز
و نان۔ لہذا کیا سانی چھا کیشہ سفارش کرن والی

كَانُوا يَفْتَكِرُونَ ﴿۷﴾

۱۳

یہ ساری سفارش کرن؛ یا (یہ چھ ممکن نہ) اسی
 کیو بیہ دنیا میں کن پھیلتے ہنہ؟ تہ اسی یہ
 کینترھا (بد) عمل کران اسی تمہ بدل ہمو دویمہ
 (نیک) عملہ کرتہ۔ تم لوگھ (بہند پیٹھ کتہ ذکر
 سڈرت چھ) چھ یقینا خسار تل گامو۔ (تہ پتہ
 زو تہ چھ ہمو خسار مشر تراور ہتر) تہ یک کتہ
 تم پنہ دلہ بناوتھ وناں اسی، راو (یقینا) تمن (از)۔

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا ۚ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۷﴾

تہند پرورگار چھ یقینا اللہ (تعالیٰ) نیمو آسمان
 تہ زمین شین وقلن مشر پاد کرک ہتر چھ۔ پتہ
 (یہ کرکھ) سڈسہ سفیلو سان (حکو متہ کس)
 تخمس پیٹھ تہ ایم۔ سہ چھ راژ دوہس پیٹھ ولان
 یوسہ تھ جلدی سان رٹو بیٹھان چھیلہ بیہ
 آفتاب، تہ زون تہ تارکھ چھ تہو تھہ پاتھو
 پاد کرک ہتر تہ تم چھ ساری تہندس حکمس تل
 (کتہ تنخواہ ورازی انسانہ ہتر) کامہ کران۔ بوڑوا
 پاد کران تہ چھ تہنہ سہ کام تہ قولون بناون تہ
 (چھ تہنہ سہ کام) اللہ (تعالیٰ) چھ سہا برکرتہ
 دول یس سارہنے عالمن ہند رہین وول چھ۔

أذعوار بکھ تضرعاً و حفيظة إائه لا
 يحب المعتدين ﴿۷﴾

تو ہمو سٹگو دعا پستنس پروردگارس زاری سان
 تہ تہ ترھو پر ترھو پایہ پاتھو تہ۔ بلا شک سہ
 چھنہ حد نمبر تیرن والہن پسند کران۔
 بیہ سہ کرور زمینس مشر تھہ اصلاح (سپنہ) پتہ
 فساد تہ تس (خالیس) سٹگو کھوژر کھوژر تہ طلوع
 سان۔ اللہ (تعالیٰ) ہنہ رحمت چھ یقینا محبتان
 نزدیک۔

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا
 وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ
 اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۷﴾

لہ یعنی نظام شمسی چھ تھہ سٹو پکان بوڑہ یون نہ زن چھ آفتاب زونہ تہ زون آفتاب
 رٹوہ خا طہر اکھ اکس پتہ تیز رفتاری سان دولان نیو کس نتیجہ مشر دوہ تہ رات
 پاد سڈان چھ۔
 لہ سخر امیک معنی گوو کلفہ عملاً بلا اجرتہ یعنی تنخواہ یا وظیفہ بگار کام کرنی (اقرب)

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بَشِيرًا أَبْرَارٍ
يَدْعُو رَحْمَتِهِمْ، حَتَّىٰ إِذَا أَكَلْتُمْ سَحَابًا
ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا
بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ تَحْتِ
الْأَشْجَارِ، كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۵۰﴾

میرے چھٹے سے یس ہوا میں پنہنہ رحمتہ بروٹھ نہو شجر
دہنہ خاطر سوزان چھہ توت نام نہ میلہ تم (روڈ سوتی)
گلوب اوڑ ستان چھہ۔ اسی چھہ تھہ ہکھہ دتھہ اکیس
مورہ نکس کن پکناوان پتہ چھہ تمہ اندر اسی آب
والان، پتہ چھہ اسی تمہ آب سوتی پرتھہ تھہ کہو مسیوم
پاؤ کران۔ یتھہ کتھ چھہ اسی مورہ کڈان یتھہ
زن توہی نصیحت کرلو۔

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ
رَبِّهِ، وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا
نَجَسًا، كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَشْكُرُونَ ﴿۵۱﴾

تہ رت ملک (تیلج زمین رڈ آب تہ) تمیک وڈپلو
چھہ تہندس پروردگار ہند حکمہ سوتی نیوان، تہ سہ
ملک، تیلج زمین خراب آب تمیک پیداوار چھہ رڈی
نیوان پتھہ پاٹھو چھہ اسی شکر گزار قومہ با پتھہ پیڑنہ
بتانہ واش کڈتھہ بیان کران۔

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ
يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ
غَيْرُهُ، إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ
يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۵۲﴾

اسی چھہ نوح ضرور رسول بناوتھہ تہندس قومس کن
سوزمت اد (تیلج سہ تمن بش او تہ) وونکھہ
اے میانہ قومہ! کہو لوگو، اللہ (تعالیٰ) ہنر
عبادت کرو، اس سوا چھہ تہند کا نہہ معبود۔ یہ
چھس توہہ پیٹھہ بڑ دہک عذاب تازل سڈس
کھوڑان۔

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ
فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۵۳﴾
قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَا كِرِّي
رَسُولٌ مِنَ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۵۴﴾

تہند قومہ کہو زٹھو زٹھو وون، ہتسہ! اسی
چھتھہ تہ نہہ وانہ گمراہی منز (ہنہ آمت) وچھان۔
اتھ پیٹھہ وون قومہ (نوحن) اے میانہ قومہ!
میدہ منز تہ کا نہہ گمراہی (ہنر کتھہ) چھہ لبہ لیوان
بلکہ چھس بہ تمام عالمن ہندس پروردگار سوتہ
طرفہ رسول (بنہ آمت)۔

أَتَلْعَلَّكُمْ رَسَلْتُ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ
وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۵۵﴾

تہ توہہ چھسو پتھس پروردگار ہنر شنیچھہ
واتساوان تہ قومہ کہیت چھس رت کا پھان تہ
اللہ (تعالیٰ) ہندہ دہ مہہ علمہ سوتی چھس تہ
کہنہ زانان یہ نہ توہی زانان چھو۔

أَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَ كُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ
عَلَىٰ رَجُلٍ مِثْلِكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَ

کیا توہی چھوا اتھ کتھہ پیٹھہ تعجب کران نہ توہہ
بش چھہ تہندس پروردگار ہندہ طرفہ توہی منز

لَتَتَّقُوا ۗ وَاللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ ﴿۳۱﴾

اگس فردس پیٹھ اگھ نصیحت بوڑت کلام نازل
تہندت تہہ زن سہ توہہ ہشیر کرک و۔ تہ تہتہ توہہ
متقی بنو تہ تہہ کسو بیہ توہہ پیٹھ رحم کرتہ ؟
(اما پوز) تو کوڑ پتہ (تہ) تہند انکار، اڈ اسہ بیت
تس تہ تہندین سہو باجن اگہ ناو ہندہ ذریعہ نجات
تہ اسہ بھاشاوی تم لوگھ (اگس) بکو سامین آین
انکار کرایو۔ تم اسی اگھ اؤن توہ۔

فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ
فِي الْفُلِكِ وَاعْرَفْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ﴿۳۲﴾

بیہ سوزلو یقینا اسہ (توہم) عاوس کن تہندہ بوہ
ہوڈ (رسول بناوتہ)۔ تم وون، اے میانہ قومہ اگہ
لوگو! اللہ (تعالیٰ) ستر عبادت کرو۔ تس ہوا
تہندہ تہندہ بیہ کاتہہ معبود، اڈ توہہ چھونا تقویٰ
پراوان ؟

وَإِلَىٰ عَادٍ آخَاهُمْ هُودًا قَالَ يُقَوْمِ
اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهِ
غَيْرُهُ ۗ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۳۳﴾

(تہہ وقتہ) وون تہندہ قومہ کو کا فر سردارو (اے ہوڈ!)
اسی چھتہ تہہ شک بے وقوفی مشر (ہینہ آنت)
لبان۔ بیہ چھتہ تہہ اسی یقینا اڈ یار لو اندر زمانان۔
تہہ (یعنی ہون،) وونکھ۔ اے میانہ قومہ (کسو
لوگو!) میانہ مشر چھتہ بے وقوفی ہنر کاتہہ تہہ کتہ
(ہینہ یوان)۔ مگر (بہ چھ ضرور نہ) بیہ چھس سارہ
عالم ہندس پروردگار ہند طرفہ رسول۔

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ
إِنَّا نَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ ۖ وَإِنَّا لَنَنظُنُّكَ
مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿۳۴﴾

توہہ چھسوہ پنس پروردگار سہ پیغام واتناوان
تہہ بیہ چھس تہندرت کا پتہ وون (تہہ) امانت دار۔
کیا توہہ چھو یہ عجیب زمانان نہ توہہ مشر چھیدہ اگس
شخص پیٹھ تہندس پروردگار ہند طرفہ نصیحت کتہ
نازل سہر مشر؟ تہتہ زن سہ توہہ پیٹھ وار عذاب
ہشہ ہشیر کرک و۔ بیہ پادو یاد یلہ تہہ (خلین)
توہہ نوحہ ہند قومہ پتہ (تہندس) جانشین بناور
نو تہہ تہندہ جسم ہون سہا دورہ۔ اڈ کسو کرک اللہ

قَالَ يُقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ ۚ لَكِنِّي
رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۳۵﴾

أَبْلَعُكُمْ رَسُولِ رَبِّي ۖ وَإِنَّا لَكُم نَاصِحٌ
أَمِينٌ ﴿۳۶﴾

أَوْعَجَّيْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ
رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ، وَإِذْ كُرُوا إِذْ
جَعَلَكُمْ خُلَفَاءً مِّن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ ۚ
زَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَضْطَةً ۚ فَادْكُرُوا
إِلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۳۷﴾

(تعالیٰ) ہنترِ نعمتِ یادِ میتھ زن توہم کامیاب
مخصوص۔

تمو و ونس (اسے ہودا) کیا تر چکھا اسہ نش اسے
آمت نہ اسی کرو اللہ (تعالیٰ) کہ تراہتھ شہنر
عبادت؟ تر بین ہنتر عبادت سانی جہاد کران
اسی، تم تراووکھ - اہ نیمہ چیز ہنتر اسہ کھوڑ
ناوان چکھا اگر تر پزبور چکھا، تمیلہ ان سہ (اسہ
نش!)۔

تمو وونکھ تہندس پروردگار ہنتر طرف چھہ توہم
پہچہ عذاب تر غضب نازل (متر شہک فامسل)
سپوت۔ کیا توہم چھو اتہن ناوان متعلق میہ ستر
بحث کران ہم توہم تر تہند لو جہاد اولادو تجویز
کرو متو اسی؟ اللہ (تعالیٰ) ہن کر تر تہند خاطر
کاٹہ دلیل نازل۔ لہذا پیارو توہم تر (میانہ باپتھ
عذابس) تر ہر تر روز توہم ستر (تہند باپتھ)
عذابس پیارون (تر تو چھو کس ہنتر وومید چھہ
پور سپلان)۔

آخر دیت اسہ تس تر تہند ستر باہین ہنتر
رحمتہ ستر نجات۔ تر پو لوکو سامن آین انکار
کریو تر ایمان ان والہن تر اسی نہ شابل سپر
ستر اسہ تر لڑ تہند مول (تام)۔

بیہ (سوزاو) اسہ (قوم) شووس کن (تر) تہند بو
صالح رسول بناوتھ (تمو وون اتہن) اسے میانہ
قوم (پو لوکو) اللہ (تعالیٰ) ہنتر عبادت کرو
تس ہوا چھہ بیہ کاٹہ تہند معبود۔ توہم نش چھہ
تہندس پروردگار ہنتر طرف کہ ٹاکار دلیل آہتر۔ (تر
سہ چھہ پر) یہ چھہ اللہ (تعالیٰ) ہنتر وونو
یہہ تہند باپتھ نشا نہ کس رنگس منز چھہ۔ او کس
یہ تراویون (میتھ) نہ اللہ (تعالیٰ) ہنتر ہتر اثر
منز کھوان (چھوان) چھہ تر اسیس ہر واتنا و کاٹہ

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ
مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا
تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ۝۱۰

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ
وَ غَضَبٌ ، أَتَجَادِلُونَنِي فِيْ اَسْمَاءِ
سَمَّيْتُمُوها اَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ
اللّٰهُ بِها مِنْ سُلْطٰنٍ ، فَاَنْتَظِرُوْا لِیَّ
مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِ ۝۱۰

فَاَنْجَبْنٰهُ وَاَلَّذِيْنَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا
وَ قَطَعْنَا رِیْبَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰیٰتِنَا
وَ مَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۝۱۰

وَالَّذِيْ تُمُوْدُ اَخَاهُمْ ضَلِحًا ، قَالَ يَقُوْمُ
اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ ،
فَدَجَّ اَيْتَكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ ، هٰذِهِ
نٰقَةٌ اَللّٰهُ لَكُمْ اٰيَةٌ فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ
فِيْ اَرْضِ اللّٰهِ وَ لَا تَمْسُوْهَا بِسُوْءٍ
فَيَاْخُذْكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝۱۰

تکلیف (اگر تو میرے کوزے میں) تو ہر رُز و کروز کو کھڑا کرے۔
 بیہ کروز یاد میں تیرے (خدا) تو ہر عاد تو میرے (تہنڈے) جانسین بناؤں تو۔ تیرے سپین منہ بنوں تہنڈے کھانے
 (تہنڈے پانچ) تیرے تو ہر اُسی و اسی کین ماوان اندر قلعہ
 بناوان تیرے کون منہ اُسی و اسی دیکھ کر بناوان۔ او
 کوزے کروز اللہ (تعالیٰ) تیرے تہنڈے یاد تیرے سپین
 اندر میرے کروز تیرے تہنڈے ما تہنڈے فساد۔

تہنڈے تو میرے اندر میرے کروز کرباؤ (تو) وون (اتھ) پیٹھ
 (تہنڈے) تہنڈے لکون میرے صالح ہنڈے تو میرے منہ ایمان انیاؤ
 مگر کروز اُسی تیرے تو ہر چھو (پڑے پانچ) زانان تیرے
 صالح چھ سپین پرور دگاؤ ہنڈے طرفہ رسول؟ تو
 وون اُسی چھ تہنڈے تہنڈے پیٹھ یوسہ ہنڈے سہ سوزن
 آنت چھ، ایمان انان۔

تو لکو میرے کرباؤ کرباؤ (تو) وون (اتھ پیٹھ) تیرے
 تہنڈے (تہنڈے) پیٹھ تو میرے ایمان آنت چھ اُسی چھ
 تہنڈے کرباؤ۔

پیرے تیرے (تو) (بوشس منہ تہنڈے) وون تیرے کرباؤ تیرے
 تیرے سپین پرور دگاؤ سند کرباؤ کرباؤ نافرمانی تیرے
 وون تہنڈے اے صالح! تہنڈے عذاب کرباؤ تہنڈے سہ تہنڈے
 کران کرباؤ۔ اگر تیرے (تو) پیٹھ چھ تہنڈے تہنڈے
 اتھ پیٹھ رُز تہنڈے تہنڈے تہنڈے رُز تہنڈے تہنڈے تہنڈے
 کرباؤ وون تہنڈے۔

پیرے دراو صالح تہنڈے تہنڈے تہنڈے تہنڈے تہنڈے تہنڈے
 وون (تہنڈے) اے میانہ تو میرے (کوزے لکون) امیر وون تہنڈے
 و تو ہر سپین پرور دگاؤ سند پیغام تہنڈے تہنڈے کرباؤ
 چھ کرباؤ وون تو ہر۔ مگر تو ہر لکھ چھ تہنڈے رُز
 کرباؤ وون تہنڈے کرباؤ۔

بیہ لوط تیرے (سوزا) تہنڈے تہنڈے تہنڈے تہنڈے تہنڈے
 بناوتھ) تہنڈے تہنڈے تہنڈے تہنڈے تہنڈے وون، کیا
 تو ہر چھو تہنڈے تہنڈے تہنڈے تہنڈے تہنڈے تہنڈے

وَ اذْ كُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ
 عَادٍ وَاَبَوَاكُمْ فِي الْاَرْضِ فَتَّخَذُوْنَ
 مِنْ سُهْلِلِهَآ قُصُوْرًا وَاَتَّخِذُوْنَ الْجِبَالَ
 بُيُوْتًا ۙ فَاذْكُرُوْا الْاَلَاءَ اللّٰهِ وَاَلَا
 تَتَّخُوْنَ فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۝

قَالَ الْمَلَا الْذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ
 قَوْمِهِ لِلذِّيْنَ اسْتَضَعُّوْا لِمَنْ اٰمَنَ
 مِنْهُمْ اَتَعْلَمُوْنَ اَنْ ضَلِحَآ مُرْسَلٌ
 مِنْ رَبِّهٖ ۙ قَالُوْا اِنَّا بِمَا اُرْسِلَ بِهٖ
 مُؤْمِنُوْنَ ۝

قَالَ الذِّيْنَ اسْتَكْبَرُوْا اِنَّا بِالذِّيْ
 اٰمَنْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ۝

فَعَقَرُوْا النَّاقَةَ وَاَعْتَوْا عَنِ اٰمْرِ
 رَبِّهٖمْ وَاَقَالُوْا يٰضَلِحَآ اٰثِنًا بِمَا تَحَدُّثًا
 اِنْ كُنْتُمْ مِنَ الْمُزْسَلِيْنَ ۝

فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِي
 دَارِهِمْ جِثْمِيْنَ ۝

فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَاَقَالَ يَقُوْمِ لَقَدْ
 اٰبَلَخْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّيْ وَ نَصَحْتُ
 لَكُمْ وَاَلَيْكِنْ لَا تُجِبُوْنَ النَّصِيْحِيْنَ ۝

وَلَوْ طَا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ اِنَّا تٰتُوْنَ
 الْفٰجِشَةَ مَا سَبَقْتُكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ
 مِنَ الْعٰلَمِيْنَ ۝

ساروہے قوم اندر کاشی کر مہتر آس ہے۔
توہی چھو زناہن تر آوتھ مردن نش شہوتہ کر اراد
یوان؟ بلکہ (اہل کتھ چھینہ یہ نہ) توہی چھو سہ
نمبر نین دول قوم۔

اتھ پیٹھ وون تہندک توہن پی (اسے لکوا!) لوط
تہ تہندک سیتی باجو کر لکوا پنیہ شہر مشہر۔ ہم چھ
تھو لکھ ہم پیہنی پانہرگی تھیکنا وان چھ۔

اد اسہ دیت تس تہ تہندک سیتی باجن تہ (گر)
باشن، تہنہر آشنہ وراہی نجات۔ سمہ (تہنہر آشنہ)
عس پیٹھ گزھن والہن مفر۔

تہ اسہ دول بہن پیٹھ (مبزلہ سیتی کنہن ہند) اکھ
رؤد۔ لہذا وچھتہ (تہ) نہ مجرین ہند انجام کیتھ پند؛

بیہ (سوز) اسہ مدین لہ کن تہند اکھ بوے شعیب
تہ (رسول بناوتھ)۔ تمہ وون (رہن) اسے میارہ
قومہ (کیو لکوا) اللہ (تعالیٰ) سنہر عبادت
کرہ۔ تس وراہی چھنہ تہند بیہ کاٹھہ معبود تہندک
پرور دکاہر ہند طرفہ چھ اکھ ٹاکاہر نشاہ امت (یعنی
پانہ شعیب علیہ السلام) اوکزی پزرو قومہ نہ میںہ
تول آسو دو نوے پزور دوان تہ لوکن مہ آسوتہندک
چہنہ تہند حقہ کھوتہ کم دوان تہ زسپنس اندر مہ
کرہ تھہ اصلاح گزھنہ پیٹھ فساد۔ اگر توہی لکوا
چھو تہ یہ چھ تہندک خاطر سدھاہے رت۔

بیہ مہ آسو پر چھ وتر پیٹھ (اسہ پیٹھ) بہان نہ
یس اللہ (تعالیٰ) ہس پیٹھ بہان انہ، مہ کھوتہ لکوا
اللہ (تعالیٰ) سنہر وتر نش تہ لکوا چھ تہ
رؤد تھہ (خداہ سنہر وتر) مفر، ہجر پادو کر پنج

اِنَّكُمْ لَتَاۡتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوٰةً مِّنْ دُوۡنِ
النِّسَاءِ ۗ بَلْ اَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِۢفُوۡنَ ﴿۷﴾

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦۤ اِلَّا اَنْ قَالُوۡا
اٰخِرُ جُوۡهُمۡۤ اَمِّنۡ قَرَبَتِكُمْ ۗ لَآ اِنَّهُمْ
اِنۡسَآءٌ يَّتَطَهَّرُوۡنَ ﴿۷﴾

فَاَنجَبْنَاهُ وَاَهْلَآءَهُۥ اِلَّا اِمْرَاۡتَهُۥۙ كَاٰنَت
مِنَ الْغٰیۢرِیۡنَ ﴿۷﴾

وَاَمۡطَرۡنَا عَلَیۡهِمۡ مَّطَرًا ۗ فَاَنظُرۡ كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجۡرِمِیۡنَ ﴿۷﴾

وَالۡیَٰ مَدِیۡنَ اٰخَاۡهُمۡ شَعِیۡبًا ۗ قَالَ یٰۤاَقۡوۡمِ
اعۡبُدُوا اللّٰهَ مَا لَکُمۡ مِّنۡ اِلٰہٍ غَیۡرُهٗ ۗ
قَدۡ جَآءَ تَکۡمُبِیۡتَہٗۙ مِّنۡ رَبِّکُمْ فَاۡوۡفُوا
الۡکَیۡلَ وَالۡمِیۡزَانَ وَلَا تَبۡخَسُوا النَّاسَ
اَشۡیَآءَہُمۡ وَلَا تَفۡسُدُوۡا فِی الْاَرۡضِ
بَعۡدَ اِصۡلَاحِہَا ۗ ذٰلِکُمْ خَیۡرٌ لَّکُمۡ اِن
کُنۡتُمْ مُّؤۡمِنِیۡنَ ﴿۷﴾

وَلَا تَقۡعُدُوۡا بِکُلِّ صِرَاطٍ تُوۡعَدُوۡنَ
تَصَدُّوۡنَ عَنِ سَبِیۡلِ اللّٰهِ مَنۡ اَمَنۡ بِہِ
وَتَبۡخَعُوۡنَهَا عَۡوَجًا ۗ وَاِذۡ کَرۡوۡا اِذۡ کُنۡتُمْ
قَلِیۡلًا ۗ فَکَفَّرَکُمۡ ۗ وَاَنظُرُوۡا کَیۡفَ

لہ مدین شہر اوس فلسطین کس جنوہس کتہ تہ مجاز کس شماس کن یتھ مفر حضرت ابراہیم
ہندس آکس پیٹھ مدین ہندک اولاد روزان آس۔

كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۝

کوشش کران۔ بیہ پروا یاد دینے تو ہوس کے مسکو
تہ خدایں ہر راوہ و تلوہی تہ ہمیشہ تھاوہ نظر
قل نہ فساد کرن والین ہند انجام کیا چھ پیدان۔
بیہ ہر گاہ تو بہ مشرکانہ جہاثر تھ پیٹھ اپمان
اؤنمت چھ یہ ہتھ بہ سوزنہ آمت چھس تہ کانہ
جماعت چھیں سو نیمر اپمان اؤنمت چھنہ اڈھیر
ہیو کام یوت تام ز اللہ (تعالے) اسے (مؤمن
تہ کافرن) مشر فاصلہ کر۔ تہ سے چھ سارو
کھوتہ رت فاصلہ کرن وول ۷

وَإِن كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا
بِالَّذِي أُزِيلَتْ بِهِ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ
يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ
بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ۝

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا
مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ لَشُعَيْبٍ وَ
الَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ
لَنَعُوذَنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا
كَآرِهِينَ ۝

تہد قومہ اندر ہم متکبر مسو پیدہ ہوتے۔ تو مشر وون
بڑو لوکو۔ اسے شعیب! اسی شخصوتہ تہ تہ بیہ تم تہ
یوخریہ پیٹھ اپمان اؤنمت چھ پنہنہ ملکہ مشر کھوتہ
نہ کچھ تہ چھ تھ بیہ سانس مذہب مشر، تھ پیٹھ
وونکھ تہ ہر گاہ اسو یہ کھتہ ناپند تہ کرو اڈھیا
تہ پتہ تہ کڑی وا! ۱
(حقیقت چھیں یہ نہ) اگر مسو تہ پتہ نہ اللہ (تعالے)
ہن چھ اسے تہ نشہ نجات دیتے۔ تہندس مذہب
کرن بیہ پھیر تھ تہ یو تہ (تمیک) معنی آسہ نہ یہ
نہ توہی چھو پڑے یاد بلکہ آسہ یہ نہ) درحقیقت
اوس اسے اللہ (تعالے) ہس اپز لاگتہ تھومت تہ
دوڑی اپمان انہ پتہ) اللہ (تعالے) بند منشاء
واری تھ (گھوٹھس مذہب) کن سون پھیر تھ
ین چھ سانہ اختیار نیمبر۔ سون پروردگار چھ پتہ
چیک پوہ علم تھاوان۔ اسی چھ اللہ (تعالے) ہس
پیٹھ تول کران (تہ ونان چھ) اسے سانہ پروردگار
اسے تہ سانس قومس درمیان کر تہ پزس پیٹھ فاصلہ
تہ تہ چھکھ سارو پے فاصلہ کرن والہو کھوتہ سڈھا
رت (فاصلہ کرن وول)۔

قَدْ أَفْتَرْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا عَدُوًّا
فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّمْنَا اللَّهُ مِنْهَا
وَ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُوذَ فِيهَا إِلَّا أَنْ
يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ
عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبُّنَا افْتَحَ
بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ
خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ۝

بیہ ہم تہندس قومس مشر کافرا مسو تہندو پڑوون
اگر توہی شعیب، سنہ پادری کرو تیلہ سڈو تو فلان

وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ
لَئِن اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا

لَخَسِرُونَ ﴿۱۰﴾

فَأَخَذْتَهُمُ الرِّجْفَةَ فَأَضْبَعُوا فِي
دَائِرِهِمْ جُثَمَيْنِ ﴿۱۱﴾

الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعْبًا كَانُوا
فِيهَا ۖ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعْبًا كَانُوا
هُمُ الْخَسِرِينَ ﴿۱۲﴾

فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ
أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولِي وَنَصَحْتُ
لَكُمْ فُكِّنِفَ أَسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كُفِرِينَ ﴿۱۳﴾

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا
أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ ﴿۱۴﴾

ثُمَّ بَدَلْنَا مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ
حَتَّىٰ عَقَبُوا ۖ وَكَانُوا قَدْ مَسَّ
الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً
ۖ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۵﴾

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا
لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ
بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۱۶﴾

أَفَأَمِّنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ
بِاسْتَبْرَاءٍ نَّأْتَاهُم بِمُؤْتَمِرِينَ ﴿۱۷﴾

تَمَنُّوا وَيُؤْمِنُونَ

اتی رُزُتَم اکر بسنی تہ تم رُزُدی پسنین گرن اندھ
کو ٹھہرو اُرک پتھہ۔

تم یومو شعیب اپڑاویو (گئیہ تھو تباہ زہ) زن تہ
تم پسنس ٹکس اندر زانہہ بسو مہ تی اُسی نہ۔ تم
یومو شعیب اپڑاویو تم سیدی گلاڑ لین والیو مشر۔

اتھ پتھہ پھر تم (شعیبین) تم کُن تھر تہ دراو
یہ زنان، اے میانہ قومہ (کو لوکو)! مینہ واتنا کو
توہہ پسنس پروردگار سندر پیغام تہ توہہ کرے مو
نصیحت۔ مونی تو ووڈی ہر کتھہ پاتھو کر مشر
قومس پتھہ انوس۔

بیہ سوز تہ اسہ گئیہ بسنی کُن کانہہ رسول (مگر بیٹھ
کئی سندر) اسہ رُزُتھ مشر بسن وائل سختی تہ
معیتس مشر بیٹھ زن تم عا جزی تہ زاری کرن۔

پتہ بلوو اسہ معیت آراس بسنی یوت تام زریلہ
تھو ترقی کر تہ ہونکھ وٹن تہ دوکھ تہ سوکھ اوس
سانین جان اجلان تہ (پیش) یوان روزان۔ (یوڈ
وے اسہ تہ پیش بیہ تہ کانہہ لوکتھا چھتہ) اس
اسہ رُزُتہ ہنگہہ منگہ (عذابس مشر) تہ تمن
اوس تہ فکر تران (زریٹھہ کیا ز سید)۔

بیہ اگر تمن بسنیں ہندہ روزان وائل ایمان اپن ہن
تہ تقویٰ پراوہن تہ اسی تراوہو تہ ہندہ خاطر آسمانو
کوتہ تہ زمینہ کئی برکتن ہندہ دروازہ وٹھو۔ اما
پوز تھو اپڑاوی (نہی)، اڈ اسہ کڑی تم بہت بلو
اعمالو کئی عذابس مشر گرفتار۔

کیا مین بسنیں ہندہ روزان وائل (یعنی مگر تہ
اتھ اندر میکھ روزان وائل لوکھ) چھا اسہ کتھہ
رنگر امنس مشر آہتی نہ سون عذاب بیہ تمن رات
کیٹت بیلہ تم شو ٹکھہ بندر آسن؟

أَوَامِنَ أَهْلِ الْقُرَىٰ إِنَّ بَأْسَهُمْ بَأْسًا
ضَعْفَىٰ وَهُمْ يُلْعَبُونَ ﴿۱۱﴾

یا بین نبیین منتر روزن واکل لوکھ چھا امہ کتھہ نشہ
انس منتر آہتر؟ تر سون عذاب پیہ تم کاجس
پیٹھ سیلہ تم گن دان آسن۔

أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ؟ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ
اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿۱۲﴾

کیا تم چھا اللہ (تعالیٰ) بندہ تدبیر نشہ محفوظ
گاہتر؟ (اگر ترشہ کتھہ چھینے) تر یاد تمھاون فرخا
لد قومہ ورا لی چھینے کاہنہ قوم اللہ (تعالیٰ) بندہ تدبیر
نشہ قابل آسان۔

أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرْتُدُّونَ أَلَدًا مِنْ
بَعْدِ أَهْلِيهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ لَصَبَّحْنَاهُمْ
بِذُنُوبِهِمْ ۖ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ
فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿۱۳﴾

کیا تم لوکن یکم تمہ کو اصل روزن والیو پتر زہنکو
واریت پیہ، اڈر تاہ امہ کتھہ عقل؟ تر اگر آس پیترھو
تہندو گو نہ ہو موکو ہیکو تم پیٹھ تر عذاب تہا
کرتھہ تر تہندین دن تر ہیکو موہر کرتھہ تیر ستر
تم حدایتہر چیر کتھہ بوزتھہ ہیکن تر۔

تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ
أَنْبَاءِهَا ۖ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا
كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ ۚ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ
عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ﴿۱۴﴾

یکم چھینے ترشہ نبیہر پیتر خبر آس تر تہ روزن اولن چھی
تر تم نش آس جہندکر رسول بشارتہ ہتھہ آہتر مگر
تم اولن تر (تھہ پیٹھ تر) ایمان تکیا تر تم اولن
اولے انکار کورمت۔ اللہ (تعالیٰ) چھہ تھہ پانچو
کافرن ہندین دن پیٹھ موہر کران۔

وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ دِينَ ۖ وَرَأَيْنَا
وَجْدَنَا أَكْثَرَهُمْ لَفِْسِقِينَ ﴿۱۵﴾

بیہ لہو نہ آسہ تمونتر واریہ پسنہ ہیکر پابند ہیکو لہو تھیا
جو منتر واریہ عہد پھراون واکل۔

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِآيَاتِنَا
إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَوَلَّيْنَاهُ فَظَلَمُوا بِهَا ۖ
فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُفْسِدِينَ ﴿۱۶﴾

پتر موزا بہر تہو (ٹیو) پتر موسیٰ پیتر نشا تر دتھ فرعونس تر تہندین
سردارن نش بہر کوزن (نشان) آہتر فلک ورا۔ اوکو دتھ تر نشا
کرن والین ہند انجام کیا سپد؟

وَقَالَ مُوسَىٰ يُفْرِعُونَ إِيَّيْ رَسُولَ رَبِّ
الْعَالَمِينَ ﴿۱۷﴾

بیہ وون موسیٰ ہن اے فرعون! بہر چھس سارو
عالمن ہندس پرور دکاہر ہند طرفہ رسول۔

حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا
الْحَقُّ ۚ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ
فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿۱۸﴾

بیہ چھس امہ کتھہ ہند حقدار تر اللہ (تعالیٰ) ہس
متعلق ویر تر پتر کتھہ ورا لی کہنی۔ بہر چھس تہہر
نش تہندس پرور دکاہر ہند طرفہ اکھ نون نشانہ
ہتھہ آرت لہذا بن اسرائیل سوزکھ میہ ستر۔

تمو (فرعون) وولس اگر تہ کانہہ نشا نہ ہیچہ آمت
چھکھ تہ تر چھک بلاشک پزیر تیل کر سہ تون!
اتھ پیچھ ترور تمو (موسیٰ ہن) پنن عاصہ (زمیں
پیچھ) تہ سہ ہیونن وچھان وچھان اکھ ٹاکار سرف
بوزنہ یں -

پتہ کوڈ تمو پنن اتھ نمبر تہ سہ اوس وچھن والہن
بکیت سٹے سفید -

اتھ پیچھ وون فرعونہ ہند توہہ کیو سردارو - یہ پیچھ
گتہم بڑ علمہ وول جوڈوگر -

یس توہہ تہندہ علمہ مشنر کڈن بیترھان چھو لہذا
توہہ کیا مشورہ چھو (تہندہ حقہ) دوان ؟

(اتھ پیچھ) وونکھہ (سردارو) موسیٰ ہن تہ تہندہ
بایس دیو اکینہشا) موہبت تہ تمام شہرن مشنر
سؤنر لاکھ پارہ والہ -

(یچہ زن) تم پر چھ کانہہ واقف کار بودوگرس تریہ
نش اٹن -

تہ (یہ اوس امر کوششہ ہند نتیجہ نہ) تمام جوڈوگر
گئے فرعونس نش جمع تہ تمو وون (تس) ہر گلہ امہ
زبون تہ کیا امہ میلا کینہہ انعام (تہ) ؟

اتھ پیچھ وونکھہ تمو (فرعون) کیا نہ ؟ بسہ
سپرو توہہ تہر علاو میانی نکھہ بہن واجو جماعت (تہ) -
تمو وولس ، اے موسیٰ ! تہ تراو کھا گوڈ ، کہہ اسکر
(گوڈ) تراونک تہرات ؟

موسیٰ ہن وونکھہ ، توہہ تراوو (گوڈ) - اڈ سینہ
تمو (پس نہ لور تہ زہ) تراو تہ لوکن ہشٹن
اچھن پیچھ کورکھ فریب تہ تم کھوڑ تہاکھ تہ اکھ
بوڈ فریب کور تمو (لوکن بڑوچھ کینہہ) پیش -

اڈ کر امہ موسیٰ ہن وحی زہ تہ تراو پنن عاصہ

قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَاتِّبِهَا
اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٥٦﴾

فَاَلْقِ عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ تُعْبَاكُ مُسِيْنًا ﴿٥٧﴾

وَ تَزَعَّ يَدَهُ فَاِذَا هِيَ بِيْضَاءُ
رِلْمُظْرِيْنَ ﴿٥٨﴾

قَالَ الْمَلٰٓئِكُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اِنَّ هٰذَا
لَسِحْرٌ عَلَيْنَا ﴿٥٩﴾

يُرِيْدُ اَنْ يُخْرِجَكُم مِّنْ اَرْضِكُمْ
فَمَا ذَا نَا مُرُوْنَ ﴿٦٠﴾

قَالُوْا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَاَزِيْلَ فِى
الْمَدَآئِنِ خَشِرِيْنَ ﴿٦١﴾

يَا تُوْلَكَ يَكْفُلْ سِحْرَ عَلَيْنَا ﴿٦٢﴾

وَ جَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوْٓا اِنَّ لَنَا
لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ ﴿٦٣﴾

قَالَ لَعَمْرُؤِ اِنَّكُمْ لَمِنَ الْمَقْرَبِيْنَ ﴿٦٤﴾

قَالُوْٓا يَمْوَسٰٓى اِنَّمَا اَنْتَ ثَلٰٓثِيْ وَاِنَّمَا اَنْتَ
تَكُوْنُ نَحْنُ الْمَلٰٓئِكِيْنَ ﴿٦٥﴾

قَالَ اَلْقُوْٓا فَلَمَّآ اَلْقُوْٓا سَحَرُوْٓا اَعْيُنَ
النَّاسِ وَاَسْتَرْهَبُوْهُم وَاَجَءُوْ
بِسِحْرِ عَظِيْمٍ ﴿٦٦﴾

وَ اَوْحٰٓىنَا اِلٰى مُوسٰٓى اَنْ اَلِقِ عَصَاكَ

(بیلہ تمو تر کوز) تہ (دوچھان دوجھان توک بیکھن
بولن نہ) سہ چھہ بودگرن ہند فریب نیکھن کھن۔
اتی سہد حق نون تہ یہ ہم بودگر کران اسی تہ گوز
تا بود۔

اڑ آپہ ہم (بودگر) زیر تہ بیہ گئے ڈسپل۔

تہ پیسے ہم (بودگر) فرانسہ داری کران شجوس منز۔

تہ ہیونکھہ ون اسی چھہ سارنہ عالمن ہندس پروردگار
پیچھہ ایمان انان۔

(یس) موسیٰ تہ یار دہہ مند پروردگار (چھہ)

فرعون وونکھہ کیا توہر اؤنوا اوس پیچھہ اپمان تمہ
برونچے نہ بہ دہ ہو توہر اجازت؟ (بولن ہم
نگان) یہ چھہ اکھ سازش یوسہ توہر ساروہے
رہتہ شہرس منز بناو مہتر چھو بیٹھہ بیہ شہر
منہر نیکھو ساری روزن واکر کڈاؤکھہ۔ اچھا، جلدہ
سیدو توہر (ایک انجام) معلوم۔

ہم تر لوہو توہر آتہ تہ کھور (پتہ) خلاف درزی
(کر نہ) موکھہ۔ پتہ کھلوو توہو ساری کبا کوٹس۔

تو وونس (پتہ کیا گوز) اسی تہ چھہ پنس رہس
کئے مرھن ہالی۔

تہ چھکھہ اسہ پیچھہ صرف او موکھہ وولیومت نہ اسہ
چھہ پنس پروردگار سندن نشان پیچھہ اپمان
اؤنمت، بیلہ ہم اسہ بنش آپہ (تہ اسی چھہ دعا
کران نہ) اسے سانہ پروردگار اسہ پیچھہ کر چہر
نابل تہ اسہ د مسلمان آسہ کس حالتس منزوفات۔

بیہ وون فرعون ہند توہر منز (کیتہ ترو) نہ چھو (س)
نہ کیا تریہ چھتھا موسیٰ تہ سند قوم (بیلہ) ترو
نہ سائس مکس منز کران فساد تہ تریہ تہ چانہ
معبودن ترھن تراوتھہ؟ تمہ (فرعون) وونکھہ،
اسی کروکھہ ضرور تہندہ گبر قبل تہ تہنہ زنہ

فَاذْهَبْ يَتَلَفُفْ مَا يَأْفِكُونَ ﴿٥٨﴾

فَوَقَّعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٥٩﴾

فَعَلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَغِيرِينَ ﴿٦٠﴾

وَأَلْفَيْ السَّحْرَةَ سَاجِدِينَ ﴿٦١﴾

قَالُوا إِنَّا مَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٢﴾

رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿٦٣﴾

قَالَ فِرْعَوْنُ أَمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ
لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مِّمَّا تُكْمِلُونَ فِي
الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا
فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾

لَا قَطْعَانَ أَيْدِيكُمْ وَأَجْلَكُمْ مِنَ
خِلَافِ نَمَّ لَا صَلْبَتِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٦٥﴾

قَالُوا إِنَّا لَنَالِ رَبَّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿٦٦﴾

وَمَا تَنْقُمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبَّنَا
لَمَّا جَاءَ ثَنَاءُ رَبَّنَا أَفِرَّغْ عَلَيْنَا صَبْرًا
وَتَوْفَقْنَا مُسْلِمِينَ ﴿٦٧﴾

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اتَّخَذُ
مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
وَيَذَرَكُ وَالْهَتَكَ، قَالَ سَنُقْتِلُ
أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا
فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴿٦٨﴾

تھو وہ کہ زبرد تہ اسی چھہ ہنن پیٹھہ قلاب ۔
 موسیٰ ہن وون ہنننننننننننننننن (اتھ پیٹھہ) ۔ اللہ (تعالیٰ)
 ہس رُوڑو مدد منگان تہ ہس ہنننننننننننننننن ۔ ملک تہ
 چھہ اللہ (تعالیٰ) سُنہ ، ہننننننننننننننننننننننننننننننننننن
 چھہ تمیک وارث چھس بناوان ۔ (رت) انجام چھہ
 متقین ہنہر ہا پیٹھہ آسان ۔

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَجِيبُوا لِي بِاللّٰهِ
 اضِرُّوْا لِي الْاَرْضَ يَلْبُثْ اِيَّوْرَثَهَا مَن
 يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِي ۚ وَ الْعَاقِبَةُ
 لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۱۱﴾

تہو (یعنی موسیٰ ہنہر تو ہر کو لوگو) وون (تس) چہانہ
 ہنہر بروٹھہ تہ اوس اسہ تکلیف دہنہ یوان تہ ہنہر پیٹھہ
 تہ اسہ نش آرت چھک ہنہر پیٹھہ تہ چھہ اسہ تکلیف
 دہنہ یوان ۔ (موسیٰ ہن) وونکھہ درجواب ، ہنہر
 پروردگار کو عنقریب تمہنہر ہس ہس منس تباہ تہ نکس
 مفر بناوکر و تو ہر ہننننننننننننننننننننننننننننننننننن
 کرچھہ کامہ چھو کران ۔

قَالُوْا اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِيْنَا وَ
 مِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ۚ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ
 اَنْ يُهْلِكَ عَذَابُكُمْ ۚ وَ يَسْتَخْلِفَكُمْ
 فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۱۲﴾

اد روت اسہ فرعونہ سُنہ آل اولاد (دراکہ تہ مصیبتہ ہر تہو)
 اور یوسیت تہ ہو پیدوار چہ کی (تہ اولاد ہنہر
 مرہن) سوتی ہیتہ زن ہم نصیحت رٹن ۔

وَ لَقَدْ اَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالْحَسِيْنِ
 نَفْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجُوْنَ ﴿۱۱۳﴾

ادو ہیلہ ہننننننننننننننننننننننننننننننننننن
 ونان یہ تہ چھہ سون حق تہ یود وے ہنننننننننننننننن
 زمانہ ہیر ہے تہ (تھہ) اسی موسیٰ تہ تہنہن سوتہ
 باجن ہنہر خوشک نتیجہ زانان ۔ خبردار ! ہنن ہنہر
 نخت (یعنی خوشنک اسباب) چھہ اللہ (تعالیٰ) اس
 ہننننننننننننننننننننننننننننننننننن
 ہیر وونن تہو لوگو ہیلہ تہ کائہہ نشانہ تہ اسہ ہنن
 انکھہ ہیتہ زن تہ تہہ کر دوس اسہ فریب دکھ تہ اسی
 ہونہ ہرگز تریہ پیٹھہ ایمان ۔

فَاِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا
 هٰذَا ۗ وَ اِنْ جِئْتَهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيْرُوْا
 بِمُؤْمِنِيْهِمْ وَ مَن مَّعَهُ ۗ اِلَّا اِنَّمَا طَعَّرُوْهُم
 عَنَّا اللّٰهُ وَ لٰكِنَّا اَخْلَرُوْهُم ۗ لَا
 يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۱۴﴾

اد سوز اسہ ہننننننننننننننننننننننننننننننننننن
 تہ رتھہ ۔ ہم اسی بیون بیون نشانہ توتہ کوز تہو

وَ قَالُوْا مَهْمَا تَاْتِيْنَا بِهٖ مِنْ اٰيَةٍ
 لِّيَّسْحَرْنَا بِهَا ۗ فَمَا نَحْنُ لَكَ
 بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۱۵﴾
 فَآزَسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْقَانَ وَ الْجَوَادِ
 الْقُمَّلَ وَ الصَّفَاۗدَ وَ الذَّمَّ اَلِيْمَ

۱۔ حیراد چھہ ہاوس ہوے کہ وھپون کہیم آسان میں فصل تہ کوی تباہ کرچھہ ہننننننننننننننننننننننننننننننننننن
 سبتہ نعلس پیٹھہ حیدر اور سپلان ۔ ہنن چھہ اردو ہننننننننننننننننننننننننننننننننننن
 لہ حیراد کوی کچھ ہنہر
 سبتہ نعلس پیٹھہ حیدر اور سپلان ۔ ہنن چھہ اردو ہننننننننننننننننننننننننننننننننننن

مُفْصَلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا
قَوْمًا مَّجْرِمِينَ ﴿۳۷﴾

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا
يَمْؤُوسَىٰ اِذْ لَنَا رَبُّكَ بِمَا ءَهِدَ
عِنْدَكَ ۚ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ
لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ ۚ وَ لَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ
بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿۳۸﴾

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَىٰ آجَلٍ
هُم بِالْغَوَاةِ إِذْ أَحْمَهُمْ يَتَكَبَّرُونَ ﴿۳۹﴾

فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي
الْبَحْرِ بِآيَاتِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ
كَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿۴۰﴾

وَ أَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا
يُشْتَصِفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا
الَّتِي بَرَكَتْنَا فِيهَا ۚ وَ تَمَّتْ كَلِمَتُ
رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۚ بِمَا
صَبَرُوا ۚ وَ دَمَرْنَا مَا كَانُ يَصْنَعُونَ
فِرْعَوْنُ وَ قَوْمُهُ ۚ وَ مَا كَانُوا
يَعْرِشُونَ ﴿۴۱﴾

وَ جَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ
فَاتَّوَا عَلَىٰ قَوْمٍ يَتَكَفَّرُونَ عَلَىٰ آسِنَاهُمْ
لَهُمْ ۚ قَالُوا يَمْؤُوسَىٰ اجْعَلْ لَنَا إِلٰهًا
كََمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ
تَجْمَلُونَ ﴿۴۲﴾

إِنَّ لَهُوَالَاءَ مُتَّبِعَاتًا هُمْ فِيهِ ۚ وَ بَطِلٌ
مَا كَانُوا يَتَّخِذُونَ ﴿۴۳﴾

مکبر تہ تم نے یہ مجرم قوم۔

بہ نیلہ (زہ تہ) تمہیں پیٹھ عذاب نازل سید تہ
تم اسی کرکے دتھ دنان۔ اے موسیٰ! پتس
پروردگارس منگ تم ساری وعدہ یاد پاوتھ یکم تمہ
خریہ سوتی کرکے ہوتی چہ۔ اگر خریہ اسہ نیش عذاب دور
کوتھ تیلہ انو اسی خریہ پیٹھ ایمان تہ بنی اسرائیل
سوزو کہ خریہ سوتی۔

مگر نیلہ اسہ تمہ نیش عذاب تھہ وقتس تمام دور
کوزیس تہنہد مخاطرہ مقررہ اوس تہ تمہ ہیش سوتی وہو
خوفانی کرہ۔

پتہ ہیوت اسہ تمہن (تہنزن شیطان ن ہند) بدلہ تہ
تم چھا پٹ تاوی سمندرس بیکیا نر تم اسی سانہن آین
اڑاوان تہ تمہن سوتی اسی لاپرواہی ورتاوان۔

بہ بنو اسہ سہ قوم یس گزوراوس زمانہ یوان تمہ
ملکہ کن مشرقی حصن ہند تہ تہ مغربی حصن
ہند تہ وارث ہتھ اسہ برکت ڈر ہیش اوس تہ چانس
پروردگار سہ بنی اسرائیل سوتی کرہ امت برہ تہ
کھوتہ رت کلام (یعنی برہ کھوتہ رت وعدہ) گوو
پور۔ او کو نر تمہو کور (ظلمس پیٹ) سپر تہ فرعون
تہ تمہ قوم یہ کیشہا بناوان اسی تہ یکم تمہر مندور
استاد کران اسی تہ سورسہ ترہن اسہ تباہ کر تھہ۔

تہ اسہ تارک بنی اسرائیل سمندرس اپور۔ ہیوت تمام
نر تم (پکان پکان) اکیس تھقس قومس نیش واتی
یکم پستین یوتلین برونیو کیز بندگی مشر آوری
اسی۔ تمہو وون (تمہ ویز) اے موسیٰ اسہ کتہ تہ
بناو تہ کیشہ تھمو دیوتا یھمو ہیندی دیوتا چہ (موسیٰ
ہن) وون تکھ توہی چھو پزی اکھ جاہل قوم۔

ہتھ کارس کن تم لگو ہوتی چہ سہ چہ پزی پاٹھ تباہ
سپدن وول۔ تہ یہ کیشہا تم کران چہ سہ سپر

سورے بیکار۔

(پتہ) وہاں تکہ کیا بہ ترھا ہڈنا تہنہ باپتہ اللہ
(تعالیٰ) ہس ورانی کا نہہ معبود! بیلہ زن تمکو
توہہ سارہنے عالمن پیٹھ نفلت ہڈ مہتر چھو۔

بہہ (کرو یاد) بیلہ اسہ توہہ فرعون ہنہ خاندانہ
نشہ نجات دیتو۔ ہم توہہ سجت کر لوٹھ عذاب
واتانوان اسی و۔ تہنہ بن گرن اسی قہل کران تہ
تہنہ زنن زانن اسی زہد تھانوان۔ تہ اتھ اندر اوس
تہنہ س پروردگار ہنہ طرفہ لوڈ احسان۔

بہہ کور اسہ موسیٰ ہس سبتی ترہن رازن ہنہ وعدہ
پتہ کر ہم (ترہ رازن) بہہ داہ رلو تھہ کمل۔ بہتہ
پاٹھو سہ تہنہ س پروردگار ہنہ مقرر کورمت وعدہ
ترہنہ بن رازن ہنہ شکہ ہنہ پور تہ موسیٰ ہن
وہن سینس باہس ماروس زہ سیانس تومس ہنہ کرک
زہ (مہ پتہ) میاڈی نماہنگی تہ تہنہ اصلاح تھوکر
زہ نظر تل بہہ پکو زہ ہنہ فساد کرن والہن ہنہ ورتہ۔

اد بیلہ موسیٰ گنہ تھہ وقتہ مطابق مقرر جاہہ پیٹھ
آو تہ تہنہ س پروردگارن کور تھس سبتی کلام اتی
وہن (یعنی موسیٰ ہن) اے میاڈہ پروردگار!
مہہ ماو (تہ پنن وجود) بیٹہ زن بہ تہ وچھتہ
تمکو دتیس جواب، تہ ہیکھ ہنہ میہ ہرگز وچھتہ
وہن گووہ باس کن وچھہ اگر سہ پسنہ جاہہ تھیک روڈ
تہنہ وچھک تہ میہ۔ اد بیلہ تمکو ہنہ س پروردگارن
پہاڑس پیٹھ پنن جہو ہوو تہ سہ کورن چھلہ چھلہ
تہ موسیٰ پیو و بے ہوش گڑھتہ موسیٰ۔ پتہ بیلہ
تس فرق ہش گے تہ تمکو وہن (اے پروردگار!) تہ
چھکھہ پر پتہ عابہ نشہ پاک۔ بہ چھس تہنہ کن
نمان تہ بہ چھس (بیٹہ زمانس ہنہ) سارہنے اپمان
انن والہن ہنہ گووہ نکس جس پیٹھ۔

(تخلین) ووشس (درجواب) اے موسیٰ! مہہ پتہ تہ

قَالَ آغَيْرَ اللَّهِ أَبْخِيكُمْ إِلَهَا وَهُوَ
فَضَلَّكُمْ عَلَى الْغُلُوَيْنِ ۝

وَ إِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ
يَسْؤُمُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كُنْتُمْ
أَبْنَاءَ كُفْرِهِمْ وَ يَسْتَخْفِيُونَ نِسَاءَ كُفْرِهِمْ
وَ فِي ذُرِّيَّتِهِمْ مِنَ الذُّرِّيَّةِ الْكَبِيرَةِ ۝

وَ دَعَوْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً
وَ اتَّخَذْنَا لَهُ نِسَاءً مِمَّنْ يَشَاءُ وَ نَبَّأْتُهُ
بِمَقَامِكُمْ أَتَّخَذْتُمْ لِكُلِّ قَوْمٍ
مُتَّبِعِينَ لِكُلِّ قَوْمٍ وَ قَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ
هَارُونَ أَخْلِفْ فِي قَوْمِي وَ أَصْلِحْ وَ لَا
تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ۝

وَ كَمَا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَ كَلَّمَهُ
رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي آلَئِكَ
قَالَ لَنْ تَرَانِي وَ لَكِنِ أَنْظِرْ إِلَى الْجَبَلِ
فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي
فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا
وَ خَرَّ مُوسَىٰ صَوَّعًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ
سُبْحٰنَكَ تُبٰتُ إِلَيْكَ وَ أَنَا أَوَّلُ
الْمُؤْمِنِينَ ۝

قَالَ يُمُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتَكَ عَلَى النَّاسِ

(یہیہ زمانہ کہیں) سارے انسان پیٹھ پستہ رسالت
تہ پستہ کلام کہ ذلیعہ تھنر بختمت۔ لہذا یہ
کیشہا تہیہ میدہ دیمت پتھے تہ رتھ چیرہ پاٹھ
تہ شکرانہ کرن والین منز سید شامل۔

بیہ بیکھو اسہ تندر باپتھ کیشرن پچن پیٹھ پنو تھو
مکلم یم پرتھ کتہ قسہ چہ نصیحتہ پتھہ اسی تہمین
منز (تہ زمانہ باپتھ) پرتھ کتہ ضروری چیزک
تفصیل موجوداوس (تہ پتہ وون اسہ تس زہ) یم حکم
رکھہ مغبوطی سان بیہ دن پسنس قوس تہ زہ تم
رٹن اچہ تھنر تراہ مغبوطی سان۔ بہ ماووہ توہہ
جلدے بدکارن ہندگر۔

تم لوکھ یوکانہ حق آسہ درائی دنیاہس منز کپہ
کورمت پتھ کرکھ بہ جلدے (پننہو) نشانہ
(مخروم کرکھ) دور۔ او اگر تم پرتھہ (ممکن)
نشانہ تہ وچین تم ان نہ تھن آہن پیٹھہ ایمان
بیہ اگر تم سینز وتھ وچین تہ سو وتھ پراون تہ
زہ شیبہ۔ دپھہ اگر گراہی ہنز وتھ وچین سو رٹن
یہ چتہ اسہ کتہ زہتو اپراور سانی آہ تہ تھن ستر
چہ عفت ورتاوان۔

بیہ تم لوکھ یو سانی آہ تہ مرنو پتک ملاقات
اپراور موتی چیر۔ تھندر ساری اعمال چیر فصیح
گاہتو۔ تم لبین صرف (خلوصہ واجب) عملہ ہند
بدلو۔

بیہ بتو موسی ہندرقومن تندر (سفرس پیٹھ گزھنہ)
پتہ پستہن گہنن (گرتھ) اکھ ووتھ۔ سداوس محض
اکھ بے روج جسم۔ یہیہ اندر فقط گاد ہنز مانگ
نیران اس۔ تم سوچاہہ پتہن تہ؟ زہ سہ تہ
چتہ تھن سینو کاٹہہ عقل مندہ ہنز کتھا کران تہ تہ

بِسْمِ رَبِّكَ وَسِعْلَامِي ۝ فَخَذُوا مَا آتَيْتُكَ
ذُكْرًا مِنَ الشُّكْرِ ۝

وَ كَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَنْوَارِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
مَوْعِظَةً وَ تَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ ۝ فَخَذُوا
بِقُوَّةٍ وَ أَمَرَ قَوْمَكَ يَا خُدُو
بِأَحْسَنِهِمَا سَأُورِيكُمْ آدَالَفِ سِقِينِ ۝

سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ
فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۝ وَإِنْ يَرَوْا
آيَةً لَا يُؤْمِنُوا بِهَا ۝ وَإِنْ يَرَوْا
الرُّشْدَ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۝ وَإِنْ يَرَوْا
سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۝ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَ كَانُوا
عَنْهَا غُفْلِينَ ۝

وَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَ لِقَاءِ
الْآخِرَةِ حَمِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ۝ هَلْ
يُحْزَنُونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

وَ اتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ
حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا آلَهُ خُورًا ۝ أَلَمْ
يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ
سَبِيلًا ۝ وَ اتَّخَذُوا ظُلَمِينَ ۝

پچھ تہن ہر سچ کاشہہ و تہہ لوان۔ تو ہنومہ بلو مہو
تہ گریہ مشرک بیٹھ۔

اد بیلیہ تم شرمندہ مجھے تہ تہن توڑ فکر نہ تم اسی گمراہی
منز پیتو۔ تہ تمو دن نہ اگر سون پروردگار اسر پیٹھ
یرحم کر نہ بیہ اسر معاف کر نہ تہ اسی سپرد و تو تھان
من واپو منفر۔

بیہ بیلیہ موسیٰ پینس تومس کن پلور شک تہ افسوس
ہتھ واپس او تو دن نہ میہ پتہ یوسہ میانی نمائیدگی
توہہ کر مہ سواس سہا کچھ کیا توہہ کوز واپس
پروردگار بندس حکم کس معامس منز و تھہ؟ ا تہ
مبارے و نہ موسیٰ کیا نہ او نہ و نیک تام؟ تہ
وقتہ تھا و موسیٰ ہن و تھہ بیچہ پتھہ، تہ پین بوس
ہونن مسہ رتھہ پاس کن لبتھ اتھ، تو وونن اتھ
پیٹھ) اسے میانہ ماجہ ہند گویہ! تو من زدوس ہر
کمزور تہ تیار اسی نہ تم کر ہن میہ قبل۔ وہی ہو
د تہ دشمنن میہ پیٹھ اسنگ موقعہ تہ میہ مہ
گنتر او ظالم لوکو منفر۔

(یہ بوز تھہ) وونن (یعنی موسیٰ ہن) اسے میانہ
پروردگار! میہ تہ میانش باپس بخش تہ اسہ
دھوننی کر تہ پینس جمنس منز وائل تہ تہ چھکھ
رحم کرن واپو منفر سار وے کھوتہ بوڈ۔

(اتھ پیٹھ فرمود اللہ تعالیٰ ہن ہر) ہم لوکھ کیو (عبادتہ
خاطر) ووتھہ تھور۔ تہن پیٹھ سپد بہندس
پروردگار ہند طرفہ غضب نازل تہ تھتہ پانچ
دنیاوی ذالت تہ۔ تہ اسی چھ اقترا کرن واپن تھتہ
ہنوس ترا وولن۔

بیہ ہم لوکھ کیو بدکار کر کے پتہ آہ (ہم ترا و تھہ)،
خدا پس کن چھہ تھہ تہ تس پیٹھ اونکھ ایمان۔ چون
پروردگار سپد بے شک امہ (توہہ) پتہ سہا بخش
وول (تہ) چھہ کر چھہ کر رحم کرن وول ثابت۔

وَلَمَّا سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ
قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا
رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۱۰﴾

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ
أَسْفًا قَالَ بَشَرًا خَلَفْتُمُونِي مِن
بَعْدِي ۖ أَعَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ ۖ وَالْقَبِي
الْأَلْوَا ۖ وَآخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ
إِلَيْهِ ۖ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ
اسْتَضَعَفُونِي ۖ وَكَأُذًا يَفْتُلُونَنِي ۖ
فَلَا تُشْمِثُنِي بِآلَاءِ وَلَا تَجْعَلْنِي
مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۱۱﴾

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَرَأْيِي ۖ وَآذِخْنَا فِي
رَحْمَتِكَ ۖ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿۱۲﴾

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيِّئًا لَّهُمْ
عَذَابٌ مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۖ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴿۱۳﴾

وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا
مِن بَعْدِهَا ۖ وَأَمْوَالُهُمْ لَكَ مِمَّا بَعَدَهَا
لَٰكْفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۴﴾

وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبَ أَخَذَ
الْأُكُوْحَ ۖ وَفِي نُحُوتِهَا هُذًى وَرَحْمَةٌ
لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَذُكَّرُونَ ﴿۷﴾

پتہ نیلہ موسیٰ سنز رکھ بنا ہے یہ، اِدِ حَجْرٌ تَوَدُّمٌ
پچھ بیہ (یعین پیٹھ الہی حکم لپکھتہ اُسی) تہ تہند
خاطر پریم پنشن پروردگار ستر خوف تھاوان چھ اُس
یعین (پچگن) ہندس لپکھو مہرتس منز رحمت تہ ہدایت
مؤجود -

وَإِخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا
رِّمِيْقَاتِنَا ۖ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ
قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ
وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا لَعَلَّ الشُّفَهَاءُ مِنَّا ۖ
إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تُشَاءُ
وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ ۗ أَنْتَ وَرَبُّنَا
فَاعْفُزْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ خَيْرُ
الْغَافِرِينَ ﴿۸﴾

تہ موسیٰ من تر ادرک پسنز قومہ منز سستہ نفر سائس
وعدہ کرنہ آمتس مقاس پیٹھ انتہہ باچھہ - پتہ نیلہ
تسن پیٹھ نیلہ او تہ تو ووان، اے میاں پروردگار
اگر تہ یہ تہرہ کہہ تہ تم تہ تہ منیتہ کر بھہ برو نیٹے
ہلک - کیا تہ چھکا احقن ہتر احمقازی ہند
کرتو نیٹک سزا دتھ اسہ ہلک کرنہ یہ تہرہاں؟ یہ
(یہ کیتہ شاید) سو اُس صرف چاڑی اکہ آزمائش
یو (آزمائشو) ہند ذریعہ پریم تہ یہ تہرہاں چھہ کہہ
تم چھہ کہہ عذرا قرار دوان تہ یعین تہ یہ تہرہاں حکم
تسن چھاکہ ہدایت دوان - تہ چھاکہ سون کفیل تہ دست
لہذا بخش اسہ بیہ کر اسہ پیٹھ رحم تہ تہ چھہ کہہ
بخشنز والیو اندر سار وپے کھوتہ بہتر -

وَكَتُبْنَا لَكَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً
وَّ فِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا رَئِيسُكَ ۗ قَالَ
عَذَابِي أَصِيبُ بِهِ مَن أَشَاءُ ۖ وَرَحْمَتِي
وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۗ فَسَأَخْتَبُهَا
بِالَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿۹﴾

بیہ لیکھ تہ سارہ باچھہ تہہ ڈو میس اندر تہ نیکی تہ
اُخری زندگی اندر تہ (لیکھ نیکی) اُسی تہ چھ تہرہ سون اوتو
اتھ پیٹھ، فرمود (اللہ تعالیٰ ہن) ہر لیس یہ تہرہاں
چھس دس، چھس پنن غلاب واتاوان ایسہ
حقار س - تہ میاں ذرمت چھہ پر چھہ چیزس تام واتھہ
لہذا یہ لیکھ یہ ضرور تسن لوکن ہند خاطر پریم تقویٰ پر لوان
چھہ تہ زکوٰۃ چھہ دوان بیہ یک لوکھ سائس آین پیٹھ
ایمان انان چھہ -

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ
الَّذِي جَاءَهُمْ مِّنكُمْ مَّا كُنْتُمْ
عِنْدَهُمْ فِي التَّوَارِثَةِ وَارْتَجِبُوا

تم لوکھ، پریم سائس بیسہ پیغبر سنز پدوی کران چھہ
یس نبی چھہ بیہ اُسی چھہ - یسہ ذکر تواتس تہ انجیس
منز تسن لہ بش لیکھتہ مؤجود چھہ - سہ چھہ تسن نیکی

سختن ہند حکم دوان تہ کچھ کتھونشہ ٹھاک کران تہ
ساری پک چیز چھ تہن پیٹھ حلال کران تہ تمام ناپاک
چیز چھ تہن پیٹھ حرام کران تہ تہندہ (گولہ) بارک
(پم تہن پیٹھ لڈتھ اسی تہ طوق لہ پم تہتہن گریزین
نالو اسی ، چھ تہن نش دور کران ۔ لہذا کیم لوگو تس
پیٹھ ایمان اوان بیہ واتوؤکھ تس طاقت تہ تس دیکھ
مدد تہ تھہ نورس پتہ دراسہ پکان ، یس تس سرتی تانزل
اوس کرنہ آمت ، تے لوکھ سدن کامیاب ۔

وَنُكَلِّهُمُ (نہ) اسے لوگو! ہر چھس تو ہر سارہنے کن
اللہ (تعالیٰ) سند رسول یتیس آسمان ہنر تہ زینج
پادشاہی حاصل چھیہ ۔ تس وراڈی چھنہ کاتھہ معبود ۔ سہ
چھ زیندہ تہ کران بیہ چھ ماران تہ ۔ لہذا ابو اللہ
(تعالیٰ) ہس تہ توندس رسولس پیٹھ ایمان ۔ یس
نبی تہ چھ تہ امتی تہ چھ ۔ تہ یس اللہ (تعالیٰ)
ہس پیٹھ تہ تہندن کلماتن پیٹھ ایمان انان چھ
تہ تو ہی کرہ تسنہز تالعداری یٹھ تو ہی ہدایت لہو ۔

بیہ مؤمن ہند قوم ہنر چھ اکھ جماعت ترشہ تہ یکم
حقہ کہ ذریعہ ہدایت لبان چھ تہ امی ذریعہ چھ
(دنیا ہس اندر) الفصاف کران ۔

بیہ باگراور اسر تم بہن تبیلین منہر (یکم وہ ذی ترقی
کر تھ قوم ہنہ ہنر چھ) بیہ ییلہ تہندہ قومس تس
آب مونگ تہ اسر کرہ مؤمن ہس کن فرضی ، نہ
(گرشہ تہ) یین عامر ٹھاسن (فلڈی) کنہ پلس ،
(ییلہ تمز تہ کور) تہ تمہ اندر وزسہ یہ باہ ناگ ،
پر چھ قومس زون یین یین یابول تہ اسر کور تہن
پیٹھ اوڑک ہنہل ، بیہ کور اسر تہن کیت تہنجہین
تہ (بیہ کرہ) باٹر پادہ ۔ (بیہ وؤ نکھ) یہ کینشہا
اسر دیت مت چھ (تہ اندر) کھینو طیب چیز تہ

يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ
عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ
إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ
عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ
وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ
مَعَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۱۳۱﴾

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ
إِلَيْكُمْ جَمِيعًا بِالَّذِي لَهٗ مُلْكُ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيِي
وَيُمِيتُ ۗ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
النَّبِيِّ الَّاٰحْيٰى الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ
كَلِمٰتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿۱۳۱﴾

وَمِنْ قَوْمِ مُوسٰى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ
وَيَهٗ يَغْدُوْنَ ﴿۱۳۱﴾

وَقَطَّعْنَاهُمْ اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا
اُمَّمًا ۗ وَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوسٰى اِذْ
اَسْتَشَقَّاهٖ قَوْمُهٗ اَنۡ يَّضْرِبَ بِعَصَاكَ
الْحَجْرَ ۗ فَانۡبَجَسَتْ مِنْهُ اِثْنَتَا عَشْرَةَ
عَيْنًا ۗ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنۡاسٍ مَّشَرۡبَهُمْ
وَدَظَلَّلْنَا عَلَيۡهِمُ الْعَمَامَ ۗ وَاَنۡزَلْنَا عَلَيۡهِمُ
الْمَنۡ وَالسَّلۡوٰى ۗ كُلُّوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا
رَزَقْنٰكُمْ ۗ وَاٰ مَا ظَلَمُوۡنَا ۗ وَاَلٰٓئِكَ كَانُوۡا
اَنۡفُسَهُمْ يَظَلِمُوۡنَ ﴿۱۳۱﴾

تمو کور نہ اسر پیچھ ظلم بلکہ اسی تم پستین ترون
پیچھ ظلم کران۔

بیر (پاوو یاد) نیلہ رتمن (یعنی بنی اسرائیلین) اونہ
آو ز بیچھ علاقس مشر روزو تہ تیہ مشر پستین من
پر شو (تستین) کھیو۔ تہ (اسر سبتو) گرتھو
ونان (نر اسی چھ) بور لوژراونک التجا کران، تہ
تیر (برونٹھ کتہ کر شہر کر) درواز اُترو فرمانبردار
کران۔ ادر کروو اسی توہ تہ تہند کر خط معاف
تہ یور یا مٹھو فرمانبردار کران والہن دیوبیہ تہ العام۔
اتھ پیچھ ہنیر بنی اسرائیلو مشر ظلم کرن والہو
لوکو تھ کتھ یوہہ رتمن ونہر آ مہر اُس ادر بدل
کرتھ، اکھ بیکھ کتھ ونہر ادر کور اسر رتمن پیچھ تہندو
ظلمو کرنی آسمانہ پیچھ عذاب نازل۔

بیر (اے رسول!) پرتر شو تو یمن (بنی اسرائیلین)
تھ بستی متعلق یوہہ سمندر کس بجس پیچھ اُس نیلہ
زن رتم (دیہود) سبتس محکمس حد نہر نیلان اسی،
نیلہ زن رتم ہنر کاہر تہند سبتہ کر دہہ توجو فوجو
وہ تہتھ یوان اسہ، تہ تیہ دہہہ تم سبت کرن اسی
تہ، تم اسہ نہ یوان۔ تیچھ پاٹھو اسی اسی تہندو
نا فرمانو ہند باعہہ رتم امتحان کران۔

بیر نیلہ تمواندر اکہ جمار (بیلیس جمار کن) وون۔
توہو کیاز چھو تھ قومس نصیحت کران، یمن اللہ
(تعالیٰ) ہاک کرن دول چھ یا کر لوٹھ عذاب دہہ
دول چھ؟ تمو دیکھتھ جواب تہندس پروردگار س
نش معذرت پیش کرنہ باچھ (نر اسہ کر یاہ یمن لوکن
نصیحت) بیر تیچھ زن تم تقویٰ پران۔

ادر نیلہ تمو لوکو سم نصیحت مشر او یوہہ رتمن کرہ

وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ
وَ كُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَ قُولُوا
حِطَّةً وَ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ
لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿۳۱﴾

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا
غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا
عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا
يَظْلِمُونَ ﴿۳۲﴾

وَ سَأَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ
حَاضِرَةً الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ
إِذْ تَأْتِيهِمْ حَيْثُ كَانُوا يَوْمَ سَبْتِهِمْ
شُرْعًا وَ يَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ
كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا
يَفْسُقُونَ ﴿۳۳﴾

وَ إِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ
قَوْمًا بِاللَّهِ لِيُهْلِكَهُمْ أَوْ مَعَذِبُهُمْ
عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى
رَبِّكُمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۳۴﴾

فَلَمَّا تَسُوا مَا دُخِرُوا بِهِ آخَجْنَا

لہ بنی اسرائیلین ہند خاطر اُس بوار دہہ کا نہ کام کر فی یا کا ڈرٹنہ منع کرنا مشر۔ تم اسی بوار دہہ
زال تراوان تہ آخوار دہہہ اسی زال نہر کران۔ یعنی خدا تعالیٰ اس تہ شرعیست سبتو اسی جیلہ بازی کران۔

آپتر اُسی تہ اسہ دیت تہن لاکن نجات ریم سچھ
کھتو نیشہ (لوکن) پتھ رٹان اُسی - تہ ریم لوکھ
فالم اُسی تہم کرک اُسی اُکس کر پٹس عدلس منز
گرفار تہ کیازہ تہم اُسی تہ اطاعت کران -

پتہ نیلہ تہو، تہو کھتو نیشہ یو نیشہ تہم پتھ رٹنہ
آہتو اُسی بازینہ بدل تہن مشر بیہ ہن تہ ترقی
کرنی ہتہ، اِد وون اسہ تہن سپرو ڈپل واندر
(بیہ پاو یاد) نیلہ چانی رین اعلان کوزہ سر
کر تہن (یہودین) پتھ تیا متہ کس دہ ہس تام
تہو لوکھ مقرریم تہن تکلف دہ وائل عذاب دوان روز
(کیا پتہ سپدا تی کتہ سپد تہ؟) چون رب چھ یقینا
سزا دہن منز جلدی کران تہ سہ چھ بے شک سبھا
بخش ہار (تہ) پتھ کر پتھ کر رحم کرن وول (تہ) -
بیہ چھ اسہ تہم زمپس منز لوکھو لوکھو تسیرا وکر تہ
(دچھ) تہن مشر چھ (وون تہ) کیہنہ نیک تہ کیہنہ
بد تہ اُسی چھکھ تہم (گاہے) تہو حالاتو سستی تہ
(گاہے) ناکار حالاتو سستی پکھا وون روزان - سیتھ زن
تہم (پسنہو ظلیو نیشہ) بازین -

مگر لوکھو تہو بن اسرا پلو پتہ چھ کیہنہ بدل (بنی اسرائیل)
استاد گاہتہ - ریم (بظاہر) موسیٰ منز کتاب ہندک
وارث چھ مگر (تکرار) چھ تہم سیمہ فانی دنیہ ہر مال
حاصل کران روزان تہ (لوکن) چھ ونان نر اللہ
(تعالیٰ) بخشہ اسہ ضرور تہ اگر تہن نش کیہنہ بیہ
مال سیتھ ہیو پیسہ اِد تہتہ چھ رینج کوشش
کران - تہن اوس ناہ (موسیٰ منز) کتابہ اندر یہ
وعدہ ہستہ امت نر اللہ (تعالیٰ) ہس متعلق آسن
تہم صرف یلز ونان؟ تہ یہ کینرھا بیتہ کتابہ مشر
چھ تہ چھ تہو پوزنت بیہ (چھ پتہ زانان) نر
متریک گر چھ متقی بن ہند خا طہ رت - کیا
توہہ چھونا (یہ کتہ) فکر تران؟

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ عَنِ الشُّؤْرِ وَاخَذْنَا
الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَلِيْسٍ بِمَا
كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿۳۱﴾

فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا
لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِيْنَ ﴿۳۲﴾

وَاذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِيُبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ
رَأْيَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسْؤُهُمْ
سُوءَ الْعَذَابِ اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيْعُ
الْعِقَابِ ۝ وَاِنَّهٗ لَخَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۳۳﴾

وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْاَرْضِ اُمَّمًا ۝ وَنَحْنُ
الضَّالُّوْنَ وَنَحْنُ ذُوْنَ ذُلِكَ وَ
بَلَّوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ
يَرْجَعُوْنَ ﴿۳۴﴾

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا
الْكِتَابَ يَأْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْاَذْنِ
وَيَقُولُوْنَ سَيُعَذِّبُنَا ۝ وَاِن يَأْتِيَهُمْ
عَرَضٌ مِّثْلُهٗ يَأْخُذُوْهُ اَلَمْ يُؤْخَذْ
عَلَيْهِمْ مِّثْلَ مَا فِي الْكِتَابِ اَنْ لَّا يَقُولُوْا
عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقُّ وَدَرَسُوْا مَا فِيْهِ ۝
وَالَّذٰرُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ۝
اَقْلًا تَعْقِلُوْنَ ﴿۳۵﴾

وَالَّذِينَ يَمَسِّكُونَ بِالْكَتَابِ
أَقَامُوا الصَّلَاةَ ، إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ
الْمُضِلِّينَ ﴿۵۵﴾

وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ
ظِلَّةٌ وَظَنُّوْا أَنَّهُ رَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا
مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۵۶﴾

۲۱
۱۱

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن
ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى
أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ
شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿۵۷﴾

أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن
قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ
أَفَنُهَلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿۵۸﴾

وَكَذَلِكَ نَقُصُّدُ الْآيَاتِ وَكَعَلْمُهُم
يَزْجَعُونَ ﴿۵۹﴾

وَأَثَلْ عَلَيْهِمْ نَبَا الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا
فَأَنسَلَخْنَا مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ
مِنَ الْغَافِلِينَ ﴿۶۰﴾

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ

بہ یک لاکھ (موسلی ہنز) کتاب چہرہ مصیبت کر تھ
چہرہ تہ تمو چہ نماز قایم تھو مہتر۔ اسی کرو نہ
یقین اصلاح کرن والہن ہند اجر ضایع۔

بہرینیل اسر بہاڑ حسن پیٹھ استاد کوزل زن
تہ سہ اکھ سائبان اوس تہ تمو کوز خیال زمر چھ
حسن پیٹھ پینس تیلر۔ (تہ اسر وزن) یہ کینزھا اسر
توہر دیت مت چھو سہ رٹو چہرہ پاٹھو تہ یہ کینزھا
اتھ اندر چھ تہ مھوو یلا تھ زن توہر متقی ہو۔

بہرینیل سچا زین بن آدم ہندو پش تو منز تہندر
اولاد رٹو تہ تم بناون پسنبن زنون پیٹھ گواہ (تہ پڑھکھ)
ہر چھس ناتہندر پروردگار؟ تو وٹس، او، او، اسی
چہ (اسر کتہ) ہنز) گواہی دوان۔ (اسر کوز یہ او موکھ)
نہ (یقین تہ سپہر) توہر وٹو قیامت کہ دہہ نہ اسی
تہ اسی اسر تعلیم ہنہر بلکل ناواقف۔

یاؤنو یہ نہ صرف اوس (سانہ زمانہ بردھتھ) سانہو
جدو اجلا دہے اوت شہر کورمت تہ اسی اسی اتن
پہر اکھ کمزور پستے کیا تہ کرکھا اسر تہندو کر تہ تو بدل
ہلک، یکم اپز یارک اسی؟

تہ اسی چہرہ پتھ پاٹھو آہے واتس کڈتھ بیان کران
بہر (چہرہ دوسید تھاوان) نہ تم پھیرن پسنہو غلطیو
ہنہر پوت۔

بہر بوز ناو لاکھ یکم تیس شخصہ ہندر حالات پڑتھ
تیس اسر پینز نشانہ دتہ ہتی اسی۔ بہر گیا د سہ
رکن عمر صتھ، تو ہنہر تھہینہ لہ۔ او کہی روڈ اس شیطان
پتے تہ سہ سپد گلہن منتر شامل۔

اگر اسی سہر تھو تہ سہ کرہن اسی تھو (نشانہ دکر

۱۔ بنی اسرائیلین ہندر سردار بنی اسر تہ کزی کوہ طوکس دانس تل اسلو۔

۲۔ مفسر چہرہ زمان نہریتہ اسی منتر شخصہ ہندر مراد چہرہ بلعم با عوز ناک اکھ شخصہ مگر یہ چہرہ اکھ
خیال نیس شخصہ پیٹھ تہ یہ مثال برابر پیسے سے بنہ بلعم باعور۔

تھدی پایہ ، مگر سہ بیویوں گزرتھتھ زمیںس کن بلہ تہ
پستینن نما ہشن پتہ پتہ بڑک ۔ اوکزی چھ تکر پتہ
حالت تمس ہونی پتہ ہشن لیس (لایہ خا طہ)
تہ کا نہہ چہر تلکہ توتہ پتہ ہان روزان ، اگر تہ تہ تراویں توتہ
چہر تہ ہان روزان ، بلہ ہے حال چہ تہ تہ توک یک سانی تہ
اپڑوان چہ ، اوکزی بوز ناوکہ تہ تہ یک حالت تہ زن تہ کتہ تہ
تہ تہ تہ تہ حالت چھینہ سبھا تہ تہ تہ سانی آیہ اپڑوان
تہ تہ تہ تہ (امر کر توتہ تہ تہ) صرف پستینن تہ تہ
ظلم کران ۔

بیم اللہ (تعالیٰ) ہدایت دیہ تہ چہ ہدایت لیں وارا
اسلن ۔ تہ بین سہ گمراہ کر تہ لوکھ چہ گا پڑ لیں وارا
اسلن ۔

بیم چہ اسر جن تہ انسان (رحمتہ با پتہ) پاؤ کر کر تہ
مگر (تہ چہ یہ سپلان) زہ تہ اندر چہ واریہ تہ
سقدار سپلان ۔ دل تہ چہ تہ مگر تہ تہ تہ
بکر تران ۔ بیم اچہ تہ چھینہ تہن اما پوز تہ تہ
چھینہ تہ تہ چھان ، کن تہ چہ تہ مگر تہ تہ
تہ بوزان ۔ تہ لوکھ چہ گپن ہنڈر پٹھو بلکہ تہ
کھوتہ تہ بدتر (اصلی کتہ چھینہ یہ تہ) تہ چہ
جابل مطلق ۔

بیم اللہ (تعالیٰ) ہندری چہ واریہ رتی صفت ۔
اد تہ تہ اسو تہ ہنڈر ذریعہ تس دعا مانگان ، تہ تہ
لوکھ تہ لوکھ یک تسدین صفتن ہندر حقہ غلط (تہ خیال)
کتہ کران چہ ۔ تہ بیم پستینن اعمالن ہنڈر بدلہ دینہ
بیم یک مخلوق اسر پاؤ کر کر تہ تہ تہ تہ
جماعت تہ تہ تہ یک حقہ کہ ذریعہ (لوکن) ہدایت
دوان چہ تہ حقہ کہ ذریعہ چہ (ذی میس مشر) الفا
کران ۔

إِلَى الْأَرْضِ وَآتَيْنَهُمْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
كَمَثَلِ الْكُلْبِ إِذَا تَحَمَّلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ
أَوْ تَتْرَكُهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ
الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصْ
الْقِصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۵۷﴾

سَاءَ مَثَلًا لِّلْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
وَأَنفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿۵۸﴾

مَنْ يَهْرَأِ اللَّهُ فهُوَ الْمُهْتَدِيٌّ وَوَمَنْ
يُضِلِّ قَادِلِيكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿۵۹﴾

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ
الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا
يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ
بِهَا وَلَا لَهُمْ أَذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا
أُولَٰئِكَ كَانُوا لِنَعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ
أُولَٰئِكَ هُمُ الْغٰفِلُونَ ﴿۶۰﴾

وَاللَّهُ الْأَسْمَاءِ الْخٰسِيَةِ قَادِعُوهُ بِهَا
وَذَرُوا الْكٰذِبِينَ يُلٰجِدُونَ فِيْ أَسْمَانِهِمْ
سَيٰجِدُونَ مَا كَانُوا يَعمَلُونَ ﴿۶۱﴾

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِالْحَقِّ
وَمِمَّنْ يَضِلُّونَ ﴿۶۲﴾

بیمہ تم لوگھ ہم سانہن آہن ایزواون چھہ، اُسک لوگھ
تم وارہ وارہ لیتھہ (ہکس کن) تر شو ووتو کئی ہم
بتمن دہڑ چھنہ۔

تہ بہ چھس (تامتھ) بتمن موہت دوان، میون
تدسیر چھہ واریاہ دور۔

کیا تم چھنا یہ سوچان نہ تہندس صاحبس (یعنی
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلمس) چھنہ مشرہ؟ متہ
چھہ صرف اکھ تنہ وانہ ہشیار کرن دول۔

کیا تم چھنا آسمان تہ زمینہ چہ پادشاہی پہنہ
سران سوچان؟ بیہ پرچھہ تھہ چیزس پہنہ یس اللہ
(تعالیٰ) ہن یاد کوزت چھہ (بیہ اتھ کتھ پہنہ تیزا
ظاہر ما آسہ تہنہز تباہی ہند وقت نزدیک آمت؛
اد کتھ ہند دس امن تم امر تنہ کتھ پتہ ایمان۔
تیس اللہ (تعالیٰ) گمراہ قرار دیہ تس چھہ کاتھہ
ہایت دہڑ دول۔ بیہ چھہ سہ بتمن تہنہزن روہے
گردانین مشر سرگردان تراوان۔

(اے رسول!) تریہ چھی (ہم چانز مخالف) قیامتس
متعلق پرشعان نہ سو کر پیہ؟ تہ ونکھ نہ تیک علم
چھہ صرف میانس پروردگارس۔ تہہ کر پتس ولس
پہنہ فقط سنے ظاہر (دو ڈگوں) سو آسہ بار گوب
آسمان مشر تہ تہ زمینس مشر تہ تہ تو ہدیش
واتہ صرف دوچھان وچھان۔ تم چھی تریہ قیامتس
متعلق پتھہ پانچھ سوال کران زن تہ تریہ تمکہ
وقتہ کہ معلوم کر بوج کل چھہ۔ تہ ونکھ (سیاہ
خاطر چھہ یوتے سبھا) نہ تیک علم چھہ صرف
اللہ (تعالیٰ) ہس مگر وراہ لوگھ چھنہ تہ زانان۔
تہ ونکھ (بیہ تہ) نہ پتہ نہ تو خاطر نہ چھس بہ
کتہ نفعک ماہک (تہ) نہ نو قصاکت۔ دو ڈگوں
(میںہ واتہ تی) یہ اللہ (تعالیٰ) تہنہ تہ اگر بہ
مقاب زانہ ون آسہ تہ بہ سو تراوانا پرزرو

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ
مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۷﴾

وَأْمُرِ لَهُمْ بِأَنْ كِيدِي مَتِينٌ ﴿۳۸﴾

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي مَا بَصَّارِهِمْ مِّنْ
حَيْثُ هُوَ أَلا تَذِيرُ مَبِينٌ ﴿۳۹﴾

أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمٰوٰتِ وَ
الْأَرْضِ وَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ؕ وَ اَن
عَسٰى اَن يَكُوْنَ لَدٰى قٰتِرٍ اَجَلُهُمْ
فِيْ اَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَ اٰيٰتِنَا يَوْمَئِذٍ ﴿۴۰﴾

مَنْ يُضِلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ ؕ وَ
يَذُرْهُمْ فِيْ طُغْيٰنِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿۴۱﴾

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ
مُرْسَلُهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ
لَا يُجِئُهَا لَوْ فُتِحَآ اِلَّا هُوَ ؕ ثَقُلَتْ فِي
السَّمٰوٰتِ وَ اِلْأَرْضِ لَآ تَأْتِيْكُمْ اِلَّا بَغْتَةً
يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا
عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِن اٰخَرُ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُونَ ﴿۴۲﴾

قُلْ لَا اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا اِلَّا
مَا شَاءَ اللّٰهُ ؕ وَ لَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبِ
لَاسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ؕ وَ مَا مَسْنِي
السُّوءُ بِرِآنِ اَنَا لَآ تَذِيْرُ وَ بَشِيْرٌ

لَقَوْا وَيُؤْمِنُونَ ﴿۸۱﴾

۱۳۱

اندر واریاہ پستہ خاطر - تہ میہ واتر ہے تہ زاہ
کا نہہ تکلیف - مگر بہ تہ چھس صرف مؤمن ہند
باپتہ ہشیار کرن وول تہ نحو شخیر دہ وول -

سے چھہ بیوہ توہی اکی زوہ اندر پاد کرک ہتی چھو تہ
تہ کی تمک چھن تس جوہ ہومت بیہ سہ تس
کرن مال کر تہ قرار بہ - اد بیلہ سہ تس ولہ یوان
چھہ تہ سو چھہ نوت ، یو ہوتان تہ سہ ہتہ چھہ
(سو اور یور) پھیران اد بیلہ سو (ہنا) گوہ بان چھہ
دہ شوے (سرہ تہ زنان) چھہ پنسن اللہ (تعالے)
ہس یس تہند پروردگار چھہ ، دعا منگان زہ اگر تہ
اسہ اکہ اور دور ستر دکہ تہ اسی ہو چانی شکرانہ
کرن والی بندہ -

اما یز بیلہ سہ بہن اور دور شرحط کران چھہ تہ تم
دہ لوہے چھہ بہن اولادن مشریم بہن خدایں دتی ہتی
آسان چھہ ، تہندی (یعنی خدایہ ہندی) شریک ٹھہراونی
ہوان - تہ اللہ (تعالے) چھہ تہند شریک کرنہ ہتہ
سبھا تھوہ تہ بالا -

تم چھا (بہن خدایہ ہندی) شریک ٹھہراوان ہم تہ
کہنی تہ پاد چھہ کران بلکہ چھہ پانہ پاد کرنہ یوان -
ہیہ چھہ تم بہن (شریک کرن والہن) ہند مدد
کرنک اکہ دانی تہ طاقت تھوان تہ نہ ہیک سنہن
پانہ ہند مدد کر تہ -

ہیہ ہر گاہ تہ بہن (ایہن معبودن) ہدایتس کن ناد
دکہ تہ تم ہیکن تہ چانی پادوی کر تہ - چون بہن
ناد کرن یا ترھوہ پدہ کر تہ روزن چھہ تہند حاطر
ہشی کتہ -

ہین لوکن توہی اللہ (تعالے) ہس واری آلو
کران چھو - تم چھہ توہی ہویہ بتہ - اد توہی
روزی تو بہن آلو کران (تہ) مگر توہی یز یارک چھو
تیلہ نوکی تن تم تہندس آلوں جواب دتہ -

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا
لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ
حَمْلًا خَافِيًا فَمَرَّتْ بِهِ فَكَلَّمَا
أَثْقَلَتْ دَاعُوا اللّٰهَ رَبُّهُمَا لَمِنَ
اتِّمَّتْكَ صَالِحًا تَتَكُونَنَّ مِنَ
الشَّكِرِ يٰۤاِنَّ ﴿۸۱﴾

فَلَمَّا اتَّخَذْتُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَكُمَا
شُرَكَاءَ فِيمَا اتَّخَذْتُمَا فَتَعَلَى اللّٰهَ
عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۸۱﴾

أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَ هُمْ
يُخْلَقُونَ ﴿۸۱﴾
وَ لَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَ لَا
أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿۸۱﴾

وَ اِنْ تَدْعُوهُمْ اِلَى الْهُدٰى لَا
يَتَّبِعُوْكُمْ سِوَآءَ عَلَیْكُمْ اَدْعُوْهُمْ
اَمْ اَنْتُمْ صٰمِتُوْنَ ﴿۸۱﴾

اِنَّ الَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ
اَمْثَالُكُمْ فَاَدْعُوْهُمْ فَلَیْسَتْ حٰیثُ
لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ﴿۸۱﴾

أَلَهُمْ أَزْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا نَأْمَ لَهُمْ
أَيْدِي يَبْطِشُونَ بِهَا نَأْمَ لَهُمْ أَعْيُنُ
يُبْصِرُونَ بِهَا نَأْمَ لَهُمْ إِذَا نَ
يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ إِذْ عَوَّضْنَاكُمْ
ثُمَّ كَيْدُ ذِي فَلَا تُنظِرُونَ ﴿۱۱﴾

إِنَّ ذَٰلِكَ يَٰ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّٰلِحِينَ ﴿۱۲﴾

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا
يَسْتَلِطُّوْنَ تَصْرِكُمْ وَلَا أُنْفُسَهُمْ
يُنْصُرُونَ ﴿۱۳﴾

وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا
وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا
يُبْصِرُونَ ﴿۱۴﴾

خُلِ الْعَفْوَ وَأَمْزٍ بِالْحَرْفِ وَأَعْرِض
عَنِ الْخٰهَلِيْنَ ﴿۱۵﴾

وَإِنَّمَا يَنْزِعُ عَنْكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْرًا
فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۶﴾

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ
طٰرِفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ تَكَاكُرًا فَمَا إِذَا
هُمْ مُّبْصِرُونَ ﴿۱۷﴾

وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ
لَا يُقْصِرُونَ ﴿۱۸﴾

وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْ

کیا تم چھا کھو رہو سستی تم پکان چھو؟ یا تم
چھا اتھو یو سستی تم رمان چھو؟ یا تم چھا اچھو
یو سستی تم وچھان چھو؟ یا تم چھان کن یو سستی
تم بڑان چھو؟ تر دن تم نہ پتو ساری شریک
انہو کہ ناد دتھ پتو کر ساری سبتھ میہ خلاف
منسوبہ (تیار) تر میہ متہ دیو کا نہ مہلت۔

میون دوست چھو بے شک سہ (خدا) بیتر کمال کتاب
نازل کر مٹر چھینے۔ بیہ چھو سہ نیک بندن اتھو
راٹ کران۔

بیہ تم لو کہ میں تو ہی تمس ورا ہی آلو کران چھو تم
نہ چھو تو بہ مدد کرناگ تو فسق تھاوان تر نہ چھو تم
پنہن پان مدد کران۔

بیہ تم تو ہی تم ہاتس کن ناد دیو تر تم بچھو ہوتھ
ہکان۔ بیہ چھو کہ تر تم وچھان تر زنتہ چھو تم شری
کن وچھان۔ کتھ چھینے یہ تر تم چھی ہ (شرینہ)
وچھان۔

(اے نبی!) عفو کر تر فطرہ مطابق کتھن ہند
آس حکم دوان تر جاہل لوکن ہند کنہ روز بھتھ چھو۔

بیہ تم شیطان ہند طرفہ تر یہ کا نہ تکلیف واتی تیلہ
مگ تر اللہ (قعالے) ہس پناہ یس سبھا بوزن
ول تر سبھا زان ول چھو۔

بے شک تم لو کہ (چھو ہایت لبان) یو تر وقتہ
تقوی پر وویلہ تم شیطان ہند طرفہ پتہ ول کا نہ
خیال محسوس سہ تر تم گے ہتیار تر تم آہی اچھو
متر نہ۔

بیہ تم (کافرن) ہند کر باہی چھو تم مٹا ہی کن لما
پتہ چھینے کنہ قہمگ چھو نہ کران۔

بیہ سیدہ تر تم بنش کا نہ تون ہتھانہ انکہ نہ

اٹی چھی ونان ز تر تیر کیاز اؤنتھ نہ سہ (نشانیہ المبتدئہ؛
 تر ونکھ ز بہ چھس صرف سپنس پروردگار ہند طرفہ
 پانس پیٹھ نازل سپدن واجنہ ڈھیہ ہنر پاروی کران
 یہ ڈھی چھینہ تہندس پروردگار ہند طرفہ دلاؤ لو برتھ
 تہ مؤمنن ہند خاطر چھینہ ہدایت تہ بیہ چھیدہ رمت تہ۔
 بیہ (اسے لاکو) بییلہ قرآن پر نہ پیہ تہ سہ اہسو
 توہی روزان تہ ترصہ بہ کڑتھ اہسو روزان - بیٹھ زن توہی
 پیٹھ رعم کرنہ پیہ۔

بیہ (اسے نبی!) تہ اہسو زین لین پروردگار سپنس
 دس مشرعا جزی تہ خوفہ سان یاد کران روزان۔
 پیہ (اھن سہ یاد کران) سہ تہ سہ تہ تہ لو تہ لو تہ
 صبحن تہ تہ شامن تہ۔ تہ زاہ سپدری ز نہ غفلت
 کرن والین مشر شابل۔


پیم لاکھ پانس پروردگارس نزدیک چھہ (اہم) چھینہ
 سپنس پروردگار ہنر عبادت کرنہ کرنہ پین پان
 یوڈ زنان۔ بیہ چھہ تہنر تسبیح کران روزان بیہ
 چھہ تہس برتھ کنبہ سجدہ کران روزان۔

لَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ اِنَّمَا اتَّيْتُمْ مَآيُوتَى
 اِلَآئِي مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَآئِرُ مِنْ رَبِّكُمْ
 وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۲۴﴾

وَ اِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ
 اَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۲۵﴾

وَ اِذْ كُنَّا فِي نَفْسِكَ نَتَضَّرَّ عَاوًا
 خِيفَةً وَدُؤَانَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ
 وَالْآصَالِ وَ لَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ ﴿۲۶﴾

اِنَّ الْاٰزِيزَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُ وَن
 عَنْ عِبَادَتِهِ وَ يَسْتَحْسِنُ وَ كَلَّ
 يَسْجُدُونَ ﴿۲۷﴾



سورة انفال: یہ سورہ چھ مدنی تہ بسم اللہ بہت چھ بیٹھ مشر شستہ آہ بیہ چھس داہ رکوع۔

(بہ چھس) اللہ (تعالیٰ) سدا ناو بہتہ اپران) بیس حد
 رؤس کرم کرن وول (تہ) پھیر کر چھیر کر رعم کرن وول چھہ
 (اسے رسول!) لاکھ چھی تر تیر مال غنیمت متعلق
 پر ترصان۔ تر وون (تہن) نہ مال غنیمت چھہ اللہ
 (تعالیٰ) تہ تہندس رسولہ ہندی۔ لہذا پرا وود اللہ
 (تعالیٰ) سدا تقویٰ تہ پانہ واؤی کرو اصلاح کر پرنج
 کوشش تہ ہرگاہ توہی مؤمن چھو تہنہ کرو اللہ
 (تعالیٰ) تہ تہندس رسولہ ہنر اطاعت۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾

يَسْأَلُو نَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ
 لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ فَاَتَقُوا اللّٰهَ وَ اَصْلِحُوا
 ذَاتَ بَيْنِكُمْ سَوَاطِطِ اللّٰهِ وَ رَسُوْلَهُ
 اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ﴿۲﴾

مؤمن چھ صرف تھے یہیں بروٹھ کہنے سے اللہ تعالیٰ
سزا دیکر کہنے سے تہندری طل کھوشن - تہ نیلہ تم
بروٹھ کہنے سے تہندری آپ پر نہین تہ تم ہراوان تہند
اپناں - یہ (چھ مؤمن تم) ہم پسند پروردگار
پیٹھ توکل کران چھ۔

(یہ تھے پاکھو چھ حقیقی مؤمن تم) ہم نماز چھ (شرطن
نظر تل تھاوتھ) ادا کران - یہ یہ دیکھتھا، اہر
تم دیت مت چھ تہ منتر چھ خرچاوان -

پکے (پیٹھ کہنے و نتر آہی صفت تھاوان اولی) چھ
پزری مؤمن - تہند خاطر چھ تہندس ریس نش
(تھند تھند) درہم تہ بخشایشہ ہند سامانہ تہ
عزتہ وول رنق۔

یہ (انعام آسہ تم پیٹھ) امر باعثہ کنی تر تہ چھ کھا
چانی پروردگار ان خاص مقصد خاطر گر منتر کو دوت
تہ مؤمنو منتر اوس کھ فریق اتھ سپٹھ ہے ناپند کران۔

تم چھ تریہ سستی، حق نون گزھندہ پتہ تھہ پاکھو
بخت کران زن تہ (اسلام وچ دعوت دہ سستی)
چھ تم مولس کن پکناونہ لیوان تہ (یہ کئی چھ
فکر تران ز) تم چھ (سہ موت اچھو) وچھان۔

یہ (پاؤو سہ وقت ترہس) نیلہ اللہ تعالیٰ
توہم دھلو جھاڑو منتر ایک و عدہ کران اوسو نہ سم
پیو توہم دہ - تہ توہم اوسو دہ پترھان نو سہ مات
یمن نش ہتھد بچھہ گزھندہ و توہم دہ پتر تہ
اللہ تعالیٰ اوس پترھان نو سہ کر حق پسندہ محکو
دوسو پوہر تہ کاہرن تر تہ مول۔

یہ سہ پیٹھ پاکھو حق تاہم کر تہ باطل کر تباہ اہ
مجرم (لوکھ) کوہہ آسن اتھ ناپندہ کران۔

یہ (پاؤو سہ وقت یاد) نیلہ توہم پسند پروردگار
فریاد اوسو کران - اتھ پیٹھ پوزر تہندری پروردگار

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ
وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ
آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ
يَتَوَكَّلُونَ ﴿٨﴾

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ مَعًا
رَدَقْتَهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٩﴾

أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ
دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ
كَرِيمٌ ﴿١٠﴾

كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ
بِالْحَقِّ وَإِن فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ
لَكُرْهُونَ ﴿١١﴾

يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ
كَانَ مَا يَسْأَلُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ
يَنْظُرُونَ ﴿١٢﴾

وَإِذْ يَجِدُكُمُ اللَّهُ إِخْدَىٰ الطَّاغُفَتَيْنِ
أَتَّهَاتَا لَكُم وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ
الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُم وَيُرِيدُ اللَّهُ
أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ
ذَابِرَ الْكُفْرَيْنِ ﴿١٣﴾

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ
كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿١٤﴾

إِذْ تَسْتَفْتِيُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ
لَكُمْ أَنِّي مُّمِدُّكُمْ بِالْفِئِدِ مِّن

الصَّلٰوةَ مُزِدِّ فَيِّنَ ⑩

تہندک دُعا (تہ وونُن ز) بہ کروو توہہ سہہ
بدو ٹاکیو سیتی مدو۔ بہند شکرس پیٹہ شکر ہونہہ
کن پکان آسہ۔

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا وَ لِيَتَطَمَّئِنَّا
بِهِ قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ⑪

بہ آس اللہ (تعالیٰ) ہن یہ خبر محسن اکہ تو شجری
کنہ نازل کر ہتر میتہ امہ کر ذریعہ تہندک دل مطمئن
سیدن تہ مدد چھہ صرف اللہ (تعالیٰ) ہس نشی یوان
(ٹاکیو چھہ فقط اکہ علامت) اللہ (تعالیٰ) چھہ
یقینا سہہٹا غالب (تہ) حکمتہ دول۔

إِذْ يُغَشِّبِكُمُ السَّيِّئَاتُ مِنَّمَا كُنْتُمْ
يُنزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ رِجْسَ
الشَّيْطٰنِ ۚ وَلِيُبَيِّنَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ
وَيُبَيِّنَ بِهَا الْآيٰتِہٖ ⑫

(یہ نشان سپد تہہ وقتہ ظاہر) بیلبہ خداے (پہنہ
طرف) امین تہ اطمننا پنج تو شجیر دنہ خاطر توہہہ
پیٹہ تندر مفعول نازل کران اوس۔ تہ توہہ پیٹہ
اوس اوہہ مشر آب نازل کران۔ سیتہ زن توہہہ
تہہ سیتی پاک کروو۔ تہ شیطا تہہ ہتر گندگی (یعنی
تسند خوف) کہ توہہ نش دور، بہہ میتہ تہندک دل
مغنیط کر تہ امہ (رؤد) دُسو در او تہندک قدم بہ
(یہ اوس سہ وقت) بیلبہ چون پروردگار ٹاکیو تہ
دُحو کران اوس نہ بہہ چھس توہہہ سیتی۔ او کہنی
بنائو لوکہ مؤمن ثابت قدم۔ بہ تراو کافرین ہند بن
طن مشرعب۔ لہذا (اے مومنو!) توہہ گتہو
تہنزن گردنہن حملہ کران بہہ گتہو تہندس بندس
بندس ٹاس دلان۔

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلٰئِكَةِ اَنِّي مَحْكَمٌ
فَنَشِطُوا الَّذِينَ اٰمَنُوا ۚ سَاَلْتَنِي فِي
قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّغْبَ
فَاَضْرِبُوْا قُوَّةَ اٰلِ عَتٰقِي ۚ وَ اضْرِبُوْا
مِثْلَهُمْ كُلَّ بَنٰنٍ ⑬

یہ سپد او کہنی نہہ تو چھہ اللہ (تعالیٰ) تہ تہندس
رسولہ ہتر مخالفت کر ہتر۔ او میں کاتبہ اللہ (تعالیٰ)
تہ تہندس رسولہ ہتر مخالفت کران چھہ (سہ گتہہ
زانن نہ) اللہ (تعالیٰ) چھہ کر لٹوٹہ سزا دنہ دول۔
(اے لوگو! بوزو!) سیتہ چھہ آسان (اللہ تعالیٰ
سزا سزا) لہذا وچھو اتہ سزا! تہ (یاد تھو)

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاقُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَ
مَنْ يُشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ
شَدِيْدُ الْعِقَابِ ⑭

ذٰلِكُمْ قَدْ وُقُوْهُ ۚ وَاَنَّ لِلْكَٰفِرِيْنَ
عَذٰبَ النَّارِ ⑮

لہ یہ چھہ جنگ باریک واقعہ مومن ہند کہہ اوں سیکہ نادان میں رؤد پہنہ سیتی دلو۔ تہ کافرین ہند
کہہ آس نہ سیکہ نیکہ آس میتہ، توہہ کہہ ڈرہہ رؤد سیتی رب میتہ پیٹہ ہنن برکن آس گتہمان۔

نہ (کافرن چھ بڑی یا ٹھو تارک عذاب واتن وول۔
اے مؤمنو! نیلہ توہر کافرن کہ لشکر کس مؤمنس
مغر سمکھو۔ تہ زاہ مہ اسو اتن تھر ہاوان۔

تہ یس اکھ بیس مؤمن پیٹھ تہ لبتہ مھر چھر،
اسہ وراہی تر سہ آسہ لرایہ باچھہ جاے بدلاوان
یاکنہ (مسلمان) جھاڑ کن آسہ (تھن ہندہ
مدد کرہ خاطر) پتھ ہٹان، سہ پھیر اللہ تعالیٰ
سہ غضب ہتھ پوت تہ تہ تھکانہ آسہ جہنم تہ
روزہ خاطر چھین سہ سہٹا خراب جاے۔

لہذا (تھاوو یاد نہ) تم (کافرن) اُسو تہ توہر
ہاری ہتھ بلکہ اُسو تم اللہ تعالیٰ ہن مارو تہ
بیہ نیلہ تہ کتھ مٹھ لایے پتھ تہ لایے
پتھ تہ بلکہ لایے یہ سو اللہ تعالیٰ ہن تہ نیلک
نتیجہ یہ سپد نہ تہ کور اُسو مؤمن پیٹھ اکھ بوڑ
اصان تہ اللہ تعالیٰ چھ یقیناً سہٹا بوزن وول
(تہ) سہٹا زان وول۔

یہ کتھ سپد تھ پٹھو (پتھ پٹھو اسہ وو تہت اکہ)
تہ اللہ تعالیٰ چھ بے شک کافرن ہند تہ سپر
کمزور کرن وول۔

(اے مگر کہو کافرو!) اگر توہر فیکہ نشانہ منکان
اُسو تہ تی تو توہر تہش واڑ فتح، تہ اگر وول
تہ توہر باز ہو تہ یہ آسہ بے شک تہ ہند باچھہ رت
تہ اگر توہر (بہ ڈا تہ کن) واپس پھیر تہ اُسو
تہ پھیرو (سزا دین کن) واپس۔ اڈ تہ ہنڈ
لوک کافراہ تہ زورا وار اُسو تن، دیو تہ توہر
کاہہ قاید تہ اللہ تعالیٰ چھ مؤمن سہٹو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقَيْتُمُ
الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمْ
الْأَدْبَارَ ۝

وَمَنْ يُولُوهُمْ يَأْمُرْ بِالْإِلْمَاعِ
لِقِتَالِهِمْ أَذْ مُنْحَرِفًا إِلَى فِتْنَةٍ
فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ
وَمَا دُمَ جَهَنَّمُ وَ
يَسُئُ الْمَصِيرُ ۝

فَلَمَّا تَفَتَّلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ
قَاتَلَهُمْ وَ مَا رَمَيْتُمْ إِذْ
رَمَيْتُمْ وَ لَئِن لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ
رَاحِمًا لِّلْمُؤْمِنِينَ لَآتَيْنَكُم
بَلَاءًا حَسَنًا إِنْ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ
سَمِيعًا عَلِيمًا ۝

ذٰلِكُمْ وَ اَنَّ اللّٰهَ مُؤْمِنٌ كَنِيْدُ
الْكٰفِرِيْنَ ۝

لَ اَن تَشْتَفِيْ نَحُوْا فَا قَدْ جَآءَكُمُ
الْفَتْحُ ۚ وَاِن تَنْتَهُوْا فَمُوْا
حٰنِيْدٌ لَّكُمْ ۚ وَاِن تَتَّوْذُوا
وَا نَعُوْا لَنَعُوْا ۚ وَ لٰكِن تَغِيْبِيْ
عَنْكُمْ فَنَشْكُمُ شَيْئًا وَا لَوْ كَثُرَتْ
ۚ وَاِنَّ اللّٰهَ مَعَ
الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

لہ جنگ بدر کس وقت پیٹھ سہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے پھلی موچہ مشرتہ لایکھ کھان کن خدا تعالیٰ
نہ لکھ سہ چلو ہا ہر ساعت پتھ و او زیکھہ و رہے یہ تہ کافرن ہنڈ اچھہ گے بیکار۔ پتھ آسہ ہنڈ چھ تھو کن اشارہ۔

اے مؤمنو! اللہ (تعالیٰ) تمہیں ہندس رسولہ
سینہ اطاعت کرو تمہیں کو ہندس ہندس ہندس
کتے بھتہ۔ اتھہ حالتس منتر نہ توہی اسی (تسند
حکم) بوزان۔

بیسہ ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس
اسی چھ بوزان مگر تم اسی نہ بوزان۔

اللہ (تعالیٰ) ہس ہندس چھ ہندس کھوتہ تمہیں
لکھ ہم زری تمہیں کھوتہ ہندس ہندس ہندس
بیسہ اگر اللہ (تعالیٰ) ہندس ہندس ہندس ہندس
تمہیں ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس
تمہیں اگر ہندس (موجودہ حالتس ہندس ہندس ہندس
ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس
ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس

اے مؤمنو! اللہ (تعالیٰ) تمہیں ہندس ہندس ہندس
ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس
بیسہ ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس
ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس
ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس
ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس

بیسہ ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس
ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس
ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس
ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس

بیسہ ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس
ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس
ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس
ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس
ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس
ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ
رَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَ أَنْتُمْ
تَسْمَعُونَ ﴿۱۱﴾

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ
هُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿۱۲﴾

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضَّمُّ
الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يُعْقِلُونَ ﴿۱۳﴾

وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ
وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۱۴﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ
لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ
وَ قَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَهٌُ مُّخْتَفٍ ﴿۱۵﴾

وَ اتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ
ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۱۶﴾

وَإِذْ كُرِّدَا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ
فِي الْأَرْضِ خَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ
الْبَاسُ فَادْعَاكُمْ وَأَيْدِيكُمْ يُنْزِرُ وَ
رَدَّكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۷﴾

لے یعنی روحانی رنگ چھ زری تمہیں

لے ابھی تمہیں چھ ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس
ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس
ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس
ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس ہندس

ہندس ہندس

یہ توہی شکرانہ کرو۔

اے مومنو! اللہ (تعالیٰ) تمہیں رسوٰی رسولہٴ سیدنیٰ
مہ کرو! بیہ مہ کرو پستین امانن ہند خیانت
اتھ حالتس مفرزہ توہی چھو زمانان مانان۔

بیہ تھاوو یاد نہ تہند کمال تہ تہند کراولاد بھ
صرف اکھ آزمائش۔ بیہ یہ نہ اللہ (تعالیٰ) بھ
سہ ذات بیئیس منش بوڈ اجر چھ۔

اے مومنو! اگر توہی اللہ (تعالیٰ) سہ تقویٰ
پراوو تہ سہ کر تہند باپتھ اکہ بڑا امتیازک
سامانہ پاچہ تہ تہنہر کمزوریہ کردور تہ توہی
بخشوو۔ تہ اللہ (تعالیٰ) چھ بوڈ فضلہ وول۔

بیہ (اے رسول سہ وقت پاور تہنہس) نیلہ کافر
ثریہ متعلق تدبیر کران اسی۔ چھ زن ثریہ (اہیں
چاہے) قلعہ بند کرہنے یا ثریہ قول کرہنے یا ثریہ
کڑہنے، اڈ تہ تہ اسی تدبیر کران تہ اللہ (تعالیٰ)
تہ اوس تدبیر کران۔ تہ اللہ (تعالیٰ) چھ تدبیر
کران والہو اندہ ساروہے کھوتہ بہتر تدبیر
کران وول۔

بیہ نیلہ تمہ بروٹھ کتہ سانی آہیہ پرتھ بوزناونہ
یوان چھ تہ تم چھ ونان، (تھو! تھو!) اسر بوز
تہنہر کتھ۔ اگر اسی بیٹھو اسی تہ ہیکو بیٹھ
کلام بناوتھ (پیش کر تھ) یہ (قرآن) چھ صرف
پرانہن ہنہر کتھ۔

بیہ (پاوو یاد) نیلہ تمہ و نیاو، اے اللہ! اگر
چاہہ طرفہ ہوہے (دین) حق چھ، تہ اسر پیٹھ
وال آسمانہ پیٹھ کتہ رُوڈ یا و اسر بیہ کانہہ سخت
کرنوٹھ عذاب۔

اہا بوز اللہ (تعالیٰ) ہیکہ ہے نہ تمہ تھہ حالتس
مفر عذاب دتھ نیلہ تہ تمہ مفر موجود اوسکھ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۸﴾

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاكُمُ وَأَوْلَادُكُمْ فَشِنَّةٌ آتَىٰ اللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿۹﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۱۰﴾

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ أَلْمَا كَرِيْبِنٌ ﴿۱۱﴾

وَإِذَا تُثَلِّ عَلَيْهِمُ الْآيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿۱۲﴾

وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ آوَاثِنَا بِعَذَابِ آلِئِيمٍ ﴿۱۳﴾

وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَ مَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ

وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿۲۷﴾

تو نہ ہی کہے اللہ تعالیٰ، تم تنہا حالتس
منز عذاب دتھ بیلیہ تم استغفار کران آسہن۔

بیرہم کیاہ (موضتہ) چھہ (ہران)۔ نیہر کہو
اللہ تعالیٰ، تم عذاب دیہ نہ اسر باوجود
نہ تم چہ (لوکن) عزتہ واجتہ مسجد (یعنے خانہ
کعبہ) نشہ ٹھاک کران بیرہم چھہ دراصل
تھکو متولی، تھکو (اصلی) متولی چھہ صرف متقی
مگر یو (گافرو) مشہر چھہ واریاہ یہ کتھ زانن
تہ تہا کعبس نش تہنہر نماز کیاہ چھہ بیرہم شکر
نہو تہ شہر سپہ ورائی ہ لہذا (اسے بے دینو!)
پستہ کھڑکہ باعتہ وچھو عذابس منہ۔

یو کفر کورمت چھہ تم چھہ یقیناً پتو مال اللہ تعالیٰ
ہنہر و تہ نشہ لوکن پتہ رتہہ باچھہ خرچ کران۔
تم گرتھن رتھہ پاتھو ہم مال خرچ کران پتہ
آخرس بز (یہ خرچ) تہنہر خاطر حسرتک موہب
تہ تم بین متلوب کرنہ۔ بیرہم یو لوکو کفر کورمت
چھہ تم بین سو نہراوتھ جہنم کس نہہ۔

یہ تہ زن اللہ تعالیٰ، خبیثس طعیس مقابل
ممتاز کرنہ تہ خبیث چہرن ہندین کینہر حمن
تھاو کینہر پتہ پتہ بناو سارہن اکھ انہر
تہ آتی دیہ سہ (سورسہ انہر) جہنم منہ
برتھہ۔ (بلوزو) یکے (لوکھ) چھہ گارہ لین والہ۔
تہرن کافرن نہاگرتہ بازین تہ یس (تھنور) تہنہر
دسو برونتھ گومت چھہ (سہ) بیرہم معاف
کرنہ تہ اگر تم بیرہم (تہنہر کروتھ کن) چھہ
تیلہ برونتھ ہن لوکن سوتی (یس) سنت گدیوت
چھہ (سے معاملہ سپدہن سوتی)۔

بیرہم روزو بین (کافرن) سوتی تھگ کران یوت تام
نہر جگ نیب نشاہ روزہ نہ ہاتھ۔ تہ دین سپدہر سالم
اللہ تعالیٰ، ہندی خاطر۔ تہ اگر تم پتہ روزن اہر

وَمَا لَهُمْ آلَا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ
يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ
مَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهَا إِلَّا
الْمُتَّقُونَ وَلَئِنْ أَكْثَرْتَهُمْ لَا
يَعْلَمُونَ ﴿۲۸﴾

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا
مُكَاوَدَةً وَتَضْيِئَةً، فَذُوقُوا الْعَذَابَ
بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿۲۸﴾

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ
لِيَصُدُّوا عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ فَيَسْنِفُونَ نَهَا
ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ
يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ
يُخْشَرُونَ ﴿۲۹﴾

لِيُمَيِّزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَ
يَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ
فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي
جَهَنَّمَ، أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿۳۰﴾

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا
يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا
فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴿۳۱﴾

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ
وَيَكُونَ لِلدِّينِ كُلِّهِ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا
فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۳۲﴾

اللہ (تعالیٰ) چھ بے شک تہندو اعمال وچھان۔
 تہ اگر تم تھنر پھرن تہ زانو ز اللہ (تعالیٰ) چھ
 بے شک تہندو حامی۔ سہ چھ سارو بے کھوتہ رت
 حمایت کرن وول تہ سارو بے کھوتہ رت مددگار۔

بہ زانو ز یہ کینرھا تہ تہ بہ مالہ غنیمتہ منتر میلہ و
 تر منتر چھ پانترم حصہ (۵) اللہ (تعالیٰ) تہ تہندو
 رولوہ ہندو خاطر تہ (رٹوس سستی) نزدیکی تعلق تھان
 والہن ہندو خاطر نہ یلمین تہ مسکین ہندو خاطر بہ مسافرن ہندو
 خاطر ہرگاہ توہی اللہ (تعالیٰ) ہس پیٹھ ایمان انسان
 چھو بہ تھ پیٹھ تہ یہ اسہ پننس بندس پیٹھ پیزس
 تہ اپزس منتر فاصلہ کرن والہ وہہ تہ نازل کورمت اوس
 نیہ دوہہ دونے شکر جمع کھوتہ اسی (تہ تھ پیٹھ
 کرو عمل) تہ اللہ (تعالیٰ) چھ پرچہ کتہ چیزس
 پیٹھ تودت تھولن۔

تہہ دوہہ) نیلہ توہی (چھو کس میلانہ کس) سپارکس
 اندس پیٹھ اسی و تہ تم اکافر اسی اپاری مس اندس
 پیٹھ تہ تا ظہر اوس توہہ نش بو تہہ طرفہ تہ ہرگاہ
 توہی بہن سستی و عہہ تہ کڑی ہو تہ توہی کڑی ہو چھو
 کس) و تلس متعلق بہن سستی اختلاف کمر (خداہن
 کڑی و توہی جمع) پیٹھ سہ سو کتہ پورہ کرے نیمہ
 کر کرنک توہی فاصلہ کورمت اوس (تہ یہ نشان آد
 اسہ کتہ تہ اوہن) پیٹھ سہ یس دلپہ سستی ہلک پڈت
 چھ، سیدن ہلک تہ سہ یس دلپہ سستی زندہ کورمت
 چھ، مگر تھن زندہ۔ تہ اللہ (تعالیٰ) چھ یقینا سوٹھا
 بوزن وول (تہ) وادہ زانن وول۔

(یہ واقعہ چھ تہہ وقتک) نیلہ اللہ (تعالیٰ) ہن
 پائس خابس منتر تہہ تم کم کرتہ لوہیانی۔ تہ اگر
 تہہ تم (کافر) واریاہ اوہن بیہ ہن تہ توہی اوہ

وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ
 مَوْلٰىكُمْ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَ نِعْمَ
 النَّصِيْرُ ﴿۱۰﴾

وَاعْلَمُوْا اَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ
 فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُوْلِ وَ لِزِي
 الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسْكِيْنِ وَ
 ابْنِ السَّبِيْلِ ؕ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ
 بِاللّٰهِ وَ مَا اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ
 الْفُرْقٰنِ يَوْمَ التَّقٰى الْجَمْعِيْنَ ؕ وَ
 اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۱۰﴾

اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدُوَّةِ الْاَدْنٰى وَ هُمْ
 بِالْعُدُوَّةِ الْقُضُوٰى وَ الرِّكْبِ اَسْفَلَ
 مِنْكُمْ ؕ وَ لَوْ تَوَاغَدْتُمْ لَا خْتَلَفْتُمْ فِى
 الْمِيْعٰدِ ؕ وَ لٰكِنْ لِّيَقْضِىَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ
 مَفْعُوْلًا لِّرِيْهِلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيْتِنَا
 وَ يَحْيٰى مَنْ حَيَّ عَن بَيْتِنَا ؕ وَ اِنَّ اللّٰهَ
 لَسَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۰﴾

اِذْ يَرِيْكُمْ اللّٰهُ فِى مَنَايِكَ قَلِيْلًا
 وَ لَوْ اَرٰكُمْ كَثِيْرًا لَّفَشَلْتُمْ وَ
 لَتَنَادَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمَ

لَئِنَّ عَلَيْنَا مِثْلَ الْبُخَارِ ﴿۲۰﴾

ہو حضور کمزوری تہ اتھ معاملس (یعنی جنگ کس حقس)
مشرکترہ ہے و توہر جگہ (از جنگ کروا کہتہ نہ) مگر
اللہ (تعالیٰ) ہن رُحیو و (توہر) سہ چھہ دن تہا ہنہر
کتھہ زبر پاٹھو زانان ۔

بہ (پاوو یاد) بیلہ سہ نمن (کافرن) تہنہر نظر
مشرکترہ ہے و توہر کمزور ٹوان اوں ۔ تہ توہر اوٹو تہنہر
نظر مشرکترہ ٹوان بیٹھہ زن اللہ (تعالیٰ) سہ کتھہ
پڑو کر بیٹیک توہر فاصلہ کورمت چھہ تہ اللہ (تعالیٰ) ہے
کن بین سارے کتھہ پھیرتھہ نہہ ۔

اے مومنو ! بیلہ توہر (کافرن ہندس) کتھہ فوجس
بٹھہ لگو تہ ثنابت قدم روزیو ! بیہ اسی ہن اللہ
(تعالیٰ) سہٹھا یاد کران بیٹھہ زن توہر کامیاب سپو ۔

بیہ اسی اللہ (تعالیٰ) تہ تہندس رسولہ ہن تراعت
کران روزان ، بیہ سہ اسی پانہ وانی اختلاف کران ۔ (یوہ
وسے تہ کتھہ) بیلہ کتھہ روز دل تہ تہندہ زور روز کم گرتھان
بیہ روزو صبر کران ، اللہ (تعالیٰ) چھہ صبر کران واپن
سہتھو ۔

بیہ سہ ہنہر لوکن ہندس پاٹھو ہم پینہو گرو مشر
لوکن (پینہو بوہوری تہ دہنی غیرت) ماونہ خاطر
کبہر کران دراسے ۔ بیہ ہم اللہ (تعالیٰ) ہنہر تہ
ہنش (لوکن) پتھہ زمان چھہ ۔ اللہ (تعالیٰ) ہن چھہ
چھہن لوکن ہندس اعمال تہاہ کرنک فاصلہ کورمت ۔

بیہ (پاوو یاد) بیلہ شیطان کافرن تہندس اعمال
رتی کتھہ کتھہ تہ وونکھہ ز از ہیکر تہ لوکو مشر
توہر پتھہ کانہہ غالب پتھہ ، تہ ہر چھیس تہندہ تھہر
ڈو کھہ ۔ پتھہ بیلہ دھونے شکر اکہ اہس بیٹھہ کتھہ تہ
سہ پھینور پوت کھوری تہ وونکھہ ہر چھیسو توہر
بے زار ۔ ہر چھیس تہ کتھہ تھان چھان پتھہ توہر وچھان
چھو ۔ ہر چھیس اللہ (تعالیٰ) ہس کھوڑان تہ اللہ
(تعالیٰ) سہ عذاب چھہ سخت آسان ۔

وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ التَّمْيِيمِ فِي
أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي
أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا
كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ
تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿۲۱﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا
لَقَيْتُمْ فِتْنَةً فَاتَّبِعُوا
أَذْكُرُوا اللَّهُ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴿۲۲﴾

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا
وَإِنْ تَفْشَلُوا فَتُفَشِلْهُمُ
اللَّهُ مَعَ الظَّالِمِينَ ﴿۲۳﴾

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ
خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
بَطْرًا وَإِنَاءً النَّاسِ
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا
يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿۲۴﴾

وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ
أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ
لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي
جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَ آيَاتِ
الْفِتْنِ تَوَلَّوْا عَلَىٰ
أَعْقَابِكُمْ وَقَالَ لِي بَرِيءٌ
مِنْكُمْ لِيُنْفِئَكُمْ أَرْضِي
مَّا لَا تَرْضَوْنَ لِي أَخَافُ
اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ
الْحِقَابِ ﴿۲۵﴾

۲۴

بہ (یا دو یاد) نیلے منفق تو (تم) پہنچیں دین
منز بیاری آس، ومان آس نہ پیم مسلمان چھہ ہیندک
دین مغرور کرک ہوت۔ حالیکہ میں اللہ (تعالیٰ) اس
پہچے توکل کران چھہ سہ چھہ وچھان نہ اللہ (تعالیٰ)
چھہ سبھا غلبہ وول (تہ) بچہ حکمت وول۔

یا گرشو و توہی سو و ز تر نینو نیلہ بلایک کافرن
ہند روح قبض کران چھہ تہ تہندین بچھین تہ تھن
پہچہ چھہ ماس لایان گرشھان تہ (یہ چھاکہ ومان گرشھان)
اکہ و ز و نہ عذابک سہر وچھو۔

یہ (غلاب) چھہ تہندبو اتھو پتھ کن کر نہ آستین
کرتوت ہند تھہ۔ یہ زانو نہ اللہ (تعالیٰ) چھہ نہ
پستین بدن اکہ ڈاڈی تہ ظلم کران۔

فرعون ہند قوم کہ طریقہ مطابق یہ تہن لوکن ہند
(طریقہ مطابق) پیم تہن بروٹھ گذرے ہوتو چھہ (پہر)
تہند حساب کتاب) تمو ساروے اوس اللہ (تعالیٰ)
ہندین آہن انکار کورمت اوکو زئی تہم اللہ (تعالیٰ)
ہن تہندبو گھنہ ہو موجب۔ اللہ (تعالیٰ) چھہ یقینا
بوز طاقت وول (تہ) سخت سزا دہ وول۔

یہ (سید اوکو) نہ اللہ (تعالیٰ) نیلہ کتہ قومس
پہچہ نعمت نازل کران چھہ تہ سو نعمت چھہ بدلوان
(توت تام) یوت تام تہ سہ قوم پتہہ دلچ حالت
بدلاو۔ تہ اللہ (تعالیٰ) چھہ یقینا سبھا بوزن وول
(تہ) واراہ زانن وول۔

(اے سبکو! تہند حال تہ آس) فرعون ہند قومکو
تہ تہن بروٹھ تہن لوکن ہندک پاٹھو یو پتہنس
پرور دکا ہر ہندین آہن انکار کورمت اوس۔ او کرک
اسہ تہم تہندبو گھنہ ہو موکھ ہلک (تہ تہندک العام
آپہ تہن اتھو ہینہ بیکیاہر تہو پھیرہ خلیس متھ) تہ
اسہ پھاٹو نوو فرعون سہ قوم (سمندرس) بیکیاہر
تہم آس ساری ظالم۔

إِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي
قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّهُمْ أَجْرٌ يُنْفِقُونَ
مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ﴿۱۰﴾

ذَلِكُمْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَكَّلُ الَّذِينَ كَفَرُوا
الْمَلَائِكَةَ يُضْرِبُونَ دُجُوهَهُمْ وَ
أَذْبَابَهُمْ وَ ذُوقُوا عَذَابَ
الْحَرِيقِ ﴿۱۱﴾

ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ آيَاتِكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ
لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴿۱۲﴾

كَذَّابٍ أَلْفِرْعَوْنَ ۖ وَالَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَآخَذَهُمُ اللَّهُ
بِذُنُوبِهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ﴿۱۳﴾

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغْتَبَرًا تَحْمَةً
أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا
بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۴﴾

كَذَّابٍ أَلْفِرْعَوْنَ ۖ وَالَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ
فَآخَذَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ۚ أَعْرَفْنَا
أَلْفِرْعَوْنَ ۚ وَكُلَّ كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿۱۵﴾

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۵۱﴾

اللہ (تعالیٰ) بس نزدیک ہے تم (الوگ) گینو کھوتے تہ بدتر پیو (خدا یہ ہندین آین) انکار کورتہ تم چھتہ ایمن اتان۔

الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ ۖ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ﴿۵۲﴾

تم لوگ یمن سستی تریہ عہد کورتہ ، مگر تم چھ پرستہ فز پین عہد پھڑاوان۔ تہ (خدا یہ سُد) تقویٰ چھسہ پراوان۔

فَمَا تَتَّقِفْتَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَدَّكُرُونَ ﴿۵۳﴾

اد برگاہ تہ لڑایہ مشر بہن پیٹھ قولو بکھ تیلہ تر ناؤگ تہندہ دسی تم تہ پیم بہن پیٹہ (بیہ شکر) چھ۔ بیٹہ تم نصیحت لین۔

وَمَا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيفَةٌ فَأَسِئْ إِلَىٰهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِضِينَ ﴿۵۴﴾

بیہ ہرگاہ تہ کتہ تو مس نش عہد پھڑاؤگ خط تھاوا آسکھ تیلہ کرتہ تہندہ عہد تھہ پاٹھی ختم تیلہ سستی بہن فکر تہ ز وہ ذی چھو تو ہر دہ نوے (دُرک) پسنبہ پابند یو رہتہ (آزاد۔ اللہ (تعالیٰ) چھسہ خیانت کرن والین پسند کران۔

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا ۗ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴿۵۵﴾

بیہ سکا فرمہ کرن زاہ یہ خیال نہ تم چھ (پسنبہ تر علو سستی) بروٹھ پکڑو متی۔ تم ، نیکن نہ نہہے (تہ مؤمن) عاجز کورتہ۔

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ۚ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ ۗ لَا تَعْلَمُوهُمْ ۗ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿۵۶﴾

بیہ (اے مسلمانو! توہر پزیر و تر) توہر کڑو بہن (الرن والین) ہند خاطر مین طاقت جمع ایواتہ توہر ممکن سپرو۔ (ملکی انتظامیہ کڈریعہ تہ) بیہ سرحان پیٹھ فوجی چھاوہ بناوہ سستی تہ۔ (تمو) فوجی چھاوہیو (ہند ذریعہ چھو کہ توہی اللہ (تعالیٰ) ہندک دشمن تہ پنی دشمن کھوتہ ناوان۔ بیہ تمو ورا یی تم (دشمن) تہ پیم بہن (سرحد کڈ دشمن) اپار سہ چھ۔ توہر چھو کہ تہ تم زانان ، اما پوز اللہ (تعالیٰ) چھ بہن زانان۔ بیہ یہ توہی اللہ (تعالیٰ) ہنر و تہ خرچ کڑو سہ دیو توہر تھیگ پور پور پور تہ توہر سستی بیہ نہ نا انصافی ہند معاملہ کرنہ۔

۱۰ اللہ آسے مشر چھ قیصر روم تہ کسری اپانہ ہندین فوجن کن اشارہ۔

بیر اگر تہنہ روزہ (روہہ و سچیتہ) تم (کافر) صاحب کن بایل سپدن تہ (اسے بغیر!) تہ تہ سپد صاحب کن بایل بیہ کر اللہ (تعالیٰ) ہس پیٹھ توکل۔ اللہ (تعالیٰ) چھ یقینا سہما دما بوزن وول (تہ) واراہ نزان وول۔

بیر اگر تم ارادہ آسن تھاولن تہ پتہ دلے تریہ دوکھ۔ تہ (یاد تھو تہ) اللہ (تعالیٰ) چھ بے شک چانہ باپتہ کافی۔ سے چھ بیگو تہ پتہ بندہ سوتی تہ مؤمنن بندہ دسی مضبوط کوز رکھہ بیہ گنڈن تہ بندہ دل پانہ وانی (یوت تام زمعہ) گئے چانہ عاتقہ بدل پنن خون مارنہ خاطر تہیلہ) اگر تہ تہ سورے کیہ تہ یہ زمپنس اندر چھ تہ پیٹھ خرچ کر کھ توتہ ہیکہ کھ تہ تہ بندہ دل پیٹھ پانہ گنڈتہ۔ مگر اللہ (تعالیٰ) پن کوز تم اندر پانہ وانی (تہ تریہ سوتی تہ) محبت قائم۔ سہ چھ بے شک غالب (تہ) بوز حکمتہ وول۔

اسے نبی! اللہ (تعالیٰ) تہ تم مؤمنن یکم چہا فی پانہ کار سپدہ سوتی چھ، چھ چانہ خاطر کافی (یکم) محابف چھ تہندہ پرواے سر کر

اسے نبی! تہ روز مؤمنن (کافرن سوتی) لڑنہ باپتہ ورنہ ورنہ روزن سان تھریک کران۔ اگر توہہ مشر وہ ثبات قدم روزن وانی (مؤمن) تہ اسن تہ تم سپدن دون ہن (کافرن) پیٹھ غالب تہ اگر ہمتہ (ثبات قدم روزن وانی (مؤمن) آسن تہ تم سپدن اہس ساس کافرنس پیٹھ غالب تہ کیا زیم چھ تہ تہ اھ تو ماہ یکم سران سوچان چھنہ (تیلہ زن لوٹن سرچتہ سوچیتہ پتہس ایماس پیٹھ قائم چھ)

وہ چھ اللہ (تعالیٰ) ہن توہہ پیٹھ بور (ہنا) لوڑہ رومت تہ زومت چھن تہ ورنہ چھ توہہ مشر کمزوری (یعنی ورنہ چھنہ ساری مؤمنن حد درجہ مؤمنن سپدہ تہ)

وَإِنْ جُنْحُوا لِلْسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَ
تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ ﴿۱۶﴾

وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ
حَسْبَكَ اللَّهُ ۗ هُوَ الَّذِي آتَاكَ
بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۶﴾

وَأَلْفَ بَيْنٍ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي
الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْفَتْ بَيْنَ
قُلُوبِهِمْ ۗ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ ۚ
إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۱۶﴾

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۶﴾

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى
الْقِتَالِ ۗ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ
صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ ۚ وَإِنْ
يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا
مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا
يَفْقَهُونَ ﴿۱۶﴾

أَلَنْ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ
فِيكُمْ صَٰخِقًا ۗ فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ
صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِنْ

لہذا پڑھو گاہ توہم مفر سے تھابت قدم روزن وال (مؤمن) آسن توہ سپدن ہم، دون تہن (کافرن) پیٹھ غالب۔ تو ہر گاہ توہم مفر کہ ساس تھابت قدم روزن وال مؤمن آسن توہ سپدن ہم اللہ (تعالیٰ) سندر حکمہ دون ساسن (کافرن) پیٹھ غالب۔ تو اللہ (تعالیٰ) چھ تھابت قدم روزن والین فون

سنتو۔ کانسہ شمس شوہر نہ زرس بناو تو تا ز قیدری نوتاو نہ سسٹس مفر خون ریز جنگ کر (ہر گاہ توہم با قاید جنگ وراڈی قیدری رنو کہ تیلید) توہم بیو دنیاوی مان ہندو طالب گنتر راونہ۔ سید زن اللہ (تعالیٰ) تہنہ با پتھ آخر تچہ نغش سبھان چھ۔ اللہ (تعالیٰ) چھ بوڈ علیہ وول (تہ) بچہ حکمتر وول۔

(بیر) اگر اللہ (تعالیٰ) ہند طرف کانہ ما کار حکم بروٹھ آسے ہے نہ آمت تہ یہ کینترھا توہم (قیدری ہند) فدیہ روٹھ ادسو تم بکو واہے و توہم بوڈ عذاب۔

(تہ) کیانہ فدیہ کر اجارک حکم چھ بروٹھ نازل سپدنمت (اڈ یہ کینترھا توہم مل غینیمہ مفر میلرو تہ (اہلی حکمہ مطبق) آسہ (سہ) حلال تہ طیب سہ کھتیو بیہ پراوو اللہ (تعالیٰ) سند تقوی۔ اللہ (تعالیٰ) چھ سبھا بخش وول (تہ) پھیری پھیری رسم کرن وول۔

اسے نبی! یم لو کہ توہم اتھ (جنگی) قیدری بنتھ چھ ہتمس ون زہر گاہ اللہ (تعالیٰ) تہنہ بن دن مفر فکی وچہ۔ تہ یہ کینترھا توہم نش (تاوان جنگہ کس

يَكُنْ مَثَافُ الْفِئَةِ يَخْلِبُوا الْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿۵۰﴾

مَا كَانَ لِشَيْءٍ أَنْ يَعْكَوْنَ لَهُ أَشْرَىٰ حَتَّىٰ يَتَخَصَّنَ فِي الْأَرْضِ مَكْرِيَةً وَلَا عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۵۱﴾

لَوْلَا كُنْتُ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا آخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۵۲﴾

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبَاتٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۵۳﴾

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي آيَاتِكُمْ مِنَ الْأَشْرَىٰ إِنَّ يَخْلِبُ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِيكُمْ خَيْرًا مِمَّا آخَذَ مِنْكُمْ

لہ یعنی دشمن ہند جہاز حملہ کرتے پتہ پتہ میلے نہیں ہیں دفاع کرنے کو کہ خون ریز جنگ کرن پیٹھ تیلہ ہکیو توہم جنگی قیدری جاوہ۔ بیہ چھہ کتہ طورس مفر قیدری تہ غلام بناوڑی جائیز۔

وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۰﴾

نیکس مغز) ہینہ آمنت چھ تمہ کھوتہ رت دیو توہہ بدل - بیہ کر (تمہ علاو) تہندک گوناہ تہ معاف تہ اللہ (تعالے) چھ سپہا بختن وول (تہ) پھیر کر پھیر کر رحم کرن وول۔

وَأَن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۱۱﴾

بیہ اگر تم (راگزشمنس پیٹھ) تریہ سستی خیانت کرنک ارادو کرن تہ تمہ برزٹھ چھ ہتمو اللہ (تعالے) ہس سستی تہ خیانت کوزمت - پیہ تہ ذی توہ تم تہندک اتھس مشر تہ اللہ (تعالے) چھ سپہا زانن وول (تہ) بوڈ حکمتہ وول۔

أَلَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَوْادُوا نَصْرًا أَوْ لِيكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَهَاجَرُوا مَا لَكُمْ مِن وَلَا يَتَّبِعُهُمَن شَيْءٌ حَتَّىٰ يَهَاجَرُوا ۚ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۱۲﴾

تم لوکھ بیو ایمان او نمت چھ تہ بیو ہجرت کرر مشر چھیہ (تہ اللہ (تعالے) سنز و تہ مشر چھکھ پسنو تہ وو (سستی) تہ مالو سستی جہاد کوزمت تہ تم لوکھ بیو (ہجرت کرن والہن پسنہن کرن مشر) جاسے ڈر مشر چھیہ - بیہ چھکھ (ہتمن) مدد کوزمت - ہتمو مشر چھ کیہ کیشرن ہندک جانی دوست تہ تم لوکھ بیو ایمان او نمت چھ تہ ہتمو کر تہ ہجرت - ہتمن سستی جانی دوستی کرن چھ تہ ہتمو کام، بیوت تام تہ تم ہجرت کرن، تہ اگر تم توہہ دینہ کر حقہ مدد منگہ تو تو توہہ چھ ہتمن مدد کرن فریض مگر تہ قوس نجات تہ ہتمن تہ توہہ درمیان کانہہ معاہدہ آسہ - تہ اللہ (تعالے) چھ تہندک اعمال وہیمان -

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۗ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِشْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿۱۳﴾

بیہ بیو لوکو کفر کوزمت چھ تم چھ پاؤ وازا اکھ اگر ہندک یار - اگر توہر تی کیشرا کرر تہ بیہک اسہ حکم دیت مت چھ تہ زمپنس اندر سپہ اکھ بوڈ ہتم تہ فساد پاؤ۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَوْادُوا نَصْرًا أَوْ لِيكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿۱۴﴾

بیہ تم لوکھ بیو ایمان او نمت چھ بیہ بیو ہجرت کر مشر چھیہ تہ بیو اللہ (تعالے) سنز و تہ مشر جہاد کوزمت چھ - بیہ بیو (ہجرت کرن والہن) پسنہن کرن مشر جاسے ڈر مشر چھیہ بیہ چھکھ

دین (تمن) اتھ روٹ کوڑت۔ تے چھ پڑی مومن۔
 تمن سپر گھ بنہن معافی تہ حاصل تہ عزتہ
 دول رزق تہ میپکھ۔

تہ یم لاکھ (اڈر کہ وقتہ) پتہ ایمان ان بیہ کرن
 ہجرت تہ بیہ کرن تہہ سستی لڑتہ جہاد تم تہ ین
 تمہنر جہاد سستی زانہ تہ اللہ (تعالیٰ) ہنرکتہ
 موجب چھ کیہہ رحمی اشناو کیشنر مقابلہ جہاد
 نزدیک آسان۔ اللہ (تعالیٰ) چھ یقینا پر چھ
 کانہہ چیز زبر یا طو زانان۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَذَا جَزَاءٌ
 جَاءَهُمْ مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ ۗ
 وَأُولَٰئِكَ هُمُ الَّذِينَ يَرْتَضُونَ
 فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ
 عَلِيمٌ ﴿۱۱﴾

سُورَةُ التَّوْبَةِ مَدِيْنَةُ مَكَّةَ وَرَبِّي بَاطِنٌ وَرَسْمٌ وَعَشْرُونَ آيَةً وَسِتَّةٌ وَعَشْرُونَ كَلِمَةً

سورة توبہ: میرے رسول، چھ مدنی تہ پتہ چھ لاکھ ہفتہ تہ کترہ آیہ بیہ چھس شرہ رکوع۔

اللہ (تعالیٰ) تہ تہندس رسولہ ہند طرفہ چھ (دین
 آین ہنر) تمن مشرکین (ہند الزامہ) نشہ بڑی گڑھنک
 اعلان کرتہ یوان ایمن سستی تہہ شرط گوندت اوکو
 (تہ تمنر سپر جیت تہ ہم ہارن)۔
 بنا نچہ ملک عربس منر ثرون دین چھ تہہ وچھوتہ
 زانو ز توہی ہیکون ہ اللہ (تعالیٰ) ہارنا و تہہ بیہ
 یہ (تہ ہارن) ز اللہ (تعالیٰ) تراو کافرین رسوا
 کرتہ۔

بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ
 عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۱﴾

فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
 وَعَلِمُوا أَنَّكُمْ عَيْرٌ مُّعْجِزِي اللَّهِ ۗ
 إِنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكٰفِرِينَ ﴿۱۲﴾

اللہ (تعالیٰ) تہ تہندس رسولہ ہند طرفہ چھ تمام
 نوکن حج اکبر کس دوہس پیہہ اعلان (کرتہ یوان) ز
 اللہ (تعالیٰ) تہ (یتھہ یا طو) تہند رسول تہ چھ
 مشرکین (ہندو ساروہے الزامو) نشہ بڑی گڑھنک
 (تہ کمر چھ فتح سپرست) لہذا اگر توہی (یہ نشاہ

وَإِذْ أَنْتَ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ
 يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ إِنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ
 الْمُشْرِكِينَ ۗ وَرَسُولُهُ ۗ فَإِنْ تُبْتُمْ
 فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا
 أَنَّكُمْ عَيْرٌ مُّعْجِزِي اللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ

لہ براءتہ نفلس چھ تہ معنی لاکھ گووہ بزار مرصن دویم گووہ الزامہ نشہ آزاد مرصن۔
 نیت ہن چھ دویم معنی جاہ مناسبت۔

الَّذِينَ كَفَرُوا يَعَذَابُ اللَّهِ

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ ثَمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ
شَيْئًا وَلَمْ يُظَاكِرُوا عَلَيْكُمْ
أَحَدًا قَاتِلْتُمُوهُمْ
عَاهِدَهُمْ إِلَىٰ
مَدَائِنِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُتَّقِينَ

فَإِذَا أَسْلَخَ الْأَشْهُرَ
الْحُرْمَ قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ
حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ
وَاحْضَرُوهُمْ وَاقْتَدُوا
لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَإِن تَابُوا
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا
الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

وَإِن أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ
يَسْمَعَ كَلِمَةَ اللَّهِ ثُمَّ
أَبْلِغْهُ مَا مَنَعَهُ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا
يَعْلَمُونَ

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ
عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ
رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ
عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا
لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ

صحیحہ) توہم کرو تو یہ آسہ نہیں خاطر کرتے۔
تو اگر توہم تھے پھر وہ تیلہ زانو توہم کیلین نہ
ہرگز اللہ تعالیٰ ہر تہمت - یہ در کفار خبر
نہ ہتہند خاطر چھٹھ اگہ کروٹھ غلاب (مقدر)۔

ووزی گوو مشرکوں اندر یکن سوتو توہم معاہدہ
کوہوت چھو، پتہ کر نہ، جو معاہدہ چھٹھ راویخ
(بیل کائہ) حرکت توہم جولان کوڑکھ نہ کائہ
اتھروٹ۔ توہم کرو تہند عہد برابر بہمن
(عہد) ہندس (گنہتھ) معیادس تام (تہ
ہم کوڑکھ مکہ مشرک - اللہ تعالیٰ) چھ بے شک
تقین لول بران۔

ییلہ ہم ضرور چھ گدن بین مشرک (عربہ بین کافران
سوتو، پتہ یکن آین مشرک لڑایہ ہتہ منع کر نہ آتہ
اوس ہر پتہ تہ بیہور نہ ہمن معاہدس کن رغبت
ییلہ زن تم اسی امر بروٹھے مسلمان سوتو لولان)
تہ مشرکین ہنریہ خاص جماعت یتین تہ لیون
(ستین) گروان قتل تہ ہم زبوںک تہ کرلکھ (تہنہن)
قلعن مشرک) بند تہ تہند خاطر بہو پرتھ زاگہ
روز نہ چہ جایہ (کوس) پتھ روو اگر ہم توہم کرن
تہ نماز قائم کرن تہ زکوٰۃ دن ییلہ تراو بہمن
تہنہز وتھ ییلہ - اللہ تعالیٰ) چھ یقینا بوڈ
بختن وول (تہ) چھری چھری رحم کرن وول۔
بہ اگر مشرکوں اندر تریہ کائہ پناہ منلی تہ تس دنپناہ
یوتام سہ اللہ تعالیٰ) سہ کلام بوڑ، پتہ واتا وول
سرتہنہ امر چہ جایہ تام۔ تکلیار سہ چھ تہتھ
قوم یس (حقیقت) چھہ زانان۔

اللہ تعالیٰ) تہ تسد رسول کتھ پاٹھو بہکن مشرکین
سوتو عہد پمان کر تھ، اتھو مشرکوں وراہی یکن سوتو
مسجد حرامس ہنش توہم عہد کوہوت اوسو۔ لہذا یوتام تم
(توہم معاہدہ) سینس عہدس پتھ قائم روزن توہم

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ①

تہ روز و رات میں سستی معاہدس پیٹھ قائم اللہ تعالیٰ
چہ (عہد پھڑاؤ نہ رہے)۔ بچن والے پند کران۔

كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا
فِيكُمْ إِلَّا ذَمًّا يَرْضَوْنَكُمْ
يَأْفَاقِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ ۚ وَ
أَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ②

(اگر تمہیں کین مشرکین) کتھ پانگو (پسے کاٹھہ رایت
دہن) سکیا ز اگر تم توہ پٹھ غالب گڑھن جرم کرن
تہ زانہ تہ تہنہز گنہ شتانی یا معاہدک پرواے
تم چھو توہ پستہ دہنہ (چھو کتھو) سستی خوش
تھاوان۔ حالاکہ تہندک دل چھو (تمن کتھن) انکار کران

إِشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا
فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ ۗ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ③

تہ یو مشر چھو واریاۃ عہدو پیمان پھڑاون والی اسن۔
تمو چھ اللہ تعالیٰ بندو ایو بدل اکھ دوسر پاسے
مول زومت تہ تنہز و تہ نشہ چھاکھ لوکھ) ہتھ
رڈو۔ تہندک اعمال چھ بے شک سٹھا پچھ۔

لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا ذَمًّا ۗ وَ
أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ④

کاتھہ مؤمنہ بند حقہ تہ چھنہ تم اشانی ہند معاہد کران
تہ نہ کتھ عہد پیمانک۔ بیہ چھو تم صلہ نمبر پیرتھ
کھوتی۔

فَإِن تَابُوا وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ
آتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا نَكُمْ فِي الدِّينِ ۚ وَ
نُفِصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ⑤

اد اگر تم توبہ کرن تہ نماز قائم کرن تہ زکوٰۃ دن۔
تیلہ چھو تم دپس اندازہ تہندک بائی۔ تہ اسچھو (پنہ)
آپ علمہ والہ توہم خاطر واش کڈی کڈی بیان کران۔

وَإِن تَكْفُرُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ
عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فِي دِينِكُمْ
فَقَاتِلُوا أُمَّةَ الْكُفْرِ ۗ إِنَّهُمْ لَا آيْمَانَ
لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ⑥

بیہ اگر (پیم لوکھ) پستہ عہد پیمانہ پستہ پینہ قسم
چھڑاون تہ تہندس دپس متعلق پاسہ دن تہ نہ
ٹرن اد (یقین) کھڑکین سردارن سستی کرو لڑائی
یچھ دن تم بد ڈالو نشہ بازین سکیا ز تہند پتھن
ہند پچھتہ کاٹھہ اختیار۔

أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ
وَ هَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَ هُمْ
بَدَّؤُكُمْ أَكْثَرَ مَرَّةً ۚ أَتَخْشَوْنَهُمْ
فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ ⑦

اے مؤمنو! کیا توہی کرو ناتھ قومس سستی جنگ
یو پینہ قسم پھڑاؤدی تہ پیغمبر (تہندگہ مشر)
کڈنک کڈنک قافلہ تہ توہی سستی (جنگ کرنک) کڈر
تموے ابتدا کیا توہی چھو اتھن کھوڑن ہنگو
توہی مؤمن چھو تیلہ زانہ ز اللہ تعالیٰ پچھ امہ
کتھ ہند جاہ حقدار نہ توہی کھوڑو تس۔

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ
بِأَيْدِيكُمْ وَ يَخْزِيهِمْ وَ يَنْصُرْكُمْ

بتھن سستی کرو جنگ۔ اللہ تعالیٰ دیا بتھن تہندہ
اتھو غالب تہ بیہ کر بکھ سوا۔ تہ توہی دکی و اتھن

پیچھے غلبہ ہے تمہرے سب سے دیر مومن تو تم کہیں دین (پہلے)
 ہے خوفِ نشہ (نجات)۔

بہرے کر تہندین دین ہند غنمہ دور ہے اللہ (تعالیٰ)
 یس پیچھے پیشواں چھ (س پیچھے) چھ فضل کران۔ ہے
 اللہ (تعالیٰ) چھ سبھا زان دول (ہے) بوز حکمت دول
 کیا تو ہی چھوا خیل کران نہ تو ہی بیو تھے تراویہ؟ مولک
 ونیک تام کرے ہے اللہ (تعالیٰ) ہن تم لوگ نہ
 یو تو ہی منتر جہاد کورمت چھ (ہن مقابلہ یو نہ جہاد
 کور) ہے ہم اللہ (تعالیٰ) ہس ہے تہندس رسول
 ہے مومن مقابلہ کافر سب سے ترور ترعبیر سانچہ سانچہ
 تھاوان چھ ہے اللہ (تعالیٰ) چھ تہندین اعمالن
 ہند زبر پاٹھ واقف۔

(یقین) مشرک چھ کا نہ حق و اتان نہ اللہ (تعالیٰ)
 ہنتر مسجد کرن آباد۔ سب سے ہم سپنن زون پیچھے
 (پانہ) کفر جگوا ہی دول چھ۔ کے لوگ چھ ہنتر
 اعمال برباد ہے ہے ہم گرتھن انکس ز پٹس
 مدتس تام نارس منزے روزان۔

اللہ (تعالیٰ) ہنتر مسجد ہے چھ سے آباد کران یس
 اللہ (تعالیٰ) ہس ہے آخر ہے کس وہ ہس پیچھے ایمان
 انان چھ ہے چھ نماز قائم کران، بیو چھ زکواہ دولان
 بیو چھ ہے اللہ (تعالیٰ) ہس ورا ہی کانس کھوران
 لہذا عنقریبے ہن پیچھے لوگ کامیابی کن ہنتر۔

کیا تو ہی چھوا حاجین تریش چاونی ہے خانہ کعبہ
 آباد تھاوان تس شخہ ہندر (یعنی تہنتر کامر
 ہندر) پاٹھ زورمت؟ سب سے اللہ (تعالیٰ) ہے آخر
 کس وہ ہس پیچھے ایمان اون بیو کورن اللہ (تعالیٰ)
 ہنتر و تر جہاد۔ ہم (دوڑے دور) چھ ہے اللہ
 (تعالیٰ) ہس ہنتر (ہرگز) ہوی۔ ہے اللہ (تعالیٰ)
 چھنر ظالم تومس نہ ہے کامیابی کن ہنتر۔

(ہم لوگ) بیو ایمان اون ہے بیو ہجرت کر ترابیر

عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوقَهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿۷﴾

وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، وَيَتُوبَ
 اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 حَكِيمٌ ﴿۸﴾

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ
 اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ
 يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ
 وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَابْتِغَاءً ۚ وَاللَّهُ
 خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۹﴾

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا
 مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ
 بِالْكَفْرِ، أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي
 فِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿۱۰﴾

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ
 بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ
 الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَ
 إِلَّا اللهُ تَنَفَّسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا
 مِنَ الْمُتَّخِذِينَ ﴿۱۱﴾

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَالْعِمَارَةَ
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللهِ
 الْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ
 اللهُ، لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللهِ وَاللَّهُ لَا
 يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۲﴾

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَ

جَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿۱۰﴾

کوزکر اللہ (تعالیٰ) سزور و جہاد، پسینو مالو تہ جانو
سستی۔ تم چھ اللہ (تعالیٰ) ہس نش (رجس) مشر تقرر
پر اوتھ تہ تے لاکھ چھ کامیاب سیدن والہ۔

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَ
رِضْوَانٍ وَجَنَّتْ لَهُمْ فِيهَا جَنِّيمٌ
مُّقِيمٌ ﴿۱۱﴾

تہند پروردگار چھ اتن پسنتہ تھد شائہ واجتہ رحمت
خبر روان - بیہ (پسنہ) رضامندی تہ تحقیق
جنت ہنز تہ یکن مشر تہندہ باچتہ ہمیشہ روز و روزی
نعت آسہ -

خَلِيدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَكَ
أَعْلَمُ عَظِيمٌ ﴿۱۲﴾

اتن مشر گزھن (ہم) بسان (یاد تھا و ز) اللہ
(تعالیٰ) ہس نش چھ یقینا سہماہ بوڈ اجر۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا
آبَاءَكُمْ وَ إِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِن
اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ
يَتَوَلَّهُمْ فَوَدَّ لَوْ كَانَتْ
الْأُكُلُومُ ﴿۱۳﴾

اے مؤمنو! پیڑی جدا جلا د تہ بانی مہ بنا دیو لاکھ (پیڑی
حقیقی) دوست، اگر تم ایمانہ مقابلہ کفرس سہتر جلا
محبت کران آن تہ تو ہر مشر ییم لاکھ اتن سستی
پڑھ دوستی کرن تم آن بے شک ظالم۔

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ
وَ إِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ
وَ أَمْوَالٌ يُقْتَرَفُ مِنْهَا وَ تِجَارَةٌ
تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَ مَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا
أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ جِهَادٍ
فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ
بِأَمْرِهِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْفَاسِقِينَ ﴿۱۴﴾

تہ ون (مؤمن) نہ ہر گاہ تہندہ جدا جلا د تہ تہندہ
نیجی تہ تہندہ بانی تہ تہندہ آئینہ تہ تہندہ (بیہ)
آشناو تہ ہم مال ییم تو ہر کمادی ہتی چھو،
تہ ہم تجارت یکن ہندہ تھارہ تہ تہ تہ کوثران
چھو، تہ ہم مکان ییم تو ہر پسند کران چھو، تو ہر
اللہ (تعالیٰ) ہند، تہ تہندہ رسولہ ہند کھوتہ
تہ تہندہ و تہ جہاد کرن کھوتہ جلا د تہ چھو سیدہ سارہ
تو ہر، یوت تام اللہ (تعالیٰ) پین فاصلہ نون
کدہ تہ اللہ (تعالیٰ) چھتہ اطاعتہ نمبر نین
و اہس تومس نہ ہے (کامیابی ہنز) دتھ ہاولن۔

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ
وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبْتَكُمْ كَثَرَتْكُمْ
فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَ ضَاقَتْ
عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحَبَتْ ثُمَّ
دَلَيْتُمْ سُذُورًا ﴿۱۵﴾

اللہ (تعالیٰ) من چھو واریا من موقع پیچہ تو ہر
مدد کوزت (خاص کڑتھ) تھنن (کہ جتگہ)
کہ وہ ہر سیدہ تو ہر گرنیز مشر جلا د آسہ کہنہ
حکمر کر یوو۔ پتہ آوو نہ سہ (جلا د آن)
تو ہر گنہ بکار۔ تہ زمین گنیہ کھلہ ڈلہ ہستہ
(تہ) تو ہر پیچہ تنگ تہ تو ہر پھیر و تھرا وان

بجہ -

تہ اللہ (تعالیٰ) ہن کھر پینس رسولس تہ مؤمنن پچھ
المیہین نازل۔ تہ تمھو لشکر کن نازل پم تہ توہی دچھان
اُسو وکھ۔ بیہ دین کفارن عذاب تہ کفارن ہند جزا
پچھ بی۔

تہ اللہ (تعالیٰ) چھ پتھ سزا پتہ، ایس پچھ بیترھان
چھ، رحم کرن تہ اللہ (تعالیٰ) چھ سپٹھا بخش دول
(تہ) چھیر کر چھیر کر رحم کرن دول۔

اے مؤمنو! مشرک لوکھ چھ بے شک گنہگار (تہ ناپاک)
لہذا سر بین تم میں دُریہ پتہ مسجد حرامس ایضے
خانہ کعبہس نزدیک تہ ہرگاہ توہر عزیز بی ہند خطر آسہ
و تہ اللہ (تعالیٰ) ہرگاہ بیترہ تہ سہ بناورد توہر
پستہ فضلہ سستی ضرور مالدار۔ اللہ (تعالیٰ) چھ
یقینا سپٹھا زانن دول تہ بوڈ حکمتہ دول۔

پم لوکھ اللہ (تعالیٰ) ہس پچھ ایمان چھنہ انان تہ
نہ آخر تہ کس دہ ہس پچھ، تہ نہ پچھ تھہ حرام گنہگارن
یہ کیہنہ اللہ (تعالیٰ) ہن تہ کہنہ رسولن حرام کورمت
چھ بیہ پچھنہ یوز دین پراوان۔ ایضے تم لوکھ کین کتاب
دینہ آمتر چھینہ بہن سستی کرو (توت تام) جنگ
یوت تام تہ تم پستہ مرضی سستی جزیہ تمدن تہ یوت
تام نہ تم توہر ماتحت بین۔

بیہ چھیر یہودی ونان نہ عزیز چھ اللہ (تعالیٰ) سہ
نیچو تہ نصرانی چھ ونان نہ مسیح چھ اللہ (تعالیٰ)
سہ نیچو، یہ (کہتہ) چھیر صرف تہ ہند زبانی لاف۔ تم چھ
(صرف) پالس برنٹھو میں کفادن بہنن کہتن ہند
نقل کران۔ اللہ (تعالیٰ) کرن تمس ہلاک، تم کہتہ پالمو
چھیر (اصلیہ نشہ) (دور گڑھان)؟

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى
رَسُولِهِ وَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ أَنْزَلَ
جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَ عَذَّبَ الَّذِينَ
كَفَرُوا، وَ ذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ⑩

ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى
مَنْ يَشَاءُ، وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ⑪

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ
نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ
بَعْدَ عَمَلِهِمْ هَذَا، وَ إِن خِفْتُمْ عَيْلَةً
فَسَوْفَ يُغْنِيَكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، إِن
شَاءَ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ⑫

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَ لَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لَا يُحَرِّمُونَ
مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لَا يَدِينُونَ
دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن
يَدٍ وَ هُمْ صَاغِرُونَ ⑬

۱۰

وَ قَالَتِ الْيَهُودُ عَرَبِيٌّ ابْنُ اللَّهِ وَ
قَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ،
ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ، يُضَاهُونَ
قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ،
قَاتِلْهُمْ اللَّهُ لِيُؤْتِيَهُمْ قُكُوتَ ⑭

لَا تَخْذُوا أَوْلِيَاءَهُمْ دُونِ اللَّهِ وَيَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسُبُّوا إِلَهَ آبَائِكُمْ لِآبَائِهِمْ سَبُّوا إِلَهَ آبَائِكُمْ لَكُنْتُمْ أَكْفَرًا مِمَّنْ سَبَّوهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝۱۰

متو چھ اسلحد تہ رصبان اللہ (تعالے) ہس ورآئی پتہ پروردگار بناؤ کہ متو۔ پتھے پانٹھ مسیح ابن مریم تہ حالانکہ بہن اوس صرف یہ حکم دینہ امت نہ تم کرن اگس خدایہ ستر عبادت بیئیس ورآئی کانہ معبود چھتہ سہ چھ تہندہ شکر ہتہ پک۔

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ أَن يُسْمِتَ نُورَهُ وَاللَّهُ لَوَكِّرُوهَ الْكُفْرُونَ ۝۱۱

تم چھ بیڑھان ز اللہ (تعالے) سندر کرن تم پتہ دہنہ (کہو چھو کہو) ستر تہستہ۔ مگر اللہ (تعالے) پتہ پتہ نور پور کرنہ ہوا ڈومیر پر پتہ پتہ ہتہ انکار کران۔ اڈ کافر ن کوتاہ تہ برنگر تہ۔

هُوَ الَّذِي آذَنَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۝۱۲ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۝۱۳

سے چھ بیڑھ پتہ پیغمبر ہدایت تہ پوز دین ہتہ سوز پتہ زن (باتے) سار نے (دین پتہ تہ غالب کر اڈ مشرک ن مگر تہ پتہ جادے بر۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْيَارِ وَ الرُّهْبَانِ كَمَا كُنْتُمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَا طِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۝۱۴ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۝۱۵ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝۱۶

اے مؤمنو! واریہ اجل تہ رصبان چھ لوکن ہندر مال ناسقہ کھوان تہ اللہ (تعالے) ستر وتہ ہتہ چھ (لوکن) پتہ ٹان۔ بیہ تم لوکہ (تہ) کم سون تہ رہ چھ خزان بران چھ تہ تہ چھنہ اللہ (تعالے) ستر وتہ خرچ کران۔ بہن دیو کر ٹیڈ غرابچ خبر۔

يَوْمَ يُخْضَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۝۱۷ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝۱۸ فَذُقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ۝۱۹

(یہ عذاب پتہ) تمہ دہ ہدیہ تہ (سور تہ سولس تہ رہس) پتہ جہنمک نار بر بہرا ونہ پتہ پتہ جن تمہ (سور تہ رہ پتہ) ستر بہت دین ڈوکن، کرن تہ تھرن پتہ داغ دہن (تہ اتی پتہ و تہ ز) یہ چھ سہ چیزس توہر سبیلن زوان بکیت خزان منتر سونبران اوسو۔ لہذا کم چیز توہر سونراوان اوسو تہند ستر تہ ہو۔

لہ اخبار: امیک فاجد چھ جبر یا خبر مطلب چھ یہودی عالم دین۔
لہ رھبان: امیک واحد چھ راہب مطلب چھ عام طور عیسائی درویش۔

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمَةٌ ذَلِكَ الَّذِينَ الْقِيَمَةُ فَلَا تَطْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿۳۱﴾

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِّئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُرِّيْنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ ؕ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿۳۲﴾

بے شک چھ ریہن ہنز گزیند اللہ (تعالیٰ) ہس نش باہ ریہتھ آسان۔ یہ چھ اللہ (تعالیٰ) سُنڈ قوؤن۔ تہ وہ ہر پیٹھ ییلہ تہو آسان تہ زمین پاؤ کرے ہتی چھ۔ میو رہتو منتر چھ نرور عز تہ والہ ریہتھ (دوشہ لیوان)۔ یہ چھ مفیوظ دین۔ لہندا (پنر یہ نہ) یکن ریہن منتر مرہ سو پستہن زوؤن پیٹھ نلم کران۔ تہ ساری بے مشرکن سستی کر و جنگ یقہیا طہ تم ساری سہتھ توہہ سستی جنگ کران چھ بیہ تھادو یلا نہ اللہ (تعالیٰ) چھ متیقن سستی۔

نسیء وہ چھ من کفر کر زمانچ جادتی۔ یہہ سستی کا فر لوکھ عمرہ گزہان روزان چھ۔ تم چھ تھہ اگر ڈریہ حلل گنزاوان تہ دویمہ ڈریہ یہ چھس حرام عظیمہوان یٹھ تم ریہن ڈریہ چھ مقرر کرنہ آمرش گزینر برابر کرن تہ بہن ریہن مطابق کرن یکن اندر جنگ کرن منع بٹھ (تہ پانہ کر مشر تبدیلی ہند باعترہ یس اختلاف سپد مت چھ سہ کرن پڑا)۔ تہندین اعمالن ہنز خرابی چھید (شیطانہ ہند طرف) بہن خوش شکل کر تھہ داہر آمرش تہ اللہ (تعالیٰ) چھہ کافر تومس کامیابی ہنز دتھ ہاون۔

۱۔ مومنو! توہر کیا چھو گومت؟ ر یہیلہ توہہ دنہ چھو ملوان نہ اللہ (تعالیٰ) ہنز و تہ جنگ کرنہ ہوکھ نہرو (ساری سہتھ) تہ توہر چھو پستس وطنس (سستی محبت اہتھ تھہ) کن نمان۔ کیا توہر چھوا آمرش مقابلہ ڈی بیج زنگ پس کران؟ (ہر گاہ ترشہ سنورت چھید تسیلہ تھادو یاد نہ ڈی یہہ چہ زندگی ہندسا مانہ چھہ آمرش مقابلہ محسن اکھ ادلے چہر۔ اگر نہ توہر (ساری سہتھ اللہ تعالیٰ ہنز و تہ) لڑا تہ خاطر نہرو سہ دی و توہر اکھ کر لوٹھ عذاب۔ تہ توہر

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ اتَّقُوا اللَّهَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِذَا قُلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاءُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿۳۳﴾

إِلَّا تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ؕ وَیَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَیْرَكُمْ ؕ لَا تَضُرُّوهُ

شَيْئًا، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲۱﴾

بیل ابنہ بیاکھ اگھ قوم اڈ توہم ہیکو تہ تس (یعنی اللہ تعالیٰ ہس) کاتھہ نوقعان وائتائتھ۔ تہ اللہ (تعالیٰ) چھہ پرستھہ پچہزس پیچھہ (یعنیہ کہ کرنک سہ ارادہ کر) قدرت تھون دول۔

اگر توہم اُمس رٹولہ سہ مدد کرو تہ اڈ (یلا تھلا نہ) اللہ (تعالیٰ) ہن چھہ تس تہہ وقتہ تہ مدد کورتہ سیدہ سہ کابرو دھو مفر اُمس طورتس مفر کجاوہ بیلہ تہ دولتہ گوجھ مفر اُمس تہ سیدہ سہ پستس سوتی باچس (ابوبکرس) دنان اوس نہ مسہ برہم۔ اللہ تعالیٰ، چھہ یقینا اسہ سوتی لہذا کوز اللہ (تعالیٰ) ہن تس پیچھہ پنن سکین تا نزل۔ بیہ کوزن تس تھتھو لشکرو سوتی مددیم تہ توہم وچھان اُسی ولک۔ تہ ہمن کون ہنرکتھ کرن اُسی پایہ ہجو کفر کورت اوس تہ اللہ (تعالیٰ) ہنرے کتھ چھہ سبھا تھہ پایہ سیدتھ روزن تہ اللہ (تعالیٰ) چھہ بوڈ علمہ دول تہ حکمتہ دول۔

اے مومنو! تھو جہاد خاطر نہرو، اڈ توہم سلح سامانہ وراڈی اُسی تو یا سلح سامانہ ہتھ، بیہ پستھو مالو تہ پستھو جافو سوتی کرو اللہ (تعالیٰ) ہنر و تہ جہاد۔ یہ اسہ تہہہہ کیت سبھا بہتر اگر توہم زانان چھو۔

اگر اولی میلن دول فایدہ اسہ ہے یا تھوٹ سفر اسہ ہے تیار نہیرہے، ہم لوکھ تریہ پتہ پتہ مگر ہمن او مفر لہ دور لینہ۔ ایا پوز (تم ووزی چانہ واپس بیہ پتہ) اللہ (تعالیٰ) ہنر دہے کرک کرک ورن نہ ہر گاہ اسہ ہیکتھ اسہ ہے تہ اُسی نہیر ہو مفر توہم سوتی۔ پستھن ترون چھہ باچم لوکھ، ہاک کرن تہ اللہ (تعالیٰ) پیچھہ زانان نہیرم چھہ ایز یارک۔

اللہ (تعالیٰ) ہن کوز چانہ طعلی ہتھہ بداتھ ختم تہ تریہ

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَغْيًا أَثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الثَّغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَخْرُجْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَانزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۲۱﴾

إِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَالْجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۲۱﴾

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ السُّفَّةُ وَ سَيُخَلِّفُونَ بِاللَّهِ لِيُؤَسِّطُوا لِحُرَّاجَتِنَا مَعَكُمْ يَهْلِكُونَ أَنْفُسُهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ لَأَنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۲۱﴾

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتُ لَكُم

۱۔ یعنی ہجرت کر وقتہ۔
۲۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ

حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِينَ ﴿۷﴾

لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللّٰهُ عَلَيْهِمْ
بِالْمُتَّقِينَ ﴿۷﴾

إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاتَّقَاتِ
قُلُوبَهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ
يَتَرَدَّدُونَ ﴿۸﴾

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ
عُدَّةً وَلَكِن كَرَاهَى اللّٰهُ أَنْ يُبْعَثَهُمْ
فَتَبَطَّوهُمْ وَقِيلَ إِنَّهُمْ مَعَ
الْقَاعِ دِينَ ﴿۹﴾

لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُواكُمْ إِلَّا
خَبَالًا وَلَا أَوْضَعُوا خِلَافَكُمْ
يَبْغُونَكُمْ الْفِثْنَةَ ۚ وَفِيكُمْ
سَمْعُونَ لَهُمْ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ
بِالظَّالِمِينَ ﴿۱۰﴾

لَقَدْ ابْتَغُوا الْفِثْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَ
قَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ
وَوَهَبْنَا أَمْرًا لِلّٰهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿۱۱﴾

دین سے عزت مگر آخر تیری کیا نذر تھارتھ کین (اجازت
منگن ولین) پتھ روز تک اجازت ۱ (تیری پڑھی جن
نیرس پیچھ دار کرنی) یوت تام یوزون واک تیری نیش
ظاہر سیدین تہ شہ نراتہ کھہ ایز یارک تہ (پانے)
یم اللہ (تعالے) ہس تہ آخر تہ کس وہ ہس پیچھ
ایمان انان چھہ تم پیچھہ پینبو مالو تہ زوو سوتو
جہاد کرتہ رہتہ۔ پچکک اجازت منگان۔ اللہ (تعالے) چھہ
حقین زبر پاٹو رانان۔

پتھ روز تک اجازت چھہ صرف تم منگان یم اللہ (تعالے)
ہس تہ آخر تہ کس وہ ہس پیچھہ ایمان چھہہ انان تہ
تہندین دن اندر چھہ شک پاؤ گاوتی۔ اوے چھہ تم
پینبو شکو کتی مجھے اور تہ مجھے یور آسان۔

بیر اگر تم (جنگس) نیر تک پونہتہ ارادہ آسہے تیلہ
کرہن تم تہ خاطر کاندہ تیاری تہ۔ مگر اللہ (تعالے)
ہن کوز تہ تہند (جنگس) نیرن پسند۔ لہذا تمہا دن
تم تہنری جایہ بہتاوتھ۔ تہ تم آویہ ونہہ (یعنی
تہند پو کا فر دستو دوٹھ) نہ یم لاکھ بہتھ روزان
چھہ تینے سوتو روزو توہر تہ بہتھ۔

اگر تم توہہ سوتو رلیتھ نیرہن تہ تہ خرابی پاؤ کرہن
ورایہ کرہنو تہ توہہ کاندہ اتھو روٹ۔ بیر دورنا دن
تم توہہ دربان پینو گری (فساد کرتہ خاطر) (تہ توہہ
منز قبتہ پاؤ کر پرخ کرہن خاطر تہ توہہ منز تہ چھہ
کینہ تھو (لاکھ موغڈ) یم تم تام واتا دن خاطر
کتھہ یوزان چھہ۔ تہ اللہ (تعالے) چھہ ظالن زبر پاٹو
رانان۔

تمو اوس امر بروٹھ تہ قبتہ (نوز لوان) یوزھمت تہ
چاڑہ باپتھ اسیکھ حالات رنگہ رنگہ بدلوکرتو۔ یونام
نہ حق آویہ اللہ (تعالے) مند قاملہ سپڈ نون
تہ تم آسہا یہ قاملہ ناپسند کران۔

بہ چھ ہجرتوں میں کیے (مناقی) تھو تو ہم دن چھ
 نہ اسے دیو (پچھ روز تک) اجازت تہ اسے مستہ
 تڑاؤ تو (جنگل گھرنے چہ) آزمائشہ منتر - (پہ)
 تھو بوزنہ (نہ) ہم لاکھ چھ ہجرتوں میں ہر روز چھ
 آرسے ہجرت - تہ یقیناً چھ ہجرتوں کا فرنگ تباہ کرن دول
 اگر تیری کانہہ قابیہ والی تہ ہجرت چھ بدلیان - تہ اگر
 تیری کانہہ مصیبت یہی تہ ہم چھ دنان - اسے اس
 بروٹھے پیش پہن دہین دہین ہند انتظار کورمت
 تہ ہم چھ خوشی سان تھر چھرتہ نیران -

تہ دن ہجرت، اسے تہ چھ تی (تکلیف) دانک یہ
 اللہ (تعالے) ہن سانہ خاطر مقرر کر تھو تھوومت
 چھ - سہ چھ سون کار ساز تہ مؤمنین ہجرت ہم
 کرن اللہ (تعالے) ہسے پیٹھ تول -

تہ دن (ہجرت) نہ توہی چھ نہ دہیو جانہرو منتر
 اگر ورائی سانہ خاطر گنہ کتھ پران تہ اُسے چھ
 تہندہ باچھ صرف اللہ کتھ پران نہ اللہ (تعالے)
 واتناؤ توہی پسنہ طور یا سانہ اتھو عذاب - لہذا
 توہی تہ پرانہ اُسے تہ پیارو توہی سہو -

تہ دن ہجرت، اگر خوشی سان خرچ کرکے تو یا ناخوشی
 سان - توہی ہجرت پہن نہ کئی مولتس منتر (تہندہ صدقہ)
 قبول کرے - سکیا نہ توہی چھو اطاعت تہ ہجرت نیران
 دول قوم -

بہ کئی (ہجرت) چھ تہندہ صدقہ قبول کرن تھو
 کورمت ماسوایہ اہر کتھ نہ ہم چھ اللہ (تعالے)
 سہ تہ تہندہ رولہ سہ انکار کران تہ نماز اُسے کاہلی
 سان ادا کران تہ خلیہ ہجرت و تہ اُسے ناخوشی سان
 خرچ کران -

لہذا تہندہ مال تہ تہندہ اولاد نہ تڑاؤ نہ تہ
 تعجب منتر - اللہ (تعالے) چھ صرف یہ ہجرت
 تہو (مالو تہ اولاد) دُسی دہ ہجرت یہ دُسیس

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِّي وَلَا
 تَفْتِنِّي اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَاوْرَا
 جَهُنَّمَ لَمَحِيْطَةٌ بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿۱۱﴾

اِنْ تُصِْبَكَ حَسَنَةٌ فَاَسْئَلْهُمْ وَاِنْ
 تُصِْبَكَ مُصِيبَةٌ فَقُوْلُوْا اَقْدًا اَخَذْنَا
 اَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَاَيُّكُمْ لَوْ اَهُمْ
 قَرِحُوْنَ ﴿۱۱﴾

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا
 هُوَ مَوْلَانَا وَاَعْلَى اللّٰهِ قَلِيْلٌ
 الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۱﴾

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَا اِلَّا اِحْدَى
 الْحُسَيْنِيْنَ وَاَنْحُنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ
 اَنْ يُصِيبَكُمْ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ
 عِنْدِهٖ اَوْ يَاِيْدِنَا فَاَنْتَرَبَّصُوْا اِنَّا
 مَعَكُمْ مُّتَرَبَّصُوْنَ ﴿۱۱﴾

قُلْ اَنْفِقُوْا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا لَنْ
 يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ اِنْ كُمْ كُنْتُمْ
 قَوْمًا فَسٰقِيْنَ ﴿۱۲﴾

وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقَبَّلَ مِنْهُمْ لَقَفْتَهُمْ
 اِلَّا اَنْهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَلَا
 يَأْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كَسٰلٰى وَاَلَا
 يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كَرِهُوْنَ ﴿۱۲﴾

فَلَا تُخْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَاَوْلَادُهُمْ
 اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِمَا فِي
 الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاَتْرَهَقْ اَنْفُسَهُمْ

وَهُمْ كَفِرُونَ ﴿۵۱﴾

مشرک غلاب۔ بیہ زہت بندگی زو نیرن تہتہ وقتہ
زہتم آسن منکر ہے۔

وَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِثْكُمْ
وَمَا هُمْ بِمِثْكُمْ وَلَا كُنْتُمْ قَوْمٌ
يُفْرَقُونَ ﴿۵۲﴾

بیہ چہرہ تم بیتہ کتہ پیچہ اللہ (تعالیٰ) ہنزد رہے
تاوان زہتم چہرہ تو ہی مشرک، حالانکہ تم، چہنہ تو ہی
مشرک۔ بلکہ چہرہ تم اکہ ترہہ جماعت یوہہ سخت
بزدل چہیہ۔

لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأَ أَوْ مَغْرَبَاتٍ أَوْ مَدَاجِلًا
لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿۵۳﴾

اگر تم کا نہہ پینہ ریح جائے یا کھلہتہ روزنہ بایتہ
گولہ پیچہ یا پتہ روزنہ خاطر کا نہہ پھکانہ لبین تو تم
گڑھن تھہر پھرتہ تکتہ دوان۔

وَمِنْهُمْ مَّن يَّتْلَمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ۚ
فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ
يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَشْحَطُونَ ﴿۵۴﴾

بیہ چہرہ تمو مشرکینہ (منافق) تہتہو یم صدق
متعلق تریہ ہا ترہہ لاکن چہ۔ اگر کیو صدقو مشرکینہا
ہتمن تہ دہ پیہہ تنیلہ چہرہ تم راضی سپدان۔
تہ اگر تمو صدقو مشرکینہ ہتمن دہ پیہہ تہ تہ تم

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَ
رَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ
سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ
رَسُولُهُ إِنَّا لِلَّهِ رَاغِبُونَ ﴿۵۵﴾

چہرہ کیم ناراض گڑھان۔
بیہ اگر تم اللہ (تعالیٰ) تہ تہندس رولہ سہندس
عنایت کرنس پیچہ خوش سپدان تہ یہ ونہ من زہ
اللہ (تعالیٰ) ہے چہرہ سائہ خاطر کائی داکر اسہ
تعلی سپد تہ اللہ (تعالیٰ) دہ اسہ پسنہ فضلہ
سوتو، تہ (بیچتہ پاکو) تند رسول تہ۔ اسی
تہ چہرہ پسنس اللہ (تعالیٰ) ہس کون من والی
ادہ یہ سپد ہے تہندہ خاطر سہٹا جان۔

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ
الْمَسْكِينِ وَ الْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَ
الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَ
الْغَارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ
السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۵۶﴾

صدقہ چہرہ صرف فقیرن تہ مسکین ہندہ خاطر بیہ
جن ہندہ خاطر یم تم صدقہ سونراونہ خاطر مقرر
کرنہ آمتو چہرہ بیہ ہتمن کتہ۔ ہیندہ بل (پانسہ
سوتو) رلاونہ مدعا آسہ۔ بیہ یچتہ پاکو قیدین
تہ قرضدارن کتہ (بیہ ہتمن کتہ یم) اللہ (تعالیٰ)
ہنزد و تہ (جنگ کران چہرہ) بیہ مسافرن کتہ۔ یہ
چہرہ اللہ (تعالیٰ) تند مقرر کوننت قرصن تہ

یہ یعنی ہم لاکھ سخیوں کے سان اسلام متعلق تحقیق کرن بیڑھن ہتمن اگر ضرورت آسہ تہ تہندہ مد
گڑھہ کرن۔ یہ مطلب چہنہ زہ کفار گڑھن دیار دہتہ مسلمان کرنہ۔

اللہ (تعالیٰ) چھ سیٹھا زان وول (تر) بوڈ
حکمت وول -

بہی چھ بہو منتر کئیہ بتھو (منافق) تر پیم نیس
ڈکھ دولن چھ تر ونان بھہ نہ سہ چھ (کئیہ) کن بلہ
ٹر وکھ نہ سہ چھ تہند خاطر جانر بوزنگ کن
تھاوان - سہ چھ اللہ (تعالیٰ) ہس پیٹھ اپمان
انان بہی پیم توہر منتر مؤمن آسن بہن (ہند بن
وعدن) پیٹھ (تر) چھ پڑھ تھاوان بہی چھ مؤمن
ہند خاطر رحمت ہامت تر تم لاکھ پیم اللہ
(تعالیٰ) ہندس رسول ڈکھ واتاوان چھ، بہن کیت
چھ کر لویٹھ عذاب -

تم چھ توہر بخش کرتا پتھ اللہ (تعالیٰ) سہن
درہے کران - حالہ اگر پیم (منافق) پڑی مؤمن
آسن تر اللہ (تعالیٰ) تر تر تند رسول تر چھ
جادر عقدر نہ بہن پن بخش کرتا -

بہن چھنا پے نہ سہ کاٹھ اللہ (تعالیٰ) تر تہندس
رسول پتر مخالفت کران چھ تہند خاطر چھ جہنمک
نار (عقدر) سہ گڑھ تھہ اندر روزان - بہی یہ
چھ پڑ باہر رسواہی -

منافق چھ (باہر خاطر) کھوڑنگ اظہار کران تر بہن
خوات گورہ نہ کاٹھ سور نازل سیدن - بس بہن
(تر مسلمان) بہو کھویش خیر دار کر یہ تہند بن
دلن منتر چھہ - ٹر وکھ! کران گڑھو اسہ ہنا!
اللہ (تعالیٰ) کڑ بے شک سو کتھ نتر سیمہ (کر
ظاہر کر تر) نشہ توہر (اچھہ تا چھہ) کھوڑان چھہ
بہی اگر تر بہن پرتر حکم (نو توہر کیاہر چھہ پڑھ کتھ
کران ۱) اہر تم دنو (توہر) ضرور یوہے جواب (تر)
اس تر اسے صرف طعنے مولا کران - ٹر دیز بہن

وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَدْنَىٰ أَدْنَىٰ حَيْثُ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۷﴾

يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُضِلَّكُمْ وَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُضِلُّوا إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿۱۷﴾

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنِ يُعَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ﴿۱۷﴾

يَخَذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَغْفِرُوا إِنْ أَرَادَ اللَّهُ مُخْرِجًا مَّا تَخَذَرُونَ ﴿۱۷﴾

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ يَا آللَّهِ وَآلِيهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿۱۷﴾

لے لینے کو چھ پچ یا کنہ لہڈ چھ تر پر پتھ کاٹھ ہنر کتھ چھ پڑھ کران -

جواب۔ زکیا تو ہی اسی والا اللہ (تعالیٰ) ہے، تندرین
 آئین تہ تندرین رسول سستی کھٹھہ مخولہ کران ؟
 وہ وہی مہ کرہ کاٹھہ عذر۔ توہہ کورہ ایمان اٹھہ کفر۔
 (لہذا ایک سزا لیو) اگر اسی توہہ اندر اُکس
 ڈریس معاف کرو تہ بیس اُکس جماڑہ دمو عذاب
 او موکوہ زہم اسی مجرم (او یہ چھینہ سانی کلام)۔

منافق مرد تہ منافق زنانہ چیرہ پانہ وانی اللہ اُکس
 سستی تعلق تھاوان۔ تم چیرہ بد کھتن ہند حکم دوان
 تہ بڑن کھتن خلاف تعلیم دوان۔ تہ پینڑا تھہ چیرہ
 (خدا یہ سزایوتہ خرچ کر تہ ہنس) پتھہ رٹان۔
 تو تروو اللہ (تعالیٰ)۔ لہذا تراوی تم تہ اللہ (تعالیٰ)
 ہن۔ بے شک منافق چیرہ اطاعت نہینہ نمبرنیرن اولیٰ۔

اللہ (تعالیٰ) ہن چیرہ منافق مردان تہ منافق زنان
 تہ کفارن سستی جہنمہ کر ناکر و عہد کورمت۔ تم
 مگر تمہن اتھہ مفز روزان۔ سنے چیرہ تہنہ (لوہ)
 تو تہ پھرنہ) خاطر سپٹھا۔ امہ علاوہ چیرہ اللہ (تعالیٰ)
 ہن تمہ (پسنہ درکاہ مفز) کڈ تھہ تہ تہ صیوتو
 بیہ چیرہ تہنہ با پتھہ اکھ قائم روزان دول عذاب
 (مقرر)۔

(اے منافقو! یہ عذاب آسہ) تمہن لوکن ہندہ
 عذاب کر پٹھو پیم توہہ بروٹھ گڈرے ہوتو چیرہ۔ تم
 اُسو تہنہ کھوتہ جاوہ طاقتہ واری۔ تم اُسو جاوہ
 مال تہ اولاد تھوان۔ لہذا ہوتو پسنہ حصہ
 مطابق قایمہ تہ توہہ سٹو پسنہ حصہ مطابق
 قایمہ۔ پتھہ پٹھو توہہ بروٹھ لاکو پسنہ حصہ
 مطابق قایمہ تہ۔ بیہ کورہ توہہ تھو پٹھو
 ٹھٹھہ مخولہ ریتھہ پٹھو توہہ لاکو ٹھٹھہ مخولہ کورمت
 اوس۔ دنیا ہن متعلق تہ تہ اُخرتس متعلق تہ
 تہنہ اعمال گئے ضایع۔ تہ تم لاکھ سپدی تھو تھوان
 تمہن واری (یعنی تمہن سستی شامل)۔

لَا تَعْتَدُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ
 اِيْمَانِكُمْ اِنْ تَعْبُ عَنْ طَائِفَةٍ
 مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِاَنْهُمْ كَانُوا
 مُجْرِمِيْنَ ﴿۱۰﴾

الْمُنْفِقُوْنَ وَالْمُنْفِقَتْ بَعْضُهُمْ
 مِنْ بَعْضٍ يٰۤاُمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَ
 يَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَ
 يَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ اَسْوَا اللّٰهِ
 فَتَسِيْهُهُمْ اِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ هُمْ
 الْفٰسِقُوْنَ ﴿۱۱﴾

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُنْفِقَاتِ
 وَ الْكٰفٰرَاتِ تَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا
 هِيَ حَسْبُهُمْ وَاَعْتَبَهُمُ اللّٰهُ
 لَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿۱۲﴾

كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا
 اَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَّاَكْثَرَ اَمْوَالًا
 وَّاَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ
 فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ
 الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ وَ
 خُضْتُمْ كَالَّذِيْنَ خَاضُوا اُولٰٓئِكَ
 حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا
 وَاْلآخِرَةِ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۱۳﴾

کیا تم بٹس واثرناہ تمناہ لکن ہنز خبرہ ییم
تمن بروئعہ گڈرے ہتو چہر (یعنی) نوح تہ
عاد (ہند قومچہ) تہ تمود (سند قومچہ) یس
صالح سند قوم اوس) تہ ابراہیمہ ہند قومہ
چہر، بیه مذہن کهن لکن ہنز بیه (لوطہ ہند
قوم چہر) دہر ہمزہ آمرن بستی سن ہندہ
لکن ہنز (خبر) تمن بٹس اسو تہندو رسول
تھلہ نساہ ہتہ آدمی (مگر تم کو ر انکار تہ لوبکہ
سزا) اللہ (تعالیٰ) ہن کور تہ تمن پیوٹہ ظلم
بلو کہ اسو تم پنہن نرون پیوٹہ (پانے) ظلم لکن
بیه چہر مؤمن مرد تہ مؤمن زنانہ پانہ وانی اکھ اکر
ہندو دوست، تم چہر نیک کہتن ہند حکم دوان
تہ بدکہوئش چہر پتہ رحمان - بیه چہر نماز
قائم کران - بیه چہر زکوٰۃ دوان - بیه چہر اللہ
(تعالیٰ) تہ تہنس رسولہ ہنز اطاعت کران -
یم چہر تھو لوکہ ز اللہ (تعالیٰ) کر ضرور
تمن پیوٹہ رحم - اللہ (تعالیٰ) چہر غلبہ وول (تہ)
بوز حکمتہ وول -

اللہ (تعالیٰ) ہن چہر مؤمن مردن تہ مؤمن زنانہ
یقین جنن ہندو وعدہ کرہ ہتو یمن اند تہر
پکان چہرہ تم روزن ہمیشہ تمن منز - تہ ہمیشہ
روزن والہن جنن منز - پاک روزن جائن ہند
(تہ چہر تہ وعدہ کورمت) تہ تہر علو اللہ (تعالیٰ)
سبز رضامندی چہرہ سارہ وہے کھوتہ بوز العالم
(یس تمن میلہ) تیمک میلن چہر (سبھا) ہڈ
کامیابی -

اسے نبی! کفارن تہ منافقن سبزو کرو جہاد تہ
تمن پیوٹہ کرو (پونہ انتظام کر تہ) سختی (سان
علیہ) تہند ٹھکانہ چہر جہنم تہ سو چہرہ (روز تہ کر
جسارہ) سبھا خراب جائے -

اَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ هَ وَ قَوْمِ
لِإِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَ
الْمُؤْتَفِكَةَ هَ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ
وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ
أَوْلِيَاءُ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ يُطِيعُونَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٩﴾

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا وَ مَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي
جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَ دَرِّسُونَ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرًا
ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٩﴾

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَ
الْمُنَافِقِينَ وَ اغْلُظْ عَلَيْهِمْ هَ وَ
مَاؤسُهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٩﴾

تم چھ اللہ (تعالیٰ) ہنزدہ سے کوان نہ تمو ڈی نہ
 کانہہ (بیچہ) کتھہ - بزہوسہ تہ تمو چھ کفرج کتھہ
 ڈی منتر - تہ اسلام تہتھہ چھ کفر کورمت - تہ
 (اسلامس جلالت) چھ کتھہ ترشن (کمزورہ) کتھن ہند
 ارادہ کورمت بیچہ تم حاصل کر تھہ ہیکن نہ - بیہ کر
 بتو مسلمان سیتو صرف امہ مو کھہ دشمنی نہ اللہ
 (تعالیٰ) ہن تہ تہندہ رٹولن اسی تم پینتہ فضلہ
 سیتو مالدار بناوہ سیتو - لہذا اگر تم توبہ کرن تہ
 تی عرشہ تہندہ خاطر تہ تہ اگر تم تھسہ پھرتھہ
 ترشن تہ اللہ (تعالیٰ) دیہ یکن ڈی بیس اند
 تہ تہ اترس اندر تہ کر یوٹھ عذاب - تہ بیہ
 بترا تہ پیٹھ نہ آسہ کانہہ تہندہ دوست تہ نہ آسہ
 کانہہ مدگار۔

بیہ چھ یو منتر (کیئہ انسان) تہتو تہ بیم اللہ
 (تعالیٰ) ہس سیتو بیہ عہد چھ کران نہ اگر نہ
 (اللہ تعالیٰ) اسہ پینتہ فضلہ منتر کیئہ تہا
 دیہ تہ اسی کو ضرور تہندہ وتہ صدقہ تہ اسی
 بنو ضرور نیک۔

تہ نیلہ تمہ (خدایں) بہن پینتہ فضلہ سیتو مال عطا
 کور تہ تو کور تہندہ وتہ سہ (مال) خرچ کر نس
 بخل تہ (پینتہن پرانین طرفین کن) پھیر دی واپس
 تہ (خداے تہ رٹولہ ہنزدہ کتھو ہنڈہ) پھیر کھ رہا
 گردانی کر تھہ تھسہ۔

اد (نتیجہ سپد بہ نہ) تو کور تہندہ بن دن منتر
 نفاک سلسلہ تھہ دوہس تام تجاری نیلہ تم
 تس سیتو ملاقات کرن - نکلیا نہ بتو میں وعہ
 خدایں سیتو کورمت اوس بیچ کر کھہ خلاف
 ورزی - بیہ امہ کتھ نہ تم اسی ایز دنان۔

کیا بہن اوس ناپے نہ اللہ (تعالیٰ) چھہ
 تہندہ کھٹھہ مشورہ (تہ زمانن) تہ تہندہ

يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ
 قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ
 إِسْلَامِهِمْ وَهَتُمُوا بِمَا لَمْ يَنكُرُوا
 وَمَا تَقْمُوا إِلَّا أَنْ أَعْنَاهُمْ اللَّهُ وَ
 رَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ فَإِنْ يَتُوبُوا
 يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا
 يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي
 الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ
 مِنْ دَرَجَةٍ وَلَا صِيرٍ ۝

وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَنْ نَسُنَّ
 مِنْ فَضْلِهِ لَنْصَدَّقَنَّ وَلَنْكُونَنَّ
 مِنَ الصَّالِحِينَ ۝

فَلَمَّا آتَاهُمُ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا
 بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ۝

فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمُ إِلَى
 يَوْمٍ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا
 وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ۝

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سَرَّهُمْ
 وَتَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ

الْغُيُوبِ ۝

تیرے واپس مشورہ (ترجیح) زمانہ - بیہ بیہ نہ
اللہ (تعالیٰ) چھ یورہ پانچو غائب چین کھن ہند
واقف -

یم چھ (منافق) یم مؤمنو منتر خوشی سان
برونٹھ تیرے تیرے صدقہ دین والین ملانہ تر ملان
چھ بیہ بہن تر یم پسند (مختہ چیر) کس یہ
ورائی (کاشہ) طاقت چھنہ تھولن - لہذا چھ (امر)
قربانی باوجود (یم منافق) تمن انا کران - اللہ
(تعالیٰ) دیہ تمن (یم تمو منتر شدید مخالف چھ)
امر مسخری ہند سزا تر تمن واپس کر بڑھ غلاب -

تر تہند تر طر مغفرت مگتہ یا متہ مگتہ (ر تمن
کیٹ چھ برابرے) امر تر تہند! پتہ سستہ لہ
تر مغفرت مگتہ تر اللہ (تعالیٰ) کر نہ زاہ تمن
معاف یہ سپر او کئی نہ تمو کو اللہ (تعالیٰ) تر
تندس رٹوس انکار، تر اللہ (تعالیٰ) چھنہ اطاعتہ
تلہ نین واپس قومس زاہ کامیابی ہنزوتہ ملوان -

(جہاد لستہ) پتہ تراو نہ آہتر (منافق) چھ
اللہ (تعالیٰ) بندس رٹوس جلاو (کیٹہ) ہنہ
جایہ بہتہ روزنس پیٹہ سٹھا خوش تر تمو اوس
پستہ تر ووتہ پستہ مالو سستی جہاد کرن ناکار
زون مت - تر (اکھ اگس) اوسکھ وونمت
نہ بیتس (شدید) گرس منتر مس نہرو
(کیوٹ لگتہ) جنگہ ٹا طر - تر وون تمن) نہ
جہنمک نار چھ (ہینہ گرمہ کھوتہ) جہاد سخت
کاش تمن تر بے فکر -

لہذا تمن پز نہ تمن امن (پسند اللہ فریب
کاری پیٹہ) کم پہن تر پسندہ عملہ ہندس
جزہس پیٹہ وون جاہ -

پتہ اگر اللہ (تعالیٰ) تر یہ تمو منتر اگس جہاد کن
چھتہ انی تر تم لوکھ مگتہ نے تر یہ (کنہ آہندہ)

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ
لَا يَجِدُونَ إِلَّا جَهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ
مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ
إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً
فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ
خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ
يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا
فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا
لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ۝

فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا
جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

فَأَنْزَجْنَاكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ
فَأَسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ

جگہ باپتہ مرثعتک اجازت - تر وان بہن ز توہم
 آس و نہ نہ ہے تر (آئینہ) میں سستی (جنگس)
 مرثعتک اجازت تو زاہ تر لڑو نہ توہم دشمن
 سستی میں ہمراہ روزتہ (مکیانہ) توہم آس و
 گوڈ بکر لٹ (پتہ) بہتہ روزن پیٹہ راضی کاہتر
 لہذا آسو (بروٹھ کن تر ہمیشہ) پتہ روزن والہن
 سستی بہتہ روزن -

بہ اگر یگو مشرکانہہ مرثعتہ تر تس نہ آس نہ
 (جنازہ) نماز پران تر نہ آس نہ بہنتر قہر پیٹہ
 (دعا خاطر) استاؤ سپان - سکیانہ تمو کوہر اللہ
 (تعالیٰ) تر تہنتر رسولس انکار بہ چہ تم تہنتر
 حاس مشر مؤدر سستی - نیلہ زن تم اطاعتہ ترش
 خارج مرثعان آس -

بہ بہنتر مال تر بہنتر اولاد مہ تر آونے تر یہ
 تعجبس منز، اللہ (تعالیٰ) چہ صرف یہ بیتر جان
 تر تمو (مالو تر اولادو) دسی دیہ سہن تر تہنتر
 دنیاہس مشر عذاب بہ یہ تر بہنتر زو نیرن
 تہتہ وقتہ تر تم آس منکرے -

بہ نیلہ کانہہ سوہر (بی حکم بہتہ) تازل سپان
 چہ - نہ اللہ (تعالیٰ) ہس پیٹہ اڑو ایمان تر
 تہنتر رسولس سستی ربتہ کرو جہاد تر تمو مشر
 چھی مالدار لوکھ تر یہ اجازت سٹکن، ہوان تر
 ونان چھی اسہ ترادی تو پتہ تہتہ تر آس بہن لوکن
 سستی روزو ہم پتہ بہن والی آس -

تم چہ اتھ کتہ پیٹہ خوش نہ تم سپان پتہ بہتہ
 روزن والہن قبیلن منز مشاہل اتہ بہنتر دن دن
 پیٹہ چہ مہر کر نہ آہتر - اما پوز بہن تہتہ (پنہو
 بد اعمالو کنی) فکر تران -

مگر یہ رسول (یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم) تر
 تس سستی روزتہ میو (خالیس پیٹہ) ایمان اؤنت

تَخْرُجُوا صِبْغًا أَبَدًا وَلَكِنْ ثِقَاتِلُوا مَعِيَ
 عَدُوًّا مَا لَكُمْ رِضِيْتُمْ بِالْقَعُوْدِ
 أَوَّلَ مَرَّةٍ قَاتِعُدُوا مَعَ الْخَالِفِيْنَ ۝۵۱

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَا تَ
 أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ
 كَقَوْمِ بِلْسَاءٍ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ
 وَ مَا تَوَّأَدُ
 هُمْ فَيَسْقُوتَ ۝۵۲

وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْ
 لَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ
 أَن يُخَذَّ بِهُم بِمَا فِي
 الدُّنْيَا وَ تَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ
 وَ هُمْ
 كَافِرُونَ ۝۵۳

وَإِذْ أَنْزَلْنَا سُورَةَ
 الْآحْقَافِ بِآيَاتِنَا
 وَ جَاءَهُدَا مَعَ رَسُولِهِ
 اسْتَأْذَانَكَ
 أُولَئِكَ الطَّوْلِ مِنْهُمْ
 وَ قَالُوا ذَرْنَا
 نَكُنْ مَعَ الْقَاجِرِيْنَ ۝۵۴

رَضُوْا بِأَن يَّكُوْنُوا مَعَ
 الْخَوَافِ
 وَ طَبِعَ عَلَىٰ قُلُوْبِهِمْ
 فَهُمْ لَا
 يَفْقَهُوْنَ ۝۵۵

لِحَنِ الرُّسُوْلِ وَ الَّذِيْنَ
 آمَنُوا مَعَهُ
 جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ
 وَ أَنفُسِهِمْ ۚ

چھ تہ پیمو سینہو مالو تہ پینہو ہالو ہند ڈوس
 جہاد کورنت چھ - تہند باچہ چھ پرستہ کنبہ
 قہمک جانہ تہ تے چھ (پتو لکن) کامیاب
 سدن والی -

اللہ (تعالیٰ) ہن چھ تہند خاطر تھو جنت تیار
 کروی ہوتی پین اندر منہر پکان چھین - تم گڑھن
 ہمیشہ تم باغن منز روزان - یہ چھ سپٹھا عبط
 کامیابی -

بہ چھ مدنیس اندر پکھی جنگلن (تہ لو کنبہ
 گاسن) منز روزان والو لوکو منز چلہ مگر لوکھ
 پتھ ونان زہتمن (تہ) گڑھ پتھ روزنگ اجازت
 دنہ یں - تہ تم لوکھ پیمو اللہ (تعالیٰ) ہس
 تہ تہندس رسولس (بروتھ کنبہ) ایزر دو نمٹ
 چھ تم چھ (اجازت وراثی) پتھ رڈی رتی -
 تہو منز پیم کافر چھ تم و اتہ بے شک کرویٹھ
 غلاب -

(مگر اے رسول) ہم پیزی پاٹھی کمزور چھ بہ
 بیمار چھ یا کین لوکن و تہ خرچ ڈوس یاب چھنہ
 تم یں نہ (پتھ روزنہ کنبہ) رتہ - سید زن
 تم دلہ جانہ اللہ (تعالیٰ) تہ تہندس رسولہ ہند
 مخلص چھ - (پیم لوکھ چھ تمسن) تہ تمسن چھنہ
 کانہ الزام تہ اللہ (تعالیٰ) چھ سپٹھا بخش مار
 (تہ) پھپرک پھپرک رحم کرن وول -

تہ نہ (چھ) تمسن لوکن (کانہ الزام) پیم تریہ
 بش تمہ وقتہ آہہ سیدہ جنگل اعلان کرنہ آمت
 اوس - اوکوبز تہ تر کرکھ تمسن کانہ سوارس مہیا تہ
 تریہ دیت تھکھ جواب - زہ سیدہ بش چھنہ کانہ
 چیز سیتہ پیٹھ بہ توہی سوار کرنا وول - (تہ) یہ
 جواب بوزتھ) مے تم واپس تہ (امہ) غموتی
 اوس تہنہزو اچھو کنبہ اوش ہران نہ افسوس

أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ ذَٰلِكَ هُمُ
 الْمُفْلِحُونَ ﴿۳۷﴾

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
 تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ
 ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۳۸﴾

ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۳۸﴾

كَيْسَ عَلَى الضَّعْفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى
 وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا
 يَنْفِقُونَ حَرْبًا إِذْ انصَحُوا لِلَّهِ
 ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۳۹﴾

ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۳۹﴾

بمَن بَشٍ مُّجْتَنِبٍ كَيْفَ بِهِ تَمَّ (خدا پرست و توبہ) خروج کر بہن۔

الزام چھ صرف بمَن لوکن یم اللہ حالتس مشن اجازت منگان چھ نہ تم چھ مالدار آسان۔ تم گئے پتھ بہتھ روزن واپس قلمین سستی بہتھ روزن پتھ) اسی۔ تہ اللہ (تعالیٰ) ہن کر بہندن دن پتھ معہ ہر مگر (تم چھ تھو نہ) بمَن چھنہ فکر تران۔

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۵﴾

ییلہ توہر جنگ پتھ بمَن کن چھتھ یوان چھو تہ تم چھ توہر بش یتھ (رنگہ رنگہ) چلہ بہانہ کران۔ تہ ون بمَن نہ چلہ بہانہ مہ کرو۔ اسی کرو نہ ہرگز تہندہ چلہ بہانہ تسلیم۔ اللہ (تعالیٰ) ہن چھ اسہ تہندن حالن ہنر خبر ڈر ہنر تہ اللہ (تعالیٰ) تہ تہندہ رسول روزہ تہنہر عملہ زانان۔ پتھ بیو توہر حاضر تہ غایب زانہ واپس خدایہ ہندس دربارس منز چھتھ ہنہ۔ اسی کرو تہ تہہ تہنہر عملن ہندہ اصلیتہ ہنہر زانیاب۔

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُونَ لِي لَكُم مَّا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ سَأَلْتُمُونِي فِي شَأْنِ اللَّهِ فَاعْبُدُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ فِيمَا يَخْتَارُ ﴿۵﴾

ییلہ توہر بمَن کن چھتھ بیو تہ تم کرن توہر ہر نہ کر اللہ (تعالیٰ) ہنہر دہے۔ یتھ توہر تہنہر ڈرڈر کرو (اوپر چھو اسی توہر ونان نہ) ہن کرو در گدرہے۔ تہکیانہ تم چھ گندہ تہ تہندہ بھکانہ چھ تہندہو عملو بدل برو تھ پتھ جہنم مقرر ہن تہ تم کرن توہر برو تھ کہہ قسم تاکہ توہر سپردہ بمَن اسی ادر ہر گاہ توہر بمَن اسی تہ سپردہ۔ تہ اللہ (تعالیٰ) سپردہ اطاعتہ تہہ نیرن واپس لوکن اسی۔

سَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ لِخَسِرٌ وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمُ بِجَزَاءٍ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۵﴾

حامن (تہ جنگلن) مشن روزن وادی عرب چھ کھنر تہ منافقتس مشن (سارہنے عربن) برو تھ دراہتہ۔ تہ (جہالتہ کنہ) چھ تہکو حقدار نہ یہ اللہ (تعالیٰ) ہن پسنس رسولس پتھ تازہل کورمت چھ تہکو حد پرہر نادون تہ اللہ

يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿۵﴾

(تعالے) چھ سبھا زانن وول (تہ) بؤڈ حکمتہ وول۔

بیس چھ گھامن (تہ جنگلن منتر روزن والین) منتر کینہہ تتھو لوکھ تہ (پیم) خدایہ سنسر و تہ خرچ کوزمت مل (اکھ) چھوڑ زانان چھ۔ تہ تمہتہر باپتھ چھ (آسمانی) گردوشن پیار و تہ روزن۔

(بؤڑو!)۔ چھ گردوش بیسہ تہنہ پیٹھ، تہ اللہ (تعالے) چھ زبر بوزن وول (تہ) زانن وول۔

بیس چھ گھامن (تہ جنگلن منتر روزن والین عربن) منتر کینہہ لوکھ تتھو تہ بیم اللہ (تعالے) ہس تہ آخرتہ کس وہ ہس پیٹھ (بؤڑ) ایمان اتان چھوڑ (خدایہ تہ تہ) کیشہ حاکم کران چھوڑ (تعالے بند) تہ تہ کتہ پیغیر ہندین دوعامن ہند ڈریہ زانان۔ بؤڑو! یہ عمل سپر ضرور تہند خاطر (خدایہ ہند) قربتک ڈریہ۔ اللہ (تعالے) ولہ بہن منور ہنہ رحمتہ سوتہ بیکیا ز اللہ (تعالے) چھ سبھا بخش مار (تہ) چھپر کر چھپر کر رحم کرن وول۔

بیس مہاجرو تہ الفارو منتر بیم برہنہہ نیرن والہ چھ۔ بیس بتم لوکھ تہ بیم بؤڑ بؤڑ اطاعت کران بہن پتہ بیکو۔ اللہ (تعالے) سپر تمن راضی تہ بتم سپر تس راضی، تمہ چھ تہند باپتھ تتھو جنت تیار کرکے ہوتی، کین اندر منہر پکان چھپر۔ بتم مرشہن ہمیشہ بہن منتر روزن۔ یہ چھپر سبھا بڑ کا میالی۔

تہ توہہ اندر کچھو روزن والہو (عرب) گامبو (تہ جنگلیو) منتر چھو مناقب تہ تہ مدہس منتر روزن والہو منتر تہ چھو (کینہہ لوکھ تتھو) بیم بغاقتس پیٹھ ڈاکرتھ چھو، تہ چھہکھ تہ بتم زانن اسی کرو بہن دو یہ لڑ عذاب۔ پتہ بین بتم اگس بڑس عذابس کن چھپر تھ ہنہ۔

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُّ بِكُمُ الدَّائِرَةَ عَلَيْهِمُ الدَّائِرَةُ السَّوَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۰﴾

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ، سِذَّ خَلَّاهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۰﴾

وَالشَّيْقُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، ذَلِكَ الْقَوْلُ الْعَظِيمُ ﴿۱۰﴾

وَمَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ، ذُو مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوا عَلَىٰ الرِّفَاقِ سَلَا تَعْلَمُهُمْ، تَحْنُ تَعْلَمُهُمْ، سَنُعَذِّبُهُمْ مَذَّتَيْنِ، ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿۱۰﴾

وَاخْرُؤْنَ اعْتَرِفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا
عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ
يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۱﴾

بے چہرے تہمتوں کی کینہ لڑکھ کیوں پستپن گم نہ ہن ہند
اقرار کور، متور لڑو نیک اعمال بے کینہ ترن بدل
اعمال سنو بیک ناکار اسی عقرب کب اللہ
(تعالے) تمہن پیٹھ فضل۔ اللہ (تعالے) بچھ
سبھا بخش بار (تہ) چھری چھری رحم کرن
وول۔

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ
وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيمٌ
عَلَيْهِمْ ﴿۱۲﴾

(اے پیغمبر!) مہندبو مالو مشر ہنیر (مین) صدقہ
یختہ تر ہم پاک کر کھ تہ تہنیر تر قی ہندی
ساما تر کر کھ مہیا۔ بے روز کھ تہند با پختہ دعا
کران بکلیا ز چون دعا چھ تہند اطمینا تک باعت
تہ اللہ (تعالے) چھ چانی دعا جاہ بوزن وول
(تہ سلامت) زان وول۔

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ
التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ
وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۱۳﴾

کیا تمہن چھتا پے نہ اللہ (تعالے) ہے چھ یس
پنہن بندن ہند توبہ قبول کران تہ تمہن صدقہ
ہوان چھ؟ (رسول چھنہ ہوان لہ) تہ اللہ (تعالے)
ہے چھ یس توبہ قبول کرن وول (تہ) پھر کر
چھری رحم کرن وول چھ۔

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ
وَالْمُؤْمِنُونَ، وَسَتُرَدُّونَ إِلَى
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۴﴾

بے رون (تمہن) ز پسنہ جاہ رور و کام
کران۔ اللہ (تعالے) تہ تہ رسول تہ مؤمن
روزن تہنن کاہن (ہنر حقیقت) و چھن
تہ توبہ بیو ضرور حاضر تہ غائب زان و اس
خالیس کن چھ تہ تہ تہ سہ و تہ تہ تہن
عملن ہنر حقیقت۔

وَاخْرُؤْنَ مُرْجُونَ لَمَّا رَأَى اللَّهُ
يُعَذِّبُهُمْ وَإِنَّمَا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۱۵﴾

تہ بے تہ چھ کینہ لڑکھ بیک خدایہ بندن حکم
پیار و فی تھونہ آہو تہ چھ (تہ) چھ اختیار
نہ (تہ) تمہن عذاب کر یا تہند توبہ قبول کر

لہ صدقات چھ خداتعالے بندن عرب تہ نادار بندن پیٹھ فرج کر تہ ہوان، نہ چھ تہس پیٹھ تہ نہ آہو تہس تہس
پیٹھ فرج ہوان۔

لہ یعنی تہس تہس متعلق خداتعالے حکم نازل سپر تہس متعلق بے نہ کاہنہ کار واپی کرنہ۔

تہ اللہ (تعالیٰ) چھہ زمان وول دتہ) حکمتہ وول۔
 بیہ تہم لوکھ یو کھ مسجد (مسلمان) نو نقصان
 واتاوتہ، تہ کفرک تبلیغ کرنہ تہ مؤمنن منفر تفرقہ
 پاد کرنہ خاطر بناؤ مہتر چھہ بیہ امیر عرضہ
 ز لیس شخص اللہ (تعالیٰ) تہ تہدیس رسووس
 سوتہ جنگ کرتھہ بیوٹھمت چھہ تہنہر باچھہ پیہ
 زانن جاے دوسوایب کرنہ۔ تم کرن ضرور قسم
 (نہ) یہ مسجد بناوتہ تلہ اوس سون ارادہ صرف نیکی
 کرنہ تہ اللہ (تعالیٰ) چھہ گواہی دوان نہ تم چھہ
 بے شک اپز دوان۔

(اے نبی!) تہ مہ سپد (زاد) اتھ (مسجد)
 منفر (جماعت کرنانہر باچھہ) استاد۔ سم
 مسجد شیمیح بنیاد گوڈ دوہہ پیٹھ تقواہس پیٹھ
 تھونہر آمہتر چھہ، چھہ ہادہ تھار نہ تہ سپدکھ
 تھہ اندر استاد۔ تھہ اندر چھہ تھقی لوکھ (بیہ)
 والہ) یک تمنا چھہ کران نہ تہم مہترھی پور پاک
 سپدہ تہ اللہ (تعالیٰ) چھہ پور پور پاکیزگی
 پراون والہن پسند کران۔

سہ شخص یس پنہہ عمارتک کن اللہ (تعالیٰ)
 ہندس تقواہس تہ رضامندی پیٹھ کھالان چھہ، چھا
 ہادہرت؟ کہنہ سہ یس پنہہ عمارتک کن رہہ
 نہرہ گرتھہ وینس مس پیٹھ کھالان چھہ یس رسان
 چھہ آسان پتہر چھہ سہ پیٹھ سم عمارت ہوتھہ جہتس
 منفر سدان تہ اللہ (تعالیٰ) چھہ تھام قومس
 (کامیابی ہنر) و تھہ دوان۔

سم بنیاد یوسہ، تمو کھامہتر آس روز ہمیشہ تہنن
 وانجن کوران بجز یہ نہ تہنہر دل سپدن چھہ چھہ
 (تہ تم مرن) تہ اللہ (تعالیٰ) چھہ سبھا زمان وول
 (تہ) بوڈ حکمتہ وول۔

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضَرًا دًا وَ
 كُفْرًا وَ تَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ
 وَ اِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهُ مِنْ
 قَبْلُ ؕ وَ لَيُخْلِفَنَّ اِنْ اَرَدْنَا اِلَّا الْحُسْنٰى ؕ
 وَ اللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۝۱۱

لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبْدًا لِمَسْجِدٍ اُسِسَ
 عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ
 تَقُوْمَ فِيْهِ ؕ فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّوْنَ اَنْ
 يَّتَطَهَّرُوْا ؕ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِيْنَ ۝۱۲

اَفَمَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوٰى مِنْ
 اللّٰهِ وَ رِضْوَانٍ خَيْرٌ اَمْ مَنْ اَسَّسَ
 بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرْفٍ هٰكٍ فَاَنْهَارُ
 يَمْ فِيْ نَارٍ جَهَنَّمَ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِي
 الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝۱۳

لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُ الَّذِي بَنُوْا رِيْبَةً
 فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلَّا اَنْ تَقَطَّعَ قُلُوْبُهُمْ ؕ
 وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝۱۴

لہ من بقو بناو کھ مشہد الواعبر راحب بند و نہر مطابق سیتہ منفر تہ مسلمان خوات سادہ کران آکر۔

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَزَاءً فِي التَّوَارِثَةِ وَالْأَنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۱۱﴾

اللہ (تعالیٰ) میں چھ مؤمنین ہندو نے جو تہ بہ تہ ہندو مال (بیچہ و عداوت پیٹھ) مگر بیچو موتی ترستن میلہ جنت (تکلیف) تم چھ اللہ (تعالیٰ) سنتر و تہ جنگ لڑان اڈ (یا تہ) چھ تم پینٹن دشتمنن مار تہ ترھنان یا چھ (تم) پانہ مارنہ یوان - یہ چھ اکھ بتیجہ و عداوتیس تس لہ پیٹھ لائزم چھ (تہ پتہ و عداوت چھ) توالتس تر انجیلس (منتر تہ بیان کرنا آمت) تہ قرآنس منتر (تہ) تہ اللہ (تعالیٰ) سندر کھوتہ کس چھ جاو پینن و عداوت پور کرن وول - ؟ لہذا (اسے مؤمنوں) پیننس آتھ سوڈ ہس پیٹھ پدو خوش یس توہہ کورمت چھو تہ میہہ چھینہ سو بڑ کامیابی (تیکیک مؤمنن و عداوت سنہر آمت چھ)۔

الَّذِينَ بَوَّأُوا بِالْحَمْدِ وَالسَّاعِدُونَ الرَّاٰكِبُونَ السَّاجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۲﴾

(یہ لوگ) توہہ کرن وائل چھ، عبادت کرن وائل چھ، (خدا یہ سندر) حمد کرن وائل چھ (خدا یہ سنتر و تہ) سفر کرن وائل چھ، رکوع کرن وائل چھ، سجدہ کرن وائل چھ، رتن کتن ہند حکم دہن وائل چھ تہ ناکار کتھو لنتہ پتھ رتن وائل چھ تہ اللہ (تعالیٰ) ہندو حد رترھلون وائل چھ بتھینن مؤمنن دتر نھ شجری۔

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿۱۳﴾

نبیس تہ مؤمنن شوہر ہے تہ تر مشرکین ہند خاطر منگہر ہن (تم) مغفرت اڈ تم کوہہ آسن نزدیک اُستاد ہے - امر پتہ ترستن ننیووز تہ تم چھ جہنمی۔

وَمَا كَانَ اسْتَغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَّهَا أَيَّاهُ ۖ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴿۱۴﴾

تہ ابراہیم سندر پیننس مال سندر حقہ مغفرت منگن اوس صرف امر باعترہ زتمو اوس تس سستی و عداوت کورمت - اماہ پوز پیلہ تس ننیووز تہ چھ اللہ (تعالیٰ) سندر دشمن تہ سہ سید تہ و عداوتس پور پاپٹھو دستبردار۔ ابراہیم اوس سبھ ہے نرم دل تہ کاٹل۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۱۱﴾

تہ یہ حجۃ اللہ (تعالیٰ) بندس شانس جلاوت نہ کاہنہ قوم یہ ہدایت دینے پر گمراہ ٹھہراؤنہ یوتام نہ سہ ہمن برونہ کبہ ہم (کتبہ) بیان کریمو ہنہ ہمن بچن ہنہ اللہ (تعالیٰ) چہ ہر ہکاہنہ چیز زانان -

إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُخْفِي وَيُكْشِفُ، وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ دَرَجَةٍ وَلَا نَصِيحَةٍ ﴿۱۲﴾

آسمان (ہنہ) تہ زمیچ بادشاہت چہ ہر بے شک اللہ (تعالیٰ) ہنہ - سہ چہ زہد تہ کران تہ (سہ) چہ ماران تہ - تہ اللہ (تعالیٰ) ہس ورایی نہ چہ کاہنہ تہند دوست تہ نہ کاہنہ مددگار -

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْحُسْرَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۳﴾

اللہ (تعالیٰ) ہن چہ نیلیس تہ مہاجرین تہ انصارین پیچہ ہو فضل کورمت (یعنی ہمن لاکن پیچہ) کیو تسنہ (یعنی نئی ہنہ) پاروی تہ ساعتہ کرئہ ینیلہ لکھنک وقت اوس ینیلہ ہنو مشر اکہ ذہرک دل ہنا ششکس مشر ہینہ آتو آسہ ہر کور تہ ہمن (گمزدان) پیچہ تہ فضل - سہ چہ ہمن (مومن) سترہ یقیناً محبت کرن وول (تہ) چہرہ چہرہ رحم کرن وول -

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۱۴﴾

ہیتہ پانچو (کور تہ) ہمن ترنونی لہ تہ (فضل) ہم ہیتہ تراونہ آتو آسہ، یوتام نہ ینیلہ ہتراتہ کھلہ ڈلہ آسہ تہ ہمن پیچہ تنگ سپز تہ تہندہ پیچہ نفس تہ بنے ہ ہمن پیچہ ہور - تہ ہنو کور خیال نہ اللہ (تعالیٰ) ہندہ فضلہ ہنہ ہچہ خاطر چہنہ تس ورایی ہہہ کاہنہ چناہ - تہ تہنہز حالت نوچہ کور اللہ (تعالیٰ) ہن ہمن پیچہ فضل، ہیتہ ہم تہ توبہ کرن - اللہ (تعالیٰ) چہ بے شک چہرہ چہرہ توبہ کرن وول (تہ) چہرہ چہرہ رحم کرن وول -

۱۱ یہ تریہ مؤمن صحابہ جنگ تبوکس مشر غلطی سرتو پتہ روزہہ گیاہے - یعنی عبد اللہ بن کعب -
مرادہ بن ربیع عامری تہ بلال بن اُمیہ واقفی رضی اللہ عنہم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا
مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿۱۱﴾

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ مَن حَوْلَهُمْ
مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ
اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا
نَجَسٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ
لَا يَطْئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا
يَنَآلُونَ مِن عَدُوِّئِهِمْ إِلَّا كَمَا كُتِبَ لَهُم
بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيئُهُ
أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۲﴾

وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً
وَلَا يَقْطَعُونَ دَائِيًّا إِلَّا كَمَا كُتِبَ لَهُمْ
لِيَجْزِيَ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿۱۳﴾

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً
فَلَوْلَا نَفَر مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ
لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ
إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿۱۴﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ
يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ
غُلظَةً ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ
الْمُتَّقِينَ ﴿۱۵﴾

وَإِذَا مَا أَنزَلْنَا سُورَةً فَمِنْهُمْ مَّن

اے مومنو! اللہ (تعالیٰ) سے تقویٰ پراوو تو میری
یارین (ہنر جہاد) سوتی سپرو سٹابل۔

مدینہ والین تو امن اندر کچھ کامن (تہ جنگن)
منز روزن والین (عربن) پڑھے نہ اللہ (تعالیٰ)
سند رسول (کنے زون) تراوتھ یا نہ پتھ روزن تو
نہ پڑھیکہ تہند تر و انتہ لاپروا سپدھ پستین زون
ہنر مکر ہنیز۔ یہ (فصلہ) چھ او کوی (کر نہ یوان)
نہ اللہ (تعالیٰ) ہنر وتہ چھنہ امن تریش گنج
تکلیف یا بوجھ ہنر کانہہ گر پیش یوان۔ تو نہ چھ
تم کتہ وتر یکان یس کافرن نکلہ کھالہے تو نہ
چھ تم دشمنس پیچھ کانہہ فتح لبان، پیچھ بدلہ
تہند خاطر نیک عمل لیکھنہ یوان اسہ ہے نہ۔ اللہ

(تعالیٰ) چھنہ احسان کرن والین ہند اجر ضایع کران۔
بہ چھنہ تم (اللہ تعالیٰ) ہنر وتہ) کانہہ لوکت
یا بوڈ، ہو خرچ تہ کران تو نہ چھ کانہہ وادی ط
کران مگر (سوتی) چھ (یک نیک کامہ تہندین
امان منز) لیکھنہ یوان۔ پیچھ زن اللہ (تعالیٰ)
تہنزن عمل ہند بہترین بدلہ دیہ۔

بہ مؤمن ہند خاطر اوس تو یہ ممکن نہ تم نیرین
سوم ساری (رکتہ و پنج تعلیم حاصل کر نہ باپتھ)
اڑکیا تہید نہ یہ نہ تہنیز پر پتھ جہاد منز نیرہے
اکھ اکھ لوگجا۔ پیچھ تم پور پانگمی دین ہنچھہ من تو
والیس پیچھ کرین سینس تومس (سے دہنی ہنر خبرا)
پیچھ زن تم (مگر ہی ہنر) کھوژن ہنیرہ من۔

اے مومنو! امن کھدن سوتی کرو جنگ یک تہہہ
نکھ تکل روزان چھو۔ بہ مرٹھن تم تہہہ مشد
پوتہہ کی تو دربر تریشو۔ بہ زاکوز نہ اللہ (تعالیٰ)
چھ متقین سوتی۔

بہ بیلہ کانہہ سورہ نازل پلان چھ تو متو منز بہہ

يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فزَادَتْهُمْ إِيمَانًا
وَهُمْ يَسْتَشِيرُونَ ﴿۳۶﴾

کمیته (مناقب) و نمان ز امر (سورن) تو به منتر
مگر سندن ایمان بر روو؟ لهذا (تقوید یاد ز امر) بکم
لواکه مؤمن چه تهنندک ایمان چه امر (سورن) بر لورک
هوتی دهنندس بز غمخس ایمان کس نتیجس منتر) تو تم
چهنه غمخس سوتی دهنن کنه -

وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ
فزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا
وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿۳۷﴾

بیه (تم لواکه) پهنیدن دن منتر بیارک چه ، امر (سورن)
چه تهننر (گودنچه) ناپاکی پیو به بیه من ناپاکی کها جبر
یوت تام ز تم من رنجس حالتس منتر ز تم آسن کافر -

أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ
مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ
يَذْكُرُونَ ﴿۳۸﴾

کیا تم چهنه و جهان ز تم من چه پر سده ورک بیه کو یاد بیه
لور آزمایش کرنه یوان، تو تو چه تم تو به کران تو
نه چه نصیحت رمان -

وَلَا ذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةً نَّظَرَ بَعْضُهُمْ
إِلَى بَعْضٍ ، هَلْ يَراكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ
انصَرَفُوا ، صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ
بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿۳۹﴾

بیه بیلید کا نه سور نازل سپلان چه تو تمو منتر
چه کمیته لواکه بین کن و چهن هوان - سیه زن زان
ز کا نه سخوس ما چهنو تو به و جهان؟ پتو چه
بکم (لواکه تسلا کز تهنه مجلسه منتر) گرشهان - الله (تعالی)
من چه تهنندک دل چهرک هوتی - بکیار تم چه تهنر
لواکه بیه فکر چهنه تران -


لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ
عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ
بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ﴿۴۰﴾

(اسے مومنوں!) تو به نش چه تهنندک تو کت اکھ انسان
رسول بینه امت - تهنند سخنی منتر بیه ین چه تس
ناکار گرشهان تو س چه تهنند با پتو برزر کا پنهان -
بیه چه (س) مؤمنین سوتی محبت کرن دول (تو) سپها
رحم کرن دول -

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا
إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ
الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿۴۱﴾

اگر برگاه تم چه تهنه گرشهن تو تو و کله ز الله (تعالی)
چه میه کیت سپها - تس و زانی چهنه کا نه معبود - تو
چس تسو پیو تو کل کران تو س چه عرش عظیمک
رب -

ع ۵



سورة یونس - یہ سورہ مجہد کی ہے۔ بسم اللہ پہلے پڑھو۔ آیت اکلہ ہفتہ تہ داہ آیت بیس چھس کاہ رکوع۔

(یہ چھس) اللہ (تعالیٰ) سُنَد ناو ہفتہ پران یُس
 سہو رُوس کرم کرن وول (تہ) پھیر پھیر کر رحم
 کرن وول چھ۔

یہ اللہ چھس ووجھن وول۔ یم (ینیمہ سورہ کر آیہ)
 چھہ کابل تہ حکمتہ بڑتر کتابہ ہندو آیہ۔

کیا لوگوں بش آسایہ حارانی ہنتر کتہہ؟ ز اسہ کرمتو
 اندر اکس شخصس پیٹہ یہ ووجی تابل نہ لوگہ کرکہ ہنید
 تہ یکو لوگو ایمان اونمت چھہ جنس و بشارت نہ تہنید
 باچھہ چھہ تہنیدس پروردگار ہندس دربارس منفرانتر
 پانچھہ تہ پڑشید پانچھہ تہ) اکلہ کابل درجہ۔ تہ کافرو
 وول نہ یہ (شخصس) چھہ شک تہ وانہ دوکھ باز۔

پڑو پانچھہ چھہ تہنید پروردگار اللہ (تعالیٰ)۔ یمکو
 آسمان تہ زمین شین وقتن منتر پاد کرک پتہ۔ بیوٹھ
 سہ عرشس پیٹھ تشریف تھاوتھ۔ سہ چھہ پرچھہ
 کتہہ ہند استقام کران۔ تہنید اجازتہ وراہی کابنہ تہ
 چھہ (تس بروٹھ کتہہ کانسبہ ہند) سفارش در

داسبتہ جہان (بولو) یہ اللہ (تعالیٰ) چھہ (پیٹھ)
 کتہہ ونہ آوتو صفات حقون وول تہ سہ چھہ تہنید
 پروردگار او کتہہ کرکرو توہو تہو ہنتر بے عبادت کیا
 توہو رُلونا (یکو کتھو باوجود) توہہ لفظت ہ

تسوکن چھہ توہہ سارہے پھیرچھہ عرشہن۔ اللہ
 (تعالیٰ) سُنَد چھہ (یہ) وعدیس یور سپد تھہ
 روزن وول چھہ۔ بے شک سہ چھہ مخلوق پانو
 کران پتہ چھس پھیر تھہ وول۔ یمتہ یکو لوگو ایمان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①

الرَّسُوْلُ تِلْكَ اٰیٰتِ الْكِتٰبِ الْحَكِیْمِ ①

اَکَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحٰیْنَا لِیْ
 رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ
 الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صَدِقٍ
 عِنْدَ رَبِّهِمْۗ قَالَ الْکٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا
 لَسِحْرٌ مُّبِیْنٌ ①

اِنَّ رَبَّکُمْ اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
 وَالْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی
 عَلَی الْعَرْشِ یَدْبُرُ الْاَمْرَۗ مَا مِنْ شَیْءٍ
 اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اِذْنِهٖۗ ذٰلِکُمْ اللّٰهُ رَبَّکُمْ
 فَاَعْبُدُوْهُۗ اَفَلَا تَذٰکُرُوْنَ ①

اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِیْعًاۗ وَعَدَّ اللّٰهُ
 حَقًّاۗ اِنَّهٗ یَبْدُؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیْدهُ
 لِیَجْزِیَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَاَعْمَلُوا
 الصّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِۗ وَالَّذِیْنَ کَفَرُوْا

لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ
بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿١٠﴾

اُون پر جو کر نیک (پر مناسب حال) کامر بہتمن دیہ
اچر مشر پور حصہ - تہ یو لوکو کفر اختیار کونہ بہند
چہہ خاطر آسہ کر کہہ فون آب ، بیہ آسہ آک کر لوٹھ
عذاب تکلیف ہم آسہ کفر کران (گڑھان) -

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَ
الْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا
عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، مَا خَلَقَ اللَّهُ
ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

سے چہہ بیجو آفتاب ذاتی گاش (بہتہ بنومت چہہ)
تہ زون نور (بہتہ) بناو مشر چہہ تہ اگر انداز مطابق
بچھن اکو منزل بناو کہ ہتی - سیتھ توہہ وورکین
ہنر گونہ تہ حساب معلوم سپر و - یہ (سلسلہ)
چہہ اللہ (تعالیٰ) ہن یزیر (تہ حکمتہ) سان
پاؤ کورمت - سہ چہہ ہم آہ علیہ والین لوکن ہستہ
خاطر تفہیلہ سان بیان کران -

إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا
خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ ﴿١٢﴾

راتھ تہ دوہ پتھہ بروٹھ بیس مشر تہہ پہ کینترھا
اللہ (تعالیٰ) ہن آسمان تہ زمیہ مشر پاؤ
کورمت چہہ (تتھ اندر) چہہ مستقی لوکن ہستہ
خاطر پزیر پاٹھہ واریاہ نشانہ -

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا
بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَأَطْمَأَنَّنُوا بِمَا
الَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غُفُلُونَ ﴿١٣﴾

ہم لوکھ اسر سستی طاقات کر پوج وہ مید تھاوان
چہہ تہ پتھہ دنیاوی زندگی پہنچے چہہ راضی سپر
ہتی تہ اٹھو پیٹھ چہہ تھو اطمینان لوہمت - تہ
بیہ ہم لوکھ سانو نشانو ہند کہہ فائل سپر وورک چہہ
بے شک چہہ ہم سارہ ہند ٹھکانہ بہتہ
کھایہ ہند باعہہ (دوزخن) نار -

أُولَٰئِكَ مَا دَأَبَهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ ﴿١٤﴾

یو لوکو ایمان اون بیہ کر کچھ نیک (تہ مناسب
حال) علیہ ہم دیہ بہند پروردگار بہند ایمانہ
کہ باعہہ (کامیابی ہنر و تہ کن) ہدایت تہ
آسایشہ والین جنتن مشر آسن تہنہ (ہندس
اختیار) تل نہر لکان -

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِأَيِّمَانِهِمْ ۗ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ
النَّعِيمِ ﴿١٥﴾

ہم (جنتن) مشر آسہ (تھایہ ہندس دربارس
مفر) بہنر گڈارش - اے اللہ (تعالیٰ) انہ
چھاکھ پاک - تہ اکھ اکر ہند حقہ) بہند دعا
آسہ یہ زسلامتی آسن (توہہ پیٹھ ہمیشہ خاطر)

دَعْوُهُمْ فِيهَا سُبْحٰنَكَ اللَّهُمَّ
تَجِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۗ وَأُخْرَدَعُوهُمْ
أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾

تہ ساروہے پیتر و فن رتم (بڑا ہبٹ) اللہ
(تعالیٰ) ہے چھ سارہے تفریق ہند تقدار
یوں سارہے عالم ہند پروردگار چھ۔

تہ ہرگاہ اللہ (تعالیٰ) لوکن پیٹھ (تہنہن
اعمال ہنر) ہدی (ہند نتیجہ) اتن ہند
وٹھہ وٹھہ مال ہنر ہنکو پیاٹھو، اول اول
پشراوہے تہ اتن ہند (زندگی ہند اندوانگ)
معیاد آسہے اتن پیٹھ (ڈچھ کر) پلور کرہ
آمت (مگر تکیار آسہ کور تہ پیند) اور
کوز چھکھ آسہ رتم لوکھ یکم ساتہ ملاقاتیج وہمید
چھنہ تھاوان، اتھ حالتس منز تراوان، نہ رتم
چھہ پستہ سرکشی منز اور پور پھیران۔

بہہ بیلیہ انسان تکلیف چھہ واتان تہ سہ چھہ لہ
رورہتہ تہ تہ بہوں تہ تہ وہتھون تہ آسہ اولو
کران پیتر بیلیہ آسہ تمہ ہنر (سختی) تس ہنر دور
کران چھہ تہ سہ چھہ (تھہ پیاٹھو اندر اندر) نیران
زندہ کنہ تکلیف (کر دور کرہ) خاطر یوں تس
ووتت اوس، اوسہ تمہ آسہ زانہ اولوہ کورمت
یتھہ پیاٹھو چھہ سارہے حد نہبر نیران والہن، یہ
کینرہا رتم کران کراوان چھہ (تہ) خوبصورت کرہ
اونہ آمت۔

آسہ چھہ بلاشک توہہ بروٹھ (تہ قومو پیتر) قوم
ہلاک کرے ہتہ۔ بیلیہ توہہ ظلم کورمت اوس تہ
اپمان اوسکھ تہ اوتمت (امر باوجود نہ) اتن ہنر
آسہ تہندر پیغیر نئی رتہ نہ ہتھہ آہتہ۔ آسہ
چھہ مجرم لوکن یتھہ پیاٹھو بلہ دولان۔

پیتر بتاوری و آسہ توہی زمینہ منز اتن پیتر (تہندر)
جانشین۔ یتھہ زن آسہ وچھو نہ توہی کرہہ عملہ
چھو کران۔

بہہ بیلیہ اتن سانی روشن آہہ پرتھہ بوزناونہ

وَلَوْ يَعْجَلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ
اشْتِغَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ
أَجَلُهُمْ، فَتَذَرُ الَّذِينَ لَا يَزُجُونَ
لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿۱۰﴾

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا
لِجَنَابِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا
كَشَفْنَا عَنْهُ غُضُّوهُ مَرَّكَانَ لَمْ
يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ، كَذَلِكَ ذَرِينَا
لِلْمُشْرِكِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۰﴾

وَلَقَدْ أَهَلَكْنَا الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ
لَمَّا ظَلَمُوا، وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ وَ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا،
كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿۱۰﴾

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلِيفَ فِي الْأَرْضِ مِن
بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿۱۰﴾

وَإِذْ أَنْشَلْنَا عَلَيْهِمُ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ

الذین لا یزجون لفاءنا اثبت بقضائ
غیر هذا اذ بدلہ اقل ما یكون لینی
ان ابدلہ من تلقائی نفسی ج ان
اتبع الا ما یوحی الی ج اری اَخاف
ان عصیت ربی عذاب یؤد عظیم ۱۰

یوان چھ تہ یم لکھ اسرستی ملتا قریح وہ مید
چھتہ تھاوان ، تم چھ زمان نہ (اسے محمد)
تہ ان امہ وراہی کاہنہ بیاکھ قرآن یا بدلوان یوان
تہ وان (تم نہ) یہ چھتہ میانی کام تہ بہ بدلوان
یہ پستہ طرفہ - بہ (تہ) چھس تمہ چی تاروی
کلان یہ کثیرشا، میہ پیٹھ وحی (سستی حکم نازل)
کرتہ یوان چھ تہ اگر بہ پینس پروردگار سنزنا فرانی
کرتہ تہ بہ چھس اکہ بڑ (خطرناک) دو بہ کس
عذابس کھوژان - (تہ میہ گوڑھنہ سہ پتہ رتن)
تہ وان (تم نہ) نہ ہرگاہ اللہ (تعالیٰ) سنز (بہ)
مشیت اسرہے (نہ امہ بدل بین بیاکھ کاہنہ تعلیم
دین) تہ بہ بوز ناو نہ سمہ توہہ بروئہ کتہ
پرتھ تہ نہ کرہے وسے توہہ امہ (تعلیم) ہنہ
خبردار - چنانچہ میہ چھ امہ بروئہ واریاہ کال
توہہ مفزگدومت سلہ کیا توہہ چھو نا تمہہ پتہ
تہ عقلہ کام ، ہوان ؟

قل لو شاء اللہ ما تلوئہ علیکم ولا
اذا رکم بہ فقد لیثت فیکم عمرا
من قبلہ ، اقلآ تعقلون ۱۱

ووزی (ووزی تو توہی نہ) میس اللہ (تعالیٰ) ہس
مانشہ لاگتھ تھو یا تندک نشان اپزاو ، تسد
کھوتہ جاو نظام کس اسرہ ؟ (الغرض) یہ چھتہ پتہ
کتہ نہ مجرم لکھ چھتہ کامیاب سپدان -

فمن اظلم ممین افترای علی اللہ کذبا
اذا کذب بایتہ ، ائہ لا یفلح
المجبرمون ۱۱

تہ یم لکھ) چھ اللہ (تعالیٰ) تہ او تہ تہہ چہ چہ
بندگی کلان میس نہ بہن توکسان واتاوان چھ تہ نہ
چھکھ نفع واتاوان - بہہ چھ وناں (نہ) یم
(سانی معبود) چھ اللہ (تعالیٰ) سہدس دربارک
مشرسانی سفارش در - تہ وان (تم نہ) کیا توہہ چھو
اللہ (تعالیٰ) ہس تہ ، تہ (یعنی سمہ کتہ) وناں
بیٹہ متعلق نہ چھ آسمان مشز (لبنہ نیک) تس

ویعبدون من دون اللہ ما لا یضرہم
ولا ینفعہم و یقولون ہوا لاء
شفعاؤنا عند اللہ ، قل اتنتبون
اللہ بما لا یعلم فی السموت و لا فی
الأرض ، سبحنہ و تعلی عما
یشرکون ۱۱

لہ سہ چھ توہہ مشرکہ عمرہ گذار مشز توہہ زانو میا در اخلاق ، میہ ہوا انسان بکیا ناس متعلق اپز و تہ ؟
تہ یعنی تہ نیک نہ فہم ناس پو سوکتہ سہ تہ کتہ پائس نیک ؟

علم تہ نہ (چھ) زمپنس منتر (تہم کہ موجود
 آسک کانہ پے پتاه) سہ چھ پاک تہ تہمندی
 شریک ٹھہراونہ رستہ چھ سہ سپٹھا تھوور۔
 بیہ (ساری) لوکھ اسی اکے جماعت (بیہقہ)
 پتہ کور تہم پتہ وانی اختلاف (پاڈ) تہ یوسہ کتہ
 چائس سہ ہند طرفہ بروٹھ (وہچہ شکلہ منتر) آہتر
 چھینہ۔ ہرگاہ سہ (ٹھہر) آسہ ہے نہ تہ یقہ
 کتہ) منتر تم اختلاف کران چھ تمہ کہ حقہ آسہ
 ہے بہن درمیان (ڈبھ کر) ٹا صلہ (مادر کر)
 آمت۔

بیہ چھ تم ونان نہ اہس (رٹولس) پیٹھ کیاہز
 آونہ تہمندی پروردگار ہند طرفہ کانہ نشان
 نازل کرنہ؟ تہ ون (تہن نہ) پرتہ کانہ غاب
 (چہ کتہ ہند علم) چھ اللہ (تعالیٰ) ہے حامل
 او کتہ پیارو توہی (تہ) چھس تہہ
 سوتی پیارن والہو اندہ۔

بیہ بیلیہ اسی لوکن کتہ سختی پتہ یوسہ تہن وائر
 منتر آسہ (ہنا پنسن) رحمتک منر وچھاوان
 چھکھ تہ پیٹھ چھ سانہن نشان متعلق تہندی
 طرفہ کانہ (نہ کانہ عدالتی) تدبیر سپن ہوان
 تہ ون (تہن نہ) اللہ (تعالیٰ) سند تدبیر چھ
 (اتھ مقابلہ) سپٹھا جلد (کارگر) سپان (تہ)
 توہی یک تدبیر (تہ) کران چھو سانی سوزنہ
 آوتی (ملاک) چھ تم لیکھان روزان۔

سے (خداوند کریم) چھ یس توہمہ (توفیق
 دتھ) خوشی تہ سمندر منتر سفر کرناوان چھو یوت
 تام نہ بیلیہ توہی ناول (تہ بادبانی جہازن) منتر
 (سوار) سپان چھو تہ تم چھ پاک تہ موافق ہوکر
 ذریعہ تم (لوکھ) ہوتہ تہ پکان آسان تہ تم چھ بہن
 پیٹھ فخر کران (تہ ہنگہ منگر) چھ تہن پیٹھ اکھ

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً
 فَاخْتَلَفُوا وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ
 رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ
 يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۰﴾

وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ
 رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا
 إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنتَظِرِينَ ﴿۱۱﴾

وَلَا إِذَا دَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ
 ضَرَاءٍ مَسَّهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي
 آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَشْرَعُ مَكْرًا إِنَّ
 رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴿۱۲﴾

هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
 حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ
 بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا
 رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ
 كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ
 دَعَاؤُا لِلَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ؕ لَئِن

أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَكُنَّا مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿۷۰﴾

تیز (تہ تند) واویلون تہ پرتھ اندھ چھ تہن پیٹھ
 (لہرن پیٹھ) لہر (ولہر) یوان تہ تم چھ تزان یوان
 نرہ تم آے وہ ڈی مہبتس مشر مہبت تہ پتھس
 موقعس پیٹھ چھ تم (پنڈ) اطاعت خدا یہ بندہ
 خاطر بخا یس کران تس آلودون (تہ ونان چھ نر
 اے اللہ!) ہرگاہ تریہ اسر نیہر مہبتہ نشہ نجات
 دستھ تہ اسی سید و ضرور چاہن شکر گزارن
 (ہندس درس) مشر (داخل)۔

فَلَمَّا أَنْجَلَهُمْ إِذْ أَهْمُ يَبْعُونَ فِي الْأَرْضِ
 بِغَيْرِ الْحَقِّ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَخَّيْكُمْ
 عَلَى أَنْفُسِكُمْ، مَتَاءَ الْحَيَوَةِ الدُّنْيَا
 ثُمَّ لَابَيْنَا مَرْجِعَكُمْ فَتُنِذِرْكُمْ بِمَا
 كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۷۱﴾

اد ییلہ سہ تمن (امر خدا یہ نشہ) نجات دوان
 (خوشکی پیٹھ واتناوان) چھ۔ تہ تم چھ تیتھ
 زمینہ مشر ناتی بغاوت کرہی، ہولن۔ اے لوگو! تمہند
 صرف دنیاوی زندگی یہ مشر ہسو پس یہ تہتہ بن
 نفس پیٹھ (وبال بختہ)۔ پتہ آسہ تہتہز والپی
 اسی کن۔ اد یہ کینتر حازن، توہر کران رُودر و تہ
 اُسو۔ اُسو کروو توہر تہر نش زانی یاب۔

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَوَةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ
 أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ
 نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ
 وَالْأَنْعَامُ، حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ
 زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ
 قَدِرُونَ عَلَيْهَا، أَتَاهَا أَمْرٌ نَا لِيْلًا أَدَّ
 نَهَا إِذْ أَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ
 بِالْأَمْسِ، كَذَلِكَ نَفْصَلُ الْآيَاتِ
 لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۷۲﴾

نیہر دنیاوی زندگی ہنر حالت (تہ) چھ یہ تہر
 آؤکو پاٹھو یس اسر اوہر مشر دول پتہ رپووتھ سہ
 زمینہ ہند وہ پزلو میہر اندر انسان تہ چار واری
 کھولن چھ۔ یوت تام ز ییلہ زمین (امر درس)
 جیلہ تہ شولہ رُج تہ پاراوتہ آے تہ اہکو
 مانکو زون تہ تم چھ (وہو) ایکس ففلس
 پیٹھ توڑ لبتہ تہ اتی آواتھ پیٹھ روتیلہ یادہ بلہ
 (غذیس متعلق) سون حکم تہ اسر نی سم لونی
 متہ کھہکو پاٹھو بناوتھ زنتہ اتہن یو اوس (لی)
 نہ (کینتہ)۔ الغرض ہم لوکھ سوچس کام، ہولن
 چھ تہند باپتھ چھ اسی تیتھ پاٹھو (پنڈ)
 آہ واش کڈتھ بیان کران۔

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ، وَيَهْدِي
 مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۷۳﴾

یہ چھ اللہ (تعالیٰ) سلامتی ہندس گھر سکن
 ناد دوان تہ یس پسند کران چھ، تس چھ اہکس
 سینر و تہ پیٹھ پکناوتھ (اصل منبر لس تام واتناوان)۔

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادًا وَلَا
يَرْهَقُهُمْ ذُلٌّ وَلَا ذُلٌّ لَّهُمْ أُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۵۰﴾

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ
سَيِّئَاتِهِمْ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذُلٌّ مَا
لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا
أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِنَ الْبَيْلِ
مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۵۱﴾

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ
لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَ
شُرَكَاءُكُمْ ۖ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَ قَالَ
شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ آيَاتِنَا تُعْبَدُونَ ﴿۵۲﴾

فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ
كُنَّا عَن عِبَادَتِكُمْ لِغَافِلِينَ ﴿۵۳﴾

هُنَالِكَ تَتْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ
وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقِّ وَ ضَلَّ
عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۵۴﴾

ہمن لوکن ہند خاطر پیمو نیکو کاری پر او اسہ
سار وہے کھوتہ رت انجام - بیہ (تمہ پتہ تر)
جاد جاد (الغام) - تہندین بھقین پیٹھ نہ پیہ
(ذپچ) گرد چھاونہ تہ نہ (آسن ہمن پیٹھ)
رسواپی (ہندو نشانہ) - یم لوکھ چھ جنتکی
بسکین (تہ) تھقہ مشر مرتھن تہم روزان۔

بیہ پیمو پدیرہ کرک مشر آسن ، تہندہ نح خاطر
اسہ پدیرہ ہند بلہ تھقہ (پدی) برابر تہ ہمن
پیٹھ اسہ رسواپی ہنر گرد کھشہ مشر تہ کائہہ تہ
اسہ تہ ہمن اللہ (تعالیٰ) ہس (یعنی تہندہ لہ)
نستہ بچاون وول (تہ) رو سے سیاہی آسکھ
تہشہ) زنتہ تہندین بھقین پیٹھ راتہ ہشتر
واریاہ انہ گھٹ چھلہ تراونہ آ مشر چھینہ - یم لاکھ
چھ ناپہ (کھرس مشر روزان) واول تھقہ مشر
مشرھن تہم واریا ہس کاس تام روزان۔

بیہ (اسے لوگو! سہ دودہ کرکون یاد) - بیہ دہ ہہ
اسہ تہم ساری سو تہرا وولکھ - پتہ پیمو شرک کھ
(مست اسہ) ہمن وولو اسہ (نہ دور روز) ہنہ
جایہ (اساد) توہی تہ تہ تہندہ (ہنہ بناوک ہمتی
خدائی ہندہ) حصہ وار (تہ) ، پتہ تراوو
اسہ ہمن مشر پایہ وائی (تہ) دوربر تہ تہندہ
(بناوک ہمتی خدائی ہندہ) شرک و تہ (ہمن
نہ) توہی اسہ و تہ (ہرگز) سائی ہندہ کران۔
لہذا توہی تہ اسہ درمیان چھ (پانہ) اللہ
(تعالیٰ) کافی گواہ۔ اسہ اسہ تہندہ ہندہ

نش سٹے بے خبر۔
(اد) پر چھ کائہہ شخص سوچتہ تہ تہمک مشر بہ
تمہ (پسنہ ہستہ) وودہست اسہ ، تہ تہم بین
تہندس پزہس نابک اللہ (تعالیٰ) ہس کن چھ تہ
انہہ - تہ یہ کیشہ تہم (پسنہ طرفہ) دائرہ ان

قُلْ مَنْ يَبْرُزُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
 أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ
 الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ
 الْحَيِّ وَمَنْ يُدْبِرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ
 اللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۷۰﴾

اُسے تہ (سورے) گزشتہ تمہیں مُسْتَحْتَم۔
 تہ و ن (تمہیں زبُونوں) آسمان تہ زمیں ہنر کس
 چھو توہم رزق و ن ؛ یا (پہ ز) کن تہ اچھ کھنڈیا
 اختیارس منز چھ ؛ تہ کس چھ (اکہ) موہ ر ہ
 (چینر) منز زہد (چینر) کڈان تہ زہد (چینر)
 منز چھ موہ ر ہ (چینر) کڈان ؛ تہ کس چھ (کین)
 سارہنے کاہن ہند تہ سیر کران ؛ اتھ پٹھ و ن تم
 ضرور زہ اللہ (تعالے چھ کران) لہذا و ن (تمہیں)
 توہی کیا زہ چھو تہ (تیلر) تقوی پر لوان ؛

فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ۚ فَمَاذَا بَعَدَ
 الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ۚ فَإِنِّي تُصْرَفُونَ ﴿۷۱﴾

سے چھ (تہند حقیقی پروردگار۔ تہ حق تہ اوتھ گمراہی
 سو اہ کیاہ چھ (سماہل سپتھ ہکان) ؛ لہذا
 (وڈ تو تہ سہی ز) کہتہ پٹھو چھو توہی (بین)
 بین) اندن کن (پھرو تہ یوان)۔

كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ عَلَى
 الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۷۲﴾

یختہ پٹھو یکو لاکو نافرمانی پراو ہنر چھہہ تمہیں پٹھ
 چھ پٹھس پروردگار ہند فرمان پورہ سہمت زہ تم چھہہ
 ایمان انان۔

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدُوا
 الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ قُلِ اللَّهُ يَبْدُوا
 الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ فَإِنِّي تَوَفَّاكُونَ ﴿۷۳﴾

تہ و ن (تمہیں) تہندو (تھہر اوتھ ہتہو) شرکیو منز
 چھا کانہہ (تہنتہ تہ) یس گوڈ نچہ لٹ پاد کران آسہ
 (تہ) پتہ آسہ تہ دو بار تہ (پاد) کران۔ تہ و ن
 (تمہیں) اللہ (تعالے ہے) چھ (یس) گوڈ نچہ
 لٹ تہ پاد کران (چھ تہ) پتہ چھ تہ دو بار تہ (پاد)
 کران۔ لہذا (وڈ زہ امر باوجود) کوکن چھو تہہ

پھرو تہ یوان ؟

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى
 الْحَقِّ ۚ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ ۚ أَفَمَنْ
 يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ
 لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدِيَ ۚ فَمَا لَكُمْ تَكْذِيفٌ
 تَخْتُمُونَ ﴿۷۴﴾

تہ و ن (تمہیں پتہ تہ) کیا تہندو (بتاؤ ہتہو) شرکیو
 منز چھا (تہنتہ تہ) کانہہ یس (لوکن) پڑس کن
 و تھ ہوان آسہ ؛ (تمہ کیا ہکن اتھ سوالس جواب
 دتھ) تہ و ن (تمہیں پانے زہ) اللہ (تعالے
 ہے) چھ (یس) لوکن حقس کن رہنمائی کران چھ لہذا
 سہ (خدا) یس پڑس کن و تھ ہوان چھ سہ چھا

پاروی ہند جاہِ حقدار ؛ کینہ سہ (بلی خلد) نہیں
 پارہ تہ چھنہ و تھ لینہ یوان امہ (صورتہ) ورائی
 نر تس پیہ و تھ باونہ ۔ اڈوئی تو توہ ہر کیا ہ
 چھو (گومت) ؛ توہی کھتو فاصلہ چھو کران ؛
 بیہ رتھو اندر چھو واریاہ یکم (پسنہ) وہمہ ورائی
 (بیہ کینہ چیز تہج) پاروی چھنہ کران (بیلہ زن)
 وہم چھنہ پڑس مقابل کینہ کٹام دولن ۔ یہ کینہ ترھا
 یکم (لکھ) کران چھہ ۔ (تہ) چھہ اللہ (تعالیٰ) بیشک
 نریر پاتھو زمانان ۔

وَمَا يَتَّبِعُهُ أَكْثَرُهُمْ أَلا ظَنَّا إِنَّ الظَّنَّ
 لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
 بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿۳۵﴾

تہ اللہ (تعالیٰ) ہس ورائی بیہ کانسہ ہندہ طرفہ
 یہ و تھران اپڑی پاتھو بناون چھنہ (ممکنہ)
 سہتہ ۔ بلکہ چھہ یہ تمیک (یعنی تمہ الہی کلک)
 تصدیق (کران) یس اہر بروٹھ (موجود) چھہ ۔ تہ
 (الہی) کتابہ (منز یہ کینہ ترھا موجود آس گترہ
 بہن کھن) ہنر (چھہ) تفصیل (بیلن کران تہ)
 اتھ اندر تہ چھنہ کاتھہ شک نہ یہ چھہ تمام عالمن
 ہندس پروردگار ہندہ طرفہ ۔

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ
 دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ
 يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ
 مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۳۶﴾

کیا تم چھا و نان نہ اسی (مخفصن) چھہ یہ (پنہ)
 طرفہ (دایرومت) ؛ تہ دن (تہن نہ) ہرگاہ توہر
 (اتھ و تنس منز) پڑ یارہ چھو تہ اتھ ہوا یعنی
 اہر کین سورن ہوں) اُنی تو صرف اکے سوہ
 (مقابلس منز) تہ اللہ (تعالیٰ) ہس ورائی یس
 (تہ توہر ناد و تھ) اُتھ ہیکلون سہ اُنیون (پنہ)
 امداد باچھہ) ناد و تھ ۔

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا
 بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَإِذْ عُواثِمٌ آسْتَطَعْتُمْ
 مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۷﴾

(ماہ پوز تہند یہ خیال چھنہ درت) بلکہ چھہ رتھو
 (حقیقتہ پاتھو لکھ) تہ تھ چیز اپڑوومت تہ تمیک
 تھو پورہ محلم تھ بیلے اوس نہ کورمت تہ سراس تہج
 حقیقت تہن پٹھ و نہ واشکاف سہس ہتر ، یکم
 لاکھ تہن بروٹھ اسی رتھو (تہ) اوس تھ پاتھو
 اپڑوومت ۔ پتہ و چھتہ نہ تہن نطالمن ہند انجام

بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا
 يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَّبَ الَّذِينَ
 الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
 الظَّالِمِينَ ﴿۳۸﴾

وَمِنْهُمْ مَّنْ يُّؤْمِنُ بِهِ وَ مِنْهُمْ
مَّنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ ؕ وَ رَبُّكَ أَعْلَمُ
بِالْمُفْسِدِينَ ﴿۱۰﴾

کیا سپدے یاو؟
تو یکو مشر چھ کینہہ تھو یکم اتھ پیٹھ ایمان ان
تو کینہہ چھ تھو یکم اتھ پیٹھ ایمان ان نہ - تو
پولن رب چھ فساد کرن والہن زبر یا مٹھ زانان۔

وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ إِنِّي
لَكُمْ عَمَلِكُمْ ؕ أَنْتُمْ بَرِيءُونَ مِمَّا
أَعْمَلُ وَإِنِّي لَأَبْرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۱۱﴾

بہ ہر گاہ تم تریہ اپزاو نے، تو ان (تہن نہ) میاںز
عمل آسہ (خود) میاںز با پتھ (مفید یا مضر) - تو
تہنہن عمل (آسہ) تہنہن با پتھ (مفید یا مضر) یہ
کینہہ شا بہ کران چھس تہ (چہ ذمہ واریہ) ہنہ
بھو تو ہی بڑی - تو یہ کینہہ شا تو ہی کران بھو تہ
(چہ ذمہ واریہ) ہنہ چھس بہ بڑی۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُونَ لَإِيَّكَ ؕ أَفَأَنْتَ
تَسْمِعُ السَّمْعَ وَ لَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴿۱۲﴾

بہ چھ یکو اندر (کینہہ تھو) یکم چھس (ونس
بر وقتہ) کن تھوان چھ۔ تو کیا تو بوزناو ہکھا
تھو زری (بہنہ کتھ) اگر تم عقلہ کام (ہو)

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنظُرُ لَإِيَّكَ ؕ أَفَأَنْتَ
تَهْدِي الْعُمْيَ وَ لَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ ﴿۱۳﴾

ہولن آس نہ؟
بہ چھ یکو اندر کینہہ تھو (تہ) یکم تریہ کن
(مڈے گنڈتھ) و چھان (روزن) چھ - (ا د ر)
کیا تو لوکھا انہن و تھ یو دے نہ تہن (بہنہنک)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَ لَكِنَّ
النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۱۴﴾

حکاش آسہ؟
اللہ (تعالے) سڈشان چھ تہنہنہ نہ (چھنہنہ
لوکھ پیٹھ یقینا کینہہی ظلم کران بلکہ چھ لوکھ
پستہن زون پیٹھ (پانے) ظلم کران۔

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا
إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ
بَيْنَهُمْ ؕ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا
بِلِقَاءِ اللَّهِ وَ مَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿۱۵﴾

بہ تہنہنہ وہہ سہ تہن ہتھس حاس مشر سونہراو
نہ (تم آس نہ بیان) نہ زنتہ تم آس نہ ڈہک
اکر تہ بہ واری (ڈزہس مشر) رڈو ہتہ۔ تم
کران (اہر دہہہ پانہ وائی) اکھ اکر سہن زان۔ (یاد
تھو تو نہ) یکو لوکو اللہ (تعالے) ہنڈس دربارس
مشر پیش سڈنک (وعدہ) اپزوو تو تم بنے
یہ نہ ہدایت قبول کران واکر تھو تھل نو تھانے۔

وَإِنَّمَا نُرِيكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ
أَوْ نَتَوَقَّئُكَ فَالْيُنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ

بہ تہنہنہک (یعنے تہنہنہ غلابہ کر سونک) اکر
تہن ستر و عدہ کران چھ ہر گاہ آس تہنک کانہہ

اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴿۱۰﴾

حصبہ (چاند موجدی منتر سوزتھ) دوسے
(تہ تہ تہ و چھکھ) ، تہ ہرگاہ اُس تہ (امر
بروشٹے) وفات دوسے تہ (تہ سیدی
مسنہ پتہ اریح حقیقتہ معلوم تہ) بہر حال
(اوکو زہ) تمن چھ اسہ کن چھیر تہ (تمن
تہ پتہ تہ اریح حقیقتہ) معلوم - تہ (یاد تھو
ز) یہ کینر شہا تم کران چھ - اللہ (تعالے) چھ
تہ زہر پانچ زمانان -

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ
قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا
يُظْلَمُونَ ﴿۱۱﴾

بہ پر تہ کتہ قومہ خاطر چھ اکھ (نہ اکھ) رسول
(رین لازمی آسان) ادریلہ بہنہ رسول یوان چھ
تہ تمن درمین چھ انصافہ سان فاصلہ کرتہ یوان
تہ تمن پیٹ چھنہ کانہہ ظلم کرتہ یوان -

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدِ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ﴿۱۲﴾

بہ چھ ہم زمان (زہ) اگر توہر پتہ زہ یاد کر چھو تہ
پہ وعہ کر سہ (پور) ؟
تہ ون (تمن زہ) بہ (تہ) چھس نہ اللہ (تعالے)
سندہ مشیتہ ور آری (پانہ) پسنہ حقہ (تہ) کتہ
نوقصانس پیٹہ تہ نہ کتہ فائیس پیٹہ اختیار
تھوان - (آ) امانہ بلوز یہ چھ صحیح زہ) پر تہ
کتہ قومہ (کہ عذابس لایق سہنہ) خاطر چھ اکھ
معیاد کتہ آسان - نیلہ سہ یوان چھ تہ (تمہ)
وقتہ) نہ چھ سہ (قوم) کانہہ تہ (تمہ تہ)
پتہ روزتھ (بچتھ) ہیکان تہ نہ چھ برو شتھ
چیتھ (سہ) امر تہ خلاصی تہ (ہیکان) -

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا
مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ
أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْذِنُونَ سَاعَةً وَلَا
يَسْتَفْتُونَ ﴿۱۳﴾

تہ ون (تمن زہ) وڈی تو (تہ شہی زہ) ہرگاہ سندہ
عذاب رات کیت یا دہلہ (توہر پانہ) وچھان
وچھان (توہر پیٹہ یہ تہ مجرم لوکھ کتہ کتہ
ہیکان تمہ تہ تہ ؟

قُلْ إِنْ يَتَمَنَّوْنَ أَن اتَّكُم عَذَابُهُ بَيِّنَاتًا
أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ
الْمُجْرِمُونَ ﴿۱۴﴾

پتہ نیلہ سہ یہ (توہر اڈی وا) (تمہ وقتہ) تہ
پیٹہ ایمان ؟ (تیکت ہیکہ نہ کانہہ فائیس
آرتھ - تمہ وز پیو توہہ و تہ زہ) وڈی (چھو)

أَتَمَّرُوا مَا وَقَعُوا مِنْكُمْ بِهِ وَاللَّنْ
قَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿۱۵﴾

ا ! (توہی ایمان انان) ؛ حالانکہ توہی رود کرد
 (تمہ کس پیش نام) تمہ کہ جلدہ بیک مطالبہ کران۔
 پیتہ، یو لوکو ظلم کورمت آسہ بہمن پیہ ونہ (نہ)
 ووز (نہ) ہو توہی قایم روزن دول عذاب۔ توہہ
 چھوا پسہ عملہ وراڈی بیہ کتہ چیزک جزا دہ یوان؛

ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا
 عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ لِآيْمَانِكُمْ
 كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿۳۷﴾

بیہ چھی بتم تریہ پیر شھان (نہ) بیہ (عذاب) سپدی
 (پزی پٹھو) واقع ؛ شر وک (بمن نہ) او او!
 میہ چھو پستنس پروردگار ہنہ ڈوسے (نہ) سہ
 چھ بے شک واقع سپدن وول تہ توہی بیکون
 نہ (خلا یہ کرنہ بشتہ) عاجز کرنہ۔

وَيَسْتَنْثِيُونَكَ أَحَقُّ هُوَ أَمْ لِي
 ذُرِّيٌّ إِنَّهُ لَحَقٌّ بِذَمِّكُمْ
 بِمُعْجِزَاتِنَا ﴿۳۸﴾

بیہ ہرگاہ پر تہہ بتقس شخصس بیہ ظالم بتسبوت
 آسہ، تہ سورے کیہنہ میلہ بیہ زمینہ اندر
 موجود چھ، سہ کرہ بیہ نہ تہ دتہ تہ پین نفس
 بیلیہ تراوانوس منز کوتاہی۔ تہ بیلیہ تم عذاب
 وچین تہ تم تھاوان (پنہ) مند چھ کھتہ، تہ
 بمن منز بیہ الفسق سلن فاصلہ کرنہ تہ بمن پیہ
 بیہ نہ (کئی تہ) ظلم کرنہ۔

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ
 لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا
 رَأَوُا الْعَذَابَ ۚ وَذُفِّيٰ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ
 وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۳۹﴾

بوزو! یہ کئی تہا آسمانس تہ زمینہ منز (موجود)
 چھ، تہ چھ یقینا (سر) سلم اللہ (تعالیٰ)
 سوسے تہ اللہ (تعالیٰ) سہ وعدہ چھ بیشک
 پور سپدن وول۔ مگر تمو منز چھنہ واریاہ (لکھ)
 زانان۔

الْآلَانَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْآرِضِ
 الْآلَانَ وَعَدَا لِلّٰهِ حَقٌّ وَلٰكِنْ أَكْثَرُهُمْ
 لَا يَعْلَمُونَ ﴿۴۰﴾

سہ چھ زندہ تہ کران تہ مارن تہ، تہ تسو کن بیو
 توہی چھہ تہ نہ۔

هُوَ يَخْفٰى وَيَعْمِىْتُ وَاٰتِيَهُ تُرْجَعُونَ ﴿۴۱﴾

اے لوگو! توہہ نش چھ تہندس ربہ ہنہ طرفہ
 بیشک اکھ (ترشہ کتاب آمہر یوسہ سر سلم)
 نصیحت (چھنہ) تہ سو چھنہ شفا (دہ و اجز بمن)
 سارنہ (داد بن) یم سپن منز آسان چھہ تہ ایمان

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ ثَمَكُم
 مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَ شِفَاۗءٌ لِّمَا
 فِي الصُّدُوْرِهِ وَ هُدًى وَ رَحْمَةٌ
 لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۴۲﴾

لہ یعنی کر تہ ممکن بیہ تہ بیکہ ہے مگر تہ بیکہ نہ سپدی تہ۔

ان والین کرش چھینے ہدایت تہ رحمت۔
 تہ ون رہمن نر اللہ (تعالے) ہند فقلہ تہ
 رحمتہ سوتی چھ (پہ سورے کہینہ)۔ لہذا اٹھو پیٹھ
 پز رہمن شادیانہ مناون - یہ (مال) تم سونبروان
 چھ تہ رہنتہ چھ یہ (نعت کتہ کور) جاد بہتر۔
 تہ ون رہمن نر) کیا تو بہ چھوا پڑھ کہتہ (تہ کتہ
 وز سوجتہ) وچھپڑ۔ نر اللہ (تعالے) ہن چھ
 تہندہ باپتہ (آسمانہ پیٹھ) برزق نازل کورمت۔
 پتہ چھو تو بہ تہ اندر (کہینہ) حرام تہ (کہینہ)
 حلال قرار دیتت - تہ ون رہمن نر) کیا تو بہ
 چھوا اللہ (تعالے) ہن (امر کہتہ ہند) اجازت
 دیتت مت۔ کہتہ تو ہی چھو اللہ (تعالے) ہس (صرف)
 ہنرہہ لاکتہ تھاوان؟

بہ یم لؤک اللہ (تعالے) ہس ایز لاکتہ تھاوان
 چھ، تہندہ کیا خیال چھ قیامتہ کس دوہس
 متعلق؟ بیشک چھ اللہ (تعالے) لؤکن (سپتھ)
 سہ بڑی) الغام بخن وول مگر تہو اندر چھ ولایہ
 (لؤک) یم شکر چھنو کران۔

بہ آستہ تہ (زانہ) کتہ کامہ منز (آور آسان۔
 بہ آستہ تہ بیبر (کتاہ) اندر کانہہ حصہ قرآنک
 پران تہ بہ اسی تو توہی (ساری لؤک) کانہہ
 (بیاک) کام (سہ) کران۔ مگر بیلہ توہی (یکو
 سار وہے صوٹرو اندر پسنہ کامہ منز لوہر)
 رغبتہ سان آورک آسان چھو۔ اسی چھو تو بہ وچھان
 آسان، تہ زمینہ یا آسمانہ اندر چھنو کانہہ (کس)
 درس سنب چپز (تہ) چائس پروردگارس ہن
 کھتہ آسان - تہ نہ چھ کانہہ (ذہ کھوتہ) لؤک
 یا بوڈ چپز یس (پر تہ کتہ حقیقتس پیٹھ) کاشس
 تراون واجتہ اگس کتابہ منز (چھکاوتہ تہ موٹو)
 آسہ نہ۔

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ
 فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿۱۰﴾

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ
 رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا
 قُلْ اللَّهُ أَدْنَىٰ لَكُمْ أَمَّ عَلَى اللَّهِ
 تَفْتَرُونَ ﴿۱۰﴾

وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ
 الْكُذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو
 فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ
 لَا يَشْكُرُونَ ﴿۱۰﴾

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتَلَوْنَاهُ
 مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا
 كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ
 وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ شَيْءٍ
 فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ
 مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ
 مُبِينٍ ﴿۱۷﴾

بُوْزُوْا بِیْمِ اللّٰهِ (لوگھ اللہ (تعالے) ہس سستی بُوْزُوْا بِیْمِ
تھاوان وَاوِ چھہ بتمن پیٹھ نہ چھہ کاہنہ خوف
(غالب) آسان تہ نہ چھہ تم عمرہ آسان -
(یعنی تم لوگھ) کیو ایمان افن تہ تقویٰ رُوْدُوْا ہر
مہیشہ) رُزْہراوان -

بتمن ہند خاطر چھہ (چھہ) دنیاوی زندگی منتر
(تہ خلیہ ہند طرف) خوشخبر (بناک مقام مقرر)
تہ آخرتہ چھہ (زندگی) منتر تہ۔ اللہ (تعالے) ہند
فرمان منتر چھہ (ہرگز تہ) کاہنہ پھیر گہیر (سیدتہ
ہیکان) - بیسہ چھہ (سو کامیابی یوسہ) عظیم الشان
کامیابی (چھہ) -

بیسہ ستر تریہ تہنتر (کاہنہ منافع) کتھہ عکین کری
(کمیاز) غلبہ چھہ کاہم پاٹھو اللہ (تعالے) ہس
حاصل (تہ) سہ چھہ زبر پاٹھو بوزن دول (تہ)
جان پاٹھو زان دول -

بُوْزُوْا! (مخلوقا تہ اندر) یس (اکھ فرد تہ) آسان
اند (لبہ یوان) تہ زمیں منتر (موجود) چھہ -
(سہ پرچہ اکھ) چھہ اللہ (تعالے) سندس - تہ
بیم لوگھ اللہ (تعالے) ہس وراہی (بین چین)
آلو دول چھہ تم چھہ (دراہل خدایہ ہندین)
شرکین ہنتر پاروی کران (بلکہ چھہ حق یہ نہ) تم
چھہ صرف (پستہ) و سہیح پاروی کران بیسہ
چھہ تم بے بنیاد اندازن کام ہوان -

سے چھہ (الشریک ہستی) بیسہ تہندہ باچھہ راتھ
او کوز (بلج) بتاوتہ چھہ نہ توہی لٹواتھ منتر
آرام تہ (اتھ مقابل چھہ) وہہ (کام کار باچھہ)
مکاشدار (نومنت) بیم لوگھ (بیز کتھ) یوزان
(تہ تمہ رشتہ فایدر تان) چھہ - تہندہ خاطر چھہ
یقیناً اتھ نظامس منتر کھو یا نشا نہ -

تمو (کافرو) چھہ (نیوت تام) و نومنت (نہ)

اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَا
لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۳۶﴾

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاكٰنُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿۳۷﴾

لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَا
فِى الْاٰخِرَةِ ؕ لَا يَبْدِىْ لَكَ لِكَلِمٰتٍ
اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفُوْرُ الْعَظِيْمُ ﴿۳۸﴾

وَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ اِنَّ الْحِزَّةَ
بِاللّٰهِ جَمِيْعًا ؕ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿۳۹﴾

اَلَا اِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَا مَنْ فِى
الْاَرْضِ ؕ وَا مَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ
دُوْنِ اللّٰهِ شُرَكَاءَ ؕ اِنَّ يَتَّبِعُوْنَ اِلَّا
الظَّنَّ وَاِنَّ هُمْ اِلَّا يَحْزَنُوْنَ ﴿۴۰﴾

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمْ اٰيٰتٍ لِتَشْكُرُوْا
فِيْهِ ؕ وَالتَّهٰرُ مُبْصَرًا ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ
لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُوْنَ ﴿۴۱﴾

قَالُوْا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَاكِدًا سُبْحٰنَهُ ؕ هُوَ

الْغَيْبِ، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَنِ بِهَذَا، أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۱﴾

اللہ (تعالیٰ) ہن (تہ) چھ (پسنہ) خاطر اولاد پانتا وکرتو (نیلیہ زن) امر کچھ نشہ چھن (اکر) سہ (پاک گنتر اولان - سہ چھ سہٹھا (سہ) بے نیاز، یہ کینٹھا آسمان اندر (لبہ) یوان چھ) تہ پہ کینٹھا زمپنس منز (موخوڈ) چھ، چھ (سورے) تندرے۔ امیک (یعنی اسہ) عواکٹ (چھنہ) توہہ نش کاٹھہ تہ ثبوت۔ (اڈ) کیا توہی چھوا اللہ (تعالیٰ) ہس کن سہ (کلام) منسوب کران بیٹھ متعلق توہہ کاٹھہ تہ علم چھوہہ؟

تہ ون (تمن نہ) ہم (لوکھ) اللہ (تعالیٰ) ہس ایز لاگتھ تھوان چھ ہم چھنہ ہرگز کامیاب پھان۔

قُلْ إِنَّ الْكٰذِبَ لَا يَفْلِحُونَ ﴿۱۲﴾

وَذِي مِثْلٍ مِّنْهُمْ، يَتَّبِعُهُمُ كَافِرِينَ، وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ فَحَدِيدٌ لَهُ، يَكْفُرُ كِرَان (گرشمان) اسی باؤو تمن سخت عذاب (یعنی تمیک منز)

مَتَّامٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿۱۲﴾

بہ بوز ناوکھ تہ ہم نوح مند حال (تہ) تکیار تہ (تہ) وناو پسنس قومس نہ، اسے مایہ توہہ! ہرگاہ توہہ میون (خداہ مند دہیت) رتہ تہ اللہ (تعالیٰ) بندلو بشانو ڈکی میون توہہ (تہند) فرض (یاد پاؤن ناگور (گرشمان) چھو تیلہ تھادو یاد نہ صرف چھس بہ اللہ (تعالیٰ) بندس ذاتس پیٹھ جھوہہ تھوان۔ توہی سونبر اولوگھ پنز بناؤر متو شریک تہ پنن معاملہ (یعنی تھہ متعلق ساری پو ختگی ہندک سامانہ تہ) تمہ علاؤ بزرگ توہہ نہ تہند معاملہ گرتھ نہ توہہ پیٹھ (گنہ رنگ) شک آور روزن۔ پتہ کرو سہ میہ پیٹھ نافذ تہ میہ بہ دیو (کینٹی) مولت۔

وَأَنذَلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يٰقَوْمِ إِنِّي أَخَذْتُ بَيْتِي بِمَا كُنْتُمْ تُكْفِرُونَ ﴿۱۳﴾

پتہ تہ ہرگاہ توہی چھو تھہ منز چھنہ میون کاٹھہ نوقصان (بلکہ تہندے چھ) تکیار مسیہ

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ، إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۳﴾

اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝

مومگون نہ قومہ (تھہ بدل) کاشہہ اجر۔ میون
اجر پھینہ اللہ (تعالیٰ) ہس وراہی بیہ کاشی نش
تہ میہ چھہ حکم جزہ آمت زبہ بیہ (تسدلو) کارل
فرمانبردارو اندر۔

فَكَذَّبُوهُ فَانْتَبِهْ وَرَمَىٰ مَعَهُ فِي
الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلِيفَةً وَأَعْرَفْنَا
الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاظْهَرْ كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَذَرِّينَ ۝

اتھ پیٹھ تہ ایزو سہ رتو، ادر بچو اسر سہ بیہ تم
(تہ) ہم ناو منز قس سبتو (سوار) اُس۔ تہ تم بتاؤ
اسر بروتمو من لوکن ہندو وارث، تہ یو لوکو ساڈی
نشانہ ایزاؤر (تہ اُس) تم پھانساؤر اسر (اُس)، ادر
کون موبھو (نہ) ہم لوکہ (تمہ غلابہ نشہ) بانجر کرنہ
آمتو اُس۔ تہ تہند انجام کیٹھ سید؟

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ
فَجَاءُواهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا
لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ ۚ
كَذٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوْبِ الْمُعْتَدِيْنَ ۝

ادر سوزی اسر تس پتہ بیہ (تہ کبڑیا) رسول تہندس
قوس کن تہ تم آہہ (تمن نش کاشری نشانہ پتہ
تہ تمو لوکو اولن نہ ایمان اسر سبہ نہ یہ (پزرا)
اوس رتو (اسر بروٹھ) ایزوومت۔ اُس چھہ حسد
فسیر نیرن والین ہندین دہن پیٹھ پتھ کنو موہر کران۔
پتہ سوز اسر تمن پتہ موی تہ ارون پتہ نشانہ پتہ
فرعوس تہ تہند قومہ کن برین لوکن کن۔ ادر رتو
پرور کبھر تہ تم اُس (برونٹھ پیٹھ) اکھ مجرم
قوم۔

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ وَهَارُونَ
إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا
وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ۝

ادر بیلیہ سانہ طرفہ تمن نش پزرا او تہ تمو دوان نہ
بہ چھہ ضرور (تعلقات) تہ تہند تہمن وول اکھ فریب۔

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا
إِنَّ هٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝

موسیٰ من دوان (تمن اتھ پیٹھ نہ) کیا توہر پھوا
حقس نسبت (پتہ پاتھو) دان؟ (بیہ سہ تمہ
وز) بیلیہ سہ قومہ نش آمت چھہ۔ کیا یہ پھافریب
(یا یکسا فریب اُتھ)۔ بیلیہ زن فریب دہر (اڈا کامیاب
چھو سپان۔

قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا
جَاءَكُمْ ۚ أَسِحْرٌ هٰذَا وَلَا يُفْلِحُ
السَّاجِدُونَ ۝

تمو ووتس کیٹھ پھکا اسر نش (اڈو کن) آمت نہ پتہ
کتھ پیٹھ اسر پتہ جدا جدا لہو تہ چھو تہ لوکھ اسر
تمہ نشہ؟ تہ قومہ دونو سپدو ملکس منز بحسہ
تھیل! عمر اُس الز نہ قومہ (دونوئی) پیٹھ ہرگز

قَالُوا اجئتنا بآياتنا عما وُعدنا
عليه اباؤنا وكنون لكما الكبرياء
في الارض وما نحن لكما بمؤمنين ۝

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سِحْرِ
عَلَيْهِ ۝۱۰

اپیان -
تہ فرعون وون (پسین لوکن نر) توہر اٹھن مینہ
بش (ساری ملک) پر چتہ اکھ کابل زاز کار سحر گرہ

فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى
اَلْقُوا مَا اَنْتُمْ مُلْقُونَ ۝۱۱

اڈیلے سحر گر آہ تہ موسیٰ ہن وون تمن (نر) یہ
کینشھا توہہ تراون چھو، تہ تراوو۔

فَلَمَّا اَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهٖ
السِّحْرُ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ اِنَّ اللّٰهَ
لَا يُضِلُّعَمَلًا الْمُفْسِدِيْنَ ۝۱۲

اتھ پیٹھ بیٹھہ ہتھو (یہ کینشھا تمن تراون اوس) تراوو
تہ موسیٰ ہن وون (نر) یہ کینشھا توہہ لوکو پیش
کورمت چھو (تہ) چھہ پور پور قریب (تہ) اللہ
(تعالے) کرنتھ ضرور نالو۔ اللہ (تعالے) چھتہ
فساد ہن ہند کار زانہ وٹ کسہ دول۔

وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ
الْمُجْرِمُونَ ۝۱۳

بیہ چھہ اللہ (تعالے) پسینو گھاتو ڈو پزرقایم
کران۔ اڈو مجرم (لوگ) کرکرتن (یہ کتھ) ناپندہ۔

فَمَا اٰمَنَ لِمُوسَى اِلا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ
قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ
وَمَلَآئِمِهِۦمُ اَنْ يَّفْتِنَهُمْ ۗ وَاِنَّ فِرْعَوْنَ
لَعَالٍ فِى الْاَرْضِ ۗ وَاِنَّهٗ لَمِنَ
الْمُشْرِكِيْنَ ۝۱۴

پتہ تہ اون تہند قومہ کو کینشہوے نوجوانس پیٹھ
اپیان۔ ہاتے لوکو کرکرتہ موسیٰ ہنز فرمانبردارکی -
فرعون تہ پسینہ قومہ کین بڑہن لوکن ہند پیہ ستر
نر (پینہ) سہ لاگہ تمن کتہ مقبیس۔ تہ فرعون اوس
بے شک ہز بری کران دول بیہ اوس حد نمبر نیرن
والہو منتر۔

وَقَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اِن كُنْتُمْ
بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا اِنْ كُنْتُمْ
مُسْلِمِيْنَ ۝۱۵

بیہ وون موسیٰ ہن (پسین قوس نر) اسے میانہ
قومہ (کو لوگو) ہرگاہ یہ کتھ (درست) چھینہ نہ توہہ
چھو اللہ (تعالے) ہس پیٹھ اپیان اونمت تہ ہرگاہ
توہر (اتھ سوتہ تہند) یزکی فرمانبردار (تہ) چھو
تہ تسر پیٹھ کرہ توکل۔

فَقَالُوا عَلَي اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا
فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝۱۶

اتھ پیٹھ وون ہتھو (نر) اسر چھہ اللہ (تعالے) ہس
پیٹھ توکل کران۔ اسے سانہ پروردگار! اسر مہ
بناو بین ظالم لوکن ہند خاطر (باعث) فتنہ۔
بیہ بجاو اسر پسینہ رحمتہ سوتہ کافر لوکن (ہند
ظلمہ) ہتھ۔

وَجِئْنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ۝۱۷

بیہ سوز اسر موسیٰ تہ تہندس ہاپس کن وحی نر توہر
کرہ مہرس منز کینہہ جایہ پسینہ قومہ کر (روزنہ)

وَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوسَى وَاٰخِيهِ اَنْ تَبَوَّآ
لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بَيْتُوْنَا وَاَجْعَلُوَا

بِیُؤْتِكُمْ قَبْلَهُ ۚ وَاقْبِمُوا الصَّلَاةَ ۚ
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۰﴾

خاطر مغفوس۔ تہ تو ہی ساری بتا دو پیٹھی (پتی) مگر
اکہ اُس کُن بختہ کرتے تہ (من من من) اُسو برتی
پاٹھو نماز ادا کران۔ میرے (کرکھ) پہ موی تہ نہ اسے
موسیٰ! تہ در مؤمن (کامیابی ہنزا بشارت)۔

وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ
وَمَلَآئِكَ زِينَةً ۖ وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۖ رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيلِكَ ۚ
رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ ۖ وَاشْدُدْ عَلَىٰ
قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَصْرُوْا
الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿۳۱﴾

میرے دون موسیٰ ہن، اسے سائے پروردگار! تہ یہ
چھتہ فرعونس تہ تہند توہ کین برین لوکن (نیو)
دنیاوی زندگی ہنزا زینت (یعنے تمکی سامان) تہ مال
دقتہ تھاوہ موی۔ مگر اسے سائے پروردگار! تہ یہ
چھ پہ نیران نہ تم چھ چانہ و تہ نش (لوکن)
ڈالان۔ لہذا اسے سائے پروردگار! تہ ہند مال کز
تہ برباد تہ تہندین دن پیٹھ تہ کر تہ سزائزل
تہیک تہ یہ نیران گرشہ نہ نیت تام نہ تم کرلوٹ
عذاب و حین تم عرشن نہ ایمان اتہ۔

قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمْ
فَاسْتَقِيمُوا وَلَا تَتَّبِعْنَ سَبِيلَ
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۲﴾

(اتھ پیٹھ) فرمودنکم (اللہ تعالیٰ ہن) تہند دعا
او قبول کرے، لہذا توہی دہلوے ماوو استقامت
تہ ہم لوکھ علم چھن تھاوان۔ تہنر و تہ ہنر
پاروی کرے زلو نہ ہرگز۔

وَجَاوَرْنَا بِسَبْعِي إِسْرَاءَ يَلَّ الْبَحْرَ
فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا
وَعَدَا ۖ حَتَّىٰ إِذَا ذَرَكُهُ الْغَرَقُ ۖ قَالَ
أَمْنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتَ
بِهِ بَنُو إِسْرَاءَ يَلَّ ۖ أَنَا مِنَ
الْمُسْلِمِينَ ﴿۳۳﴾

میرے سارے اسر بنی اسرائیل سمدرس (پور) تہ فرعون
تہ تہند فوج لاریو نافرمانی تہ تلمہ (چہر و تہ) کہتی
جمن پتے۔ یوستانی نہ سہ (تہند فوج آس) پھنہ
چہر بلا پہ روٹ۔ تہ تمہو (یعنے فرعون) دن نہ
تہ چھس ایمان انان نہ نیس (اقتدار واجبہ
ہستی) پیٹھ بنی اسرائیل ایمان اؤمنت چھ تس
سوا چھنہ کانہہ تہ معبود تہ ہر چھس (پتہ)
فرمانبر داری کرن والہو منہر (بنان)۔

أَلَنْ ۚ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلَ ۚ وَكُنْتَ مِنَ
الْمُفْسِدِينَ ﴿۳۴﴾

(اسر ووس) کیا؟ (تہ چھکا) ووز! (ایمان انان)
نیلیر زن تہ گور نافرمانی کرتے تہ تہ اوسکھ فادو
اندہ۔

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لَتُنَكُونَ لِمَنْ
خَلَقْتَ آيَةً ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ

لہذا از چھی تہ مہی چانس بدس (پتہ کُن تھوہ
اکہ اڑنوک) نجات دوان یقہ زن تہ تہند خاطر

عَنْ آيَتِنَا لَخَفَلُونَ ﴿۱۰﴾

بیم تریہ پتہ پتہ پتہ والہ چھہ اکہ نشان بلکہ تہ لوکو
اندر چھہ واریاہ انسان سانو نشانہ پتہ پتہ
بے خبر۔

وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ
صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۖ فَمَا
اِخْتَلَفُوا أَحْتَىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ
رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۰﴾

بیم اس ابنہ بنی اسرائیل پتہ پتہ پتہ
(پر پتہ پتہ) پتہ پتہ واجو جاس ڈر پتہ پتہ
رنگہ) خوش بوڈی چیز (تہ) اسو تہن وڈی پتہ
پتہ پتہ و قس تام نہ تہن پتہ پتہ او مصحح علم
تہو کوڈ پتہ (کنہ کتہ پتہ) اختلاف۔ اس کتہ پتہ
حقہ پتہ پتہ تہم اختلاف کران چھہ، بے شک
چون پروردگار کر قیامتہ کر دوہہ پتہ پتہ

فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ
فَسْئَلِ الَّذِينَ يُقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ
قَبْلِكَ ۖ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ
فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿۱۱﴾

(اسے قرآن پرن والہ!) اڈ پتہ پتہ پتہ
(کلام) کہ پتہ پتہ پتہ اس تریہ کن تارل کوڈت
چھہ کنہ شکس منز (پتہ پتہ) چھہ پتہ
تہ کر تہن لوکن پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ
تہ پتہ کتاب پتہ پتہ (تہ تریہ پتہ پتہ معلومہ)
پتہ پتہ (اکہ) شامل صداقت پتہ پتہ پروردگار
پتہ طرفہ تریہ کن آ پتہ۔ لہذا پتہ پتہ پتہ
کرن والہو اندر۔

وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ
اللَّهِ فَتَكُونُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۱۱﴾

بیم پتہ پتہ پتہ (لوکو) اندر پتہ پتہ۔ یو اللہ
(تعالیٰ) پتہ پتہ نشان اپڑاوکر پتہ پتہ۔ پتہ
پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ
پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ
پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ
پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ
پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ

إِنَّ الَّذِينَ حَقَّقْتَ عَلَيْهِمْ كَلِمَاتٍ
رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۲﴾

تہ پتہ پتہ پتہ قرآن کریم کہ صداقت اکہ پتہ پتہ۔ کینہہ کاپے چھہ گوڈت نہ پتہ پتہ
چھہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ
تہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ
پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ
قرآن مجید پرن والہن پتہ پتہ لوکن پتہ پتہ پتہ پتہ۔

وَلَوْ جَاءَ ثَمُهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا
الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۝

بہ ہرگاہ تمہیں نشانہ نہ آئے
تیلہ نہ آئے نہ تم تہہ وقتس تام ایمان یوت
تام نہ تم کرلوٹو عذاب وحقین۔

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ أَمَنَتْ فَتَنَعَهَا
إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا
كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخَذْيِ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَنَسَّوهُمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۝

بہ کیا رہنے یہ نہ یونس بند قومہ ورائی (بیکہ
ترشہ) کاٹھہ بستی یوسہ (سر سٹلم) اپمان اہیہ
تہ تمیک ایمان اتہ دیہ ہے تس نفع ہ ییلہ
تمو (یعنی یونس بند قومہ کہو لوگو) ایمان اون
تہ اسہ کور جہن (نش) بیتہ دنیاوی زندگی منتر
(تہ) رسوائی بند عذاب دور تہ جہن کور اہس
وقتس تام (پرچہ رنگلک) سامان عطا۔

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ
كُلَّهُمْ جَمِيعًا إِفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ
حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۝

بہ ہرگاہ اللہ (تعالیٰ) ہدایتہ کس معاملس مترا
پنتی مرضی جاری کرہے۔ تہ (سیتر) لوکہ زمین
پیٹھ موجود جہ تم اتہ ہن سر سٹلم ایمان (لہذا نیلہ
خداے تہ مجبور چھتہ کران) تہ کیا تہ کہا لوکہ (تہتر)
مجبور نہ تم بن مؤمن؟

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُوَمِّنَ إِلَّا بِإِذْنِ
اللَّهِ، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا
يَعْقِلُونَ ۝

بہ چھتہ اللہ (تعالیٰ) بندہ دہہ اذہ ورائی کاٹھہ
شخص اختیار نہ اہ اپمان۔ تہ سہ (اللہ) چھ
پن غصب جہن لوکن پیٹھ (تازل) کران یم عقل
آستہ تہ کام چھتہ ہولان۔

فَلِإِن نَّظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَ
الْأَرْضِ، وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ
عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

تہ ون (تہن تہ) وچھو (تہ) آسمان تہ زمینہ
منز کیا (تغییر) چھ (سپدان) تہ کتہ قسکو
نشانہ (تہ) اہ انکو آسوتن یا ہتیار کرن واجہہ
خبر آسوتن، (تہ) چھتہ جہن لوکن قاید واتناوان
بیم ایمان نہ انس پیٹھ واڈ کرٹھہ آس۔

فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ آيَاتِ الَّذِينَ
خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، قُلْ فَإِنَّتَظِرُوا إِلَىٰ
مَعَكُمْ مِنَ الْمُنتَظِرِينَ ۝

اہ کیا تم جہا تمہیں بروٹھ گذریمین لوکن ہندین دہن
ہولو دہہ ورائی بہ کتہ چیزس پیارن؟ تہ ون
جہن (نہ) اہ کیاہ! (اگر سے نمونہ وحقین چھو
تہ) تیلہ پیارو توہو (تام) بہ تہ جھس بے شک
تہ ہر سوتو پیار وحقین منتر۔

ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ

تہ (تیلہ سہ عذاب پیر تہ) آسو بجاووکہ (تہ وقتہ)

حَقًّا عَلَيْنَا نُنَاجِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۰﴾

پنجر رسول تہ یحیو لکونکو تمہن پیٹھ ایمان اونمت آسہ
 رحم ساری ہتھ - یقینے پاتمہر چھہ سانہ ذمہ (پانہ
 پین تقایم کورمت) اکھ حق تر آسہ چھکھ نمون ضرور
 بجاوالن -

تر ون تر اے لوگو! ہرگاہ توہر میانس دپنس
 متعلق کنہ قسم کس شکس منز بھوہ تر (بوزونہ)
 اللہ (تعالے) ہس ورآئی مین (معبودن) ہنتر توہر
 عبادت کران چھو بہر چھس تر تمہن ہنتر عبادت
 کران - بلکہ بہر چھس اللہ (تعالے) ہنتر عبادت
 کران یس توہر وفات دی و، تر مینہ چھہ حکم

دتر آمت تر بہر بہر ایمان انن والہو اندر - میت
 بیہ (چھہ مینہ فرمان واتناونک تر حکم دتر آ)
 تر (اے بوزن والہو!) پرہتھ کنہ ہجر ہنتر پاک
 رورہتھ کر تر پین توتہر ہمیشہ خاطر دینہر باہتھ
 (وقف) تر تر مہر بن مشرکو اندر -

تر اللہ (تعالے) ہس ورآئی مہ دتر (کنہ چیزن)
 آلو، یس تر نہ چھہ (کانہہ) نفع واتناوان
 تر نہ چھہ کانہہ نفعسان واتناوان، تر ہرگاہ تر نہ
 (ہتھ) کورہتھ تر تھ صورتس منز یکھ تر یقینت
 ظلمن منز گنراوتہر -

بیہ ہرگاہ اللہ (تعالے) تر نہ کانہہ تکلیف واتناوی تر
 تس ورآئی چھہ کانہہ سہ دور کرن وول (ہنتر ہیکان)
 تر ہرگاہ سہ چانہر باہتھ کانہہ رتر ہنترہ تر تسند
 فعیل ہتھ رن وول (تر) چھہ (ہرگز) کانہہ
 (ہنتر ہیکان) - پسنہو بندو منز یس سہ پسند
 کران چھہ تس چھہ (پن فعیل) واتناوان تر
 سہ چھہ سٹھبے بخش ہار (تر) چھہر چھہر رحم
 کرن وول -

تر ون (تمہن تر) اے لوگو! توہر ہنتر چھہ ہنتر
 پروردگار ہنتر طرفہر حق آمت - او کون (وہنتر)

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ
 مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ
 مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ
 الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ ۖ وَآمَنْتُ أَنْ
 أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۱﴾

وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا
 وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۲﴾

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ
 وَلَا يَضُرُّكَ ۖ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا
 مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۳﴾


وَرَأَى اللَّهُ كَانَهُ سُدَّ دُورِ كَرْنِ وُول (ہنتر ہیکان)
 تر ہرگاہ سہ چانہر باہتھ کانہہ رتر ہنترہ تر تسند
 فعیل ہتھ رن وول (تر) چھہ (ہرگز) کانہہ
 (ہنتر ہیکان) - پسنہو بندو منز یس سہ پسند
 کران چھہ تس چھہ (پن فعیل) واتناوان تر
 سہ چھہ سٹھبے بخش ہار (تر) چھہر چھہر رحم
 کرن وول -

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ
 مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا

يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿١١﴾

یَسْ كَانْتَهَا (تسند بیان فرمودت) ہدایت
 پراو تہ سہ چھ پستہ زبو (کہ فایدہ) خاطرے
 ہدایت پراوان تہ یس تمہ وتہ بنش ڈلہ تہ تسند
 ڈلن (تہ) اسہ تہندس زوہے پیٹھ (اکھ وبل)
 تہ ہر چھس نہ تہند کا نہہ ذمہ وار۔
 بیہ یہ کینترھا تہ ی کن وحی کرنہ یوان چھ تہ
 کر تہج پاری تہ صبرس بیہ کلام، یونام نہ
 اللہ (تعالیٰ) فاصلہ دیہ۔ تہ سہ چھ سارہے
 فاصلہ کرن والہو کھوتہ جہا رت فاصلہ کرن وول۔

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ لَكَ وَأَصْبِرْ حَتَّىٰ يَخْرُجَ إِلَيْكَ اللَّهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْخَاكِمِينَ ﴿١٢﴾



سورة ہود - یہ سورہ چھ نکئی تہ بسم اللہ ہتھ چہ اتھ اکھ تہ تہ رووہ ایہ بیہ چھس واہ رکوع۔

يَسْمُو اللَّهُ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ ﴿١٣﴾

یَس (ہر چھس) اللہ (تعالیٰ) مند ناو ہتھ (پران) یس
 حد رؤس کرم کرن وول (تہ) پھیرک پھیرک رحم
 کرن وول چھ۔
 ہر اللہ چھس موحین وول (یہ) کتاب چھیر تہ
 نہ اہو آیہ چھ حکم کرنہ آہوتہ تہ بیہ چھیر ہم واش
 کدھ بیان کرنہ آہوتہ (تہ پ) چھ حکیم تہ خیر
 (خداہ) ہند طرفہ۔
 (بیہ) چھ اتھ تعلیمہ پیٹھ مشتبہل نہ توہر مہ کرو
 اللہ (تعالیٰ) ہس وائی (گائسی) ہنز عبادت۔
 بلا شک ہر چھس خداہ ہند طرفہ تہند خاطر اکھ
 ہشید کرن وول تہ اہم خبر دیو وول (بنادھ سوزنہ
 آمت)۔
 بیہ یہ نہ توہر منگو پستس پرور دگارس بخشش
 تہ تسو کن کرو (نوز) ربوع - سہ کرک و توہہ
 (او) اہس مقرر معیادس تام رتہ پاتھو ساناہ
 عطا تہ امر علاو کر پرہتھ اہس فضیتہ و اہس

الذات ركبت احكمت ايتة ثم
 فصلت من لدن حكيم خبير ﴿١٤﴾

اَلَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ ۚ اِنِّي لَكُمْ مِنْهُ
 نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴿١٥﴾

ذَا اِنْ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوْا
 اِلَيْهِ يُغْفِرْ لَكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا ۗ اِلَّا
 اَجَلَ مُّسَمًّى ۗ ذٰلِ الَّذِي فُضِّلَ

(شخص) پنن فعل عطا۔ اور ہرگاہ توہر پھیرو
تہ ہر پھیرے بے شک توہر پیٹھ اکہ پڑ (خطرناک)
دیکر عذابہ (کہہ بہتہ) نشہ کھوڑان۔

اللہ (تعالے) ہس کن چھو توہر (سارہنے)
واپس پھیرتھ گرتھن تہ سہ چھ پدہتھ چیزس
پیٹھ کابل رنگس منز قدرت تھون وول۔

بوزو! یقیناً چھہ تم پستہ سہرا او
کو پھیران روزان ترس نش روزہ ہن
شہا یہ۔ بوزو! یہیہ وقتہ تم پستہ پلو ورتھ
تراوان چھہ (تہ تمہ وقتہ تہ) یہ کینترھا تم کلہتہ
تھاوان چھہ تہ یہ کینترھا تم تون کلان چھہ، سہ
چھہ تہ زانہ (آسان)۔ سہ چھہ بے شک سہین
ہنتر کتھہ (تہ) زہر پاتھر زانان۔

یعنی چھہ زمینس منز ترہہ کانہہ زو ذات سہر سہ
رزق اللہ (تعالے) ہس سہر آسہ نہ۔ سہ چھہ
تسہر عارضی روزن جاے تہ تسہر ہمیشہ روزن
جاے تہ زانان۔ (یہ) سورہے (کینتر) چھہ اُکس
وضاحت کرن واجہہ کتاب منز (موجود)۔

یہ سہ چھہ سہو آسمان تہ زمین شہین وقتن منز
پاؤ کرر متو چھہ۔ یہ چھہ تسہر عرشہ آسہ پیٹھ۔
سہتہ زن سہ تہہند امتحان کرہ (زہ) توہر منز
کو ہنتر عملہ چھہ جاؤ رتہ تہ یہ چھہ پترہ دار
کتھ نہ ہرگاہ تہ (تہن) ونکہ (زہ) توہر بیو مرنو
پتہ ضرور سہنہ تہ پلو لوکو انکار کورٹ چھہ، تم
دین (قسم کرر کرر نہ) یہ دعوی چھہ صرف اکھ

فَضَلَهُ، وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ
عَلَيْكُمْ عَذَابَ يُؤْرِكِبِيهِ ۝

إِلَى اللّٰهِ مَزْجِكُمْ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ ۝

أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا
مِنْهُ، أَلَا حِينٌ يَسْتَعْشُونَ ثِيَابَهُمْ،
يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ، وَمَا يُغْلِبُونَ، إِنَّهُ
عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَىٰ
اللّٰهِ رُزْقَهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقْرَّهَا وَ
مُسْتَوْدَعَهَا، كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ۝

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَآءِ
لِيَبْلُوَكُمْ اَيْتُكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا، وَلَئِنْ
قُلْتُمْ اِنَّكُمْ مَّبْعُوْتُونَ مِنْۢ بَعْدِ الْمَوْتِ
لَيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ هٰذَا اِلَّا
سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝

سہ یعنی اللہ تعالے ہس نش۔

سہ عرشس مراد چھہ حکومت یا حکومت کررکے اصول۔ قرآن کریم چھہ آسہ وحی مراد توان یعنی اللہ
تعالے ہنتر حکومت چھہ وحی ہنتر ذلیہ دنیا ہس منز قائم۔ اللہ تعالے چھہرہ مادی وجود تھاوان نہ
تسہر تحت آسہ کانہہ بادشاہ ہنتر پاتھر۔

فریب۔

بیہ (بجھ) پہ تہ پترہ دار کتہ (نہ) ہر گاہ اُسی بیہ
عذاب اُکس گنڈتہ مُدلس تام (تم) نش پتہ پتہ
تھا وون۔ تہ تم وون ضرور (نہ) کوس کتہ پتہ اتہ
رکا وون۔ بوزو! یتیمہ وقتہ سہ (عذاب) (تم) پیٹہ
پیہ، سہ پیہ نہ (تم) نش دور کرنہ، تہ پیہ
عذایس پیٹہ تم محول کران اُسی سہ پیہ (تم) وون۔
بیہ اگر اُسی انسانس پسنہ طرفہ (کتہ) قسبح (رحمت
(یعنی تمیک منہ) شوہنا وون۔ (تہ) پتہ، ہو اُسی
سہ تمس اتہ تہ سہ پتہ سبٹہ ہے نا وومید (تہ)
احسانک منکر سپان۔

بیہ ہر گاہ اُسی کتہ مصیبتہ پتہ یس تس وومت اُسی
(کانہہ بڑ) نعمت (یعنی تمیک منہ) سہ شوہنا وون
سہ پتہ وون، ہوان نہ میاڈی (مادی) تکلیف بجہ
میز نش (وون) دور گاہتہ۔ بے شک پتہ سہ
سبٹہ ہے ترعو کہ مان وول (تہ) فخر کرن وول۔
تہو لوکو ورا ئی یک ہر کرن تہ نیک عملہ بجا ان
تہ (صابر لوک) پتہ پن ہند خاطرہ بخشایش تہ
(سبٹا) بوڈ اجر (مقدر) پتہ۔

لہذا (شاید پتہ کافر تہ نش یہ توقع کرن نہ)
تہ سپکھ تمہ (کلاہ) منہ یہ تہ پتہ موحی کرنہ
ہوان پتہ کینہ حصہ (لوکن وانا وون بدل) ترا وتہ
ترہین نس پیٹہ تیار (مگر تہ ہیکہ نہ نہ شیہ سپتہ)
تہ (تم) بجھ پتہ توقع تھا وون نہ (تم) ہند امہ
اعتراضہ کتہ گرہہ چون دل تنگ نہ اُسی پیٹہ کونہ
ووتہ کانہہ خزانا یا اُسی پیٹہ کونہ آو کانہہ ملک
تہ پتہ صرف (ہشیر تہ) خبردار کرن وول تہ اللہ
(تعالیٰ) پتہ پتہ کتہ ہند کار ساز۔

کیا تم چھا وونان (نہ) اُسی پتہ یہ کتاب پسنہ طرفہ
بنا و پتہ؟ تہ وون (تم) ہر گاہ توہی (اتہ) وونش
اندر پتہ یارک پتہ توہی تہ اُلو ہی دہ

وَلَيْنَ أَخْرَجْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ
مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۗ أَلَّا يَوْمَ
يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوعًا عَنْهُمْ وَحَاقَ
بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿١٠﴾

وَلَيْنَ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ
نَزَعْنَا مِنْهُ ۗ إِنَّهُ لَكَيْسٌ كَفُورٌ ﴿١٠﴾

وَلَيْنَ أَذَقْنَاهُ نِعْمًا بَعْدَ ضِرَاءٍ مَّسَّئِهِ
لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي ۗ إِنَّهُ
لَفَرِحٌ فَخُورٌ ﴿١٠﴾

إِنَّمَا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۖ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١١﴾

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَ
ضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا
أَنْزَلْ عَلَيْهِ كُنزًا أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ۗ
إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
دَكِيلٌ ﴿١٢﴾

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۗ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ
سُورٍ مِّثْلِهِ مَفْتَرِيَّتٍ ۚ وَإِذْعُوا مِن
اسْتَنْطَعْتُمْ تَيْنَ دُونِ اللَّهِ ۗ إِنْ كُنْتُمْ

صِدْقَيْنِ ﴿۱۷﴾

سُوپر پینہ طرف بٹاؤتھ۔ تہ اللہ (تعالیٰ) ہس
ورائی تیکر سُنڈ (تہ پینہ امداد خاطر اَتک)
توہ طاقت آسہ و، سہ اُنیون ناد دتھ۔

لہذا ہر گاہ تم تہنہز دیے، کتھ قبول کرن نہ۔ تیلہ
زُاؤرازیہ (کلام) توہ پیلہ نازل کرنہ اُمت
چھ (تہ) چھ اللہ (تعالیٰ) ہندس خاص طمس
جاسے دتھ۔ بیہ یہ زرتس ورائی چھنہ کانہہ تہ
عبادتس لایق۔ لہذا کیا توہی بڑ وا کابل فرمانبردار
(کتہ نہ) ؟

فَالَيْمَ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا
أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ
أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۱۷﴾

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَتْهَا
نُوفِ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا
لَا يُنْخَسُونَ ﴿۱۷﴾

یکم (لوگہ بیہ) دنیاوی زندگی (ہندس سامانہ) تہ
امیکٹ پُراو (پنن) مقصود بناون۔ تھن دِ مو
اُسہ تہندس اعمال (شمرہ پتھ) بیچو (زندگی) منہز
پوڑ پوڑ۔ تہ تھن پیہ نہ اتھ اندر دکیہ تہ (کم ہنہ
پیکے چھ تھم (لوگہ) یکن ہند خاطر اُنترس منہز (دوڑنہ
نہ) نار ورائی (بیہ) کیتھ آسہ نہ۔ تہ یہ کینہشا
تھو بیچو (دنیاوی زندگی) خاطر کورمت آسہ
سہ گرتھ تہ سورسے بیکار تہ یہ کینہشا تھم کران
روزان آسن، تہ سید تباہ۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا
النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطُلَّ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۷﴾

لہذا کیا سہ (شخص) ایس پینس پروردگار ہند طرفہ
اُنکس گمانہ سُکر دلیہ پیلہ (تاکیم) چھ۔ بیہ پینس
پتہ تہ تہند طرفہ اک گواہ بیہ ایس تہند فرمانبردار
آسہ (تہ) تہ تہس بروٹھ تہ چھ موسیٰ ہنہ کتاب (دوڑنہ
پوسہ تہند تہا پید کران اُس تہ) یوسہ (تہند کلام
بروٹھ) لوکن ہند خاطر امام تہ رحمت اُس (ہنکیا
اُنکس ایز دعویٰ کرن وایس وایو آستھ) تھم (موسیٰ

أَقَمْنَ كَانَ عَلَىٰ بَيْتِهِ مِن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ
شَاهِدًا مِّنْهُ وَمَنْ قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسَىٰ
إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ
وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ
مَوْعِدًا ۚ فَلَا تُلْكَ فِي مَذْيَبَةٍ مِّنْهُ ۚ
إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۷﴾

لہ تہ آیہ مطابق چھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہندس تہ تہ کس دعویٰ ہس پیلہ تہ تہ گواہ دا، تہم دلائل
تہ معجزات یکم ہتھ تہم پانہ آسے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہنہ کتاب توہ ایس منہز رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلمن متعلق واریاہ پیشگوئیہ، یہ کیو پتہ بیہ امت محمدیہ منہز تہند پو پو کار و منہز اکہ تہ تہ مانور
تیکر ہندس الہامات تہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہند دعویٰ ہک تصدیق کرن۔

ہندری بڑی پاروکار) ان مس پیٹھ (اکر وہ بہ ضرور) ایمان تہ یجو مخالف مجازو اندر میس کا ترھا انکار کران روز، جہنم چھہ تند و عدو دینو آمت بھکانہ۔ لہذا (اسے مخاطب!) تر میرا ز اتھ متعلق کیے (تہم کس) شکس منز۔ یہ چھہ بے شک سق۔ (تہ) چائس پروردگار ہند طرفہ چھہ۔
ووزی گوو واراہ لوکھ چھہ ایمان انان۔

بہ کس چھہ (یا بیکر آمتھ) تند کھوتہ جاد فلہ لم میس اللہ (تعالے) ہس ایز لاگتھ تھاو۔ پتھ لوکھ پن پنسن پروردگارس بروٹھ کتہ پیش کرنہ تہ ساری گواہ دین (نہ) ہم چھہ تم لوکھ یجو پنسن پروردگارس ایز لاگتھ تھوو۔ بوڑو! ہمین ظلمن پیٹھ چھہ اللہ (تعالے) ہنز لعنت۔

(ہم چھہ تم لوکھ) ہم اللہ (تعالے) ہنز و تر نشہ (لوکن) پتھ رٹان چھہ۔ بہ چھہ تھہ منز تجسر پاو کرن یہ شھان تہ کے لاگھ چھہ پتہ پتہ واجتہ ڈگر) ہندی (سار و ہے کھوتہ بڑی) منکر۔

ہم (لوکھ) ہمین نہ نکس منز (الہی سلسلن) کمزور کتھ۔ تہ نے چھہ اللہ (تعالے) ہس وراکوی تہند کا منہ دوست آسان۔ ہمین چھہ دو گیون عذاب دینو یوان (دو ذیہیں اندر تہ تہ آخرتس اندر تہ)۔ نہ چھہ تم (کیبٹھ) بوڑتھ ہیکان تہ نہ چھہ (کیبٹھ) وچھتھ ہیکان۔

کے لوکھ چھہ یجو پنپو زو کھٹس منز تراوکی تہ تیہ (مطلب) خاطر ہم (اللہ تعالے) ہس ایز لاگتھ تھوان آسو سہ روز ہمین نش (اتھ تلسہ) گڑھتھ (راوان)۔

یہ چھہ پترھ دار (کتھ) نہ آخرتس منز آسن تھے

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُجْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْقَاءُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلٰی رَبِّهِمْ ۗ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ۝۱۱

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۝۱۰

أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُجْرِبِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ آلِهَةٍ ۖ لِيُظَعَفَ لَهُمُ الْعَذَابُ ۚ مَا كَانُوا يَشْتَطِعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ۝۱۱

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝۱۲

لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ

الْأَخْسَرُونَ ﴿۲۷﴾

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۷﴾

(ساروہے کھوتے) جاؤ خواہ ستمن والے۔

یہو لوگو ایمان اون بیہ کر تمونیک (تہ مناسبت
حال) علمہ تہ پینس پرور وگارس کن تے یہ۔
تم چہ لآزمں جنتی۔ تم گرتہن تہ جنتس منز
روزان۔

مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصْحَىٰ
الْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا
أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۲۸﴾

بین دونوں فریقین ہنرمالت چھہ ایکس اُرس تہ
گاشدار سبزر، تہ زُرس تہ رتی پاتھو بوزن والے
سبزر ہش۔ بین (دون) ہنرمالت ہکیا ہش
اُستہ؟ کیا تہ تہ، چھو تا تہ ہکر تران؟

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِذِ ابْنُ كَعْبٍ
يَسْتَفْتِيهِمْ فَيَقُولُ لَا تَحْبُوا وَلَا يَذْكُرُ الْوَيْدَانَ
الَّذِينَ نُسَبُّ إِلَيْكُمْ أُولَٰئِكَ يَفْتَرُونَ ﴿۲۹﴾

بیہ سوزلو اسہ نوح تسندس قوس کن (پنہیبرست و تہ)
یتہ پیٹہ تمون وناو) نر وار بوزو! یہ، چھس
توہ کن واش کد تہ خبروار (تہ ہشیر) کرن وول
(بناوتہ سوزنہ آمت)۔

أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ
عَذَابَ يَوْمِ الْمِيقَاتِ ﴿۳۰﴾

(یہ پیغام ہتہ) نر توہو میر گرو اللہ (تعالے) اس
ورای (کانہ ہستی) ہنرم عبادت۔ یقیناً ہر چھس
توہ پیٹہ اگر بڑ تکلیف (دہو) والہ ڈہکر عذاب
(کرینہ) ہش کھوژان۔

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ
مَا تَزَكَّىٰ أَمْ لَا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَ مَا تَزَكَّىٰ
أَتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا لَنَا بِأَدْيِ
الرَّأْيِ وَ مَا تَزَكَّىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنَ فَضْلِ
بَلْ نَتَّبِعُكُمْ كَذِبِينَ ﴿۳۱﴾

اتہ پیٹہ وڈن (تس) تمو بڑو لوگو کیو تہند قومہ
منز (تسند) انکار کورمت اوس (نر) اُس جھتہ
نر بڑ پاس ہوس انسان وراے (کینہ تہ) زمانان
تہ نہ چہ اُس دیہ وچھان نر تمو لوگو وراے۔ کم
سر سڑی وچھنہ پاتھو اسہ منز ساروہے کھوتہ
اُسو پایہ (بوزن لیان) چھو، کہ آسہ کانہ چاڈی
پاروی اختیار کر مہتر۔ تہ اُس چھنہ پینہ کھوتہ
جاؤ تہ منز (گنہ تسبیح) کانہ فضیلت

قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ
مِّن رَّبِّي وَ أَتَيْتُمُونِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ
فَعَمَيْتُمْ عَلَيْكُمْ ؕ أَنْزَلْنَا مَكْمُوهًا وَ
أَنْتُمْ لَهَا كَرِهُونَ ﴿۳۲﴾

وچھان، بلکہ اسہ چھہ یہ بہتہ نر بڑ چھہ اپزور۔
تمو وڈن، اے میاتہ قوم (تہ سٹا) وڈو (تہ
سہی نر) ہر گاہ (ثابت سید نر) ہر چھس (پنہ
دعوئی، بچ بنیاد) پینس پرور وگارس سبہ طرفہ
(عطا سیدے مہرس) گنہ تھس زتاش پیٹہ

(تھوں) تو تم جو چھ پسنہ دربار میں پینے آکھ
سہا بڑ رحمت عطا کر مہتر تو سمجھینے توہہ نش
پوشیدے رُوڑ مہتر (تو تہندہ حال کیا آسہ؟) کیا
اُسی ماننا دو وایہ (پر پزلون نشہ) توہہ
زبردستی؟ او ہر گاہ سہ توہہ ناپسند ہے کران
اُسیوں؟

بیہ اے میانہ قوم! بہ چھس نہ امر باچہ توہہ
کانہہ مال منکان، میون اجر چھنہ اللہ (تعالیٰ)
ہس وراہی (بیہ) کانہہ نش۔ تو بہ دہہ نہ تم
لوکن ہرگز کہہ کیو (میں پوٹ) اپکان او کمت
چہ۔ ہم (تو) چھ پسنس پروردگار سسکھن
وای۔ مگر تم ذلیل زانہ چھ میں ہوتھہ دو ان
نہ توہہ چھو جاہل لاکھ۔

بیہ اے میانہ قوم! اگر بہ تمہن کہہ دہہ تو
اللہ (تعالیٰ) ہندہ طرفہ (میںہ والہ سزا بہ ہنہ
بچاوتہ خاطر) کس کر میون مدد؟ کیا توہہ چھو
نا (توہہ) فکر ترن؟

بیہ چھسو نہ بہ توہہ (بہ) وان (نہ) میں نش چھہ
اللہ (تعالیٰ) ہندہ خزائہ نہ نہ (چھسو بہ) یہ
وانان، نہ بہ چھس علم غاب زانان نہ نہ چھس
بہ بہ وانان نہ بہ چھس ملک، نہ نہ چھس بہ
تمہن (لوکن) متعلق بین متہنہز اچھہ حقارتہ چہ
نظر وچھان چھہ، (بیہ) وانان (نہ) اللہ (تعالیٰ)
کر نہ تمہن نہ ہنہ کانہہ خار عطا۔ یہ کینہہا
تہندہ بن دن مشز چھہ تو چھہ اللہ (تعالیٰ) ہے
ساروہے کھوتہ، بہتر زانان۔ (اگر بہ ہنہ
کتھہ کہہ تو) بہ سپہ بیشک تیلہ نظر بن اندہ
شابل۔

تمو وون (نہ)، اے نوح! تریہ کورتھہ اسر سرتو
بحث بلکہ نہر بحث کورتھہ۔ وہ فی روزیشہ

وَيَقُولُوا لَا آسَأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَاءِ إِنْ
أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدٍ
الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلْفِقُوا رَبَّهُمْ
وَلِكَيْتِي آرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ⑤

وَيَقُولُوا مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ
طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ⑥

وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ
لَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ
وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ
لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، اللَّهُ أَعْلَمُ
بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَمَنْ
الظَّالِمِينَ ⑦

قَالُوا لَيْسَ لَكَ فَتْرَةٌ فَتَمْنَا فَكَثُرَتْ
جَدَانَا فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتُمْ مِنَ

الصّٰدِقِيْنَ ﴿۳۷﴾

کتھ نہ ہرگاہ تہ پڑ یار لو اندر چکھ تہ نیمسہ
(عذاب) ہنہ تہ اسہ کھوٹا ناوان چکھ سہ ان

اسہ پیٹھ -
تو وونمہ ہرگاہ اللہ (تعالے) ہے ہنہ تہ
انہ تھہ ، تہ توہی ہیکھون ہ (سہ تہ کہ اسہ
ہنہ) ہرگز عا جز کر تھہ -

بہ ہرگاہ ہر پینہ کنز توہہ کیت رت تہ ہنہ تہ
تہ میون (توہہ متعلق) رت تہ پھن و اتناو و تہ
توہہ (اللہ تعالے ہنہ عذاب ہنہ بکھنہ عا کارانہہ)
قاید ہرگاہ اللہ (تعالے) ہے (ہنہ تہ ہان آسہ تہ
توہہ کر و ہاک ، او سہ پھہ تہ ہنہ پروردگار تہ
تسکھن ہنہ توہی واپس پھہ تہ ہنہ -

کیا تم چھا و نان (نہ) اُمی پھہ یہ (عذابک و عسہ)
پانہ پانے دایرومت ؟ تہ و ن امن اگر میہ یہ
پانے دایرومت آسہ تہ یہ خطرناک جرم پیسیہ
(ضرور) میہ پیٹھ (وبال ہنہ) تہ (تہ ہنہ
جرم ہنہ و بال آسہ تہ میہ پیٹھ تکیا ز) ہم
خطرناک جرم توہی کران چھو تھن چھس ہر ہنہ
تہ توہس کن اُس (پیتہ) وحی کر تہ آہنہ - نہ
ہیو لوکو ، اچان اونمت چھہ تہ ورائی انہ تہ
چاہہ توہہ اندر (وہی) کانہہ (ہیاکھ شخص تہ
پیٹھ ایمان - او کہو یہ کینہ شہا) ہم کران چھہ تہ
کہو مہر تہ افسوس -

بہ بناو تہ سائین اچھن (ہروٹھ کینہ) تہ سانہ
وحی مطابق اکھ ناو - تہ ہیو لوکو ظلم (کرناک
و طہر اختیار) کورمت چھہ تھن متعلق مہر مہ
سوتی (کانہہ) کتھ - ہم ہنہ ضرور (تہ ضرور
آسہ) چھا ٹا و نہ -

تہ سہ (نوح) اوس سانہ کھہ مطابق ناو بناوان تہ
ہنہ تہ تہ تہ قوم ہنہ کانہہ ہنہ لکن ہنہ جماعت

قَالَ اِنَّمَا يَاْتِيَكُمْ بِوَاللّٰهِ اِنْ شَاءَ دَمَا
اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿۳۷﴾

وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيْ اِنْ اَرَدْتُ اَنْ
اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ
يُّغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ فَذٰلِكُمْ
تَرْجُوْنَ ﴿۳۸﴾

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰهُ ؕ قُلْ اِنْ
افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيْ اِجْرَامِيْ وَاَنَا بَرِيْءٌ
مِّمَّا تُجْرِمُوْنَ ﴿۳۹﴾

وَاَوْحِيَ اِلَى نُوْحٍ اَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ
قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ فَلَا تَنْتَقِسْ
بِمَا كَا نُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿۴۰﴾

وَاَصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَاَوْحَيْنَا
لَا تُغَا طِبِنِيْ فِي الْزِيْنِ ظَلَمُوْا
اِنَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿۴۱﴾

وَاِصْنَعِ الْفُلْكَ تَدَا كَلِمًا مَّرَّ عَلَيْهِ
مَلَا وِنْ قَوْمِهٖ سَخِرُوْا مِنْهُ ؕ قَالَ اِنْ

تیس کئی نیران اُس - تو سو اُس تس ہزل کران
 (یتھ پیٹھ) تمہ (دکن) وون زرا ہرگاہ (از)
 توہر (لکھ) اسہ ٹانہ کران چھو تہ اُس (تہ)
 اسوہ (پگاہ) تہہہ، تیتھکو زن (از) توہر اسہ
 اسان چھو -

اد مرہی و توہر جلد معلوم ہر، سہ کس (یوفریق)
 چھ یس پیٹھ یتھ عذاب یوان چھ یس تس رسوا
 کر تہ (کس چھ) یس پیٹھ تھکر روس عذاب
 تانزل سپان چھ -

لوت تمام زریلہ سون (عذابک) حکم پیہ تہ
 ناگ وون تہ جاری پیدن (تہ) اُس وون زرا تھ
 (ناو) مفر کرکھ سوار، پیرتھ کتہ (قسمہ کہو
 جانوہ) منتر اکھ اکھ جوردی تہ بیتو اہل (عیل
 تہ) اس ورازی میمر بند (ہلک پیدن) متعلق
 (یتھ عذابہ کہ پیہ) بروٹھ (سون ناطق)
 فرمان جاری سیدمت چھ - بیہ کرکھ سوار) تم پیو
 تریہ پیٹھ اپان اونمت چھ، تہ تس پیٹھ اوس
 نہ کم کینرٹھا لوکو ورازی کالنبہ اپان اونمت -
 یس کران (یتھ طوفان او تہ) تمہ وون (بیتن
 ستر باجن ز) یتھ مفر سپد سوار، امیک
 پکن تہ مٹھراون اسر اللہ (تعالے) ستر
 ناو چہ برکتر ستر - بے شک میون پروردگار
 چھ سہٹا ہے، کینش مار (تہ) پھیر پھیر
 رحم کن وول -

تہ سو (ناو) اُس بان ہندو پاتھو (تھن) لہرن
 مفر تم ہتھ پکان تہ لومن کوز (اتمہ حاس مفر)
 پنسن نیپوس آلو، یتھ سہ بیس اگس طرفس
 کن گوتمت اوس، تہ دو پیس میانہ گوہرا! اسہ
 ستر سپد سوار تہ کافرن ستر مہ روز!
 تمہ ووس نہ ہر بہہہ رز کتہ باس پیٹھ (کترتھتھ)

تَشَخَّرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُهُمْ مِثْلَهُمْ كَمَا
 تَشَخَّرُونَ ﴿۱۱﴾

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۖ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ
 يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿۱۰﴾

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ ۖ قُلْنَا
 احْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ۚ
 أَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ ۖ وَمَن
 أَمَنَ ۖ وَمَا أَمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿۱۱﴾

وَقَالَ اذْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرِبًا
 وَمُزْسِمًا ۚ اِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۱﴾

وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ تَدَا
 نَادَىٰ نُوْحٌ اِبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ
 يُبَيِّنُ اذْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ
 الْكٰفِرِيْنَ ﴿۱۱﴾

قَالَ سَادَىٰٓ اِلَىٰ جَبَلٍ يَّغْصُمُنِي مِّنَ

الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ
اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَجِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا
الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ ﴿۱۰﴾

پسناہ ہتھ لیس میں یتیم آہہ نشہ بجاو۔ تمرو وولس
(زر) اللہ تعالیٰ ہندر (یتیم عذاب کر) محکمہ
نشہ (ہیکر) نہ از کا نہہ یہ (کانشہ ہند) بجاون
وول (دوستہ)، ہواپہ تس لیس پیٹھ سہ (پانہ)
رحم کر۔ تہ (اٹھو منتر) گئے آہج لہر بہمن
دو نونی منتر باگ ٹھوڑ بیٹھ تہ سہ سپد آہس
پھاٹناونہ پینہ والہن منتر شاہل۔

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَسْمَأِ
أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَ
اسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا
لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۱۱﴾

تمہ پتہ او (زمین) وتہ (زر) اے زمین! تہ
نہنگلو (دوڑ) پینہ آب تہ (آسانس تہ اوونہ
زر) اے آسمان! تہ تہ کر (پینہ روڑ) بند۔
تہ آب او شرور پراونہ تہ (یہ) معاطہ او ختم
کرہ۔ تہ سوناو ٹھہرے یہ (گڑھتھ) جودی
(باس) پیٹھ تہ ونہ او ز (اے عذابہ کہو ملکیا)
ظالم لوکن ہند خاطر کرو ہلکت (مقدر)۔

وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ
أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ
الْحَكَمِينَ ﴿۱۲﴾

تہ نوحن ویت پننس ربن ناد۔ تہ وون نس
اے میانہ پرور دکاہر! میون جیو چھہ پترک پانٹو
میانہ عیالہ اندو۔ تہ بچون وعہ (تہ) چھہ سٹھا
پنز۔ تہ تہ چھکھ سار وپے فاصلہ کرن والہو کو تہ
جاو (جان تہ درست) فاصلہ کرن وول۔

قَالَ يَنْفُخِ رِئْتَهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۚ إِنَّهُ
عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ
لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ
مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿۱۳﴾

فرموون (یعنی اللہ تعالیٰ ہن) اے نوح! سہ
چھہ ہرگز چانہ عیالہ منتر سکیا ز سہ چھہ بے شک
ناکار عملہ کرن وول۔ لہذا تہ سہ منگ میںہ تہ تھ
دعا یتیم کہ حقہ شریہ (میانہ طرفہ) علم آہی تہ ونہ
آمت تہ تہ چھہ شریہ نفیحت کران زہ جاہلن
ہندرک پانٹو کر تہ زہ زاہ کام۔

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ
مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ۚ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي ۖ وَ
تَرْحَمْنِي أَكُنَ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿۱۴﴾

ووقن (نوحن) اے میانہ پرور دکاہر! بہ چھس
اہر خاطر چون پناہ بیہر شان زہ شریہ کرے کا نہہ
تہ سوال تہ متعلق میںہ حقیقی علم آہہ تہ تہ

ہرگاہ تیر میاں پیتم غفلت معاف کرکھ نہ تو رحم
کرکھ نہ تو بہ سپہ (تیلیر) نوقصان تمن والہو
اندر۔

(اتھ پیٹھ) او (س) ونہ (ز) اے نوح! تیر
سفر سانبہ طرفہ (عطا کرنہ آمشر) سلامتی تیر (رنگر)
رنگر (برکش ہتھ یکم تیر پیٹھ تیر تمن امن پیٹھ
یکم تیر سستی چھینہ (تازل کرنہ آمشر چھینہ) تیر
کینہہ جماڑ چھینہ ترشہ بین اسی ضرور (دوڑیک
عارضی) سامانہ عطا کرو۔ مگر پیٹھ پیہ تمن پیٹھ
سانہ طرفہ کرلوٹھ عذاب۔

یہ (بیان) چھ غابہ چھو اہم خبرو اندر کیہ اسی
تیر پیٹھ وحی (ہندہ ذریعہ تازل) کران چھو۔
نہ اوسہکھ تیر یکم امہ بروٹھ زنان تیر نہ (اوس)
چھن قوم (زنان)۔ اچ کو پیہ تیر حبس لأم۔ (رت)
انجام چھو بے شک تقویٰ کرن والہن ہندے آسان۔

بیہ (سوزاو اسہ) عاد (قومس) کن رہتہند بوسہ
طور (رسول بناوتھ) تمہو و نیاو تمن زراے
میانہ قومہ! توہی کرو اللہ (تعالے) سنرعبات
تس وراہی چھنہ تہند کینہہ معبود۔ توہی چھو
(تہندی شرک مقرر کرنس منتر) محض لانہر
لاگن والہ۔

اے میانہ قومہ! بہ چھو نہ توہم امیک (یعنے
امہ کامہ ہند) کاٹھہ بدلہ منگان۔ میون اجر
چھہ تس ہستی ذمہ سیمیر بہ یاد کوزمت چھس
کیا توہی چھونا تیر کرٹھ (تیر) عقلم کام ہوان!

بیہ اے میانہ قومہ! توہی منگو پنہن رس
بخشش پتہ کرلو تس کن (پوڑ) رجوع سیمیر
کس تہجس منزسہ توہم تس راور اوڑر سوز
تیر توہم بخشو جاور طاقت، تیر مجرم ہتھہ
پھرو خدایہ ہند کتہ ہتھ۔

قِيلَ يٰ نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ
عَلَيْكَ وَعَلَىٰ اُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ ؕ وَ
اُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا
عَذَابٌ اَلِيمٌ ﴿۳۱﴾

تِلْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَا اِلَيْكَ
مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ
قَبْلِ هٰذَا اِنَّ فَاضِلَ اِنَّ الْعَاقِبَةَ
لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿۳۱﴾

رَاٰلِىَ عَادٍ اٰخَاھُمْ هُوْدًا قَالَ يٰقَوْمِ
اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُكَ ؕ اِنَّ
اَنْتُمْ لَآلِ اٰمِفْتَرُونَ ﴿۳۱﴾

يٰقَوْمِ لَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِنْ اَجْرِي
رَاٰلَا عَلَى الَّذِى فَطَرَنِيْ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۳۱﴾

وَيَقُوْمُوا اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوْا
اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ
مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ وَلَا
تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿۳۱﴾

قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا
نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَ
مَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿۵۷﴾

إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا
بِسُوءٍ فَقَالَ إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهُ وَ أَشْهَدُ
أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿۵۸﴾

مِنْ دُونِهِ فَكَيْدُؤُنِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا
تُنظِرُونِ ﴿۵۹﴾

إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا
مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا وَإِن
رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۶۰﴾

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا
أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ ، وَ يَسْتَخْلِفُ
رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ،
إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ ﴿۶۱﴾

تو وونس اسے ہود! تری اوتھتہ نہ اسہ رتس
(پسنہ دعویٰ ہک) کانہہ نتر وانہ ثبوت - تہ
اسی ہیکو کہ نہ (صرف) چانس ونس پیٹھ پینہ
معبود تراوتھ تہ نہ فو اسی تریہ پیٹھ ایمان -

اسی چھنہ (تریہ متعلق) اسہ وراہی (کینہہ)
ونان نرسون کانہہ معبود چھے بد ارادہ ستر
تریہ پتہ لوگت - تمہ وونکہ ہر چھسن اللہ تعالیٰ
اسہ کتہ ہند (گواہ مٹھلوان تہ توہی تہ روزو
گواہ - ہر چھس تس بیزار یس کانرھا توہاکر
اللہ تعالیٰ سند) شریک مٹھلوان چھمون -

تس وراہی، (لہذا اگر ہر غلطی پیٹھ چھس) تہ
ساری سمیتہ کرور میہ خلاف منسوبہ تہ میہ
سہ دیو کانہہ مولبت -

ہر چھس اللہ تعالیٰ) ہس پیٹھ توکل کران
یس میون (تہ) پروردگار (چھ) تہ تمہند (تہ)
پروردگار چھ - (بہ چھس ونان ز (روے زمیں
پیٹھ) چھنہ کانہہ تہ زودار یس تمہ ہندس
قبضس تل آسہ نہ - یقینا چھ میون پروردگار
(مؤمن مدد کرنہ خاطر) سیز و تہ پیٹھ اتاد
(تہ پانس کن پینہ والہن چھ راچھ کران) -

لہذا اگر توہی میہ کتہ مقرر چھرو تہ (تمہ منز
چھنہ میون کانہہ نوقصان، تکلیار) یوسہ (تعلیم)
وتہ ہر توہم کن سوزنہ آمت چھس سہ چھو میہ
توہہ واتنا و مپتر - تہ (اگر توہی مقرر چھرو تہ)
میون پروردگار بناو توہہ وراہی کتہ بیس توہس
(برونٹھو مین ہند) جاسٹین - تہ توہی ہیکو
تہ تس کینہہ (تہ) نوقصان واتنا و تہ - بے شک

لہ ناصیۃ امیک لفظی معنی چھ شرمگ، مگ، ڈہکروال - ھو آخڈ بنا صیبتہا یعنی اللہ تعالیٰ
چھ تین تہند یو ڈہکروالو ستر رٹن وول یعنی ساری مخلوقات چھ اللہ تعالیٰ ہندس قبضس تل -

میوں پروردگار چھ پرستہ چیرک لآچھ در -
 بیہ سیکر (عذاب متعلق) سون حکم آوتہ اسر دیت
 (تہ وقتہ) ہودس (تہ) تہ یکو لکو تو س سرتی
 ایمان آوتت اوس، تہن (تہ) تہ عذابہ ہنتہ
 پینتہ دھامس) رحمتہ سرتی نجات تہ اسر بچاوی
 تم اکہ کر پیٹھ عذابہ ہنتہ -

بیہ یم اسی (مغزور) عاد (سہ) یکو زانہتہ
 ماہتہ) پینتس پروردگار ہندین نشان انکار
 کر یاو تہ تندن رسون ہنز کر یا یکھ نافرمانی
 تہ پرستہ افس مہتہ پھرس (تہ) پز کس دشمن
 (شخصہ) سندن حکمن ہنز ایکھ پاری کرنی
 لآچھتر -

یہہ ڈو میس اندر (تہ) چھ لعنت تہن پتہ تھاونہ
 آمتر تہ قیامتہ کر دوہہ (تہ) پیکھ پتہ تھاونہ
 بوڑو! عادو افس بے شک پینتس پروردگار
 ہنز (یعنی تہندن احسان ہنز) ناشکری کر
 بوڑو! اسی چھ عذابہ کین ملائین ونان نہ
 عاد یعنی قوم ہود خاطر کرو لعنت (مقدر) -

تہ (قوم) ہودس کن سوزاو (اسر) تہ ہند بوے
 صالح، تمو وون تہن) اے میان قوم! توہ کرو
 اللہ (تعالیٰ) ہنز عبادت، تس سوا یی چھنہ کانہہ
 تہند معبود۔ تمو تلو توہی نہ پتہ پیٹھ (تہ)
 کوز تو تھدر عطا) تہ اتھ اندر کرکری تو توہی آباد
 او کرنی منگو توہی تس بخشش تہ تس کن کرو
 پور پاملو رواج - بے شک میوں پروردگار چھ
 نزدیک (تہ) دعا قبول کرن ول -

تمو وونس اے صالح! بیہ بروٹھ اوسکھ تہ اسر
 در میان آئینہ باپتہ، ووسیز ہنز جاے (زانہ
 یوان) - تہ چھکا (وونی) اسر (اسر عقلمہ تہ
 داتائی باو و ہود) امہ کتہ ہنتہ پتہ رٹان نہ اسی
 کرو تہ چیز ہج عبادت تہ بیح عبادت ساؤ مال

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ
 آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ
 مِن عَذَابٍ غَلِيظٍ ۝۱۱

وَتِلْكَ عَادٌ جَعَلُوا بَابِئِ رَبِّهِمْ
 دَعْوًا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ
 جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۝۱۲

وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا
 رَبَّهُمْ ۚ أَلَا بُعْدَ الْعَادِ قَوْمِ هُودٍ ۝۱۳

رَبِّ اِيْتَمُوذَا خَاهُمْ صٰلِحًا قَالَ يٰقَوْمِ
 اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ ۚ
 هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ الْاَرْضِ وَاسْتَحْمَرَكُمْ
 فِيْهَا فَاَسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تَوْبُوْا اِلَيْهِ
 اِنَّ رَبِّيْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ ۝۱۴

قَالُوْا يٰضٰلِحُ قَدْ كُنْتَ فِئْتَنَا مَرْجُوًّا
 قَبْلَ هٰذَا اَتَنْهٰنَا اَنْ نَّعْبُدَ مَا يَعْْبُدُ
 اٰبَاؤُنَا وَاَنْتَا لِفِيْ سُلٰكٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَا
 اِلَيْهِ مُرِيْبٌ ۝۱۵

(تو جہاد اجداد) کران آہو تو چھہ ؟ تہ (بوزوے
تہ پوز چھہ نہ نر) بیٹھ کتھ کن تہ اسہ ناد
دوان چھاکہ ، تہ متعلق چھہ اسی اکیس بے قرار
کن و اس شمس مشنر (بیہی تہ) ۔

تمو وونکھ اے میانہ قومو ! وونو ہرگاہ بہ (پڑی
پاسو پستہ دعویٰ پوج بنیاد) پستس پروردگار
ہند طرفہ (عطا سپدی ہمتس) کتہ نہ واپہ شہوتس
پٹھ (تھولس) چھس ۔ تہ تمو چھہ میہ پستہ دربار
اکھ (خاص) رحمت عطا کر مشنر ۔ تیلہ (پہ کر تہ تہ)
ہرگاہ بہ تہنر نافرمانی کر تہ اللہ (تعالے) ہس
مقابلہ کس کر میہ مدد ؟ اد توہی ہر را او نہ
میہ (تہ وزر) تباہی مشنر تراونہ وراہی (بیہ)
کتہ کتھ مشنر ۔

بیہ اے میانہ قومو ! یہ وونو (چھہ سو) یوسہ
اللہ (تعالے) ہن تہنہر با پتھ اکھ نشان بنا و مشنر
چھہ ۔ اکر اسی دلپو توہی آزاد پھیر نہ بیٹھ کن یہ
اللہ (تعالے) ہندس نہ پستس مشنر (پھیر تہ
تھو تھ) کھنہ (چھہ) ۔ تہ اسی مہ واناو
کا نہہ آزار ۔ تہ رط و قومہ اکھ جلد ہن وول
مذاب ۔

اتھ پیٹھ نہر تہو (تلوار ستر) تھس زنگہ ۔ تہ
پیٹھ تمو (ہمتس) وون ۔ توہی شلو ترین دہ ہن
(نام) پستہن گرن مشنر (پستس حاصل سپدی
مہ ہتس سامانس) قاید ۔ یہ چھہ تیتھ وعدہ ہتس
نہ اپڑ نہیر ۔

پتہ تیلہ سون (مذاب) حکم آو تہ اسہ پجو صالح
بیہ تم یکو لس ستر ایمان اؤمنت اوس ، پستہ (خاص)
رحمت ستر پر تہ کتہ بلایہ لہنہ ۔ تہ خاص کر تہ تہ
دہچہ رٹوانی لہنہ ۔ بے شک صرف جوئے رب چھہ
طاقہ وول (تہ) علیہ وول ۔

قَالَ يَقَوْمِ اَرَايْتُمْ اِنْ كُنْتُمْ عَلٰى بَيِّنَةٍ
مِّنْ رَبِّيْ ۗ وَ اَنْسِيْتُمْ مِّنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ
يَنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتُمْ ۗ فَمَا
تَزِيْدُوْنِيْ غَيْرَ تَخْسِيْرٍ ﴿۳۱﴾

وَيَقَوْمِ هٰذِهِ نَاقَةٌ لَّكُمْ اٰيَةٌ
فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِيْ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا
تَمْسُوْهَا بِسَوْءٍ فَيَاْخُذْكُمْ عَذَابٌ
قَرِيْبٌ ﴿۳۱﴾

فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِيْ دَارِكُمْ
ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ ۚ ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ
مَكْذُوْبٍ ﴿۳۱﴾

فَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَ مِنَ
حِزْبِيْ يَوْمَئِذٍ لَّا اِن رَّبُّكَ هُوَ الْقَوِيُّ
الْعَزِيْزُ ﴿۳۱﴾

تہ میو ظلم کرناو بتم رڈ عذابن تہ تم گے پینسین
پینسین گرن منتر (عذابہ سوتو) پتھر لور تھ۔

زن تہ تم بے تھ (عکس) منتر زانہہ بے متی اسی
نہ۔ بوزو! (قوم) نمودن کرنا یہ پینس ر سیر
منتر (یعنے تہنہن اساتہ ہنتر) نہ شکر ی۔

بوزو! (عذابہ کن ملاکین او حکم دہن ز قوم) نمودن ہاتھ
کرور لعنت (مقدر)۔

بہ اسی سانہ فرستادو بے شک ابراہیمس رنش
نوشنبر وانشاومشر (تہ) ووفنت اوس ہس ز سلام
اسن (سانہ طرفہ توبہ پیٹھ)۔ تہو وونکھ سلامتی
اسن (توبہ پیٹھ ہمیشہ با پتھ)۔ تہو وتر نہ تہا سے
تہ او اکھ بزموت ووزنہ پتھ۔

ادینہ تہو تہنہر اتھ وپتھو ز تہ تھ (کھپس)
تام چھہ وانا تہ تہنہر (یہ) فعل زون عجیب
تہ تہر (فعلہ) تہہ کورن خطر محسوس۔ تہو وولس
(اتھ پیٹھ ز) کھوڑ مہ! اسی تہ چہ قوم لولس
کن سوزنہ آوتو۔

بہ اسی تہنہر منتر (سنتی) وودنہ، اتھ پیٹھ
کارے یہ سو (تہ)، اد وتر اسہ تہنہر طمپناہ
شاطرش اساتہ تہ اساتہ پتہ بے تہنہر زہ پتھ
نوشنبر۔

تم وون ہے کیا بتیوم بر وماہ پین؟ یینہ
زن بر پتھ (مٹا مٹا) چھس تہ یہ میون خاوند
تہ چہ بچس منتر۔ بے شک چہ یہ اکھ عجیب کتھ۔
تہو وولس، کیا تہ چھکا اللہ (تعالیٰ) منتر کتھ
پیٹھ تعجب کران؟ اسے یینہ گر واپو تہہ پیٹھ
(تہ) چھہ اللہ (تعالیٰ) منتر رحمت تہ تہنہر
(پر تہ زنگہ چہ) برکٹ (تازل سپان، لہنہ تہنہر
با پتھ تہ مرٹھ نہ یہ کتھ عجیب آوتو!) یقینا سہ
چہ پیٹھ ہے تعریف، وول (تہ) تہنہر شاہ وول۔

وَ اَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ
فَاَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جثَمِينَ ﴿۵۱﴾

كَانَ لَمْ يَخْنَوْا فِيهَا، اَلَا اِنَّ تَمُودًا
كَفَرًا رَّابَهُمْ، اَلَا بَعْدًا لَتَمُودًا ﴿۵۲﴾

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرٰهِيْمَ
بِالْبَشْرٰى قَالُوْا سَلٰمًا، قَالَ سَلٰمٌ
فَمَا لِيْٓبَكْ اَنْ جَاءَ بِوَجْهِ حٰنِيْٓذٍ ﴿۵۱﴾

فَلَمَّا رَاَ اٰيِدِيْهِمْ لَا تَوَسَّلُ اِلَيْهِ
نَكَّرَهُمْ وَاُوْحَسَّ مِنْهُمْ خٰفِيَةً، قَالُوْا
لَا تَخَفْ اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلٰى قَوْمِ لُوٓطٍ ﴿۵۲﴾

وَاَمْرًاۤ اِنَّهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكْتْ فَبَشَّرْنٰهَا
بِاسْحٰقٍ ۚ وَاَمِنْ وَاَرَاۤ اِلٰسْحٰقَ يَخْفُوْبٌ ﴿۵۱﴾

قَالَتْ يٰوَيْلَتِيْۤ اءِ اِلٰدُ وَاَنَا عَجُوْزٌ وَاَهٰذَا
بَعْلِيْ سَيْخًا، اِنَّ هٰذَا لَشَيْۤءٌ عَجِيْبٌ ﴿۵۲﴾

قَالُوْا اَلَا تَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحِمَتُ
اللّٰهِ وَاَبْرٰكَتُهُ عَلٰىكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ ۗ
اِنَّهُ حٰوِيْدٌ مَّجِيْدٌ ﴿۵۱﴾

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّزَاءُ وَ
جَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ
لُوطٍ ﴿۱۰﴾

اور ییلے ابراہیمس گھبراہٹ ترُج تہ تس مچ ٹوٹن
تہ تمز، ہیوت (تمز ویز) اسر سوتو قوم لوٹس
متعلق مجادلہ کرن۔

إِنَّا إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمًا أَدَّاهُ مِّنِيَّبٌ ﴿۱۱﴾

ابراہیم اوس سوتو ہے او بر گوبروول (تہ)
تذکرہ دل تھون وول تہ (اسر بروٹھ کسہ)
پھیرک پھیرک من وول۔

يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَن هَذَا جِإِنَّهُ قَدْ
جَاءَ أَمْرٌ رَبِّكَ وَرَأَيْتُمْ آتِنَهُمْ عَذَابٌ
غَيْرُ مَرْدُودٍ ﴿۱۲﴾

(اتھ پٹھ وون اسر تس) اسے ابراہیم اتر روز
پتھ امر (سفاثر) لستہ بکلیاڑ چانس پروردگار
سند (آخری) حکم چھ آمت تہ یمن کفارن ہنر
حالت چھینہ ترشہ زہن پٹھ روز تہ من وول
غلاب پتھ۔

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءًا
بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا
يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴿۱۳﴾

تہ ییلے ساف پیغام دتہ وائل لوٹس نیش آپ تہ
تہندہ باعثہ پیدتس نم۔ تہ تمز کڑ ولس مشر
تکلی محسوس تہ وون ازیک دہہ چھ (سہماہ)
کرلوٹھ باسان۔

وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن
قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، قَالَ
يَقَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنِيَّتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي،
أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ ﴿۱۴﴾

تہ تہندہ قوم آوتس کن (غصہ سان) دوران
دوران تہ (یہ اوس تہ گو ڈ نیک موقع) برٹھ
(تہ) اسر تم (لوکھ منہیت خطرناک) بدیہ کران۔
تمز (یعنے لوٹن) وونکھ، اسے میانہ قومو ایکہ
چھینہ میانہ کورہ (یکہ تہندہن گرن مشر باگتہ)

۱۱ حضرت لوطؑ ہنر ز کور اسر تہ شہرس مشر باگتہ آ مشر (پیلش باب ۱۹ آیت ۱۵)
مسلمان مقبرو چھ غلط فہمی سوتو بیتہ آیس یہ معنے کورنت ز حضرت لوطن
وون پنس قومس تر میانہن پڑھین پٹھ مہ کرو دست درازی۔ میانہ کور چھ
سائز پینے سوتو کڑ تو پن شہوت پور۔ نعوذ باللہ۔ یہ چھ اگس نیٹیس
پٹھ خطرناک توہمت۔ نی کجا اکھ شریف انسان تہ ہیکہ نہ پڑھ کتھ ووتھ
اصل واقعہ چھ یہ ز حضرت لوطؑ سند قوم اوس تہ ووپر لوکن مند پسنہن
ما من منزین پسند کران۔ حضرت لوطؑ ہندر پڑھو وچھتہ گوو من تنک۔ اتھ
پٹھ وونکھ حضرت لوطن میانہ کور چھ تہستہ لوتہ، لہذا نیکیا تہ بیٹہ
ز وہ پرن سوتو لبتہ کورہ توہر خلاف سازش۔

آمشہر چھینے (تمہ چھینے تہند باپتہ) تو تہند
اورہ سے بچاؤ نہ باپتہ (نہایت پاک (دل
تہ پاک خیال) لہذا میرا او تو ہی اللہ (تعالیٰ)
تہ تقویٰ تہ میانین پڑھیں بھی مس کرور
میںہ نجل۔ توہر مشر چھنا کانہہ (تہ) کائن
(تہ شریف انسان) ؟

تہو وونس نہ تہیہ چھتہ یقیناً معلوم کورنت
نہ جاپن کورن متعلق چھنہ اسہ کانہہ حق حاصل
تہ یہ (کیشہا) اسہ پڑھان چھ تہ چھکھ نہ زمانہ۔
تہو وونکھ اکاش میںہ آسہ ہے توہہ مقابلہ (کسہ
تہمک) قوت (حاصل تہ یہ کر با تہند مقابہ
وونو کوو اگر یہ چھنہ تہ یہیہ صورتہ چھینہ باہتہ
نہ یہ تہہ اگس مضبوط چھینہ جاہ کرنت

تہو (پڑھو) وونس (اتھہ پڑھ) نہ اسے لوطا
اسہ چھ بے شک چانس پرور وگار سندر کورور
تہیہ تہ اسہ چھ معلوم نہ تم واقع نہ ہرگز تہیہ
تام (تہہنہ تہا ہی ہند وقت چھہ امت) اور کور
تہہ نیر (دیہتر) پین عیال ہتھ روتلی کتہ وز
وتہہ سان تہ توہہ مشر کر تہہ نہ کانہہ (اکھ تہ)
اون یون وچین (بنہ کور روزو توہہ کچھتہ)۔ دھ
پوز پکان آشنہ چھینہ تر تہہ نہ یس (عذاب) ہم
پتہ امت چھہ سہ چھہ بے شک تس پتہ تہہ ہینہ
وول۔ تہہند کتہ تہہ وقت چھہ (پکاہ) صبح، تہ
کیا صبح چھنا نہو کپ ؟

اد میںہ سون حکم او تہ اسہ کور تہہ (بستی اتک
پتہ تہ تہہ پتہ وول (ہو چھہ) میںہ کھمہ بن
ہند پوس پتہ روو۔

ہم چانس پرور وگار ہندیس تقدیرس مشر (تہہند

قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَمَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ
حَقِّكِ وَإِنَّكَ لَتَخْلَمُنَا نُرِيدُ ۝

قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوِي إِلَىٰ
رُكُنٍ شَدِيدٍ ۝

قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا
إِلَيْكَ فَأَسْرِبْ أَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ الْبَيْلِ
وَلا يَلْنَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرًا تَكْذِبًا
إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ
مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ إِلا أَلَيْسَ الصُّبْحُ
بِقَرِيبٍ ۝

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا
سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا مِّنْ
سَدِّقِيلٍ ۝ فَانصُرُوا ۝

مُسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ۝ وَ مَا هِيَ مِنْ

الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿۵۰﴾

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى مَذٰبِنَ آخَاهُمْ شَعْبِيًّا قَالَ يَقَوْمِ
اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ ؕ
وَلَا تَتَّقُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ
إِنِّي اَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمْ
عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿۵۰﴾

وَقَالَ يَقَوْمِ اذْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ وَلَا تَتَّخِصُوا النَّاسَ شِبَآءَ هُمْ
وَلَا تَتَّخِذُوا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿۵۱﴾

بَقِيَّتِ اللّٰهُ خَيْرٌ لَّكُمْ لَآنَ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِيْنَ ؕ وَمَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴿۵۱﴾

قَالُوا يَشْعَبُ اَصْلُوْنَا تَاْمُرُكَ
اَنْ نَّشْرُكَ مَا يَعْبُدُ اِبَادُنَا اَوْ اَنْ
تُفْعَلَ فِيْ اَمْوَالِنَا مَا نَشَآءُ اِنَّكَ
لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ ﴿۵۲﴾

قَالَ يَقَوْمِ اَرَاَيْتُمْ لَآنَ كُنْتُمْ عَلٰى
بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّيْ وَرَدَدْتَنِيْ مِنْهُ رَدًّا
حَسَنًا ؕ وَمَا اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفْكُمْ اِلٰى

خاطرے) مقرر (تو نامزد) کرنے آمیز آسہ
تہ بین ظالمین (تہ) چھبہ یہ (عذاب) دور۔
بہ (سوز اسہ) مدینس کن تہندہ بوسے شعیب
(نہی بناوتھ) تمہ وون دین، اے میانہ قومہ
توہر کرہ اللہ (تعالیٰ) سنز عبادت۔ نس وراہی
چھبہ تہندہ کہنہو معبود۔ تہ بین تول مہ آسو چھوڑی
کران۔ بہ چھسو توہر (دوڑی کہن) یقیناً برتر حائر
منز وچھان۔ بہ چھس بہ (سستی) تہندہ حقہ
اکر وراہی پھرن والہ دیکس عدلیس کھوڑان۔

بہ اے میانہ قومہ! توہر آسو بین تول انصاف
سان پور کران، بہ مہ آسو لوکن تہندہ چہس
چھوڑی ووان تہ فسادہ بنہتہ مہ پھالو و زمینس
منز خرابی۔

اگر توہر (پڑی) مومن چھو تہ (پڑھ کرور)
اللہ (تعالیٰ) سند (توہر نش) باقی ترومت
(ماہل) چھ تہندہ خاطر بہتر تہ برکتہ وول۔ بہ
بہ چھس تہ توہر کیت را پھرد (بناوتھ سوزہ
آمت بہ چھس صرف اکھ نفیحت کرن وول)۔

تمو وونس، اے شعیب! کیا چاہی نماز چھیا
شریہ حکم ووان نہتیمہ چیز عبادت سانی
جد اجداد کران (آہو) چھ ستر وون اسی؟
یاسو کتھ (تڑھنو تراوتھ) نہ سینن مان متعلق
اسی یہ بہتڑھو (تہ) کرو؟ (اگر تڑھ کتھ
چھبہ) تیلہ چھاکھ تہ بیشک سٹھ بہ عقلمند (تہ) زالون
(انسان)۔ لہ

تمو وونکھ، اے میانہ قومہ! اآخر وونو (تہ سہی)
اگر (نماہت سپد نہر) بہ چھس (پسنہ وولوی) پچ
بنیاد) سنس پرور وگاہر بند طرفہ (بختہ آمیز)

مَا أَنهَلِكُمْ عَنْهُ، إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ
مَا اسْتَطَعْتُ، وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ،
عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿۱۱﴾

کنہ شہر ولپہر پیٹھ (تھوان)۔ تہ تو کر چھہ مسیہ
پسنہ وریاہ منفر رت تہ دس پر میون رزق
وہیت مت۔ (تہ پگاہ کیاہ جوب دیو خالیس رزق
کنہ؟) تہ ہر چھس ہر میترھان نہ میہر کتھہ ہنہ
ہر توہر پیٹھ رلوہ (تہ ہنہ رزو توہر چھہ تہ
ہر اکہر (پانہ) توہر جلاف تہ کے دینے تھی
کتھہ ہنہ) اراد۔ ہر چھس تہ تہ وراہی کنہر
میترھان میہر (یعنی ہتھ حدس تام) اصلاح
میہ طاقت چھہ، تہ میون توفیق لبہ چھہ اللہ
(تعالیٰ) ہے (یعنی تہندس فہلس تہ رحمتس)
متر (والہر) تسو پیٹھ چھہ میہ توکل تہ ہر
چھس پھہر پھہر کتھہ کتھہ کتھہ نہان۔

وَيَقُولُ لَا يُجْرِمَكُمُ شِقَاقِي أَنْ
يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ
أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ، وَمَا قَوْمٌ
لَّوِطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ ﴿۱۲﴾

ہیہ اے میانہ قومو! (وچھو زلو) ہتھہ
(تہنہر) میہ ستر دشمن توہر (اتھہ کتھہ پیٹھ)
تو و نہ توہر واتہ و تہیقہ (ہیو) مصیبت
ہتھ نوح ہندس قومس یا ہوہ ہندس قومس یا
صالح ہندس قومس پیٹھ آیاو تہ لوٹھ سند
قوم چھہ توہر ہنہ (تیوت) دور (تہ کیہر)
ہیہ منگو توہر پسنس پروردگارس ہنہ ہنہ
پتہ کروتس کن پلوہ پاٹو ربوع۔ میون
پروردگار چھہ یقینا پھہر پھہر کتھہ رحم کرن
وول (تہ) سہہر ہے محبت کرن وول۔

وَأَسْتَغْفِرُكُمْ وَأُذَوِّدُكُمْ
إِنَّ رَبِّيَ رَحِيمٌ ﴿۱۳﴾

تہو ووتس، اے شعیب! یہ کیشہا تہ ونان چھہ
تہ منفر چھہ واریاہ (جہہ) اسر فکری تران۔
تہ اسو چھہ تہ اسر منز اکھ گمزور انسان
زانان۔ تہ اگر چون قبیلہ آسہے تہ تہ اسو
کروتھ تہ کنہ کنہ۔ تہ تہ چھہ (خود ہنہ)
سانہ نظر تہل کا نہہ عزتس لایق وجود۔

قَالُوا يَشْعِبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا
تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرُكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْ
لَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ، وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا
بِعَزِيزٍ ﴿۱۴﴾

تہ ووتھ، اے میانہ قومو! کیا میون قبیلہ
چھا اللہ (تعالیٰ) ہس نسبت تہنہر نظر منز

قَالَ يَقُولُ الرَّحِيطُ أَعَدَّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ
وَأَتَّخَذَ ثَمُودَ وَإِسْمَاعِيلَ إِذَا رَأَىٰ رَجِيًّا

بِمَا تَعْمَلُونَ مَحِيْطٌ ﴿۷﴾

جاؤ عزنس لایق؟ تہ سہ (اللہ تعالیٰ) چھو
توہہ تھہر پتھہ کس ترومت۔ یہ کینترھا توہی کران
چھو تہ چھہ میون پروردگار زبر پاتھی زمانان۔

وَيَقُوْمُ اَعْمَلُوْا عَلٰی مَا كُنْتُمْ اِیْنَ
عَامِلًا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۚ مَنْ يَّاتِيْهِ
عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَ مَنْ هُوَ كَاذِبٌ
وَاذْتَقِبُوْا اِیْنَ مَعَكُمْ رَقِيْبٌ ﴿۷﴾

بیہ اے میانہ قومو! توہی روزو پستہ جاہ (پنی
پاتھی) کامہ کران بہ (تہ) پتھس (پستہ جاہ پنی)
کام کران۔ جلدہے سپدو توہہ معلوم کر سہ
چھہ تیکس پتھہ رسوا کران اول عذاب یوان چھہ تہ
کس چھہ ایزویر؟ (تہ کس ایزویر) تہ توہی (تہ)
پیاریو (پسنس تہ میانس انجاس) تہ پستہ
روزو یقینا توہہ سستی (پتھس) پیاران۔

بیہ نیلہ سون (عذاب) حکم او تہ اسہ نکو
رامہ عذاب نشہ (پستہ) خاص (رحمتہ سستی
شعیب تہ تم (لوکھ تہ) بیکو تس سستی ایمان
اومت اوں۔ تہ بیکو ظلم (کریم) طلقہ اختیار
کومت اوں تم رڈی امو عذاب تہ تم سہ
پنہن (پنہن) گران منتر زمینہ سستی لاریتہ
تباہ۔

وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَ
اَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا الصَّيْحَةَ
فَاَصْبَحُوْا فِیْ دِيَارِهِمْ جِثْمِيْنَ ﴿۸﴾

زن تہ تم تمہن منتر (زاف) روزان (ہے)
اسی نہ۔ بوڑو! مدینہ باپتھہ تہ اس
(خلین) لعنت مقدر کر مپتہ۔ تھہ پاتھی
تھوون ہند باپتھہ لعنت مقدر اس۔
تہ بے شک سوزا اسہ نموی پرتھہ تمکو نشان تہ
پر ہلوزی دلیل ہتہ۔

كَانَ لَمْ يَخْنَوْا فِيْهَا اَآلَا بُعْدًا
لِّمَذِيْنَ كَمَا بَعْدَتْ ثَمُوْدُ ﴿۸﴾

فرعون تہ تہند توہو کین برن لوکن کون۔ مگر
تو کر (موسیٰ ترؤتھہ) فرعون ہند حکیم پوری
تہ فرعون سہ حکم اوں نہ ہرگز درست۔
سہ پکیر قیامتہ کر دوہہ پسنس قومس برو تھہ
برو تھہ تہ تمہن والہ (جہنہ کس) نارس مشہ
پتہ اسہ سہ یار بل تہ بچھہ تہ تھہ منتر وس
والی تہ۔

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسٰی بِآيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ
مُّبِيْنٍ ﴿۹﴾

اِلٰی فِرْعَوْنَ وَ مَلَاِئِمِهٖ فَاتَّبَعُوْا اَمْرَ
فِرْعَوْنَ ۚ وَ مَا اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ ﴿۹﴾

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
فَاُوْرَدَهُمُ النَّارَ ۚ وَ يَتَسَّ الْوِوْدُ
الْمُوْرُوْدُ ﴿۱۰﴾

تہ بیتہ و ذیہس منتر (تہ) آہ بیتہ بیتہ لغت
 اگا و کرنہ تہ قیا متیکہ دوہہ تہ (بیکھ پتہ تھوہ)
 یہ انعام یس منن دتہ پیسہ چھہ سبھہ ہے تاکارہ
 یہ چھہ (تباہ کاشن) بستین ہنتر و خبرو
 منتر اکھ حصہ۔ اسی چھہ بہ تریہ بروٹھہ کنہ بیان
 کران۔ تمو منتر چھہ کیبہ (بستینہ و نیک نام)
 استاد (یعنی تہندک نشانہ چھہ موجود) تہ کیبہ
 چھہ تباہ کاشن حالتس منتر (یعنی تہندک
 نیب نشانہ چھہ نہاونہ آہی)

تہ اسہ کریاو نہ منن پیٹھہ کاشنہ ظلم بلکہ اوس
 بتمو (پانے) پشین تر و ن پیٹھہ ظلم کورمت
 اور سبیلہ چائس پروردگار تہند (عذابت) محکم
 آو تہ تہندو معبود و یمن تم اللہ (تعالیٰ)
 ہس و راہی آلو کران اسی، دیت نہ منن کہتی
 تہ قایدہ تہ تباہی منتر تراوتہ و راہی ہر راوک
 نہ تم، تمو (کنہ کتھہ منتر)۔

چائس پروردگار ہنتر تمچھہ چھینہ (حجرت پلور
 کرنہ پستہ) بیتھہ پانہ آسان، سبیلہ سہ
 بستینہ اتھہ حالتس منتر ٹان چھہ نہ تم آسن ظلمس
 پیٹھہ ظلم کران۔ تہنتر تمچھہ چھینہ سبھہ ہے
 دگر دار (تہ) کر پٹھہ آسان۔

یس آخر تہ کس عذابس کھوٹان آہہ اتہند
 خاطر چھہ (خدا یہ ہندس) تھہ (رٹس) منتر
 یقیناً اکھ (عبرتہ وول) نشانہ (موجود آسان)
 یہ چھہ اکھ تہتھہ (سینہ وول) دوہہ تہنہ خاطر
 لاکھ سو نمبر اونہ پن تہ یہ آہہ تہتھہ دوہہ یس
 ساری لاکھ وچین۔

تہ اسی چھین سہ صرف اکیس گنہ تھہ معیادس
 تاسے پتھہ رٹان۔

یہیہ وقتہ سہ بیمہ کاشنہ شخصس ہیکہ نہ تہند

وَ أَتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ، بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ﴿۱۱﴾

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ
 عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ﴿۱۲﴾

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ
 فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ
 مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ
 رَبِّكَ، وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتَشَابِهٌ ﴿۱۳﴾

وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى
 وَهِيَ ظَالِمَةٌ، إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴿۱۴﴾

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ
 الْآخِرَةِ، ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَّهُ
 النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ﴿۱۵﴾

وَمَا تَوْجِهُهُ إِلَّا لِحَجِّ لَمْعٍ ﴿۱۶﴾

يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

فَمِنْهُمْ شَقِيحٌ وَ سَعِيدٌ ﴿۱۹﴾

(یعنی خلیہ برتر بند) اذ نہ ورا بی کہتہ گرتہ
پتہ سپدن (تمن منفر (کیئہ) بد بخت (ثابت)
بیہ آسن (کیئہ) خوش نصیب تہ۔

او ہم بد بخت (ثابت) سپدن تم مرخصن نارس منفر
(داعل) تنقہ منفر آسن (کنہ وقتہ) تہندہ (دگر
تہ) زہیمو (یعنی لولو) شاہد (کسان) تہ کنہ
وقتہ آسن (تمن ہکر ہکر لگان۔

تم مرخصن تنقہ منفر توت نام روزان یوت نام آسان
تہ زمین قایم چھ۔ تمہ وقتہ ورا بی یہ چون پروردگار
یہ سیرہ۔ چون پروردگار یہ بہرہاں چھ تہ چھ گرتہ
روزان۔

تہ ہم خوش نصیب ثابت سپدن تم آسن جنت منفر۔
تم مرخصن تنقہ منفر توت تمام روزان یوت تمام
آسان تہ زمین قایم چھ۔ تمہ وقتہ ورا بی یہ چون
پروردگار یہ سیرہ۔ (یہ) بخشش چھینہ (ترشہ)
یوسہ نہ (لانہ) ترہبتہ گرتہ۔

لہذا (اسے مخاطب) یوسہ عبادت ہم (لوحہ کران)
چھ تمہ کس (ہائل آسن متعلق) ہمہ پیسہ
تہ کنہ شکس منفر۔ ہم چھ ترشہ ہش عبادت
کران یہرہ عبادت (تمن) بروٹھ تہندہ جدا جدا
کران آسن تہ آسن و مو تمن (تہ) بے شک تہندہ
(پور) پور حصہ۔ پیسہ منفر (ہرگز) کیئہ تہ کم پیسہ
تہ گرتہ۔

بیہ آسن اسے بے شک (اختلاف ملانہ) با چھ
موسیٰ ہس (تہ) کتاب (یعنی تولت) دتر ہتر
پتہ او (کیئہ وقتہ پتہ) تنقہ متعلق (تہ) اختلاف
کرتہ تہ اگر سوہ (رحمتہ کر وعدہ واجز) کہتہ
یوسہ پھانس پروردگار بند طرفہ بروٹھ نازل پیز
متر چھینہ۔ (ٹھہر) آسہ ہے تہ تہ تمن در میان
آسہ ہے (کرتام) فاصلہ کرتہ آمت۔ تہ وول تہ

فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُّوا فَوَى النَّارِ لَهُمْ فِيهَا
زَفِيرٌ وَ شَهِيقٌ ﴿۲۰﴾

خُلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَ
الْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ؕ إِنَّ رَبَّكَ
فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿۲۰﴾

وَ أَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فَوَى الْجَنَّةِ
خُلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَ
الْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ؕ عَطَاءٌ غَيْرَ
مَجْدُودٍ ﴿۲۱﴾

فَلَا تَنكُ فِي مَذِيَّةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هُوَ لَاءَ ؕ
مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِّنْ
قَبْلُ ؕ وَإِنَّا لَمَوْفُوهُم نَصِيبُهُمْ غَيْرَ
مَنْقُوصٍ ﴿۲۱﴾

وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ
فِيهِ ؕ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ
لَفُضِي بَيْنَهُمْ ؕ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ
مُرِيْبٍ ﴿۲۲﴾

چھہ تم اتھہ (قرآنس) متعلق (تہ) اُکس بقیار
کرن اُکس شخس منز (پہتر) ۔

چھن پروردگار وسیہ بے شک متن سارنہ تہندہ
اعمال (یعنی تہندہ پھل) پلوہ پلوہ ۔ تم یہ کثیرھا
کلن چھو تہ پھو سہ زبر پانھو زمانہ ۔

لہذا (اسے رسول!) تہ روز سیز و تہ پیٹھ قائم
(تہو پانھو) پتھ پانھو شریہ محکم و تہ آمت پتھ
تم (لوکھ) پتھ کیو شریہ سہتر روز تھہ (اسہ کن)
رجوع کوزمت پتھ (تہ) اسے نومنو) توہر
نہر زبوہ نہ زانہہ تہ حد نہہر ۔ یہ کثیرھا توہر کلن
چھو سہ پتھو تہ و پھان ۔

بیہ جو زبوہ نہ توہو متن لوکن کن بیو ظلم (کرکٹ
و طہر اختیار) کوزمت پتھ ۔ تہ و تہ و توہر
(تہ) نار (یعنی نار جہنم شریہ) ۔ تہ اللہ تعالیٰ
ہس و رابی آہہ نہ (تہر وقت) تہندہ کانہہ دوست
(تہ مدوگار) تہ توہر میلہ و تہ (کثہ طرف تہ) مدوہ
بیہ (اسے مخاطب!) تہ آہر دوہ کہن دوہ نوہی
طرفن تہ راز ہندن (وار یاہن تہ مصلحت) وقتن
منز نماز جان پانھو ادا کران ۔ بے شک چھہ نیکہ
بُدن دُور کران ۔ یہ اللہ تعالیٰ سنہر تعلیم پھینہ
یاد تھون و اہن ہندہ یا پتھ اکھ نپتہ ۔

بیہ ہینہ صبرس (تہ شریہ) کاسم تہ کیاز اللہ
(تعالیٰ) پتھنہ شیکو کارن ہندہ اہر ہرگز تہ ضایع
کران ۔

اڈ کیازہ دراہہ نہ تہو تو مو مشہر ہم توہر ہر و تھہ
اسی تہو عقلمہ و اڈ (لوکھ) ہم (لوکن) ملکس
منز فساد پاد کرہہ ہنہ پتھہ رتہ ہن ۔ کثیرو
نوکو و رابی ہم اسہ (بُدیو ہنہ پتھہ روزہ تہ
لوکن پتھہ رتہہ کہ باہنہ) پچا وک تہ (باقی لوکھ)
بیو ظلم (کرکٹ و طہر اختیار) کوزمت اوس تم

وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لِيُوقِيَنَّهُمْ رَبُّكَ
أَعْمَالَكَمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۱۲﴾

فَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ
وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۱۳﴾

وَلَا تَزْكِنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا
فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ
مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿۱۴﴾

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا
مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَّ
السَّيِّئَاتِ، ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ﴿۱۵﴾

وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ
الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۶﴾

فَلَوْ لَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكَ
أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي
الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ
وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَ
كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿۱۷﴾

سید تھہ (مال و جائیداد کس لذتس منز آوری) تھہ
منز، تمہن او سوڈگی بختنہ آہتر اُس تہ مجرم سید۔
تہ چون پروردگار چھتہ ہرگز تھہتہ نہ (مکھ چپن)
بیتین کر ظاہر سستی ہلاک امیر باوہوڈ نہ تمہن ہندہ
بیتین آسن اصلاح (واجبہ کامہ) کرن واد۔

بیہ اگر چون پروردگار پنتی مرضی تانڈ کرہے
تہ سارہنے لاکن بناوہے اکے جماعت تہ (کلیاڑ
تمو کوز نہ تہ تہ تم چھن تہ ہتر عقلہ پیٹھ
تراور متو) تم روزن ہمیشہ اختلاف کران۔

تمو وراہی یمن پیٹھ چاڈ پروردگارن رحم کوڈمت
چھ تہ تمکی خاطر چھن تم پادو کرکری متو، تہ
چانس پروردگار سند یہ فرماون سید ضرور پور
(نہ) ہر پین جہنم بلاشک (تمو سارہوے) چھتہ
تہ انسانو سستی (بیم اختلافک باعث بان چھ)
تہ چون دل مضبوط کر نہ موکھ چھ اُسی پیغمبرن
ہنر سالم اہم خبر شریہ بروٹھو کتہ بیان کران تہ
یتہ (سورس) منز چھہ تم سارہ کتہ شریہ
پیٹھ نازل سپر مشر پیمہ یزیر تہ حکمتہ سستی
برتھ چھہ، بیہ چھہ نصیحت کرن واجبہ، تہ
مؤمنن چھہ تہندہ فرضی یاد پاون واجبہ۔

بیہ ون تہ تمہن لاکن بیم ایمان چھتہ انان نہ توہی
کرو پسنہ حالہ مطابق عمل۔ اُسی تہ کرو (پسنہ
حالہ مطابق) عمل۔

بیہ توہی (تہ) پیارو تہ اُسی (تہ) چھہ پیارن۔
بیہ آسمان وند تہ زمینک غاب چھہ صرف
اللہ (تعالیٰ) ہس حاصل تہ ساری معاملہ
چھہ آخر (انجام کرکری) تسو کن چھہ تھہ واپس
عزتوان۔ او کس کر تہ تہنرے عبادت تہ تسو
پیٹھ کر توکل تہ چون پروردگار چھتہ ہرگز
تمو اعمالو لہتہ غافل بیم توہی کران چھو۔

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ
وَأَهْلَهَا مُصْلِحُونَ ﴿۳۶﴾

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً
وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿۳۷﴾


إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ، وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ
وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا مَلَأْنَا جَهَنَّمَ
مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿۳۸﴾

وَكَلَّا تَقْصُ عَلَيْنِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ
مَا نُنَبِّئُكَ بِهِ فَوَادِكٌ، وَجَاءَكَ فِي
هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى
لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۹﴾

وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اَعْمَلُوا
عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، إِنَّا عَمِلُونَ ﴿۴۰﴾

وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿۴۱﴾

وَاللَّهُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَاللَّهُ يَرْجِعُ الْأَمْرَ كُلَّهُ فَاعْبُدْهُ
وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ
عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۴۲﴾



سُورَةُ يُوسُفَ : یہ سُوْرہ چھ کئی تہ بسم اللہ متبہ چھ آیتہ اکھ تہ تہ باہ امیر بیہ چھس باہ رکوع ۔

(پر چھس) اللہ (تعالیٰ) سُنَد ناو ہتھ (پران)
میس حدہ رُوْس کرم کرن وول (تہ) چھپرک چھپرک
رحم کرن وول چھہ ۔

پر اللہ چھس وچھن وول ۔ ہم چھہ (پزرس)
کھاشراون واجزہ کتاب ہندک آہہ ۔
اسر کور پیئو مقصد زبر یا کھو و پشناون
وول قرآن نازل بیہ نزل توہو (اتھ منز) قطعہ
(تہ سوچیں) کام بیہو ۔

اُسو چھہ شریہ نش (پرستہ کاشہہ کتھ) جاد زبر یا کھو
بیان کران ۔ بیکیانہ اسر چھہ یہ قرآن شریہ کن (پزہ)
موتہ ملامال) موی کتھ نازل) کورمت تہ امیر
برونٹھ اوکھ تہ (تمو تھپتھرو نشہ) بے تحسہ
لُوکن منز شابل ۔

(تہ کر سہ وقت یاد) نیلہ یوسفن پینس ما س
ونیاو زہ اسے میانہ سہہ ! (پزہ کرک زہ)
میںہ چھہ کاہ تارکھ تہ اختاب تہ زون (خوالیس
منز) وچھو ہتہ ۔ (تہ میںہ چھہ یہ کتھ تعبیس لایق
زہ) میںہ چھہ تم پاس برونٹھ کزہ سجدہ کران
وچھو ہتہ ۔

تو وولس میانہ ماطہ کونہر! پینڈ (دیہ) خواب وڈو
زہ نہ پینڈن باہن ۔ نہہ کرن ہم تہ شریہ متعلق
ضرور کاشہہ (مخالف) تدبیر ۔ شیطان چھہ بے شک
انسانہ سُنَد نوئے دشمن ۔

بیہ (ہتھ کزہ شریہ وچھت چھتھ) ہتھ کزہ
دیس شریہ چوں پروردگار تھو رتہہ تہ (اہلی)
کتھن ہند دیس شریہ علم تہ شریہ پیٹھ تہ یعقوب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①

الَّذِیْنَ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتٰبِ الْمُبِیْنِ ②

اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِیًّا لَّعَلَّكُمْ
تَعْقِلُوْنَ ③

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ
بِمَا اَوْحَيْنَاْ اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ ۙ وَ
اِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغٰفِلِیْنَ ④

اِذْ قَالَ یُوسُفُ لِاَبِیْهِ یَا اَبَتِ اِنِّیْ
رَاٰیْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَ الشَّمْسَ
وَ الْقَمَرَ رَاٰیْتُهُمْ لِيْ سٰجِدِیْنَ ⑤

قَالَ یُبٰیٰی لَا تَقْصُصْ رُءُیَاكَ عَلٰی
اِخْوَتِكَ فِیْ كِبٰیءٍ ذٰلِكَ كِبٰیءٌ اِنَّ
الشَّیْطٰنَ لِلْاِنْسٰنِ عَدُوٌّ مُّبِیْنٌ ⑥

وَ كَذٰلِكَ یَخْتَبِیْكَ رَبُّكَ وَ یُعَلِّمُكَ مِنْ
تَاوِیْلِ الْاَحَادِیْثِ وَ یُنِیْمُ نِعْمَتَهُ عَلَیْكَ
وَ عَلٰی اٰلِ یَعْقُوْبَ كَمَا اَتَمَّهَا عَلٰی

سدرن سارنہ (حقیقی) اولادن پیٹھ کر پتہ
انعام (پتھ کئی) پور۔ پتھ کئی تمہ تریہ بروٹھ
چاٹن دون بن ایلاھیس تہ اسحاقس پیٹھ پور
کوردت اوس۔ چون پروردگار چھ یقینا سبھا زانہ
ون (تہ) حکمتہ وول۔

یوسف تہ تسدرن باین (ہندن واقعاتن) منتر
چھ (بزر) ترھانڈن ولین ہند باپتھ بے شک
کئی یا تسانہ (موجود)۔

(یعنی تمہ وقتہ کین واقعاتن منتر) بیلیہ تمہو لینے
یوسف نہو باپو اکھ اکیس کن) وون (نہ) یوسف
تہ تسدر بوسے چھ بے شک سائس مائس سائہ کھو
جادو ٹاٹھ۔ بیلیہ زن اسی اکھ باضابطہ مضبوط عمت
چھ۔ سون مول چھ (اتھ کتھ منتر صاف) صاف
ظلمی منتر (ہندن آمت)۔

(اوکئی) یوسف کرلین (یا تہ) قبل تہ دیون
دور) کتھ بیلیس نکس منتر دارتھ۔ (اگر یہ
کر تہ) تہندس مائی سند دھیان روزہ توہہ
کن مہل تہ (یہ مہل کرنس کھو تہ تک چھنہ
کانہہ باعث تکیا تہ) امہ پتہ (توہہ کر تھ) بیلیو
توہی (بہی) اکھ نیک جماعت بیٹھ۔

(اتھ پیٹھ) تمہ منتر اکی وون والی وون نہ۔
توہی مہ کرلین یوسف قبل تہ ہر گاہ توہہ
کینہہ) کرنے چھو تہ تیلہ تر اولون سہ کتہ
کرپرس کرپس تل۔ کتہ قافلگ کانہہ
شخصاہ (وچھیس تہ) بیلیس تھ (تہ مار سہ
بقارے سپر تہند مقصد پور)۔

(چنانچہ) تمہ وون (مائس ترھتھ) سائہ بہیہ
تریہ کیا (تھنہ) چھ (اسہ متعلق) نہ تر چھکھ

أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ وَرَاسْحُقًا
إِنَّ رَبَّكَ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ ①

ع
۱۱

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ
لِّلسَّارِعِينَ ②

إِذْ قَالُوا لِيُوسُفَ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا
أَيُّنَا مِمَّا نَحْنُ غَضَبَةٌ إِنَّ آبَاءَنَا
لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ③

يَا قَتْلُوا يُوسُفَ وَأَاطِرْحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ
لَكُمْ وَجْهَ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ
قَوْمًا صَالِحِينَ ④

قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقَوْهُ
فِي غَيْبَتِ الْجَبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ
السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فُجُولِينَ ⑤

قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ
وَإِنَّا لَهُ لَنَّا صَحُونَ ⑥

تہ یوسف متعلق اسے پیٹھ پر تھامے کران۔ حالانکہ
اُسے چھ تہنکر (دل) خار خواہ۔

یکاہ سوزن سے اسے سوتی (سائس نمبر)۔ سہ
کھینچے (چینیہ تہ) کھلے ڈالہ پانچویں گنہ
تہ اُسے کرو تہس راجھ۔

تو (یعقوب) وونگھ تہنہر یہ (پانس سوتی) زمین
چھ بے شک میہ نمکین کران تہ بہ چھس (اتھ
کتھ تہ) کھوژان نہ تو ہی ماگڑھو اُمس ہنش
لا پروا تہ اُمس کھینے تن (کانہہ) رامہ ہونے (دیکھ)
تو ووس اہر باوجود نہ اُسی چھ اکھ ڈرتہ مغبوط
جماعت، ہرگاہ اُمس رامہ ہون کھینچے تہ (خدا
سنہر درہ) تیلہ آسو اُسی یقیناً کھائش مشہر
پسینہ وال۔

اڈ تیلہ سہ تمو پانس سوتی نیو تہ سہمتہ کوزکھ
فاصلہ سہ کتہ کرپس ڈوکس تہل تراونک (تہ
ہیارک اُسی تم بین اراد پور کران) تہ اسے سوز
(ہیارک) تس کن وھی (ہند ذریعہ یہ خود شجر)
نہ تہ (روزکھ بچتھ تہ اگر دوہہ) کرکھہ ہم امہ
کامہ ہنش آگاہ تہ ہمن اوس نہ بہ نکر تران۔
تہ کاپن آہ تم ودان ودان پشش ماس ہنش۔

تہ وون ہس زہر، سانہ بابہ! (پہرہ کرک تہ)
اسہ ہوت گڑھتھ (گنن تہ) اکھ اُکس بروٹھ
ہیر کر نہرک دون تہ یوسف کھین اُسی پشش
سامس ہنش تراوتھ۔ تہ (خدا یہ سند کرن سپد
یہ نہ) سہ نیو (اُک) رامہ ہونی کھپتھ۔ تہ
(اُسی چھو بہ زانان) اُک اُسی پز ہیارک تہ آسو
تہ بی بی نہ (سانہ کتھ) پڑھ۔

تہ تموانی تہنر گرتی (تس پڑھ انہر قاطر)
اُپز رتھ متھتھ۔ (یوس جوچتھ) تو وونگھ
(یہ کتھ پھنو پز) بلکہ چھ تہنہر نفسو تہنہر

أَرْسَلَهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَدُّ وَ يُلْعَبُ
وَرَأَى أَنَّهُ كَافِرٌ ۝

قَالَ رَبِّ لِيخْذُنِي إِن تَذْهَبُوا بِهِ
وَ أَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَ أَنْتُمْ
عَنْهُ غَافِلُونَ ۝

قَالُوا لَئِن آكَلَهُ الذِّئْبُ وَ نَحْنُ
عُصْبَةٌ لِأَنَّا إِذْ الْخَيْسِرُونَ ۝

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَ آجَمَعُوا أَن يَجْعَلُوهَا
فِي غَيْبَتِ الْعِجْبِ ۚ وَ أَوحَيْنَا لِيَمِينِهِ لِيُخَبِّرَهُمْ
بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝

وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ۝
قَالُوا يَا أَبَا نَارٍ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَ تَرَكْنَا
يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ ۚ وَ
مَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ۝

وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ۚ قَالَ
بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرًا
جَمِيلًا ۚ وَ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا

تَصِفُونَ ۱۱

با پتھد اکھ ترشہ (سچکھ) کتھ خوبصورت کرتھ ہاومہتر
(یوسف توہی کرتھ گامتو چھو)۔ وونہ چھہ زبر
پاٹھی صبر کرنے (میانہ خاطر مناسب) تہ یوسف
کتھ توہی باوان چھو تمہ (چہ پیش بند) خاطر
پنر اللہ (تعالے) ہے مدد ممکن۔ (تہ تسو
پسہ منگنہ تہ)۔

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ
فَادُلِيَ ذُلُومًا قَالَ يَبُشْرَىٰ هَذَا عَلَّامٌ
وَأَسْرُوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا
يَعْمَلُونَ ۱۲

تہ اکھ قافلہ او تہ تمہوسوز پین آب ان
دول۔ تمہ تر وو (اتھہ کرپس پیٹھ ٹھرتھہ) پین
بیکہ (تہ نیلہ تس کرپس منتر اکھ لڑکہ نظر
گھو) تہ تمہ وون (قافلہ والین) ہے
(قافلہ والہو!) خوشخبر (بوزو تہ وچھو) یہ پیٹھ
اکھ لڑکہ (میہ لوبکت) تہ تمہ (قافلہ والہو)
تھوو سہ اکھ تجارتی مال زانتھ کھتھ۔ تہ یہ
کیشرھا تم کران اسی تہ اوس اللہ (تعالے)
زبر پاٹھی زانان۔

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ
وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ۱۳

تہ (امہ پتہ نیلہ یوسفہ نو با یوسف رشہ
بیٹک بوز تہ) تمہ سن (سہ پین غلام ووتھہ)
کیشرھا کم (کاسہ) مونس یعنی کیشرن درہمن
(یکھنے قافلہ والین) تہ تم اسی امہ (معمول
مولہ) انتہہ بیکل بیہ مال۔

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ
لَا مِرَاتِيہِ اَكْرَمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ اَنْ
يَنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذَہُ وَكَدَّاءَ وَكَذٰلِكَ
مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْاَرْضِ وَرَلَّعَلِمَہُ
مِنْ تَاوِيلِ الْاَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ
عَلَىٰ اَمْرِہِ وَ لَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا
يَعْلَمُونَ ۱۴

تہ مصر (ہو روزن والہو) منتر تیمر شخصن سہ علو
ہیوت تمہ وون پسنہ خاندانہ زامہ ہند روزن
جاس بناو عزتہ واجز۔ ووسید چھہ زہیہ (لڑکہ)
اسہ سانہ خاطر نفع دہ وول یا بناوون اسی پہ
(پین) نیچھوے۔ تہ بیٹھ گئی بخش اسہ یوسف اٹھ
مکس منتر تھز تہ بجز۔ بیہ (ہیت اسہ تس یہ
عزیمک مقام) او کوز تہ میتھ زامہ تس خوابن
ہندہ تعبیر اصلیتک علم دمو تہ اللہ (تعالے)

ہس بیٹھ پستہ کتھ (ہندس پوڑ کرس) پوڑ
پوڑ طاقت۔ اماہ پوڑ واریاہ لاکھ چھنہ (بہ پڑر)
زاناں۔

تہ بیلیہ سہ پستہس قوتس (تہ مفیلوی ہنر وانسہ)
ووت تہ اسہ بخشش نس قاملہ (کرکٹ شعور)
تہ (خاص) علم، تہ (اصلی) نیکو کارن چھ اسی
یتھ پانٹھو جزا دیوان۔

بہ بیئیس (زنانہ ہندس) مرس منتر سہ (روزان)
اوس تمہ یوتھ تہند دوس تہنتر مرضی خلاف (اکھ)
کار کرناون تہ تمہ کر (مکانگر) ساری دروانہ
بند تہ وون نس، (میہ کن) ولہ۔ تمہ
وونس (بہ چھس یہ کرنہ نش) اللہ (تعالیٰ)
سند پناہ (منگان)۔ بے شک سہ چھ میون پروردگار
توڑ چھ میانی روزن جاعے بڑ بناو ہنتر۔ کتھ
چھنیہ یہے نہ نطالم چھنہ کامیاب سپدان۔

تہ تمہ کور تس متعلق (پین) اراد پوختہ تہ
توڑ (یوسن) تہ کور تس متعلق (پین) نس
نش بچتھ روزنگ (اراد پوختہ) تہ) اگر توڑ
پسنس پروردگار سہ گانتر نشا نہ وچھت آسہ
ہے نہ (تہ سہ ہیکہ ہے نہ بیٹھ اراد کر تھ)
یتھ کتھ (سپد) بیٹھ زن اسی نس نشہ پر تھ
اکھ) بڈی تہ بے حیائی (ہنتر کتھ) دور کرون
(تہ) سہ اوس بے شک سانہو مخلص (تہ پاک
کرنہ آمتو) بند و منتر۔

تہ تمہ دو شولے لارے بیر دروازس کن تہ تمہ
ترہینر او (اتھ لم لمہ منتر) تہنتر کرتی پوڑ کو
تہ (یتھ تمہ دروازس تام وا تہ) تمہ دو نو پو
وچھ نس (زنانہ ہند) خاوند برس نش (اتار)
(بیٹھ پوڑ) تمہ وون (پسنس خاوندس) نس
رشنس، چانہن گر کہن عتو بڈی (کرئی) بیٹھ

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۲﴾

وَرَادَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ
نَفْسِهِ وَعَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ
لَكَ، قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ
مَثْوَايَ، إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿۱۲﴾

وَلَقَدْ هَمَمْتُ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ
رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ
عَنْهُ الشُّوْءَ وَالْفَحْشَاءَ، إِنَّهُ مِنْ
عِبَادِنَا الْمُخْلِصِينَ ﴿۱۲﴾

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ
دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ، قَالَتْ
مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا
أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۲﴾

تسند سزا (گرنہ) تہ امیر ورآئی (کہنہ آسن)
 ز سہ پیہ قادی کرنہ یا (پیہ تس) بیہ کاشہ
 بکرلوٹھ غلاب (دینہ)۔

تمو (یوسفن) ووئس (کتھ چھنہ بیہ بلکہ) امیر
 بیٹھاو میہ اتھ میانہ مرضی خلاف (اکھ) فعل
 کرناون۔ تہ تہ (زنانہ ہندک) خاندانہ منتر و تر
 اک گواہن گواہی (تہ بیس زنانہ ہندک) پلو

چھ صحیح سلامت تہ بیس مہنوک سہنہ کرتی
 چھ تازے تھنہراو مہتر۔ لہذا (اگر امیر سہنہ
 کرتی برونٹھی کتھ تھینہ مہتر چھینہ تہ امیر
 چھ بوز وونت تہ بہ (مہینو) چھ یقینا اپزلیور
 تہ بوز وے بیس (مہنوک سہنہ) کرتی پتر
 کتھ تھینہ مہتر آسہ تہ بیس (زنانہ) چھ اپز
 وونت تہ بہ (مہینو) چھ یقینا پزلیور۔

لہذا بیلہ تمو (ہندک خاوندن) تسنہ (یعنی
 یوسفن) کرتی وچھ ز سہ چھینہ پتر مہ طرفہ
 تھینو مہتر تہ تمو وون (پسند آستہ) بیہ
 (بگڑ) چھ بے شک چانہ چالکی ستر (یاد پتر)
 تہ ہ زنانہ ہنر چالکی چھینہ یقینا سہما (بڈ) آسان
 اسے یوسف! تہ وٹھ بیس (زنانہ ہنر شیطا ذلیلا
 ہنر اچھ تہ (پتر وون پسند زنانہ) تہ منگ
 پسند قصورچ معالی۔ یقینا چھیکہ تہ نلو (تہ
 خطا کارو) منتر۔

بیہ وون تمہ شہر چھو کینہرو زنانو (اکھ اکس کننہ)
 عز پتر آستہ چھینہ بیس فلما اتھ تسنہ مرضی
 خلاف (بد) فعل کرناون بیٹھاو (تہ) تسنہ
 عشقن چھینہ تسنہ بلکہ کن سون منتر معاے کرتی
 اُسو چھن سہ (اتھ معالس منتر) ننہ وانہ فطی پیٹھ
 وچھان۔

تہ بیسہ تمہ تہنہر امیر وناونی ہنر خبر بوز تہ

قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ
 شَاہِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا جَإِن كَانَ قَمِيصُهُ
 قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ
 الْكَاذِبِينَ ۝۱۴

وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ
 فَكَذَّبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝۱۵

فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ قَالَ إِنَّهُ
 مِنْ كَيْدِكَ إِنَّ كَيْدَكَ عَظِيمٌ ۝۱۶

يُوسُفُ أَعْرَضَ عَنْ هَذَا ۚ وَ
 اسْتَغْفَرَ لِي لَذُنُوبِكُمْ لِأَنَّكَ كُنْتَ مِنَ
 الْخَاطِئِينَ ۝۱۷

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ
 الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ
 قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ
 مُّبِينٍ ۝۱۸

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ

تمہ سوز بہن ناد (تہ این سال کُرتہ) تہ تہند
 خاطر کوزن اکہ (خاص) ڈکودار مسد تیار (تہ
 نیلیر تمہ آہ تہ) تمہ مشر ویتن پر تہ اُکس کھینہ
 چیز کتاونہ باچتہ اکہ اکہ) شرکہ پتج تہ (یوسف)
 وون (نر) نون بروٹھ کن نیر۔ اڈ نیلیر، تمہ
 سہ وچھ تہ سہ وچھکھ (سبھاہ) تمہر شاپہ وول
 ہنن تہ (سہ وچھتہ عارتس پتہ) تہ وچھ پتہ
 اتھولہ تہ وونکھ (محض) اللہ (تعالیٰ) سبہ
 خاطر چھ (یہ شخص) کھوڑمت (بدکار کر تہ نشہ)
 پتہ پتہ ہرگز بشر۔ یہ (ہے) پتہ صرف اکہ
 عزتہ وول ملک۔

تمہ وون بہن (اتھ پتہ) یہ چھ تہ (شخص)
 نہیں متعلق توہر مینہ لعنت ملامت کڑ وشر چھہ
 تہ مینہ کریا یہ تہ اتھ تہنہ مرضی خلاف (اکہ بد)
 فعل کرنا وپنج کوشش ضرور۔ (امہ پوز) یہ
 روتہ پتہ پتہ تہ پتہ، تہ اُکس سوکتہ کڑ
 تہ نیلیر خاطر ہر اُکس حکم کران چھس، تہ سہ
 یہ بے شک جیلس لہر تہ یقیناً گڑھ سہ ذیل۔
 تمہ (یوسف) وون (یہ بوزتہ دعا کران تہ) میانہ
 پرور وکار! بیتہ کتہ کن سہ مینہ ناد کران چھینہ
 تہ نہست چھ مینہ جیل گڑھن جاو پند تہ اُکس
 تہند (بد نتیجہ دار) تدہ ہر تہ مینہ نشہ دُور کرکھ
 تہ خبر چھا ہر ماسپہ بہن کن مالدر تہ (ہے)
 سپہ بجاو اندر۔

اڈ تہند پرور وکارن بوز تہند دعا تہ تہند
 (بد نتیجہ دار) تدہ ہر کوزن تہ نشہ دُور۔ بے
 شک چھ تہ یس سبھہ ہے (دعا) بوزن وول
 (تہ نوکن ہنک حالات) زبر پتہ نون وول چھ۔

إِلَيْهِمْ وَاعْتَدَتْ لَهُمْ مِتْكَأً وَآتَتْ
 كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ
 أَخْرِجْ عَلَيَّهِنَّ ۚ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ
 أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا
 هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴿۳۷﴾

قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، وَقَدْ
 رَأَوْنَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَأَسْتَخَصِمْنَ، أَلَيْسَ لَكُمُ
 يَعْلَمُ مَا أُمِرُوا لِيُشْجَنَ وَ
 لِيَكُونَنَّ مِنَ الصَّغِيرِينَ ﴿۳۷﴾

قَالَ رَبِّ السَّجُنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا
 يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ۚ وَلَا أَتَصَدَّقُ عَنِّي
 كَيْدَهُنَّ أَضْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنَّ مِنَ
 الْجَاهِلِينَ ﴿۳۷﴾

فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ
 كَيْدَهُنَّ، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۳۷﴾

ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ
لِيَسْجُذَتْهُ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿۳۱﴾

وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجْنَ فَتَيْنِ، قَالَ
أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرِيتِي أَعْمَدُ خَمْزًا، وَ
قَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرِيتِي أَحْمِلُ فَوْقَ
رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ، نَبَّئْنَا
بِتَأْوِيلِهِ، إِنَّا نُرِكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۳۲﴾

قَالَ لَا يَا رَبِّ كَمَا طَعَامٌ تُرَزَقْنَاهُ
إِلَّا نَبَأْتُكُمْ مَا يَتَأْوِيلُهُ قَبْلَ أَنْ
يَأْتِيَكُمْ، ذَلِكَ مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي،
إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿۳۳﴾

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابْرَهِيمَ وَ
إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، مَا كَانَ لَنَا أَنْ
نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ
اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿۳۴﴾

يَصَاحِبِي السَّجْنَ، أَدْبَابُكَ مُتَّفَقٌ قُونَ
حَيْزُ آيَةِ اللَّهِ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿۳۵﴾

جو ہم ساری علامات و چھتہ پستہ آیت تمہیں (قوموں
کے سروران) میں سے (مصلحت) بوزنہ نہ تمہیں پز
(بدنامی دور کرنے) پاتھ (سہ) (یوسف) کی پز
کلمہ پاتھ ضرور یاد کرن۔

بہ سیدو قادی خالص منترت سستی بہ نہ جوان
(تر) داخل۔ یہو اندر اگر وونس (نہ) پھس
پن پان (خواب منتریتہ حالت منتر) و پھان
نہ بہ پھس و پھ چہ تھہ رس کڈان۔ تو دیو و ون
بہ پھس پن پان (خواب منتر اتھہ حالت منتر)
و پھان نہ میہ پھنہ پسنس کس پٹھ تروہ پھ پھ
یو منتر جانوار کھولان چھہ (تہ) یہو و ونو و ون
(نہ) ترو و ن اسہ بین (خابن) ہند تعبیر۔ اسہ پھتھ
تہ یقینا نیکو کارو اندر زانان۔

تو و ونکھ نہ و ون کینک کھن قومہ ہنہ پینہ
بروشٹ و ونو بہ قومہ تمیک (یعنی خابک) تعبیر
یہ (خابن ہند تعبیر کرنج قابلیت) چھہ (میہ
منتر) امر باعث نہ میانی پروردگان چھہ میہ
علم بخشمت۔ میہ چھہ تمہن لوکن ہند دین تروہ
یک اللہ (تعالیٰ) بس پٹھ ایمان چھہ تھولان بہ
چھہ تم آخرت (تر) انکاری۔

بہ میہ چھہ پسنن جد اجدادی یعنی ابراہیم
تہ اسحاق تہ یعقوب ہند طریق پاری اختیار
کر مہتر۔ اسہ چھہ کانہ چیز تہ اللہ (تعالیٰ)
ہند شریک ٹھہراونک حق۔ یہ (توحید چہ
تعالیم ہند میان) چھہ اسہ پٹھ تہ دین لوکن پٹھ
اللہ (تعالیٰ) ہند کہ فضل (تہندبو خاص فضل
منتر) اماہ پوز واریاہ لوکھ چھہ (تہندبن احسان
ہند) شکرانہ کران۔

اے میانہ قید خانہ کیو و ونو پستی باجوا! (کہ
اکس سستی) اختلاف تھون واری خدا چھا بہتر

کہے اللہ (تعالیٰ) میں کئے (تو) ساری غلیبہ
تھوں وول چھ ۵

تو ہی چھو نہ سے تراوتہ (کائنہ ہنر) عبادت
کران مگر کینتو (دھن) ناوو ورائی یک توہ
(پانہ) تو تہندو جد اجدادو بناوتھو تھا وک
متر چھ (تو) بیک ہند باپتھ اللہ (تعالیٰ)
ہن (تہندس تائیدس منز) کائنہ حجت تہ تارل
چھتر کر ہنر۔ (یاد تھاوو) فاصلہ کرن چھنہ
اللہ (تعالیٰ) ہس ورائی بیہ کائنہ تمام۔ (تو)
تو چھ یہ حکم دیت مت نہ توہر مہ کرو تس
ورائی کائنہ ہنر عبادت - یوہے چھ صحیح دین
ووڈ گوو واریاہ لاکھ چھتر زانان۔

اے میانہ قید خانہ کہو دوہو یوسو ستر باجوہ! (ووڈ)
بوزو پستہ پستہ خوابت تعبہ) توہہ منز آسرا کہ
پنسن آفس شراب چاوان تو دویم یہ صلیب
وتھ مارنہ - پتہ کہن جانا وار تہند کلہ پیٹھ (باز میتر)۔
(یوسو) بیتھ کتھ متعلق توہر پر شہان چھو تمیک
فاصلہ چھ کرنہ امت۔

تو (دوہو یو) منز وون (یوسن) تس یس متعلق
تو زون مت اوس نہر سے چھ رہائی لین وول،
(نر) پستس آفس نش تو نہ میانی (تہ) کتھ۔
پتہ مشتراو شیطان تس (آزاد گامتس تہنر)
تندس آفس نش (سو) کتھ تھو توہر (یوسف)
رؤد واریاہن ورین قید خانس منز۔

تو (کینتر کلہ پتہ) بادشاہن وون (پستہن دربارن)
ہر چھس (خابس منز) ستھ وینچر وینچر ٹھاو ووجھان
مین ستھ ہو چھتر توہر (ٹھاو) کھولان چھبہ
تو (بیہ چھس ووجھان) ستھ (تار تہر سب) ہیلو
بیہ کینتہ ہوکو ہنر (ہیلو)۔ اے نہ چھو لاکو!
ہر گاہ توہر خابن تعبیر کران چھو تہیدہ ٹوہو مینتہ

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ
سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ
اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ
أَمْرٌ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ
الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۰﴾

يَصَاحِبِيَ الشَّيْطَانِ أَمَّا أَحَدُكُمْ فَيَسْفِي
رَبَّهُ خَمْرًا وَآمَّا الْآخَرُ فَيُضْلِبُ
فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ وَذُضِيَ
الْأَمْرَ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِينَ ﴿۱۱﴾

وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا
اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَإِنْسَهُ الشَّيْطَانُ
وَكُذِّبَتْ رَأْسُهُ فَالَكِلْبُ فِي السِّجْنِ بِضَعِ
سِنِينَ ﴿۱۲﴾

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَعَاتٍ
سَمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعَ
سُنْبُلَاتٍ خَضِرٍ وَأَخْرَجِي سَبْعَ يَأْكُلُهُنَّ
الْمَلَائِكَةُ فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ
لِلرُّبِّيَا تَعْبُدُونَ ﴿۱۳﴾

میان رسد، چنانچه خابس متعلق صحیح حکم -
 تم و وونس (نر) - (یکم) چو پریشان خیال ہندو
 خاب تہ اُس چھو بیقین خابن ہنر حقیقت زمان

ادوتو (دو یو قیدلو) مشر تو میو نظمی مس
 لمبہر تہ (میو) اکہ مدتہ پتہ (یو سہ کتہ یوسف
 سہتی پتھن سپز مشر مس، سہ کتہ) تہ
 ہتس پتہ وون یہ کروہ تہ ہر امر کہ حقیقتہ
 نشہ خبر دار - لہذا میہ سوزو تو ہی (ایچ حقیقت
 معلوم کرنہ خاطر) -

تہ تم وون مرشہتہ یوسف نر (اے یوسف!
 اے بزیار! امہ وونو (امر خاکت تعمیر) سنن
 وینچن گاون چھید سہ لہر (مگاو) کھوان -
 بیہ سہ سبز میو تہ (تمن مقابل) چہ کینہ ہوگو
 ہتو (ہیلو) - میتہ زن بہ تمن لوکن نشہ مرشہ
 نر تمن سپر (خواہ کہ تعبیرک) علم -

تم وونس (نر) توہو کرو سنن ورن برابر منہ سان
 کاشتکاری لہذا (ہین ورن منر) یہ (کینہا)
 توہو لوہو - (سورے) مرشہ تمہ کین ہیلین ہتہ
 (یسنہ چھو نیسن) تمہا وون - ماسوایہ (تمہ) کم کینہا
 حصہ کہ یہ توہو کینو -

تمہ پتہ پن سہتہ (تنگی تہ قہلو) سہ وری یکم
 سہ (سورے اناج) کین یہ توہو تمن کینت
 بروٹھ پٹے سوزتہ مقومت آسہ و تمہ کم کینہا
 مقدر وراسے یہ توہو پس انداز کرو -

تو پتہ پیہ اکہ (تیمہ) وری میتہ مشر لوکن ہند
 (داد) فریاد بوزہ پیہ - تمہ سیدن (خوشحال)
 تہ تمہ حالتس مغزون تمہ اکہ اکیس ڈالہیلہ
 تہ (یہ تعبیر بوزتہ) بادشاہن وون تمن تہ

قَالُوا أَضَلَّوْا أَسْوَاطَ آلِهَاتِهِمْ وَعَمَّا بَدَّلُوا
 إِنَّا وَجَدُوا آلِهَاتِهِمْ خُجُرًا صُفْرًا ۝۱۲

وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ
 أُمَّةٍ أَنَا أُنْتِزَعُ مِنْكُمْ بِنَاؤِكُمْ فَأرسلون ۝۱۳

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ
 بَقَرَاتٍ سَمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ
 وَ سَبْعِ سُبُلَاتٍ حُضِرٍ وَأُخْرٍ يَبِيسَةٍ
 لَعَلِّي أَرْجِعَ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ
 يَعْلَمُونَ ۝۱۴

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابَّاجًا
 فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُّوهُ فِي سُبُلِيهِ إِلَّا
 قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ۝۱۵

ثُمَّ يَا قِ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعَ شِدَادٍ
 يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا
 مِمَّا تَخْتَصُمُونَ ۝۱۶

ثُمَّ يَا قِ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ
 يُغَارُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصُرُونَ ۝۱۷

وَقَالَ الْمَلِكُ اسْتُونِي بِهِ فَلَمَّا

تو ہی اُنہوں سے میری نش - او بیلیہ (بادشاہ مند)
 شہچہ بنتہ وول تس نش او تو تمو (یوسف)
 وون (تس ز) تر گرشہ پینس امس نش بیہ
 واپس تو تس پرٹو نہ پکو زانو پتو اتھ ترچاہ
 تہنتر حالت کیا چھہ (وون کین) لے شک چھہ
 میون رب تہنتر منصوبہ تر بر پاتھو زمانا -

(یہ شہچہ بوڑھہ) تمو (بادشاہن) وون یمن
 (زمانن ز) تمہنتر (سہ) معاملہ کیا اوس بیلیہ؟
 توہر یوسف اتھ تہنتر مرضی خلاف (اکھ بد)
 فعل کرنا و پچ کوشش کرنا یو
 تمو وونس تر سہ (یوسف) اوس اللہ (تعالے)
 سہنتر خاطر (بدکاری نشہ) کھنتر مت (تر)
 اسر سپدے یاہ نہ تس منتر کا نہہ تاکارگی
 (ہنتر کتھ) معلوم - (یہ بوڑھہ) عزیز نہ آشنہ
 وون تر پتر چھہ وون واری نہنتر مت - بیہ
 اس تس اتھ تہنتر مرضی خلاف (بد)
 فعل کرنا و پچ کوشش کرنا تر سہ چھہ بیشک
 پتر یار بو اندہ -

(تر یوسف) وون تس پتر تر (یہ کتھ پچھہ
 (میہ) او کتھ وون وون تر تس (ہنتر س) سپدہ
 خیر نہ میہ کور تر (تہنتر) غیر موجود منتر
 تہنتر حقس خیانت - بیہ یہ نہ (میہ چھہ ایمان
 تر) خیانت کرن والہن ہنتر تدہ پتر چھہ اللہ
 (تعالے) کامیاب کران -

بیہ چھس نہ ہر پینس نفس (پر پتھ کتھ
 قہمہ چہ فطری نشہ) چھہ گنتران - بیکیا ز انسان
 نفس چھہ ناکار کتن ہنتر حکم وون پتھ سبھا
 دلیر - امر واری تر یس پتھ میون پروردگار
 رحم کر - میون پروردگار چھہ (گنورین پتھ)
 پروردگار وول (تر) پتھ کر پتھ کر رحم کرن

جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ
 فَسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَعْنَ
 أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿۱۱﴾

قَالَ مَا خَطْبُكُمْ إِذْ رَأَوُنَّ يُوسُفَ
 عَنِ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا
 عَلَيْهِ مِنْ سُوْءٍ وَقَالَتِ امْرَأَتُ
 الْعَزِيزِ إِنِّي حَصَّصْتُ لَأَنَا
 رَأْدًا ثَمَّ عَنْ نَفْسِي لَإِنَّهُ لَمِنَ
 الصَّادِقِينَ ﴿۱۲﴾

ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ
 وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِبِينَ ﴿۱۱﴾

وَمَا اِبْرِي نَفْسِي بِإِنَّ النَّفْسَ
 لَا تَأْرَدُ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي
 غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۲﴾

وول۔

تہ باوشہن ویت حکم زر سہ (یوسف) انہن
میرنش بیٹہ زن بر سہ پسنہ (یعنی خاص کاہنوں)
باپتہ ثاران۔ بیلیہ (یوسف آوتہ) تو (بادشاہن)
کرتس سوتو کتہ باتتہ۔ تہ (سہ) وچین پرپتہ
زنگہ قابل تہ (وونس زرتہ آسکھ آزد (کہ
پیٹہ) اسرنش عزتہ وول تہ مرتبہ وول بیہ
قابل اعتماد انسان (گنڈراونہ یوان)۔

(اتتہ پیٹہ) وون (یوسفن) زر میہ کزو ملکین خزان
پیٹہ اسر مقدر۔ یکیار بر چیس بے شک (خزان ہنہ)
جاد بڑ حفاظت کرن وول تہ (اقتصادیاتک علم)
زیر پانچو زان وول۔

تہ پتھن بختو اسہ (مناسب حالات یاد کرتہ)
یوسف (تتہ) ملک منہ اکھ اختیار وول عہدہ
سہ بیٹہ (کنہ) بیٹہ ہے (پسنہ مرضی مطابق)
روزہ ہے۔ آسہ بیس۔ پتھان چہ (بیٹہ ذنیہ ہس
منزہ) چیس پسنہ رحمتہ منہ (حصہ) دوان۔
تہ آسہ چہ میکو کان بند اجر ضایع کران۔

تہ (بیٹہ) دنیاوی اجر علاوہ (آینہ) زندگی بندہ
بدلہ آسہ ایمانہ والہن تہ اللہ (تعالے) سہ
تقویٰ پران والہن کیٹ (کتہ کور) کھتہ۔

تہ یوسفو باہی (تہ) آہ (تتہ) قوطہ کس زماش منہ
تتہ ملکس منہ (تہ) تہن دربارس منہ گے جاہر
تہ تو پر بڑا وڈو تم (وچھوئے) مگر، تو ہو کتہ
سہ پر بڑا وڈو۔

تہ بیلیہ تو تہنہ سامانہ وڈو تم (واپسی خاطر تیار
کری تہ (ہن) وون (زہ) تہن مال بندہ طرفہ
یس توہ اکھ بوے چھو سہ (تہ) ائی زیون (بیہ
لہ پانس سوتو) میہ نش۔ کیا توہی چھو نا وچھان
زہر چیس مینٹر بلورہ دوان تہ ہر چیس (بیہ)
مہزان داری کرن والہو منہ سارہ وپے کھو تہ رت۔

وَقَالَ الْمَلِكُ اِتُّونِي بِهَاسْتَخْلِصُهُ
لِنَفْسِي ۚ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ
لَدَيْنَا مَكِينٌ اَمِينٌ ﴿۵۵﴾

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْاَرْضِ ۚ اِنِّي
حَفِيظٌ عَلَيْمُ ﴿۵۶﴾

وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْاَرْضِ ۚ
يَتَّبِعُوْا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ۚ نُّصِيبُ
بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ اَجْرَ
الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۵۷﴾

وَلَا اَجْرُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿۵۸﴾

وَجَاءَ اِخْوَتُهٗ يُوسُفَ فَاذْخَلُوْا عَلَيْهِ
فَعَرَفُوْهُ وَهُمُ لَهٗ مُنْكَرُوْنَ ﴿۵۹﴾

وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهٰزِهِمْ قَالَ
اِتُّونِيْ بِاِخْتِمْ مِّنْ اَيْدِيْكُمْ ۚ اَلَا
تَرَوْنَ اَنِّيْ اُذِي الْكَيْلِ وَاَنَا خَيْرُ
الْمُنْزِلِيْنَ ﴿۶۰﴾

تہ اگر تو ہی سہ میہ بنش اذن و نہ تہ دراز زبو
نہ (میہ بنش آسہ تہ توہہ کیت تولتہ و تہ ہاتھ کپڑ
تہ توہی بیزبو نہ (تیلہ) میہ نکھہ۔

تہو ووتس آسہ کو ضرور کوشش تندر مول تس
متعلق ناو واپس تہ آسہ روزو بے شک (یہ کام)
کرتھہ۔

تہ تہو (یوسف) وون پسنہن غلامن نہ میہند مال
تھاوو (واپس) پسنہن کنن مغز۔ شاید میہ
بتم واپس پسنہن گر والہن بش گرتھن تہ یہ
(احسان) مانن (تہ) شاید پسنہن تم بیہ (امی کڑا)
واپس۔

او نیلہ بتم پسنہن ماس بنش واپس گے تہ وونکہ
(تس ز) اے سانہ بیہ! آسہ بچکھ (آئینہ ہاتھ)
انا جہر نشہ محروم کرکھ متو۔ او کوز سوزن (وونہ)
سون بوسے (بن یا پین تہ) اسہ ستو نہ او
ہیکو آسہ بیہ اناج ہتھہ۔ تہ آسہ کرو بلا شک تس
راچھہ۔

تہو وونکہ (توہی وونہ) کیا بہ ہیکہ نا یہ توہہ
حوالہ کرتھہ؟ یہ نہ ہتھ نہ امیک (تہ) نیہر
سے نتیجہ بیس میون توہہ آسہ سند بوسے حوالہ
کرنک دریاو۔ وونہ گووا (بہ چھسن یہ توہہ حوالہ
کران مگر یہ پڑھ ہتھہ نہ توہی نہ ہیکہ) اللہ
(تعالیٰ) ہے چھہ راجھہ کن دول تہ سے چھہ سار
وسے کھوتہ جاوہر گم کرن دول۔

تہ نیلہ تو پین سامانہ مشروو تہ وچکھ نہ تہند
مول چھہ تمس واپس کرنہ آمت۔ تہو وون (اتھہ
پٹھہ پسنہن ماس) اے سانہ بیہ! (اسہ کھوتہ
بڑا) بیکھ کوسہ خواہش ہیکہ ہو آسہ کرتھہ۔ (وچھو)
یہ چھہ سون مولہ رقم یہ (تہ) چھہ اسہ واپس کرنہ
آمت تہ (اگر سون بوسے اسہ ستو بیہ تہ) آسہ
دو پسنہن گر والہن نوراکگ سامانہ اُنھہ تہ پسنہن

فَاِنْ لَّمْ تَأْتُوْنِيْ بِهٖ فَلَا كَيْدَ لَكُمْ
عِنْدِيْ وَلَا تَقْرَبُوْنِ ۝۱۲

قَالُوْا سَنُرٰوِدُ عَنْهُ اٰبَاہٖ وَاِنَّا
لَفَاعِلُوْنَ ۝۱۳

وَقَالَ لِفَتٰیہِہٖ اجْعَلُوْا بِضَاعَتْہُمْ
فِيْ رِحَالِہُمْ لَعَلَّہُمْ یَعْرِفُوْنَہَا اِذَا
اِنْقَلَبُوْا اِلٰی اٰہْلِہُمْ لَعَلَّہُمْ
یَرْجِعُوْنَ ۝۱۴

فَلَمَّا رَجَعُوْا اِلٰی اٰبِیْہُمْ قَالُوْا يَاۤ اَبَانَا
مُنِعَ مِنَّا الْكَيْدَ فَاَرْسَلْ مَعَنَا اَخَانَا
نَکْتَلْ وَاِنَّا لَهٗ لَخٰفِظُوْنَ ۝۱۵

قَالَ هَلْ اٰمَنُکُمْ عَلَیْہِہٖ اِلَّا کَمَا اٰمَنْتُکُمْ
عَلٰی اٰخِیْہِ مِنْ قَبْلُ ؕ قَالَلّٰہُ خَیْرٌ حٰفِظًا
وَّہُوَ اَرْحَمُ الرَّحِیْمِیْنَ ۝۱۶

وَلَمَّا فَتَحُوْا مَتَاعَہُمْ وَجَدُوْا بِضَاعَتْہُمْ
رُدَّتْ اِلَیْہِہُمْ ؕ قَالُوْا يَاۤ اَبَانَا مَا نَبْغِیْ
ہٰذِہٖ بِضَاعَتْنَا رُدَّتْ اِلَیْنَا ؕ وَنَمِیْرُ
اٰہْلِنَا وَنَحْفَظُ اَخَانَا وَنَزَدَادُ کَيْدَ
بَعِیْرِ ؕ ذٰلِکَ کَيْدٌ یَّسِیْرٌ ۝۱۷

بابیس کرو (پرستہ رنگ) راجھ تہ اکیس وونٹہ
سند بود انورہ۔ یہ مقلد (یوسف) اسہ پتھے میلہ
پھینے بڑ نعمت۔

توڑ وونکھ بہ سوزن تہ یہ نہیے توہہ ستو لویانہ
نہ توہی میہ ستو اللہ (تعالیٰ) سند قسم ہاوتھ
یہ پوہختہ وعدہ کریو نہ توہی انیون یہ منورہ میہ
نش (وایس) الاہ گاہ توہی (پانہ کینہ مشکبیس
منزولستہ بیو۔ اہ بیلیہ رتوتس پین پوہختہ
قول دیت تہ توڑ وونکھ یہ کینہ شہا) اسی (وونڈ
کین) وناں چھ۔ اللہ (تعالیٰ) چھ تمیک
بکران۔

بیہ وون توڑ (تجن) اسے میانہ گوہرو! توہی
اثری رلو نہ شہر کرہ اکی دروازہ یکوٹے اندر بلکہ
اثری زوہ بیون بیون دروازہ کونہ تہ بہ ہیکو نہ
توہہ اللہ (تعالیٰ) اہس (یعنی کینہ رہیہ) نشہ
(کچاوتہ خاطر) کینہ تہ بکار پتھ۔ نا صلہ کرن چھ
(بکر) اللہ (تعالیٰ) سترے کام۔ تسو پیٹھ
چھ میہ توکل کورمت تہ سارے توکل کرن والہن
پنہ تسو پیٹھ توکل کرن۔

تہ بیلیہ تہ طریقہ مطابق بیلیک محکم تہندہ مالہ
تجن ویت مت اوس، تم (بمصر) اندر داخیل
سپدے پہ۔ تیس (یعقبوس) اوس تہ یہ طاقت
نہ اسہ ترکیبہ ستو ہیکہ ہے سہ تجن (نیچوہن)
خدائی تقدیر نشہ کچاوتھ، مگر یہ اس یعقوبہ
سندہ وپس اھ منک یوسف توڑ (تیکھن) پلوہ
کڑ۔ تہ چونکہ اسہ اوس تس (یعقبوس) علم دیت
مت سہ اوس بوڑ علمہ وول۔ اماہ پوڑ واریانہ

قَالَ لَنْ اُرْسِلَكَ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوْنِ
مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَاْتُنِيْ بِهٖ اِلَّا اَنْ
يُّحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا اَتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ
قَالَ اللّٰهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿۵۱﴾

وَ قَالَ يَبْنِيْ لَا تَدْخُلُوْا مِنْ بَابٍ
وَ اَحَدٍ وَاَدْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ
وَ مَا اَغْنِيْ عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ اِنْ
الْحُكْمُ لِلّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَّ عَلَيْهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿۵۱﴾

وَ لَعَدَدَخَلُوْا مِنْ حَيْثُ اَمَرَهُمْ اَبُوْهُمْ
مَا كَانَ يُغْنِيْ عَنْهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا
حَاجَةٌ فِيْ نَفْسٍ يَّعْقُوْبَ قَضَاهَا وَاِنَّهٗ
لَذُوْ عَلُوٍّ لِّمَا عَلَّمْنَهٗ وَ لٰكِنْ اَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۵۱﴾

۱۲ حضرت یعقوب اوس یقین سپد مت نہ مصرس منزاناج با گراون وول چھ یوسف، لہذا تہو
کوز یہ تدبیرشید تیکھن زبن یا مہن ہیکہ یوسف ستو اگ ملاقات کرکے موٹو لبتہ۔

لوکھ چھینتر (یہ حقیقت) زانان۔
 تہ (تیکھن) پیلو تم یوسفس بروٹھ کنہ حمبر
 سپدر تہ تموزہ پستس بایس پانس ریش جاعے
 تہ وون (تس تر) یقینا چھس بے چون (روومت)
 بوے لہذا یہ تم کران رودی موتی چھو تمہ کوزم
 مگرھہ (دووز) تہ ملین۔

پتہ پیلو تموزہ تہندسا مانہ وقہہ تم والیسی خاطر
 تیار کرکو تہ تموزہ تموزہ (پنن تریش چہنگ اکھ)
 ٹوزر پیلو (تہ) پستس بائی ستر مگرہ مشر
 پتہ (سپد پتہ) کو تام پار یہ وائل (یعنی شاہی
 کارندن) کوز اعلان۔ اسے قافلہ والہو! توہر
 چھو بے شک تروہ۔

تمو (یوسف نمو باہو) وون رمن (شاہی کارندن)
 کن بھہ کر تھ نہ توہر کس چہر چھو روومت
 باسان؟

تمو وونکھ، اسہ چھہ اناج میننگ شاہی مینتر بانہ
 روومت تہ ییس شغوس سترھا بندتھ) انہ تہ
 تہند (عام) اسہ اگس وونہ بارس برابر (اناج)
 تہ (پاریہ وائل وون بیتہ تر) بہ چھس تمیک
 (یعنی الغامک) ذمہ وار۔

تمو وونس (نر) اللہ (تعالیٰ) ستر درہے۔ توہر
 پھو زانان نہ اسو آپہ پنڈیوت، او خاطر نہ
 نکس مشر کرو فساد تہ نے پھو اسی تروہ۔

تمو وونکھ (نر) اگر توہر اپنیا کر شاپت سپدے و
 تہ تمیک سزا کیا اسہ؟

تمو وون (نر) تمیک سزا چھہ یہ نہ ییس شغوفہ
 بند سامانہ مشر سہ (بانہ) لہنہ پیا، سہ اسہ
 (پانے) تمیک بدلہ۔ اسی (لوکھ) چھو فل ملین

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوْى إِلَيْهِ
 أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ
 بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۰﴾

لَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَاذِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ
 فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا
 الْجَائِرُ إِنكُمْ لسَارِقُونَ ﴿۱۱﴾

قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقَهُونَ ﴿۱۲﴾

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَ لِمَنْ
 جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿۱۳﴾

قَالُوا تَأْتِيهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا
 لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ﴿۱۴﴾

قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ
 كَذِبِينَ ﴿۱۵﴾

قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وَجَدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ
 جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿۱۶﴾

۱۰ صواع، چھو تھہ باس و تان یس تریش چہنہ باپتھ تہ چھہ استعمال سپان
 تہ مینتر بانہ تہ چھہ آسان۔

یتھے کتو سزا دوان۔

لہذا تمھو (پاریہ واولی) ہیوت تہسیرس (لیجے یوسف
بش) بایہ سترو بوہرلو بروٹھ ہمن (باقین)
ہنن بوہرین (وہچین)۔ پتہ کورٹن تہسیرس بایہ
ستر بوہر مشر (وہچتھ) سہ (بانہ)۔ تہچاٹھ
کور اسے یوسف نہ خاطر (اکھ) تہسیر (تہ) سہ
ہیکہ ہے نہ بادشاہ ہنس تونو نس مشر (روزتھ)
پسنس ہائیس اللہ (تعالے) ہند تہسیر وراہی

رکاوتھ۔ اسیس ہتھان چھ تہس چھ درجات
ہند کران۔ تہ (حقیقت چھینہ تہ) پرتھ علمہ
وایس ہور چھ (تہند کھوتہ) جاد علمہ واجن ہستی (موجود)
تہو (تہندو ہایو) وون (نہ) ہراہ اسی تہور اسے کور
تہ (کیتھ تعجب چھینہ ہیکار) اسی ہند اکی بایہ تہ چھ
تہور کور ہتھ۔ اتھ پتھ تھو یوسفن (پتہ) وچ
کھتہ (پسنس ہس مشرے کھتہ تہ ہمن ہنس
کورن نہ تہ واشگاف (وہو کور ولس مشر) وونکھ
تہو (لوکھ) چھو بڑی بدبخت تہ یوسہ کھتہ تہو
ونان چھو۔ سہ چھ اللہ (تعالے ہے) بہتر زانان۔
تہو وون۔ اے سردار! ایس چھ سہٹا ہر مول
تہو رنی تون ایس بدل اسے مشر کانہہ اکھ
(دوہ سون مول یچھ کتو اسی ہند ہدیہ ہتھ بچھ)
اسی چھو تہہ بے شک احسان کرن والہو مشر
مفتراوان۔

تہو وونکھ تہس شخصس وراہی ہئیس ہنس اسے
ہینن سامانہ لوہ، کانہہ ہیکھ رتہ ہتھ چھ (اسی)
خدیہ سند پناہ منگان۔ اسی تہ کرو تہ اسی
سپو بے شک ظلمو اندہ۔

اد ہئیلہ تہس (یوسفس) ہنس نا وہ میدھے
تہ پانہ وراہی کھتھ کران گے (لوکن ہنس) تہہنہ
تہو مشر وون (اد) بڑی اکی (نہ) تہہ چھو

فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ آخِيهِ ثُمَّ
اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ آخِيهِ كَذَلِكَ
كَذَّبْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ
فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ
نَزَعُوهُ مِنْكُمْ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي
عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿۱۳﴾

قَالُوا إِنْ يَشِرْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ
قَبْلُ فَاسْرَهَا يُوْسُفُ فِي نَفْسِهِ
لَمْ يُبْهِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ
مَكَانٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿۱۴﴾

قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا
شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدًا مَكَانَهُ
إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۵﴾

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا
مَتَاعًا عِنْدَهُ إِتْرَادًا نَظْلِمُونَ ﴿۱۶﴾

فَلَمَّا اسْتَأْذَنُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا
قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ آبَاكُمْ
قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ

مِنْ قَبْلُ مَا فَزَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ ۚ
فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِي
أَيُّ أَوْ يَحْكَمَ اللَّهُ لِي ۚ وَهُوَ خَيْرُ
الْحَاكِمِينَ ﴿۷۰﴾

نا معلوم نہ تہندکر مال چھو تو ہم بوجہ خیرت و عہد
ہوتی تھی یس اللہ (تعالے) ہس (یعنی تہندس
قسمس) سہو (تاکہ کڑھ) چھ۔ بیہ یہ نہ
(امیر) بروٹھ چھو تو ہم یوسفس سلسس منز
تہ لاپرواہی کرئٹھ۔ اوکھن یاتانی نہ میون
مول میہ (خاص طور پانٹھ) اجازت دیہ یا پانٹھ
اللہ (تعالے) میانس حقس منز فاصلہ (کریج
کانہہ وقتہ) کڑ (نہ)۔ ہر میہ نہ ہرگز میہ ملکہ
منز تہ سہ (اللہ تعالے) چھ ساروہے فاصلہ
کرن والہو منز مہیتر (فواصلہ کرن وول)۔
توہی کڑھو پستہس مایس کن واپس تہ (کڑھتہ)
وہو (تس نہ) سانہ بیہ! پانٹھ (لوکھڑ)۔ نیچو
چھ منز رڈ کڑھتہ تہ اسہ چھ تی (خسیہ)
وہنمت۔ مییک اسہ (ڈانٹ) علم چھ۔ تہ اسی ہیکہ
ہونہ (پسنہ) نظر ہتہ پوسشید، معالجہ راجھ
کڑھتہ۔

لَا جُعُوا إِلَيَّ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ
ابْنَكَ سَرَقَ ۚ وَ مَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا
عَلِمْنَا وَ مَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ﴿۷۱﴾

تہ توہی کڑو (بے شک بستی ہندہ) اتن (لوکن)
ہش تہ (کڑھتہ) معلوم بین منز اسی۔ بیہ
تہہ قافلہ ہش (تہ) ہتہ سہو اسی آہو چھ
تہ پڑھ کڑو زہو زہو اسی چھ (اتھ کتھ منز)
پڑ یارک۔

وَسَّئِلَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْحَيْزِ
الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا ۚ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿۷۲﴾

تہو (بیقون) وونکھ (نہ) یہ کتھ چھنہ درست
ہوزنہ یلان) بلکہ (میہ چھ ہوزنہ تکان نہ) تہندکر
نفسن چھو توہہ کانہہ کتھ نرہش شکل کڑھتہ ہوہتہ
ہس ووزی چھ میانہ خاطر ہی رودمت نہ ہر کہ
رہی پانٹھ سپر۔ شاید اللہ (تعالے) ماہنہ
اتن سارہنہ میہ ہش۔ بے شک چھتے یس
رہی پانٹھ زان وول (تہ) حکمتہ وول چھ۔

قَالَ بَلْ سَأَلْتُ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ أَهْرَاءَ
فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۚ عَسَىٰ اللَّهُ أَن
يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ
الْحَكِيمُ ﴿۷۳﴾

تہ تہو چھہ تہند کہہ بین ہتہ تہ (اند کن
کڑھتہ کورن دما تہ) ووزن اے (میانہ

وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ ۚ قَالَ يَا سَفَىٰ عَلَىٰ
يُوسُفَ ۚ وَابْيَضَّتْ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزْنِ

فَهُوَ كَظِيمٌ ﴿۵﴾

خدا ہے!) یوسف سب سے بہتر ہے۔ یہ سب سے بہتر ہے۔
 بہتر ہے فریاد کران۔ تیرے غم کو باغشہ آہ
 تہنن اچھن مقرر اُتھر بکھرے۔ مگر سہ اوس
 پنن عم (ہمیشہ پننس ولس) اندرے دباوت
 تھاوان۔

قَالُوا تَاللّٰهِ تَفْتُوْا اِنَّكُمْ لَيُؤَسَّفٰ
 حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَصًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ
 الْهٰلِكِيْنَ ﴿۵﴾

تو وونس (نر) اللہ (تعالیٰ) ستر درے (اُس
 چھ بی زانان نر) توہی رُوڑو یوسف کتھ
 کران یوسف نر توہی ہمار گڑھو یا رحمت
 سیدو۔

قَالَ اِنَّمَا اَشْكُوْا بَنِيَّ وَحُزْنِيْ اِلَى اللّٰهِ
 وَاعْلَمُوْا مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۶﴾

تو وونکھ (نر) بر چھس پنسنہ پریشانی ہند
 تیرے غم کو فریاد اللہ (تعالیٰ) ہے بر وٹھ کتھ
 کران تیرے چھس اللہ (تعالیٰ) ہند طرف سہ
 علم تھاوان لیس نر توہی تھاوان چھو۔

يٰۤبَنِيَّ اِذْ هَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ
 يُوسُفَ وَاَخِيْهِ وَاَلَا تَأْيِسُّوْا مِنْ دَرَجِ
 اللّٰهِ اِنَّهٗ لَا يَأْيِسُ مِنْ دَرَجِ اللّٰهِ اِلَّا
 الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿۶﴾

اے میا ہو گوبو! گڑھو تیرے (گڑھو) ترھا ندیون
 یوسف تیرے سہ بوس۔ تیرے اللہ (تعالیٰ) ہند رحمت
 نشہ مہ سپدو ناوومید۔ (اصل) کتھ چھنی بی۔ نر
 اللہ (تعالیٰ) ہند رحمت نشہ چھتہ کافر لوکو وای کاتھ
 انسان) ناوومید گڑھان۔

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا يَا اَيُّهَا
 الْعَزِيْزُ مَسْنَا وَاَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا
 بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَمَةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ
 وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِي
 الْمُتَصَدِّقِيْنَ ﴿۷﴾

لہذا جب آپ پر گئے (اپس بیتہ بی) تس (یوسف) بروٹھ
 کتھ حاضر سپدی تیرے وونکھ (تس نر) اے سردار
 اس تیرے سانس (سار ہے) عباس چھو (سخت) سٹکی
 کاتھ تیرے اسر چھ (سبھا) کم رقم لہذا دیو توہی
 اسر احسان کتھ سارے ضرورت مطابق اناج بیہ
 دیو خیرات پانٹو (کیشرھا جاو جاو پھن تیرے)۔ اللہ
 (تعالیٰ) چھ خیرات دیو والین بے شک بوڈا جردون۔
 توہی وونکھ توہی چھو معلوم (پنن سہ سلوک) ہیس
 توہی یوسف تیرے تہنس بایس ستر کر یوو و۔ نر

قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَاَخِيْهِ اِذْ اَنْتُمْ جَا هٰلُوْنَ ﴿۷﴾

سہ عام ترجمہ کارو چھ امیک لفظی ترجمہ کورمت نر حضرت یعقوب سہ اچھ سفید۔ عربی لغت
 منز چھ امیک معنی اچھن ہند اشتر عترتی برنہ یں تیر آسان۔

توہر (پستہ کرتوتہ چہ ناکارگی ہستہ) انزان اُسو۔
تمو وونس (ز) کیا یوسف ما چھو پڑی پاتھ توہی؟
تمو وونکھ او، بے جھس یوسف تہ یہ چھ میوں
بوسے۔ اللہ (تعالے) ہن چھ اسر پیٹھ فضل کانت
پڑکتھ چھیہ میہہ زلیس شخص تقویٰ پرارہ تہ تہ
کر تہ اللہ (تعالے) چھتہ تعین احسان کرن والہن
ہند اجر زاہ ضایع کرن۔

تمو وونس۔ اسر چھ اللہ (تعالے) ستر درے۔
اللہ (تعالے) ہن چھو توہہ اسر پیٹھ بے شک فقیت
ڈر مہر تہ اُسو چھ یقیناً خطا زرد۔
تمو وونکھ وونڈی سپر تہ توہہ پیٹھ کتہ قسح لا مت
تہ سرزنش لہ۔ اللہ (تعالے) بخشو توہہ۔ تہ
سہ چھ سار وے رم کرن والہو منہر جاو رم کرن
وول۔

توہی نی زو میانی یہ سرتو تہ یہ گرشہ میانس ماہس
برونٹھ کتہ تھاوڈی۔ تم گرشہن (امہ سرتو مسہ
متعلق) سار وے کتھو ہستہ واقف تہ تہند گرشہ
پن سوسے خاندان (تہ) مینہ لٹس اتن۔

یئیر (تہند) کارون (مصر پیٹھ) دراد تہ تہند
مال وون (لوکن ز) میہ چھو بے شک یوسف
خوشبوے یوان۔ سیتھہ توہی وونڈی مینہ اپراون
ہنیو۔

تمو وونس تر تر چھاکھ بے شک پستہ پرانہ غلطی
اند (بیہوشمت)۔

اویٹھ (یوسفہ اتھ پیچ) توخیر دہ وول (شخص)

قَالُوا يَا اِنَّكَ لَا تَبُوَسُفُ ؕ قَالَ اَنَا
يُوسُفُ وَهٰذَا اَخِي زَقَدْنَا مِنَ اللّٰهِ عَلَيْنَا
اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا
يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ⑤

قَالُوا تَا تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَك اللّٰهُ عَلَيْنَا
اِنَّ كُنَّا لَخٰطِئِيْنَ ⑥

قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ؕ يَغْفِرُ
اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّحِيْمِيْنَ ⑦

اِذْ هَبُوْا بِقَوْمِيْصِيْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى
وَجْهِ اَيِّ يٰٓاٰتِ بَصِيْرًا ؕ وَ اَتُوْنِيْ
بِاَهْلِيْكُمْ اَجْمَعِيْنَ ⑧

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ اَبُوْهُمْ اِنِّيْ لَاجِدُ
رِيْحَ يُوْسُفَ لَوْلَا اَنْ تُفَيِّدُوْنِ ⑨

قَالُوا تَا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِيْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ ⑩

فَلَمَّا اَنَّ جَاءَ الْبَشِيْرُ اَلْقَاهُ عَلٰى وَجْهِه

لہ لاتثرب علیکم الیوم۔ ہم لفظ وبتھ کور حضرت یوسفن سینین یان معاف تہیکے
لفظ وبتھ کور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ فتح مکہ کہ دوہہ سارنے کہہ پن لوکن معاف۔ خاص
گرتھ سپنہن بترین دشمن تہ تہندہ اولاد تہ لہذا تہندہ معاف کرن اوس حضرت یوسفہ معاف کرتہ ہستہ سہلہ
تھہ پایہ۔

فَارْتَدَّ بِصَيْرًا ۖ قَالَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ ۖ
رَبِّيَ أَغْلَبُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۰﴾

حضرت یعقوبس (نش) او۔ تم تو تھا و سو (کرتیں)
تس بروٹھ کنہ سیکر کنہ تس سارے کتہ بکر تر۔
(تہ جن) وؤن میہ دنیا و وناہ توہہ نہ ہر پھس
اللہ (تعالے) ہند طرفہ (علم حاصل کرتے پڑی پگو
تہ کثیرھا) زماناں یہ نہ توہی زماناں چھو۔

قَالُوا يَا بَنَاتَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا
إِنَّا كُنَّا خَطِيئِينَ ﴿۱۱﴾

تمو (حضرت یوسف نہو باپو) وؤن (حضرت یعقوبس
امہ وڑ) اے سائہ بہر! توہی گنگو سائہ حقہ (خالیں)
سائہ گوہن معافی، اُس پھ بے شک خطا ز۔

قَالَ سَوْفَ اسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿۱۱﴾

تمو وؤنکھ بہر منگہ ضرور تہندہ با پتھ پستس
پرور وگارس بخشائیش۔ بے شک پھسے (سے)
سپٹھا بخش ہر (تہ) پھیر پھیر رحم کرن وول
(چھ)۔

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوْى إِلَيْهِ
أَبْوَاهُ وَقَالَ إِذْ خَلُّوا وِصْرًا إِن شَاءَ
اللَّهُ أُمِنِينَ ﴿۱۲﴾

پتہ سیدہ تم ساری یوسفس نش واتی تہ تمو وڑ
پستس مائس ماجر پاس نش جائے تہ (سارنہ)
وؤن نہ اللہ (تعالے) ہند سبھتہ مفایق
اٹرو توہی ساری امنہ (تہ سلامتی) سان مصرس
منز۔

وَرَفَعَ أَبْوَاهُ عَلَى الْحَرِيشِ وَخَرُّوا لَهُ
سُجَّدًا ۖ وَقَالَ يَا بَنَاتِ هَذَا تَأْوِيلُ
رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ ۖ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي
حَقًّا ۖ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ
السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ
أَنْ نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ۚ
إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ
الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿۱۳﴾

بہر بہرنا وک تمو بین مول موج سختس پیٹہ تہ تم
وٹھو (ساری) امہ کنہ (خداہ سہد شکرانہ کران)
سبھس تہ تمو (یوسفن) وؤن، اے میانہ بہر!
یہ چھ بروٹھے (خواہس منز) وچھو مشر میانہ
کتھ ہند تعبیر۔ میانہ پرور وگرن چھ بے شک
یہ (خواہ) پلوہ کورمت تہ تمو چھ یقینا مسیہ
پیٹھ سپٹھا بوڑ احسان کورمت سیدہ تمو بہر قناد
خانہ منز کورمت تہ توہی وائتا وک نو (کہ) جنگلہ
پیٹھ (میہ نش)۔ امہ باوجود نہ شیطان اُس
میہ تہ میانہ باہن منز مشرکی پاؤ کڑمہر
سیون پرور وگاریس سوتی سبھتہان پھتس سوتی
چھ سبھتہ (تہ احسانک) ورتا وکران۔ بیشک

چھٹے (یس) زبر پانچو زنان وول (تر) حکمت
 وول (چھ)۔

اسے میانہ پروردگار! شریہ چھتھ میںہ حکومتک
 اکھ حصہ (تر) بخشومت تر خواہہ کہ تعبیرک تر چھتھ
 تریہ میںہ ہتا علم عطا کورمت۔ (اسے) آسمان
 ہند تر زمینہ ہند پاید کران والہ ایس) شرے
 چھکھ وڈ میس تر آخرتس (دوہونی) منز میون
 مددگار (میلہ تر میہ مرک وقت وایتر) میںہ
 وڈر پست کمل فرمانبرواری ہنسر جائزہ منز وقت
 تر صالح لوکن ہنسر جہاثر متی رلاوڈ زکم۔

(اسے ساتھ پیغمبر!) یہ بیان) چھٹھ خابہ چوپونخرو
 منزہ۔ یہ چھٹھ اسی تریہ پیچھ وحی (کریمہ ظاہر)
 کران تر میلہ متو (چاپنہ و دشمنو تریہ خلاف)
 تدبیر کران کران انجریا ہنڈ وڈر کیست کور تر تر
 اوکھ تر (تمہ وقتہ) تمن نش (موجود)۔

تر اد تر (کو تاہ تر) بیٹھ تر (ز ساری لوکھ
 کریمو ہدایت لیس) اکثر لوکھ ان تر ہرگز ایمان۔
 بیہ چھکھ تر شہ (تبلیغس تر تعلیم) متعلق
 تمن کا منہ بلکہ منگان۔ یہ چھٹھ ساریہ عالمن
 (تر ساریہ لوکن) ہند با پتھ سراسر شرف
 رحمتک باعث۔

بیہ چھٹھ آسمان تر زمینہ اندر سدھا نشانسہ
 (موجود) پیکو کریم لوکھ ہتھ پھران نیران چھ۔

بیہ چھتھ متو منز واریاہ لوکھ ایمان انان بگر اتھ
 حالتس منز تر تم چھو سدی (سدی) شرک تر کران۔

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمَلِكِ دَعْوَمَتِي
 مِنْ تَارِيْلِ الْاَحْكَامِيْٓ ۚ فَاطْرَ
 السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ نَدَاْتِٓ دَلِيْٓ فِي
 الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ تَوَقَّنِيْ مُسْلِمًا
 وَالْحَقْنِيْ بِالصَّٰلِحِيْنَ ۝۱۱

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبِآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۚ وَ
 مَا كُنْتُ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوْا اَمْرَهُمْ وَ
 هُمْ يَمْكُرُوْنَ ۝۱۲

وَمَا اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ
 بِمُؤْمِنِيْنَ ۝۱۳

وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنَّ هُوَ الْاَلٰ
 ۝۱۴

وَكَآيِنٌ مِنْ اٰيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
 يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ ۝۱۵

وَمَا يُوْنُ مِنْ اَكْثَرُهُمْ بِاللهِ اِلَّا وَهُمْ
 مُشْرِكُوْنَ ۝۱۶

لے لینے یہ چھینہ اکھ پڑا دیلا بلکہ اتھ مغز چھ پیغمبروںی تر شریہ تر لینے تھو واقعات پیش تر چانی
 ہائی لینے قریش میںہ من چاؤ تباہی مگر اللہ تعالیٰ وی شریہ فتح تر کرکھ تر نہیں بان حضرت یوسف
 پانچو معاف۔

أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۳۸﴾

بہتر ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اور اس کی عبادت کرو

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا آتَا مِنَ الْمَشْرِكِينَ ﴿۳۹﴾

تہ کیا ہم (لوگ) بھلا امر کہتے ہن (رحمۃ اوتی تہ) بے خوف کا ہوتی، ترہمن بیہ اللہ (تعالیٰ) ہندبو عذابو منتر کا فہر کر لوٹھ عذاب یا وچھان وچھان پیکھ سو گھر (تہ نپنج بروٹھ پپھ خبر دہن آموثر چھید) تہ تمن لگہ نہ خبر تہ۔

تہ وکھ (ز) یہ چھ میون طریق بہ (تہ) چھس اللہ (تعالیٰ) ہس کن ماد وون۔ تہ ریکو (پہنر ولہ) میاڈ پاروی کر موثر چھید۔ یہ تہ تم ساری چھ بصیرتس پپھ تقایم تہ اللہ (تعالیٰ) پچھ (ساروہ نفقو لشر) پاک تہ یہ چھس نہ مشرکو اندر۔

بہ شریہ بروٹھ (تہ) چھ اسی (لوکن ہنتر بہائی باپتہ ہمیشہ) یعنی (دوسرہ چین) بستین منتر وون واڈ مردہے سوزان رورہ متی، مین پپھ اسی وونو) وحی تازل کران اسی، تہ کیا ہم لوگ پپھری ناہ زمپستہ منتر، میتھ زن وچھمن (ز) ہم (لوگ) مین بروٹھ (نہین ہندو منکر) اسی تہ ہندا انجام کیٹھ اوس سپرنت، تہ آخر تک گر چھ تمن لوکن ہند خاطر یقینا جاو بہتر یو تقویٰ پر وو۔ کیا توہر چھونا توہ (تہ) عقلہ کام، ہوان؟

بہ بیلیہ (اکہ طرفہ) پیغمبر (تمن نش) ناوہ مید گے تہ مین (منکران) گوو (دوسرہ طرفہ یہ) نیال پونہ تہ نہ مین چھ (وحی ہندس ناوس پپھ) اپنر کتھ ونہ یوان تہ تمن (پہنن) تام ووت (تہ) وقتہ) سون مدد تہ ہم اسی بچا وڈیہ پترھان ابرکھ (تم) آپہ بچا وونہ تہ مجرم لوکن نش چھنہ سون عذاب (ہرز) دور کر تہ یوان۔

مین (لوکن) ہنتر کتھ منتر چھ عاتقن ہندر خاطر

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ ۚ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ وَلَكَ الْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۴۰﴾

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَّشَاءُ ۚ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿۴۱﴾

لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةً لِّأُولِي

۱۲ یعنی منہ چھنہ بلو ایمان اونمت پر پتھ کا فہر کتھ چھ اسرہ دلہلو سوتو ناڈی مرث۔

الْأَلْبَابِ، مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى
وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ
تَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً
لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۱۱﴾

عبرت (رنگ) نمونہ مولود)۔ یہ چھبہ ترشہ کتھ
(ہرگز) یوسہ (پاڑ پانے) گرنہ آمہڑ آسہ، بلکہ
چھبہ (پہ) پستنس بروٹھو مس (یعنے خدائی کلام
چہن پیشگوئین، کابل رنگس منز پور کرن واجوز
تہ پرچہ کتھ ہنڑ سالم و شرنے بیان کرن واجوز
بہ یم لاکھ اچان انان چہ تہندہ خاطر چھبہ پرت
تہ رحمت۔

سُورَةُ الزَّعْدِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مَعَ الْبِسْمَلَةِ اَرْبَعٌ وَاذْبَحُونَ اِيَّاهُ وَبَسْمَلَةُ دُرُجَاتٍ

سورة زعد، یہ سورہ چھبہ کی تہ بسم اللہ تہ چھ آتھ زوئی نامی آیہ بہ چھس شینہ رکوع۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾

الْمَرَّءِ تِلْكَ اَيُّ الْكِتٰبِ الَّذِي
اُنزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ
اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۲﴾

اللّٰهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ
تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَحَّرَ
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِي لِاَجَلٍ
مُّسَمًّى ۚ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ
لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُؤْقِنُوْنَ ﴿۳﴾

بہ چھس اللہ (تعالیٰ) سندرنا و ہتھہ (پرلن) یس
حدہ ریس کرم کرن وول (تہ) چھبہ چھبہ ریم کرن
ول چھہ۔
بہ اللہ چھس زانن وول تہ وچھن وول۔ یم چھہ
کابل کتاب ہندہ آیہ تہ یس کلام تریہ پیٹھ پٹھنس
پروردگار بندہ طریقہ نمازل کرنہ آمت چھہ سہ بہ چھہ
یکل پوز، وہ ذی نوو واریاہ لاکھ چھہ اچان انان
اللہ (تعالیٰ) چھہ سہ بیجو آسمان قھبہ ورا لہ
استاد کروی ہتھ چھہ ہتھ کن زن توہر وچھہ ہنہ
چھہ (تہ) پتہ سپد سہ عرشس پیٹھ قائم تہ
آفتاب تہ زون چھہ تھو (تہندس) خد متس پیٹھ
لاگتھ تمھو ورتو۔ (چنانچہ) پرچہ اکھ (اجلم فکلی)
چھہ اکس گنڈنہ آمتس مبعادس تام (پستہ گردنہ
مطابق) کیوں۔ سہ (اللہ تعالیٰ) چھہ پرچہ معاملہ
انتظام کرن۔ (تہ) پیجو آیہ چھہ واتس کڈتھ بیان
کران بیٹھ زن توہی پستنس پروردگارس سماکت
یقین قھو۔
تہ سہ چھہ بیجو زہن و ہرومت چھہ تہ اکھ منڑ

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا

رَوَّاسِيَّ وَآنْهَرَاءَ وَ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ
 جَعَلَ فِيهَا زَوَاجِينَ اثْنَيْنِ يُغْشَى الْاَيْلَ
 النَّهَارَ اِرَانِ فِي ذَلِكَ لَا يَلِيَتْ لِقَوْمِهِ
 يَتَفَكَّرُونَ ①

پھن در بر سان مٹھرتھ روزن اول بال تہ (بیر)
 ڈر یلو بتاؤر متی، بیر پھن اتھ مشر تمام (قسمہ
 کہو) میوو منبر دھنوںے قسم (نرتو ماہ) بتاؤر
 ہوتی۔ سہ پھ راز دوہس پیٹھ و طرتھ تراوان۔
 یم لوکھ سوچان پھ تہند خاطر پھ (بے شک)
 اتھ (کتھ) مشر کہو یا نشان (موجود)۔

بیر چہ زمینس منز اکہ اُکس نکھہ نکھہ کثیر (قیما قسم)
 چھلہ تہ کہو یا طریقن ہندر دچہ بارگ تہ (کہو یا قسم)
 ہندر (زراعت تہ (زنب زنگہ) کھنرنگی (بیمو
 منز کیہنہ) اکہ منزل مشر کھنرنگی نیرن اول گوہر
 (آسان پھ) تہ (کیہنہ) اکہ منزل اندر کھنرنگی
 نیرن والین جلاہ (اکہ گوہر کی آسان) پھ۔ یم اک
 آہ سوتی سکوتہ یان پھ تہ اُسی پھ (اسر باوٹو)
 مہولہ لحاظہ اکہ منز کینشن (کھن) کینشن کھن
 پیٹھ تھور دووان۔ اتھ منز تہ پھ ہمن لوکن
 ہندر خاطر یم عقلہ کام ہون پھ کہو یا نشان
 (موجود)۔

بیر اے مقلب! اگر تیری (میں پر برکین ٹکون
 پیٹھ) تعجب گزشتی تہ تہ (سہ پھ بجا، تکلیف)
 تہند (یہ) و من (نر) نیلہ اُسی مشر تھ میشر
 سپو تہ اسر آسما پڑی یا مٹی (بیر) گنوٹوس
 زمس منز میں ۹ پھ چارہ کھہ ہنر کھوتہ تہ
 جاو عجیب کتھ۔ یم پھ تم لوکھ یوسن پروردگار سند انکار
 کورمت پھ تہ یم پھ تم (لوکھ) بیننن گردنن منز طوق
 (نالی تراوتھ) آسن تہ یم (لوکھ) پھ (تہنی) تارہ ذن (اولی) تم
 مرتھن تھ منز روزان۔

تہ تم پھی تریہ منگ کران تر نیک بدلہ کھوتہ جاو
 بدلہ پہن ان پیچہ بدلہ یعنی سزار۔ نیلہ ذن ہمن

و فِي الْاَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَوِّزَةٌ وَ جَنَّتْ
 مِنْ اَعْنَابٍ وَ زُرْعٌ وَ نَخِيلٌ صَنَوَانٌ وَ
 غَبْرُ صَنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَّاحِدٍ وَ
 نَفِضٌ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِي الْاَكْلِ
 اِرَانِ فِي ذَلِكَ لَا يَلِيَتْ لِقَوْمِهِ يَخْفَلُونَ ①

وَ اِن تَعَجَّبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ اِذَا كُنَّا
 تُرَابًا اِرَانَا لَيْفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ اُولٰٓئِكَ
 الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ ۚ وَ اُولٰٓئِكَ
 الْاَغْلٰلُ فِيْ اَعْنَاقِهِمْ ۚ وَ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ
 النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ①

وَ يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالسِّيْئَةِ قَبْلَ
 الْحَسَنَةِ وَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ

لہ رَوَّاسِيَّ وَاَنْهَرَاءَ وَاَحْكَوْسَ رَوَّاسِيَّہٗ : سہ بھگ (ANCHOR) لیس ناو اُسی پیٹھ مٹھرتھ اتھ تھوان
 پھ۔ پھیا مٹی چہ کوہ تہ بال زمپہر اکہ ذلہ نیش بچاوان۔

برونٹھ چھ (بیچھن لوکن پیٹھ) ساری (تسمیہ) نہیںہے وال عذاب آہو۔ تہ چون پروردگار چھ لوکن بہتہ ظلمہ باوجود (تہ) بلاشک (سپٹھ) بختہ وول تہ (یختہ پانٹھ) چھ چون پروردگار یقینا کروٹھ سزا دہ وول (تہ)۔

بہ بیو لوکو انکار کوڑنت چھ رتم چھ وان نہر اوس (تخصص) پیٹھ کوٹہ آو تہدیر پروردگار ہند طرفہ کانہہ نشانہ تبادل کرتہ ہیندہ زن تہ صرف خسر وار (تہ ہینار) کرن وول چھاکہ ، تہ پرستہ کتہ قومہ خاطر چھ (خداہ ہند طرفہ) اکھ و تہ اوتھ (سوزنہ آمت)۔

اللہ (تعالیٰ) چھ (ربی پانٹھ) زمانان۔ تہ (تہ) یہ پرستہ کانہہ ماہ (مشکس منز) تھان چھینہ تہ بہ شرک بانہ ناقص کرتہ تراوتہ ترہنن چھ۔ بیہ (تہ تہ) یہ رتم بڑاوان چھ ، تہ پرستہ کانہہ چیز چھ تہ نش ضرورتہ مطابق موجود۔

سہ چھ غائب تہ موجودک (دونونی ہند) زمان وول۔ بڑ مرتبہ وول (تہ) تھہ شانہ وول۔

یہ تہ بہ مشرکتہ کھنتہ تھوان چھ تہ سرتہ یس تہہ ظاہر کران چھ ، چھ (دونوی تہد علمہ کہ لمانہ) ہوی۔ بیہ سرتہ یس راتس کھنتہ روزان چھ تہ سہ یس دوہس پکان چھ۔

تہد طرفہ چھ بیس (پیتھیرس) برونٹھ کتہ تہ تہ اوس پتہ کتہ تہ (اکھ اوس سرتہ سرتہ) یس واجز (لاکین ہنز) اکھ جماعت (را چھ لوک) مقدر۔ یوسہ اللہ (تعالیٰ) ہند حکمہ تہنر را چھ کران چھینہ۔ اللہ (تعالیٰ) چھینہ کتہ توپج حالت بدلاون یو تانہ تہ سہ (قوم) پتہ اندرونی حالت (پانہ) بدلاو ، تہ ییلہ اللہ (تعالیٰ) کتہ قومس متعلق عذابک فاصلہ کران چھ تہ سہ عذاب دور کران

الْمَثَلْتُ ، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ
لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ، وَإِنَّ رَبَّكَ
لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ①

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ
آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ، إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ لِّكُلِّ
قَوْمٍ هَادٍ ②

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا
تَحْمِلُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ، وَكُلُّ شَيْءٍ
عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ③

عَلِيمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ
الْمُتَعَالِ ④

سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ أَسَرَ الْقَوْلَ وَ مَن
جَهَرَ بِهِ وَ مَن هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَ
سَارِبٌ بِالنَّهَارِ ⑤

لَهُ مَعْقِبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مَن
خَلْفَهُ يَحْفَظُونَهُ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ ، إِنَّ
اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا
بِأَنْفُسِهِمْ ، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا
فَلَا مَرَدَّ لَهُ ، وَ مَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مَن
وَالِ ⑥

وول چھنہ کاٹھہ آسان۔ تہ تس وراہی (ہیکہ) نہ
 بیہ کاٹھہ (تہ) تہنہ مدکار (استہ)۔
 سہ چھ یس توہہ وکلمہ دوان چھو، خوفہ خاطر
 تہ تہ طبع خاطر (تہ) بیہ چھ بارہ او بر تہ
 کھلان۔

گلا سے چھ تہنہ تہنہ تفریق سہو (سوت) تہنہ
 پاکیزگی ہند اظہار تہ کران تہ ملکہ تہ چھ تہنہ
 خوفہ کہ باعہ (سی کران) تہ سہ چھ تہ تہ
 سوزن، پتہ میں پتہ بیہ تہنہ چھ تہنہ پتہ چھ
 پاوان۔ بیہ چھ تہ اللہ (تعالے) ہس متعلق
 (پانہ واہی) بحث کران۔ بیہ زن سہ چھ کر لیکھ
 عذاب دہ وول۔

نہ طس وول ناد چھ تہنہ، تہ میں تہ تس
 وراہی آلو دوان چھ تہ چھ تہنہ (ہند دہاک)
 کاٹھہ تہ جواب دوان (آ) تہ (تہنہ فعل) چھ
 تہنہ (یعنی تس تہنہ ہند) پانہ یس پتہ
 دہ نوے تہ آس کن داران آسہ تہ سہ (آب)
 کو تہ تہنہ آس تام واتن تہ سہ واتہ
 تہ تہ تس تام تہ کافون ہند (کرکہ) ناد
 تہ تہ بیہ کار۔

بیہ ایم (وہو) آسان منز چھ یاز میں منز
 چھ تہ تہنہ تہنہ تہ چھ بیہ تہنہ یا ر تہنہ
 (تہ تہ دہا) تہنہ تہ شام اللہ (تعالے)
 ہسے سجدہ کران۔

تہ ون تہنہ (تہ وول) آسان ہند تہ زمینک
 پر وول کس چھ؟ (ایمک جواب تہ کیا دن
 تہ؟) تہ ون (پانہ ز) اللہ (تعالے) بیہ
 ون (تہ تہنہ) کیا تو تہ چھ توہہ تس وراہی (تہ)
 تہ تہ مدکار بنا و تہ تہ تہ، ایم پتہ پانہ
 خاطر (تہ) کتہ نفع تہ تہ تہ تہ تہ تہ تہ

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَ
 طَمَعًا وَيُنزِلُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ۝

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ
 مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ
 فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ
 فِي اللَّهِ ۚ وَهُوَ شَدِيدُ الْحَالِ ۝

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ
 دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ
 إِلَّا كِبَاسٌ مِّنْ عَيْنِهَا إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ
 فَلَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِيغٍ إِلَى مَا دُعَاءُ
 الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۝

وَاللَّهُ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَ
 الْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلُّهُمْ
 بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۝

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، قُلِ
 اللَّهُ، قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ
 أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا
 وَلَا ضَرًّا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى
 وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ
 وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا

کاٹھہ کا ٹرکاوٹج؟ بیرون (تمن ز) کیا
 اُون تہ کھاشدار چھا برابر (ہیکان اُستمہ)؛
 یا کیا اُنہ گوٹ تہ کاش چھا ہیوسے (ہیکان اُستمہ)
 بتو چھا اللہ (تعالے) ہندو تہمتی شریک بناؤ کر تہ
 یو تہندو پانگو (کینہ) مخلوق پاد کر کر تہ چھہ تہ
 کئی (تہندو تہ بین ہندو) مخلوق تہندہ با پتھ
 مشتبہ سیدر تہ تہ چھہ - تہ ون تمن (تر) اللہ
 (تعالے) ہے) بٹھ پرتھ گنہ چیرک پاد کرن دول
 تہ سہ چھ کاہل مولتس منز بے مثال (تہ پرتھ گنہ
 چیزس پٹھ) پٹھ پور اقدار تھاون دول۔

تہ ون آسمان پٹھ کینہ آب پتہ درایہ (امر مغز)
 کشر کولہ پتہ (پتہ) گنجائیشہ مطابق تہ
 اُمی سالابن تہ پٹھ کن کھسن وول پوس تہ پتہ
 (دوہاتس) تہ کاٹھہ گہنہ یا گر سامنہ بناونہ با پتھ
 نارس منز شراوان چھہ تہمتہ منز (تہ) پتھ تہمیک
 (یعنے سالابن) ہیو اکھ پوس (آسان) - یقہ پانگو
 چھہ اللہ (تعالے) حق تہ باہل (یعنے تہہنز فرق)
 بیان کران، پتہ بٹھ پوس اور پور چھکنہ پتھ
 تہاہ گر شھان تہ یس چیز نوکن تہع وون وول
 آسان چھہ سہ چھہ زمپنس منز قرار کر تھہ روزان
 اللہ (تعالے) چھہ یقہ کئی سارہے کتھہ واش
 کڈتھہ بیان کران۔

یو پتہس پرور واکر سندر وون مون تہہندہ سطر
 چھہ کامیابی تہ یو تہندہ وون مون تہ (تہہنز حالت
 سپر پز) پو کیشھا تہ زمپنس منز چھہ اگر (تہ
 سورسے) تہہندہ آسہ ہے تہ بیہ تہ تہواتا تہ تم
 کرہن یہ سورسے مال دتھہ تہ (پانس غداہ لٹہ)
 موکاوہن کوشش - تہہندہ خاطر چھہ بد انجامہ
 وول حساب (مقصد) تہ تہہندہ ٹھکانہ چھہ جہنم
 تہ سہ چھہ روزنہ خاطر سپٹھا ناکار (ٹھکانہ)۔

كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقَ عَلَيْهِمْ
 قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ
 الْقَهَّارُ ﴿۱۵﴾

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ
 أوديةً بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ
 زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ
 عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حَلِيَّةٍ أَوْ مَتَاعٍ
 زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ
 وَالْبَاطِلَ فَمَاذَا الرَّبُّ فَيَذْهَبُ
 جُفَاءً بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمُكِّتُ
 فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ
 الْأَمْثَالَ ﴿۱۵﴾

لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْخُسْفَىٰ
 وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ
 مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ الْإِثْمِ لَجَاءَهُمُ
 مِنَ اللَّهِ عَذَابٌ أَلِيمٌ
 لَافْتَدُوا بِهِمُ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ
 الْحِسَابِ وَمَا أُولَئِكَ يَتْلُونَ
 الْآيَاتِ ﴿۱۵﴾

۱۵
 ﴿۱۵﴾

أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَمَّا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنَ
ذَلِكَ الْحَقِّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ ۗ لَئِمَّا
يَتَذَكَّرُ أُولَٰئِكَ لَبِيبٌ ۝

یہ شخصیں زمان چھ زریہ (کلام) چھ جانس
پروردگار ہنہ طرفہ شریہ کن نمازل کرہ امت ، تہ
چھ بیکل حق ۔ کیا سہ چھاتس شخصس ہویہ
(اوستہ ہیکان) یس اوں آسہ ۹ (ہرگز نہ، ہیکیا زہ)
عقلہ و آل چھو نفیحت رہان ۔

الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ ۖ
يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ۝

تہو لوکھ یم اللہ (تعالے) سہ دینے تس سستی
کوزمت (وہو پور کران چھ تہ سہ پو تہ تہ و ہو
چھنہ پھٹراوان ۔

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ ۖ
يُؤْصَلُ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ
سُوءَ الْحِسَابِ ۝

تہ تم لوکھ یم تم تعلقات ہمیشہ قائم تھوان
چھ یم قائم تھوان اللہ (تعالے) ہن حکم
دیت مت چھ تہ پسنس پروردگارس چھ کوزان
تہ بلا انجامہ والہ) حسابہ نشہ چھ خوف تھوان ۔

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ۖ ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۖ وَآتَوْا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
سِرًّا وَعَلَانِيَةً ۖ وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ
السَّيِّئَةِ ۖ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ۝

بہر یمو پسنس پروردگار سہ رہنا شہا تہ تس منز
شہا بت قدمی نو مہتر چھنہ تہ نماز چھیکھ نفیس
پاٹھ ادا کر مہتر تہ یہ کینہ شہا سہ تہن دیت مت
چھ تمہ منز چھیکھ کھنہ (تہ) تہ تہر وانہ (تہ سہ)
وتہ) خروج کوزمت تہ (یم) نیکی سستی بدی دور کران
چھ (روزان) ستنہ ہنہ خاطر چھ سنیہ کرک
(بہترین) انجام (مقصد) ۔

جَنَّتْ عَدُوِّيْنَ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ
مِنْ آبَائِهِمْ ۖ وَآزَوَاجِهِمْ ۖ وَذُرِّيَّتِهِمْ ۖ
وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ
بَابٍ ۝

یہ ہمیشہ روزن جایہ ہندی باغ یکن مہتر تم
(پانو تہ) دا نخل سپدن ۔ بہر تہندو جد و اجداد
تہ تہنہر و آسٹہنہ تہ تہنہر ذری یا شرو مہتر تہ (تم
لوکھ) یمو نیکی پراو مہتر آسہ (سپدن تہ مہتر
دا نخل) تہ ملائکہ ہن تہن نش پر چھ دروازہ کو
(تہ وطن) تہنہر با پتہ چھ سلامتی ہیکیا ز تہو
رودی و شہا بت قدم ۔ لہذا (دو نو و چھو ز تہنہر
با پتہ) کیا رت چھ سنیہ کرک انجام ۔

سَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ ۖ فَنِعْمَ
عُقْبَى الدَّارِ ۝

بہر یم اللہ (تعالے) سہ دینے تس سستی پونہ
عہد پکھ اقرار پتہ پھٹراوان چھ تہ یس تعلق
تایم کرک اللہ (تعالے) ہن حکم دیت مت

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ ۖ
وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ ۖ
أَنْ يُؤْصَلَ وَيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ۖ

أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ
الدَّارِ ۝۱۱

اوس تھہ چھہ بھتو کران تہ بترار مشر چھہ فساد
کران تہندہ خاطر چھہ (اللہ تعالیٰ ہندہ طرفہ)
لعت مقدر۔ بیہ چھہ تہندہ خاطر اکھ بچھہ مگر
(تہ) مقدر۔

أَلَلَّهُ يَنْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَ
يَقْدِرُ ۚ وَفَرَحُوا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا
وَ مَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا لَأَلًا
مِّنْآءً ۝۱۲

اللہ (تعالیٰ) ہندہ خاطر پسند کران چھہ (تس) چھہ
رزق کشاہکی بخشان بیہ (بیجو ہندہ خاطر شہان
چھہ تہندہ خاطر) چھہ تنگ کران۔ تہ بیک (لوکھ)
چھہ بیہ ڈنہ بیہ زندگی پیٹھ (سبہ) خوش سیدر
ہو۔ ہونہ وے تہ بیہ ڈنہ بیہ چھہ خوش
مقابلہ محض اکھ عارضی سامانہ۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ
عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۚ قُلْ إِنَّ اللَّهَ
يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي ۚ إِنَّ إِلٰهَهُ
أَنَابٌ ۝۱۳

بیہ بیو لوکو (چون) انکار کوزمت چھہ تم چھہ وان
نہ اوس پیٹھ کو نہ سید اسی ہندس پروردگار ہندہ
طرفہ کاشہہ نشان نازل ہ کر وناکھ، اللہ (تعالیٰ)
بیہ بیہ شہان چھہ ہلاک چھہ کران تہ بیہ (تس)
کن (مال دار آسہ تس چھہ پاس کن و تھہ داوان۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ
بِذِكْرِ اللَّهِ ۚ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ
الْقُلُوبُ ۝۱۴

یعنی بیو ایمان اوزمت آسہ تہ تہندہ دل آسن
اللہ (تعالیٰ) ہندہ یاد سوتہ تسلہ لبان (تس)
چھہ ہلاکت (داوان)۔ اکر کو نہ زانو نہ اللہ (تعالیٰ)
سند ذکر کرنہ سوتی چھہ دل قرار لبان۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ
طُوبٰى لَهُمْ وَحَسُنَ مَا يُطٰىرُ ۝۱۵

بیو لوکو ایمان اوزمت چھہ تہ تہو چھہ نیک (تہ)
مشاسب حال (اعمال بجا ازی ہو)۔ تہندہ خاطر
چھہ (سپٹھا) قابل رشک حالت تہ سار وے
کھوتہ رچہ واپسی ہنر جانے (مقدر)۔

كَذٰلِكَ اَرْسَلْنَاكَ فِيْٓ اُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ
قَبْلِهَا اُمَّةٌ لِّتَشٰوَرُوْا عَلَيْهِمُ الَّذِيْ
اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ
قُلْ هُوَ رَبِّيْٓ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عَلَيْهِ
تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ مَتَابٌ ۝۱۶

امی (رنگ اکھ لبہ) خاطر چھہ اسہ تر اوس
تتقص قوس مشر سوزمت۔ بیہ برو تھہ کھو یا
قوم (بیہ اول سنو و تہ وچھان وچھان) گذرے
ہو اسی، بیہ زن بیہ (کلام) اسہ تر کن کھو
کوزمت چھہ تہ ہونہ ناہ کھہ تم سہ پتر تھہ۔
مکلیانہ تم چھہ رحمان (خدایہ) سند (یعنی تہندہ
فیضانگ) انکار کران۔ تہ وں بیہ چھہ میون

پروردگار، تس سوا چھنہ کا ٹہہ معبود، تس پیٹھ
پیٹھ میہ توکل کورمت تہ تس کن چھہ پرہتہ
وقتہ میون رجوع۔

یہ اگر کاٹھہ تہتہ قرآن آسہ ہے یتیم کہ ذریعہ
(نشانہ کنہ) بال آسہن (پستہ جایہ و البتہ) کپناؤ
آسہ۔ یا تمہ سوتو آسہ ہے تہترتہ جہد (چھہد)
کہتہ آسہن یا آسہن تمہ کہ ذریعہ مودر مہ بن ستر
کہتہ کہتہ آسہن (تہ کیا ہم لاکھ انہ ناتھہ پیٹھ
ایمان؟ ہرگز نہ) بلکہ ایمان انک (فاصلہ جہد
پورہ پامٹو اللہ تعالیٰ) بندس اٹھس مشرہ کیا
یہو (لوگو) ایمان اؤنمت چھہ تمہن سیدنا (وونیک
تام) معلوم نہ ہگاہ اللہ تعالیٰ) سترتھہ ہے
تہ سارہنے لوکن ویہ ہے ہارت؟ یہی (اے رسول!)

یہ لوگو چون انکار کورمت چھہ تہتہترہ پترہ عملہ کنہ
روزہ تمہن پیٹھ ہمیشہ کاٹھہ (نتہ کاٹھہ) ہڈ بلاسہ
یوان۔ یا روزہ تہتہندس گرس نزدیک تا زل سیدنا
یوتام نہ اللہ تعالیٰ) سترہ (یتیم یعنی کہہ فتح سیدنا)
وعدہ واتہ۔ اللہ تعالیٰ) کہتہ ہرگز تھہ وعدہ سترہ۔

تہ تریہ بروتھر من رسول سترہ (تہ) اوس ٹھٹھ
مخولہ کہتہ آسہت یہتہ پیٹھ میہ تمہن لوکن یہو انکار
کریاو (کثیر وقتہ باپتہ) مہلت وڑ پتہ کرک
میہ تم تباہ وونی وچھو میون سترہ کیٹھہ کر لوتھو اوس۔

تہ کیا سہ (خدا) میس پرہتہ کاٹھہ شتھہ سہدن
امان پیٹھ نظر تھوچھہ چھہ (پرہتہ نا تمہن؟) تہ
تمو تہ چھہ اللہ تعالیٰ) سترہ کہو یا شریک (تہ)
بناوتھہ تھو ووتہ۔ (تمہن) وونی، تہہ سہ لوتھو وونی
تمہن (بناوٹی خدائین) ہندو ناو۔ یا کیا توہم لوکھ
وونی واتس (تھلس) کاٹھہ تترتہ کہتہ یہ سہ ہترتہ

وَلَوْ اَنْ قُرْاْنَا سُوْرَتَ بِهِ الْجَبَالِ اَوْ
قَطَعْتَ بِهِ الْاَرْضَ اَوْ كَلِمَ بِهِ الْمَوْتِ
بَلَّ قَلْبُوْا لَا مَرْجُوْا عِاٰءَ اَقْلَمَ يَا اَيْسِ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ لَّوِيْشَاءُ اللّٰهُ لَهٰدٰى
النّٰسَ جَوْبِعَاۗءَ وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعًا
اَوْ تَحُلَّ قَرْيٰبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتّٰى يَأْتِيَ
وَعْدُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ
الْمِيْعَادَ ﴿۱۳﴾

۱۳

وَلَقَدْ اَسْتَهْزِئْ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ
فَاٰمَلَيْتُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثُمَّ
اَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿۱۳﴾

اَفَمَنْ هُوَ قَارِعًا عَلٰى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا
كَسَبَتْ ۗ وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ ۗ قُلْ
سَمُوْهُمْ ۗ اَمْ تَنْتَهُنُوْهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ
فِي الْاَرْضِ اَمْ يظٰنُ هٰرِ مِّنَ الْقَوْلِ ۗ بَلْ
رُؤْيٰنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مَكْرَهُمْ وَصَدُوْا
عَنِ السَّبِيْلِ ۗ وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا

لہ یعنی تھان پیٹھ ہن عذاب تہ آخر وکن مسلمان ہندو لشکر تہندس گرس نزدیک یعنی
کہ سہ فتح۔

لَهُمْ مِنْ هَاكِذَا ۝۲۱

پہچہ مؤجود تہ چھینہ مگر سہ چھینہ (تتھہ) زمانان۔
کہنہ توہی چھو صرف اُسہ سیتو بیکم کتھہ کران ہا بلکہ
بہو لوکو نکار کوزمت چھہ متن چھہ تہننز (پنتی)
شصل ہازی شولہ وار (شکلہ مفر) ناوہر آہر
تہ تم چھو صحیح و تہ ہنہ پتہ رتہ آہر۔ تہ ہمیس
اللہ (تعالیٰ) ہلاک کر تہن چھہ کاتہہ و تہ لوکھ
(ہیکان) ہینتہ۔

تہن کیت چھہ اکھ عذاب ہیتو زندگی مفر (ہے مقدر)
تہ اُخریک عذاب آہر بے شک ہم ہن تہ سجت
ہیہ آہر تہ تہن اللہ (تعالیٰ) ہند عذاب ہنہ کاتہہ
بچاون وول۔

تمہ جینج مثال ہیک بک پر ہیز کارن و عہہ وہہ آہر
چھہ (چھینہ یہ نہ) تتھہ (ہینے تمہ کہن کلہن ہندین
شہلہن) تل آسن کلہہ بکان تمیک ہوہ تہ آہر ہمیشہ
روہر وک۔ ہیہ تمیک شہل (تہ)۔ ہیہ آہر تہنہ
انجام بکو تقویٰ بروو، تہ انکار کرن والہن ہند
انجام چھہ (دو وزن نار)۔

ہیہ ہم لوکن اسہ کتاب ڈر ہر چھینہ، تم چھہ تمہ
(خدای کلام) سستی یہ تریہ پیچہ نازل کر تہ آہر
چھہ، خوش سپدان تہ تہن (مختلف) درہن منز
چھہ کیتہ تھو (تہ) بیک تمہ کس کیترس (حصص)
انکار کران چھہ۔ تہ وکاتہہ میہ (تہ) چھہ ہی حکم
وہہ آہر نہ بہ کر اللہ (تعالیٰ) ہننز عبادت تہ
تہ شریک ٹھہراون نہ کاتہہ، ہر بھسو (توہہ)
تس کُن آلودوان تہ تسو کُن چھس ہر (تہ) رجوع
کران۔

تہ ہیتے پٹھو چھہ اسہ یہ (قرآن) اُکس وائش کتہہ
حکمہ کس مولس مفر ہا زل کوزمت۔ تہ اے طالب
اگر تریہ تمہ علمہ پتہ لیس تریہ حاصل سہد مت چھہ

لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ
لَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَشَقُّ - وَمَا لَهُمْ
مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ۝۲۱

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ؕ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ ؕ اُكُلُهَا
دَائِمٌ وَّ ظِلُّهَا ؕ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِيْنَ
اتَّقَوْا ۙ وَّ عُقْبَى الْكٰفِرِيْنَ النَّارُ ۝۲۱

وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَفْرَحُوْنَ
بِمَا اُنزِلَ اِلَيْكَ وَّ مِنَ الْاٰخِرٰتِ مَن
يُنْكِرُ بَعْضَهُ ؕ قُلْ لَئِنَّمَا اُمِرْتُ اَنْ
اَعْبُدَ اللّٰهَ وَاَلَّا اُشْرِكَ بِهِ ؕ اِلَيْهِ
اَدْعُوْا وَاِلَيْهِ مٰبٍ ۝۲۱

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَّ لَعَلَّ
اَتَّبَعْتَ اَهْوَاٰهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ
الْعِلْمِ ؕ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّ لَا

وَاقِي ۱۳

۱۱

ببین اکافرن) ہنزن ٹا ہشتا تن ہنتر پاروی کرٹھ تہ
اللہ (تعالیٰ) ہس مقابلہ نہ (تہ) آسہ چون کا نہ دوست
تہ نہ (آسی) ثریہ کا نہہ بچاون وول۔

بیہ آسی اسہ ثریہ بروٹھ (تہ) یقینا کھئی یا
رسول سوزی موتی تہ تمن آسہ آشینہ تہ وثر منہ
تہ ذری یا تھہ تہ تہ کا نہہ پیغمبر ہنتر خا طراوس
تہ ممکن ترسہ اتہ ہے اللہ (تعالیٰ) سہنہ
اؤنہ وراہی (پسٹس تومس نش) کا نہہ نشا نہ
پر تھہ کتہ پر وگراہہ خا طرا چھہ اکھ معیاد مقرر۔

اللہ (تعالیٰ) سہتہ چیزس بیہرٹھان چھہ نالو چھس
کران تہ (تھہ بیہرٹھان چھہ) تاہم چھس کران تہ
تسو نش چھہ (سارہے) مٹھن ہنڈ ژوک
(تہ مول)۔

بیہ بیہیک (یعنی بیہ عذابہ کر سوزنک) اوسون
وہر ووان چھہ اگر آسی تمیک کا نہہ جھہ ثریہ تھی
سوزتھہ ثریہ دوسے (تہ تہ تہ وچھک تہہتہ
انجام) تہ (ہرگاہ) آسی (تہ گر بروٹھ) ثریہ
وقات دوسے۔ (تہ ثریہ سپدی وفاتہ پتہ پتہ
اصلیت معلوم تکیاہ) چانہ ذہہ چھہ صرف (سون
حکم تہ پیغام) واتناون تہ تمن حساب ہنون چھہ
سانہ ذہہ۔

تہ کیا تہو وچھنا تر آسی جھن ملک تہ کہو سارہے
اندو کتہ کم کران گرتھان تہ تاہ صلبہ چھہ اللہ
(تعالیٰ) کران۔ کا نہہ چھہ تہ تہ تاہ صلبہ بدلاون وول
تہ سہہ چھہ جلد حساب ہہنہ وول۔

بیہ یک لاکھ تمن بروٹھ آسی تہو (تہ آسی) (ببین
تخلات) تہ سپر گری موتی (اما بلوز تہہتہ چلیو تہ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَ
جَعَلْنَا لَهُمُ آذَانًا وَأَعْيُنًا وَمَا كَانَ
لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ
اللَّهِ ۚ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿۱۱﴾

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ۖ وَ
عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴿۱۲﴾

وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي
نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ
الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴿۱۳﴾

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا
مِمَّا أَطْرَافُهَا ۚ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقَّبَ
لِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿۱۴﴾


وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِئِنَّ
الْمَكْرَ جَوْعِيْعًا يُعْلَمُ مَا تَكْسِبُ

لہ یعنی ملک سہ چھہ وار وار فتح پیلان تہ برین خانان ہنڈ اولاد چھہ وار وار اسلام قبول کران مثلاً حضرت عمر حضرت علی
عمر بن عباس، خالد بن ولید رضوان اللہ علیہم۔

كُلُّ نَفْسٍ وَّ سَيَعْلَمُ الْكُفْرَ لِمَنْ
عُقِبَى الذَّارِ ۝۱۳

کہنی (لہذا تدبیر کرن چھہ سابلہ اللہ تعالیٰ)
سندک سے اختیار س منتر۔ پر تھہ کانہہ شخص لیس
کیئہہ (تہ) کران چھہ سہہ (اللہ تعالیٰ) چھہ تہ
زانان تہ یمن کافر ن سپہہ جلدے معلوم ز تہ
بینہ والہ کرک (رت) انجام کہندہ خا طر چھہ ۔
بیہ کیو لوگو چون انکار کوزمت چھہ تم چھہ زمان ز تہ چھہ
تہ خلیہ سند طرفہ سوزنہ آمت۔ ترون تمن (زہ) اللہ
تعالیٰ) چھہ میہ تہ تو بہہ درمین سہٹھا لواہ۔ بیہ چھہ
پاٹھ (سہ) شخص تہ لواہ) نہیں نش ابرہ المقدس) کتاب ہند معلم
آمت) چھہ ۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا
قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ
وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ۝۱۴



سورة ابراہیم : یہ سورہ چھہ کی تہ بسم اللہ تہ چھہ آتھ ترونزادہ آہہ بیہ چھیس سہٹھ رکوع ۔

يَسُو اللّٰهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝۱

(بیہ چھیس) اللہ تعالیٰ) سندن او بہتھا پران (لیس
حہ رؤس کرم کرن وول (تہ) چھہ کر چھہ کر رجم
کرن وول چھہ ۔

بہ اللہ چھیس و چین وول ۔ اکھ کتاب چھینہ (یہ)
یوہہ اسہ تہ پیٹھ او کو تہ نازل کر ہر چھینہ ز تہ
اپہ ہکھ ساری لاکھ تہندس پروردگار سند حکمہ سہتہ آہہ
گرہ منتر گدہہ کاشس کرن لینے غلبہ و اہلس تہ
تقریبہ و اہلس خدایہ سہزہ وتہ کرن ۔

(سہہ غلبہ وول تہ تقریبہ وول خدا چھہ) اللہ تعالیٰ
ہے ، تہ) یہ کیئہہا آسمان منتر چھہ تہ یہ کیئہہا
زمینہ منتر چھہ ، چھہ سورے سندے تہ (سندہ)
انکار کرن والہن کیئت چھہ اکھ کر لویٹھ عذاب (مقدرہ)
ہیم (انکار کرن والہ) آخرتس پیٹھہ نیمہہ ڈنی بہہ چھہ
زندگی تھنرہ ووان چھہ تہ اللہ تعالیٰ) سہتہ وتہ
نشہ (بین لوکن تہ) چھہ پتھہ رمان تہ تھہ چھہ

الَّذِينَ كَفَرُوا
النَّاسِ مِنَ الظَّالِمِينَ إِلَى الثُّورِ
يَأْذَنُ رَيْبَهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ
الْحَمِيدِ ۝۲

اللّٰهُ الَّذِیْ لَهُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی
الْاَرْضِ ؕ وَوَيْلٌ لِّلْکٰفِرِیْنَ مِنْ عَذَابٍ
شَدِیْدٍ ۝۳

الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا
عَلَى الْآخِرَةِ ؕ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ
اللّٰهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ؕ اُولٰٓئِكَ فِی

صَلِّ بَعِيْدًا ①

ہجرت پر اوتھ (حاجل کرن) بیٹھان۔ رتم لاکھ
چھ دوبرچہ گمراہی مفر (ہینہ آہتر)۔
بیمہ پر پتھ اکھ رسول پتھ اسر تندر قومہ چیر زبانی
منزبے (وہی دتھ) سوزرت بیٹھ زن سہ
تمن (سانہ کتھ) واش کڈتھ باو۔ پتہ (بیتدیر
کرتھ) بیس اللہ (تعالے ہلاک کرن) بیٹھان پتھ
تس چھ ہلاک کران تہ بیس (کامیاب کرن) بیٹھان
پتھ تس پتھ منزل مقصودس تام واتناہان تہ سہ
پتھ کابل پٹھ غالب (تہ حکمتہ وول)۔

بیمہ سوزاو اسر مؤس (تہ تریہ بروقتھ) سانی
نشانی پتھ (یہ حکم دتھ) نہ پین قوم اتن اہ
گتھ مفر کڈتھ محاشس کن۔ بیمہ پاوتن اللہ
(تعالے) بندر انعام تہ تندر عذاب یاد۔ (گیارہ
بلاشک چھ اتھ منز پر پتھ اکس پلور صہ کرن
واہس (تہ) پلور شکر کرن واہس کوہی کھو یاہس
(موجود)۔

بیمہ (اے مخاطب! تہ کر سہ وقت تہ یاد) بیس
موسیٰ ہن پسنس قوس و نیاو (نہ اے میانہ قومہ)
توہی کرو پسنس پانس پتھ اللہ (تعالے) سہ
(تہ وقتک انعام یاد بیسہ تم توہی فرعونہ بند بو
سیو باجہوشہ اتھ حالتس منز بچاوس و نہ تم
اسی و توہی سخت عذاب دووان۔ تہندہن نیچہ ہن
اسی مارن تہ تہندہن زناش اسی زہر تھوان تہ
اتھ منز اوس تہندہن پرور دکاہ بند طرفہ (تہندہ
خاطر) بوڈ (بار) امتحان۔

بیمہ (کرو سہ وقت تہ یاد) بیسہ تہندہ کرور دکارن
(نشین ہندوس) اعلان کریاو نہ (اے لاکھ)
اگر توہی شکر گنارینے و تہ بہ دمو توہی
بیمہ تہ جاو تہ اگر توہی ناشکری کرو تہ (یاد
تھو) بیون عذاب چھ بے شک سخت آسان۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ
قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلَّ اللَّهُ مَنْ
يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ①

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ
قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكَرْهُمْ بِآيَاتِهِ اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ①

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا
نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ
فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ
وَيَذْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ
نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ
عَظِيمٌ ①

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ
لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي
لَشَدِيدٌ ①

وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرًا أَنتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَخَبِيرٌ حَكِيمٌ ①

ہیہ و نیا موسیٰ بن (پتہ بس قومس یہ تر)
اگر تو ہی تم ہم (باتے لوگہ) ہم زمینس مفرسبان
چھو (سر) سالم کفر پر اوو تہ (متھ مفر ہیکہ
نہ خدایہ سد کانہہ نوقصان ایتھہ مکیانر) اللہ (تعالیٰ)

چھہ یقینا بے نیاز (تہ) سبٹھہ ہے تعریف و ول -
ہم لوگہ توہہ ہر و متھ اسی لینے نوح سد قوم تر
عاد تہ نمود یہ ہم ہمن پتہ اسی ہمن متعلق و اثر
و نا توہہ اہر بہناون و اجز خیرہ (تم گے تھو
نا یو تہ ہتھیا طو آہہ مساوتہ تر) اللہ (تعالیٰ)
ہس و راہی چھہ ہمن (و ہ فی) کانہہ (تر) زنان
(بیلیہ) ہمن ہن تہندی پیغمبر (ساد) گا شری
ہتاہہ ہتھ آہہ تہ تھو مانہ تہ تہنتر کتھ تہ وونکھ
(تر) یہ (تعظیم) ہتھ توہی سوزنہ آوتی چھو تیک
(تر) چھہ اسی انکار کر تھہ تھو تہ ہتھ کتھ کن
توہی اسر ناد کران چھو متھ متعلق چھہ اسی اس
بے قرار کرن و اس شمس مفر (پیوستہ) -

تہندلو پیغمبر و ون (ہمن تر) کیا توہہ چھو اللہ (تعالیٰ)
ہس متعلق کانہہ شک ہیس آسمان تہ ہتر تہند
پاؤ کرن و ول چھہ ہ سہ چھو توہہ امر موکھ آلو
کران تر ہتھ زن تہندلو گوہو مفر کیہنہ ہشاوکر و
تہ اس گنترتھہ میعادس تام دیو توہہ موہت - تمو
وونکھ (تر) توہی (تر) چھو اسی ہوکر بشر توہی
چھو ہتر شان تر ہتھہ چیز عبادت ساد جد
اجداد کران آوتی چھہ تہہ ہتھہ ڈالو اسر - او کتھ
(اگر توہی اتھ معاملس مفر پوزس پٹھہ چھو تہ)
اسر ہن الو کانہہ گاشتر ہتاہہ -

تہندلو پیغمبر و ون ہمن (تر) چھہ پوز تر) اگر
چھہ توہی ہوکر بشر مگر (سوتی چھہ یہ پوز تر)
اللہ (تعالیٰ) ہس پٹھہ ہنہو بندو مفر ہتر
چھہ تہس پٹھہ چھہ (خاص) احسان کران تہ یہ

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمٌ نُوحٍ ذَّعَادٍ وَتَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ②

قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَأَطِرِ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخَّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى و قَالُوا إِنَّا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَنُونا بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ③

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ تَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَئِنِ اللَّهُ يَمُنَّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ و مَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَنِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ و

عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱۷﴾

کہتے چھتے سائیں اکتس مشر ز اللہ (تعالے)
سند مکہ و لای الو اسی تو بہ نش کا نہہ نشا نہ
تہ مؤمن پیر اللہ (تعالے) ہس پیٹھے توکل کرن۔
تہ اسہ گو مت کیاہ پچہ نہ اسی کرو نہ اللہ (تعالے)
ہس پیٹھے توکل پیلہ زن تمو اسہ سائہ (حالیہ
مطابق) و تہ لوری مشر چھتے تہ یس دکھ تو بہ
اسہ و تہمت چھو تہ پیٹھے مشر سو اسی یقینا ہر
کران پکان۔ تہ توکل کرن والہن پیر اللہ (تعالے)
ہس پیٹھے توکل کرن۔

تہ یس لاکو کھن پر وو، تمو وزن پستہن (زبان کین)
پتہین ز اسی کرو و ضرور تو بہ پستہ ملک مشر
یا بیو توہر (مبہور گرشٹھ) سائیں دہس مشر
والہس (تہ یس تکلیفون نشہ ہنیکو پچتہ)۔ تہ پیٹھے
تہندہ پرور دکارن ہن (رزنون) پیٹھے وحی نازل
کر (ز) اسی کرو کہ تم ظالم یقینا ہلاک۔

تہ ہن (ہند ہلاکت) پتہ کرو و ضرور تو بہ تہ
مکس مشر آباد۔ یہ (وعدہ) پچتہ تہند حقہ یس
میانہ مقامہ نشہ کھوڑ تہ بیہ کھوڑ میانہ ہنہ
کرن واجنہن پیٹھو پتہن۔

یہ کور تمو (پستہ) کامیابی ہند خاطر دعا تہ پتہ
دلاو یہ (ز) پرتہ اھ بھو چھتے (تہ) پزرک دشمن
رور ناکام۔

تہ (دنیاوی عذاب) پتہ چھتہ (تہند خاطر) جہنم
(یہ تہمیک عذاب تہ مقرر) تہ تہس پیہ (تہتہ)
گر کپہ ون آب چاونہ۔

سہ چنہ تہ وامہ وامہ تہ سہل سہل ہنیکہ نہ تہ
شہلہ و تہ تہ پرتہ جاہ (تہ پرتہ اندہ) پیہ تہس
پیٹھے موت تہ سہ مر تہ۔ تہ امر علاو تہ چھتہ (تہندہ
خاطر) اھ سمع عذاب (مقرر)۔

تہن لوکن ہنر مثال یس پستہن پرور دکار سہند

وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ
هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصِيرَنَّ عَلَىٰ مَا
أَذِيتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿۱۸﴾

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ
لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي
مِلَّتِنَا فَأُوخِيَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ
الظَّالِمِينَ ﴿۱۸﴾

وَلَنُصَلِّبَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ
ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَارِبِي وَخَافَ
وَعَيْنِي ﴿۱۹﴾

وَأَسْتَفْتِحُكُمْ وَإِنْ خَافَ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيبٍ ﴿۲۰﴾

مَنْ ذَرَّاهُ جَهَنَّمَ وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ
صَدِيدٍ ﴿۲۱﴾

يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ
الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ
بِمُعَيَّنٍ وَمَنْ ذَرَّاهُ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿۲۲﴾

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ

(یعنی تندرین حکمن ہند) انکار کورمت چھو ، چھین
 یہ نہ تہندو اعمال چھو تمہ سونکر پانٹو میس اگر
 تیز طرفانہ والہ دہ ہر واون تہنری سان (دوڑا وقتہ)
 بنوتمت آسہ۔ یہ کیشرھا، تمہو (پسہ ہنس میںہ والہس
 وقتس، کیت) کومت چھو تمہ مشو پیہ نہ کانہہ
 حصہ (تر) تہندس اتھس مشو۔ پیہ چھینہ تھہ
 درنج تہا ہی۔

(اے مخاطب!) تریہ وچھتہ تانہ اللہ (تعالیٰ)
 ہن چھ آسمان تہ زمین پرہ تہ دانائی سان
 پاچہ کرہ دتو؟ اگر سہہ پیٹھ تہ توہہ کرہ و
 ہلک تہ (تہندہ بدل) انہ کانہہ بیکھ نو پادائش
 تہ یہ کتھ چھنہ اللہ (تعالیٰ) ہندہ خاطر کینہہ
 مشیل۔

تہ ہم ساری سپن اللہ (تعالیٰ) ہندس دربار
 مشو پتھ استا۔ اڈوئن (تہو اترہ) کمزور (زانہ)
 میںہ والہ (بہر کن والہن (تر) اسی تہ آس توہہ
 پتہ پکن والہ۔ او کتہ کیا توہہ ہیکہ وا اللہ (تعالیٰ)
 ہند عذاب مشو (دوڑا کین) اسہ نشہ کیشرھا
 دور کرہ؟ تم وشنکھ (درجواب) نہ اگر اللہ (تعالیٰ)
 اسہ ہدیت دیہ ہے تہ اسی (تر) دوہ ہنہ توہہ
 ہدایت (مگر وہ نہ کیا ہیکہ سپتھ؟) سنی
 بے صبری ہاونی یاسون صہر کن چھو (دوڑا کین) اسہ
 خاطر ایوسے (تر) سانہ خاطر چھنہ بچا و پانچ کانہہ
 تہ صورت۔

یہ بیلہ سورے معاملہ فاصلہ کر تھہ موکلہ تہ
 شیطان وہ (لوکن تر) اللہ (تعالیٰ) ہن اوس
 توہہ سرتو یقیناً اٹل و ہر کورمت تہ میںہ (تر)
 اوس توہہ سرتو (اکہ) و ہر کورمت مگر میںہ کور نہ
 سہ (وہر) توہہ سرتو پورہ۔ تہ میاڈ اوس نہ توہہ
 پیٹھ کانہہ تھہہ۔ آ، میںہ کور و توہہ پانس کن آلو

أَعْمَالُهُمْ كَرَمًا ۖ لِأَشْتَدَّتْ بِهِ
 الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ، لَا يَقْدِرُونَ
 مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ
 الصَّلُّ الْبَعِيدُ ۝

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، إِنْ يَشَاءُ يُدْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۝

وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ۝

وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ
 لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا
 فَهَلْ أَنْتُمْ مُّعْتَدُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ
 اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ
 لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءَ عَلَيْنَا أَجْرٌ غَنَّا أَمْ
 صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ ۝

۱۳

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ
 اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ ۚ وَعَدْتُكُمْ
 فَأَخْلَفْتُكُمْ، وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ
 سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ
 لِي، فَلَا تَلُونَنِي ۚ وَلَوْ مَوَّأَأْتُمْ
 أَنفُسَكُمْ ۚ مَا أَنَا بِمُصْرِخٍ لَكُمْ

رَأَيْ كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ
قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ﴿۱۷﴾

تو توہر مون و میون و عن۔ او کہو مہ کرو (دوولی)
میں سلامت۔ بلکہ کرو پسین پان سلامت (دو کہن)
نہ ہیکہ ہر جہند فریاد بوڑھتہ تہ نہ ہیکو توہی میون
فریاد بوڑھتہ۔ توہہ یس زن ہر اللہ (تعالیٰ) سند
شریک اوہس بتاوتہ قوموت۔ میں چھہ بروٹھٹے
تہنہر تہہ کتہ ہند انکار کوزمت (اتہ پیٹہ پیٹہ
خداے فراوان امر قسمک شریک کرن والہن)
فلمن ہند مخاطر چھہ لے شک کر لوٹھ غلاب (مقدہا)
تہ یو لوکو ایمان اؤنت آسہ تہ تو آسن (نیک
تہ) مناسب حال علمہ کر مشر، تم بین تہندس
پرور دکاہر ہند حکمہ سستی تہتہن باہن مشر
دائیل کرنہ بین (ہندین شہلین) تل کولہ لیکان
آسن۔ (تہ) تم مرزہن حسن (جنتن) مشر
لسان۔ بیہ آسہ تہہ تہند (اکھ اُک سندر باچتہ
یہ) دعا (نہ توہہ پیٹہ آسن) سلامتی۔

وَأَدْخَلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ
تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ﴿۱۸﴾

(اے مخاطب!) تریز و تہتہنا (نہ) اللہ تعالیٰ
ہن کتہ پاٹھر چھہ اکہ پاک کلامج حالت بیان کر تہہ؟
سہ چھہ اکہ پاک شلوک پاٹھو آسان بیٹکو مول
(مغربی سان) تقایم چھہ آسان تہہ تہج (پر تہہ
کا تہہ) لئڈ چھہ آسمانہ کس تھزرس تام (واثر
ہر آسان)۔

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا
كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ
أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿۱۹﴾

سہ چھہ پر تہہ و زہ سنس پرور دکاہر ہند اذ تہہ سستی بین
(سادر وار مہو دو ان لہ تہ اللہ تعالیٰ) چھہ
لوکن ہند مخاطر (حسن بکار بینہ واجتہ) سارے کتہ
ونان۔ تہتہ نہہ تم نصیحت لین۔
تہہ چھہ کتہ ہند حال چھہ بیچھہ شلوک پاٹھو یس رہس

تُوْتِيْ أَوْلَاهَا كُلَّ خَيْرٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا
وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ ﴿۲۰﴾

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ

لہ اتہ آیس مفر چھہ و نذہ آمت نہ اسلامک شجرہ طیبہ (پاک گل) و یہ پر تہہ زمانس مشر
تازہ ہو لینے صرف یوہے مذہب چھہ تہ مفر خدا رہد تہ اللہ تعالیٰ ہس سوز کلام کرن والہ لوکہ
پاؤ سپلن روزن۔

منز مزلہ کڈیہ (مزوتہ) ٹھنڈی آمت آسہ
(تہ) بیٹہ نہ (کڈیہ تہ) سوکھ تہ قرار (تامل)
آسہ۔

یو لوکو اپمان اوکنت چھ (تمن چھ اللہ تعالیٰ)
یہیہ تمایم روزن والہ (تہ پاک) کلامہ کہ موسیٰ
(یہ) دنیاوی زندگی منز تہ ثنابت قدمی
بخشان تہ اُخرتس (یعنی تہ زندگی) منز تہ
(بخشاکہ) تہ ظلمن چھ اللہ (تعالیٰ) ہلاک
کران تہ اللہ (تعالیٰ) یہ بہترہان چھ (تہ)
چھ کران۔

(اے مخاطب!) تریا وچیتہ تا (سنتہ) بمن
لوکن کن یو تا شکری کریتہ اللہ (تعالیٰ) بہتر
نعت بدلوتہ ترہو (تہ پانہ تہ گے ہلاک)
تہ پن قوم (تہ) وولکھ ہلاکتہ کس گرس منز۔
یعنی جہمتس منز تہ گرسن اتھ (ناہ گجہ) اند
دانہل تہ سو جاے چھ (روز کجہ جہاہ) سہٹھا
ناکاب۔

بیہ چھ (تمو اللہ تعالیٰ) ہس برابر کہ مرتبہ شریک
بتاوی ہتو میتھ زن (لوکن) تہنر و تہ رینہ ڈان، تہ
ون (تمن نہ اچھا، کینن دن وہن) تہلو طامنی
فایہ۔ پتہ آسو تو ہر بے شک (جہنم کس)
نارس کن مرٹھن۔

(اے رسول!) تہ ون میانن جن بدن بیہو
اپمان اوکنت چھ نہ تم آسن نماز جان پانٹھ ادا
کران تہ یہ کینرھا اسہ تمن دیتت چھ تمہ منز
آسن کڈیہ پانٹھوتہ (تہ تہ واپہ) تہ سانہ و تہ
خرتج کران۔ امہ بروٹھ نہ سہ وہہ پیہ بیہ
اند نہ کانہہ (ہیون) کنن آسہ تہ نہ آسہ کانہہ
سُو دوستی۔

اللہ (تعالیٰ) چھ سہ (ہستی) بیو آسمان تہ زمین

حَيِّثُهَا بِأَحْسَنُ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ
مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ۝۱۴

يُغَيِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ
الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ
وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ
مَا يَشَاءُ ۝۱۵

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَتَ
اللَّهِ كُفْرًا وَآخَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ۝۱۶

جَهَنَّمَ يَصَلُّوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ ۝۱۷

وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ
سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِن مَصِيرَكُمْ
إِلَى النَّارِ ۝۱۸

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا
وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ بَوْمٌ لَا
يَشْعُرُ فِيهِ وَلَا يَخْلُقُ ۝۱۹

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

پاؤ کر کے ہوتی ہے تو اوپر منتر چھن رُو د والہ
 تمہاری تہنہ خاطر میوہ رنگی رزق پاؤ کوہمت
 بیہ چھن ناو اکیانوں (ول) ہوا، مفت تہنہ
 خدمتس پیٹھ لاگتہ تھومت - بیٹہ زن تم تہنہ
 حکم سمندرس منتر پکن رتہ (بیٹے پاٹھ) دریا
 (تہ) چھن اجرتہ ورائی تہنہ خدمتس پیٹھ
 لاگتہ تھاوکر ہوتی۔

بیہ آفتاب تہ زون (تہ) چھن تہنہ خدمتس
 لاگتہ - تم (دو نوے) چھ تھاکر زون (پنہ) کام
 کران - تہ تمہ چھ راتھ تہ دوہ (تہ) مفت
 تہنہ خدمتس پیٹھ لاگتہ تھاوکر ہوتی۔
 بیہ یہ کینرہا تہ تو بہ موٹو تہ چھو ٹو تو بہ
 دیت تہ اگر تو بہ اللہ (تعالیٰ) ہنر احسان
 گنہ زنی بیو تہ امن ہنر گنہ بیکو تہ کرہ
 انسان چھ یقینا سہہ ہے ظالم تہ جادے
 ناشکری کرن ول۔

بیہ (اے مخاطب! سہ وقت کریاد) بیسہ
 ابراہمن (دعا کران) و نیاو (ز) اے میانہ
 پروردگار! یہ شہر (یعنی مکہ) بناون امہ
 واجہن (جائے) - بیہ ہر تہ میانہ نیچو کر تھاوکر
 امہ کتہ نش دور ز آس کرو اپز بن معبودن
 ہنر عبادت۔

اے میانہ پروردگار! ہتو چھ بے شک سہہا
 لوکہ گمراہ کرہ تھاکر ہوتی - لہذا تہ میانہ
 پاروی کر سہ (تہ) چھ میہ سہتہ (واٹھ تھاون)
 تہ تہو میانہ نافرمانی کر (تس متعلق تہ چھ میون
 بیہ عرض ز تس تہ بخوشی ز تکلیف) تہ چھکھ
 یقینا سہہ ہے بخشن ہار (تہ) پھپر کر پھپر کر
 رحم کرن ول۔

اے میانہ پروردگار! میہ چھ پستہ اولادو منتر

وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ
 مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَ سَخَّرَ لَكُمْ
 الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَ
 سَخَّرَ لَكُمْ الْوَاثِقَاتِ ۝

وَ سَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ۝
 وَ سَخَّرَ لَكُمْ الْبَلَدَ وَاللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۝

وَ أَنْتُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ
 تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ
 الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ۝

وَ إِذْ قَالَ رَبُّهُمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا
 الْبَلَدَ آمِنًا وَ اجْنُبْنِي وَ بَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ
 الْأَصْنَامَ ۝

رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَلْنَ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ
 فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۝ وَ مَنْ
 عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادِ

کینہہ چانس عزتہ ولس گرس لہ نزدیک ایتھہ
 اگس تڑھ وادی مشر بساؤر متی بیتھ مغز کاہتھ
 زراعت بنان چھنہ۔ اے میانہ پروردگار !
 (میہ چھ یہ اگس کورمت) بیتھ زن تم نماز
 زبر پیا سحر ادا کرن۔ لہذا تڑ پھرتا کہ لوکن ہندک
 دل تمن کن تہ تمن روز تہ رنگہ رنگہ میون
 ہند رزق دوان۔ بیتھ زن تم (ہمیشہ چون)
 شکرانہ کران روزن۔

اے سانہ پروردگار ! یہ کیشٹھا اسی کھنٹھ
 تھاوان چھ تہ یہ کیشٹھا اسی توراوان چھ
 تڑ چھکھ بے شک (تہ) سورے کینہہ زانان
 تہ اللہ (تعالے) ہس نیش نہ چھ کاہتھ
 چیز زمینس مشر تہ نہ آسمانس مشر کھنٹھ
 روزتھ مکان۔

پرستہ (تسمہ کنن) تفرین ہند حقدار چھرف
 اللہ (تعالے) سیکو (میانہ) بجر باوجود
 میدزہ پتوری) اسماعیل تہ اسحاق عطا کرکے
 چھ۔ میون پروردگار چھ (سپٹھ ہے) دُعا
 یوزن دول۔

(اے) میانہ پروردگار ! بہ تو میانہ زری بیتھ
 (ساری) بناؤکھ زبر پیا سحر نماز پران والہ۔ (اے)
 سانہ پروردگار ! (اسہ پیٹھ کر فضل) بیہ کرتہ
 میون دعا قبول۔

(اے) سانہ پروردگار بیہ وہ وہ حساب ہینہ
 پیہ تمہ وہ ہر بخترہ میہ تو میانس مابس ماجہ
 تہ سارے مؤمنن۔

بیہ (اے مخاطب !) بیک ظالم (کہہ والہ) یہ کینہہ
 کران چھ۔ تمہ نہنہ مہ زان اللہ (تعالے) ہرگز

غَيْرِ ذِي ذَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ
 رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً
 مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ
 مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿۱۸﴾

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُخْلِيهِ
 وَمَا يُخْفِي عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي
 الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿۱۹﴾

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى
 الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي
 لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿۲۰﴾

رَبِّ اجْعَلْ لِي مَقِيمَ الصَّلَاةِ وَ مِنْ
 ذُرِّيَّتِي ۖ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ﴿۲۱﴾

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلَا
 لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿۲۲﴾

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ
 الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِهِ

تَشْخَصُ فِيهِ الْاَبْصَارُ ﴿٦﴾

بے خبر۔ سچے بہن صرف تمہ دوہیں تمام
موبلت دوان یتیم دوہہ (تہنہز) اچھ (حیرتہ
سنتو) در لہجہ آسن۔

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ
اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۚ وَ اَفِيْدَةٌ لَهُمْ هُوَ اَعْمٰی ﴿٧﴾

پنؤ کھ تھوؤ رُتھہ آسن (تم) ترہرکتی دوان۔
(تہ) تہنہز نظر بین نہ (پھیرتھ) واپس تہنہز
دل آسن (آشورنہ) شہری۔

وَ اَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ
فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا آخِرْنَا اِلَى
اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۗ نَجِبْ ۗ دَعَوَتِكَ وَ
نَتَّبِعِ الرُّسُلَ ۗ اَدَلَمْ تَكُوْنُوْا اَقْسَمْتُمْ
مِنْ قَبْلِ مَا لَكُمْ مِنْ ذَوَالِ ﴿٨﴾

تہ تر کرکھ تم لاکھ خبروار تم دوہہ ہنہ سیدہ
تمن پیٹھ سہ عذاب سیدہ ایسیک و ہر کرتہ امت
چھ (یو لاکو ظلم (یعنی تمیک و طیر اختیار)
کورت آسہ (تمہ وزیر) ورن (ز اسے) سانہ
پرور دگار! سون معاملہ تروتن گنہ (سپیس)
نزدیکی معیادس نام پتھ۔ اسی کرو چاہنہ طرفہ
آہنہ دعوت قبول تہ (چاہن) رسون ہنر کرو
پاروی (یتھ پیٹھ بہن جواب میدہ نہ و ہن چھا
حجت پور گنہ صفت منہ کاشہ کسر باتے) تہ
توہہ اوسونا برونہ (کس پیٹھ) قسم کورت
نہ توہہ سیدہ نہ گنہ قسمک زوال۔

وَ سَكَنْتُمْ فِي مَسْكِينَ الَّذِينَ ظَلَمُوا
اَنْفُسَهُمْ وَ تَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهَمْ
وَ ضَرَبْنَا لَكُمْ الْاَمْثَالَ ﴿٩﴾

یلیلہ زن توہہ چھ بہن لکن ہند کر گہ پنؤ گہ
بناؤ ہن۔ یو توہہ برونہ (پنہن زون پیٹھ
ظلم کورت اوس تہ توہہ اوسو کتہ زبر پاٹھونے
ہنر زتن سہو کیتھ ورتا اوس اسہ کورت
تہ اسہ چھ سارے کتھ تہنہز با پتھ و اسس
گدہ تھ بیان کرکھ ہنر۔

وَ قَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَ عِنْدَ اللّٰهِ
مَكْرُهُمْ اِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ
مِنْهُ الْجِبَالُ ﴿١٠﴾

تہ یو (لوکو) چھ پنن (ہر کاشہ) تدبیر ورتا
منہز اومت تہ ہیہنہ (پہتھ) تدبیر چھ اللہ
(تعالے) اس ہن (رُتھرتھ) تہ باسے تہنہز
تدبیر اوستن تیتھ نہ تمہ سہو ڈول تن بال اتہ
پنہز جاہی تم ایکن نہ چن کاشہ نوقمان

(کرتھ)

او کوئی (اے مخاطب!) تڑ مہ زائن ہرگز اللہ
(تعالے) پستون رٹون سوتو پستہ وعدہ برنوف
(معاملہ) کرن وول۔ اللہ (تعالے) چھہ بیشک
خالب (تہ بکارن) سزا دین وول۔

(تہ سزودہ چھہ ضرورینہ وول) بیبہ دوہہ (یہ زین
تہ آسمان بدل او تھہ بیاکھ زین تہ آسمان تاہم
کرنہ یں تہ ہم (لوکھ) آسن اللہ (تعالے) اس
برو تھہ کتہ یس کتہ چھہ (تہ پر تھہ چہرس پٹھہ چھہ)
پلور پلور علیہ تھون وول۔

بیہ تمہ دوہہ تہ وچھہ ہیکھ تم مجھ زرخچن منز
کتھہ۔

تہنہنہ کرتھہ آسن (زن تہ) تار کولچہ (کرتھ کل)
بنیشر تہ (جہنہہ چہ) نار تھہ آسن تہنہنہ
بتھین ولہہ یوان۔

(یہ آسہ او موکھ) بیبہ زن اللہ (تعالے) پرتھہ
شخص، یہ کینہہ تھو (پستہ مخاطب) کورٹ
آسہ تمیک اجر دیہ۔ اللہ (تعالے) چھہ بیشک
جلد حساب ہینہ وول۔

یہ (ذکر) چھہ لوکن ہندہ (نہیت حاصل کرنہ)
خاطر کافی بیہ بیبہ کتھ کتھ (تہ) نہ تم ہین
(ہینہ والہ عذابہ لنتھہ پلور پلور) خبردار کرنہ۔
بیہ امر موکھ (تہ) نہ تم سید معلوم نہ اللہ
(تعالے) ہے چھہ صرف اکھ پوز معبود بیہ او
موکھ (تہ) نہ قتلہ وار (لوکھ) رٹن نہیت۔

فَلَا تَخْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفًا وَعْدَهُ
رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿۱۱﴾

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَ
السَّمَوَاتُ وَ بَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ
الْقَهَّارِ ﴿۱۲﴾

وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ
فِي الْأَصْفَادِ ﴿۱۳﴾

سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطَرَانٍ وَ تَغْشَى
وُجُوهُهُمُ النَّارُ ﴿۱۴﴾

لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ،
إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿۱۵﴾

هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَ
لِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَ
لِيَذْكُرُوا الْأَنْبَاءَ ﴿۱۶﴾

سُورَةُ الْحَجَرِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مَعَ الْبِسْمَلَةِ مِائَةٌ آيَةٌ وَسِتَّةٌ رُكُوعَاتٌ

سورۃ حجر۔ یہ سورہ چھ کئی تبسم اللہ بہتہ چھ آیتھ کہ آیتہ بیہ چھس شنیہ رکوع۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (اللہ تعالیٰ) سُنْد ناو بہتہ پدک ایس
حد رؤس کرم کرن وول (تہ) پھیرک پھیرک رحم
کرن وول چھ۔

الَّذِينَ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ
مُّبِیْنٍ ①

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وول۔ بسم چھ (اکہ) ممل
کتاہہ تہ (پنڑ مقصد) ویرھناون والہ قرار کراہہ۔

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَو كَانُوا
مُسْلِمِیْنَ ②

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (امیک) انکار کورمت چھ تم چھ واریہ
ولہ اور زورے کران نہ کاش تم (تہ) آسہ ہن
(امہ کتابہ ہندر) فرمانبرداری اختیار کرن اول۔

ذَٰلَهُمْ يَأْكُلُوْنَ وَيَتَمَتَّعُوْنَ وَيُلْهِمُهُمُ
الْأَمْلَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ③

تہ تراؤکھ تم کھینچ چھینچ تہ وقتی سامانوشہ
تفع تملس منزا اور کربتہ۔ بیہ (تراؤکھ تم
نہ تہنہنہ اپڑ) آسہ روزان ہمن فاضل کران تکلیف
تم کرن جلدہے (اصلیت) معلوم۔

وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا
كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ④

تہ اسہ کڑ نہ زانہہ کانہہ بستی امہ وراہی ہلاک
نہ تہ متعلق اسہ (بے نہ بروٹھ پٹھے) اکھ
ناکار فاصلہ سپد مت۔

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا
يَسْتَأْخِرُونَ ⑤

کانہہ قوم تہ ہیکہ نہ پسندہ (ہلاکتہ کر) میعاد
نہ نہ زولتہ تہ نہ ہیکہ تہ روزتہ (تہ
نہ پچھتہ)۔

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ
الْقُرْآنُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ⑥

بیہ وون تمو (سبھا زور سان نہ) اسے شخصہ
پنہس پٹھہ پہ فکر نازل کرنہ آمت چھ، تہ
چھاکہ بے شک دیوانہ۔

لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ
الصّٰدِقِیْنَ ⑦

اگر تہ پزیر چھاکہ تیلہ کیاز چھاکہ تہ تہ اسہ
بش ملا یک انان؟

مَا نُنزِّلُ الْمَلَكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا
إِذًا مُنظَرِیْنَ ⑧

(تمن چھنا پے نہ) آسو (تیلہ تہ) ملا یک (نازل
کران) چھ (تہ) حقہ مطابق (چھاکہ) نازل
کران تہ (تیلہ) کافون ہند خاطر نازل کران

چھکھ تیلہ (تمہ وقتہ چھتہ تمہن دکاقرن اکھ
 رثرہ تہ) مہہلت دہنہ یوان -
 یہ ذکر (قرآن) چھہ اسی تاویل کورنت تہ بیشک
 کرو اسی اسیح جفاظت -

بیہ عریہ برومٹھ (تہ) سوزایہ اسہ برومٹھو ہن
 (زمانہ کہن) لاکن ہنرن جمٹھن مفر رسول -
 تہ یس رسول تہ تمہن ہنش یوان اول تم اسی
 تس نامہ ترمان -

یتھامٹھو چھہ اسی پہ (خندہ کرکک عادت) مجرم ہنہنہ
 ولن مفر سٹو راوان -

ہم لاکھ چھتہ بیتھ (قرآس) پیٹھ ایمان انان -
 ییلہ زن برومٹھو ہن ہنہن (یعنی تہنہنہ حقہہ
 اللہ تعالیٰ سہنہ) سنت چھہ گڈ ریومٹھ -
 بیہ ہرگاہ (مثالی) اسی تمہن پیٹھ (زاد کارکی
 ہنہن) کانہہ آسمانی و تھہ ییلہ (تہ) تراہ ہو
 تم ہسپہ ہن تمہ ستر (قاید تیلہ) حقیقت
 زانہ تہ -

توتہ ونہ ہن تم (ہی زہ) سانبن نظرن پیٹھ
 چھہ منور پرد تراونہ آمت (نتہ چھتہ ہنہنہ
 بیلہ چھہ اسہ الاکن) پیٹھ (کانہہ) ہنہنہ آمت -
 بیہ چھہ بلاشک اسہ آسمان مفر (تارکن ہنہنہ)
 کھریا برج (سزل) بناوہ ہتہ تہ اسہ چھہ سہ
 وچھن والہن ہنہنہ خاطر ہنہنہ شکل ہنہنہ
 بیہ چھہ سہ اسہ (تمہ زاید) پرہتہ اُکس
 ہتھہ ہس (تہ) گڈتھ ترہنہ آہس (وجود ہنہنہ
 پلہنہ) رنتہ محفوظ کورنت -

مگر یس شخص ترور (الہی وحی ہنہنہ) کانہہ
 کتھ ہوزہ (تہ تھہ اول بدل کر تھہ پھیلاو) تہ

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذُّكْرَ وَإِنَّا لَهُ
 لَحَافِظُونَ ﴿۱۵﴾

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ
 الْأَدْلَانِ ﴿۱۶﴾

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ
 يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۱۷﴾

كَذَلِكَ نَسْلُكُ فِي قُلُوبِ
 الْمُجْرِمِينَ ﴿۱۸﴾

كَأَيُّؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ
 الْأَدْلَانِ ﴿۱۹﴾

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ
 فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿۲۰﴾

لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا
 بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ ﴿۲۱﴾

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَ
 دَرَيْنَاهَا لِلنَّظِيرِينَ ﴿۲۲﴾

وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيبٍ ﴿۲۳﴾

إِلَّا مَنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ
 شَهَابٌ مُبِينٌ ﴿۲۴﴾

تس پتہ چھ اکھ پر بزوں گاشہ لوہنگ لاکہ
یوان۔

تہ اسمہ چھ زمین و ہرومت تہ اتھ منتر چھ اسمہ
حکم پانزال استاد کرموتی تہ (بیمہ) چھ
اسمہ اتھ منتر پر چھ قہمک مینہ توالہ چیز
(وہ پداوی موتی تہ) نوؤ راوی موتی۔

بیمہ چھ اسمہ اتھ منتر تہند باپتہ تہ بیمہ (پر چھ)
تہ (پادایشہ ہند) خاطر تہ بین توہی رزق
چھ نہ ووان لسنہ بسکا سامانہ پاد کرموتی۔
بیمہ چھ کاشہ چیز تہند تہیکو (اتھ رسی) خزانہ
اسمہ نش آسن تہ۔ مگر اسی چھ تہ اکہ گندہ اندازہ
سیدی نازل کران۔

بیمہ چھ اسمہ (ابی بخار تو سستی) بار دار ہوا (تہ)
سوزی موتی تہ اسمہ چھ (تہند ذلیع) اوہر منتر
رؤد دولت۔ پتہ چھو سہ توہہ جوہر تہ توہر
ہیکہ ہو تہ پانہ سہ رزہر اوتھ (مگر اسمہ کہ ذلیع
چھ سہ اسمہ رزہر وومت)۔

بیمہ چھ پزری پانٹو اسی زہند کران تہ (اسی چھ)
ماران تہ اسی چھ (سارہ ہندک) وارث۔

بیمہ چھ اسمہ اسی توہہ منتر بروئہ نیرن وادی (تہ)
زانان تہ اسی چھ (تہ پانٹو توہہ منتر) چھ
روزن وادی (تہ) زانان۔

تہ بے شک کر چون پر دو گارے متن جمع۔ سہ
چھ حکمت وول (تہ) سہما زان وول۔

بیمہ چھ اسمہ انسان وزوہ منیر یعنی کرہہ

وَالْأَرْضُ مَدْذُنًا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ
وَأَنْبَثْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْذُونَ ﴿۱۵﴾

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ
لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴿۱۶﴾

وَرَأَى مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خِزْيُؤُنُهُ
مَا تَنْزِيلُ إِلَّا يَقْدِرُ مَغْلُوبُهُ ﴿۱۷﴾

وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً فَأَشْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ
لَهُ بِخَازِنِينَ ﴿۱۸﴾

وَرَأَى لَنْخُنُ نُحْيٍ وَنُؤْمِيتُ وَنَحْنُ
الْوَارِثُونَ ﴿۱۹﴾

وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْمُشْتَفِدِينَ مِنْكُمْ
وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْمُشْتَاخِرِينَ ﴿۲۰﴾

وَرَأَى رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ رَأً
حَكِيمَةً عَلَيْهِمْ ﴿۲۱﴾

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ

لہ یعنی بید معارف قرآن کریمیں متعلق جہات پھلاوان چھ خدا تعالیٰ سند طرف چھ
معجزانہ رنگس منفر بتقر حالات پاد سپدان یوسوتی منی لغن ہنز شرارت
ظاہر سپان چھید۔

حَمًا مَسْنُونٍ ﴿۱۵﴾

نرہہ ریشہ میں بیچ حالت بدلے مہتر آس ، پاد
کوزمت۔

وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ
السَّمُومِ ﴿۱۶﴾

تہ (امر) بروٹھ اسی آسہ جن سخت ٹرھٹہ
ماروہہ نارہ ریشہ پاد کوز مہتر۔

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ
بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَآ
مَسْنُونٍ ﴿۱۷﴾

بہ (اے مخاطب اسے وقت پاد ترہتس) بیٹیلہ
چاڈی پرور دکارن ملائکن و نیاو (نر) بہ چھس
وزوہہ میٹر یعنی کرہبتہ رہہ ریشہ میں بیچ حالت
بدلے مہتر آسہ ، اگھ بشر پاد کرن وول۔

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ
رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سٰجِدِينَ ﴿۱۸﴾

اد بیٹیلہ بہ سہ مکمل کرن تہ تنس یعنی تہندس
دلس (مفتر تراو پین کلام تہ توہی ساری نمو
زبو تنس سہتر) اللہ تعالیٰ ہس بروٹھ کتہ (سجدہ
کرن سہ۔

فَسَجَدَ الْمَلٰئِكَةُ كُلُّهُمْ اٰجَمَعُونَ ﴿۱۹﴾

بیٹھ پیٹھ سر سہلم ملائکو (تس سہتر خدایس) سجدہ
کوز۔

اِلَّا اِبٰلِيسَ ، اَبٰى اَنْ يَّكُوْنَ مَعَ
السَّٰجِدِيْنَ ﴿۲۰﴾

ابلیس وائی ، تمو کوز (محض خدایس) سجدہ
کرن والہن سہتر (رلہتہ) سجدہ کرہ ریشہ انکار۔

قَالَ يَا اِبٰلِيسُ مَا لَكَ اَلَّا تَكُوْنَ
مَعَ السَّٰجِدِيْنَ ﴿۲۱﴾

(اتھہ پیٹھ) فرموو (خداین نر) اے ابلیس !
تہیہ کیاہ گنووسے زہ ترہ چکھہ نہ رلان (خدا تعالیٰ
ہس بروٹھ کتہ) سجدہ کرن والہن سہتر ؟

قَالَ لَمَ اَكُنْ لَّا سَجِدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ
صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَآ مَسْنُونٍ ﴿۲۲﴾

تمو وولس نہ بہ چھس نہ بیٹھ نہ تنس بشر
سندو پاٹھو کر فرمانبرواری یس تہیہ دہہ دہہ
میٹر یعنی کرہبتہ رہہ ریشہ میں بیچ حالت بدلہ مہتر
آس ، پاد کوزمت چھتہ ۔

قَالَ فَاخْرِجْهَا مِنْهَا فَاِنَّكَ رَٰجِيْمٌ ﴿۲۳﴾

فرموولس (اگر چون یہ خیال چھہ) تہ ترہ نیر نیہ

سہ ہمہ ایک مطلب چھہ یہ زامیرن تہ کبری لوکن چھہ ناری طبیعت آسان تن چھہ وول
ولزکھ کھسان تہ ایمان دار چھہ نرم طبیعت آسان بیٹھہ کنو خلق من عجل عربی محاورک
منے چھہ تنس چھہ فطر تنس منتر جلد بازی داخل سہ بعضے مفروضہ چھہ تہ ترمیم کوزمت نہ خداین
وولن ملائکن آدس کرو سجدہ یہ چھہ قرآنی تعبیر خلاف امیک مطلب چھہ نہ آدم پوسن
پادالیشہ پیٹھ کرو آدس سہتر رلہتہ خدا تعالیٰ ہس سجدہ ۔

(یعنی نیبہ مقام پٹھوس بولن) تہ کیا نہ تہ
چھاکہ رد کرتہ آمت۔

تہ (یاد تھوز) جز ہس (تہ ستر ہس) دہس
تام روزہ تریہ پیٹھ (میانی) لعنت۔

تہ وون اسے میا نہ پروردگار! (اگر تہ میہ اولو
سزا دوان چھاکہ تہ تیلہ) دہ پیٹھ تہ دہس
تام موبت (تیلہ) ہم الو سہ زبند کرتہ) اتاہ
کرتہ بین۔

فرموس، تہ آسکھ موبت دہ آمتو اندہ۔

تہ گندہ وقاس تام (پیٹھ پیٹھ کتہ کتہ کرتہ
آہتر چھینہ)۔

تہ وون اسے میا نہ پروردگار! چونکہ تریہ
چھاکہس بہ گراہ ٹھہروومت، بہ نادر موزر تہ کرتہ
دنیہ ہس منز (گمراہی) خوبصورت بناوتہ تہ ہم
ساری کرکھ گراہ۔

مگر ہم چاہے تہ تہ تہ تہ بند چھ (تہ ہم میانس
فریس منز ہیکن نہ پیٹھ، تہ ہم نیکن)۔

(پتہ) فرموس، میں کن بیچ سینز وقتہ چھینہ پیٹھ۔

ہم میانی نیک بند چھ تہن پیٹھ آسہ نہ نہہ
تہ چون قبندہ۔ آ، ہم نفر ہم تریہ بہ تہ ہیکن یعنی
پانے گرتہن گمراہ۔ (ہم چھینہ تہن منز شمار)
تہ تہ ہم چھ بلاشک تہن سارہ ہند (خاطر)
وہرتہ جاسے۔

تہ چھ ستھ دروازہ (تہ تمکہ) پر تہ دروازہ،
خاطر آسہ ہیکن (کافرن) ہند اکھ گندہ حصہ۔

متقی (الاکھ) سیدن بے شک باعن تہ تاہن
(ہندین مقامن) منز داہل۔

(تہن پیہ و تہ تہ) توہی اترہ سلامتی سان
بے خوف (وخطر) تہن منز۔

وَأَنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿۳۱﴾

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿۳۲﴾

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿۳۳﴾

إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿۳۴﴾

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ
فِي الْأَرْضِ وَالْأَغْوِيَّتَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۳۵﴾

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿۳۶﴾

قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴿۳۷﴾

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ
إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿۳۸﴾

وَأَنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْءُودُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۳۹﴾

لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ
مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ﴿۴۰﴾

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿۴۱﴾

أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ أَمِينٍ ﴿۴۲﴾

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غَلِيٍّ
إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿۵۰﴾

بہ تہنہن سہان مشزیس کہہ (بیتر) تہ
آسہ سہ کڈو کہ اسی۔ تم آس بائی بائی ہبتہ
(جنتس مشز روزان تہ) تختن پیٹہ (آس) اکھ
اگس بروٹھ کہہ (بہتہ)۔

لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ بِئِهَا
بِمُخْرَجِينَ ﴿۵۱﴾

نہ آس تم یمن مشز کا شہہ تھکن تریان تہ نہ یمن
تم تمو مشز زائہہ کڈتہ۔

نَبِيٍّ عَبَايَ أَيُّبَىٰ إِنِّي أَنَا الْعَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿۵۲﴾

(اے میانہ پیغمبر!) میانہن بدن دغبر زہ
بر چھس سبٹہ ہبہ بختن ہار (تہ) چھہرہ پھہرہ
رحم کرن دول۔

وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿۵۳﴾

بہ (یہ) زرمیون عذابے چھہ (تکرہ) کرلوٹھ
عذاب (آسان)۔

وَنَبَّأَهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ﴿۵۴﴾

بہہ درتمن ابراہیم سندن پڑھن متعلق تہ خبر
یہیہ تم تس تیش آہہ تہ ووٹکھ (اُسی چھوٹوہ)
سلام کران) تہ تمو ووٹکھ (نہ) اسہ چھہ (تہتہہ
میںہ کہو) کھوڑن پلان۔

إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ
إِنَّا مِثْلُكُمْ وَجَلُونَ ﴿۵۵﴾

تمو ووٹس (نہ) تہ مہ کھوڑ، اُسی چھہ تریہ اگس
سبٹہا علمہ واپس فرزندہ سنز خوشخبر پیش کران۔

قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ
عَلِيِّ ﴿۵۶﴾

تمو ووٹکھ (نہ) کیا توہہ چھو میانہ بُڈ گرشہہ
پتہ تہ میہ خوشخبر ڈر مشز؟ (ادو وڈ تو نہ) کتھ
بنہ ہس پیٹہ چھو توہی میہ (یہ) خوشخبر دوآن۔
تمو ووٹس (نہ) اسہ چھہ تریہ پڑ خوشخبر ڈر مشز
لہذا مہ گرشہہ تہ نا ووہید۔

قَالَ ابَشِّرْهُمُوْنِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِي الْكِبَرُ
فِيمَ تَبَشِّرُونُ ﴿۵۷﴾

تمو ووٹکھ (نہ) یہ کتھ پانٹو ہبکہ نا ووہید گرشہہ
تہ وڈ ڈر مہ تمو وڈی کس چھہ پنسنس پر وڈوگاہ
سندہ تہتہ تہتہ نا ووہید گرشہہاں؟

قَالُوا بَشِّرْنَا بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ
الْقَائِلِينَ ﴿۵۸﴾

(پیتہ) ووٹن (نہ) اچھا) اے (خدا یہ سندلو)
فرستادو (سہ) تہنتر ضروری کام کیاہ چھہ
(یہیہ خاطر توہی سوزنہ آوتی چھو)۔

قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا
الضَّالُّونَ ﴿۵۹﴾

تمو ووٹس (نہ) اُسی چھہ اگس مجرم تووس کن

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿۶۰﴾

قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ

مُجْرِمِينَ ﴿۵۵﴾

إِلَّا أَل لُّوْطٍ إِنَّا لَمَتَّجُوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۵۶﴾

دہنہر ہاکتہ ہا پتھ (سوزنہ آہتہ -

امہ پوز لوط بندو پارو کارو وراہی (نہ) اسی

بجا وکھ رقم ساری -

آ، سبز آرتنہ متعلق چھ سون اندازہ زسہ

آسہ پتھ روزان والہو (تہ ہلاک ہدن والہو) مشنہ

اد بیلہ سانی سوزی ہتی لوط (تہ تمو) ہدنہن

پارو کارن نش آہی -

تہ تمو وون (دہن نہ) توہی چھو (یتھ علاقس ہنہن)

وہ پیر (بوزنہ یوان) -

تہو وونس (اہل) کتھ چھینہ نہ اسی چھ شہ

ہنش (تہر غدا پچ) خبر ہتھ آہتی ہتھ متعلق

ہکم (لوکھ) شک کران رودی ہتی چھ -

تہ اسہ چھینہ نہ ہنش پڑھ دار خبر ازی ہنہر تہ

اسی چھ پڑی ہارہ -

او کتی تہ میر نہ (ہینیتہ) راتہ ہند ہتی میر ہیرہ

(گنہ ساتہ) پتہر ہر ہاتہ ہتھ - تہ (پانہ) رڈ کرہ

ہنہن پتہ پتہ تہ توہہ ہنہن پتہ کاتہہ پوت پتہ پتہ

نظر دہیہ تہ پتہ پوت ہنہن ہتھ توہ ہنہن دہنہ یوان

چھو، توہی ہنہن نہو (توہی ساری) -

ہیہ وڈی اسہ ہنہن یہ کتھ پڑھ سان نہ ہنہن لوکن

ہندہ مائل ہنہن صبح (سپہ و سنے) تہ ہتھ تہ ہنہنہ -

تہ تہہ شہرک لوکھ آپہ خوشیہ کران کران تہس (لوٹس)

ہنش (امہ خیالہ نہو نہی چھ تہہ رٹنک موقعہ میولنت

(یتھ پتھ) تہو دہنہن، وون نہ، ہکم لوکھ چھ

میانی پتہر م - توہی مہ کڑو مینہ (تہ ہکم کھوڑا وقتہ)

رسوا -

تہ اللہ (تعالیٰ) سہ تقویٰ پرا و تہ مینہ مہ کڑو

ذہیل -

تہو وونس اسہ اوسے ناثر نہی پتہ کاتہہ وہ پیرس

إِلَّا أَمْرَاتَهُ قَدَرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ

الْغَابِرِينَ ﴿۵۷﴾

فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ بِالْمُرْسَلُونَ ﴿۵۸﴾

قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّكَرُونَ ﴿۵۹﴾

قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ

يَمْتَرُونَ ﴿۶۰﴾

وَأَتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصِدْقُونَ ﴿۶۱﴾

فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ

أَذْيَابَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَ

امضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿۶۲﴾

وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَٰلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ

دَابِرَهُمْ هُوَ لَاءٌ مَّقْطُوعٌ مُّضِيحِينَ ﴿۶۳﴾

وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ

يَسْتَبْشِرُونَ ﴿۶۴﴾

قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ صَافِيُونَ فَلَا تَفْضَحُوا

وَلَا تَنْفُوا لِلَّهِ وَلَا تُخْزَوْنَ ﴿۶۵﴾

قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿۶۶﴾

قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿۶۷﴾

قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿۶۸﴾

قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿۶۹﴾

قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿۷۰﴾

قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿۷۱﴾

قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿۷۲﴾

قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿۷۳﴾

قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿۷۴﴾

تو پرس پانس نش روزتہ دینہ رتہ منع کورمت۔
تو وونکہ (ز) اگر (میںہ خلاف) توہہ کینہہ کرنے
آسرو توہہ بیک کہ چھینہ میانہ کور (توہہ منز یا کور
آمشر بیک چھینہ کافی ضمانت)۔

(اے سائہ نشیہ!) چانہ زندہ گی ہنزدہ سب
(ز) بیک (چانہ مخالفت تہ) بھو بے شک (تہندک
پاٹو) پسندہ بدستی منز گیران۔

اتھ پیٹھ رڈو توہہ (وعدہ والی) عذبن رتم
(یعنی لوط سد قوم) آفتاب کھسہ وٹسے۔
تھ پیٹھ اسر تھہ لبتی تلک پیٹھ کور، تہ جن
پیٹھ وول ڈزہر میشر بنے مشرن کنہن ہند
رؤد۔

اتھ (کتھ) منز چہ زہر کی کھام ہبتہ والہن
کتھ بے شک کھو یا نشا تہ۔

تہ سو لبتی (چھینہ کائہہ گننام جاے بلکہ) چھینہ
اگس بچہ پکبہ وٹہ وٹہ پیٹھ بلہ
اتھ (قبس) منز چھہ مؤمنن ہند (کایدہ) خاطر
بے شک کھ نشان (موجود)۔
بیہ "ایکھ" (والی تہ) آسو پزری پاٹھو فہلم۔

او کئی وژاو اسر تہمن تہ (تھتھہ پاٹھو سنجت)
سزا تہ بیک وولوس جاہی، چھینہ اگس (صاف تہ)
ننہ وٹہ پیٹھ۔

حجر والہو (تہ) اپزاوے یہ بلشک (سائی) پیغمبر۔

تہ تہمن (تہ) وژایہ اسر پیٹھ (پر تھہ قہیک) نشا تہ

قَالَ هُوَ لِآءِ بَنِي إِدْرِيسَ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ۝۱۷

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ
يَعْمَهُونَ ۝۱۸

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ۝۱۹

فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمَا سَافِلًا وَأَمْطَرْنَا
عَلَيْهِمْ حِجَابًا مِّن سَجَائِلٍ ۝۲۰

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمُتَوَسِّمِينَ ۝۲۱

وَلَا تَهَاكِبْ سَبِيلَ مُقِيمٍ ۝۲۲

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمُؤْمِنِينَ ۝۲۳

وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ
لظالمين ۝۲۴

فَأَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ۝۲۵ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ
مُّبِينٍ ۝۲۶

وَ لَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ
الْمُرْسَلِينَ ۝۲۷

وَ اتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا

۱۔ حضرت لوط ہنز یہ بستی اُس حجاز پیٹھ شام مورہن واجبہ وٹہ پیٹھ۔
۲۔ ایک کھ چھ ولس ونان حضرت شعیب سد قوم بیک مدینہ نزدیک اگس ولس منز روزان
اُسی۔

مُعْرِضِينَ ﴿۷۰﴾

بے نیکی پہنچ (ولہ) یہ سپردِ رحم سپردِ تمہارے
بجھو پھر۔

وَ كَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا
أُمْنِينَ ﴿۷۱﴾

یہ اسی تم بان ہند کی کہنے اندر تڑپتے ہیں گھر
امنہ سان بناوان (تہ زندگی گزاروان)۔

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُضِحِينَ ﴿۷۲﴾

تہ صبح سپردوں (ہے) رُڑپ تم تھی (وعدہ اولیٰ)
عذاب۔

فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۷۳﴾

یہ یہ (مال) تم سہ نبران اسی تمہی دیت تہ تم
(تہ وزر) کا نہ تہ فایده۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ
لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ﴿۷۴﴾

یہ پھر اسہ آسمان تہ زمین تہ یہ کثیر تھا، تم
دونوں درمیان چھ، پیر تہ دانائی) سان پاد
کورمت تہ سہ (وعدہ واجتہ) گھر چھین پڑ
پاٹھو پتہ واجتہ او کتہ آس تہ (تمہنزن زیارتین
پیٹھ) سہٹھا معاف کران۔

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ﴿۷۵﴾

بے شک جان پروردگار چھ سہٹھا پاد کران اول
(تہ) زبر پاٹھو زنان وول۔

وَلَقَدْ آتَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴿۷۶﴾

یہ بھی اسہ تہ بے شک ستھ پھیر پھیر
پر تہ پتہ والی (آپ) تہ (سہٹھا بڈ) عظمت وول
قرآن دیت مت۔

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ
أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ
وَأخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۷۷﴾

یہ یہ اسہ تمہو اندر کیشن جماعتن (عاشق نھٹ)
سامانہ دیت مت چھ تھ کن مہ وچھ اچھ پھیر
پھیر تہ تمن (منزرتبا ہی) پیٹھ مہ کھینہ نم
تہ مؤمن پیٹھ تھاو پتہ (شقتگ) آتھ۔
تہ ون یہ چھس اکھ نہ وانہ بیدار کران وول۔


وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴿۷۸﴾

او کتہ ز (خدا تعالیٰ چھ ونان تہ) اسہ چھ
تمن (لوکن) ہند خاطر (تہ) عذاب مقرر کر تھ
تھوومت بھو (رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم)
تھوومت سارن منتر پتہ) ذمہ وار یہ باگراو
متر آہ۔

كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴿۷۹﴾

- الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ۝
- (یعنی) تم (الوگہ) کیجو قرآن اپرن کھنٹ ہنتر
(سومرن) تمھروومت اوس۔
- فَوَرَّتْ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝
- لہذا چاہن پروردگار ہنتر دہے۔ اسی ہمو
تم سارے جواب۔
- عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝
- تمن کا ہن متعلق ریم تم کران اسی۔
- فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ
الْمُشْرِكِينَ ۝
- لہذا سیمہ کتھ ہنتر (واتناوتک) ثریہ حکم
دتر یوان چھے سو ون (لوکن) واتن کڈتھ۔
- إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُشْتَهَرِينَ ۝
- تہ یمن مشرکن (ہنتر کتھ) نشتہ روزاندکن۔
اسی تمھوتھ تہ بے شک یمن کھٹھ مخولہ
کرن والین (ہنتر شر) رشتہ بیچاوتھ۔
- الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ
فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝
- یم اللہ (تعالیٰ) ہس سوتو ہوتو یا بیہ معبود
بناولن چھ اچو تم کرن عنقریب (تمیک تہ) معلوم۔
- وَلَقَدْ تَعَلَّمَ أَنتَ لَوْلَا صَدْرُكَ بِمَا
يَقُولُونَ ۝
- بیہ چھ اسی پڑی پاتھو زانان نہ کیترھا تم دنان
چھ تمہ سوتو چھے ثریہ دل تنگ گرتھان۔
- فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ
السَّاجِدِينَ ۝
- لہذا تہ کر سبھس پروردگار سند شکرانہ کران
(تہنتر) سبھس۔ تہ (تہنڈو) کابل فرما نبروارو
منز بن!
- وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۝
- بیہ روز سبھس پروردگار ہنتر عبادت کران
یوتام ثریہ موت (بیک ساعت) بیہی۔

۱۔ عام ترجمہ کارو چھ "عیفین" لفظک ترجمہ "چھلہ چھلہ" کوڑمت مگر لغتس
منز چھ ایک ترجمہ "اپڑ" تہ یس اسر اختیار کوڑمت چھ۔



سورة نحل - یہ سورہ پچھم کی ہے۔ بسم اللہ پہلے پڑھو گے۔ اگلی آیت کئی آیتیں ہیں۔ سورہ رکوع۔

(بہ چھس) اللہ (تعالیٰ) سدا و ہتھ (پران) یس حد رؤس کرم کرن وول (تہ) پھیر پھیر کر
رجم کرن وول چھہ۔

(اے میکرو!) اللہ (تعالیٰ) سدا حکم چھہ پٹس
تیار اوکھو مہ کھرو توہی (وول) امیر کھ ورتھ
پیکٹ مطالبہ۔ سہ چھہ پاک (ذات) تہ بسمہ
(کھتہ) تم (کافر) بشرک متعلق زمان چھہ۔ سہ
چھہ تمونشہ سبھا تھود۔

سہ چھہ ملائیک پستہ اسر منکر کلام دتھ پستہ
بدن کن، پن سہ پسند کران چھہ، تا زل کران
(تہ پستہ کرن زمان) نہ (لوکھ) کر لوکھ آگاہ نہ
یہیہ کتھ چھہ درست نہ میہ سوا چھہ کاتھہ تہ
(پوز) معبود، اوکھو توہی بنا وول (مصبوتہ
پستہ) پستہ بجاوک نہ لہیہ۔

تمو چھہ آسمان تہ زمین پتہ (تہ دانائی) سان
پاد کرک ہتی (تہ) سہ چھہ تہندلو شرکہ برتہ
خیالو پستہ سبھا تھود۔

تمو چھہ انسان اکہ (ادنیٰ) لظہ منکر پاد کرکوت
پتہ چھہ سہ (پستہ) پانس تیوت نوڈ زان، ہوان نہ
اسر متعلق چھہ) سہ نہ واپہ ترون گور بنان۔

بہ چھہ چار یا پاد کرک ہتی تہ تم چھہ تھتھ
بتا و ہتی نہ من منتر چھہ تہند با پتہ و شنیرک
سامانہ۔ بہ چھہ (بہ تہ) کھو یا نایہ۔ بہ چھہ
توہی تہند (یعنی تہند مازک) کینہ حصہ کھوان۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①

اِنِّیْ اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ
سُبْحٰنَہٗ وَتَعٰلٰی عَمَّا یُشْرٰکُوْنَ ①

یُنزِلُ الْمَلٰٓئِکَۃَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِہٖ
عَلٰی مَنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادِہٖ اَنْ اَنْزِلُوْا
اِنَّہٗ لَا اِلٰہَ اِلَّا اَنَا فَاتَّقُوْنَ ①

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ
تَعٰلٰی عَمَّا یُشْرٰکُوْنَ ①

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَۃٍ فَاِذَا هُوَ
خَصِیْمٌ مُّبِیْنٌ ①

وَ اَلَا نِعَامَ خَلَقْنَا لَکُمْ فِیْہَا ذُرِّیَّۃً
مِّنْکُمْ وَ مِنْہَا تَاکُلُوْنَ ①

سہ ییر تہتہ چرب، والہ تہ لحمیات (PROTEINS) ہم ساری چھہ و شنیرک سامان۔

وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَ
حِينَ تَسْرَحُونَ ﴿۱۰﴾

بہ (امہ علاؤ) بیلیہ توہی تم کاسہ کھیادھ شامین
(پستین گرن کن) واپس انان چھووکہ بیتھے پاکو
بیلیہ توہی تم صبح پتی کاسہ کھیادھ نپین پ
کاسہ چرائن کن) ،وان چھووکہ پتھہ منز پھہ
تہند باپتھہ زینک پتھہ بجرک سامانہ آسان۔

وَتَحْمِيلُ أَثْقَالِكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ
إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرؤُوفٌ
رَّحِيمٌ ﴿۱۱﴾

پتھہ تم چھہ تہند بور تہتھہ تھہ (دور کس) شہرس
تام پتھہ گزھکان ، یوت تام توہی پتی زوسختی
منز تراونہ ورائی ہیکہ ہو پتھہ (سہ) واتنا وھہ
تہند پرور وکار چھہ یقینا (توہہ پتھہ) جساہ
شفقت کرن وول (پتھہ) پھیرک پھیرک کرک وول۔
بہ چھہ تھہ گزھ پتھہ کاتر پتھہ خرا پتھہ تہنہ سوار
باپتھہ پتھہ (بہ) شوہر (پتھہ شاپ) خاطر (پاؤ
کرو پتھہ) پتھہ (آئینہ پتھہ) کرسہ (تہند خاطر
سوار ہند ہریمانہ سامانہ) پاؤ۔ یکم توہی (وتہ)
زانان چھو پتھہ۔

وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ لَتَكُونُنَّ هَٰذَا
زِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۲﴾

بہ چھہ (توہہ) دینچ سیور وھہ (ہاؤنی پتھہ)
اللہ (تعالیٰ) ہند مہلہ پتھہ (امیک ضرورت
چھہ اوکونہ) ،تھو (دینچ چھو ووت) منز چھہ
کیپتھہ ہجہ (آسان)۔ وہہ کوہ ہر گاہ سہ (اللہ
تعالیٰ) پتھہ مرضی نافذ کرہے۔ پتھہ توہہ
سارنہ دیہے وھہ ہدایتہ۔

وَعَلَىٰ اللَّهِ قَضُ السَّبِيلِ لَ مِنْهَا
جَارِبَةٌ وَكَوْشَاءٌ لَّهَٰذَا جَمْعِينَ ﴿۱۳﴾

سے چھہ (اللہ تعالیٰ) سیکو اوہر منز آب ووت
چھو تھہ منز چھہ توہہ چپنک آب پتھہ دستیاب سپان
پتھہ امی سھتو چھہ تم کلہ بیتر (پتھہ تیار) سپان
مین منز توہی (چاروائی) کاسہ کھیادھ

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ
مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ
تَسْتَمُونَ ﴿۱۴﴾

لہ اتھ ایس منز چھہ صاف پاکو ریل ، ہوائی جہاز ، سمندر کی جہاز پتھہ موٹر بیتر سوار پ
متعلق پیشگوئی ۔ لہہ بیتھہ طم اللہ تعالیٰ ہنہ ذیوی سفر خاطر آسانی ہند۔
سامانہ پاؤ گزھ پتھہ چھہ ، پتھہ پاکو چھہ روحانی سفر خاطر پتھہ تھو پتھہ زمانس منز
انس کتو روحانی سامانہ پاؤ گزھ پتھہ۔

يُثَبِّتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالرَّيْثُونَ وَ
التَّخْيِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۱۷﴾

چھو (وگہ)۔
سے چھ تمہے دوسے تہندہ خاطر فصل تہ زیتون
تہ کھجور کئی تہ دھچ تہ (بیس) پرتھ قہیکو مہو
پاؤ کران۔ بہن لوکن ہندہ خاطر چھ اتھ منز
لیتیا اکھ (ٹاکا) ہشائہ (موجود) ، یکم بوزہ

وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَ الشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۱۸﴾

شوزہ کام ، ہوان چھ۔
بیس چھ تھو راتھ تہ دہہ تہ آفتاب تہ زون تہندہ
خدمتس پیٹھ لاکتھ تھادو ہوتی۔ بیس (باپتے)
ساری (سیار تہ) تارکھ (تہ) چھ تہندہ تہندہ
خدمتس پیٹھ مقرر۔ یکم لوکھ عقلہ کام ، ہوان چھ
تہندہ خاطر چھ اتھ اندر بے شک کئی یا ہشائہ
(موجود)۔

وَمَا ذَرَأْتُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿۱۹﴾

بیس یک مختلف قہمن ہندہ چیز تھو تہندہ خاطر
رہسپس اندر پاؤ کرکوتی چھ (اتم ساری چھو
توہر بکار ہوان) بہن (چیزن ہندس پاؤ کرکس)
منز (تہ) چھ بہن لوکن ہندہ خاطر ، بے شک
اکھ نشان (موجود)۔ یکم نصیحت رمان چھو۔

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِنَا كُلِّ أَمْنَهُ
لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُ مِنْهُ حَبِيَّةً
تَلْبَسُوهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ
فِيهِ وَتَلْتَبَتُّوهَا مِنْ قَضِيهِ وَ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ﴿۲۰﴾

تھو چھ سمندر (تہ تہندس) خدمتس پیٹھ لاکتھ
تھوومت پیٹھ توہی تہہ منز (گاڑ ہند) تازہاز
کھنیو ، تہ بیس کڈو تہہ منز گہنہ (باپتھ سامان
تہ) یکم توہی (لوکھ) لاگان چھو۔ بیس (اسے
مقابل) تہ چھاکھ وچھان تھہ منز ناو آب
ترمان (تہ زورسان پکان) یکم او مہ کھ پکان
چھنیہ تہ توہی کرکوتی سمندری سفرے)۔ بیس تھیزن
توہی تہندہ بیس کینہہ فضل (تہ) تھانڈو بیس
پیٹھ توہی (تہند) شکرنہ سبھا اوفو۔

وَالْقَلْبِ فِي الْأَرْضِ ذَوَاتِهِ أَنْ تَمِידَ بِكُمْ
أَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۲۱﴾

بیس چھ تھو زمینس منز (توورن قائم تھونہ
موکھ) مضبوط پانزمال بناکوتی۔ امیرکزی زوسہ
یتھنہ توہہ (پسنبہ گردشہ ہوتی) چکرس منز
تراوڈو۔ بیس چھ (تھو تہندہ باپتھ) داریاہ

دُریاو (پکٹاوی ہوتی) تہ واراہ (تمشکی) ہستہ
وتہ (تہ بناوی مشر) بیٹھ توہی (سہل پانٹھی
پستہن منزل مقصودن تام) وتھ لبو۔

یہ (چھ امہ علاوہ تمہ) وتہ لبہ خاطر (واراہ تہاہ
تہ (تاقیم کرک ہوتی) تہ تارکو ہند ڈرلیج (تہ) بچھ
تم (لکھ) وتھ لیان۔

اد (وڈی تو تہ سہی ز) کیا یس یاد کران چھ
سہ بکیا تس ہیو آہستہ یس (کہنی تہ) یاد چھتہ
کران؟ کیا توہر چھونا تمہ پتہ (تہ) فکر تران؟
یہ اگر توہی اللہ (تعالے) ہند کر احسان گنراوڈی
ہیو تہ توہی ہیکو تہ (زاہ) تہند احاطہ کر تھ
اللہ (تعالے) چھ یقینا سہا (ہے) بخت ہار
(تہ) چھہر کہ چھہر کہ رحم کرن وول۔

یہ یہ کینترھا توہی کھان چھو تہ یہ کینترھا
توہی تون کڈان چھو اللہ (تعالے) چھ تہ
(سورے) زانان۔

تہ اللہ (تعالے) ہس وراہی یمن (اپز بن معولن)
تم ناد کران چھ تم ہیکن تہ کہنی (تہ) یاد
کر تھ (تہ امہ علاوہ چھینہ یہ کہتہ تہ) تم چھہ پانہ
یاد کر تہ یوان۔

تم چھ (ساری) معورہ، زہد چھینہ تہ تم
چھینہ (ہے تہ) زانان تہ (تم) کرین (دوبارہ)
تہ۔

(اوپر تھو زہر پانٹھی یاد ز) تہند معبود چھ
اکے معبود تہ ہم لکھ آخست پانٹھی اپمان چھینہ
انان۔ تہند دل چھ (پزہر ہشتہ) انزان تہ
تم چھہ کرین کھم ہوان۔

یہ چھہ پڑھ لایق کہتہ نو پہ تم ثورہ پانٹھی
کران چھہ (تہ) تہ یہ تم شہ وانہ کران چھہ (تہ)
چھہ اللہ (تعالے) زانان۔ سہ چھینہ کہہ کرن والہن

وَعَلِمْتَ ۙ وَاللَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿۱۵﴾

أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۱۶﴾

وَأَنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۷﴾

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ ۚ وَمَا تُلْهِنُونَ ﴿۱۸﴾

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿۱۹﴾

أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ ۚ أَتَىٰ أَنْ يُبْعَثُونَ ﴿۲۰﴾

إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۚ قَالِذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿۲۱﴾

لَا جَزَاءَ لَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ ۚ وَمَا تُلْهِنُونَ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿۲۲﴾

ہرگز پیسند کران۔

پسے بیلیہ تمس و نونہ چھ پوان (تر) سہ اکلام) لیس
تہندک پروردگارن نمازل کوزمت چھ کوتاہ (شاندر)
چھ، تہ تم چھ دنان (یہ چھنہ خلیہ سند کلام بکے)
پم چھ برو تھو ہن لوکن ہندک داستان۔
(امہ دوکھ وہی ہند) نتیجہ سیر پہ نہ تم تن
قیامتر وہ بہ پتو باری تہ پور پور تہ تم ہندک
ہارک تہ ہم تم علم بنار گمراہ کران چھ۔ پوزو! لیس
لور تم تلان چھ سہ سہ سہ ہے ناکار۔

پم لاکھ تمس برو تھو اسی تھو (تر) اسی (پسنہ
زمانہ کہن پیسین تھلات) تدیر کرکرتی۔ نیہ کہی
اللہ (تعالے) تہنزن (تدیرن ہنزن) لرین
ہندین کہن نش (تہند تباہ کرہ نہ خاطر) آو۔
نیہ کہی تہندک پیش چھو کہی تمس پٹھ و تھ آہ
تہ (تند یہ) عذاب آو تمس پٹھ تہ و تہ یو ہ
تہ تم زانان اسی۔

پتہ کر سہ قیامتر وہ بہ تمس رسوا تہ و تھ
(نرووڑ) کہتہ چھ میانی تم شریک پھند باعشہ
توہی (میانین نبین سستی) عداوت (تہ متر کرک)
تھاوان اسی و (تہ) یمن علم دہن اہت اسی
تم دن (تم و ز) نہ از چھ کافرن بندتہ یقینا
رسوا بی تہ مصیبت (نیہ دول)۔

(تمس کافرن) پھند زو ملک (عان) تمہ وقتہ
کڈان چھ بیلیہ تم پسنہن زون پٹھ ظلم کر وڑ
آسان چھو۔ تھہ پٹھ چھو تم (یہ تھہ) صلح
کروخ کوشش کران (تر) اسی اسی تہ کانہہ
(تہ) ناکارگی ہنر کام کران (ا) پسے تمس و نونہ
ز، تہ پٹھو (چھیہ) تہ (تھہ) بکے (چھیہ
تھہ برکس، تہ یاد تھو) یہ کیشہا توہی کران
اسی تہ چھ اللہ (تعالے) زہر پٹھو زانان۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمَ مَاذَا آتَزَكَلْ رَبُّكُمْ
قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝۱۱

لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّوهُمْ بِخَيْرِ
عِلْمِهِمُ الْآسَاءَ مَا يَزُرُونَ ۝۱۲

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهَ
بُنْيَانُهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ
السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَنَّهُمُ
الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۝۱۳

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ
أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ
تُشَاقِقُونَ فِيهِمْ، قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْحِلْمَانَ الْخُزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى
الْكُفْرِينَ ۝۱۴

الَّذِينَ تَتَوَقَّعُهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي
أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقُوا السَّلْمَ مَا كُنَّا نَحْمَلُ
مِنْ سُوءٍ، بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝۱۵

لہذا سپرو توہری (ووڈی) جہنم کی دروازو کی تھ اندر ہمیشہ خاطر بھگتا بناوان دا نخل۔ بیکسایز کبر کرن والین ہند بھگتا چھ سپٹہ ہے پچھ آسان۔ بیہ (سیلہ) بھن لوکن پچھ تقویٰ پروومت چھ ورتہ آونر تہندک پروردگارن کوتاہ (شاندار کلام) چھ تانزل کورمت دتہ، پتو وون (او او، کوتاہ) بہترین (کلام چھ)۔ بیو نیو کوری (ہنر و تھ) پراو تہند خاطر چھ بیہ ڈڈیہس مشر (تہ) جانبر (مقدر) تہ آخر تک گہر (تہ) آسہ (تہند با پتھ) بیہ ہن ترزت۔ تہ تقویٰ پراون والین ہند گہر چھ یقینا سپٹہ ہے، رت (آسان)۔

(سہ گہر چھ) ہمیشہ روز نہ خاطر باغات کین مشر تم دا نخل سپرن۔ بھن (باغن) بونی گتو آسن نہر پکان۔ بھن (باغن) اندر یہ کثیر ہا تم پیشتر ہن تہ سبہ بھن۔ (یاد تھادو) تقویٰ پراون والین چھ اللہ (تعالے) بیتھے پانگو جزا دوان روزان۔

(تم متقی) میں ہندی رُوح ملایک قبض کران چھ تھ حالتس مشر نہ تم آسن پاک دل، (یہ) و نان دنان تہند با پتھ چھ (ووڈی) سلامتی (ہے) سلامتی، پسندو نیک (ملو بدلہ اُتو توہری (ووڈی) جنتس مشر۔

بیم (کافر لوکھ) کتھ کتھ چھ امر وراہی پیارن؟ نہ ملایک بین بھن بھن (آسمانی عذاب ہتھ) یا چائس پروردگار شد (فصلہ کرون) حکم یہیہ۔ بیتھے پانگو اوس جو لوکو کورمت بیم بھن بروٹھ اسی تہ اللہ (تعالے) ہن اوس نہ بھن پیٹھ کا نہہ ظلم کورمت بلکہ تم اسی (پانے) سینہن ترون پیٹھ ظلم کران۔

لہذا تہنزن عملن ہندی سزین رُت تم تہ تھ (عذاب) چھ خیر پیٹھ (تم خند کران اسی تم و لوی تم (تہ کرن تباہ)۔

فَاذْخُلُوا ابْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا
فَلَيْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٥٦﴾

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلْ
رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ لِلَّذِينَ
أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ
وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ
الْمُتَّقِينَ ﴿٥٧﴾

جَنَّتْ عَذِينَ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ
كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ﴿٥٨﴾

الَّذِينَ تَتَوَقَّأَهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ
يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ إِذْ خَلُّوا الْجَنَّةَ
بِمَا كَانْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٩﴾

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ
الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ رَبِّكَ
كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ
يَظْلِمُونَ ﴿٦٠﴾

فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا
وَإِذَا حَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦١﴾

بہ یہو لؤکو بشرک (اختیار) کور تمو چھ (بیتہ) وکومت
 ز ائر اللہ (تعالے ہی) بیئیرہ ہے (تس وراہی
 مہ بین کالنبہ ہنر عبادت کرہن) تہ نہ کر ہو اوس
 تس وراہی کرہ چیز ہیج عبادت تہ نہ کر ہن سائی
 جدا جلد، بیتھ کئی تہ نے کر ہون اوس لہن فرماہن
 وراہی کانہہ پیہر (پانی پانے) حرام۔ یکم (لؤکھ)
 یکم بروٹھ (پنر کر دشمن) اوس تمو (تہ) اوس
 یہی کورمت۔ کیا سنا (یکم) چھنا یوت تہ سو جان تہ
 پیئیرن پیٹھ (خدا یہ سندر پیغام) واتناونہ وراہی۔

کیا قرہ واری چھییہ؟

بہ یہ چھ اسہ پر تھہ تومس منز (کانہہ نہہ کانہہ)
 پیئیر (یہ حکم دتھ) سوزمت ز (اسے لؤکوا)
 توہی کرہ اللہ (تعالے) ہنر عبادت تہ پر تھہ حد
 نیرن اوس ہنر رورہ دور، اتھہ پیٹھ سپر
 تمو اندر کینہہ تھو (برہن تہایت) ز ہنر (ریت
 اللہ (تعالے) ہن ہایت تہ کینہہ تھو ز ہنر پیٹھ
 سپر ہاکت لازم۔ لہن توہی چھو (سار کر ہے)
 نکس تہ وچھو ز (نسیین) اپزان والہن ہنر
 انجام کیتھ اوس سہرت۔

(اسے پیئیر ۱) اگر ز ہنر (لؤکن) ہنر ہدایت
 سپٹھا توہش تھوان چھک۔ تہ (زان ز) یکم لؤکھ
 زانہہ مانہہ ہنر) گراہ کن آسن ہنر چھتہ اللہ
 (تعالے) ہرگز ہایت ووان تہ نہ چھ تہنہ کانہہ
 مدوکار آسان۔

بہ یہ چھ تمو اللہ (تعالے) ہنر سپٹھا زور دار
 قسم کرہ ہنر، یس مسر، اللہ (تعالے) کرہن تس
 (پتہ زاہ) ز ہنر۔ (مگر حقیقت) چھنہ پیٹھیا ٹھو۔

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا
 عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا
 آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ
 كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
 فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿۳۱﴾

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنْ
 اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ
 فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ
 حَقَّقْنَا عَلَيْهِ الضَّلَالَةَ ۗ فَسِيرُوا فِي
 الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ
 عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ ﴿۳۲﴾

إِنْ تَخْرُصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا
 يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ
 نَصِيرِينَ ﴿۳۳﴾

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا
 يَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ بَلِيًّا وَوَعْدًا
 عَلَيْهِمْ حَقًّا ۚ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا

لہ طاغوت، امام رعب اصغہاں یہو لیکھاں زہ عربی زبانی مشرق چھ طاغوت نیتو مچھیں
 تہ تس شخصس ومان یس لؤکن نیکی ہنر و تہ لہتہ ڈالہ۔

يَعْلَمُونَ ﴿۱۶﴾

بہ چھ (اکھ تیتھ) وعلہ سیمیک (یعنے پور کرنک) سہ (اللہ تعالیٰ) فرہہ وار چھ۔ اماہ پوز واریاہ لؤکھ چھنہ (پہ حقیقت) زانان۔

(پہ دُبار ترنگ آسہ اوکتر) تیتھ سہ بہن پیٹھ سہ (پرز) نون کڈ تیتھ مفر تم (از) اختلاف کران چھ تہ بیو کفر (کرنک طریقہ) پرومٹ چھ۔ بہن سپہ معلوم، تر تم آسہ اپز باریک۔

کتر (تتھس) چیزس متعلق سیمیک (یعنے کرنک) آسہ (اد کزو) ساڈی کام چھیدہ صرف یہ آسان تر آسہ چھ تھ متعلق ونان تر "سپر" تہ چھ سہ سپان۔

بہ بیو لؤکو اللہ (تعالیٰ) بند خاطر ہجرت کر تہ پتہ تر بہن پیٹھ او ظلم کرنہ، (اسہ چھ پسنہ) ڈانک قسم تر) آسہ دمو بہن ضرور وڈی مہیں مفر برتر جماعے تہ آخر تک اجر (تہ) آسہ بہیہ ہن تہ (سپٹھا) بوڈ۔ کاش بیک (میکر) زانہ ہن (یہ حقیقت)۔

بیک (ظلمک نشا تہ پتھ تہ) ثبات قدم رُود تہ (بیک پر تھ ساعتہ) پینس پرور وگارس پیٹھ بھروہ کران چھ۔

بہ آسہ آسہ تریہ برو تھ (تہ ہمیشہ) مردے پینمبر بناوتھ سوزان (تہ) آسہ آسہ بہن کن وچی کران۔ تہ (اسے منکرو) اگر توہی (یہ حقیقت) زانان چھو تہ۔ تیلہ اسہ (اللہ تعالیٰ) بند سوزو تہ) ذکر (کہن مانن) واسلہ پر تھو (تیتھ تو بہ اصلیت معلوم سپرو)۔

(اسہ آسہ تم) گاتری نشا تہ تہ (الہامی) تحریر و تھ (سوزی ہتی) بہی چھ تریہ پیٹھ اسہ بہ (کامل) ذکر تازل کوزمت تیتھ زن تہ سارہنے لؤکن سہ (الہی فرمان) واش کڈ تھ ویکھ یس (چاہہ دسی) جس کن تازل کرنہ آمت چھ۔ تہ تیتھ زن تم (تھ پیٹھ) سرن سوچن۔

لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلِفُونَ فِيهِ وَ
لِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا
كٰذِبِينَ ﴿۱۷﴾

لَا تَمَّا قَوْلَنَا لَشَيْءٍ إِذَا آذَنَهُ أَنْ
تَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۱۸﴾

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ
مَا ظَلَمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا
حَسَنَةً ۗ وَ لَنَجْزِيَنَّ الْآخِرَةَ أَكْبَرَ ۗ لَوْ
كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۱۹﴾

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ
يَتَوَكَّلُونَ ﴿۲۰﴾

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي
إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا
تَعْلَمُونَ ﴿۲۱﴾

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ
الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
ۚ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۲۲﴾

بم لولہ (ثریہ خلاف) ناکار تدر کران آمو چھ
 اور تم جیسا امر کہتے تھے (منس مفر ز اللہ تعالیٰ)
 کر تم جیسے منس مفر (ہے) ذلیل (تہ رسوا)
 یا سہ عذاب (بیچ خبر دہ آہتر چھینے) یہی تم (تمہ
 و تہ ایسہ نہ تم زانے آسن؟

یا کر سہ تم تہند بن سقرن مفر تباہ، لہذا (تم
 تھوں یاد نہ) تم لین نہ (مرکز اللہ تعالیٰ بس
 یہ کہتے پور کر نہ نشہ) عاجز۔

یا کر سہ تم ہنہ ہنہ جھوڑی راو تہ ہلاک تکیا تہند
 پروردگار چھ پڑ کر پاٹو (مؤمن پیچہ) سہا
 (ہے) شفقت کرن وول (تہ) پھیر کر چھ کر تم کرن
 وول۔

تہ کیا امر باوجود نہ تم چھ ذلیل سپان تہ اللہ
 (تعالیٰ) بس برو تھ کر (عاجزی سان) نمان
 تم وچھنا (زہ تہ) یہ کینرھا اللہ (تعالیٰ) ہن
 (تہند باپتہ) پاد کورمت چھ تہنر تھایہ چھینہ
 ڈھن کو تہ کھو ورو طر کو کون تہ اور یور تھشان
 (لہذا تھے پاٹو بر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہند
 سایہ) تہ کافر روزن ذلیل گرتھتہ۔

بہ یہ (کینرھا تہ) آسمان مفر چھ تہ (بہ) برآز
 پیچہ یوسہ تہ زو ذات (موجود) چھینہ۔ تہ (ساری) ٹوک
 تہ چھ اللہ (تعالیٰ) بندس دربارس مفر تھتھ
 روزان تہ تم چھتہ بجر باوان۔

تم چھ پستس پروردگارس کھو تہ تہ روزان یس
 تم پیچہ غالب چھ۔ تہ تہ تہ کہتے ہنہ تم حکم
 دہ پوان چھ (نی) چھ تم کران۔

بہ چھ اللہ (تعالیٰ) ہن ہمیشہ پر تھ قومس
 (بی) فرمومت (نہ) تو ہوسہ بتا و نہ نہ نہ نہ
 سہ (یعنے معبود برحق تہ) چھ اکے۔ لہذا تو ہ
 (کھوڑو) یسہ بہ (چھسو بہ تو بہ زمان نہ) یسہ

أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ
 يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ
 الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۳۸﴾

أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلِيهِمْ فَمَا هُمْ
 بِمُعْجِزِينَ ﴿۳۹﴾

أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ
 لَعَزِيزٌ ذُو قُوَّةٍ ﴿۴۰﴾

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ
 يَتَفَيَّؤُا ظِلُّهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالْشَّمَائِلِ
 سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴿۴۱﴾

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي
 الْاَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا
 يَسْتَكْبِرُونَ ﴿۴۲﴾

يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ
 مَا يُؤْمَرُونَ ﴿۴۳﴾

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا الْاِلٰهِيْنَ اِثْنِيْنَ
 اِثْمًا هُوَ اِلٰهُ وَاَحَدٌ قَائِيْ
 فَاذْهَبُوْنَ ﴿۴۴﴾

کھڑو۔

یہ یہ کینٹھا (تہ) آسمان تہ زمیں تہ منہ (توہو) چھ۔ (تہ) سوکے چھ تسنیرے بلکیت، تہ اطاعت چھ یہ ہمیشہ تہ دے حق، تہ کیا توہی چھوا اللہ (تعالیٰ) ہس ورائی، بین، ہستین پستہ بجاوک ڈرلیہ بناوان؛ بیہ بلوہہ نعمت تہ توہیہ سوتو سوتو چھو سوچو اللہ (تعالیٰ) ہندی طرفہ۔ اڈ نیلہ توہیہ (کاٹہ نکل تہ) تکلیف وائن چھو۔ تہ (تہ ورتہ) چھو توہیہ تہذکر ہے دربارس منہ فریاد کران۔

اڈ نیلہ تہ تکلیف وور کران چھو تہ توہیہ منہ چھ کینٹہ لوکھ اتھ چینی (بین) پینس پروردگار ہند شریک بناوان ہوان۔

نتیجہ چھ یہ سپلان نہ یہ کینٹھا اسرہ متن دیت تہ چھ تم چھ تہہ انکار کران۔ اچھا! توہیہ بلو عارضی (تہ وقتی سامان) قایدہ تہ توہیہ کرو (امیک انجام تہ) جلد معلوم۔

تہ یہ کینٹھا اسرہ متن دیت مت چھ تہ منہ چھ تم اکھ حصہ (پیننہن) متن (اپزہن معبودن) ہند خاطر الگ تعاون، بین (ہندس اصلیتس) متعلق تم (کینتی) علم چھتہ تعاون۔ اللہ (تعالیٰ) ہنر دہے! یہ کینٹھا توہیہ (اپزہن کام ہوتہ) پانس نش وایران روڈی ہوتہ چھو۔ تہہ نسبت اسر (اکر دوہہ) توہیہ بے شک پرتہ گار۔

بیہ چھ تم اللہ (تعالیٰ) ہس کن کور منسوب کران (یاد تھو) تہ چھ (یترہو کھو تہ) پاک تہ (متبریح کھہ چھتہ یہ نہ) جنہ چھ تہ کینٹھا حاصل ہے تم پرتہ تعاون چھ (یعنی پیڑی) تہ (تہ مقابل چھ تہہند حال یہ نہ) نیلہ توہیہ منہ

وَلَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ
الَّذِينَ وَاَصْبَادًا فَخَيْرًا لِّلّٰهِ تَتَّقُوْنَ ﴿۳۸﴾

وَمَا بِكُمْ مِّنْ نُّعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ اِذَا
مَسَّكُمُ الضَّرُّ فَاَلَيْسَ تَجْحُرُوْنَ ﴿۳۹﴾

ثُمَّ اِذَا كَشَفَ الضَّرَّ عَنْكُمْ اِذَا
فَرِحْتُمْ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ ﴿۴۰﴾

لِيَكْفُرُوا بِمَا اٰتَيْنَهُمْ فَتَمْتَعُوا
فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿۴۱﴾

وَيَجْعَلُوْنَ لِمَا لَا يَعْلَمُوْنَ نَصِيْبًا مِّمَّا
رَزَقْنَاهُمْ تَا لَلّٰهِ لَتَسْأَلَنَّ عَمَّا كُنْتُمْ
تَفْتَرُوْنَ ﴿۴۲﴾

وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ الْبَنٰتِ سُبْحٰنَهُ
وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُوْنَ ﴿۴۳﴾

وَ اِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ

وَجْهَهُ مُسْوَدًّا ۖ أَدَّ هُوَ كَظِيمٌ ﴿۱۱﴾

يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا
بُشِّرَ بِهِ ۖ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ
يَدُشُّهُ فِي التَّرَابِ ۖ أَلَا سَاءَ مَا
يَحْكُمُونَ ﴿۱۲﴾

لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
مَثَلُ السُّوءِ ۗ وَاللَّهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى ۗ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۱۳﴾

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ
مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ ۚ وَلَكِنْ
يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَإِذَا جَاءَ
أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۚ وَلَا
يَسْتَقْدِمُونَ ﴿۱۴﴾

وَيَجْعَلُونَ يَدَهُمْ مَا يَكْرَهُونَ ۚ وَتَصِفُ
أَلْسِنَتُهُمُ الْكُذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ ۚ
لَا جَرَءَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ ۚ وَأَنَّهُمْ
مُفْرَطُونَ ﴿۱۵﴾

کائنات کو ہنر (یعنی زہنچ) خبر میا ہے کہ جس چہ
بہ کزمن گشتان تہ سہ چہ سخت دل ملول بیان
بہ نیمہ کتہ ہنرتس خبر دہ آہنر چینی آسان کز
چہ (خیالی) ناکارگی موجب چہ سہ پستہن لوکنش
شہیبہ دوان (پھیان) روزان۔ (تہ سوچان چہ زہ)
اما سہ ویائش (بہتہ بیتہ واجتہ) بے عزتی باوجود
تہ (زندہ) روزنہ کتہ دوبراہس (کتہ) مینر منتر
بوزو! یوسہ راسہ تم کز روان چہ، (سہ) چینی
سہما ناکارگی

بیم لاکہ آخرتس پیٹہ ایمان چینی انان تہہنر حالت
چینی خراب تہ پرستہ کاہنہ) تہود صفت (تہ شان)
چہ اللہ (تعالیٰ) سندے تہ سہ چہ غالب تہ
حکمتہ وول۔

بہ اگر اللہ (تعالیٰ) سندے طریقہ آسہ ہے نہ
رہے لوکن (اتہو پیٹھی) تہہندس فلس (یعنی
ظلم کوش) پیٹہ (تہ توہج مہلت وہ بہکہ نہ)
تہ سہ ترابہ ہے نہ اتہ (بستراش) پیٹہ کانہہ زو
ذات (زندہ)۔ دچہ پوز (تند طریقہ) چہ یہ نہ
چہ تمن (اصلاح کر تہ خاطر) اکس کز تہ میاوس
تام مہلت دوان (گشتان)۔ اچہ نیلیہ تہہند (سزک)
وقت و اتان چہ تہ تم نہ چہ اکہ گز پیٹہ روزتہ
(بچیتہ) ہیکان۔ تہ نہ چہ تہہ نشہ بروٹہ نیرتہ
(بچیتہ) ہیکان۔

بہ تم چہ اللہ (تعالیٰ) ہند خاطر سہ چینی تجویز
کران۔ تہ تم (پستہ خاطر) ناپسند کران چہ۔ تہ
تہہنر زہو چینی (جگراہ کر تہ یہ) اچہ زمان ترکن
روزہ رزہ ضرور میاوتہ۔ (مگر) تہ بدلوز کتہ چینی

لہ اسلام پیٹہ بروٹہ آسور کز مشترک کوربن ہند زلیون بڑو ہیک زمانان تہ نیلیہ کائنات کو زلیون
اوس تہ سہ مول اوس پنہو اتہو پنہن کوربن زندے مینر تیل دوبراوان۔

(یہ) تر تہندِ خاطر چھ (جہنمک) نار (مقدر) بیہ
یہ در تم بین (تھہ مغز) تراویہ -

اللہ (تعالیٰ) ہنتر دے! اسے اسی تر یہ بروقت
سارے امتن کن رسول سوزی ہنتر - پتہ تاوکوتن
شیطان تہند کی (ہر) اعمال شوہ دار کر تھہ - لہذا
از پھو سے تہند و آلی (ہنہ ہومت) تہ (تم چھ تہس
پتہ پتہ پکان) تہند خاطر چھ اکھ (دگر دار)
غذاب (مقدر) -

بیہ چھینہ اسے یہ کتاب تر یہ پتہ او سے تا دل کر ہنتر
تر نیقہ کتھ نسبت رتھو (پانہ و آفر) اختلاف (پاؤ)
کورمت چھ پتہ پتہ (اصل حقیقت کر تھ تر امتن پتہ)
رفون - بیہ (متر پتہ) یکم (تھہ پتہ) اہسان ان
تہند خاطر آسہ یہ کتاب ہدایت تہ رحمت (بہم
کرن واجوز) -

بیہ وول اللہ (تعالیٰ) ہنہ آسمان پتہ پتہ آب، تہ
تہ کہ ذریعہ کوزن مہر تھہ گر شہنہ پتہ زمین (نوسہ)
زہر - یکم لوکھ (پنر کتھ) بوزان (تہ سوتول
کر تہ خاطر تیار آسان) چھ - تہند خاطر چھ لہینا
تھہ اندر اکھ (سہٹھا بوڈ) نشان (موجود) -

بیہ چھ تہند خاطر چھ چار پانہ اندر (تہ) بلا شک
نفسیت رٹیک ذریعہ (موجود) - (کیا توہی چھونا
و پھان تر ۹) یہ کینر شہا تہند ہن شکمن مشہر
(گنہہ ہنتر بڑ تھہ) آسان چھ تہہ مزینہ گہہ تہ
رتہ مشرک باگ چھ اسی تہند چہتہ خاطر (پاک تہ)
صاف و وہ توہہ بہر (بہم کر تھہ) دوان - یس چہہنہ
والہن ہنہ ہا پتہ مسز دار (تہ) سہل پاٹو ہنتر و سن
لاہق (آسان) چھ -

بیہ چھو توہی کھنرن تہ و پھن شراب (تہ اہنادن
بیہ رت رزق (تہ حاصل کران) یکم لوکھ عقلم نام
ہوان چھ - تہند خاطر چھ تھہ منز بے شک اکھ
(لوڈ) نشانہ موجود -

تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ
فَرٰىنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمٰلَهُمْ فَهُوَ
رٰىيَهُمُ الْيَوْمَ ۗ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۳۷﴾

وَمَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا
لِتَّبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۗ وَ
هُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ ﴿۳۸﴾

وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْبَا بِهٖ
الْاَرْضَ ۚ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ
لَآيٰةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ﴿۳۹﴾

وَ اِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۗ
نُسْقِيْكُمْ مِّنْهَا فِيْ بُطُوْنِهٖ مِنْ بَيْنِ
فَرْثٍ وَّ دُوْهِ لَبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا
لِّلشَّرِبِيْنَ ﴿۴۰﴾

وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخْلِ وَّ الْاَعْنَابِ
تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّ رِزْقًا حَسَنًا ۗ
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيٰةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ ﴿۴۱﴾

بہ کر چاڑی پر در و گارن ما پٹھ سکر کن موی نہ تر
 بناو (پتھر) گہر (لیسنے گھن) پہاڑن مغز تہ کھن
 پٹھ بہن مغز سیم (لوکھ دچھ کچن بیتر کتو)
 ڈکھی بناوان چھ۔

پتھ کھین پرتھ قسہ کہو ہوو مشر (کم کم تھتہ) تہ
 پسنس رہہ بندن (وڈو مہ تہن) طریقن پٹھ کچھ
 سیم (چاڑہ خاطر) سہل (کرہ آہتو) چھ تہن (کرکڑن)
 ہند بوش کمو اندر چھ (تہندہ) چہنگ اگھ چہڑ (انچھ)
 نیران یس مختلف رنگن ہند آسان چھ (تہ) تھتہ
 مغز چھ لوکھ ہند خاطر شفا (دکھ تاثیر تھو آہتہ)
 سیم لوکھ سوچس (تہ سمجھس) کھام ہوان چھ تہند
 خاطر چھ اتھ مغز کھی یا نشان (موہود)۔

بہ اللہ (تعالیٰ) سنے چھو تو ہی پاؤ کرکڑی تو
 پتھ چھ مے تہند کرکڑی روح قبض کران تہ تو بہ مغز
 چھ کھینہ (الناس) تھو تہ آسان نہ تم چھ عمر
 ہند سبھا نا کار حالتس کن ہند ہوان۔ نیسہ کتو
 تم علمہ (وڈا آسنہ) پتھ (بہن) بے علم چھ
 سیدک۔ اللہ (تعالیٰ) چھ بے شک۔ سبھا زان
 دول (تہ) پر ہتھ کتو کتھ پٹھ (پڑہ) پڑ تودرت
 تھوان۔

بہ چھ اللہ (تعالیٰ) ہن تو بہ مشر کینشن کینتو کھوتہ
 رزق مشر ہر ہر وقت تہ بین لوکن فضیلت
 دنہ آہتہ چھینہ تم چھینہ پین (اتھس مغز آہتہ)
 رزق (کتو صورتس مغز تہ) تہن کن واپس ولس
 تیار بین پٹھ تہند ڈچھ اتھ تاہن چھ، نیسک
 نتیجہ یہ آسہا نہ تم سپد ہن اتھ مغز برابر اہتہ
 وار۔ اڈ کیا تم چھا (یہ حقیقت زانہ باوہود)

اللہ (تعالیٰ) ہنتر نعمت ہند انکار کران؟
 بہ چھ اللہ (تعالیٰ) ہن تہند خاطر تو بہ مشر
 (لیسنے تہندی ہو کر جذبات تھوان واجہہ) آسہتہ

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي
 مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا
 يَعْرِشُونَ ﴿۱۶﴾

ثُمَّ كَلِمَ مِنْ كُلِّ النَّمَلِ فَاذْهَبِي
 سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا
 شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ
 لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ ﴿۱۷﴾

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَإِلَىٰ
 إِلَهِكُمْ مَن يَرْجِعُ إِلَىٰ أَذَىٰ الْعُمُرِ لَكِنِّي
 لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عَلَيْهِ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ
 عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿۱۸﴾

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي
 الرِّزْقِ ۖ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي
 رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
 فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۗ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ
 يَجْحَدُونَ ﴿۱۹﴾

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
 وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَ

بتاؤ مشر تہ تمو چھ تہنن آہنن انش تہنن
 خاطر نیچو کر تہ زرو پاؤ کر کو ہو۔ تہ تمو چھ توہ
 ساہوہے (تسمہ کو) پیا کپڑ چپو مشر رزق بخت
 کیا توہ (تہ) انہ نا تم اہس ہلاک پدن و اہس
 چہنہس پیٹھ ایمان تہ اللہ (تعالے) ہنن نعمتن
 کرن تم ہلاک!

بہ چھ تم اللہ (تعالے) تراوتھ تعین و ہون ہن
 عبادت کران۔ ہم آسمان تہ زمین مشر جن کیہنہ
 تہ دنک کانہہ اختیار چہتہ تھاوان تہ نہ ہیکن تھاوتھ
 (لہذا اے مشر کو!) اللہ (تعالے) ہس متعلق ہن
 بتاؤ (توہی پانی پانے) کتھ۔ اللہ (تعالے) چھ
 بے شک (سوئے کیہنہ) زانان تہ توہی چہو کر کو
 تہ زانان۔

اللہ (تعالے) چھ (توہ فکر تار تہ موکھ) اہس تقس
 ہنہ ہنر حالت بیان کران ایس علم آسہ (تہ) ایس
 کتھ کتھ ہنہ (تہ) طاقت (تہ اختیار) آسہ تہ
 تھوان۔ تہ ایس مقابلہ تس ہنہ ہنر حالت تہ ایس
 اہہ ہنہ طرفہ جان رزق و کیمت آسہ تہ سہ آسہ ہنہ
 پوشیدہ پاٹھو (تہ) شہہ واہہ (تہ) سائہ و تہ مشر
 خرچ کران۔ کیا تم دولہے (تہ) کو بندہ ہیکن
 ہوئی آسہ؟ (ہرگز نہ) پر چھ تعریف حق دار
 چھ اللہ (تعالے) ہے۔ مگر تمو ہنہ چہنہ و ایاہ
 (لوکھ) زانان۔

بہ چھ اللہ (تعالے) دوان بین شخصن ہنر حالت
 (تہ) بیان کران۔ بین مشر اکھ (تہ) آسہ کول ایس
 کتھ کتھ ہنہ طاقت آسہ نہ تھوان تہ سہ آسہ
 پشہن آہس پیٹھ بے فایدہ بور۔ یوکن تہ اللہ
 آخہ (تہ) سوز (سہ) کانہہ جانہرا نہ نہ (زہنہ)
 (لہذا) سہ (شخصن) تہ بیاکھ شخص ایس انصاف
 کریم حکم دوان آسہ تہ بہ آسہ سینہ و تہ پیٹھ

حَفَدَةً وَ رَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ؕ
 أَفَبِلْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَ يَنْعَمَتِ اللَّهُ
 هُمْ بِكُفْرُونِ ﴿۱۶﴾

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ
 لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ
 شَيْئًا وَّ لَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿۱۷﴾

فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْاَمْثَالَ ؕ اِنَّ اللَّهَ
 يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۸﴾

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبِدًا مَّمْلُوكًا لَا
 يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَّ مِّن رَّزْقِنَا مِثَارَ ذُرَّةٍ
 حَسَنًا فَهُوَ يَنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّ جَهْرًا ؕ
 هَلْ يَسْتَوُونَ ؕ الْحَمْدُ لِلَّهِ ؕ بَلْ
 اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۹﴾

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ اٰحَدُهُمَا
 اَبْكَمٌ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَّ هُوَ كَلٌّ عَلَىٰ
 مَوْلَاهُ ؕ اَيْنَمَا يُوْجِهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ؕ
 هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَّ مَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ
 وَّ هُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿۲۰﴾

دقائم) ہنگ ناما پاتہ واڈی ہوی اُستھہ ؟
 بیہ آسمان ہند تہ نہ ہینہ ہند علم) غاب چھہ اللہ
 (تعالیٰ) ہسے (حاصل)۔ تہ تہہ (دو عدد ہند آسمان)
 گھر ہند (ہنگ) معاہدہ تہ چھہ تہہ بیہ اُچھہ
 ڈوہڑ کرن، بلکہ سہ چھہ تہہ کھوتہ تہ جاد
 جلد (دقتس مشن سپدن وول)۔ اللہ (تعالیٰ)
 چھہ بے شک پر چھہ کتھہ پیٹھ (پور) پور توہرت
 تھوان۔

بیہ چھو توہی اللہ (تعالیٰ) ہن تہہ تہہ تہہ ماجن ہندو
 ہنگمہ مشن تہہہ حالتس مشن پاد کڑی ہوی نہ توہی اُسی
 ہ تہہ کینہی تہہ زبان تہہ تہہ چھہ توہہ کتہ کن تہہ اُچھہ
 تہہ دل پاد کڑی ہوی بیہہ زن توہی شکرانہ کربو۔

کیا تم وچھو نا (سہ نظر ہستی) وور وڈی جانا وار ہم
 آسمانہ کس فہمہ ہس مشن مشن کتہہ آہتی چھہ دہن
 چھہ اللہ (تعالیٰ) ہس وراڈی بیہ کاتہہ تہہ (توہہ
 پیٹھ ورتھہ ہنہ تہہ تہہ مکہ ماز کھوتہ نشہ) پتھہ
 رٹان۔ ہم لاکھ ایمان تھوان چھہ تہہہ خاطر چھہ
 اتھہ مشن بلا شک کبھی یا انسان (موجود)۔

بیہ چھہ اللہ (تعالیٰ) ہن تہہ تہہ تہہ تہہ ہنگ
 ذریعہ بتا وکھوتہ۔ بیہ چھہ توہی چار یا ہن ہندس
 والس (تہہ) تہہ تہہ خاطر گھر بتا وکھوتہ۔ ہم توہی
 سفر رزہ لہ تہہ وادی لبان چھو وکھ۔ تہہ بیہ پتہ
 رونہ تہہ ونہ (چھو تہن قاید تھان) بیہ تہن (چار
 پانہن) ہندک (زاوہ) سیر تہہ (بیہ) تہہ تہہ
 (مؤڈ) سیر بیہ تہہ تہہ جتھ لہ تہہ (تہن) تہہ

وَرَيْتِهِ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَ
 مَا أَمُرُ السَّاعَةَ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ
 هُوَ أَقْرَبُ، إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
 قَدِيرٌ ﴿۷۰﴾

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ
 لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، وَجَعَلَ لَكُمُ
 السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ،
 لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۷۱﴾

أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ
 السَّمَاءِ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ،
 إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۷۲﴾

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بَيوتِكُمْ سَكَنًا
 وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا
 تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَ يَوْمَ
 إِقَامَتِكُمْ، وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا
 وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿۷۳﴾

لہ اصواف واحد صوف، تہن ہند سیر، اوبار واحد وبار، وون ہن ہن جتھ، اشعار
 واحد شعہ، تہا وین ہن جتھ، ہر کچھ تہہ ہوش اسی ہم ساری چہہ خیمہ تہہ ورن تھن
 بتا ولس مشن استعمال کران۔

سامان تہ اکس وقتس تام عارضی سامان (بتاؤنگ)
ذریعہ بتاؤنگ ہوتی۔

تہ اللہ (تعالے) ہن یہ کیشترھا پاد کورمت چھ
تھہ مغز چھ تموی کھوی یا سایہ روپہ وادی چیز بتاؤنگ
ہوتی (ہین تل توہی آرام لبان چھو) بیہ بھین
پہان منتر (تہ) توہہ کرتہ پہنہ وچہہ بجایہ بتاؤنگ
منتر۔ بیہ تمہ علاؤ چھ تموی تہنہہ نطہ کھوی یا
توہہ چھ کرتہہ بتاؤنگ منتر ہم توہہ گرمی (تہ سردی)
نیشہ بجاوان چھینو تہ کیشہہ کرتہہ (یعنے زروہ)

چھینہ ترشہ ہم توہہ تہنہہ (پانہ وادی) جنگہ (چہہ
سختی) نیشہ بجاوان چھو۔ یچھہ پانہ چھو سہ
توہہ پیچھہ یین (روہائی) انعام (تہ) پلوہ کران تھہ
ذک توہی (تہندی) کابل فرمانبر وار ہوتی۔

لہذا اگر تم (ووڈ تہ) چھیرن تہ (اسے نبی) تم کہ
باعتہ پیہہ نہ تریہ پیچھہ الزام بکلیاز) چانہ زمہ چھہ
صرف واش کڈتھہ واتناؤن۔

تم چھہ اللہ (تعالے) سد (یہ) انعام (زبر پانہ)
پر بز ناوان۔ مگر توہہ چھہ تمیک انکار کران تہ
تمن اندر چھہ واریاہ پکھہ کافر۔

بیہ (سہ) وہہ تہ کٹرو یاد (ہینہہ وہہ) اسی پر چھہ
اکہ توہہ منتر (اکہ) اکھ گواہ استاد کرون۔ پتہ پیہہ
تہ (تمہ و قہہ) تمن لوکن بیو کفر کرکٹ طریقہ
پر وومت چھہ (معانی یا تلافی ہند) اجازت و ہنہ
تہ نہ پیہہ تہنہہ کا نہہ عذر قبول کرتہ۔

بیہ بیو لوکو ظلم (کرکٹ طریقہ اختیار) کورمت چھہ
تم ییلہ سہ (وہہ و ہنہ آمت) عذاب و بھین۔ تہ
نہ (تہ) پیہہ (تمہ و قہہ) سہ (عذاب) تمن نیشہ

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ضَلٰلًا
جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَ جَعَلَ
لَكُمْ سَرَائِیْلَ تَفْقِیْكُمْ الْحَرَ وَاَسْرًا یَّیْلَ
تَفْقِیْكُمْ بِاَسْكُمْ وَاَكْذٰلِكَ یُتِمُّ
نِعْمَتَهُ عَلَیْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۳۷﴾

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَّا عَلَیْكَ الْبَلٰغُ
الْمُبِیْنُ ﴿۳۸﴾

یَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ یُنْكَرُوْنَهَا
وَ اَكْثَرُهُمْ الْكٰفِرُوْنَ ﴿۳۹﴾

وَاِیَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شٰهِدًا
لَّا یُؤَدُّنَ لِلْظٰلِمِیْنَ كَفْرًا وَّلَا هُمْ
یُسْتَعْتَبُوْنَ ﴿۴۰﴾

وَ اِذَا رَاَ الْاٰذِیْنَ ظَلَمُوْا الْعَذَابَ فَلَا
یُخَفُّ عَنْهُمْ وَّلَا هُمْ یُنْظَرُوْنَ ﴿۴۱﴾

۱۔ بیچہ آیس منتر چھہ صرف گرمی ہند ذکر مگر عربی قیادہ مطابق چھہ بیچس موقس پیچھہ مقابلک
چیز مخروف آسان (بحر محیط جلد ۵ صفحہ ۵۲۲)

کم کرنے تہ تہ پیسہ تمہن موہلت (سہ) دہے۔
 بیہ بیو لوگو (اللہ تعالیٰ ہندک) شرک بٹاؤر
 موتی چھ۔ سلیہ تم پینو (بٹاؤر موتی) شرک پھین
 تہ ون (ز) سانہ پرور و کار! ہم چھ سالی (بٹاؤر
 موتی) شرک۔ یمن اسی تہ تراوتھ آلو دولان
 اسی۔ یقہ پچھ تم (بٹاؤر موتی شرک جلدی
 سان) تمہن ون (ز) توہی جھو ہشیک اپڑیا کر۔
 تہ تمہر وہ ہر کرن تم (فالم اول اول) اللہ
 (تعالیٰ) ہس برونیو کینہ (پستہ) اطا فکک
 اظہار تہ تہ (سورے کیہن) یہ تم پانے ڈایران
 اسی، گڑھ تمہن (ہندو ڈہہنو) نشہ غاب
 بیو لوگو (پانہ تہ) کھڑ (کرنک طریقہ) پرور
 چھ تہ اللہ (تعالیٰ) سنزوتہ نشہ چھاکھ (بیہ
 لوکھ تہ) پچھ رڈ موتی۔ تمہن دمو اسی تمہر عذاب
 نشہ کھیتھ ہیو بیاکھ عذاب۔ تیکیا ز تم اسی
 (ہمیشہ) فساد (کر و پچھ کامہ) کران۔

بیہ (گرو سہ وہ تہ یاد) بیہ وہ ہر اسی پچھ
 قوس اندر تمہن خلاف تمہے اندر اکھ گواہ
 استاد کرون تہ (اسے رول!) تہ اوتھ اسی یمن
 (سار نے) خلاف گواہ بناوتھ۔ تہ اسہ جھیر کتاب
 پر پچھ کاشہر کتھ واش کڈتھ بیان کرنہ خاطر تہ
 (سار نے) لوکن ہنر) رہنمائی خاطر تہ (تمہن پچھ)
 رحمت کرنہ تہ کابل فرمانبرداری پاناون والہن
 نحو شجری دہن خاطر تہ پچھ تازل کر مہتر۔

بے شک اللہ (تعالیٰ) چھ عدک تہ احسانک
 تو (ہم تہ آشناو چھ تم تہ) پستہن آشتاون
 ہندک پاٹھو (زانک تہ تتھے پاٹھو مدد) دیک
 محکم دولان، تہ (پر پچھ کتھ قسمہ پیر) بے حیائی
 تہ ناپستد کتھو تہ بغاوتہ نشہ چھ پچھ رٹان۔
 سہ جھو توہر نصیحت کران یقہ زن توہر فکر ترو۔

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ
 قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاءُ نَا الَّذِينَ
 كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ ۚ قَالِقُوا
 لِيَهُمُ الْقَوْلُ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٥٠﴾

وَالْقَوْلُ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ بِالسَّلَامِ
 صَلَّى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتُرُونَ ﴿٥١﴾

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ
 اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ
 بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴿٥٢﴾

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا
 عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ
 شَهِيدًا عَلٰى هَؤُلَاءِ وَتَرَىٰ لَنَا عَلَيْكَ
 الْكِتَابَ بَيِّنَاتًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَ
 رَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٥٣﴾

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَ
 ابْتِئَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
 الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ
 لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٤﴾

بیمہ (پینز و توہمہ زہ) اللہ (تعالیٰ) مسد (یعنی تس
سری کورنٹ پنن) و عہد قرار کرلو پلور۔ بیلیہ توہمہ
(تس ستر کاٹھہ) و عہد قرار کورنٹ آسہ و، بیمہ قسم
مہ پھٹرا دو، تم پلہ ختہ کرنہ پتہ بیلیہ توہمہ اللہ (تعالیٰ)
سنز درہے کر تھہ سہ (پنن ضامن بنومت چھو،
یہ کینٹھا توہمہ کران چھو اللہ (تعالیٰ) پتھہ تہ پے ٹنک
زاناں۔

بیمہ تس زنا تہ ہوو مہ بنو بیلیہ پنن کتو مہ تس
دھرس سہ دور گزھنہ پتہ خٹھہ رتہ پتہ
کورنٹ اوس (پتہ پٹھو زہ) توہمہ پٹاوو پینز قسم
فریہ کہ ذلیعہ پانہ واڈی رسوخ براونک ذلیعہ
امر خوفہ زہ کاٹھہ قوم بیمہ کاٹھہ بیلیہ توہمہ مق بلہ
جاو طا قنور بنہ۔ اللہ (تعالیٰ) تہ چھہ صرف
وڈی کین توہمہ یمن دھامن) ہند ذلیعہ آز ماوان
تہ قیا مٹھ روہہ کڈر تھن کسٹھن ہنز سارہے
حقیقت توہمہ پتھہ ضررہ واش کڈر تھہ نوز۔ یمن
متعلق توہمہ پانہ واڈی اختلاف کران آسہ و۔
ہر گاہ اللہ (تعالیٰ) پننی مرضی جاری کرہے تہ سہ
بناوہے توہمہ (سارہے) اکہ جماعت مگر (سہ
چھہ تہ کران بلکہ) یس شخص (دھمراہی) بیترھان
چھہ تس چھہ سہ عمرہ کران تہ یس (ہدایت) بیترھان
چھہ تس چھہ سہ ہدایت ووان تہ توہمہ یہ کینٹھا
کران روزان چھو تھہ متعلق بیو توہمہ (قیامتہ)

پر خٹھہ۔

بیمہ مہ بناو توہمہ پینز قسم پانہ واڈی فریک ذلیعہ
نہہ ڈلرو (توہمہ) کھور تہ پتہ زہ آسہ (پلور)
معنوطی سان) درلومت تہ توہمہ و چھو بیچہ انجام۔
یکیا ز توہمہ رڈی و (پتہ پٹھو ہاتھ لکھ تہ) اللہ
(تعالیٰ) ہنز و تہ نشہ پتہ۔ تہ توہمہ پتھہ سپہ
اکھ بوڈ عذاب (تاریل)۔

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذْ أَخَا هَذَا هَذَا
لَا تَنْقُضُوا الْإِيمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا
وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ
اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿۷﴾

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَصَتْ غَزْلَهُمَا مِنْ
بَعْدِ قُوَّةِ أَنْكَاثٍ تَتَّخِذُونَ إيمَانَكُمْ
دَخْلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى
مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِمْ
لِيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ
تَخْتَلِفُونَ ﴿۷﴾

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَ
لَكِنْ يَفْضِلُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
وَلَتَسْلُتَنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۷﴾

وَلَا تَتَّخِذُوا إيمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ
فَتَنزَلَ قَدْرُ بَعْدِ ثبُوتِهَا وَتَذُوقُوا
الشَّوَاءَ بِمَا صَدَقْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۷﴾

بیمہ ٹرولڈ تو ہی اللہ (تعالیٰ) بندہ (یعنی جس سے سزا
کڑی متی) وعدہ قرار کر بدلہ اونے (تو کے ہوا) مول
(یعنی کے لون وول چیز) اگر تو بہ عقل چھو تیلہ تر کر
تو فکر نہ یہ کینٹھا اللہ (تعالیٰ) ہس نش چھ تہ
چھ تہ بندہ خاطر بے شک (تمہ کھوتہ کتہ کور) جان۔
یہ کینٹھا تو بہ نش چھ تہ موکلہ تہ یہ کینٹھا اللہ
(تعالیٰ) ہس نش چھ تہ چھ ہمیشہ روزن وول۔
تہ (اسہ چھ پسنہ ڈانک قسم تر) بیم لوکھ
شابت قدم روڈی ہو چھ اُسو دیو متن بے شک
تہ ہنزو بہترین عملو مطابق (تہ ہنزو سارہ صالح
عملن ہند) بدلہ۔

یس کا فرشا مؤمن آسنہ کس حالتس منز نیک تہ
مناسب حال عملہ کر، مرد اُسوتن یازنان، اُسو
کرو بے شک تن اھ شوش زندگی عطا۔ تہ اُسو دیو
جمن (سارہ نے لوکن) تہ ہنزو بہترین عملو مطابق
(تہ ہنزو سارہ صالح عملن ہند) بدلہ۔

(اے مخاطب!) سلیبہ تہ قرآن پرن ہیکھ تہ مردود
شیطانس (یعنی تہ بندہ شہر) رستہ (بچھ روزنہ خاطر)
سنگو تر تہ (ہمیشہ) اللہ (تعالیٰ) سند پناہ۔

(پز) کتہ چھی بے شک میہ نہ یہو لوکو اپمان اذمت
چھ تہ پسنس پروردگار (یعنی تہ بندہ پسنہ ہس)
پنہ چھ توکل تھوان۔ متن پنہ چھ نہ تہ سند
(یعنی شیطا تہ سند) کا نہہ زور۔

تہ زور چھ صرف جمن لوکن پنہ پھلا (بیم تن
سزا یارانہ لاگان بھو تہ بیم تہ بندہ باعہتہ ہشہرک
کران چھ۔

بیم سلیبہ اُسو کتہ نشانہ چھ جایہ کا نہہ بدل نشانہ
انان جمن تہ (اتھ منز کیا شک چھ تر) اللہ
(تعالیٰ) یہ کینٹھا تازل کران چھ (تمیک ضرورت)
چھ سہ (سارہ وہے کھوتہ) رتو یا طو زانان۔ تہ
(تہ وزر) چھ (مخالفت) دنان تر تہ چھکھ جلساز

وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا
إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۱﴾

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ
وَلَنَجْزِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ
بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۲﴾

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ
هُوَ مَوْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۳﴾

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ
مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ﴿۱۴﴾

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿۱۵﴾

إِنَّمَا سُلْطٰنُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ
وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿۱۶﴾

وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ
وَأَعْلَمُ بِمَا يُنزَلُ قَالُوا إِنَّمَا آتٰت
مُفْتَرٍ، بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۷﴾

(مگر حقیقت چھنہ پھینکیں) بلکہ تموشتر چھتہ واریاہ
علم تمھوان۔

تر و ن (بیتس اعتراض کرن واپس نہ) رُوح القدس
چھتہ یہ چائیس پروردگار سیدر طرفہ حق (تہ حکمت)
ہتھہ تا زل کورمت۔ سیتھ زن پیو لوکو ایمان اونت
چھہ تمن کر سہ (ایمانس پٹھہ) ہمیشہ خاطر قائم تہ
(بیہ چھہ تمہ) فرمانبردارن ہنزر (بیہ من) رہنمائی
خاطر تہ (تمن) نحو شجر دہن خاطر (یہ تا زل
کورمت)۔

بیہ چھہ اُسی بلا شک زمانان نہ تم چھہ ومان (نہ
یہ چھتہ الہی وحی بلکہ) اکھ انسان چھہ اُرس
پہنچتاوان۔ (اماہ یوز تمن چھتہ فکر تران) ایس
شخص کُن تم (اشاہ کران چھہ تہ تہندہ دہن
تس کُن) مایل سپان چھہ تسہز زبان چھہ اعجمی
تہ یہ (قرآنچ زبان) چھہ (خوب) روشن (کر تہ
لون واجز) عربی زبان۔

بیم لوکھ اللہ (تعالے) ہندین نشان پٹھہ ایمان
انان چھتہ تمن چھتہ اللہ (تعالے) ہدایت ودان
تہ تہندہ خاطر چھہ دگر دار عذاب (مقدر)۔
اپز چھتہ لوکھ لاکتہ تمھوان بیم اللہ (تعالے)
ہندین نشان پٹھہ ایمان چھنہ تمھوان۔ تہ یکے
لوکھ چھہ پوختہ اپز یارک آسان۔

بیم لوکھ (تہ) پستہ ایمان انہ پتہ اللہ (تعالے)
شد انکار کرن تمہ ورا بی بیم (دکھرس پٹھہ) مجبور
کرنہ آتمو آسن مگر تہندہ دل آسن ایمانس
پٹھہ مطمئن (تم بین نہ رہتہ) آ، تم میو
(پنہ) سپتہ خاطر سہلہ تراوی ہتہ آسن
تمن پٹھہ سپد اللہ (تعالے) شد (سہٹھا) بوڈ

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ
بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ
هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿۱۶﴾

وَلَقَدْ نَعَلِمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا
يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي
يُلْحِدُونَ لِأَبْوَابِ عَجْوِيٍّ وَهَذَا لِّسَانُ
عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴿۱۶﴾

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ
لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۷﴾

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا
يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْكٰذِبُونَ ﴿۱۷﴾

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ
أُكْرِهَ ۖ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ
وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا
فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ ۖ وَلَهُمْ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۸﴾

عقوب (تازل) تہ تہند خاطر چھہ بوڈ ہا ہا غلب
(مقدر)۔

تہ یہ سپد اوکزی زیتہ دنیاوی زندگی سبوتی محبت
کڑھہ دیت، تمواتھ اخلتس پیٹھ متھزر بیہ (اگر
کوتی تہ زہ) اللہ (تعالیٰ) پیٹھہ کفریہ راوان والہن
لوکن ہلایت روان۔

بیم چھہ تم لوکھ مین (تہندہ کفر کر با عتہ) تہندہ بن
ولن تہ تہندہ بن کن تہ تہندہ بن اچھن پیٹھ چھہ اللہ
(تعالیٰ) ہن موہر کڑھہ تہ تہ لاکھ چھہ بیم بوڈ تہ
غافل چھہ۔

(تہ) اتھ منز چھہہ کا نہہ شک زہ تم آسن اخلتس
منز (سار و رہے کھوتہ) جاوہ نوقصان تھن اولی۔

تہ چون پروردگار چھہ بے شک ہن لوکن ہند خاطر
بیم تکلیف منز تراوہ آییہ توہ پتہ، تمواتھ کڑھہ ہجرت
پتہ کور، تمواتھ جہاد تہ (پنہن وسر پیٹھ) روڈ
ثبات قدم چون پروردگار سپد یقینا امیر (شرطہ
کہ پور کر تہ) پتہ (تہندہ خاطر) سہا بختن دول
(تہ) پھیر پھیر رحم کرن دول (ثبات)۔

(تمہ جزبہ تہ ہر سپدن آسہ خاص کڑھہ تمہ وہہا
بیمہ وہہ ہر پتہ (اکھ) شخص بیمہ پتہس زوس
متعلق مجاہدہ کران۔ تہ پتہ شخصس یہ کیشہا
کوڈمت آسہ (تمیک اجہر) بیمہ نس پلور پلور
وہ تہ ہن پیٹھ بیمہ تہ (کوتی تہ زہن من ظلم کر تہ
بیم چھہ اللہ (تعالیٰ) توہہ فکر تارہ موکھ اکہ
بستی ہند حال بیان کران۔ یہہ (پرتہ زہ) امن
حاصل پتہ (تہ) اطمینان نصیب چھہ۔ پرتہ طرفہ چھہ

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ
الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ ۗ وَ اَنَّ اللّٰهَ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ۝۴۰

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَى
قُلُوْبِهِمْ وَ سَمِعَتْهُمْ اَبْصَارُهُمْ وَ
اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ۝۴۱

لَا جَرَءَ اَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ
الْخٰسِرُوْنَ ۝۴۲

ثُمَّ اَنَّ رَبَّكَ لَبَدِيْٓنَ هَا جَرُّوْا مِنْ
بَعْدِ مَا فِتْنٰوْا اِنَّهُمْ جَا هَدُوْا وَ صَبَرُوْا ۗ
اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝۴۳

يَوْمَ تَأْتِيْ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن
نَفْسِهَا وَ تُوْفٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا عَمِلَتْ
وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝۴۴

وَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ
اٰمَنَةً مُّطْمَئِنَّةً يٰٓاٰتِيْهَا رِزْقُهَا
رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَاْنٍ فَكَفَرَتْ

لہ یہ بستی چھہ مراد مکہ شریف۔ یہ کہیں رونک والہن اوس کھل ڈالہ رزق داتان مگر تمواتھ
اللہ تعالیٰ ہن نہ شکری۔ اگرچہ یہہ آس منز چھہ ماضی یک صیغہ بیان کر تہ امنت مگر کتہ
وز چھہ یقینس پیٹھ دلالت کر تہ خاطر ماضی حال چہ جاہ استعمال سپدان۔

بِأَنعُمِ اللّٰهِ فَإِذَا قَامَهَا اللّٰهُ لِبَاسِ
الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ بِمَا كَانُوا
يَسْتَعُونُ ﴿۳۷﴾

تسعد رزق تھتھ کھلو ڈولہ و اماں - پیہہ (تہ) چھہ تہہ
اللہ تعالیٰ، ہنزن تمہن ہنر نہ شکر می کرہ ہنر اتھ
پیہہ چھہ اللہ تعالیٰ، ہن تھتھ (یہیے تہہ کین روزن
والہن) پیہہ تہہنر (بیکھ) عملو ہنر باعہہ بو چھہ
تہہ نوکھ رباس تازل کوڑمت۔

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ
فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ
ظَالِمُونَ ﴿۳۸﴾

بیہہ یقیناً چھہ تمہن ہنر، تمہوے مغز اکھ (سوان)
رسول آمت۔ مگر تمہو اپوزو سہہ بیہہ پیہہ تم رڈ
(سوان) عذابن اتھ حالتس مغز نہ تم آسو ظلم کرن۔

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا
وَ اَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ اِن كُنْتُمْ
اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿۳۹﴾

او کوز میس حلال (تہ) طیب (مال) اللہ تعالیٰ ہن
توہہ دیت مت چھو، توہی کھینو تمہ منز، تہہ اللہ
تعالیٰ، ہنر لکھ کرہ شکرانہ، اگر توہی تسینرے
عبادت کرن چھو۔

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ
وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ مَا اُھْلٍ لِغَيْرِ اللّٰهِ
بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَ لَا عَادٍ
فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿۴۰﴾

تمہو چھہ توہہ پیہہ صرف مرور تہہ رتھہ تہہ سوہہ باز
تہہ ہر تھہ سہہ چیز حرام کوڑمت بیہہ پیہہ اللہ تعالیٰ
ہس وراہی بیہہ کانسہ ہنر ناوہ ہنر آسہ آمت۔ تہہ
یس شخصس (دیو مغز کانسہہ چیز کھس پیہہ) مجبور
کر تہہ پیہہ، اتھ حاس مغز نہ آسہ نہ (شریک)
مقابلہ کرن وول تہہ نہ آسہ سہہ حد ہنر نیل وول۔
تہہ (یاد روزی توہر) اللہ تعالیٰ، چھہ بخش بار
(تہہ) چھہ کھیر کھیر کرہم کرن وول۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ السِّنُّكُمْ
الْكُذِبَ هَذَا حَلٰلٌ وَ هَذَا حَرَامٌ
لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ الْكُذِبَ ؕ اِنَّ
الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكُذِبَ
لَا يُفْلِحُونَ ﴿۴۱﴾

بیہہ پس نہو زلوو ہنر بو اپر لو ہیاو ہنر سبہہ مہہ آسو
وہان نہہ پیہہ حلال تہہ بیہہ حرام (بیہہ تہہ تہہ سید)
نہ توہی بونو اللہ تعالیٰ، ہس انہر لاکن واد۔ یکم
لوکھ اللہ تعالیٰ، ہس انہر لاکن چھہ تم چھہ تہہ
ہرگز کامیاب سپدان۔

مَتَاعٌ قَلِيْلٌ س وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۴۲﴾

کے کیشرھا، ہیو عارضی سامانہ چھہ (یہ دنیا) تہہ تمہن
ہنر محاطو چھہ (تمہہ اپر کتہ) دگر دار عذاب (مقدار)
لہذا پز تہہ ہنر نش پکین۔

وَ عَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا

بیہہ لیکو لوکو یہہودی مذہب پر وومت اوس تمہن پیہہ

(تہ) اسی آسہ امر ہو فہم (تم ساری) چہن حرام
کرو ہو۔ یعنی ہند ذکر اسہ شریہ نش کورمت چہن
تہ اسہ کرناو نہ (یک حکم دتھ) تمہن پیہہ فہم
بلکہ اسی تمہم (تم حکم چہنٹراوتھ) پستہن زون
پیہہ پانے کلمہ کران۔

بیہ (تھو یادیو) یکو لکو بے خبری مغز (کاٹہہ)
ناکارگی کر مہتر آسہ (تہ) اد تمہ پیہہ کرن (تمہ
بتہ تم) تو بہ تہ (پستہ غلطی ہند) اصلاح (تہ)
کرن، تہندس حقس مغز سپد چوں پروردگار
تم (شرط بلور) کرتہ پیہہ سپد ہے بخش مارا تہ
چہہرہ چہہرہ رم کرن اول (تہا بت)

بے شک ابراہیم اوس پر تھہ (کنہ) خیرک جمع کرن
ول تہ اللہ تعالیٰ) ہندی خاطر ہنراختیار کرن اول
بیہ اوس ہمیشہ خدایہ سنہز کمال فرمانبرداری کرن
ول تہ سہ اوس نہ مشرک کو مغز۔

تہندس انعام ہند اوس اسہ، شکر گزار تہ (ہند
ربن) اوس سہ ضرورت تہ اوس سینر وتر کن
اوس تس رہنائی کر مہتر۔

بیہ اس اسہ تس بیہہ وڈیہس مغز (تہ بڑ)
کامیابی عطا کر مہتر تہ آخرتس مغز (تہ) آسہ سہ
بے شک صالح لکو مغز۔

تہ (اے رسول!) اسہ پتھ تریہ وحی ہند ذریعہ
حکم دیت مت، تر کر کر (سانی) کابل فرمانبرداری
کرن و اوس ابراہیم ہند طریق پاروی۔ تہ اسے
کہہ والہو! زماناں چہواہر) سہ اوس نہ مشرک کو مغز۔
سبت کر (ڈہک و بال) اوسس کننے پیہہ تراوہ
آمت بیو تہ متعلق اختلاف
کرناوہ تہ چون پروردگار کر بے شک تم درین

مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ بِرَدِّ مَا
ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ
يَظْلِمُونَ ﴿۱۱﴾

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا
السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ
بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ
بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۲﴾

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا
لِّدِينِهِ حَنِيفًا ۚ وَ لَمْ يَكُ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۳﴾

شَاكِرًا لِآلَائِنِعْمِهِ ۖ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۱۴﴾

وَأَتَيْنَاهُ فِي الذُّنُوبِ حَسَنَةً ۚ وَإِنَّا
فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۱۵﴾

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ
مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۶﴾

إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ
اختلفوا فيه ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ
بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا

فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۷﴾

قیامت میں دوہرے قاصد۔ تھکے کتبہ متعلق بیتہ متعلق
تم اختلاف کران آس

(اے رسول!) پینس پر دروگاہ سنزوتہ کن
و لوکن) ناد حکمتہ سان تہ رزہ نصحت ہوتہ تہ
رتم سنو آس (تمہندین اختلافن متعلق) تمہ طریقہ
بحث کران، لیس سار وہے کھوتہ جان آسہ۔ چون
پدرورگاہ چھ بے تنک رتم تہ رتہ پانگو زانان
یک تسنر وتہ رتہ ڈو آس تہ رتم تہ ریم
ہدایت لیان چھ۔

ہرگاہ توہی لوکہ (جادتی کرن والین) سنزاسہ
دیو تہ سیشراہ توہی پٹھ جادتی کرنہ امتراسہ
توہی دیو (یس) تیوتے سنزاسہ۔ تہ (اسہ) چھ
پسنو ذاکت قسم زہ (ہرگاہ توہی صہر کڑو تہ صہر
کرن والین ہند حقہ آسہ تہ سنھارت۔

بہ (اے رسول!) خرہ بیہ صہر کلام تہ چون صہر
کرن چھ اللہ (تعالیٰ) رتہ (مدد) سنو (سپتھ
ہیکان) بیہ رتم (لوکن ہندس حالتس) پٹھ مہ
کھنہ نم۔ تہ یک تدہیر تم کران چھ تموہند باعشہ
مہ کرشہ تکلیف محسوس۔

بہ تمو یاد زہ اللہ (تعالیٰ) چھ یقیناً رتم لوکن سنو
آسان کیو تقویٰ کرنک طریقہ، پروومت آسہ بہیم
نیو کار آس۔


أذْعُرُّ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿۱۸﴾

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكُمُ لَهُوَ خَيْرُ الْمَصِيرِينَ ﴿۱۹﴾

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ وَلَا تَخْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَلُوبٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿۲۰﴾

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴿۲۱﴾

لہ یہ چھ اجتماعی حکم لہذا یہ چھینے کلوا پنج کلام زہ سوہ بیہ جادتی ہند بلہ۔ نہ تہ کانسہ فردس
چھنہ یہ اجازت نہ سوہ بیہ پانس پٹھ سپنر مشر جادتی ہند پستہ اتھو بلہ۔ تس
پزہ کلومتس کن رجوع کرن۔



سورہ بنی اسرائیل - یہ سورہ چھ مکی ہے۔ بسم اللہ ہے۔ چھ آیتیں ہیں۔ ہر آیت میں چھس باہر رکوع۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ① (یہ چھس) اللہ تعالیٰ سُنَدِنا و ہتھ (پر ان) یس

عہر رُوس کرم کرن و ول تہ، پھیڑ پھیڑ کرم کرن و ول تہ

سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِحَبْدِہٖ لَیْلًا ② (یہ چھس) تسنہز (یعنی خدایہ ہنہز، پانچہرگی لہیان کرن)

مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلٰی الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ بَرَكْنَا حَوْلَہٗ لِنُرِیْہٗ

پٹھ (تہ) ڈورچہ مسجد تمام سیمہ کس اوند پکھس (تہ)

مِنَ اٰیٰتِنَا ۙ اِنَّہٗ ہُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ ③ اسہ برکت ڈر مشہر چھیہ، (ا و کز نیو) ز رتھ اسی

تس پنہز کیہنہ نشانہ ماوو۔ بے شک چھ تے (خدا)

یَسْ (پنہنہن بدن ہند آلو) زبر پانٹھ بوزن و ول

(تہ تمہنہز حاشہ) زبر پانٹھ و پھن و ول چھ۔

وَ اٰتٰنَا مُوسٰی الْکِتٰبَ وَ جَعَلْنٰہُ ہُدًى

بِیہ اسی اسہ موسیٰ ہس کتاب (یعنی تورات) ڈر مشہر

تہ سو اسی بنی اسرائیلین ہند تھاطر ہدایت (دکھ

ڈر لہیہ) بنا و مشہر۔ (تہ تہ مفزاوس ہنہ حکم و ہمت)

ز توہی مہ بنا و یون مینہ روا (پنہ) کانہہ کار ساز۔

دبہ و نیاد اسہ ز اسے) تمہن لوکن ہند لو نسلو!

بیم اسہ نوحس سبتی (نا و منہز) سوار کز ہتھ اسی

(باد تھوہز) سہ اوس بے شک (سوان) سپٹھا شکر

گزار ہنہ (لہنہ توہی تہ ہنہ شکر گزار)۔

بِیہ اسی اسہ بنی اسرائیلین تہ کتاب مفز یہ کتھ

(واش کڈتھ) و اتا و مشہر تہ بے شک توہی کز یقہ

ٹکس مفز وہی لڑ فساد تہ بے شک کز توہی سپٹھا

بڑ روہے گردانی اختیار۔

سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِحَبْدِہٖ لَیْلًا ②

مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلٰی الْمَسْجِدِ

الْاَقْصَا الَّذِیْ بَرَكْنَا حَوْلَہٗ لِنُرِیْہٗ

مِنَ اٰیٰتِنَا ۙ اِنَّہٗ ہُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ ③

وَ اٰتٰنَا مُوسٰی الْکِتٰبَ وَ جَعَلْنٰہُ ہُدًى

بِیہ اسی اسہ موسیٰ ہس کتاب (یعنی تورات) ڈر مشہر

تہ سو اسی بنی اسرائیلین ہند تھاطر ہدایت (دکھ

ڈر لہیہ) بنا و مشہر۔ (تہ تہ مفزاوس ہنہ حکم و ہمت)

ز توہی مہ بنا و یون مینہ روا (پنہ) کانہہ کار ساز۔

دبہ و نیاد اسہ ز اسے) تمہن لوکن ہند لو نسلو!

بیم اسہ نوحس سبتی (نا و منہز) سوار کز ہتھ اسی

(باد تھوہز) سہ اوس بے شک (سوان) سپٹھا شکر

گزار ہنہ (لہنہ توہی تہ ہنہ شکر گزار)۔

بِیہ اسی اسہ بنی اسرائیلین تہ کتاب مفز یہ کتھ

(واش کڈتھ) و اتا و مشہر تہ بے شک توہی کز یقہ

ٹکس مفز وہی لڑ فساد تہ بے شک کز توہی سپٹھا

بڑ روہے گردانی اختیار۔

اِذْ اٰتٰنَاہُمُو دَوۡیۡدَ (وزن ہند لو فساد) مشہر گمہ ڈر پنہ

رورہ) ہند و عدہ (پنہر گزھٹک وقت او تہ اسہ کز

پنہ کیہنہ تھوہر ہند (تہ ہ کپہ و گنہ با پتھ) تہ ہہ

پٹھ مسلط بیم سبت جنگ جو اسی تہ تم سیدے

یہ تمہنہ بن کرن اندر تہ یہ و عدہ اوس (پر تہ ہولتس

مفز (پور سیدن وول لہ)
 (تمہ پتہ) ویتو توہ اسہ (دشمنس پیٹھ) حملہ
 کرنک طاقت لہ ۔ تہ اسہ کور مانو تہ گبرو ستر تہند
 مدو ۔ بیہ کرک و اسہ توہی ہما تر ہند لحاظ اہر
 مہ کھوتہ (چاڈ) ۔

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكِرَّةَ عَلَيْهِمْ وَ
 آمَدْنَكُمْ بِأَمْوَالٍ دَبْنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ
 أَكْثَرًا نَفِيرًا ①

(یوزو) اگر توہی میکو کار تہو تہ میکو کار پیٹھ
 واتا دوو پسنہن زونے قاید تہ اگر توہی ناکار
 علم کرہ (بیتہ کرہ) ہمن (پسنہن زون) ہندی
 خاطر ۔ پتہ بیہ دوو بیہ وز ہند و علم (پور
 گزہنک وقت) او پیٹھ تم (یعنی تہندی دشمن)
 تہندی ہن عزتہ والہن لوکن ستر نامتاسب معاملہ
 کرن تہ (پیٹھ پاٹھ) سیدن مسجد مفز دا خیل
 پیٹھ پاٹھ تم اتھ مفز مو ڈیچہ لہ دا اہل اسہ
 سیدر ہوتہ تہ پیٹھ پیٹھس پیٹھ تہ تم قبضہ کرن
 سہ تھون بلکل تباہ (تہ تیر باد) کر تھ (تہ پیٹھ
 تہ سبہ پور) ۔

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ تَدْرُ
 لَنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ
 الْأَخْرَجَ لَيْسُوا أَذْجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا
 الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ
 لِيُتَبَرَّذُوا مَا عَلُوا تُثْبِتًا ②

ووز چہتہ یہ کتھ دور (بلکہ کان ممکن چہ) تہند
 پروردگار کر توہ پیٹھ رحم تہ اگر توہی (بیہ
 پسنس غلط طریقس کن) واپس پھیر و تہ اسہ
 تہ پھیرو (پسنس سزا دس کن) واپس تہ یاد
 تھو تر (اسہ چہ جہنم کافرن ہند خاطر تاد
 خاتہ نوشت ۔

عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُم بِهِ وَلَئِنْ عُدْتُمْ
 عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ③

سہ شاہ بابل بنوکد نصر اوس اکھ جنگ جو بادشاہ ۔ تمہ کور فلسطینس پیٹھ حملہ تہ بیت المقدس
 کورن واراک تہ بنی اسرائیل تہ ہین تہ کڈ تھ ۔ تمی زانہ چہ بنی اسرائیل ایران
 افتانتان تہ کشہر ہوتہ تہ از تام چہ ہین ملکن مفز سان بسان (و پھو ۲ ۔ سلطین باب)
 سہ کینتر کالہ پتہ کور ایراکی بادشاہ تورن بابلس پیٹھ حملہ تہ بنوکد نصر ہندس خاندانس
 ورن شخت اسہ پتہ نین یہود بیہ فلسطین تہ بیت المقدس کورن آباد (تخمیاہ باب ۱-۲)
 سہ واقع صلیب کہ ستھ وری پتہ رومانکی نصرانی بادشاہ ٹائٹس (TITUS) کور
 فلسطین ڈیبر لہ تباہ تمہ پتہ گے یہود وہہ کھوتہ وہہ ذلیل ۔

یہ قرآن چھ یقیناً تھے (وتر) کن رہنمائی کران کو یہ
سارو ہے کھوتہ بجاو درست پھیلے۔ تو یوم نمون
مناسب حال کام کران چھ بہن چھ نوحہ شجر دوان
نر تہندہ خاطر چھ (سبھا) یوڈ اجر (مقدر)۔
بیہ (چھ قرآن) یہ (تہ زمان) نر یوم لوکھ
آنخلس پیچھ ایمان پھتہ آنان تہندہ خاطر چھ
اسہ کر یوٹھ عذاب تیار کورمت

بیہ چھ انسان شرس (تھی جوشہ سان) آلودوان
سٹیہ جوشہ سان اللہ (تعالیٰ) اوس بندس خاری
کن ناد دوان چھ آسان۔ تہ انسان چھ سبھ
ہے و تاوڈ (آسان)۔

بیہ چھ اسہ راتھ تہ دہہ تر نشاہ بتاوی متی،
تھیا پٹھو نر لار ہندہ نشاک اشرا شریھن اسہ
نہتاوتھ تہ وہک نشاہ بنو اسہ لاش عطا کران
وول یٹھ زن توہو خدایہ سد فعیل ترھا ندو۔
بیہ ہیکو (سہل پٹھو) وورین ہنر گرہندہ حساب
معلوم کرٹھ تہ اسہ چھ پرتھ اکھ پیہر زبر پانگ
واش کڈی کڈی بیان کورمت۔

بیہ چھ اسہ پرتھ اساہ ہنر گردن منر تہنر
عمل لہ کڈتھ ہاوا تراو منر۔ بیہ تھاوو اسی
قیامتہ دہہ تہنر (یعنی تہنر عملن ہنر)
کتاب کڈتھ تس بروٹھ کڈتھ سہ (بیکل)
منر راتھ لہ۔

(تہ تس بیہ ونہ) پیہر کتاب پر (پانے تہ
و پھن) از چھ بون لہنہ تریہ حساب ہنر
خاطر سبھاہ۔
(او کو تھاوو یاد تر) یس ہایت قبول کر تہند

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِي هِيَ آقَوْمٌ وَ
يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ
الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَثِيرًا ﴿١٠﴾

وَ أَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١١﴾

وَيَذُرُ النَّاسُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ
بِالْخَيْرِ، وَ كَانَ الْإِنْسَانُ عَجْوًا ﴿١٢﴾

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحْوُتًا
آيَةَ اللَّيْلِ وَ جَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً
لِتَبْتَغُوا أَفْضَالَ مِنْ رَبِّكُمْ وَ لِتَعْلَمُوا
عَدَدَ السَّاعَاتِ وَ الْحِسَابِ، وَ كُلُّ شَيْءٍ
فَعَلْنَاهُ تَفْصِيلًا ﴿١٣﴾

وَ كُلُّ إِنْسَانٍ أَلَزَمْنَاهُ طَبْعَهُ فِي عُنُقِهِ
وَ نَخْرُجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ
مَنْشُورًا ﴿١٤﴾

إِقْرَأْ كِتَابَكَ، كَفَىٰ بِتَفْسِيكَ الْيَوْمَ
عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿١٥﴾

مِنْ اهْتَدَىٰ قَائِمًا يَهْتَدِي لِتَفْسِيهِ، وَ

لہ یعنی اتر کٹ۔

لا عربی لوفتہ مطابق طر (پرتہ) چھتھ علم زمان نیکیک انسانس عادت اسہ گومت۔

ہدایت لیکن چھ تیندی ڈاڑھ کہ فایہ خاطر تہ
ییس (سہ ہدایت زد کر تھ) گمراہ گمراہ، سندر
گمراہ گمراہن گمراہ تسی (یعنی تیندی ہے نفس)
خلاف، تہ کاٹھہ بور تین وول تہ نہ کاٹھہ بیئے سندر
بور۔ تہ اسی پھنہ ہرز (گتہ توئس پیٹھ) تو تمانا
عذاب سوزان یوتا تہ (تہن کن) کاٹھہ پیغیر
سوزہ ہون۔

بیہ نیلیہ اسی کاٹھہ بسقی ہلاک کرنک اراد کرو، تیلہ
چھ اسی (گوڈ) تہہ کن آسودہ حال لوگ (نیکی ہندا)
تاکم دوران، بیتھ پیٹھ، تم (پھر تھ) اتھ بسقی منز
نافرمانی (ہنر و تھ) پراوان چھ، اد پھ تھ بسقی
متعلق سون کلام پور سپان تہ اسی چھن سہ پلوس
پاٹھو تباہ کر تھ ترہکان۔

بیہ کرکے اسہ (ای تو تہہ مطابق) نوح (سند قوم
تہ تمہ) بند (قوم)، پیہہ واریاہ نسل ہلاک تہ
چون پرور دکھ چھ پنہن بدن بدن گو نہن
ہنر (زبر پاٹھ) خبر تھون وول (تہ تہن چھ)
جان پاٹھو و تھکان۔

ییس تنفس (صرف) دنیا بیہن وول آسہ، تھتھو
لوگو منز، ییس اسی بیہن تھکان چھ اتھ چھ بیتھ
ڈنزیہس منزے کیہنہ اتھ پیٹھی (ڈنیا وی)
فایہ دوران۔ تمہ پیہہ چھ اسی تیندی خاطر تھنہ
مقرر کران بیتھ منز سہ مجرم سپد تھ تہ دکہ زد
بیتھ داخل سپان چھ۔

بیہ ییو لوگو ایما تہ کس حالتس منزہ خرچ تو تھ
کر تہ تمہ خاطر لڑکھ تمہ مطابق کوشش (تہ)
اد (یاد تھو) تھی لوکھ چھ یکن ہنر کوشش
ہنر قدر کرنہ پیہہ۔

اسی چھ سارہے مدکران متن تہ (یعنی دپسہ
والین تہ) تہ تہن تہ (یعنی دنیا والین تہ) تہ

مَنْ صَلَّى فَإِنَّمَا يُغِضِلْ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ
وَالرَّذَّةُ ذُرٌّ أَخْضَى، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ
حَتَّى تَبْعَثَ رَسُولًا ۝

وَإِذَا آرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَوْمًا مَّا
مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا
الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ۝

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، وَ
كَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا
بَصِيرًا ۝

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاقِلَةَ جَعَلْنَا لَهَا
فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا
لَهَا جَهَنَّمَ بِرِضْوَانِهَا مَذْمُومًا
مَذْمُورًا ۝

وَمَنْ آرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ
مَشْكُورًا ۝

كُلًّا نُوَدُّهُ وَلَهُمْ آجْرٌ وَهُمْ لَا يَمُرُّونَ
عَلَيْهِمْ مِنْ عِندِنَا إِلَّا أَنْ يُعْطُوا مِنْ
عِنْدِنَا وَمَا كَانَ عِندَ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۝

یہ مد (چھ پچاس پروردگار ستر ہشتاشر منبر
تہ پچاس پروردگار ستر ہشتاشر چھنہ (گنہ
خاص مجاز ہنہ) پتھ رتہ یوان۔

وچھ ایکھیاٹھ پچھ اسر (دنیوی سامان ہندجاسا)
تمو منبر کینٹن، کینٹن پچھ فضیلت وژ منبر
تہ آخرت آسہ پزری پاٹھ (بہ ہن تہ اٹری
درجات ہتھ تہ (تہج زندگی آسہ) بہ ہن جاہ
فضیلتہ واجز (زندگی)۔

اگر کو (اسے مخاطب!) اللہ (تعالیٰ) ہس ستر
سہ بناون کاٹھہ بیاکھ معبود۔ نتہ بہکھ تر الزام
لاگتاوتھ تہ (الہی) نصر تہ ہنہ محروم سیدتھ۔
پچاڑی پروردگارن چھ (اسر کتھ ہنہ) ٹاکیڈی حکم
دیتت نہ توہی مہ کروتس وراڈی کاٹھہ ہنہ
عبادت، تہ (بہ ہن تہ پچاس) ماس ماجہ ستر
کرورت سلوک۔ اگر تمو منبر کاٹھہ کس یا
دولونی چاہہ زندگی منبر تہج بہیہ تہ (تہنہز کتھ
کتھ پچھ پینہ ناپسندیدگی ہونہ موکھ) اتن وڈ
نہ اف تہ نہ کرک نہ من مریز، تہ من ستر
کرو نہ (بہیشہ) نری سان کتھ۔

تہ رہہ کس جذبس تل کرو نہ من بروٹھ کتھ
پینہ ہنہ وطہر اختیار۔ بہ آس (تمن ہنہ تہ
دعا کرنہ ورا) وان (نہ اسے) میانہ پروردگار
بین پچھ کرتہ مہرانی تکیا نہ تمواوس بہ لوکیا
منبر نہ چھت پلنت۔

یہ کینٹھا (تہ) تہنہن دن منبر آسہ تہنہ
پروردگار چھ تہ (ساروہے کھوتہ) رتہ پاگو
زانان (تہ) اگر توہی نیک آسو تہ (یاد تھاو
نہ) سہ چھ پچھ پچھ کر ربوع کرن والہن
(کیٹ) سہ پچھ ہے بخشہ وول۔

تہ قرابتہ ولس (اشاوس) تہ مسکین تہ

انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ
وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ ۖ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴿۱۷﴾

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ
مَذْمُومًا مَّخْذُومًا ﴿۱۷﴾

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ
عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا
تَقُلْ لَهُمَا آوْفٌ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا
قَوْلًا كَرِيمًا ﴿۱۷﴾

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ۚ
قُلْ رَبِّ اِرْحَمْهُمَا كَمَا رَّبِّينِي صَغِيرًا ﴿۱۷﴾

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي قُلُوبِكُمْ ۚ إِن
تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْآدَاءِ بَيْنِ
عَفْوًا ﴿۱۷﴾

وَأَبِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ

السَّيِّئِ وَلَا تُبَدِّذْ تَبْدِيدًا ۝

مسافرس دتند حق تہ اسراف مہ کر کونہ (تہ) زحس مشر!

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ،
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۝بیشک اسراف کرن واد لوکھ چھ شیطان ہندو
بانی آسان تہ شیطان چھ پسنس پروردگار سند
سبھ سہہ ناشکر گزار۔وَلَمَّا تُعْرَضُونَ عَنْهُمْ ابْغَاءَ رَحْمَتِنَ
ذَلِكَ تَرْجُوهُمَا قُلْ لَهُمْ قَوْلًا
مَيْسُورًا ۝تہ اگر تہ پسنس پروردگار سہز کا شہہ بڑ رحمت
خاوس کرنہ مہ کہہ تہ بیچ خریدہ وومید آسی
بمن آستانون نش دور ہیکھ (تہ تمہ صورتس منز
چھ دور ہون، ہون، جانز مگر) توبہ گزہ بمن سوتہ نرمی
سان کتہ کرنہ۔وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ
وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسِطِ فَتَقْعَدَ مَلُومًا
مَخْسُورًا ۝بیہ نہ تھا ورتہ تہ پسن اتہ پسنہ گردنہ سوتہ
گنہ تہ نہ تھا ورتہ سہ پلور پانچو سیکل۔ نتہ
گر تہ کھ تہ ملاستک شکر تہ تھا تہ تہ تہ تہ تہ تہ تہ
گر تہ کھ تہ تہ۔إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ
وَيَقْدِرُ، إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا
بَصِيرًا ۝چون پروردگار تہ تہ پسنہ خاطر پسنہان چھ رزق
چھس ہر راولن تہ (تہ تہ پسنہ خاطر پسنہان چھ
رزق) چھس تنگ کران۔ بے شک سہ چھ پسنہان
بندن (ہندو حالات) زانن وول (تہ) وچین وول۔وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ،
وَلَنْ نَّزُدَّهُمْ وَإِبَاقًا، إِنَّ قَتْلَهُمْ
كَانَ خَطَاً كَبِيرًا ۝بیہ مہ کر لوکھ مفلسی ہندو تہ پسنہ اولاد قتل۔ بمن (تہ)
چھ آسی رزق دوان تہ تو ہہ تہ (چھو آسی رزق
دوان)۔ تم قبل کرنہ چھ بے شک (سبھا) بوڈ اتر۔وَلَا تَقْرَبُوا الرِّبَا إِذْهُ كَانَ فَاحِشَةً، وَ
سَاءَ سَبِيلًا ۝بیہ زہ ہس مہ گزہ ہو نزدیک (تہ) سو چھینہ بیشک
اکہ تہ بے حیالی تہ سبھا ناکارہ و تہ۔وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا
بِالْحَقِّ، وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا
لِرَبِّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ، إِنَّهُبیہ یس زو (مارن) اللہ (تعالے) ہن حرام کوہیت
چھ سہ مہ کر یون (شرعی) حقہ وراہی قبل۔ تہ یس تہ
مظلوم (سپتہ) مارنہ بیہ۔ تہ تہ وائرس چھ

كَانَ مَسْئُورًا ⑤

اسر (بدلو، ہنگ) اختیار و قیمت کے اوج کی (چھ تہ بند
مخاطب یہ ہدایت تری، نہ گزشتہ نہ (تائیس) قبل کرنش
منز (ساتہ طرفہ مقرر کرتے آمتہ) حد پیمیر نیرن
(اگر نہ جس اندر روز) تو یقیناً آسہ تس (سون)
دو سوتی سوتی۔

وَلَا تَقْرُبُوا مَا لَآلَيْتُمْ إِلَّا بِالْحَنِي هِيَ
أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمْ وَأَذْفُوا
بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُورًا ⑥

بہی پیہم ہندس ماس نکھ تہ نہ گزشتہ تمہ
طریقہ وراہی یس (پیہم ہند حقہ) جاہ جان آسہ توانی
زرسہ (بالغ گزشتہ) پسنہ مضبوطی ہنرہ وائسہ
وائہ۔ بہی (پنن) وعدہ قرار کرو پلور (تکلیف) پرچہ
وعدہ قرار نسبت آسہ بے شک (اگر نہ اگر وہہ)
پرچہ گار۔

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا
بِالْقِسْطِ أَسْ أَلْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ⑦

بہی نیلہ توہر (کائسہ کینہ) مینتہ دین ہیو تہ پلور پلور
مینتہ آسو دوان بہی (نیلہ توہر) دلیو تینہ تہ
آسو دوان سیوڈ ترکر سوتی تولتہ یہ کتہ چھینے سارہ
وہے کھوت بہتر تہ انجام کہ مخالف چھینے سارہ
کھوتہ رتہ۔

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ
السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ
عِنْدَهُ مَسْئُورًا ⑧

بہی (اے مخاطب!) نیلہ کتہ ہند علم تریہ آسی تہ
تہج پاروی کرہ زہ (تکلیف) کن تہ اچہ تہ دل
یمن سارہ متعلق یہی تریہ) پرچہ گار کرہ۔

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن
تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ⑨

بہی مہ کچہ ہنرہ اثر پچہ تھری تالہ ڈھو کہ دوان تکلیف
تیکلہ نہ ہیکہ تہ ہیکہ کس اتمس وائتہ تہ نہ ہیکہ
(تیکلہ قومہ کن) سردارن تہ ہند ہیو تھوڈ تہ لبتہ۔
یو (حکو) منز چہ پرچہ ایچ (یعنے پرچہ عملہ نرا)
یکچہ صورت چائس ریس نش ناپسندیدہ۔

كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ
مَكْرُوهًا ⑩

یہ (شاندار تعلیم) چھینہ تمہ (تھک تہ تمہ) جانک
(اگر حصہ) لہہ چائی پروردگارن وحی ہند ذریعہ تریہ

ذَٰلِكَ وَمَا أَوْلَىٰ أَلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ
الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ

لہ یہ چھینہ انفرادی خطاب بلکہ یہ چھ حکومتس خطاب۔ مقبولہ ہند وراثت ہوکن نہ پائی
پانے بدلہ ہتہ بلکہ ہوکن تو نونی چار جونی کرہ تہ پن بدلہ ہتہ۔
لہ جبال۔ ایک نظمی معنے چھ بال۔ ورگہ پلور چہ برہن لوکن تہ سردارن جبل وناں۔

قُلْتُ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّذْحُورًا ①

کن مؤز مہر چینیہ۔ بیہ مہ بناؤن تر اللہ (تعالیٰ)
ہس سوتو کانہہ بیاکہ معبود۔ نہرہ یکہ تر ملامت
کرتھ (تر) ہواری دتھ جہنم منتر تراوتہ۔

کیا تہند کر رن چھوا توہی نیچو پو (ہند نعمت) سوتو
مخفوس کڑی ہوتی تر تو چھا کیہنہ ملایک (پانس کرپ
پستہ) کور بناو مہر ، یقینا چھو توہی (یہ) ہر
(خطرناک) کتھ دنان۔

أَفَأَصْفُكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ
الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ
قَوْلًا عَظِيمًا ①

بیہ چھ اُسہ بیتھ قرآنس منتر (پریتھ کانہہ کتھ) او
کئی پھیر کر پھیر کر بیان کر مہر۔ نہرہ تم رن (امر
سوتو) نفیست۔ مگر سہ (قرآن) چھ رحمن (امر
باوہو) (کیرس تر) نفیس منتر ہر راوان۔

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ
لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ②

تروان نہرہ گاہ تہند ونہہ مطابق تس (اللہ تعالیٰ
ہس) سوتو (کیہنہ) بیہ معبود (تر) آسہ ہن تر تھ
مور تس منتر تھانہ ہن ہم (مشرک ہمن معبودن)
ہند اتھ رٹ سوتو (عرشہ و اہس) خدایس (تام
واپنخ) کانہہ و تھ ضرور۔

قُلْ لَوْ كَانَتْ مَعَهُ إِلَهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ
إِذْ أَكَلُوا الثَّمَرَةَ أَلِيٌّ عَازِشٌ سَيِّئًا ③

سہ چھ ہمن (مشرکن) ہنرو ہر کر چھو کتھونہ پک
تر سپٹھ ہے بلا۔

سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَقُولُوْنَ عُلُوًّا
كَبِيْرًا ④

سوتو آسمان تر زمین بیہ ہم ہمن اندر (ہن و اہل)
چھ ، چھ تہنر تسبیح کران تر (ڈزہیک) پریتھ کانہہ
چہر چھ تندر تعریف کران کران (تہنر) تسبیح
کران۔ مگر ہمن (چہنر) ہنر تسبیح تر و ہن
توہر فکر سہ چھ بے شک پرد پوشی کرن وول (تر)
سپٹھا (ہے) بخش وول۔

ثُسَبِّحْ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَ
مَنْ فِيْهِنَّ ، وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ
بِحَمْدِهَا وَ لٰكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ
تَسْبِيْحَهُمْ ، اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا عَفُوًّا ⑤

بیہ نیلیر تر قرآن پران چھکھ تر اُسی چھ (کتھ وزیر) تر نیہ
درمیان تر ہمن لوکن درمیان ہم آخر تس پیٹھ ایمان
چھو تھون ، اگہ پوشیدہ (تر عام نظر و تھایہ) پرد
پاؤ کران۔

وَ اِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ
وَ بَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ
حِجَابًا مَّشْهُورًا ⑥

بیہ چھ اُسی تہند ہن و ہن پیٹھ کھو یا پرد تراوان بیٹھ
نہ ہمن یہ (پزر) فکر تر تھہ ہیکہ ، تر تہند ہن کنن

وَ جَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ
يَّفْقَهُوْهُ وَ فِىْ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا وَاِذَا

ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوَّاعِلًا
آذِبًا رِيحُهُمْ نُفُورًا ﴿۱۰﴾

تَخُونُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ
يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ
يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنَّ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا
مَّشْحُورًا ﴿۱۱﴾

أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا
فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً ﴿۱۲﴾

وَقَالُوا إِذْ أَذْنَا عِظَامًا وَرُفَاتًا إِنَّا
لَتَمْبَعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿۱۳﴾

قُلْ كُونُوا حِجَابًا أَوْ حديدًا ﴿۱۴﴾

أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ
فَسَيَقُولُونَ مَنْ يَعِينُهُ قُلِ الَّذِي
فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ
رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلِ عَسَى
أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ﴿۱۵﴾

چھ اُسے زبرد (پاؤں کوڑمت)۔ یہی نیلیر تہ قرآنس
منز پنن پروردگار یس کئے چھ، یاد چھی بن کران
تہ تم چھ نفرتہ سوتی پستہ تھر چھر تھ واپس گھر جان
(یہی) نیلیر تم (ظاہر پاٹھو) چانہ کتھہ بوزان آسان
چھ تہ نیلیر غرہ تہ تم چانہ کتھہ بوزان چھہ آسان، اُس
چھ پچھ اصلیت زبرد پاٹھو زمانہ تہ (یہی) نیلیر
تم چانہ وافی کتھہ پھسرارے کران چھہ آسان (تیک
تہ چھہ اُسے علم آسان تہ) نیلیر تم ظالم (اکھ اُس)
ونان چھہ آسان (تر) توہی چھہ اُسے فریس منز
ولہ آمتس شغفہ سنرہے پاروی کرن (تہ تمہہ
وقتہ تہ چھہ اُسے بوزان آسان)

وچھہ! تمہو کتھہ پاٹھو چھینہ شریہ متعلق کتھہ بناؤں
نیلیر کس نہیں منز تم چھہ گھراہا تہ تم ہیکن
نہ (وہ) فی ہدایت محاصل کرنہ خاطر، کانہہ و تھہ لہتہ
یہی چھہ تمہو (پستہ) وونمت (ترکیا) نیلیر اُسے (مترتہ)
اڑی جہ سپدو تہ کیبہ وقت گھر صتہ بنو غلگتہ اڑی بن
ہند (تہ) بوس (تہ) اُسے بیوا بوسہ زندہ کرنہ
(تہ) کیا پڑی پاٹھو بیوا اُسے کہ نو پیدائیشہ ہنز
شکلہ منز تکلہ؟

تہ دن (تمن ز او) توہی سہ بڑ تو یا ششسترہ۔

یا بدل ترشہ کانہہ پیدائش (بڑ تو) یہ سہ تہ ہندن
دن منز تمہو کتھہ تہ سبت بوزنہ بوان اُسے (توہی
بیو توہی دو بار زندہ کرنہ) (پہ بوزتہ) ونن تم
مزور (تہ) کس اہہ اُسے دو بار (زندہ کرنہ) و بوزن
منز؟ (تہ دن (تمن ز) سہ (خدا) بیو توہی
گھو ڈیکہ لٹ پاؤں کرکے متی اُسے و۔ اکتھہ پیٹھ

دن تم جان گھر صتہ توہی کن (وچھان) پیٹھ
کلہ تہ ونن (تر) یہ (زندہ کرنہ) کام (کر سپدہ
(نیلیر تم) تھکنز ونن تہ) تہ دن (تمن ز) بلکل
ممکن چھہ ترسہ (وقت) اُسے (وہی) نزدیک (آمت)۔

(یہ وہی گڑبہ تیرے دوہے پلڑے) نیبے دوہے سے توہم
 ناد دیو توہی مانو تہندو تعریف کران تہند حکم
 (تو فوراً سپردِ حاضر) توہم آسے و باسان نہ
 توہی آسے و (وڈی میہس منتر) کہے کاس روڈی ہتہ۔
 بیہ ون تہ میان بنن بدن تہ تم آسن سو کے کتہ ون
 یوسہ (سار وپے کھوتہ) جاوہ رتہ آسہ (مکیاز)
 شیطان چھ بے شک بہن در میان فساد تراوان
 روزان۔ شیطان چھ انسانہ مند تہہ واپہ دشمن۔

تہند پروردگار چھو توہم (سار وپے کھوتہ) جادو
 زانان۔ اگر تہہ بیٹھ تہ توہم پٹھ کریم تہ اگر تہہ
 بیٹھ تہ توہم دیو عذاب۔ تہ (اسے زلزل!) اسہ
 چھاکہ تہ تہ تہند ذمہ وار بناوتھ سوزمت۔

بیہ یک (وجود تہ) آسمان تہ زمپستہ منتر (بسن
 واپ) چھ بہن چھ تہند پروردگار (سار وپے
 کھوتہ) جادو زانان بیہ چھ اسہ یقیناً تہین اندر
 کیشنن، کیشنن (بہن تہین) پٹھ فنیلت دز
 مہتر تہ داؤس (تہ) آس اسہ زلزلہ دز مہتر
 تہ ون بہن نہ بہن لوکن متعلق تہند دعویٰ چھ
 (تہ تم چھتس (خدا لیس) ہوا خدای صفت
 تھاوان) تم انیکھ ناد تھہ (پستہ امداد خاطر تہ
 توہم گڑبہ و معلوم نہ) نہ چھ تم (تہند کانہہ)
 کلکھ تہ توہم نشہ دور کرنک اختیار تھاوان تہ
 نہ (چھو تم تہندس حالتس منتر) کانہہ تبدیلی
 پاد کرنک طاقت تھاوان!

تم لوکھ بہن تم آلو کران چھو تم تہ چھ پسنس
 پروردگار ہنتر تہو کی حاصل کرنہ خاطر کانہہ
 وسپلہ تہ ہانڈان۔ (یعنی یہ چھ وچھان آسان)

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ ۝
 وَ تَنْظُنُونَ اِنْ لَيْسَتْ اِلَّا قَلِيلًا ۝ ﴿٤١﴾

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّذِي هِيَ اَحْسَنُ ۝
 اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ ۝ اِنَّ
 الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ۝ ﴿٤٢﴾

رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِكُمْ ۝ اِنْ يَشَاءُ يَزِجْكُمْ
 اَوْ اِنْ يَشَاءُ يُعَذِّبْكُمْ ۝ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ
 عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۝ ﴿٤٣﴾

وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۝
 وَ لَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّۦنَ عَلَىٰ بَعْضٍ ۝
 اَتَيْنَاكَ اٰوَادًا رَّبُوۡدًا ۝ ﴿٤٤﴾

قُلْ اِذْعُوۡا الَّذِيۦنَ رَعَمْتُمْ مِّنْ دُوۡنِهِ
 فَلَا يَمۡلِكُوۡنَ كَشَفِ الضَّرِّ عَنۡكُمۡ وَلَا
 تَخۡوِيۡلًا ۝ ﴿٤٥﴾

اُولٰٓئِكَ الَّذِيۦنَ يَدْعُوۡنَ يَسْتَجۡوۡنَ اِلٰى
 رَبِّهِمۡ اَلۡوَسِيۡلَةَ اِلَيْهِمۡ اَقْرَبَ وَيَسۡجُوۡنَ
 رَحِمَتَهُ ۝ وَيَخَافُوۡنَ عَذَابَهُ ۝ اِنَّ

۱۷ یعنی نیبے عرکے لوکھ اسلام قبول کرن تہ کہ انقلاب سپد پاد۔

۱۷ زبور چھینہ شریعہ کتاب اتھ منتر چھ اللہ تعالیٰ بس متعلق مساجات، دعا تہ نصیحہ۔

عَذَابَ رَيْتِكَ كَانَ مَحْذُورًا ⑤

زکس بچھ خدا میں جاؤ نزدیک (بیٹھ زن اسکتند
اتھ روٹ حاصل کرو) بیہ چھ تم ہمیشہ تند
رنگو وہ سید وار روزان تہ تند عذاب نشہ بچھ
کھوڑان روزان۔ چائس رہہ تند عذاب بچھ بے شک
بیٹھ بیٹھ بش کھوڑان یوان بچھ۔

تہ (روسے زمیںس پیٹھ) ترشہ کانہہ بستی (اسہ)
تہ یوسہ اسی قیامتہ کہ وہ بہ بروٹھ ہلاک کروں
یا تھ سبھاہ سخت عذاب وموتہ۔ یہ کھتھ چھبیہ
(الہی) تقدیرس منز (بروٹھ پیٹھ) لیکھتھ۔
اسہ بیکیا نشانہ سوزس منز امہ وراڈی کانہہ (کھتھ)
پتھ روتھ تر بروٹھ مو لوکو اسی (تم نشانہ)
ایزاور ہنزی (تہ تمن بنش اوسکھ نہ کانہہ قایدہ
تامت مگر یہ چھتھ کانہہ وجہ نشانہ سوزنہ نشہ
پتھ روزنگ (تہ زن گوو (بیلیہ) اسہ نمودنس
تومس اکھ وونہنی اکھ کاشتر نشانہ کنہ بچش۔ تہ
تجو کورس پتھ ظلم تہ اسی چھ نشانہ (بدانجامہ
نشہ) کھوڑن ناوتہ خاطرے سوزان روزان۔

بیہ بیلیہ ثریہ اسہ وناوے (ز) چائی پروردگان
چھ تم لاکھ ضرور ہلاک کرنک قاصد کورمت (توپتہ
تہ مکینہ تموقایدہ) تہ یس خواب اسہ ثریہ ناویاوس
سہ (تہ) تہ سہ کل (تہ) اوس اسہ لوکن بندہ
خاطر صرف امتحانک ذریعہ ہوتمت یس قرآنس
منزلعتی ٹھہراونہ آمت اوس تہ (امہ باوجود ز)
اُسی چھاکہ تم کھوڑناون (گڑھان) تمہ پتہ تہ چھ
سہ (سون کھوڑناون) تمہن اُکس خطرناک بناوتس
منز بیڑ راوان۔

وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا
قَبْلَ يَوْمِ الْيَوْمِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا
شَدِيدًا إِذْ كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ⑥

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نَنْزِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ
كَذَّبَ بِهَا الْكَافِرُونَ ؕ وَآتَيْنَا ثَمُودَ
النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ؕ وَ
مَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ⑦

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحْسَطُ بِالنَّاسِ
وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي آدَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً
لِلنَّاسِ وَ الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي
الْقُرْآنِ ؕ وَ نَحْوُ فُهم ؕ فَمَا يَزِيدُهُمْ
إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ⑧

لہ بیٹھ سورہ بنی اسرائیلس منز چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنہ تمہ کشفی تہ روحانی
سفرک ذکر بیٹھ اسرار ومان چھ تہ عربی لغتس منز چھ تجرس خاندان تہ مراد آسان۔
الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ ہس چھ یہود مراد یمن ہند ذکر بیٹھ سورس منز کرنہ اُمت چھ۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ
فَسَجَدُوا اِلَّا اِبٰلٰٓيسَ ۚ قَالَ ؕ اَسْجُدْ
لِمَنْ خَلَقْتَ طِيۡنًا ﴿۱۷﴾

بیمہ (سُ) وقت تہ کریاؤ (بیلے اسہ ملائکین و نیاؤ
نہ توہی کرو آدَمَس سَتِي (رُلہتہ) سُبُجِد تہ ہتو
کورد (امہ حکمہ مطابق آدَمَس سَتِي رُلہتہ) سُبُجِد
مگر ابلیس (کریاؤ نہ) تُو و نیاؤ (ز) کیا بہ کر اکتس
(بیشترس) سَتِي (رُلہتہ) سُبُجِد یس تریہ ز بہ ہنش
پاؤ چُعتہ کور مُت ہ

قَالَ اَرۡءَیۡتَکَ لِهٰذَا الَّذِي کَرَّمۡتَ عَلَیَّ
رَ لَئِنۡ اَخَّرْتَنِ اِلٰی یَومِ الۡقِیٰمَةِ لَآخۡتَنِکَ
ذُرِّیَّتَہٗ اِلَّا قَلِیۡلًا ﴿۱۷﴾

تُو و ن (اے اللہ! تہ ہے) و ن تہ یو ہے چھا
سہ یس تریہ میہ پیچہ تھز ر و سِمت چُعتہ ؟ (اس
ہکاہ پر فرمانبرواری کرتہ) ؟ ہرگاہ تریہ میہ قیامتہ
کس دوس تام موبلت دتہ تہ (میہ چہ چانی
و اکت قسم نہ) بہ کرکھ اُم ہند (ساری) اولاد
قبضس ، کم کینترھا لوکو و رانی (یکم تہ پکاو کھ) ۔
(اللہ تعالیٰ ہن) فرمونس سیر (دور گزہ) !
تیکیا تریہ کیت تہ تہ ہتو متز یکم چانی پاروی
کرن (حسن کیت تہ) چہ سزا جہنم (تہ سیر چہ)
پور پور ہلبہ ۔

قَالَ اِذْ هَبۡ فَمَنْ بَدَّلَکَ مِنْہُمۡ فَاِنَّ
جَہَنَّمَ جَزَاؤُکَ فَمَآ تَوَفَّوۡرًا ﴿۱۷﴾

تہ (اسہ و ونس گزہ) یکو متز یس پیچہ چون زور
چلہ سُ بن پستہ کر یکہ سَتِي جعل کر تہ (پاس
کرن) ۔ تہ پنتر سوار تہ پیاد اکتہ تیس پیچہ حملہ
کرتہ تہ (تہند بن) مان تہ اولادن متز بن
تہند شریک ، بیمہ کر بہن سَتِي ، اپزک (و علیہ
(تہ او و چہ پنہن کوشش ہند نتیجہ) تہ
شیطان یکم تہ و علیہ کران چہ فریبہ کر نیپتہ
چہ کران ۔

وَاسْتَفۡزِزۡ مَنۡ اَسۡتَطَّحَتۡ مِنْہُمۡ بِصَوۡتِکَ
وَاجۡلِبۡ عَلَیۡہِمۡ بِخَمۡلِکَ وَرَجۡلِکَ وَ
شَاۡرِکُہُمۡ فِی الۡاَموَالِ وَ الۡاَولَادِ وَ عِندَہُمۡ وَ
مَا یَعۡدُہُمُ الشَّیۡطٰنُ اِلَّا عُرُوۡرًا ﴿۱۷﴾

یکم میاؤ بند چہ حسن پیچہ (ہیکہ) نہ ہرگز
چون غلبہ گزہ تہ ۔ تہ (اے میاؤ بند!) چون
پروردگار چہ (جانہ خاطر) کار سازی متز
کافی ۔

اِنَّ عِبَادَیۡ لَیۡسَ لَکَ عَلَیۡہِمۡ سُلۡطٰنٌ ۚ وَ
کَفٰی بِرَبِّکَ وَحِیۡلًا ﴿۱۷﴾

(بیمہ اے میاؤ بندو!) تہند پروردگار چہ
سہ یس تہند خاطر سمندس متز ناو کپتاوان

رَبُّکُمُ الَّذِیۡ یُرِزِّحِ لَکُمُ الۡفُلَکَ فِی
الۡبَحْرِ لِتَبۡتَغُوۡا مِنْ فَضۡلِہٖ ؕ اِنَّہٗ کَانَ

بِکُمْ رَحِيمًا ﴿۱۰﴾

چھ بیٹھ توہی تندر فنیس ترھا ترو رسہ چھ بے
 تشک توہہ پیٹھ پھیری پھیری رحم کرن دول۔
 بیہ نیلہ سمندر س منتر (لوانان بیہ کئی) توہہ
 تکلیف واتر و۔ تہ تس سوا (تم ہاتے وجود)
 بین توہی آلو کران چھو، چھ (تہند بو ذہنو
 بشتر) قاب گرھان۔ پتہ بیلیہ سہ (اللہ تبارک)
 توہہ پکارتھ خشکی کن انان چھو تہ توہی چھو اللہ
 کتہ (روے مرؤانی کران۔ تہ انسان چھ سپٹھ
 ہے ناشکر گزار۔

وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ صَلَّوْا مِنْ
 تَدْعُوْنَ اِلَّا اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا نَجَّكُمْ اِلَى
 الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ ۗ وَكَانَ الْاِنْسَانُ كَفُوْرًا ﴿۱۱﴾

کیا او چھو توہی (یہ زمانہ تر توہی چھو) امیرتھ
 بشتر بلکل امنس منتر رسہ (یاتر) دو براوی و
 توہہ تشک پٹھس پیٹھ (زمینس منتر) یا کر توہہ
 پیٹھ کتہ روڈلہ نازل تہ پتہ بیلیون تہ توہی
 کاٹھ پین کار ساز (تہ چاہر گر)۔

اَفَاَمِنْتُمْ اَنْ يَّخَسِفَ بِكُمْ اَيُّتُ الْبَرِّ اِذْ
 يُدْسِلُ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوْا اِلَيْهِ
 وَّكَيْلًا ﴿۱۱﴾

یا توہی چھو امیرتھ بشتر بے خوف رسہ ازی توہہ
 بیہ کتہ لٹ اتھ (سمندر س) کن پھیرتھ۔ تہ
 توہہ پیٹھ سوزر اکھ تیز واو تہ تہند کفر مو کھ
 کری و توہہ عرق۔ اتہ (پتہ بیلیون تہ توہی اتھ
 عدالس) پیٹھ اسہ خلاف پین کاٹھ مددگار۔

اَمْ اَمِنْتُمْ اَنْ يُعَيِّنِدَكُمْ فِيْهِ تَاوَدَّ الْاٰخِرَىٰ
 فَيُدْسِلُ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيْحِ
 فَيُغْرِقُكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ۗ ثُمَّ لَا تَجِدُوْا
 لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيْعًا ﴿۱۲﴾

بیہ چھ اسہ بنی آدمس (سپٹھا) شرف بخشمت
 تہ تہند خاطر چھ خشکی منتر تہ سمندر سوار پتہ
 سامانہ پاد کورمت۔ تہ تمن چھ پاکیزہ چیز و منتر
 رزق دیتت، تہ یک مخلوق اسہ پاد کری ہوتی
 چھ ہمو منتر چھتہ جاون پیٹھ اسہ تمن (بنی
 آدم) سپٹھا فنیات و تر ہتر۔

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيَّ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِي
 الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ
 وَ فَضَّلْنٰهُمْ عَلٰی كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا
 تَفْضِيْلًا ﴿۱۲﴾

بیہ (کرؤ رسہ دوہ تہ یاد) بیلیہ دوہہ اسی پر پتہ
 اکھ جماعت تہند امام ہتھ ناد و تھ انون او
 بیہندس و چھس اتھس منتر تہنتر (اعمالن ہتر)

يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنۡاٰىلٍ بِاِمۡاٰمِهِمْ ۗ
 فَمَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهُ بِيَمِيْنِهٖ فَاُوۡلٰٓئِكَ
 يَفۡرُوۡنَ وَ اَنْ كَتَبْنٰهُمْ وَّلَا يُظَلَمُوْنَ فَتٰوِيْلًا ﴿۱۳﴾

کتاب دنو پیو رتم پرک (بڑ شوقہ سان)
پیو کتاب۔ تہ تمن پیو تہ اکھ دانی (تر)
ظلم کرن۔

بیسے یس بیٹھ (دو بیس) منزاؤن روزہ مسہ
اسر آرتس منز (تر) اوئے۔ تہ مسہ آسہ
(بیٹھے پاٹھی) پینس (طور) طریقس منز سار
کھوتہ جلد ڈولمت۔

بیسے قریب اوس نہ تہ (کلام) کہ با عتہ یس
اسر تریہ پیو وحی کویٹہ نازل کورمت چھ، رتم
آور بنے تریہ (جاد کر پیس) عذابس منز بیٹھ
زن تہ تمن کھوتہ (امہ) کلام) بدل کاتہ
کلام پانے بناوتھ اسر کن منسوب کرہ کہہ۔
تہ (اکر تہ تہ کر کہہ تیند) تھتھ صورتس منز
بناو بنے تریہ رتم یقینا (پنن) جانی دوست۔
بیسے اگر اسر تریہ (قرآن) و تھ) ثبات قدمی اسر
ہی تہ عطا کر پتر تہ توتہ (سیدھے بی بی نہ) تہ
آسہ کہ (الہام) ورا تہ (تمن کن سپٹھاکم
مالدار۔ (امہ پوز وہ تہ تہ چھے تریہ الہی
وصیہ صبح و تھ ٹاو پتر۔)

بیسے یو وسے (پہ زن تہ تہ خیال چھ تہ آسہ کہ
اسر ایہہ تہ لکن وول) تہ تھتھ صورتس منز
م سکر تہ ہنا ووتھ تہ زندگی ہند بوڈ عذاب تہ
موتک بوڈ عذاب۔ (تہ) پتر لہب کہ تہ تہ اسر
مقابل پنن کاتہ (تہ) مددگار۔

بیسے جی رتم تریہ بیٹھ ملک منز کڈنکر رنگہ رنگہ
بہاوت کران روزان۔ بیٹھ زن رتم تریہ کھوتہ تہ
ملک منز نمبر کڈنے۔ امہ پوز (اگر تہ سپد
تیلاروزن رتم (پا تہ) کھپے کالس تریہ پتر
(بچتھ تہ جلد گزھن تہا)۔

پہ سلاک اسر سانہ تہ سلوک مطابقی یس اسر

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُو فِي الْأُخْرَةِ
أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۝۱۵

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي
أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَةً ۝۱۶
وَإِذَا لَا تَأْخُذُكَ ذَلِكَ خَلِيلًا ۝۱۷

وَلَوْ لَا أَنْ تَنْبُتْكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنَ
إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ۝۱۸

إِذَا لَدَّئِنَّكَ ضَعْفَ الْحِيلَةِ وَضَعْفَ
الْمَعَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ۝۱۹

وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ
لَيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ
خَلْقَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۝۲۰

سُنَّةً مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَ

لَا تَجِدُ لِسْتَيْنَا تَحْوِيلًا ﴿٥﴾

ع

ثرینہ بروٹھ (گڈرے متین) پینین رسو لن
(ہندین قوم) سوتی کوزمت اوس تہ تہ بیکہ
تہ سائس گند سنوکس منز کا نہہ فریق۔
ثر آس آفتابہ ڈلنہ (کہ وقتہ) پیٹھ راتہ ہند
واہر ایگٹ گزٹھنس تام (بیون بیون ساعتن
منز) زبر پاطھ نماز ادا کران تہ صبحہ کہ وقتہ
(قرآن) پرن تہ (زان لازم) بے شک صبحہ
کہ وقتہ (قرآن) پرن چھہ (اللہ تعالیٰ ہندس
دربارس منز اکھ) مقبول عمل۔

اقِمْ الصَّلَاةَ لِذُلُوتِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ
الْأَيْلِ وَقِزَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قِزَانَ الْفَجْرِ
كَانَ مَشْهُودًا ﴿٥﴾

وَمِنَ الْأَيْلِ فَتَهَجِّدْ بِهِ تَأْفِلَةً لَكَ ۖ
عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا
مَّخْمُودًا ﴿٥﴾

بہ آس راتس تہ تہ امیر (قرآن) کہ ڈریعہ کیہ
کال شو نگہ پتہ شب بیداری کران۔ یس تہ
پیٹھ اکھ ہر انعام چھہ۔ (تہ پاطھ) چھہ پوز توقع
نہ چون پروردگار کری تہ حمد کس مقامس پیٹھ
استاد۔

وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ
وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي
مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَنًا نَّصِيرًا ﴿٥﴾

بہ ون (ز) اسے میانہ پروردگار! مینہ کرنیک
طریقس پیٹھ (دوبارہ عکس منز) داخول تہ نیک
ڈکر پتہ کن تراونہ کس طریقس پیٹھ گڈم (کہ
منز) تہ بہ کرن پانہ پستہ طرفہ میون کا نہہ
مددگار (تہ) گواہ مقرر۔

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ
الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿٥﴾

بہ ون سارہ نہ لوکن (زبس) پوز چھہ (وہ ذی
آمت تہ اپز چھہ تزلومت تہ اپز تہ چھہ
تروبتہ گزٹھن وول۔

وَنُنزَلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَ لَا يَزِيدُ
الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٥﴾

بہ چھہ اسی قرآنہ منز وارہ وارہ سو (تعلیم) تازیل
کران یوسہ مؤمنین ہند خاطر شفا تہ رحمت بخشگ
موجب) چھہ تہ ظالمن چھہ صرف کھاس منز
ہر پر کران۔

وَ إِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْكَافِرِينَ أَعْرَضُوا

بہ سیکہ اسی انسانس پیٹھ انعام کرو تہ سہ چھہ

۱۷ یعنی سورے دنیا کر چاڑی تفریق۔

۱۸ اتھ منز چھہ حضرت ابوبکرس کن اشارہ کر تہ آمت۔

بہتو پھیر گزرتھان تہ دُور دُورے چھہ روزان۔
تہ ییلد تِس کا نہہ تکلیف واتہ تہ سہ چھہ سپہہ
سہہ ناوو مید گرتھان۔

ثُرُون (بہن نواسہ منتر) پر پتھہ اکھ فریق (چھہ
پنس (پنس) طریقس پتھہ عمل کران۔ لہذا
(ترو پنس پروردگار سہہ پتھہ فاصلہ تکیانر) چون
پروردگار چھہ تِس بہتر زمان لیس جساد
صحیح وتہ پتھہ چھہ (او کئی تسند فاصلہ کر پتھہ
سند پوز ضرور روشن)۔

بیہ چھی تم تریہ رؤس متعلق سوال کران، تہ وِن
(بہن نر) رُوح چھہ میانس پروردگار سہہ حکم
سنتی (پاؤ پتھہ) تہ تو بہ چھو (تتھ متعلق)
علم منترے (حصہ) دین آمت۔

سہہ اکر سوس پتھہ تہ پتھہ پتھہ لیس (کلام الہی)
اسہ تو بہ پتھہ (بند ڈریہ نازل) کورمت
چھہ سہہ (دنیا بہ پتھہ) پتھہ لیس بہ تہ
اتھہ کامہ منتر پتھہ خاطر اسہ خلاف کا نہہ کار ساز۔

امہ ورائی نر چائس رہہ سہہ (خاص) رحمت
اسہ (پوسہ اتھہ واپس ازہ مگر یہ قرآن پیہ تہ
نہنا و تہ تکیانر) تریہ پتھہ چھہ چائس پروردگار
سند یقینا (سہہما) بوڈ فضل۔

ثُرُون (بہن نر) اگر تمام انسان (تہ) تہ جن (تہ)
یہیہ قرآنک جو رہ انہہ با پتھہ جمع سپدن تہ تم
ہیکن تہ (توتہ) امیک جوہ اتھہ۔ یوڈ وے تم
اکھ اکر ہندہ مددگارہے (کوہ) بن۔

بیہ چھہ اسہ بیہہ قرآنس منتر بے شک پر پتھہ اکھ
ضروری کتھہ مختلف طریقہ بیان کر مپتھہ۔ پتھہ
(تہ) چھہ واریا ہو لوکو (اتھہ متعلق) کتھہ (صح
وتھہ اختیار کرنہ) ورائی پر پتھہ کتھہ انکار کورمت
بیہ چھہ بہو (پتھہ) وؤمت (نر) اُسو مانو تہ

وَنَّا بِجَانِبِهِمْ ، وَإِذْ آمَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ
يَكْفُوسًا ﴿۷۰﴾

قُلْ كُلُّ يَعْمَلْ عَلَىٰ شَاكِلَتَيْهِ ، فَتَرْبُكُمْ
أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿۷۱﴾

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ، قُلِ الرُّوحُ مِنْ
أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا
قَلِيلًا ﴿۷۲﴾

وَلَكِن هُنَّآ لَنذَهَبَنَّ بِالَّذِي
أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ
عِلْمِنَا وَلَا كَيْلًا ﴿۷۳﴾

إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ ، إِنَّ فَضْلَكَ كَانَ
عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿۷۴﴾

قُلْ لَّئِن اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ
عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ
لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ
لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿۷۵﴾

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ
مِن كُلِّ مَثَلٍ لِّقَابِي أَكْثَرُ النَّاسِ
إِلَّا كُفُورًا ﴿۷۶﴾

وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَنْفَجِرَ

لَنَامِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ⑩

أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّجِيلٍ دَعْنَبٍ
فَتَقْطِرَ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ⑪

أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتِ عَلَيْنَا
كَسَفًا أَوْ تَأْتِي بِنُوحٍ وَالْمَلَكَةِ
قَبِيلًا ⑫

أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ ذُرْفٍ
أَوْ تَرَفَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ
بِرُقَيْبِكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدًا
تَقْرُؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ
إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ⑬

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَ
هُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ
بَشَرًا رَسُولًا ⑭

قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ
مَلَائِكَةٌ يَّمشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَلَّزْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ
السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ⑮

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ
إِنَّهُ كَانَ يَعْبُدُ خَلْقًا مِّمَّنْ
بَدَعُوا ⑯

ہرگز چاند (کانہہ) کہتے یوتانی (تبیحہ سیدہ نہ نہ)
تر کہہ سائے با پتھ زمپینہ منزا کہ نگہ راہ تجاری
یا آسی تریہ کانہہ کھنزر باغ تو دھبہ باغ تو
تر کہہ تھہ منزر پور پانھی (بیسلم) نہر تجاری۔

یا بیٹھ پانھی زن چون دعویٰ چھہ تر وانہہ اسر
پیٹھ آسمانچہ پھلہ یا کرمن اللہ (تعالیٰ) تو
تہندہ ملایک (اسر) بروٹھہ کن اُنہہ استاد۔

یا آسی تریہ کانہہ سو نہ سندر گر۔ یا کھسکھ تر
آسمانس پیٹھ تو آسی الفونہ چائیس (آسمان)
کھسکھ پیٹھ تو ایمان۔ یوتانی نہ تر (ہیور
کھسکھ تو) اسر پیٹھ کانہہ کتاب تازل کرکھ۔

یوہہ آسی (پانہ) پیر ہون۔ تر ون زمین (میون
پروردگار چھہ) پیرھو تھو نشہ (پاک۔ پیر) تو
پھس صرف بشر رسول الہ

تر تھہ ہائیس پیٹھ یس برمن نش آمت چھہ
تم لوکھ چھہ ایمان انہہ نشہ صرف امر کہتھ
پتھ رڈ ہی زرتو وون (پینٹن دن منزر) کیا

اللہ (تعالیٰ) ہن چھا کہ بشر رسول بناوتھ نوزمت؟

تر ون (جمن نہ) اگر زمپنس پیٹھ ملایک (بسان) آہہ
ہن بيم زن زمپنس پیٹھ مطمئن یا کھ پکان پکان
آہہ ہن تیلہ کر ہون آسی (تھہ صنورتس منزا ضرور
آسمانہ پیٹھ کانہہ ملایک (ہے) پیغمبر بناوتھ تازل۔

تر ون (جمن نہ) مینہ تو تھہ درمیان چھہ اللہ
(تعالیٰ) ہے گواہ سند شہیتہ کافی۔ سہ چھہ پینٹن
بندن تران وول (تہ) وچھن وول۔

۱۰۔ قرآن کریمہ چہ زبانی چھہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما وون نہ بشر رسول ہیکہ نہ آسمانس
پیٹھ کھسکھ۔ تجارانی چھہ جمن مسلمان پیٹھ بيم امر باوجود یہ ایمان چھہ تھوون نہ مسیح
کھوت آسمانس پیٹھ تر لگ بھگ نہ ساس ہری گئیس آسمانس پیٹھ دتہ، آخری زائس
منزر و سہ سہ تر مسلمان کر اصلاح۔

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَ مَنْ
يَضِلُّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ
وَ تَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى
وُجُوهِهِمْ عُمْقًا وَ بُكْمًا وَ صُمًّا
مَا وَرَاهُمْ جَهَنَّمَ كُلَّمَا خَبَتْ زُدْنَهُمْ
سَعِيرًا ۝

بیسے نہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دینے سے چھوڑ
ہدایت چھوڑ آسان ہے نہیں سہ گمراہ کرے تو تڑپ لیں
ہن نہ تس (یعنی اللہ تعالیٰ ہس) مقابلہ تندر
کاٹھہ تہ مدوکار تہ قیا مٹر دوہہ کروکھ اسی
تم تہندو مقصدو (تہ نیتو) مطابق اونی تہ کلو
تہ زری آسہ کس حالتس منز جمع۔ تہندہ ٹھکا نہ
آسہ جہنم۔ بیلیہ تہ سہ (جہنمک نار ہنا) سوتن ہنیہ۔
تہ ہتن بیہ عذاب سہنت کرنہ۔ بیس (عذاب زہ)
وہو نہ نارک آسہ۔

ذَلِكَ جَزَاءُ هُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا
بِأَيِّتِنَا وَ قَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَ
رُفَاتًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا
جَدِيدًا ۝

یہ (نار) آسہ ہتن (ہنرہنے ملن) ہند جزا
تکلیا نہ تمکو کوز سانہن نشان ہند انکار تہ وونکھ
نہ کیا بیلیہ اسی (مترتھ) اڑی جہ تہ بوس
گرتھو (تہ اسی بکوا نو سہ زندہ کرتہ؟ تہ اکر
بکوا پڑی پاٹھو اہس نو پیدایشہ ہنرہ شکلہ منز
تکلیہ؟

أَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ
يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَ جَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا
لَا رَيْبَ فِيهِ فَا بَ الظَّالِمُونَ إِيَّا
كَفُورًا ۝

کیا ہتن چھنا (ونیکام تہ) فکر توڑنت ہر سہ اللہ
نیو آسمان تہ زمین پاؤ کرکری ہوی چھ، چھ اتھ
کھچھ پیٹھ تہ قدرت تھوان تر سہ کر ہتن ہوی
(بل لوکھ تہ) پاؤ تہ تھہ منز چھنہ کاٹھہ شک
نہ تمو چھ تہندہ خاطر اھ معیاد مقرر کوہنت
(توتہ) چھ ہمو ظالمو صرف ناشکری ہنرہ تہ پراؤ ہنرہ
تہ ون (ہتن زہ) اگر توہی میاس پرور دگار سہند
رحمتہ کین (آنہرہ رہتین) خزان ہندی (تہ)
نابک آسہ ہو تہ توہی تھوہی کھہ (تم توتہ تہندہ)
خریج گرتھہ کہ توفیہ پتھہ رتھہ تہ انسان چھ بوڈ
کینوش۔

قُلْ لَوْ أَنَّكُمْ تَعْلَمُونَ خَيْرًا لِّنَ رَحْمَةِ
رَبِّي إِذًا لَّمْ مَسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ
وَ كَانُوا لِنِسَانٍ قَتُورًا ۝

بیسے اسی آسہ موسیٰ ہس نو پرہ زوہی نشاہ دڑہی
اڈ تہ پررھ تہ بنی اسرائیل (تم حالات) ایساہ
(موسیٰ) ہتن (مصر والین) کن آیاو تہ فرعون
ونیاوتس (نہ) اسے موسیٰ! بچھتھ تہ بے شک

وَ لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ
بَيِّنَاتٍ فَسَعَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ
جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ
يَمُوسَىٰ مَسْحُورًا ۝

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَمَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا
رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَافِيَةٍ ذَرِئْتِ
كَأَظُنُّكَ يَفِرُّ عَوْنُ مَثْبُورًا ﴿۱۷﴾

فریسیں منتر و لہجہ آمنت زانان۔
تو دیتیں جواب انرا، تیری چھٹے بے شک معلوم
گومت زریم (نشانی) چھ صرف آسمان ہندی تو
زمینکی پروردگارن بعہرت بختہ و اول نشانی بناوٹھ
نارل کڑو ہو۔ تو اسے فرعون تو! بر چھس تریہ
متعلق پڑھ تھاوان زرتھ سپدکھ (پنٹین بد ارادان)
منتر) حزر ناکام تو نامراد۔

فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَفِزَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ
فَأَعْرَضْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا ﴿۱۸﴾

اتھ پیٹھ کوز تو تم (یعنی موسیٰ تو تندر قوم) ملک
منتر کڑو تھ تھٹنگ اراد۔ تریک نتیجہ دراو یہ ز
اسہ پھاٹا و آس سہ تو تم ساری یک تمس سوتو
اسی۔

وَقُلْنَا مَنْ بَعْدَهُ رَبِّي إِسْرَائِيلَ
اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ
جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴿۱۹﴾

میرے تمہ (یعنی تسند پھین) پتہ وون اسہ بنی
اسرائیلن زرت، تو ہی لہو تھ (وعدہ و پتہ)
ملکس لہ منتر کڑو تھ آراہ سان)۔ پتہ پتہ (مسلمان
ہند فاطر) دو میٹھ لہ ہند (عذابک) وعدہ
(پتہ سپدک وقت) میرے تو اسی انو تو ہی
(ساری) تو تن سونہر تھ۔ لہ

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلَهُ وَمَا
أَرْسَلْنَا إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿۲۰﴾

میرے چھ اسہ یہ قرآن پتہ (تہ حکمتہ) سانے نازل
کوزمت تو پتہ (تہ حکمتہ) سانے چھ پتہ نازل
گومت تو اسہ چھکھ تو صرف تھ خبر و پتہ وول تو
(غلابتہ) خبردار کرن وول بناوٹھ سوزمت۔

وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ
عَلَىٰ مُكْتَفٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ﴿۲۱﴾

میرے چھ اسہ (تھ) قرآن بنومت تو اتھ چھ اسہ
حصہ کڑو ہو (یعنی سورہ چھس بناوٹھ و پتہ) تھ
زن تو (سہل پتہ تو) واپ واپ یہ لاکن پتہ
بوز بناوٹھ ہیکھ میرے چھ اسہ یہ کم کم کڑو نازل
کوزمت۔

لہ یعنی ملک فلسطین۔

لہ میرے آس منتر چھ وعدہ الآخرة مسلمان متعلق بیان کرتے آمنت (فتح البیان علامہ شوکانی)
لہ اسہ پتہ کوئی مطابق چھ یہ ہو اذکر زمانہ فلسطینس پیٹھ قابضن گامتو۔

قُلْ اٰمِنُوْا بِمَآ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا اِنَّ الَّذِيْنَ
اَوْتُوا الْحِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ اِذَا يُثَلِّ
عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِذَا قَانَ سَجْدًا ۝۱۱

وَيَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَا اِنْ كَانَ وَعْدُ
رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ۝۱۲

وَيَخِرُّوْنَ لِذَا قَانَ يَبْكُوْنَ وَ
يَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا ۝۱۳

قُلْ اِذْعُوْا اللّٰهَ اَوْ اِذْعُوْا الرَّحْمٰنَ
اَيَّامًا تَدْعُوْا قُلْهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى
وَلَا تَجْهَرُوْا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُوْنَ
وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ۝۱۴

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ
وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ
وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ وَّلِيٌّ مِنَ الدَّلٰلِ وَاَكْبَرُهُ
تَكْبِيْرًا ۝۱۵


تَرْوَن (دہمن ز) توہی اُنی تو اتھ پیٹھ ایمان یا
متہ اُنی تو۔ یمن لوکن امہ (کہ نازل سینہ)
بروٹھ (الہامی کتابو یا صحیح فطر تہ کہ ذریعہ) علم
دہن آمت چھ۔ نیلہ یمن بروٹھ کتہ (یہ) پر تہ
یوان چھ تہ تم چھ (یہ بوزتھ) پور پور فاطمہ زاری
پیراوتھ ڈیکہ وارو (یعنی سجدس مشن) پوان۔
یہ چھ وتان (نہ) سون پرور دگار چھ (پر تہ کتہ)
حاجہ نشہ) پاک۔ تہ سائس پرور دگار سستہ
وعدہ چھ ضرور پور سپد تھ روزن وول۔

یہ نیلہ یمن ڈیکہ وارو (سجدن) وسنتھ
ودان گرشہان چھ تہ سہ (قرآن) چھ تہ تہنہ
زاری تہ عاجزی (یہ ہن تہ) ہرراوان۔

تَرْوَن (دہمن ز) اذ توہی (خدا لیس) اللہ
(وہنتھ) آلو کڑی تو یا رحمن (وہنتھ)۔ لیس (ناو
ہتھ) تہ توہی لیس آلو دیو (توہی) نیکو دتھ) تکلیا ز
ساری (پر تہ کھوتہ بری) ناو تہ صفت چھ تہ تہ
بہی مسی ز تہ تہ پیڑی دعا جاو بری بڑ منگان تہ
مسی ز (سبھا) لو تہ منگان۔ ٹیکہ آس اتھ
درمیانہ (درمیانہ) کاتھہ و تھ پرراوان۔

یہ وَن (سندسے) ذی بہس بوزناوتھ زہ
پر تھ کتہ تعریف حقدار چھ اللہ (تعالی) ہے۔
بیس نہ چھ اولاد تہ نہ چھ حکومتس مشن لیس
کاتھہ شریک تہ نہ ہیکہ لیس کاتھہ عاجز لیتھ
(تہ لیس پیٹھ رحم لرتھ) تہ دوست ہنتھ۔
(یکہ لیس تہ تہ دوست چھ سپان) مسی ز
تہ مد ہتھ خاطر سپان) بہی آس تہ سجدس
برقی پانچ بیان کران۔

لہ قرآن کریمس مشن چھ لفظ اذقان (ہونگتہ) آمت مگر اسہ چھ ڈیکہ وارو
بامحاور ترجمہ کوزمت۔



سورہ کہف: یہ سورہ چھ مکئی تہ بسم اللہ چھ آیتہ کہف تہ کاہ آیتہ چھیس باہ رکوع۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①

(یہ چھیس) اللہ (تعالیٰ) سداو ہوتہ (پر ان) یس
حد رکوع کرم کرن وول (تہ) چھ رکوع چھ رکوع رکوع
کرن وول چھ۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ
الْكِتٰبَ وَكَفَىٰ يُجْعَلُ لَهٗ عِوَجًا ②

پر ہتھ کتہ تعریفک تقدلہ چھ اللہ (تعالیٰ) ہے
نیو یہ کتاب پسند بندس پیٹہ تا نزل کر ہوتہ چھ
تہ اتھ مفر تھوون نہ کا نہہ چھ۔

قِيَمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيْدًا لِّمَنْ لَّدُنْهُ
وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ
الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا ③

یہ چیز ستر شہ تہ صحیح دتھ تاون واجتہ تاوتہ
چھ (تہ) تا نزل کر ہوتہ (یہ تہ) زن سم
(لوکن) تہند (یہ تہ) خدایہ بندہ طرفہ (یہ تہ) والہ (اگر
سخت عذابہ نشہ آگاہ کر تہ ایمان ان والہن
لوکن) یم نیک (تہ ایمانہ کہ حالہ مطابق) کام
کران چھ، دیہ تہ تخیر تہ تہندہ با پتھ چھ (خدایہ
بندہ طرفہ) رت اجہر (مقدہ)۔

مٰكِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا ④

تم روزن ہمیشہ اتھ (اجر کس مقامس) مفر۔

وَيُنذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ⑤

تہ (یہ چھ یہ تہ) او کو تا نزل کر ہوتہ (یہ تہ
(زن) سم (تہ) لوکن تہ (یہ تہ) والہ عذابہ نشہ
خیر دار کر۔ یم یہ وناں چھ (تہ) اللہ (تعالیٰ)
ہن چھ (قللہ تفر) نیچو ہوتہ۔

مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَّ لَا يَبۡتٰهُمۡ
كِبۡرٰتُ كَلِمَةٍ يَّخۡرُجُ مِنْ اَفۡوَاهِهِمۡ
اِنَّ يَفۡقُوۡنَ اِلَّا كَذِبًا ⑥

تمن چھ تہ اتھ متعلق کا ہتہ علم (حاصل) تہ (اوس
اتھ سلس مفر) تہند بن بون (کا نہہ علم)
یہ چھ سبھا بڑ خط نک کہ تہ ایوسہ تہندہ ہو
سم مفر نیران چھ (تہ) تم چھ محض
ایز وناں۔

فَلَعَلَّكَ بَآخِعَةٌ نَّفَسَكَ عَلٰٓ اٰثَارِهِمۡ اِنۡ
لَّمۡ يُوۡسۡئِلُوۡا بِهٰذَا الْحَدِيثِ اَسۡفًا ⑦

اگر تم اتھ تھز غطمتہ وایس کلامس پیٹہ ایمان
ان تہ تہ تہ تراو کا تہند سم غمس مفر شہا انسانوس
سپدہ کو پن پان ہا کتس مفر؟

یہ کینٹھا (روپہ) زمینس پیٹھ (موجود) چھ
 تہ چھ اسرے بے شک امیر کہ پاراوک (باغوش)
 بنومت۔ میٹھ زن اسی تمس امتحان ہجو (نہ) تمو
 منز کس چھ سارہ وپے کھو تہ برٹ کام کرن وول۔
 بیہ یہ کینٹھا میٹھ زمینس پیٹھ (موجود) چھ تہ
 فنا کر تھ اسی بناو اتھ بے شک (اکہ دوہہ)
 واران سوٹھر۔

تہ چھیا خیال نہ کہت تہ رقیبہ والی (لوکھ)
 اسی سانہ نشانو منز کا نہہ تہ میٹھ عجیب (نشان
 پہنر مثال پتہ زاہ لبسہ ہیکہ تہ پتھ)۔
 یلیہ تم (کینٹھ) نوجوان کھلہ ڈلہ گو پتھ منز پناہ
 گزین سیدہ تہ (دعا کران) دونکھ (نہ) اسے
 سانہ پروردگار! اسرہ کر پستہ دربار منز
 (خاص) رحمت عطا۔ تہ سانہ خاطر کر سائنس
 (پتھ) معاملس منز رہنمائی تہ ہدایت کر سامانہ
 دستیاب۔

پتھ پیٹھ اسرہ تم اتھ کھلہ ڈلہ گو فر منز (نیبرہ
 حالات) بلوزنہ نشہ کینٹھن ورین ہتر خاطر محروم
 کر۔

پتہ تلی اسرہ تم (تمہ حالتہ منز) میٹھ زن اسی زانو
 نہ سہلےتس کاس تم (مسیح ہندک پارو کار تہ)
 روڈی ہتی اسی (تہنزو) دیو جٹارو منز کوہہ اکھ
 جماعت اسی تہ جادو رتھ تھ تھون واجز۔

اسی چھ (ووڈ) تہنزاہم خبر بلکل صحیح پانچو تہ
 بش بیان کران۔ تم اسی کینٹھ نوجوان نیو پستس

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا
 لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۝

وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا
 جُرُزًا ۝

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالْ
 الرَّقِيْبِ، كَانُوا مِن آيَاتِنَا عَجَبًا ۝

إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا
 رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ
 لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۝

فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ
 سِنِينَ عَدَدًا ۝

ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ
 أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ۝

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ ۗ
 إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ

سہ کہت چہ عربی زبانہ منز گو پتھ و نمان۔ روم کین گو پتھ مدی ہند بن نصارہن پناہ و عالم
 رومی بادشاہو نشہ۔ پچیز خاطر گو پتھ CATA COMBS تہ زمین دوزکر گرن منز روزنہ یہ
 صورت روز تقریباً تریں ہن وریں جاری۔ آخر یلیہ رومی بادشاہ عیسیٰ سید اد
 دراسے یم لوکھ یو گو پتھ منز نیمر۔ یمن گو پتھ منز روزن والی نصاریٰ چھ اصحاب کہف۔

هُدًى ۱۰

پروردگار سپید (تحقیق) ایمان او نیت اوس
تہ تم اسی اسہ صدائیس منز (بیہ تہ) ہر لور کو تہ
بیہ نیلہ تم (پستہ و طہ منز نیرنہ خاطر) و تہ
تہ اسہ کر کے تہند کر دل مضبوط۔ اہ وون تمور اکھ
اکس کن تہ) سون پروردگار چہ (سہیں آسمان
ہند تہ زمینک (تہ) پروردگار چہ)۔ اسی کرو تہ
(زہ تہ) تس ورائی کاتبہ بیئیس معبودس آلو۔ نیتہ
بنو اسی پرزہ نیتہ دور اکھ کتہ دن و اول۔

یکو لوکو یعنی سانی قومن چہ سہ (معبود برحق)
تراوتہ (پستہ خاطر) بدل بدل معبود بناو تہ
تم کیاز چہ تہندس تنوتس منز کاتبہ تاکار لیلہ
انان؟ اہ (تمن کو تہ چہ فکر تران تہ) اسی شخص
اللہ (تعالیٰ) ہس اپنہ ہنرہ لاکتہ تہو تسہد
کھوتہ کس (بیاکہ) ہیکہ بوڈ فللم اہستہ؟

بیہ (نیمہ وقتہ) نیلہ توہی تمن نش تہ اللہ (تعالیٰ)
ہس ورائی نیمہ چیزج (تہ) تم عبادت کران
چہ (تمہ نیتہ تہ) چھو لوہ رورڈ تہ تہ توہی
یہو (وہو) بیتہ کھلہ دلہ مہاروی جایہ پستہ
ہس منز۔ (ہرگاہ تہ کرو تہ) تہند پروردگار
کھولہ تہند خاطر پتہ رحمت (یعنی رچیتج
کاتبہ وقتہ) بیہ کر تہند خاطر بیتہ (معاملس) منز
کاتبہ سہو لیتک سامانہ مہیا۔

بیہ (اسے مخاطب!) تہ چھہن آفتاب و چھان
نیلہ سہ کھسان چہ تہ سہ چہ تہند کھلہ دلہ پستہ
چہ جایہ ہند دو چہ طرفہ ہنا دلہ نیران تہ
نیلہ سہ لوسان چہ تہ تمن کھو وری کوی چہ دلہ
نیران۔ تہ تم اسی اتہ گوچہ منز اکیس کھلہ دلہ
جایہ روزان۔ یہ کتہ چہ اللہ (تعالیٰ) سہند بو
(نصر تہ کھو) نشانو منز (اکھ نشانہ)۔ بیئیس اللہ
(تعالیٰ) ہدایتج) و تہ ہاوسے چہ صدائیس پستہ

وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا
فَقَالُوا إِنَّا كُنَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
لَنْ نَذْعُوهُنَّ مِنْ دُونِنَا لَمَّا لَقْنَا
قُلُوبَنَا إِذَا شِطَطْنَا ۱۱

هُوَ لَآءِ قَوْمَنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِنَا
إِلَهَةً لَّوَلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَنٍ
بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى
اللَّهِ كَذِبًا ۱۲

وَلِإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ لَمَّا جَعَلْنَا
اللَّهَ فَاوَاكِلَ الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ
مِنْ أَعْمَاتِهِمْ وَيَهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ
مَنْ فَفَقًا ۱۳

وَتَرَى السَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَوَّارَةً عَن
كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ
تَقَرَّبَتْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي
كَفَّةٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ وَمِن مِّمَّنِ اللَّهُ مَنْ
يَهْدِي اللَّهُ فَرُوقَهُمْ وَالْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضِلْ فَلَنْ
تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْسِدًا ۱۴

آسان تہ نہیں سہ عمرہ کر شر لہ من تہ تہند
(زادہ) کانہ دوست (تہ) و تہ ہاوک۔

بہ (اسے مخاطب!) تہ چہکھ تم بیدار زمانہ میلہ
زن تم تہند بر چہ تہ اسی پھر ناووکہ تم ڈچن
کن تہ کھوور کن ملہ (تہ)۔ تہ تہند ہون (تہ)
روزہ (تہن سستی) پینتہ بڑھ و ہر و تہ آگنس
منز (موجود)۔ اگر تہ تہند بو حلاوہ تہند خیر دار
سیدک تہ تہ پھر کہ ہنن نش تہنہ با پتہ تہند۔ تہ
تہند با عنہ پکھ تہ رعہ سستی آورہ۔

بہہ بیتھ پاٹھ تہ اسہ تم (لے کسی ہند حالتہ
منز)۔ اتھ پیٹھ لگو تم پانہ وانی (حار تہ سان)

اکہ اُکس سوال کرنہ (تہ) تمو منز لوگ اکھ و ننبہ
ازہ) توہی کتس کاس جھو بیستہن بیتھ رودر
ہتر؟ (یکن کن یہ و ننبہ او) تمو وون (تہ)
اُسی چہ (بیستہ) اُکس دہس یا دُکس کتیس
حصس رودر ہتر۔ تمو (یعنی دو کپو) وون
پیتس کاس) توہی (بیستہ) رودر ہتر چھو۔ تہ
چہ تہند پروردگار (ہے) زہر پاٹھ زمانہ۔ لہذا
(یہ چھکاون تراووتہ) پینتہ یکم (پرانہ) روہ سپہ دیو
پینتہو منز کانہ اُکس تہ سہ سوزیون بیتھ شہرس
کن سہ وچہ (گڑھتھ) تہ بیتھ (شہرس) منز
کنہ اناج چہ سار و ہے کھوتہ جان۔ اد (تینکو
سند اناج سار و ہے کھوتہ جان آسہ) تہس نش
ازہ کینہ کھوتہ چہر بہہ کر سہ ہتیار سی سان (لوگن
ہنتر) راز چہ کتھ معلوم کر پنچ کوشش تہ توہہ
متعلق دیہ تہ ہرگز کانہ (کانہ) پے پتاہ۔
یکیانہ اگر تم توہہ پیٹھ فلہ بن تہ یقینا تہ ہندو

وَ تَخَسَّبُ لَهُمْ آيَاتًا وَ هُمْ رُكُودٌ ۝ وَ
نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَ ذَاتَ
الشَّمَالِ ۝ وَ كَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ
بِالنَّوْصِيِّدِ لَوْ اَطَّلَعَتْ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتُ
مِنْهُمْ فَرَارًا وَ اَذْكَرٌ لَّمْلَمْتُ مِنْهُمْ رُغْبًا ۝

وَ كَذَلِكَ نَعْصَمُهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ
قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا
لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا
رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَاَنْجَثُوْا
اَحَدَكُمْ بِوَرْقِكُمْ هَذِهِ اِلَى الْمَدِيْنَةِ
فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَا اَزْكٰى طَعَامًا فَلْيَاْتِكُمْ
بِرِزْقٍ مِنْهُ وَ لِيَتَلَطَّفْ وَ لَا يُشْعِرَنَّ
بِكُمْ اَحَدًا ۝

اِنَّهُمْ اِنْ يَتَّظَرُوْا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوْكُمْ

۱۔ اصحاب کہف پہند کہ تین یوزر کی عیسیٰ اقوام چھو تم یں کہ وہ بہ دنیا ہس منز
ڈچھو کھوور کر پر پتہ علاقس منز چھا لاوتہ۔

تو ہر تم کہ لای لای ماریتھ یا کرو (زبردستی)
تو بہ والیں پستنس مذہب منز داخل تہ تھ
صورتس منز ہیکو نہ توہی زبے کامیاب
مگر تھتھ۔

بسیہ بھو اسر پتھ یا تھو (تمو) تہندو ہو حالو (نشہ
(لوکھ) خیر دار کڑی موتی - تھتھ تمن معلوم سید نہ
اللہ (تعالیٰ) سند و عدو چھ پور سیدتھ روزن و اول
بسیہ (یہ تہ) نہ تھتھ (و عدو نہ آہتس) ساعلس
(پیش) منز چھنہ کانہہ تہ شک۔ (بسیہ کڑو سہ
وقت تہ یاد) بیلہ تم پسنہ کامر متعلق پانہ
وادی کتھ با تھ کڑو لگی تہ تمو وون (اکھ اگس نہ)
توہی بناوو تمن (ہندس روز نہ کس مقاس)
پیٹھ اکھ لڑ۔ تہند پروردگار اوس تمن (ہند
حال) ساروہے کھوتہ برتی یا تھو زانان۔ (آخرس)
یکو پسنہ کتھ منز غلبہ جامل کور تمو وون (نہ)
اوسیہ بناوو تمن (ہندس روز نہ کس مقاس)
پیٹھ مش پیس۔

تم (لوکھ بیم اصلی حالہ نشہ بی پے بھر) و تن
فابس متعلق قیاسی کتھ کران گراہ (تم) اوسیہ تریہ
(نفر) بین سیتی تروہم تہند ہون اوس۔ تہ (گراہ)
ون (پہ نہ) (تم) اوسیہ پانترتھ بین سیتی شینیم
تہند ہون اوس۔ بسیہ ون (تمو) منز کیہ تہ تھلکو
تہ نہ (تم) اوسیہ ستھ (نفر) تہ بلا تھم اوس تمن
سیتی تہند ہون۔ ترو وون تمن نہ) تہنتر صحیح
گر نہ چھ اللہ (تعالیٰ) ہے برتی یا تھو زانان
تہ کہ لکو وادی چھنہ تمن کانہہ زانان او کو
مہ کر تہ تمن متعلق مضبوط بچہ وادی کانہہ بحث تہ
تمن متعلق مہ کر تہ اصلی حقیقت تمو منز کانہہ
نش معلوم۔

بسیہ کتھ متعلق (دعویٰ سان) ہرگز مہ اس و نان

أَوْ يُعِيدُكُمْ فِي مَلَّتِيهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا
إِذَا أَبَدًا ﴿۱۵﴾

وَكَذَلِكَ أَغْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيُفْلِحُوا
وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ
فِيهَا إِذْ يَتَنَادَوْنَ بَيْنَهُمْ أَمْرُهُمْ
فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا رَبُّهُمْ
أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى
أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ﴿۱۶﴾

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّا بَعْضَهُم كَلْبُهُمْ
وَ يَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادُسُهُمْ كَلْبُهُمْ
رَجْمًا بِالْغَيْبِ ۚ وَ يَقُولُونَ سَبْعَةٌ
وَ ثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ
بِعَدَّتِهِمْ مَا يُخْلِمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا
تُعَار فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَ لَا
تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿۱۷﴾

وَ لَا تَقُولَنَّ لِشَايٍ ۚ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكِ

عَدَاۗٓءٌ ۙ

إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ذَوَاۓكُمْ ذَرَّبَكَ إِذَا
تَسَيَّتْ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّي
لَا فَرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ۝

وَلَيْسُوا فِي كُفْرِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةِ سَنَةٍ
وَأَزْدًا ذُوَاۓ سَعَا ۝

قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَيْسُوا لَهُ غَيْبٌ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، أَنْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ،
مَا كُفَرُوا مِنْ دُونِهِ مِنْ دَلِيلٍ رَدًّا لَا يَشْرِكُ
فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ۝

ذَائِلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ
رَبِّكَ ۙ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۙ وَلَا لَنْ
تُجَدَّ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۝

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ
رَبَّهُمْ بِالْعَدْوَىٰ وَالْعَشِيَّةِ يُرِيدُونَ
وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ ۙ
تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطْعَمُ
مَنْ أَغْلَقْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ

(ز) یہ کہ ضرور لگاؤ یہ کام۔
آ، (صرف کرتے تھے) تھے اللہ (تعالیٰ)
یہی ہے یہی (کہتے وقت) تھی مٹتے گشتی تہ
تہ پتس پتس پتہ آسن پتس پروردگار (یعنی
تہندو و عہد) یاد کران یہی آسن و نان (نرمینہ)
چہ (پوہ) و امید نرمین پروردگار (کر مینہ)
آخر کامیاب تہ) مینہ پکناوتتہ و تہ پتہ یوسہ
ہدایت لہنہ کہ حساب اند و اتس جاؤ نزدیک چھینہ
تمہ (و تہ ہند) کھوتہ یوسہ مینہ تجوز کر مٹہ چھینہ۔
تہ (کینہہ لاکھ چہ پتہ و نان تہ) تم اسی پتہ
کھلہ دلہ چھین جاہ مٹہ ترن ہن ورن رڈوکر
موتی۔ تہ نو (وری) اسی تمہ (اتہ و قلس) یہی
ہر رڈوکر موتی۔

تہ ون (ہن ز) سیپس (کاس گویہ مٹہ) تم
چھہر تہ رڈوکر تہ چھہ اللہ (تعالیٰ ہے) رڈوکر
پاٹھ زانان۔ آسمان تہ زمپنک غاب چھہ تہندی
خاطر، سہ چھہ زبر پاٹھ و چھن وول تہ زبر پاٹھ
بوزن وول۔ ہن (لوکن) چھہ تہس وراہی کانہہ
تہ مددگار۔ تہ سہ چھہ پتس محکمس (تہ پتہ پتہ
فاسن) مٹہ کانہہ (پتہ) شرک بناوان۔

یہی چائس پروردگار ہنر کتابہ مٹہ یس (حصبہ)
تہ پتہ و حسی (ہند ذریعہ نازل) سپان
چھہ سہ پتہ (تہ پتہ بوزناو لاکھ لاکھ تہنہ کتہ چھہ
کانہہ تہ بدلوتہ ہکن وول تہ سہ تراوتہ لاکھ
تہ تہ کانہہ تہ پتہ جانے۔

یہی تھا و پتہ پان ہن لوکن سستی (رٹہ) ہم مٹہ
تہ شامن پتس پروردگار آلو دوان چہہ (تہ)
تہنر رضامندی چہہ ہنر شہان تہ ہتہ چانہ نظر
ہن پتہ تراوتہ ہر و تہ نیرن (تہ ہر گاہ تہ تہ
کر کہ تہ) دنیوی زندگی ہنر زہنت ہنر ہاکھ

هُوَ لَهُ وَكَانَ أَمْرُهُ قُرْطًا ①

۱۱

تہ تہنتر فرمایا داری گری نہ نہ بیجو سند دل اسہ
پستہ یاد نشتہ غافل کورمت اسہ تہ تمی اسہ پستہ
توسی پایہ ٹھاہش ہنر پاروی اختیار کر ہنتر تہ
تسند معاطہ اسہ حد نمبر درامت۔

بیہ ون (لوکن تر) یہ پتر چھ تہندس پروردگار
سند طرفہ (نازل) سیدمت - او کو لیس بیٹھ
(اتھ پیٹھ) ابن ایمان تہ لیس بیٹھ (اتھ)
کرن انکار (مگر یہ حقون یاد تر) اسہ چھ ظلمن
ہندہ خاطر بے شک اکھ تار تیار کورمت بیٹھ
قلین (ووڈ تہ) تم گیس منتر تھوڈی تہ چھ
تہ مگر تم فریاد کرن تہ تھ آہ سستی بیہ تہنتر
داد رسی کر تہ لیس و پگلے بہتہ تراوی پاٹھو اسہ
(تہ) بھین والہ کھرس - سہ اسہ چہنہ باپتھ اکھ
سپٹھا ناکار چیز تہ سہ (نار) چھ بیٹھ ٹھکانہ
آ، یو لوکو ایمان اوکت چھ تہ تمو چھ نیک
(تہ متاسب حال) علمہ کری منتر (تم لہن یقیناً
بڑی اجر) یو رتہ کامو کرک منتر آسن اسی
چھتہ تہندہ اجر ہرگز ضایع کران۔

(او او) تہنہ لوکن ہندہ خاطر چھ ہمیشہ روزگار
بارغ (مقدار) - تم منتر آسن تہندس پستہ نظامس
قل (نہر پکان) تہندہ خاطر بن تم منتر سوہ تہ
ہند بن کرن ہندہ قسمی ہو کہتہ بناونہ - بیہ لاگن
تم تراولہ پاکی تہ موڈ پاکی سبز پوشاک تم
جنتن منتر آسن (تم) پاراوتھ شاہ نشین پیٹھ
ملکین کن (ڈوڈھ دتھ بہتھ) - یہ کوتاہ رتہ اجر

چھ تہ سہ چھ سپٹھ ہے رتہ ٹھکانہ
بیہ کر تہ تم بروٹھ کہتہ تم دن شخصس
ہنر حالت بیان یو منتر اکیس اسہ دھین ہندہ

وَ قُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ؕ فَمَن شَاءَ
فَلْيُؤْمِنْ وَ مَن شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ؕ إِنَّا
أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا ؕ أَحَاطَ بِهِمْ
سُرَادِقُهُمْ ؕ وَإِن يَسْتَعِثُّوا يُعَاثُوا
بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ؕ
يُسَّ الشَّرَابِ ؕ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ②

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا
لَأُنْصِفُهُمْ أَجْرًا مِّنْ أَحْسَنِ عَمَلٍ ③

أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّتٌ عَذِي تَجْرِي مِن
تَحْتِهِمْ لَا تَنفُكُ عَنْهَا وَ فِيهَا مِن
أَسَاوِرٌ مِّن ذَهَبٍ وَ يَلْبَسُونَ ثِيَابًا
خَضْرَاءَ مِن سُندُسٍ وَ لَاسْتَبْرَقٍ
مُتَّكِنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ؕ وَ لِحِمَى
الْثَّوَابِ ؕ وَ حَسَنَتْ مُرْتَفَقًا ④

۱۲

وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا
لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِّنْ أَعْنَابٍ وَ

حَقَّقْنَاهُمَا يُتَخَلَّوْنَ فَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا
دَرَجَاتٍ ﴿۲۷﴾

نہ بارغ لہ دتی ہوتی اسی تہ تم اسی اسیر کھنڈر
کھلو سوتو (پر پتھ اندر) ولبتھ تھاوی ہوتی۔ تہ
اسیر اوس بہمن (دولتی بہمن بلکین) درمیان
کیبتھ فعلی تہ وو پدومت۔

كَلَّمَا الْجِنَّتَيْنِ اَتَتْ اٰكْهَمَا وَ لَمْ تَظْلِم
مِنْهُ شَيْئًا وَ فَجَّرْنَا خِلْمَهُمَا نَهْرًا ﴿۲۸﴾

تہو دونوسے وہے باغو دیت (پنن) پانن
مہو (رہتی پانن) تہ تھہ مشر تھو کھ تہ کیبتھ
(تہ) پیرگی۔ تہ بہمن درمیان اوس اسیر کھنڈر
پاری کر پتھ۔

وَ كَانَ لَهُ ثَمْرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَ هُوَ
يُحَادِرُهُ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَ اَعَزُّ
نَفْرًا ﴿۲۹﴾

تس اوس سپٹھا میو (جابل) سپٹن امی کتو وون
تہو پتس سوتو باجس (تھیکتھ) کتھ کران کران
(زہوچھ) چانہ کھوتہ پتھ میون مل تہ جاد تہ
(میون) دور تہ پتھ جاد عزتہ وول۔

وَ دَخَلَ جَنَّتَهُ وَ هُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ
قَالَ مَا اٰطُنُّ اَنْ تَبَيِّنَ لِي هَذِهِ اَبَدًا ﴿۳۰﴾

تہ سہ تراو (اک لہ) پتس زوس ظلم کران
پتس باغس مشر (تہ) وون (پتس سوتو
باجس تہ) بہ چھس تہ خیال کران یہ (میون باغ
کر) گرتھ زانہ نہاہ۔

وَ مَا اٰطُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَ لَكِنَّ
رُدِّدْتُ اِلٰى رَبِّي لِاَحَدٍ خَيْرًا مِنْهَا
مُنْقَلَبًا ﴿۳۱﴾

بہ چھس تہ بہ خیال کران نہ سو (وعدہ دتہ آہتر
بڑ بادی ہنر) گرتھ (زانہ) بہنہ واجتہ تہ اگر
(فرض کرو) بہ پتس ریس کن واپس (تہ) ہنہ
بہ تہ بہ لبہ (تہ تہ) بے شک بہتھ کھوتہ
بہتر ٹھکانہ۔

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَ هُوَ يُحَادِرُهُ اَلْقَرْتِ
بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ نَّمُّ مِنْ
تُفْقَةٍ نَّمَّ سَوْلُكَ رَجُلًا ﴿۳۲﴾

تہ سوتو باجی وون تس پرتھ گار کران (زہ) کیا تہ
چھتھا تس (ہستی) انکار کورمت؛ بہتہ تہ (اول)
میشر ہنر (تہ) بہتہ نطفہ ہنر پاد کورکھ تہ ہنوکھ
تہ تہ پور انسان؟

لِكِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّي وَ لَا اَشْرِكُ بِرَبِّي
اَحَدًا ﴿۳۳﴾

(چون تہ چھ یہ حال) مگر (بہ چھس یہ دپان نہ)
حق تہ چھ یہ نہ اللہ (تعالے) ہے چھ میون

۱۔ باغو ہنر چھ بنی اسرائیلین میلین وول مال دولت تہ اولاد مراد۔

۲۔ نہر چھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنہ زمانہ مراد۔

پروردگار تہ پر پھنس نہ کاٹھہ (تہ) پینس پروردگار
سند شریک بناوان۔

بیہ نیلہ تہ پینس باغس منتر آیاکھ تہ تریہ کیاہ
ووتھہ تہ؟ (نرتی سپد) بیہ اللہ (تعالیٰ)
نیٹھہ (بکیانہ) اللہ (تعالیٰ) ہندی (فعلہ)
سیتو چھہ پر پھنس کاٹھہ قوت (حاصل سپدان) ہرگاہ
تہ مینہ (ناچیزس) پینتہ کھوتہ ماس تہ اولادن
منتر کم پایہ ترانان چھکھ۔

ادہ بیکل ممکن چھہ نر میون پروردگار دیہ مینہ
جانہ بانہ کھوتہ کاٹھہ جاہرت (باغ) تہ اتھ
(پانس باغس) پیٹھہ والہ اکھ نارہ ریٹھہ۔ نیٹھہ
کوتہ سہ اکھ نون تہ ننگہ میدان بنہ۔
یا ہوکھ اتھ آتہ پتہ بیکھ تہ تہ (اسے
اسلامہ کر ڈھنہ) اکھ تہ ہانڈنگ (تہ) طاقت
(ادتی سپد)

تہ تمیک سورے سو آوتباہ کرنہ تہ تہ (یعنی باغہ
ہلکن) ہنہ، پینہ دونوے اتھ سرتہ یہ حال وچھتہ
نرسہ (باغ) اوس پینہن ڈکن پیٹھہ ورسٹھہ امت تہ
مالہ کونہ یس تہ امر (باغہ کر ووتھہ بولینہ)
باچھہ کورمت اوس تہ ورتن، یوتن (نہاے کیا گوم!)
کاش! مینہ آسہے نہ پینس پروردگار سند شریک بنومت۔
بیہ (تہ ورت) رلے پہ نہ کاٹھہ جماعت تہ
تس سیتو یوہ سہ اللہ (تعالیٰ) ہس ورائی تند
اتھ روٹ کرہے۔ تہ نہ ہیک تہ (تمیک کاٹھہ)
انتھہ ہتھہ۔

پیتھین (ووتن) پیٹھہ چھہ اللہ (تعالیٰ) سندے
مدد (مفید) آسان، یس معبود برحق چھہ تہ

وَلَوْ لَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ
اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنَّ تَرَىٰ أَنَا قَلَّ
مِنكَ مَا لَأَوْ وَكَذَا ﴿۱۸﴾

فَعَلَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن
جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ
السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿۱۹﴾

أَوْ يُصْبِحَ مَاءً وَهِيَ غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ
طَلَبًا ﴿۲۰﴾

وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلٰى
مَا آفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ
عُرُوشِهَا وَيَقُولُ لِيَلَيْتَنِي كَمَا أُشْرِكُ
بِرَبِّي أَحَدًا ﴿۲۱﴾

وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِتْنَةً يَّتَضَرَّوْهُ مِن دُونِ
اللَّهِ وَمَا كَان مِّنْتَصِرًا ﴿۲۲﴾

هَذَاكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ
ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴿۲۳﴾

لہ غورہ: ایک شریک پیٹھہ زمینہ منتر سون گرتھن۔ پتھہ آیس منتر چھہ آیس کلام الہی مراد۔
چنانچہ اسلام مینہ پیٹھہ گوو ساری مینہ مذہبن منتر وھی تہ الہامک سلسلہ بند۔

سُءٌ جِدُّ بَدَلِ دَلَسٍ مَثَرِ (تہ) سارو پے کھوتہ رت
تہ (رتہ) انجاہو کہ (پاؤ کر نہ کہ) حسابہ تہ
چھ سارو پے کھوتہ بہتر۔

بیہ کر تہ بہن بروٹھ کتہ سیمیر (دُیادی) زندگی
ہنر حالت (تہ) واتش کڈتھ بیان۔ (زر سو چھ)
تمہ آہک پٹھو لیس اسہ اوہر منر وول پستہ
رلیووتھ سستی زمبیتہ ہند ووپن پے، پتہ
سنے پے سو کڑیٹ بیتھ واہر مہٹ ورا وان پھیلان
چھیت۔ تہ اللہ (تعالیٰ) چھ پر پتھ کتھ پلٹھ
تہ قدرت مقفون وول۔

مال تہ گبر چھ سیمیر زندگی ہنر رونق۔ تہ ہاتھ روز
واہر نیک (تہ مناسب حال) کامیے چھیت چہ اس
پروردگار س نیش بدلہ کہ لحاظہ (تہ) ہر تہ وومید
ہند لحاظہ (تہ) جان۔

تہ (تمہ وہہ تہ نیرن تہند کہ ہر پتہ پتہ نئی) نیہ
وہہ اسی یکم بال (پستہ جایہ پیٹھ) پکنا ووکھ تہ تہ
وچھیکہ ساری زمبیکو روزن وادی (اکھ اُس سستی
جنگہ ٹاٹھ) نیر و ہر تہ اسی کروکھ تم (ساری)
جمع تہ تمونہ تراوان نہ کانہہ (تہ پتھ)۔

تہ تم بین صف گندو گندو چائس پروردگار رس
بروٹھ کتہ پیش کرتہ (تہ تم بین و منہ تر) وچھوہ
توہر چھو (تہ پٹھ پٹھو کمزوری ہندس حالتس منر)
اسہ دتس آہتو (بیتھ حالتس منر) اسہ اسی و
توہی گوڈنکہ لہ پاؤ کر ہتہ (تہ توہی اسی و تہ
یہ وومید تھاوان) بلکہ تہند دعویٰ اوس نہ
اسی کرو نہ تہند باپتھ کانہہ و عدہ (پور گتہ پتھ
وز) مقصد۔

بیہ بیہ (تہندین اعمالن ہنر) کتاب (تمن بروٹھ

وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَعْلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا
كَمَاۤ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ
نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ
الرِّيْحُ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰۤى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿١٥﴾

الْمَالِ وَالْبَنُوْنَ زَيْنَةَ الدُّنْيَا
وَ الْبَقِيَّتِ الصَّٰلِحٰتِ خَيْرٌۭ عِنْدَ رَبِّكَ
تَوَابًا وَ خَيْرًاۢ اَمَلًا ﴿١٥﴾

وَ يَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَ تَرٰى الْاَرْضَ
بَارِزَةً وَ حَشَرْنٰهُمْ فَلَمۡ نُعَادِزْ مِنْهُمْ
اَحٰدًا ﴿١٥﴾

وَ عَرْضُوْا عَلٰۤى رَبِّكَ صَفًّا ۚ لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا
كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ بَلْ زَعَمْتُمْ اَلَّن
نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ﴿١٥﴾

وَوَضِعَ الْكِتٰبَ فَتَرٰى الْمَجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ

کتے (تھاویں۔ اڑکنی (اسے مخاطب!) شر
 وچھہکے تم مجرم کھوڑوڑی امریکنی یہ تھہ مشن
 (لیکھتہ) آسہ، تہ تم ورن (تمہ وز) ہے
 (افسوس) سانی تباہی (چھہیہ بروٹھہ کتہ استہ)
 یتھ کتہ (گومت) کیاہ پھہ؟ (نر) یہ نہ چھہ کاٹھہ
 لوکٹ کتہ ورتھہ ناوے تراوان تہ نہ کاٹھہ بڈ کتہ۔
 بیہ یہ کتھہا، تم کو کورمت (آسہ) تہ لین، تم پانس
 بروٹھہ کتہ موجود، تہ چون پروردگار پھہتہ کالسر
 پھہہ ظلم کران۔

بیہ (پاؤو سہ وقت تہ شرہتس) بیلیہ آسہ ملائکن
 وشیانر توہی کرو آوس سوتی (رلقتہ) شجہہ
 تھہ پھہ کورتمو (تہ تمہ حکمہ مطابق تس سوتی رلقتہ)
 سجدہ۔ مگر ایلپین (کورہ) سہ اوس جتو اندہ
 لہنڈہ کور (پسنہ فطرہ مطابق) پسنس پروردگار
 سجدہ کج نافرمانی۔ (اسے میا نہو بندو!) کیا
 توہی چھو ہونا بہ تراوتھہ سہ (شیطان) تہ تمہز
 ذریات (پتہ) دوست بناوان؟ بیلیہ زن تم
 تہندہ دشمن چھہ۔ سہ (شیطان) پھہ ظلمن ہندہ
 باپتہ سبھہ بے ناکارہ بدلہ ثبات سیدمت۔

مینہ نہ اسی تم آسمان تہ زمینہ ہنہر پیدائشہ
 (ہندس موقس) پھہہ حاضر کرکے ہتہ تہ نہ اسی
 (پانہ) تہندہ زو پاؤ کرکے کس موقس پھہ، تہ
 نہ ہیکہ ہا بہ گمراہ کرن والی (پتہ) مددگار بناوتھہ
 بیہ اکرہ سہ وہ تہ یاد، بیہ وہ بہ (خلیہ برتر
 مشرکن ورن) نہ وہ ذمہ لکھ میاڈ (تم) شریک
 ناد ورتھہ، لیکن (ہندس شریک اسنس) متعلق
 توہی دعوی کران اسی و۔ بیچہ پھہہ تم تمس نادون
 مگر تم ون نہ تمس کاٹھہ، جواب تہ تمس (تہ تہندہ)

مَعًا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُؤْتِنَا مَا لَنَا هَذَا
 الْكِتَابَ لَا يَغَادِرُ صَخِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا
 أَخْضَعْنَا لَهُ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا خَاطِرًا ۝
 وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ۝

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ
 فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ
 عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ
 أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِكُمْ عَدُوًّا بَدَلًا
 لِلَّذِينَ بَدَلُوا

مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ سَاءَ مَا كُنْتُمْ
 تَتَّخِذُونَ
 الْهُضِيِّينَ عَضَّةً ۝

وَيَوْمَ يَقُولُ تَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ
 زَعَمْتُمْ فَذَعَبُوهُمْ فَلَمْ يَشْتَجِبُوا لَهُمْ
 وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ۝

بناؤ مہربن شریکین (منز باگ کرو اسی اکھ
مھنور (استاد)۔
تہ مجرم وچھن سہ نار تہ زانن نہ تم چھ تھ منز
سندن والہ تہ تم لین نہ تمہ رتہ پتھ تر پچ کانہہ
جائے۔

بہی چھ اسہ پتھ قرآنس منز لوکن ہند باپتھ پر تھ کانہہ
(ضروری) کتھ بیون بیون تر این منز وڈی ہنتر۔
تہ (نکلیا تر کہو نہ) یہ انسان (ہے) پتھ
سار وپے کھوتہ جاؤ بحت کرن دول۔

لوکن ہنن نیلہ ہایت او تہ اتھ پیٹھ ایمان انہ لبتہ
تہ پسنس پرور وگارس مغفرت منگتہ رتہ رتہ
تم (لوکھ) صرف اسہ کتھ پتھ تر ہنن پیٹھ تر لین
بروٹھو مہن لوکن ہنتر ہنن حالت۔ یا سپدن ہنن
بروٹھ کتہ عذاب استاد۔

بہی چھ اسی پتہبر صرف تھ شخیر دہن والی تہ (عذاب
پتہ رتہ) خیر دار کرن والی بناؤ تھ سوزن۔ تہ یو
لوکو انکار کوزمت پتھ تم چھ اپر کر ڈلیہ او
کتی جگہ کران نہ امیر وکی کرن حق نابود تہ تم
چھ میاڑ نشانہ (تہ) میون خیر دار کرن نولہ نومت۔

تہ بہی کس ہیکر تھ شخصہ ہند کھوتہ جاؤ نطالم
استھ میس تہنر پرور وگاہ ہند لو نشانہ سستی
فکر تارنہ او (مگر) سہ گوو (توتہ) رتہ رتہ
بھو پھیر۔ تہ یہ کینترھا تہنر لو اتھو (کماوتھ)
بروٹھ سوزمت اوس تہ ترھن تمکو مشر او تھ

اسہ چھ ہنن لوکن ہندرن دن پیٹھ یقینا کھو یا
پر د تر او ہتھ پتھ زن ہنن نیکر تر نہ۔ تہ
تہنہن کنن منز (چھ) گوہر (پاؤ کوزمت)
تہ ہر گاہ تہ ہنن ہایتس کن آلو دکھ تہ (تم
چھ تریہ سستی تیوت حسد تھاوان نہ) تھ سوزس
منز کرن نہ تم ہایت (تہ) زاہ قبول۔

وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ
مُواخَعُوهَا وَكَانَ مَصْرَفًا ﴿١٤﴾

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ
كُلِّ مَثَلٍ، وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ
جَدَلًا ﴿١٥﴾

وَمَا مَعَ النَّاسِ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ
جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ
إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ أَوْ
يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ﴿١٦﴾

وَمَا نُزِيلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ
وَمُنذِرِينَ، وَيَجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا
بِالْبَاطِلِ لِيُنذِرُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا
آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُلُوعًا ﴿١٧﴾

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ
عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ
قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ
وَقْرًا، وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ
يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ﴿١٨﴾

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ
بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلْ لَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ
لَدُنْهُمْ قَدْ كَانَتْ تَجِدُوا مِنْ دُونِهِ
مَوْثِقًا ⑪

یہ یوں پروردگار چھ سیٹھ ہے بخش وول (تہ
سیٹھ ہے) رحمت (عطا) کرن وول۔ اگر سہ
تہندو (بد) اعمال کو تم ہاک کرن میترہ ہے
تہ سہ کرہے تم پیٹھ فوزن عذاب نازل۔ (اگر
سہ چھ پیٹھ کران) بلکہ تہندو خاطر چھ اکھ
گنٹھ معیاد۔ پیٹھ بروٹھ (نہ تم تلن عذاب)
تم لین نہ ہرگز کا نہ چھین باٹھ۔

یہ تم بسیتہ ہم اسہ تہندو ظلمہ کنی ہاک کر
مشر چھین (ہیکہ ہن تہندو باٹھ عبرتک باعث
سپٹھ) تہ اسہ اوس تہندو ہاکتہ خاطر بروٹھ
پیٹھ اکھ معیاد مقرر کورمت (پیٹھ زن تم ہرگاہ
میترہن تہ توبہ کرن)۔

وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَ
جَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ⑫

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ لَا آتِيكُمْ مِنْ
مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْسِي مَحْجَبًا ⑬

تہ (سہ وقت تہ کرو یاد) میلہ موسیٰ ہن سینس
(سوتی با جس) نوبالسن و نیاد (نہ) ہر (پیٹھ و تہ
پیٹھ پکان چھس سٹھ پیٹھ قایم روزنہ نشہ) ہر
ڈلہ تہ یوت تام ہر (تہن دہ لونی سمندر ہندس
سنگس پیٹھ وا تہ نہ۔ یا روزن ہر ہتر بدہن اورین
تام (بروٹھ بروٹھ پکان)۔

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا
فَاتَّخَذَ سَيْبِلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ⑭

لہذا میلہ تم (دولہ) تم (دہ لونی سمندر)
ہندس سنگس لہ پیٹھ وا تہ تم گئے پیٹھ گاڈ
(تہ) سٹھ۔ پیٹھ پیٹھ تمہ (گاڈ) ڈرہ
و تہ سمندر منر پیٹھ و تہ ہتر۔

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِقَوْمِهِ إِتَيْنَا غَدَاءًا تَادُوا
لَنَا لَقَيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ⑮

اد میلہ تم (تمہ جاہ نشہ) بروٹھ درے
تہ تم (یعنی موسیٰ ہن) وون سینس (رسیق)
نوبالسن (نہ) اسہ دکوج۔ اسی چھ بے شک

سہ اکھ سمندر گوو موسیٰ علیہ السلام سند دور تہ ہیا کھ سمندر چھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ہند دور نبوت۔ یس قیامتس تام جاری روز تہ مجمع البحرین چھ سہ زمانہ میلہ موسیٰ
دور ختم گوو تہ بحری دور گوو شروع۔
سہ گاڈ چھ تعمیر عبادت آسان یعنی میلہ بحری دور شروع پید تمہ وقتہ اس موسیٰ امیر منتر حقیقی عبادت ختم ہا ہتر۔

پسندہ سینیہ سفر کی تھکی ہوئی۔

تو، وونس (ز)، وونو (اوو) کیا سپر (۱) بیلیہ اسی
(آرام خاطر) ہتھ شیلہ پیٹو بیٹھی ہوئی اسی تہ
میں گئے گاڈ (یعنی تندر خیل) مشہ تہ میں ہسراو
نہیر کتھ شیطانس ورائی کانسہ نہ ہر تھاو تندر خیل
تہ تو ہنیر عجیب پاٹھی پتو وقتہ سمندس منز۔
تو، وونس (ز)، یوسے چھ سہ (تھام) یس اوسر تھاو
اسن اڈ پھیر کر اہم پتو پڈر اکھ وچھان پوت۔

اڈ لوپ (تو) (تہ) ساہو (برگر پدو) بندو
منز اکھ تہ تہ بند تہ میں اسہ پتہ دریاہ رحمت
(یعنی رحمت سیرت) بچشہ پتہ اس۔ بیہ اوس
اسر تس پسندہ درگاہ منز (خاص) مہام (تہ)
عطا کورمت۔

موسس ہن وونس تس (ز) کیا ہر ہیکہ امہ (مقصد)
خاطر توہر سوتو پکرتہ؟ نہ یس مہام توہر عطا
سیدمت چھو تہ منز، بیچھنا وو منیتہ کینہ ہایت
(دوہ واجبہ کتھ)۔

تو، وونس (ز) تہ ہیکہ تہ میں سوتو روزتہ ہرگز
صبر کر تھ۔

تہ سینیہ کتھ ہندس مہامس تہ ووناکھ تہ تھہ پتھ
کتھہ پاٹھی ہیکہ تہ صبر کر تھ۔

تو، وونس (ز) یوشہ خیلن تہ میں یو توہر
صبر کرن وول۔ تہ ہر کہ نہ تہند کتھ کچج نافرمانی۔

تو (رؤحانی بزگن) وونس (ز) اڈ کیا؟ اگر تہ
میں سوتو پکاکہ تہ تہ پرتھو نہ تہ میں گتہ جنس
متعلق یوتانی نہ ہر پانہ تھ متعلق تہ یلورس
باوتھ کرے۔

قَالَ آدَّيْت إِذَا دَوَيْتَ إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي
تَسْمِيْتُ الْحُوتَ رَوْ مَا أَنْسِيئُهُ إِلَّا
الشَّيْطَانُ أَنْ أذْكُرَهُ ۖ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ
فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ۝

قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ ۖ فَارْتَدَّا عَلَى
آثَارِهِمَا قَصَصًا ۝

فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَهُ رَحْمَةً مِنْ
عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ۝

قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَيْتَكَ عَلَىٰ أَنْ
تُعَلِّمَنِي مَعًا عَلَّمْتَ لَشَدًّا ۝

قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝

وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ۝

قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا
أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ۝

قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ
حَتَّىٰ أَخْبِرَكَ لَوْ كُنْتَ ذَكَرًا ۝

فَانطَلَقَا نَدْحًا اِذَا رَكِبَا فِي السَّيْفَيْنِ
خَرَقَهَا قَالَ اٰخَرْتُمَهَا لِغُرُقِ اَهْلِهَا
لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِمْرًا ۝۱۶

پتہ درآے تم دو لوگے (تہہ) یوتام نہ تم تاو کھڑو
تمو (خدا یہ ہندی مٹا ٹھی) کوڑتھ ناو زور۔ تھ
پہو وونس تمو (موسیٰ ہن نہ) کیا تو بہ کو روا (تھ
ناو) او کو زور نہ تو ہی پھاٹا و لوگھ اتھ منز
(بہن و آلی)؟ تو بہ چھو بے شک (یہ) اکھ
نا کاہ کام کر مہتر۔

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ
صَبْرًا ۝۱۷

تمو (خدا یہ ہندی مٹا ٹھی) وونس نہ (یہ) کیا میں
ونیو وے نا (تہہ نہ) تہہ ہلکھ نہ میں
سہتر روز تھ چہر ہرگز کر تھ؟

قَالَ لَا تُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا
تُزَهِقْنِي مِنْ اَمْرِي عُسْرًا ۝۱۸

اتھ پہو وونس تمو (موسیٰ ہن نہ) تو ہی مہ
رٹو میں (وونی کین) تیکاز میں اوس (تہہ ہدایت)
موتھمت تہ تو ہی مہ کر و میانہ (بیتہ) کتھ
کئی میں پہو سختی۔

فَانطَلَقَا نَدْحًا اِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ
اَقْتَلْتُمْ نَفْسًا رَٰحِيَةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ
جِئْتُمْ شَيْئًا نَغْرًا ۝۱۹

او درآے تم دو لوگے (تہہ پہو) یوتام نہ تم
اکس لوگس سمکھ یہ تہ تمو (خدا یہ ہندی
بند) تہن سہ لڑکہ مار تھ۔ تمو (موسیٰ ہن)
وونس (اتھ پہو نہ) کیا یہ پھنا پلا نہ (تو بہ تہنوا
وونی کین اکھ پاکباز تہ بیہ گو ناہ) شخص کانسہ
ہندی (خونہ کہ) بدلہ و آلی (ناحقہ) مار تھ۔
تو بہ چھو بے شک (یہ) سہٹا نا کاہ کام کر مہتر۔
تھ (خدا یہ ہندی مٹا ٹھی) وونس نہ (یہ) میں و نیو وے
نا تہہ نہ (تہہ ہلکھ نہ میں سہتر روز تھ ہرگز مہ
کر تھ۔

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ
مَعِيَ صَبْرًا ۝۲۰

تمو (یعنی موسیٰ ہن) وونس نہ (یہ) اگر امہ پتہ میں
کئی کتھ متعلق تو بہ پڑ تھ تہ (بلاتک) میں
تھو زو نہ تو ہی پاس سہتر (تہ تو ہی اوسو) اتھ
صورتس اندر) بے شک میانہ پتہ نہ رایہ مطابق
عذ کس حدس تام و آلی ہتہ۔

قَالَ اِنْ سَاَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا
فَلَا تُصَٰجِبْنِي ۚ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي
عُذْرًا ۝۲۱

پتہ درآیہ تم دو شوے (تہہ پہو تہ) یوتام نہ
تم اکھ بسٹی ہندی لوگس نش و آلی تہ اتہ کین

فَانطَلَقَا نَدْحًا اِذَا اَتَيَا اَهْلَ قَرْيَةٍ
اِسْتَطَعَمَ اَهْلُهَا فَاَبَوْا اَنْ يُضَيِّفُوهُمَا

فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ
فَأَقَامَهُ، قَالَ لَوْ شِئْتُ لَتَخَذْتُ عَلَيْهِ
أَجْرًا ۝

روزن والین مؤنگ بو کهن مگر تمو کوز تهنز
پژده لاری نهنه انکار - پیته وچه تمو ده شو یو اتھ
(بستی) منز اکھ دوس یوسه پیسپه و اجوز اس
تمو (خلایه سندر بدن) سنهناج سو (دوس
تہ) تمو (یعنی موسی بن) و ولس (اتھ پیٹہ ز)
اگر تو یوسہ نیتہ ہو تہ یقیناً ہیکہ ہو اچ کینہ
(تہ کینہ) اہرت ہتھ۔

قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ
بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝

تمو (خلایه سندر ٹاٹو) و ولس (ز) یہ چھینہ
تہ تریہ در میان جدالی (ہنز وز) - تھتھ کتھ پیٹہ
تہ صبر ہو لکھ تہ کڑتھ یہ چھستہ تہ وئی تہ کہ
حقیقتہ نیتہ باخبر کران۔

أَمَّا السَّفِينَةَ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ
فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ
مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ۝

ناوتہ اس کینٹن مسکین ہنز بیم دریاوس منز
کام کران اس تہ تہن اوس تھتھ (دریاو اپار) اکھ
(ظالم) بادشاہ یس پر تھتھ کاٹھ تاو زبردستی
(سان) تھتھ توان اوس - او کتھ یوزھ میہ ز
سہ بناون یہ قاب دار۔

وَأَمَّا الْعُلَمَاءُ فَكَانَ آبَاؤُهُ مُؤْمِنِينَ
فَخَشِينَا أَنْ يُزْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۝

تہ لاکہ سنز (یعنی تہ واقعہ اچ) حقیقت چھینہ
یہ ز تندر مول موج دہ لوسہ اس مؤمن - اتھ پیٹہ
کھوڑی اس (تمو سنز یہ حالت وچیتھ) تھتھ تہ
سپد ز سہ دیاو (بوز گڑتھتھ) تہن نافرمانی ہند
تہ کفرک لازم۔

فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا دَرَبًا خَيْرًا مِنْهُ
رُحْمًا وَأَقْرَبَ رُحْمًا ۝

لہذا اسہ یوزھ ز تہند پروردگار دین تہن تندر
بدل پاکیزگی تہ رحم تہ الصاف کہ لحاظ کتھ جسد
رت (نیچو)۔

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي
الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَ
كَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ
يُنْبِتَهُمَا أَشْجَارًا وَيَسْخَرَهُمَا
كَنْزَهُمَا بِرَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَ مَا

تہ (سو) دوس اس تہ شہر کین دون یتیم لڑکوں
ہنز تہ تھتھ تلہ کبہ اوس تہن کیت خزانہ (دباوتھ)
تہ تہند مول اوس اکھ نیک (شخص) او کتھ
یوزھ چافی پروردگار تہ تم و اتن پستہ در پرچہ
والتہ تہ (بوز گڑتھتھ) کڈن پن خزانہ (پانہ)

فَعَلَّمَهُ عَنِ أَمْرِئِ ، ذٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِرْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿۱۷﴾

مجانس پروردگار بندہ پر طرفہ چھ (تمن پیٹھ خاص) تم (سپردت) تہ پے کار (کوزہ تہ میہ پستہ نفسہ کہ حکم پر۔ یہ چھ تمن تمکن بشر حقیقتہ بیتہ پیٹھ تہ صبر، یو لکھ تہ کرتھ۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقُرْنَيْنِ ، قُلْ سَأَلْتُهَا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿۱۸﴾

بہ پھی تم ثریہ ذوالقرنین متعلق تہ سوال کران تہ ون (تمن تہ) بہ کر ضرورتس متعلق کیہشہ ذکر توہہ برونٹھ کتہ۔

إِنَّمَا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَاتِّمَّنَّهُ وَنُكِّلْ شَيْءٌ سَبَبًا ﴿۱۹﴾

اسہ اُس بے شک تس زمینہ پیٹھ حکومت عطا کر مہتر تہ اسہ اوس تس پر تہ کتہ چہرک (یعنی سہ حامل کرنک) سبب بخشوت۔

فَأَتْبَعَهُ سَبَبًا ﴿۲۰﴾

اد درلو سہ اُکس وتہ پیٹھ۔

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا الْقَارِئِينَ إِنَّمَا أَنْتُمْ تُعَذِّبُونَ وَإِنَّمَا أَنْتُمْ تُنَجِّدُ فِيهِمْ حُسْنًا ﴿۲۱﴾

یوتانی زسہ ووت آفتاب لوستہ چہ جایہ تہ تمز لوب تبتہ ز (زن تہ) سہ اُکس گزٹس نامس منز لوسان چھ تہ تمز وچھو تھہ نش کیہشہ لوکھ (بسان) اسہ وون تس اتھ پیٹھ تہ) اے ذوالقرنین! ثریہ چھ اجازت تہ تمن عذاب تہ یا تمن سوتی حسن سلوک سان ورتا و کرتہ۔

قَالَ إِنَّمَا أَنْتُمْ تُعَذِّبُونَ وَإِنَّمَا أَنْتُمْ تُنَجِّدُونَ قُلْ سَأَلْتُهَا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿۲۲﴾

تمز وون (آ! بہ کرتی تہ) لیس ظلم کر تس تہ دمو اُس ضرور سزا۔ پتہ پیہ سہ پستہس پروردگار کن واپس ہتہ تہ سہ دپہ تس سخت سزا۔

وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ بِإِحْسَانٍ ، وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿۲۳﴾

تہ لیس ایمان انہ تہ نیک (تہ متاسب حال) عمل کر۔ تبتہ با پتھ چھ (خدا لیس نش تمز بندو اعمالو بدل) رت انجام (مقدر) تہ اُسی (تہ) کرو تمز بند خاطر ضرور پستہ حکم سوتی سہولیتہ واجتہ کتھ۔

ثُمَّ أَتْبَعَهُ سَبَبًا ﴿۲۴﴾

پتہ درلو سہ اُکس وتہ پیٹھ۔

لہ بلکہ اللہ تعالیٰ بندہ حکم سوتی کوزہ میہ۔

لہ خورس (CYRUS) شاہ فارس۔

لہ یعنی کھیہ اودا کر من سمندر ایتیک آب کر من آسہ کنو گوٹ بوزہ یوان چھ۔

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا
تَاطَلُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ يَجْعَلْ لَهُم مِّن
ذُرِّيَّتِهَا سِوَا ۖ ﴿۱۱﴾

یوتام زریلیہ سے آفتاب کھنڈ چر جا یہ ووت۔
تو وچھ سے (آفتاب) تھین لوکن پیٹھ کھسان
بیمن ہند تھاپہر نہ اسہ (بمن تہ) تھہ (آفتابس)
درمیان کاٹھہ ٹھور اوس ہوت۔

كَذٰلِكَ ۚ وَ قَدْ اَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ
خُبْرًا ۖ ﴿۱۲﴾

(ٹھپک) بیتھ پائٹھ چھ (یہ واقعہ) تہ اسہ چھ
تو سندن سارہنے حالات ہند خوب پے پتہ تھووت۔
پتہ دراوسہ اُکس وتہ پیٹھ۔

لَمَّا آتَبَعَهُ سَبَبًا ۖ ﴿۱۳﴾

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ
ذُوَيْهِمَا قَوْمًا لَا يَسْكَادُ وَّن يَفْقَهُوْنَ
قَوْلًا ۖ ﴿۱۴﴾

یوتام زریلیہ سے وہن بالن منز باگ ووت تہ تو
وچھ ہمن بالن آبار کینہہ تھہ لاکھ بکن مُشکلہ
سان تو سہز کتھ فکر تران اُس۔

قَالُوْا اِيْذًا الْقَرْيَتَيْنِ اِنَّا يَنْجُوْبِهٖ وَمَا جُوْبِهٖ
مُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ
خَرْجًا عَلٰٓى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ
سَدًّا ۖ ﴿۱۵﴾

تو وون (نر) اسے ذوالقرنین! یا جوتہ تہ ماجوب
چھ بے شک بیتھ ٹکس منز فساد پھلا لون روزان
لہذا کیا اُکلا لاکھ کروا تھہر ہاتھ کینہہ خراج اتھ
شرطس پیٹھ پیش؟ ز تو ہر بناو اسہ تہ ہمن منز
باگ اکھ ٹھور؟

قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَاَعَيْنُوْنِي
بِقُوَّةٍ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۖ ﴿۱۶﴾

تو وون زہر اسہ (قسمہ چین کاہن) متعلق لیس
طاقت میاڈی پروردگارن میں عطا کورمت چھ سے
چھ (دشمن ہند لو سامانو کھوتہ) سدھا بہتر۔
او کتہ دیو توہی میں پتہ نہ مقدمہ مطابق مسد
بیتھ زن بہ توہر تہ ہمن درمیان اکھ ٹھور بناو۔
توہی دیو میں سش شہر ٹکڑ (چنانچہ سے ٹھور لاک
تید مرہنہ) یوتام زریلیہ توہ (بالن ہمن) بکن

اَتُوْنِي زُبَرَ الْحَدِيْدِ حَتَّىٰ اِذَا سَادَ ي
بَيْنَ الصَّدَقَيْنِ قَالَ اِنْفُخُوْا حَتَّىٰ
اِذَا جَعَلْتُمْ نَارًا قَالَ اَتُوْنِي اَفْرِغْ عَلَيْهِ
قَطْرًا ۖ ﴿۱۷﴾

(دولونی) مالن درمیان برا بڑی پاد کڑ۔ تہ
تو وون (بمن ز وون) پھکو (اتھ پیٹھ نار)
یوتام زریلیہ توہ تھہ (بکل) نار (دیو) کور تہ

۱۱ بلوچستان تہ افغانستان، پیم علاقہ چھ بحیرہ اسودس مشرقس کن۔ پیم علاقہ اُسو خوردن نفع کر تہ۔
۱۲ یہ دفاعی فہل آہ بحیرہ احضر تہ کوہ قافس منز باگ بناو تہ امرہ سوتو کوہ شمالی
علاقہ بکن وحشی قومن ہند بوڑھن علاقن کن وسن مُشکل۔

وَوَنُّ (تمن نہ وو فی) دیو میہ (وہلو وومت)
ترام (انہ) میہ زن بہ (سے) اتھ پیٹھ تراو۔
لہذا (میڈی سو فعل تیار گئے تے) تم (یعنی
یا جوج ماجوج) بلکہ تہ تہ پیٹھ کھسیتہ تہ
نہ ہیکلکھ تہ کا نہہ رُو د کر تہ۔

تم ذوالقرنین وون (اتھ پیٹھ نہ) یہ (کار)
چھ (مخص) میانس پرور وگاہ بند خاص اصابت
سنتو (سیدمت) پستہ میڈی (عالمگیر عبدالبس
متعلق) میانس پرور وگاہ بند وعدہ (پور سپنس
پیٹھ) پیہ تہ سہ لہاو اتھ (مطرس)
تہ بناو بس اکھ منیٹر ٹینگ تہ میانس رہے سند
وعدہ چھ ہنرور) پور سیدتہ روزن وول۔

تہ (میڈی تہ کر پور گزھتک وقت پیہ تہ)
تہ وقتہ تراو کہ اسی تم اکھ اُس خلاف جو شہ
سان حملہ آور سید فون تہ پوگس پیہ چھو کہ دہ
اد کرو کہ اسی تم ساری کیجا۔

پیہ جہنم آون اسی تہ وہ کافرن بلکہ بروٹھ
کن۔

(تم کافر) پہنہر اچھ میانہ ذکر (یعنی قرآن کریم)
کنہ (فقلت کس) پردس مشر آسہ تہ تم اسی
نہ پور تہ ہیکان۔

(تہ کیا یہ سرے کینہرا وھینہ) پتہ (تہ) چھا
تم لو کہ بیونہر (کرک طریقہ) پروومت چھ (یہ)
زنان نہ تم ہیکن میہ تراوتھ میانی بندہ وگاہ
بناوتھ۔ اسہ چھ کافرن ہنر پڑھی لازمی خاطر
جہنم تیار کر تہ مقومت۔

تہ ون (تمن نہ) اسی دمو وا توہ تمن لاکن متعلق
خبر، یکم عملو ہنر لحاظ ساروہے کھوتہ جاوگاٹ
لین وارا چھ؟

فَمَا اشْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا
اشْتَقَّاعُوا لَهُ تَقْبَلًا ﴿۱۷﴾

قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ
رَبِّيْ جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ﴿۱۸﴾

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجًا فِي
بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ
جَمْعًا ﴿۱۹﴾

وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ
عَرْضًا ﴿۲۰﴾

الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ
ذِكْرِيْ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿۲۱﴾

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا
عِبَادَنَا مِنْ دُونِ آلِهَاتِنَا إِنَّا أَعْتَدْنَا
جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ﴿۲۲﴾

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿۲۳﴾

لہ یعنی یا جوج ماجوج کرن پانہ وازی ہنگ۔

الَّذِينَ صَلَّوْا سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿۱۹﴾

(یہم) چھ تم لوگھ (سہنتر) سارہے (کوسشش)
نیہرے دنیاہ چہر زندگی مشنرے ضایح سپر مشرچہ
تہ تم چہو (اتھ سوتی پتہ) خیال کران نہ تم چہ
رہر کام کران۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ
وَلِقَاءِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ
لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا ﴿۲۰﴾

یہم چہ تم لوگھ یو سپنس پروردگار ہندن نشان
ہند تہ تن سوتی ملاقاتک انکار کورمت چہ، او
کوز چہ تہندک (ساری) اعمال پتھر پتھہ (تتھو)
دنیاہس مغز) رُودو متی۔ چناچہر قیا مشر دن ہر دو
نہ اس متن کانہہ تہ وقتت۔

ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا
وَ اتَّخَذُوا آيَاتِي دُسَلِينَ هَٰؤُلَاءِ ﴿۲۱﴾

یہ اسہ تہند بدلہ (یعنی) جہنم امر باعہہ کوز
تمو کوز کفر اختیار تہ میانی نشانہ تہ میانی
بناوگھ (پسنہ) ہر لوگھ نشانہ۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿۲۲﴾

یو لوگو ایمان او کورمت چہ تہ تمو چہ نیک (تہ)
متاسب حال) عمل کر مشر۔ تہند ٹھکانہ اسہ بیشک
فردوس ناوگھ جنت۔

خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوًّا ﴿۲۳﴾


تم گرتھن متن اندر روزان (تہ) تم سہرھن
زادہ تمو نشہ ترھہن گرتھن۔

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَّكَلِمَاتِ
رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَذَ كَلِمَاتِ
رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴿۲۴﴾

تہ ون متن (نہ) اگر (پرچہ گھ) سمندر میانس
پروردگار ہنزن کتھن ہند (لیکھن) باچہ پہل
بڑہے تہ میانس پروردگار ہنز کتھ مہ کلمتہ
بروشٹ مہ کل (پرچہ گھ) سمندر ہر گاہ زن (تھہ)
مبلہ) ہر راونہ خاطر اسی بیہ تیوت (ہے آب
سمندر مغز) اُتھہ تراوہ۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُؤْتِي إِلَيَّ أَمْرًا
الْهُكْمَ إِلَهُ وَ أَحَدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا
لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَ
لَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿۲۵﴾

تہ ون متن (نہ) یہ چھس توہی یو گھ بشر (فرق)
چھہ صرف یہ تہ) میہ کن چھہ (یہ) وحی (تارل)
کرتہ پلان تہ تہند معبود چہ اکے (حقیقی) معبود۔
لہذا یس شخص سپنس پروردگار سوتی ملاقات
وو میدتھاوان اسہ تنس پز نہ نیک (تہ متاسب
حال) کامہ کران تہ سپنس پروردگار ہندس
عبادتس مغز مہ کران کانہہ تہ شریک۔



سورة مریم ، یہ سورہ مجھ کی ہے بسم اللہ بہتہ چھرا تھ نکلتا تھ آیتہ بے چھس شیعہ رکوع۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①

(یہ چھس) اللہ (تعالیٰ) سُنَد ناو بہتہ (پران)
یَسْ حدر رُؤس کرم کرن وول (تہ) پھیرے پھیرے
رحم کرن وول پھتہ۔

كَلِمَاتٍ ①

اے عالم تہ صادق خدایہ ! تہ چھکھ وا تن وول تہ
ہدایت دہن وول یے۔

ذِكْرًا رَّحِمْتَ رَبِّكَ عَبْدًا زَكِيًّا ②

(اتھ سؤرس منتر چھ) چاہنس پروردگار سہنہ
(تمہ) رحمتک ذکر یوسہ تمہ پسنس بندس
زکریا ہس پیٹہ (تمہ وہ) کڑ۔

اِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ③

ییلہ تمہ پسنس پروردگار س لو تہ لو تہ آلو کڑ۔

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَ
اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ
بِدُعَاؤِكَ رَبِّ شَقِيًّا ④

(تہ) وونن ، اے میا نہ پروردگار ! (میانی
حالت چھین بے شک ترشہ نہ) میا نہ سارے
اُرڑجہ تام چھین کمزور کھا مشر تہ بچر کئی پھ
(میون) کلہ چھیتومت ، تہ اے میا نہ پروردگار !
بہ رُؤس نہ نہ شیبہ تہ ترشہ دعا منگتہ کر با عشہ
نا کام (تہ نامراد)۔

وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي
وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي
مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ⑤

بہ چھس بہ بے شک پسنس اشناون بش پسنہ
(مسر تہ) پتہ (کس ورتاوس) کھوژان تہ میانی
آشقی چھین ہانٹہ۔ لہذا تہ کر تہ میا نہ پسنہ جناہ
اکھ کا پھون (یعنی نیچواہ) عطا۔

يَرْثِيَنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَ
اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ⑥

یَس میانی وراثت تہ رٹ تہ آل یعقوبک تہ آسہ
وارث ، (یعنی یَس دین تہ تقویٰ آسہ وراثتس منتر
توزمت چھ تمیک) تہ اے میا نہ پروردگار !
بناوی زین (پانس) مار کھسن لایق (وجود)۔

لہ کھلیص یعنی انت کا پ انت ہادی عالم یا صادق اے عالم تہ پزیر خدایہ تہ
چھکھ وا تن وول تہ ہدایت دہن وول یمن مقطعات منتر چھ عیبانی عقیدن ہنتر تردید مقصود۔

يُذَكِّرُنَا إِنَّا بِشَرِّكَ بِعِلْمٍ بِاسْمِهِ يَخِيلِي
لَمْ تَجْعَلْ لَنَا مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ۝

(اچھ پیٹھ فرموا اللہ تعالیٰ ہن) اسے زکریا!
اُسکی بھی تریہ اُکس گوبہ سنز خوش خیر دوان۔
(میں جو تانی ہنر وانسہ واتہ تہ) تجھ سندا ناو آسہ
(خدا یہ ہنر طرفہ) سیکھی۔ اسہ کور نہ تس
برونٹھ کانہہ امہ ناو سستی یاد۔

قَالَ رَبِّ اَنْتَ يَكُونُ لِيْنَ عُلْمٌ وَكَانَتْ
اُمْرًا لِّيْ عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ
عَتِيًّا ۝

(زکریا ہن) وون، اسے میانہ پرور وگار امیہ
کہتہ پاٹھو ہیکہ نیچو بیٹھہ بینل زن میانہ آشتہ
چھینہ مانٹھ تہ بہ چھس بجکس انٹھس ووجتہ۔

قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّئْ
وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكْ شَيْئًا ۝

(الہام ابن اول ملائکین) وونس (ز پیٹھ پاٹھو
تہ ونان چھکھ (امر واقعہ چھ) تھتھ پاٹھو (مگر)
چون پرور وگار چھ ونان ز یہ (کار) چھ میہ
کیٹ سہل تہ (وچھ، ز) میہ چھکھ تہ امہ
برونٹھ یاد کورمت سالانہ تہ اوسکھ نہ لہنی تہ۔

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْ اٰيَةً ۗ قَالَ اٰيَتُكَ
اَلَا تَكَلِّمُ النَّاسَ لَمَّا لَيْسَ لَكَ سَوِيًّا ۝

(یعنی زکریا ہن) اسے میانہ پرور وگار!
میانہ خاطر فرماو تہ کانہہ حکماہ۔ فرمونس،
چانہ خاطر چھ یہ حکم ز تہ مہ کر ترن ران
گنڈے لوکن سستی کہتہ ہاتھ۔

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى
اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّكُمْ وَحَمْدًا ۝

تمہ پتہ دراو زکریا محراب منتر تہ گوو پسنس
قوس نش تہ ہن وون لو تہ لو تہ نہ صبحن تہ
شامن روزو خدایہ سنز سبح کران۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُ
الْحُكْمَ صَبِيًّا ۝

(امر پتہ سپد سیکھی یاد تہ اسہ وون تس) اسے
یجھی! تہ رن (الٹی) کتاب چہر تہ اسہ
اُس تس لو کچارس منزہ پینہ حکم سستی یاری
کر مہتر۔

وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَرُحْمًا ۗ وَكَانَ تَقِيًّا ۝

(تہ یہ کہتہ اُس) سانہ طرفہ مہر ہانی ہندہ
(تہ شفقتہ کہ) رنگہ بیچہ (اُس تس) پاک کرنہ
خاطر تہ سہ اوس بوڈ متقی۔

وَبَدَّ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰهٖ لَمَّا يَكُوْنُ جَبَّارًا عَصِيًّا ۝

بیہ اوس سہ پسنس ہانس ماجہ سستی نیک ورتاو
کرن وول تہ ظالم تہ نافرمان اوس تہ۔

وَسَلَّمَ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَ

بیہ بیلہ سہ زاو تیلہ تہ اُس تس پیٹھ سلامتی

يَوْمَ يَبْعَثُ حَيًّا ۝۱۱

تہ ییلہ سہ مر تہ پتہ ییلہ سہ زندر کر تہ تلمنہ
پسہ (تیلہ تہ آسہ تس پیٹہ سلامتی)۔
بہ کر تہ (تیمہ) کتابہ منز مریم (یس) ذکر
(یوان چھ سہ) بیان۔ (خاص کر تہ سہ کتہ نہ) ییلہ
سہ پتہ نو اشن او نشہ مشرقی (طرس کن
اگس) جایہ گئے۔

وَإِذْ كُذِّبَ فِي الْكُتُبِ مَزِيدًا إِذْ أَنْتَبَذَتْ
مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۝۱۲

تہ تمہ تر وو (پانس تہ) تمہن (یعنے اشن او ن)
منز باگ پردہ (یعنے تمہن ستر تعلق تہ تہ کفون
پن پن) تمہ وقتہ سوز اسہ تس کن پن کلام
اسن وول اکھ ملا پکھ (یعنے جبرائیل) تہ سہ
سپد تس برو تمہ کنہ اگس ارس ادرس انسانہ
سینر شکہ منز نمودار۔

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا وَإِذْ
أَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا
بَشَرًا سَوِيًّا ۝۱۳

دو پنس (یعنے مریم) بہ چھس تریہ نش جن
خایہ سہ پناہ منکان اگس تریہ منز کیتہ تقوی
چھ۔

قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ
كُنْتَ تَقِيًّا ۝۱۴

(تمہی ملکن) وون نس (اتھ پیٹہ) بہ تہ چھس
صرف چانس پروردگار ہند طرفہ شینچہ اتن
وول تہ تہ نہ بہ تریہ (دوجیہ مطابق اکھ
پاک گو بر دینے لہ) (یس جو انی ہنر و انسہ وارہ)
(مریم) وون نس مینہ کتہ پٹہ بہ تہ تہ
حالاکہ و نیک نام چھتہ مینہ کانسہ مہنوی
چھومت تہ نہ اسس بہ زاہ بدکار۔

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ بِهَا
لَكِ غُلَمًا ذَرِيًّا ۝۱۵

(ملکن) دوپ نس کتہ چھتہ تہ پٹہ پٹہ
تریہ و نتہ، مگر) چانی پروردگار وون یہ
نہ یہ (کرن) چھ میانہ خاطر سہل تہ (اس
کرون یہ لڑاکہ او کو پاؤ) تہ سہ لوکن ہند
باپتہ اکھ نشان بناوون بہ (بناوون) پسہ
طرفہ رحمت (یعنے تمیک موجب تہ)۔ تہ یہ (معاملہ)

قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي
بَشْرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۝۱۶

قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلِيمٌ
وَلِيَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ
أَمْرًا مَقْضِيًّا ۝۱۷

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَدَّتْ بِهِ مَكَانًا
قَصِيًّا ۱۷

فَاجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ ۚ
قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ
نَسِيًّا مَنْسِيًّا ۱۸

فَتَنَادَتْهَا مِنْ تَحْتِهَا آيَا تَخَذَلِينَ قَدْ
جَعَلْتُ رَبِّكَ تَحْتِكَ سَرِيًّا ۱۹

وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ
عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا ۲۰

فَكُلِي وَاشْرَبِي وَرَقِي عَيْنًا ۚ فَمَا
تَذَرِينَ مِنَ الْبَشْرِ آخِذًا ۖ فَقَوْلِي إِنِّي
نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ
الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ۲۱

فَاتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ۚ قَالُوا
يَمْرُؤٌ لَمَّا لَقِدَتْ شَيْئًا فَرِيًّا ۲۲

يَا خُتُّ هَرُونَ مَا كَانَ آبُوكَ امْرَأَتُوهُ
وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا ۲۳

فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۚ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ
كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ۲۴

چھ سانس تقدیرس منزطے پیدمٹت۔
اتھ پیٹھ مل مرمین یہ (بچہ پینس شکس
منز) تہ سہ ہتھ گئے اکس دور جایہ کن۔

اد (بیبلہ سو توئن واژ تہ) خلاصی ہندو داد
اڈ سو مجبور کرٹھہ اکس کھنر کلہ کس گوڈس
کن (بیبلہ مریس پڑھ پیٹھ نہ تس چھ شر
زہتہ وول تہ ڈزہ پچین پامن ہند (خیال
کرٹھہ) ووئن کاش بہ آسہ ما امہ برو پٹھ
موہتر تہ بہ آسہ ما مشراوہ آسہ۔

اتی وون تس (ملکن) وسونہ طرفہ آلودتھ،
ہتے! عم مہ بر! اللہ (تعالے) ہن چھ
وسونہ اندر کنز اکہ نگ جاری کورمٹ (ا دن
گرٹھہ تہ پن پان تہ پن نہ کرن پھلتھ صا)
تہ تمہ کھنر کلج لند رٹھہ دس پانس کن وون
سو چکہ تریہ کن تانہ بتانہ کھنر۔

لہذا (یم مہو) کھیہ تہ (نگہ منز) چہ (تیش
تہ) تہ (پانہ سران کرٹھہ تہ یکہ چھلتھ) شہلاو
پستہ اچھ اد ہرگاہ (اتھ وقتس اندر) تہ
کانہہ بشر وچھ ہن تہ وٹس میہ چھ رحمن
(خدایہ) ہند خاطر (اکھ) دہہ نیاز یا طہ
دورمٹ لہذا از کر نہ بہ کانسہ انسان ستر کتھ
امہ پتہ اولن تمہ سہ نیچو پینس قوس نش سولہ
پیٹھ تمو وونس مریہ! تریہ ہن چھتھ سٹھا
ناکار کام کر مہتر۔

ہتے مارونہ ستر بیہ! نہ اوس چون مول
ناکار انسان تہ نہ اس پانز موج بکا (زنان)۔

اتھ پیٹھ کور تمہ تس (شرس) کن اشار۔ تھ
پیٹھ وونس لوکو۔ اسی کتھ پاٹھ کرو کتھس

سوتی کہتے ہیں (یو تام) منفرس منفرس
 وول شراوس

(یہ بوزتھ) ووننگھ (ابن مسرین) نہ بہ چھس
 اللہ (تعالیٰ) سئد بندہ تہ تھو چھہ میہ کتاب عطا
 کر مہتر تہ بہ چھس نبی بنوومت۔

تہ یستین تہ بہ آسہ تھو خدین چھس بہ بر کتر
 وول (وجود) بنوومت تہ بہ یوتانی زندہ چھس
 میہ چھن نماز تہ زکوٰۃ با پتھہ تاکید کورومت۔

بیہ چھس بہ پتھہ ماہہ سوتی نیک ورتا وکر وول
 بنوومت تہ بہ چھس نہ ظالم تہ بد بخت بنوومت۔

بیہ بیہ دوہہ بہ زلیوس تمہ دوہہ تہ سپز میہ
 پیٹھ سلامتی نازل تہ بیہ دوہہ بہ مسرتہ بیہ
 دوہہ بہ زندر کر تھہ تلہہ پتھہ (تمہ وقتہ تہ سپر
 میہ پیٹھ سلامتی نازل)۔

(وچھو) یہ چھہ (اصلی) عیسیٰ ابن مریم تہ یہ
 چھہ (تھو سئد اصلی) پوز قہبہ بیہ منفرتم (لوکھ)
 اختلاف کران چھہ۔

خدا یہ بندس نشانس چھہ یہ بخلات نہ سہ بتا و
 کانسہ پتھہ نیچو۔ سہ چھہ امہ کہتہ بشر پاک۔ سہ
 بیلیہ کہتہ کہتہ ہند ناملہ کران چھہ تہ توان چھہ (پتھہ
 کئی) سپرن تہ بتھہ کئی چھہ سپرن، ہوان۔

(پتھہ کیاہ چھہ تس مدد با پتھہ نیچو بنا وک صروت)
 تہ اللہ (تعالیٰ) چھہ میون تہ پروردگار تہ تہند
 تہ پروردگار۔ تھو ہنترے عبادت کرو بیہ
 چھہ سیز وقتہ۔

مگر مختلف جہات و کور پاتہ وافی اختلاف اتہ پزر
 ترو وکھ) لہذا پتھہ لوکو اکہ بڑ دوہہ حہنر
 سپرن ہنترہ انکار کور ہنن پیٹھ سپر عذاب نازل۔

قَالَ رَبِّي عَبْدُ اللَّهِ تَدَاثِنِي الْكِتَابُ وَ
 جَعَلَنِي نَبِيًّا ۝

وَ جَعَلَنِي مُبْرَكًا آتِنَ مَا كُنْتُ سَ و
 أَذْصِي بِالصَّلَاةِ وَ الرَّكْعَةِ مَا كُنْتُ
 حَيًّا ۝

وَ بَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَ لَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا
 شَقِيًّا ۝

وَ السَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَ يَوْمَ أَمُوتُ وَ
 يَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ۝

ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۝ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي
 فِيهِ يَمْتَرُونَ ۝

مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَاوَدٍ مُبْخَنَةً ۝
 إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ
 فَيَكُونُ ۝

وَ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۝ هَذَا
 صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۝ فَوَيْلٌ
 لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝

یہ دو ہی رقم سانس و ربارس منتر کا جزو سیدن
تمہ دو ہر آسہ تمہن بوزن پو تو سہٹا تیز تہ
نظر تہ آسکھ سہٹا تیز۔ مگر تم ظالم چھ از
سہٹا بار گمراہی منتر ہینہ آہتر۔

بہ کرکھ تہ رقم تمہ دو ہر نشہ خردار نیمہ دو ہر
(افسوس تہ) ناوہ میدی چھاوتھ آسہ (یعنی
قیامتہ کہ دو ہر نشہ) نیلہ سارنہ کتھن ہند
فاصلہ سپد تہ یکم لوکھ چھ (وہ تہ) غفلت
اند (پہتر) تہ ایمان چھتر انان۔

بیشک اسی آسو (ساری) زمینک تہ وارث تہ
تمہن لوکن ہندک تہ یکم اتھ پٹھ روزان چھ تہ
ساری لوکھین (پتولکن) اسی کن پھتر انہ۔
بہ کر تہ قرآن کریم مطابق ابراہیم سند ذکر سہ
اوس بے شک بوڈ پڑیور تہ بہ اوس نبی۔

(بہ کر تہ سہ وقت تہ یاد تہ لوکن بروٹھ کتہ
تیکر بیان) نیلہ ابراہیم سپنس مائس و نیاوا
نہ اے میانہ بہر! تہ کیا نہ چھاکھ تمہن چہرن
ہتر بندگی کران یکم نہ بوزان چھ، نہ وچھان چھ۔
تہ تہ چھ چون کا نہہ تکلیف وڈ کر س پٹھ قوت
تھوان۔

اے میانہ بہر! میں چھ اکھ خاص علم عطا
کر تہ آمت یس تریہ حاصل سپد مت پٹھ نہ
لہذا (امہ باوجود نہ ہو چھس چون نیچو) تہ کر
میاڈی تابعداری بہ ماوے تریہ سٹیز و تھ۔

اے میانہ بہر! شیطانہ ہتر عبادت مو کر
شیطان چھ بے شک خدایہ رحمان سند نافرمان۔

اے میانہ مالہ! بہ چھس کھوژان نہ تریہ گوٹھ
نہ خدایہ رحمان ہند طرفہ (نافرمانی ہند با عتہ)
کا نہہ عذاب و اتن نیمہ کس پچیس منتر نہ شیطانہ
سند دوست بنکھ۔

أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُوكُمْ فَتَأْتِكُم
الظُّلُمُوتُ الْيَوْمَ فِي ضُلَيْمٍ مَّيْمِينٍ ﴿۳۱﴾

وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ
وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۳۲﴾

إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا
يُرْجَعُونَ ﴿۳۳﴾

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكُتُبِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ
صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴿۳۴﴾

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا
يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ
شَيْئًا ﴿۳۵﴾

يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا
لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا
سَوِيًّا ﴿۳۶﴾

يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ
كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ﴿۳۷﴾

يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ
الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ﴿۳۸﴾

اتھ پیٹھ ووتن (ابراہیم ہندو مال) اک ابراہیم!
کیا تریہ چھیا میانین معبودن سیدو نفرت
گہتر۔ ہر گاہ تہ باز آکھ تہ تہ بہ کتھ تہ
کتھ کتھ تہ (بہتر چہ نہ) تہ تہل کینہ کالہ
خاطر میا نہو نظر و ہنہ دور (تھ تہ بہ شرارتن
منز کیہ نہ کتھ گرتھ)۔

(اتھ پیٹھ) ووتن (ابراہیم) اچھا میانہ طرفہ
روزنے ہمیشہ تریہ سلامتی ہند دُعا وانان (یعنی
بہ چھس تریہ ہنس الگ سپدان) بہ منگہ پنسن
ریس چانہ خاطر ضرور معقرتک دُعا، سہ چھ
میہ پیٹھ سبھو ہے مہربان۔

تہ (اے میانہ مال!) بہ تراوو توہی تہ تم
ساری (وجود) یمن توہی اللہ (تعالے) ہس
ورای نادوان چھو تہ صرف پنسن پروردگار
ہند دربار منگہ دُعا۔ (تہ) بے شک بہ تہ بہ
پنسن پروردگار ہندس دربارس منز دُعا کرتہ کہ
باعثہ بدلفیہ۔

اد سبیلہ (ابراہیم) تمو (پسنو لوکو) ہنہ تہ تہ
یمن ہنہ تم اللہ (تعالے) ہس ورای پوزاکرن
اسی (ہن ہنس تہ) جڈا گوو تہ اسہ کور تس
اسحاق تہ (تس پتہ) یعقوب عطا۔ تہ تم ساری
بناور اسہ نبی۔

بیہ کور تمن اسہ پتہ رحمتہ منز اکھ (واہر)
جسمہ عطا۔ بیہ کور اسہ بہنہ خاطر ہمیشہ تاہم
روزن وول تھدہ پاکت ذکر خیر مقرر۔
بیہ کر تہ قرآنہ مطابق موسیٰ سند تہ ذکر۔ سہ
اوس سون ترورمت بندہ تہ رسول (تہ) نبی اوس۔

بیہ کور اسہ (کوہ) طور کہ دو چھنہ طرفہ کتھ موسیٰ
ہس ناد تہ سہ اؤن اسہ پتہ سپرباوان پاس
تھو۔

قَالَ اَرَاغِبْ اَنْتَ عَنِ الرَّهْتِي يَا بُرْهِيْمُ
لَيْدِنْ لَمْ تَنْتَوِ كَا زَجْمَتِكَ وَ اَهْجَزْتِي
مَلِيًّا ۝۵

قَالَ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَاَسْتَغْفِرُكَ رَبِّي
اِنَّهٗ كَانَ بِيْ حَوِيًّا ۝۶

وَ اَعْتَزَلْتُكُمْ وَ مَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
وَ اَدْعُوْا رَبِّيْ رَّبِّيْ اَلَا اَكُوْنَ بِدُعَاۗءِ
رَبِّيْ شَاقِيًّا ۝۷

فَلَمَّا اَعْتَزَلْتَهُمْ وَ مَا يَعْجُذُوْنَ مِنْ دُوْنِ
اللّٰهِ وَ هَبْتَا لَهُ اِسْحٰقَ وَ يٰعْقُوْبَ
كُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ۝۸

وَ وَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَّحْمَتِنَا وَ جَعَلْنَا لَهُمْ
لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ۝۹

وَ اذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مُوسٰى اِنَّهٗ كَانَ
مُخْلِصًا وَّ كَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ۝۱۰

وَ تَادِيْنُهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْاَيْمَنِ
وَ قَرَّبْنٰهُ نَجِيًّا ۝۱۱

وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا آخَاهُ هَارُونَ
نَبِيًّا ۝

بیمہ دیت اسیرتس (موسیٰ ہنس) پستہ رحمتہ
سوتو تئند بوسے ہارون نبی بناوتھ (تس)
سادہ ہا پتھ۔

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إِسْمٰحِيلَ إِذْ أَنزَلْنَا
صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ۝

بیمہ تہ قرآنہ مطابق اسماعیلہ ہنترہ کتھ
سہ تہ اوس بے شک وعدن ہند پزلیور بیمہ
اوس رسول (تہ) نبی۔

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ
وَكَانَ مِنْدَرِبَةً مَّرْضِيًّا ۝

بیمہ سہ اوس پنہن گرہ کہن نماز پر تک تہ
زکوٰۃ (دنک) تکبہ کران روزان۔ بیمہ اوس سہ
پسنس ریس نزدیک ٹوٹھ (وہود)۔

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إِذْ رِيسَ إِذْ أَنزَلْنَا
صِدْقًا نَّبِيًّا ۝

بیمہ کر تہ قرآنہ موجب ادریسہ سند تہ ذکر تہ
تہ اوس (اکھ) پزلیور نبی۔

وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۝

تہ سہ اوس اسہ نہایت تھدس مرتیس تمام
واتمومت۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ
النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَرَمَّحَانَ حَمَلْنَا
مَعَ نُوحٍ رَوْحًا مِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرٰهِيْمَ وَ
إِسْرٰءِيلَ وَرَمَّحَانَ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَاهُ
إِذَا تُثْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَةُ الرَّحْمٰنِ
حَزْرًا سَجْدًا وَبِكِيًّا ۝

بیمہ اسی سر سالم تم لوکھ یمن پیٹھ خداین
شبیو مغز انعام کورمت اوس۔ ہتھو نبیو
مغز بیم آدم ہندی اولاد اسی بیم بیم
لوکن ہندی اولاد اسی بیم اسہ نوحس سوتو
ناو مغز بچاوی تہ ابراہیم تہ یعقوب سوتو
(اولاد اسی) بیم اسی ہتھو (لوکو) مغز یمن اسہ
ہایت دیت تہ پستہ تھاطر شازری۔ نیلہ یمن
پیٹھ خدایہ رحمتہ سند کلام پر تہ یوان اوس تہ
تم اسی سجدہ کران تہ ودان ودان اسی
(زمینہ پیٹھ) پیوان۔

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا
الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوٰتِ فَسَوْفَ
يَلْقَوْنَ عَذَابًا ۝

اد پتہ آو یمن پتہ اکھ بیٹھ نسل یو نماز ضایع
کر تہ نفسانی تھابن منگر پتہ لہذا تم واتن
جلدہ تھرا ہی ہندس مقاس تمام۔

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صٰلِحًا
فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا
يُظَلَمُونَ شَيْئًا ۝

تس وراہی یس توہ کر تہ ایمان انہ تہ نیک
عمل کر۔ ہتھو (لوکھ) گزھن جنتس مغز اول
تہ یمن پیٹھ پیہ ہن کا شہہ ظلم کر تہ۔

جَنَّتِ عَذْرَاءُ الْبَتِّي وَعَدَّ الرَّحْمَنُ
عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ، إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ
مَأْتِيًا ﴿۱۷﴾

(یعنی بہن جنتن منفر) ہم ہمیشہ روزانہ واد
چھ تہ یمن ہند (خدا یہ) رحمان پسنہن بدن
سیتو (تختس وقتس منفر) وعدہ کورمت پچھ
ییلہ تم وونہ تہنزن نظرن ترہا پہ چھ یقینا
چھ خدایہ سند وعدہ پور سپدنتھ روزانہ۔

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَ
لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًا ﴿۱۸﴾

تم بوزن نہ بہن (جنتن) اندر کانہہ
بے مطلب کتھ بلکہ صرف سلامتی (بہنہ تہ
امنہ چھ کتھ بوزن) تہ بہن (جنتن) منفر
مییلہ بہن صبحن تہ شامن برزق۔

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا
مَنْ كَانَ تَقِيًا ﴿۱۹﴾

یہ چھ سہ جنت میمیک وارث اسی پسنہو
بندو منفر تم کروکھ ہم متقی آسن۔

وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ۚ لَهُ مَا بَيْنَ
أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ ۚ
وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿۲۰﴾

تہ (ملا کتھ وعن بہن ز) اسی تہ چھ صرف
تہندس رہہ ہند حکمہ وسان۔ تہ یہ کینترہا اسہ
برونٹھ کنہ چھ تہ یہ کینترہا اسہ پتہ کنہ چھ
تہ یہ کینترہا یمن دونہی (پاسن) منز باگ چھ
سورے کینہہ چھ خدایہ سند تہ تہند پروردگار
پچھتہ مشراون وول۔

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا
فَاعْبُدْهُ وَ اضْطَلِبْ لِعِبَادَتِهِ ۚ هَلْ
تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴿۲۱﴾

(سہ) چھ آسمان ہند (تہ) پروردگار تہ
زمینک تہ (پروردگار) تہ یہ کینترہا یمن
دونہی منز باگ چھ (میمیک تہ پروردگار)۔
لہذا (اے مسلمان!) تمکو سترے عبادت
کر تہ تہندے عبادتس پچھ روز ہمیشہ قائم
کیا تہ چھنا تمکو ہند ہو کہ صفت تھون وول
کانہہ زانان ہ

وَ يَقُولُ الْاِنْسَانُ ۗ اِذَا مَا مِثْلُ لَسُوْفٍ
اُخْرَجْ حَيًّا ﴿۲۲﴾

تہ انسان روز ہمیشہ یہ زمانہ نیلہ بہر
تہ پتہ پما بہ زندہ کر تھ تلمہ ؟

اَوْ لَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ
وَ لَمْ يَكْ شَيْئًا ﴿۲۳﴾

کیا انسان چھنا یہ دکھتا یاد ؟ نہ اسہ اوک
سہ امہ بروٹھ تہ یاد کورمت تہ سداوس
نہ (تمہ وز) کینہہ چہر تہ۔

فَوَرَبِّكَ لَنَخْشَرَنَّهٗمُ وَ الشَّيْطٰنِیْنَ ثُمَّ

لہذا چائس پروردگار سداوس (یعنی یس چون

لَنُخْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ حَمَمٍ جَنِّيًّا ۝۱

پروردگار چھ (مٹلوکھ) مٹلوکھ ہم لاکھ (بیہ آلہ لٹ) تہ
شیطان تہ (مٹلوکھ تہ) بیتہ کروکھ ہم ساری
جہنمیں اندر اندر تہ پٹھو پٹھو حاضر زہتم آس
کو ٹھین منکر زہنتہ بہنتہ
بیتہ کروکھ آس پر تہ آلہ لوکھ منکر تہ
لوکھ ہون ہم (خدا) رحمان ہندو سخت
دشمن آد۔

ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ
أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ۝۲

بیہ چھ آس ربی پٹھو زانان زہتمو منکر کس چھ
جہنمیں گرتہ حسس جاڈ لایز۔

ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ أَغْلَمَ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا
صِلِيًّا ۝۳

تہ توہر منکر چھ پر تہ شخص اس (جہنمیں) منکر
گرتہ من وول لہ۔ یہ چھ خدا پر سند تہ پٹھو پٹھو تہ
وعدہ بیس منور پٹھو سید تہ روز۔
اد متقی بجا وکھ آس تہ ظالم ترا وکھ تہ (جہنمیں)
منکر کو ٹھین پٹھو وکر من کر تہ۔

وَأَنَّ مَنكُم رَّا وَلَا وَاوَدُّ هَا ج كَانَ عَلَىٰ
رَبِّكَ حَثَمًا مَّفْضِيًّا ۝۴

ثُمَّ لَنُنَجِّيَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَ لَنَذَرُ
الظَّالِمِينَ فِيهَا جَنِّيًّا ۝۵

بیہ بیلیہ من سادی ٹاکا پر آپ پٹھو بوڑنا وہر
یوان چھ تہ کافر چھ مؤمن کن ونان۔ (وڈی
توسہ) اسہ دوہو فرقہ منکر کس فرقہ چھ
درجہ کر لحاظ بہتر تہ سبکو باجو ہند لحاظ
جاڈرت۔

وَإِذَا تُثْلِي عَلَيْهِمُ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ
الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ
الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَآخَسُن نَدِيًّا ۝۶

بیہ چھ اسہ بہت بروٹھ واریا من زمان ہند
لوکھ ہلاک کر کر تہ ہم سامان ہند لحاظ تہ
ظاہری شان تہ شوکتہ لحاظ ہمیں لوکن ہند
کھوتہ جاڈ ربی آس۔

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَوْمٍ هُمْ
أَخْسَنُ مِنَّا فَأَدْرَأِيًّا ۝۷

تہ وکھ، ایس شخص گمراہی منکر (پیوٹ)
آسہ۔ رحمان (خدا) چھ نتس اکس وفتس
تام ڈیکر تراوان گرتہ ان۔ پوٹ تام زہ بیلیہ
ہتھین لوکن بروٹھ کن سہ عذاب بیہ بیلیہ

قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ
الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا
يُوعَدُونَ إِنَّمَا الْعَذَابُ وَ إِنَّمَا السَّاعَةُ

لہ امر ایک چھ بیہ مطلب زہ پر تہ انسان گرتہ جہنمیں۔ بلکہ مؤمن چھ بیتہ دنی بیہیں
منکرے رنگہ رنگہ تکلیف و ہر ووان تہ کافر کن بیتہ چھ قیامتہ کہ دہک نار جہنم مقدر۔

فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ
جُنْدًا ۝۵۱

تمن سینو وعدہ کرنے آمنت اوس (یعنی یاد نیادی
عذاب یا تو میخ یوڑ یوڑ تباہی)۔ تمہ وقتہ
زائن تم زکس شخص سے جھ ملا تہ لحاظہ بدتر
تہ دوستن ہند لحاظہ کمزور۔

وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى دَرَجَاتٍ
الْبَلِيغَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ
ثَوَابًا وَخَيْرَ مَرَدًا ۝۵۲

پہلو لوگو ہدایت لو گبت چھ اللہ (تعالے) بڑا
تمن ہدایتس منز تہ پتھ کن روزن اول نیک
اعمال چھ خدا یہ ستر نظر منز سار وہے کھوتہ
مہتر چیز۔ جز کہہ حسابہ تہ، تہ انجامہ کہ
حسابہ تہ۔

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ
لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَلَا وُلْدًا ۝۵۳

کیا تہ سوچتہا زانہہ نس شخصس متعلق بیجو
سامن نشانن انکار کور تہ ووئن ز مینہ سیپ
بلا شک واریاہ مال تہ سدھا نیچورہ در تہ۔

أَطَّلَعَ الْغَيْبِ أَمَّا اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ
عَهْدًا ۝۵۴

کیا تمہ چھا غاب (یعنی غائب حال) معلوم کور تہ؟
یا رحمان (خدا ایس) چھنا کانہہ وعدہ ہو حمت؟
تیٹھ سپرنہ زانہہ۔ اسی تمہون تمہ ستر یہ کتھ
رثر ہر تہ تمہ سندر عذاب ز پھر اوون۔

كَلَّا، سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ
الْعَذَابِ مَدًّا ۝۵۵

تہ یتھ (چیزس) پہٹھ سہ فخر کران چھ تمکو
سپو اسی و ارب تہ سہ پیہ اسہ نش کنے زون۔
بیہ چھ تمہو لوگو اللہ (تعالے) ہس ورا لہ سٹھا
معبود بناوتھ تھ او کو ہوتہ۔ اتھ وہ میڈر پہٹھ ز
تمہ بن تمن ہند خاطر عزیز تک با عت۔

وَنَرِيئُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ۝۵۶

تیٹھ سپرنہ ہرگز! تمہ معبود کرن اگر وہ ہس
تہنشنن عبادتن انکار تہ تمن خلاف سپرن استا۔

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لِيَكُونُوا
لَهُمْ عِزًّا ۝۵۷

تہ پتھ نا معلوم ز اسہ چھ شیطان بیلمہ تراوتھ
تھا و کو ہوتہ؟ نہ تمہ رورن کافر ن ہس دوان۔

كَلَّا، سَيَكْفُرُونَ بِوَعَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ
عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۝۵۸

لہذا مہ تہ تمن خلاف و تا اولی سان کانہہ قدم۔
اسہ چھ تہنشنن تباہی ہند کہ وہ گنتر رتھ تھا و کور۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى
الْكُفْرِينَ تَوَدُّهُمْ أَجْرًا ۝۵۹

بیہ وہ اسی متقی زنبہ کور تھ رحمان (خدا یہ)
بندس دربارس منز سو نہر تھ ہنو کہ۔


فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعِدُّ لَهُمْ عَذَابًا ۝۶۰

يَوْمَ نَخْشِ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَنَدَّ ۝۶۱

وَأَسْأَلُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَرِدًا ﴿۵۷﴾ تہ مجرم، نموکہ کہہ دو ان جہنمیں کن۔
 لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿۵۸﴾ تمہ دوہرہ آسیر تہ کانسہ شفا تمک اختیار تہس
 ورا فی نیجو (خلایہ) رحمان سرتو عہدہ ہتہ
 تھومت آسیر
 وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ﴿۵۹﴾ بیہ چھہ یکم (لوکہ) ونان ز رحمان (خلایہ)
 چھہ نیجو بنومت۔
 لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ﴿۶۰﴾ (تہ ویکہ) توہر چھو اکھ سلہما سجت کتہ ونان۔
 تکیاد السموات يتفطرن منه و تنشق الأرض و اتخذ الجناء لهذا ﴿۶۱﴾ قریب چھہ ز تہنتر کتہ ستی پین آسمان چھہ
 گرتہ کتہ کسی تہ زمین گرتہ چھہ چھہ تہ بال
 پین لوکہ سور گرتہ کتہ (زمینہ پتہ)۔
 أَنْ دَعَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ﴿۶۲﴾ تہ کیا ز یکو لوکو چھہ رحمان (خلایہ) سند خاطر
 نیجو قرار دیتہ۔
 وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴿۶۳﴾ تہ رحمان (خلایہ) ہندس شانس چھہ بیہ خلاف
 ز سہ رٹ کانسہ نیجو بناوتہ۔
 إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴿۶۴﴾ تہ کیا ز پرتہ اکھ لیس آسمان تہ زمینہ منز چھہ
 سہ چھہ رحمان (خلایہ) ہندس دربارس منز غلامہ
 ہند خستہ حاضر سیدن وول۔
 لَقَدْ أَخْطَأْتُمُوعَدَهُمْ عَدًّا ﴿۶۵﴾ جن چھہ اخدین، عمیر تراوتہ تھومت۔ تہ تم
 چھہ گرتہ تراوتہ تھاؤر ہتہ۔
 وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا ﴿۶۶﴾ تم سیدن ساری تہندس خستس منز کنی کنی
 ز فی حاضر۔
 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ﴿۶۷﴾ بے شک تم لوکہ پو اپان اوتمت چھہ تہ یکو
 نیک عمل کرے مشر چھہ۔ رحمان (خلایہ) کر تہند
 خاطر وڈ پاؤر لہ

۱۔ وڈ چھہ عربی زبان ز منز تہ شہد پڑ محبتس ونان لیس کلک پا کھڑ دلس منز محاسبہ
 بیہ۔ امیر خاطر امیر آکر ہکن مختلف معنی سپدہ۔ ۲، اللہ تعالیٰ تراؤ موہن ہندین لہن
 منزین محبت۔ ۳، اللہ تعالیٰ کر موہن سرتو محبت۔ ۴، موہن ہندین دلن اندر سپر سارہ
 بنی نوع انسان ہند محبت۔ ۵، موہن ہندو اخلاق و چھتہ کرن ساری انسان امن (جاری)

فَأَنمَّا يَسْزَنُهُ يِلْسَانِكَ لِتُبَيِّرَ بِهِ
 الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّدَا ⑩
 لہذا اسے کوز یہ (قرآن) چاند زبانی منزه سہل بناؤتھ
 نازل میتھ نہ بیہ کر دوسو تہر دکھ متیقین بشارت
 تہ امر کہ دوسو کرہن تہ لڑایہ گوز قوم ہنبار۔
 بیہ ہنم ہر وقتھ گذرے ہنر کا تراہ جمانہ چھبہ
 یکہ اسے ہلاک کر۔ کیا تہ چھکا تھو منزه کا لہ
 ⑪ اُک سدر تینان یا تہ ہنر سوز آواز بولان ہ



سورہ طہ - یہ سورہ چھ نکلی تہ بسم اللہ ہتھ چہ اتھ اٹھ ہتھ تہ شینیرہ آہ بیہ چھس اٹھ رکوع۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①
 طہ ①
 مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ
 لِتَشْفَى ②
 إِلَّا تَذَكُّرًا لِّمَن يَخْشَى ③
 تَنزِيلًا لِّمَن خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ
 الْعُلٰی ④
 الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰی ⑤
 (ہر چھس) اللہ (تعالیٰ) سندر ناو ہتھ (پرآن)
 یس حد رؤس کرم کرن وول (تہ) پھیر ک پھیر ک
 رحم کرن وول چھ۔
 اسے کابل طاقتہ والہ مرد! لہ
 اسے کوز تہ (پہ) قرآن تہ پیٹھ او کو تہ نازل ز
 تہ بیکھ کلپنس منزه۔
 یہ تہ چھ صرت (خلیس) کھوزن ولس انسانہ
 ہند خاطر رہنمانی تہ ہایت (دو تہ خاطر)۔
 (قرآن) چھ تہ ہند طرفہ نازل کرتہ آمت
 نیو زمین تہ تھد آسمان پاد کرک ہتہ چھ۔
 (سہ چھ) رحمن (خدا یس) عرشس پٹھ پاد

بقیہ حاشیہ:- سستی محبت اچھ سبھا مثال چھ تہ تاریخ اسلام منزه موجود۔ شامک علاقہ فتح کرتہ پتہ بینیلہ
 مسلمان سہ علاقہ دشمن ہندو باو موکھ خالی کرن پووتہ مسلمانو کرک عیسائی تہ یہودی عین ہندو
 ساری ٹیکس ہن ولس۔ الفائلک میتھ سلوک وچھتھ گئے تم لوکھ حاران تہ وود وود کرک تھو
 خدا تعالیٰ ہس دعا نہ بیجو نیک دل حکمران کرتھ وول وول واپس یز۔

(فتوح البلدان بلاذری ص ۱۲۷)

لہ طہ چھ حروف مقطعات تو منزه امیک معنی چھ عربی زبانی منزه اسے مرد! یعنی میتھ
 مرد نہیں منزه ساری مواظہ صفات آسن یعنی شجاعت سخاوت تہ بلند اخلاق قھول وول انسان۔

پاکو قائم پیدرت چھ -
 تمہ سنکے چھ تہ کیشرہا پہ آسمان تہ زمیہ منز
 تہ پین دونوی درمین چھ بیہ تبتہ پہ سہراچہ
 مینتر تل چھ -

ہرگاہ تہ زور سان تہ کتہ کرکھ (تہ امہ سستی پینہ
 تہ کانہہ فرقی) تکیانہ سہ چھ سرتہ زانان تہ
 یوسہ کتہ سہر کھوتہ جاو پوشتہ آسہ (سوتہ چھ
 زانان) -

اللہ (تعالیٰ چھ سموات لیس) ورانی کانہہ
 معبود چھنہ (تہ) تس چھ واریاہ برتی صفت -

تہ (امہ کس نبوتس منز بھی اکر وان زہ) کیا تریا نش
 چھاموسی منز (تسند واقعہ) چھ خبر واژ مشر (کینہہ)؟
 دینے) بیلہ تمہ اکھ نارو چھ تہ تمہ وون پینہ
 گرکین (تہ تمہ جاہ) روزو قرارس۔ مینہ پتھ
 اکھ نارو چھمت۔ تمکین چھ بہ اہ توت گرتہ ہتھ
 تمہ نار منز توہ بہ کتہ تہ کانہہ تہ نگلاہ یا کر
 نارس پیٹھ (پسنہ خاطر کانہہ روحانی) ہریت
 حاصل -

اد بیلہ سہ تہتہ (نارس) نش ووت تہ تس او
 آلودہ ز اے موسیٰ!

بہ چھس چون پروردگار۔ لہذا تہ کر پسنہ
 دونوے نالانہ کھور نمبر۔ تکیانہ تہ چھکھ طوی
 چھ پک وادی منز۔

بیہ چھکھ مینہ تہ (پسنہ خاطر) تہ ورمت لہذا
 تہ کن یوسہ موسیٰ کرنہ یوان چھیدہ سہ بوز تہ وارہ
 پاٹھ (تہ تہ پیٹھ کرمل)۔

بے شک بہ چھس اللہ۔ مینہ ورانی چھتہ کانہہ
 معبود۔ لہذا تہ کر میانی عبادت تہ میانہ فر کر
 باپتھ کر نماز قائم۔

قیامت چھیدہ بے شک پتہ واجو بہ مارن سو (جلد)

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَمَا
 بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى ①

وَ اِنْ تَجَهَّزْ بِاَلْقَوْلِ فَاِنَّهُ يَعْلَمُ
 السِّرَّ وَ اَخْفٰى ②

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْاَسْمَاءُ
 الْحُسْنٰى ③

وَ هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ مُوسٰى ④

اِذْ رَا نَارًا فَقَالَ لِاَهْلِيْهِ امْكُثُوْا اِنِّىْ
 اَنْتُمْ نَارُ الْعٰلَمِيْنَ اَتَيْكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ
 اَوْ اِجْدَعَلِ النَّارِ هُدًى ⑤

فَلَمَّا اَنْتَهٰ نُودِيَ بِمُوسٰى ⑥

اِنِّىْ اَنَا رَبُّكَ فَاحْلَمْ نَحْلَمِيْكَ ۚ اِنَّكَ
 بِالنُّوٰدِ الْمُقَدَّرِيْنَ طُوٰى ⑦

وَ اَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحٰى ⑧

اِنِّىْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِىْ ۚ
 اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ ⑨

اِنَّ السَّاعَةَ اَتِيَةٌ اَكَادُ اُخْفِيْهَا لِتُجْزٰى

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى ①

ظاہر تھی کہ ہر شخص اپنے نفس سے تہ بند لو اعمالو

فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا
وَأَتَّبَعَهُ هَوَاهُ فَتَزْدَى ②

مطابق بدلہ دینے
لہذا ایسے (شخص) قیامت میں پٹھ اپمان چھینے
تھوان تہ پسنین تہا پسنین پتہ پتہ چھ پکان پتہ
سہ قیامت میں پٹھ اپمان اتہ پسنین تہا پتہ پتہ رتی۔
تیمہ کہو تہ ہلاک سپیکھ۔

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يُمُوسَى ③

تہ (اسے) وہاں موسیٰ ہس تمہ وقتہ تہ (اے موسیٰ)!

قَالَ هِيَ عَصَايَ جِ اتَوَكَّلْتُ عَلَيْهَا وَآهْتُمْ
بِهَا عَلَىٰ غَنَوِي وَوَلِي فِيهَا مَا رِبَ أُخْرَى ④

یہ کیا چھ چائس دھچس اتھس منز ؟
(تمہ وہاں) یہ چھ میون عاصہ ہر چھس یہ دکھران
بہ چھس اسہ سوتی پسنین تہرن کیت (کھن)
پن چھانان تہ اسہ علاو تہ چھ اتھ منز میانہ
خاطر بہ کہو یا فایہ پلوشپہ۔

قَالَ أَلْقَهَا يُمُوسَى ⑤

اتھ پیٹھ فرموو تمہ (خدا میں) اے موسیٰ! یہ
عاصہ دن پتھر دارنہ۔

قَالَفَهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ⑥

اے تمہو دیت سہ عاصہ پتھر دارتھ تہ وچھان وچھان
بسیووسہ اکھ سرف یس دوران اوس۔

قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ نَدَّ سَنُعِيدُهَا
سِيْرَتَهَا الْأُولَى ⑦

اتھ پیٹھ فرموس (اللہ تعالیٰ ہن) یہ رتن تہ
کھوتہ مہ۔ اسی دنون پہ بہ پسنہ اصل حالتہ کن
والیس۔

وَأَضْمُ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ
بَيْنَآءَ مَنْ غَيْرِ سَوْءٍ آيَةً أُخْرَى ⑧

بہہ و باؤن پن اتھ کرتھس تل۔ بیلہ تہ پہ
نہر کڈھن تہ سہ اسہ سفید مگر کتہ داو وراہہ۔
یہ آسی بیاکھ اکھ نشاہہ۔

لِنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى ⑨

(تہ) اسی کرو بہ او کہو) تہ تہ نہ امہ کس پہچس
منز اسی تہ بڑی بڑی نشاہہ باو دے۔
تہ گتھ فرعونس کن تہ کیا ز تمہ چھ سہ کنی
انتہار کڑمتر۔

إِذْ هَبَّ رِيْحًا فَذَعَّوْنًا لَّئِن لَّا طَعَى ⑩

(اے پٹھ) وہاں (موسیٰ ہن) میانہ پرور وکارہ!
میون سپتہ مٹھ راو ؟

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ⑪

وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴿۲۱﴾

تہ میں فرعون میں پیٹھ تراویہ امت چھ سہ پلوہ
کرن کر میاں با پتھ سہل۔

وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ﴿۲۲﴾

تہ اگر میاں زبیر کا نہہ گند آسہ تہ سہ تہ مشرلوہ
یوت نہ لوکن تر میاں کتھ نکر۔

يُفْقَهُ أَقْوَابِي ﴿۲۳﴾

تہ میاں ہو پشنہو گر کہو منز کرن اکھ میون مددگار مقرر۔

وَاجْعَلْ لِّي ذُرِّيَةً مِّنْ أَهْلِي ﴿۲۴﴾

(یعنی) مارون میں میون بوے پتھ۔

هٰذُونَ آخِي ﴿۲۵﴾

تھو ہند ذریعہ کر میون طاقت مضبوط۔

اشْدُدْ بِهَا أَزْرِي ﴿۲۶﴾

تہ سہ کرن میاں کامہ مشر شریک۔

وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ﴿۲۷﴾

یٹھ زن اسی (دونوں) جاو جاو چاڑ تہج کرو۔

كَيْ نُسَيِّدَكَ كَثِيرًا ﴿۲۸﴾

تہ جاو جاو کرو چوں ذکر۔

وَتَذْكُرَكَ كَثِيرًا ﴿۲۹﴾

تہ چکھ اسہ جان پا تھو وچھان۔

إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ﴿۳۰﴾

فرمولس (اللہ تعالیٰ ہن) اے نموی! یہ تریہ
مؤنکت تریہ آوے تہ درہ۔

قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى ﴿۳۱﴾

تہ اسہ پتھ (امہ بروٹھ) اکھ لٹہ بیہ تہ تریہ پیٹھ
احسان کورمت۔

وَلَقَدْ مَنَّآ عَلَىٰكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ﴿۳۲﴾

بیلیہ اسہ چاڑ ماہر پیٹھ وحید ہند ذریعہ تہ
سوڑے کیٹہ تا زل کور یہ (تہتس موقس پیٹھ)

إِذَا وَحِينَا إِلَىٰ أُمَّكَ مَا يُؤْتِي ﴿۳۳﴾

تا زل کرن ضروری اوس۔

أَنِ اقْبِرْ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْبِرْ فِيهِ

(تمہیک تفسیل پتھ یہ) نہ یہ (موسیٰ) تھاون
مندوقس منز پتہ تراون یہ مندوق دریاوس منز

فِي الْيَمِّ فَلْيُلْهِمِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ

(امہ پتہ سپدن یہ نہ) دریاو واتناون سائہ حکمو
تھ (مندوقس) بیٹس تام (بیٹہ نہ) اتھ نہہ

يَأْخُذُهَا عَدُوِّي وَعَدُوُّ لَهَا وَآلَقِيَتْ

سہ شخصیں میں میون تہ تھو سند (یعنی نموی مند)
تہ دشمن چھ تہ تریہ پیٹھ کور میں پس نہ طرفہ

عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّمِّي ۚ وَكَتُضَعَّ عَلٰٓى

محبت تا زل (یعنی چاڑ خاطر کورم لوکن ہندہن
دہن منز محبت پاؤ) تمہیک تہجہ سپد یہ نہ تہ

عَيْنِي ﴿۳۴﴾

اکھ سائہن اچھن تل رچھتہ۔
(یہ سپد تہر وقتہ) بیلیہ چاڑ بیٹہ (بیٹس سوڑ)

إِذْ تَمْشِي أُنْحَثَ فَنَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ

سوڑا پکان مرٹھان اُس تہ وان اُس نہ لوکوا

عَلَىٰ مَن يَّكْفُلُهُ، فَرَجَّحْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ

کیا ہو، ولو وا توہر تمس زنا نہ بند پیتے یوسہ
 بیس رچہ؟ تہ میتہ کنی واتوؤکھ اسہ پھہر تہ
 تہ پسنہ ماجر نش۔ میتہ لکن نش اچھ شہلہن
 تہ سہ بر نہ نم۔ تہ (اے موسیٰ) تریہ اوستھ
 اکھ شخص قتل کورٹ۔ پیتہ دیتے تریہ اسہ تمہ
 عمہ نش نجات تہ تہ آز مووکھ اسہ بر تہ پاٹھ
 وار یاہن امتحان مشنہ تراوتھ (بیمہ پستہ)
 کسٹین ڈرین روؤکھ تہ مدین کین لوکن
 مشن۔ اے موسیٰ! پستہ (واتاں واتاں) ووتکھ
 تہ تہ عمر یوسہ ساہ کامہ لایق آسان چہنہ
 تہ میہ کوؤکھ تہ پسنہ زاہہ خاطر (روحانی تریہ
 دوان دوان) تیار۔

(اوپر نیلہ تہ تہ عمر ووتکھ تہ میہ وونے تریہ زہن)
 تہ تہ چن بوے گڑھو میاں نشا نہ ہتہ تہ میون
 ڈکر کرن مشنہ مہ کڑو کا نہ لاپرواہی۔
 توہی دو نوے گڑھو فرعونس نش تہ کیا تہ تہ
 چہ نافرمانی پراوتھ تھا ویش۔

تہ توہی دو نوے کڑی زلو تس سبتی نرم تہ مودر
 کتہ۔ دلو تس فکر تہ یا سہ ہیسہ اسہ کھوژن۔
 دو نوے وہے کورس عرض۔ اے ساہ پروردگار
 اسی چھ کھوژن زہینہ (سہ) اسہ پیٹھ زیادتی کر
 یا ہینہ سہ اسہ پیٹھ جد گڑھتہ سختی کر۔

فرمودیکھ (اللہ تعالیٰ ہن) توہی دو نوے مہ
 کھوڑو بالکل۔ بہ چھسو توہہ سبتی۔ بوزان چھس
 (تمہندی دعا تہ) تہ وچھان چھس (تمہنہ حالت تہ)۔
 لہذا دو نوے گڑھو تس نش تہ تس ڈلو اوس
 دو نوے چھ چانس پروردگار ہندی رسول۔ لہذا
 بنی اسرائیل سوؤکھ اسہ سبتی تہ تمہن مہ ہر
 تکلیف۔ اسی چھ چانس پروردگار سہنہ طرفہ
 تریہ نش اکھ بوڈ نشا نہ ہتہ آہمی تہ (تریہ پھی

تَفَرَّعَيْنَهَا وَلَا تَخْزَنَ ۚ وَ قَتَلْتَ نَفْسًا
 فَجَئِمْنَكَ مِنَ الْعَمَىٰ وَ قَتَلْتَ قَتْلًا
 فَلَيْسَتْ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ۚ ثُمَّ
 جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يُّمُوسَىٰ ﴿۱۶﴾

وَأَضْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴿۱۶﴾

إِذْ هَبَّ آتُكَ وَ أَخُوكَ بِأَيْتِي وَ لَا تَنبِيَا
 فِي ذِكْرِي ﴿۱۷﴾

إِذْ هَبَّا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿۱۸﴾

فَقُوَّالَهُ قَوْلًا لِّئِنَّا لَعَلَّهُ بَيِّنًا مَّكْرًا
 يُخَشِي ﴿۱۹﴾

فَالَا رَبَّنَا إِنَّكَ نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ
 عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَىٰ ﴿۲۰﴾

قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمِعُ
 أَنْ يُبَيِّنَ لَكُمْ آيَاتِي ۚ وَ يَتَذَكَّرُ لَكُمْ
 إِنْ كُنْتُمْ قَوْمًا عَاذِلِينَ ﴿۲۱﴾

فَأْتِيَهُ فَقَوْلًا إِنَّكَ رَيْبٌ قَدْ رِيَبٌ
 مَعَنَا بَيْنِي إِسْرَاءَ نِيلَ ۚ وَ لَا تُعَذِّبُهُمْ
 قَدْ جِئْتَنَا بِآيَةٍ وَ نَدَّيْنَاكَ وَ السَّلَامُ
 عَلَيَّ مِنَ اتَّبَعَةِ الْهُدَىٰ ﴿۲۲﴾

وان نزل (یس) شخصیں سائیس اُنی مہر (تس)
ہاٹیس پتہ پکیر۔ تس پیٹھ سپر (خدا یہ سبند
طریقہ) سلاہتی نازل۔

اسر پیٹھ چھیہیہ وحی نازل کرنہ آمہتر تریس اکھ
تہ (خدا یہ سنہ نشانہ) اپزاو تہ تھمر پھرتس
پیٹھ سپر عذاب نازل۔

(اتھ پیٹھ) وطن نکھ (فرعون) اے موسیٰ!
توہر دوہونی ہند پروردگار کس پتھ؟

(موسیٰ بن) وون نس۔ سون پروردگار چھ سہ
نیو پر تہ چیسرس (تہ کہ ضرور تہ مطابق) تان
عطا کرک ہتی چھ تہ پتہ چھن یمن (تان)
کام ہنک طریقہ تہ پتہ چھنوت۔

(فرعون) وون نکھ (اگر یہ کتھ چھیہ) تہ برؤٹو
ہن لوکن ہند حال کیا اوس؟ (یعنی تہ تہ اسی تہ
یہ کتھ مانان بہن سہو کیا سلوک سپر؟)

(موسیٰ بن) وونس بہن (برؤٹو ہن لوکن) ہند
تہ چھ میانس پروردگار (تہن سارہنہ
ہندک حالات چھ تہ تہ سنہر) کتابہ منفر رتھ تہ
میون پروردگار نہ چھ و تہ ڈلان تہ نہ چھ تس
مشیتہ گرتھان۔

(سے چھ) نیو تہ ہند خاطر بہ زمین فرشتہ کس
سورس منفر بناوہتر چھیہ تہ اتھ منفر چھن تہ ہند
باچہ و تہ تہ کھرتہ تہ آسانہ پیٹھ چھن آب
نازل کورنت او چھ اسر تہ آب کہ ذلیعہ
نیون۔ نیون قسم کہن و و پدن پون ہندک جوہر
پاؤ کرک ہتہ۔

(لہذا) توہی تہ کھنہو تہ پنہو چارواہی تہ کھیا ولوکہ۔
اتھ منفر چھ عقلہ والہن لوکن ہند خاطر واریاہ نشانہ۔

اسر چھو توہی اسی (زمینہ) منفر پاؤ کرک ہتی تہ
اتھ منفر انوہ توہی واپس پھرتھ تہ اسی منفر

إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ
كَذَّبَ وَتَوَلَّى ۝

قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمْ يَا مُوسَىٰ ۝

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ
ثُمَّ هَدَىٰ ۝

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ ۝

قَالَ عَلِمْنَا عِنْدَ رَبِّهِ فِي كِتَابٍ لَّا يَضِلُّ
رَبِّهِ وَلَا يَنْسَىٰ ۝

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَوَّغَ
لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن تَبَابِتِ
شَتَّىٰ ۝

كَلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
لَآيَاتٍ لِّأُولِي النَّهْيِ ۝

وَمِنهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُحْيِدُكُمْ وَمِنْهَا
نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ۝

- کڑو و توہی دوہیر لٹ۔
 بیہ ہاوی اسہ تس (یعنی فرعونس) پینو پیرتہ
 قہیکر نشانہ مگر سہ رُود (رتو باوجود) اپڑاوس
 پیٹھ ڈرٹتہ تہ انکار گود کران۔
- ۴۸) اَبٰی ۴۸
 وَقَدْ اَرٰیئِنۡہٗ اٰیٰتِنَا کُلَّہَا فَکَذَّبَ وَ
 قَالَ اٰجِئْتِنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا
 بِسِحْرِکَ یٰمُوسٰی ۴۸
- بیہ ہوتن و تن (اے موسیٰ!) تہ پھکا اہ
 موکہ اسہ بش آمت؟ یٹتہ نہ پشنو میچھو کھتھو
 ہند زلیہ کرکھ اسہ سانہ ملکہ منتر۔
 (اگر یہ کتھ چھینے) تیلہ الو اسی تہ چارہ مقابلہ
 تیتھہ جود۔ لہذا اسہ درمیان تہ پانس درمیان
 کر اکھ (وقت تہ) وعدہ دین آمت مقام کھہر
 نہ پھیر و اسی تمہ بش پوت نہ پھیرکھ تہ پوت۔
 سو اسن (اکھ ترشہ) جائے (لیوسہ) توہہر تہ
 اسہ درمیان برابر (اسہ)۔
- ۴۹) اَتَمَّ پِیۡطَ (وونکھ (موسیٰ ہن) نہ تہند (تہ سون)
 یکوٹ سپدنک دودہ اسن (تہند) بوڈ دودہ۔ تہ
 نیز کھنڈ آفتاب کھتھہ بین ساری لوکھ سونہر تہ۔
 اتھ پیٹھ گود فرعون تھر پھرتھہ تہ بیم تدبیر
 تس بش ممکن سپدنکہ ہیکر ہن۔ تم کرن
 دستیاب۔ تہ پتہ آو (موسیٰ ہس کن)۔
 اہ موسیٰ ہن وون (ہن کن) اے لوکو! ہلاکت
 اہن توہہر پیٹھ۔ اللہ (تعالیٰ) ہس منہ نووڑاوو
 اپڑ۔ یٹتہ نہ تہ سپدنکہ فی و توہہر عذابہ سستی
 پیتھہ۔ تہ یس کانشا (خالیس پیٹھ) اپڑ لاگتہ
 تھوان ٹھہ سہ چھہ ناکام سپدن۔
 یہ بوڑتھ لگی (فرعون تہ تمہ سندی سوت باجر) پانہ
 واڈ شوہر بیہ لگی شوہر تدبیر کرتہ۔
- ۵۰) قَالۡ لَہُمۡ مُّوسٰی وَاٰیٰتِکُمۡ لَا تَفۡتَرُوۡا عَلٰی
 اللّٰہِ کِذۡبًا فِیۡسُحِّرَکُمۡ بِعَذَابِہٖ ۵۰
 فَتَوَلّٰی فِرْعَوۡنُ فِجَمَعِ کَیۡدَہٗ ثُمَّ اٰتٰی ۵۰
- قال لہم موسیٰ وایاتکم لا تفتروا علی
 اللہ کذباً فیسحرتکم بعذابہ
 فتولّٰ فرعون فجمع کیدہ ثم آتٰ
- ۵۱) قَالۡ لَہُمۡ مُّوسٰی وَاٰیٰتِکُمۡ لَا تَفۡتَرُوۡا عَلٰی
 اللّٰہِ کِذۡبًا فِیۡسُحِّرَکُمۡ بِعَذَابِہٖ ۵۱
 فَتَوَلّٰی فِرْعَوۡنُ فِجَمَعِ کَیۡدَہٗ ثُمَّ اٰتٰی ۵۱
- قال لہم موسیٰ وایاتکم لا تفتروا علی
 اللہ کذباً فیسحرتکم بعذابہ
 فتولّٰ فرعون فجمع کیدہ ثم آتٰ
- ۵۲) قَالۡ لَہُمۡ مُّوسٰی وَاٰیٰتِکُمۡ لَا تَفۡتَرُوۡا عَلٰی
 اللّٰہِ کِذۡبًا فِیۡسُحِّرَکُمۡ بِعَذَابِہٖ ۵۲
 فَتَوَلّٰی فِرْعَوۡنُ فِجَمَعِ کَیۡدَہٗ ثُمَّ اٰتٰی ۵۲
- قال لہم موسیٰ وایاتکم لا تفتروا علی
 اللہ کذباً فیسحرتکم بعذابہ
 فتولّٰ فرعون فجمع کیدہ ثم آتٰ
- ۵۳) قَالۡ لَہُمۡ مُّوسٰی وَاٰیٰتِکُمۡ لَا تَفۡتَرُوۡا عَلٰی
 اللّٰہِ کِذۡبًا فِیۡسُحِّرَکُمۡ بِعَذَابِہٖ ۵۳
 فَتَوَلّٰی فِرْعَوۡنُ فِجَمَعِ کَیۡدَہٗ ثُمَّ اٰتٰی ۵۳
- قال لہم موسیٰ وایاتکم لا تفتروا علی
 اللہ کذباً فیسحرتکم بعذابہ
 فتولّٰ فرعون فجمع کیدہ ثم آتٰ

لہذا پتہ و توہر تہ نہ توہی تہ سوچو پتی تدبیر
پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ
تہ از یس (شخص) سرس روزے آس کامیاب۔
(اتھ پیٹھ) وونکھ (تو کو پیم موسیٰ ہس مقابلہ
کرنہ خاطر فرعون سمبر آوی متی آسی) ز اے
موسیٰ! یا تہ تراو تہ (یعنی ظاہر کرین تدبیر)
نتہ (ونکھ تہ تیل) تراو آس تہ بروٹھ۔

(او) وون نکھ (موسیٰ ہن۔ رت گوئیہ) نہ توہی
تراو (یعنی پتہ تدبیر کرو ظاہر) بہر حل
(تو یس تدبیر کور) تہ کس تہ پتہ مشر آ پتہ
تہ پتہ تہ تہ پتہ تہ تہ پتہ تہ تہ پتہ تہ تہ
فریبہ کئی) تہ تہ تہ تہ تہ تہ تہ تہ تہ تہ
تہ موسیٰ کھوڑا اندر رہی گئی۔

(او) اسر کڑوسی (اے موسیٰ!) مہ کھوڑا کیاز
تہ رے روزکھ سرس۔

تہ یہ کینرھا پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ
تراو پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ
بنوومت پتہ (یعنی تمیک اول وانگن کڈنوں)
تہ یہ کینرھا بنوومت پتہ پتہ تہ پتہ تہ
بانگ ہنداکھ تہ تہ تہ تہ تہ تہ تہ تہ
پتہ (خدا ہس مقابلہ) ہنیکہ نہ کامیاب پتہ تہ۔

(او) تیل موسیٰ ہند عاصہ تراو پتہ پتہ فرعونہ ہند
اُنی متی) چالباز (پتہ گزوری نشہ آگاہ گئے تہ
تم) آہ (پتہ ضمیر حج آواز سدی) سجدس
وانہ تہ تہ تہ تہ تہ تہ تہ تہ تہ تہ
ہندس پروردگارس پتہ پتہ ایمان انان۔

(اتھ پیٹھ) وون نکھ (فرعون) کیا توہی چھو میانہ
حکمہ بروٹھ آس پتہ ایمان انان (معلوم پتہ
ز) مہ پتہ ہند سرور تہ تہ توہر تہ ہند ہند
پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ

فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفَا
وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اشْتَعَلَ ۝

قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّمَا أَن تُلْقِي ذَرَامًا
تَكُونُ أَوَّلَ مَنَ الْقَى ۝

قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِجَابُ لُهُمْ وَعَصِيهِمْ
يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِ هُم أَنَّهَُا
تَشَى ۝

فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَى ۝
فَلَمَّا لَا تَخِفَ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى ۝

وَأَلْقَى مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفَ مَا صَنَعُوا
إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاجِدٍ وَ لَا يُنَلِّجُ
السَّحْرُ حَيْثُ أَتَى ۝

فَأَلْقَى السَّحْرَةَ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ
هَؤُلَاءِ وَ مُوسَى ۝

قَالَ أَمْنَعُمُ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْنَ لَكُمْ إِنَّهُ
لَكَيْدِكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السَّحْرَ
فَلَا قِطْعَنَ آبِدِيكُمْ وَ أَرْجَلَكُم مِّن
خِلَافٍ وَ لَا وَصَلَتَكُمْ فِي جُدُودٍ

ترپ بر تہندک اتھ تر کھور (پستہ) خلاف
ورزی ہند با عشہ - بیہ و موو (بر توہر) کھنر
کلی گوڈن سستی گنہر تھ صلیب - تر توہر سپر
و معلوم تر اسہ منتر کس چھ جاو سخت تر تر کمال
روزون غلاب و تھ ہیکان -

تو ایسے فرعون ہندو بر تھو ہو سستی باجو یا
ہادوگرو وون (اتھ پیٹھ) اسی ہیکوے تر تر
تمن نشان پیٹھ بر شری و تھ یکم (خدا یہ ہند
طرف) اسہ نش آہتی چھ تر نہ تس (خدا اس)
پیٹھ بیتر اسی پاو کرک - لہذا یہ زور تر لائن
چھ تر لاگ، تر ہیکہ صرت بیتر دوسیا پنج
زندگی ختم کر تھ -

اسہ چھ (وول) پنسن پروردگار سپٹھ ایمان
اؤمنت بیٹہ تر سہ سانی گناہ معاف کر تر یہ
ووکھ بازی (ہند مقابلہ) تر کر معاف بیٹہ
خاطر تر اسی مجبور کرنا بیٹہ تر اللہ (تعالیٰ)
چھ ساروے کھو تر بہتر تر ساروے کھو تر
جاو مقابم روزن وول -

حقیقت چھینہ پر تر یس کا نہہ شخص پنسن
پروردگار نش مجرم ہند ششائس منتر جاہر
سپان چھ تس چھ بے شک جہنم میلان - نہ
چھ سہ تھ منتر مران (تر) نہ چھ زندر روزان
بیہ یس شخص تس (خدا اس) نش مؤمن آسہ
کس حالتس منتر پیہ بیلہ زن سہ سو سستی
مقاسب حال عمل تر کران آسہ - تر بیٹھ پر تھ اکھ
شخص لبہ تھ درجہ -

اتم درجہ آسن (ہمیشہ روزن اولی باغ یمن
منتر کو لہ پکان آسن اتھ) اتم گرہن متن اندر
روزان تر یہ چھ تھ (یعنی تس شخص سندا)
مقاسب بلہ یس شوژر پرلوان چھ -

التَّخْلِيلُ ذُو لَتَعْلَمَنَّ اَيُّنَا اَشَدُّ عَذَابًا
آبَقِي ⑤

قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَكَ عَلٰی مَا جَاءَنَا مِنَ
الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا
اَنْتَ قَاضٍ ؕ اِنَّمَا تَقْضِي هٰذِهِ
الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ⑥

اِنَّا اٰمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطِيئَاتِنَا وَ
مَا اَلَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ؕ وَاللّٰهُ
خَبِيْرٌ اَبْقٰ ⑦

اِنَّهُ مَن يَّاتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهُ
جَهَنَّمَ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ⑧

وَ مَن يَّاتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحٰتِ
فَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى ⑨

جَعَلْتُ عَذٰبَ نَّجْرِي مِّنْ تَحْتِهَا اِلَّا نَهْرُ
خُلْدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَ ذٰلِكَ جَزَاؤُا مَن
تَرَضٰى ⑩

بہ کرنا یہ اسے موسیٰ ہنس موی زمیڈ بسندہ
(یعنی پندرہ تو ہر گز) نکھ رات کیت انہ گز مفر
گڈتھ پتہ ہاوتن سمندر منفر اکھ وتھ یوہ
ہو چھ آسہ - نہ روزی ثریہ بیم ز کاتھہ (شخص)
رٹی پتہ کئی بیتھ تہ نہ کھوتر کھ تہ (سمندر)
تباہی نش - اتھ پتھ گوو موسیٰ پین قوم بیتھ
سمندر کن -

تہ فرعون دلاہ پتہ لشکر بیتھ ہتھ پتہ پتہ تہ
سمندر وول سہ تہ تہ ہندر سوتی باجر پلور
پور پردس تل -

تہ فرعون کور پین قوم گمراہ تہ ہدایت گ
طریقہ ہونکھ تہ -

اے بنی اسرائیل! اسے چھو تو بہ تہنہ
دشمنش بش نجات دیت مت بیم بیتھ
اسے تو بہ سوتی تہ پتہ طور کر ڈچھنہ
طرفہ اکھ (دو طرفہ) وعہ
کورمت - بیم کرنا یہ اسے تو بہ پتھ من تہ
سلوئی نازل - (بیتھ تہنہ با پتھ خوراک
دستیاب گرتھ) -

(بیم ونیاو و نر) یہ کینرھا اسے تو بہ دتیمت
چھو تہ منر کھنیو پاک چینہ - تہ اتھ (برزقہ)
رکس معاملس منر گرتھ تہ ظلمس کام، نیز
بیتھ تہ تہ سپد نہ تو بہ پتھ سپد میون غنہ
نازل - تہ یس پتھ میون غنہ نازل سپلن چھ
سہ چھ (تھنر پتھ) وسی پوان -

تہ یس شخص تو بہ کر تہ ایمان اتہ پتہ کر

وَلَقَدْ اَوْحَيْنَا اِلٰى مُوسٰى اَنْ اَسْرِ
بِعِبَادِيْ فَاصْرَبْ لَهُمْ طَرِيْقًا فِى
الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَفُ دَرَكًا وَّ
لَا تُخَشٰى ۝

فَاتَّبَعَهُمْ فِى زَعُوْنٍ وَّجَنُوْدٍ ۙ فَعَشِيْمُهُمْ
مِنَ الْيَمِّ مَاعَشِيْمُهُمْ ۝

وَاَضَلَّ فِى زَعُوْنٍ قَوْمَهُ وَّمَا هٰذٰى ۝

يُبَيِّنِ اِسْرَآءِىْلَ قَدْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّن
عَدُوِّكُمْ وَاَعَدَلَكُمْ جَانِبَ الطُّوْرِ
الْاَيْمَنِ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّٰ وَاَلْسَلٰوٰى ۝

كُلُوْا مِمَّن طَيَّبَلْتُمْ اَمَا رَزَقْنٰكُمْ وَاَلَا تَطْغَوْا
فِيْهِ فَيَحْبِلْ عَلَيْكُمْ غَضَبِيْ ۙ وَاَمَّنْ يَّحْبِلْ
عَلَيْهِ غَضَبِيْ فَقَدْ هَوٰى ۝

وَاِنَّ لَظَنَاقًا لِّمَن تَابَ وَاَمَّنْ وَاَعْمَلْ

لہ یہ وعداوس دو طرفہ یعنی خدا تعالیٰ ہن کوز وعہ نہ اگر بنی اسرائیل توراہ کین ممکن
پتھ عمل کرن تہ خدا تعالیٰ دہہ تمن برکت - مگر بنی اسرائیل پتھ روویہ وعہ لہذا اللہ تعالیٰ سپد
تمن ناراض - لہ اگر تمہک مؤذر شریر کاویتھ ترنجہن ونن چھ - لہ باٹر

صَالِحًا تَهْتَدَى ۴۳

مناسب حل عمل (تہ) تہ ہدایت لہ تہ بہ
چھس تہ ہند (بڑ کھو تہ ہڈی گنہ معاف
کران۔

وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمُوسَى ۴۴

بیہ (وون اسہ) اے موسیٰ! تہ کیا زہچکھ
پین قوم تراوتھ وٹھ وٹھ آمت؟

قَالَ هُمْ أَوْلَاءُ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ

دوپن ایسے موسیٰ ہن جو اس مشر (نہ تم لاکھ)
چھ میہ پتہ پتہ پیکان تہ اے میا تہ پروردگار!

رَبِّ لَتَرْضَىٰ ۴۵

بہ چھس او موکھ تہ نش وٹھ آمت تہ
ر تہ (میائس تہ کارس پیٹھ) خوش گڑھکھ

قَالَ فَإِنَّا كَذَبْنَا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ

(اتھ پیٹھ) وون لس (خدا ہن) اسہ چھ تہ
پتہ چون قوم اکس آزما تہ مغز تروومت تہ

وَأَصَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ۴۶

سامرین چھ تم گراہ کر تہ
اتھ پیٹھ پھیور موسیٰ پینس قومس کن تہ

فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ

بوزت تہ دل لول (تہ پینس قومس) وون
اے میا تہ قوم! تو بہ سہتو اوس ناہ تہند

أَسْفَاهًا قَالَ يُقْوِمُ الْكَلِمَةَ لِيَذُكَّ

پروردگارن اکھ جان وعدہ کورمت؟ کیا تہ
پور سپنس مشر اوسا کپتہ تہر گومت؟ کہ تہ

رَبُّكُمْ وَعَدًّا حَسَنًا ۚ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ

تہ سہ پتھان تہ تو بہ پیٹھ سپن تہند
پروردگار ہند طرفہ کا نہ غضب نازل تہ اوس

الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ

گوروا تو بہ میائس وعدس ادلہ بدل؟
تہو وونس اسہ کور تہ چائس وعدس پینہ مرعی

غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمُ

کنی ادلہ بدل بلکہ قومہ کین گہن ہند یس
بور اسہ لدہ آمت اوس سہ تہن اسہ تراوتھ

مَوْعِدِي ۴۷

تہ تہ پانٹھ تہن سامرین تہ سہ تراوتھ۔
اد کور تہ سامرین تہند تہا طر ووتھ تہار یس

قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا

جسے اوت اوس۔ (تہ) اسہ مشر اس ووتھ
تاگن ہنر آواز نیران (یعنی تہقی ووتھ اوس

وَلَكِنَّا حَمَلْنَا أَوْزَارًا مِن زِينَةِ الْقَوْمِ

تہ) پتہ ووتھ (تہ تہ تہند پتہ سستی باجو) تہ
یہ چھ تہند تہ خدا تہ موسیٰ سند تہ خدا تہ

فَكَذَّبْنَا فَقَالَ لَقِيَ السَّامِرِيُّ ۴۸

یہ چھ تہ (موسیٰ ہس) تہ پتہ روت تہ
(پتہ کن تراوتھ چھس) گومت۔

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عَجَلًا جَسَدًا لَّهُ خُورًا

فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ ۚ وَإِلَهُ مُوسَىٰ ۚ

فَنَسِيَ ۴۹

فَنَسِيَ ۴۹

(پڑھی یا ٹھو کوز پر کار سامرین تہ تہندو پوستی باجو
مگر تم اسی ناہ پاہ وچھان نرسہ ووتھہ پچھ
تہ تہہنیز کتہ کتھہ جواب دون تہ نہ پچھکھ کانبہ
نوتھمن واتناوتھ ہیکان تہ نہ پچھ کاشہہ تاہید
واتناوتھ ہیکان ہ)

تہ ہارون و نیاو (موسیٰ بندہ واپس بیٹہ تہ بروٹھ
تہن ، اے میاہ قوم! توہر بچھو اکی سبند
(یعنے وٹھہ بندہ) ڈریہ آزمائیشہ منز تراوتہ آمہو
تہ تہندہ پروردگار پچھ رحمان (خداے) نہہذا
میاہ فرمائہرواری کرہو تہ میون محکم مارو (تہ
بشرک مہ کرہو)۔

(مگر اکی اکہر کر قومن) وون (تس) یوتانز موسیٰ
اسہ کن واپس پیہہ نہ اسی روزو اکی سبندہ
عبادت کران۔

(بیٹہ موسیٰ واپس آو تہ ہارونس کن) وون۔
اے ہارون! بیٹہ تہ پین قوم گمراہ گتھان
وچھہ یوتھہ تہ تہیہ کتہ کر لووے منع؟
نہ تہ پیکہ زبہ میاہن پڈی آگس پیچھہ؟ تہیہ
کڑتھا میاہہ پچھ عذول؟

(ہارون) وون تس۔ اے میاہہ ماجہ ہند گورہ
میہ مہ رٹھ میاہ ڈار تہ نہ رٹھ میاہہ کلک مس۔
بے کھوٹاس اتھ کتھہ نہ تہو پیہہ وکھ نہ تہیہ
چھتھہ بنی اسرائیلن منز نفاق پاہ کوزمت تہ
میاہہ کتھہ ہند تھووتھہ نہ خیال (ز توک تنظیم
گتھہ برقرار روزن)۔

(اتھ پیچھہ پند موسیٰ سامرین کن متا طلبہ)
وون تس اے سامری! چن کیا معاملہ پچھہ؟
توہ وون میہ وچھہ تہ کینہ شہاہہ نہ تہوہ لوکو
وچھت اوس تہ میہ کر کینہہ کتھہ اوس سؤل
اے مفسر پچھہ کھان تر سامرین اوس جبرئیل علیہ السلام وچھت تہ تہندس مگر ہند پڈی تہ اہن اکھ میشر (جاری)

أَفَلَا يَدْرُونَ أَلَّا يَزُجِعُهُمَ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴿١٠﴾

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ
يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ
الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ﴿١١﴾

قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَتَّى
يَزُجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴿١٢﴾

قَالَ يَهُدُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ
صَلُّوا ﴿١٣﴾

أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿١٤﴾

قَالَ يَبْنَؤُمْ فَلَا تَأْخُذْ بِلِخِيَّتِي وَلَا بِرَأْيِي
إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ
بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكُنْتُمْ تَفْتِنُوهُمْ ﴿١٥﴾

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ ﴿١٦﴾

قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ
فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ

قَبَضَتْهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلْتُ لِي تَفْسِي ⑩

(یعنی موسیٰ) سبزو کھتو مفر اختیار (تہ کینہہ کر کم نہ اختیار) پتہ (میلہ موق آو تہ) تمہ (پانٹاوی مشر کتہ) تہ ٹرہم تراوتہ تہ میا ذی دن اوس یو ہے چیز میرت کر تہ ہوت

قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ يُخْلَقَهُ ۖ وَانظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْبِفَنَّاهُ فِي الْآيَةِ تَسْفًا ⑪

(موسیٰ ہن) وون نس، اچھا تر گتہ - ثریہ پتہ یقہ ڈنیہ ہس منز یہی سزا تر ہ روز یقہ (ڈنیہ ہس) منز پر تہ اگس یہ ونان نہ (میر) مہ لگو اتہ (یعنی ہہ چھس موسیٰ ہن نوکر ٹھہرومت) تہ (موسیٰ ہن وون ساہرس پتہ ترا چاہہ خاطر چہ اگہ وقت گتہ (یعنی سزہک) ا یس تر ڈالتہ ہیکہ نہ - بیہ وجہ پسنبس معبودس کن بیٹیس بروٹھ کتہ بہتہ تہ تو ہنز عبادت کران اوسکہ - اسی زلون یہ تہ پتہ دہون سمندرس منز دارتہ -

لَا تَمَّ إِلَهُكُمْ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ وَاسْمُ كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ⑫

تمہند معبود تہ چہ صرف اللہ (تعالیٰ) بیٹیس وراہی بیہ کاٹہ معبود چہتہ - سہ چہ پر تہ اگہ چیز زانن -

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۖ وَ قَدْ آتَيْنَكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ⑬

یقہ پٹھ چہ اسی ثریہ بروٹھ کتہ پتہ ہن لوکن ہنز خبر بیان کران تہ اسہ چہ ثریہ پتہ کتہ ذکر (یعنی قرآن) عطا فرموومت -

مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا ⑭

یس امر ہنٹہ پتہ پھر تس پیہیہ قیامتہ کہ دہم اگہ بوڑ بار بورٹن -

خُلِدِينَ فِيهِ ۖ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا ⑮

اتہ حالس منز روزن (پتھ لوکھ) واریا میں کالس تام تہ قیامتہ کہ دہم آسہ یہ (بور) بیہ تہ کر لوٹہ -

بقیہ حاشیہ:- موٹھ تلٹھ سہ ووڑھ گہنس تیار کوڑومت۔ قرآن مجیدس منز چہ رسول لفظ آمت تہ اتہ چہ مراد موسیٰ علیہ السلام۔ "آثر" چہ عربی زبانی منز کلام کر نکیس طریقہس ونان۔ امیک مطلب چہ یہ نہ سامرین وون زمیہ کر موسیٰ ہنز تعلیم اختیار پتہ میلہ وچہم موسیٰ چہ غار حاجز میرت تہوز تہنز تعلیم تراوتہ۔

يَوْمَ يَنْفَخُ فِي الصُّورِ وَتَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ
يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ﴿١٧﴾

یومِ وہی پوکس چھو کہ دنِ یہی تہ تہ وہی
تو کہ اسی مجرم تہہ حالتس منز زہ تہنہر اچھ
آسن نیچو لہ۔

يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا
عَشْرًا ﴿١٨﴾

تم کرن پانہ وانی لوتہ لوتہ کتھہ نہ توہی تہ چھو
صرف دہن (صدیقین بیتہ دہن) منز حاکم
رودی ہوتی۔

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ
أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ﴿١٩﴾

اُسی چھو ہر تہ پانہو زمان تہ یہ تم دن سیدہ
تہو منز سار وے کھوتہ جاد تہندس مذہب
پٹھہ کین لہ وول (شخصاہ) دنہ نہ توہی چھو صرف
کے کیتھس کاس ٹھہرے ہوتی۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي
نَسْفًا ﴿٢٠﴾

بہی تہی تہم پانہو لہ متعلق پرتھان۔ تہ وں
تہن نہ میون پروردگار تہہنہ متن مولہ پراٹھہ
تہ ٹھکرتھ۔

فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿٢١﴾

تہ تہن تہہنہ تراوتھ اُکس بتقتس سوترس
مادانہ کس صورتس منز۔

لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ﴿٢٢﴾

نہ نہ تہ وچھاکہ تہ تہہ منز کانہہ ہجر تہ نہ
کانہہ تھنر۔

يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ
الْأَصْوَاتُ لِلْخَاطِمِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴿٢٣﴾

تہ وہی کین لاکھ آلو دنہ وائس پتہ پتہ سیکو
ہنر تعلیمہ منز کانہہ ہجر تہ آسہ نہ۔ تہ رحمان
(خدائس) یعنی تہنہر آواز (مقابلہ گرتھن (انسان
ہنر) آواز تہل دہتھ۔ لہذا تہ بوزک نہ پھسرایہ
ورائی کہنہی تہ۔

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ

تہ وہی دہی نہ سفارش تہس ورائی کانہہ نفع

لہ نیچو اچھو ہنر چھہ پتہ ثابت نہ اکتہ آیس منز چھہ یورپی قومن ہند وکر ، سیکو
ہنر اچھہ نیچہ چھہ آسان۔ امر پتہ کس آیس منز چھہ دنہ آمت نہ یورپی قومن ہنر
ترقی روزہ دہن شیکری لہن یعنی ساسس وریس تام۔
لہ طہایقہ تہا۔ امیکت معنی چھہ شریف القوم یعنی قومک نہیہ مثلاً پوپ و غابہ۔
لہ سید قومن پٹھہ تہا ہی چھہ تہ پانہو لہ ہندک پانہو مضمبوط قوم تہ افراد گرتھن تہا
تہ پتہ کرن لاکھ خدا تعالیٰ ہندس پیغمبرس کن توجہ۔

لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ۝۱۱

یہیو ہندِ حقہ سفارش کرنک اجازت رحمان
(خدا) دیہ تہ یہیو ہندِ حقہ کتھ کرنہ سہ پند
کری۔

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا
يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ۝۱۲

سہ چھہ بتہ زانان یہ کیشہا بہن بروٹھہ بینہ
وول چھہ، تہ تہ تہ زانان یہ کیشہا بہن پتھہ
کن گزریومت چھہ تہ ہم ہیکہ ہن تہ پینہ علمہ
کہ ذریعہ کھو سہ (یعنی خدایہ سہ) احاطہ کرتھہ۔
بہ ساری بڑی لوکھ ہن (تہ دوہہ ادبہ سان)
زندہ تہ قایم روزن ولس تہ قایم تھون ولس
(خدایس) بروٹھہ کنہ تہ یس ظلم کر سہ روزہ
ناکام۔

وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، وَقَدْ خَابَ
مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ۝۱۳

بہ یہیو وقتہ کہ ضرورتہ مطابق عملہ کری مشرآن
بہ آسہ سہ مومن تہ، سہ نہ تہ کھوڑ کنہ ہسمہ
کس ظلمس تہ نہ کنہ قسہ چہ حق تبلیغہ۔
بہ چھینیتھہ پانٹھو اسہ یہ کتاب عربی زبانہ ہندس
قرآنہ کس سورتس منز نازل کر مشر۔ تہ اسہ
چہ اتھ منز پتھہ کنہ تہہکو خبردار کرانان واکر
بیان واش کڈی کڈی ذکر کری ہتہ تہہ زن ہم
تقوی پراون۔ یا کر (یہ قرآن) تہہندہ خاطر خدایہ
ہندہ) یادک سامانہ (نوسہ) پاؤ۔

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَا يُخْفِ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ۝۱۴

تہ اللہ (تعالی) یس بادشاہ چھہ، سہ چھہ تھہ
شانہ وول تہ ہمیشہ قایم روزن وول۔ بہ مہ ہینہ
تہ قرآن (یعنی پیچ و صی) نازل سیدہ بروٹھہ
تہہہ حقہ و تا ولی کام بہ روز (تہ ہونہ پانٹھویہ)
ونان نہ اسے میانہ پروردگار! میون علم ہر راو۔
بہ اوس اسہ آدمس امہ بروٹھہ (اکر کتھہ ہندہ)

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَ
صَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ
يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ۝۱۵

تہا کسپ کورومت مگر تہس گوتہ مشہتہ تہ اسہ
پرکھوو واکر پانٹھو نہ تہہس ولس اندراوس نہ
سون حکم پھہر راونس متعلق کانہہ پونہتہ ارادہ۔
بہ (کرو بیتہ یاد نہ) بیلہ اسہ ملائکین وون نہ

فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ، وَلَا تَعْجَلْ
بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ
وَحْيُهُ، وَ قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۝۱۶

وَلَقَدْ عٰهَدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسِيَ
وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ۝۱۷

وَأَذَقْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ إِشْجًا وَإِلَادًا فَنَسَجَدُوا

إِلَّا إِبْلِيسَ ۚ آي ۱۱۱

آدمس (پاد کرہ کس شکرانس منتر) کرو (خلیس) سجدہ تو ابلیس ورا کی کوز سارو وے سجدہ تو کوز انکار۔

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَ لِرِزْقِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ۝۱۱۱

اتھ پیٹھ وون اسر (آدمس) اسے آدم! یہ (ابلیس) چھ بے شک چون تو چاہن سستی با جن ہند دشمن۔ او کوز پیٹھ توہہ دولونی (فریقن) پہ جنت اندر کرک و سنیمہ کس نتیس اندر پیکھتہ (تو چون ہر کاشہ سستی بوج) مصیبت منتر۔ بلاشک چھ اتھ (جنتس) اندر چانہ با پتھ یہ (مقدر) نہ تو روزک نہ بوجھ ہوت (تو نہ چانی سستی باجو) اسر روزک نہ تو نہ پتھ نون۔ اسر نہ روزک نہ تریشہ ہوت تو نہ وکھ تا پتھ۔

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ۝۱۱۱

وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى ۝۱۱۱

اتھ پیٹھ تروو شیطان تہندس ولس منتر و سواس (تو) وون نس اسے آدم! کیا بہ وہر یا تریہ اگر تہہ کلیک پنے لیس ہمیشہ سر سبز چھ بیہ تریہ بادشاہی (ہند پتہ وہر یا) یوہ نہ تریہ فنا کر تھ۔

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبُلُ ۝۱۱۱

لہذا کیو دولوے وے (یعنی آدمن تو تو ہندو سستی باجو) کیو و اسر کھ منتر کینہ (یعنی منتر وچھہس) بیتھ پیٹھ کین دولونی ہنر کوزریہ بہن پیٹھ ننے یہ۔ تو ہم دولوے لگی پاس پیٹھ جنتہ چہ آرا پتھ ہند سامانہ (یعنی نیک اعمال) ولہ تو آدمن کر پتھس رہہ سنہز نافرمانی لہذا وول سہ سینر و تہ رتہ۔

فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتَ لهُمَا سَؤَاتُهُمَا وَ لَمَفِقَا يَخْصِفُ عَلَيْهِمَا وَرَقَ الْجَنَّةِ وَ عَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ۝۱۱۱

تہ پتہ زور سہ تو ہند پروردگارن تو تس پیٹھ تراون رچھ نظر تو تس وون صحیح طریق کار۔ (تو خداین) دو پنکھ توہی دولوے (تو لہر) نیو و سنیمہ اندر سر سالم۔ توہہ منتر آسن کینہ کیشن ہند دشمن لہذا اگر توہہ نش میاد طرفہ ہدایت بیہ تو لیس میاد ہدایت فرمانہ داری

ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَ هَدَى ۝۱۱۱

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى ۚ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَ لَّا يَشْقَى ۝۱۱۱

کر سہ گزیدہ نہ نہ نہیں گمراہ تہ نہ پیسہ
ہرکتش منہز -
بہ یس شخص میانہ یاد پاوہ باوجود روگردانی
کام پیسہ تس میلہ تکلیف وا جو زندگی تہ
قیامتہ کہ دو بہ تہلہ ہون سہ اسی اون -

(پتھ پتھ) سہ ونہ - اے میانہ پروردگار! تریہ
کیا نہ ناقص بہ اون - حالکہ بہ تہ اوس رس
پاٹھی و پھتہ ہکان -

(اتھ پتھ) فرابوس (خدا تعالیٰ) تریہ نش تہ
سے اسی ساڈا آہ آہو - ہم تریہ مشرأ و تہ
اُس تہ تریہ ہوتی لہذا تہ تہ یکہ از (خدا یہ
سوز رحمت باگراونہ کہ وقتہ) مشراونہ -

تہ یس خدائی قولونہ نمبر گزہان چھ - تہ پینس
پروردگار بندن آہن پیٹھ چھنہ ایمان انان تس
سوتی چھ پیٹھ سپان تہ (پہ تہ چھ صرف دنیاوی
سلوک) اُنز تک عذاب چھ امر کھوتہ تہ جاوہت
تہ تہ کال تام روزن وول -

یمن لوکن سیدنا (امر کتھ سوتی) ہلیتہ حاصل
نہ یمن بروٹھ گذرے مہ ہوتو قومو منہز کرک اسہ
داریاہ ہلاک ہم (لوکھ) چھ تہ بندن گرن مشز
نشان پھیران - اتھ منہز چھ ققلہ والہن لوکن
ہندہ باپتھ بڑو نشانہ -

تہ اگر اکھ کتھ چائس پروردگار بندہ طرفہ بروٹھ
آسہ ہے نہ گذرے مہز تہ مدت تہ آسہ ہے
نہ گذر تہ تہ عذاب بندہ ہے (ہن قومن ہندہ
خاطرہ) ہمیشہ روزن (تہ اُکس زہیں مدتس
تام روزہ ہے جاری) -

لہذا ہم (لوکھ) یہ کینترہا ونان چھ تہ کرتھ پیٹھ
صبر (تہ کیا ز چائس رہہ سہ سنت چھ یہی ز
رحمہ سوتی گزہ کام ہینز) تہ آفتاب کھنہ

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ
مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
أَعْمَى ﴿۱۶﴾

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ
بَصِيرًا ﴿۱۷﴾

قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا ۖ
وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسى ﴿۱۸﴾

وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ
بِآيَاتِ رَبِّهِ ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ
أَبْقَى ﴿۱۹﴾

أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ
الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْجِدِهِمْ إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى ﴿۲۰﴾

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا
وَأَجَلٌ مُّسَمًّى ﴿۲۱﴾

قَاصِدٌ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ
رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ
غُرُوبِهَا ۚ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ ۚ

أَطْرَافِ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ﴿۳۶﴾

تو سہ گھنٹہ بروٹھ آس تہ تمہو بندس حمدس
سوتو تسنہر بیج تہ کران تہ راز ہندن مختلف
حصن تہ (بیٹھ پانچ) دہر کین سارے حصن
مفر تہ آس تمہ ہنرے بیج کران بیٹھ زن
تہ (تمہ سندر فہنل حاصل کر تہ) خوش سپدھ۔

تہ اس پریم دنیاوی زندگی پارونگی سامان لوگو
مشر کینشن ورتو ہوتو چہر تہ مہ آس تھہ تمام
پسنہن اچھن ہنر نظر ز سہراوان۔ (تہ کیا ز
یہ سامان چہر ہن او مہ کم دہن آمت) رُاسی
کرو تہ سوتو تہنہر آزمائش تہ چانس پروردگار
سندر دیت مت زریق چہر سارے کھو تہ رمت
تہ پوشہ ون۔

بہ روز تہ پسنہن گرواہن نماز ہند تاکید کران
تہ تہ روز پانہ تہ تہ (نماز) بیٹھ ماکیم۔ اُسی
چھی نہ تریہ بزق مکان بلکہ چھی اُسی تریہ بزق
دوان تہ انجام چہر تقویٰ کیکے جاو رت روزان۔

بہ چہر تم ونان مرسہ کیا ز چھنہ اسہ نش پکینس
پروردگار ہند طرفہ کانہہ نشان انان؟ کیا بہن
نش آوناہ تہ بیٹھ نشان بیٹھ زن گوڈ پکین کتابن
مفر بیان سدرمت چہر؟

بہ اُسی اُسی (رسولس) بروٹھ تم کتہ
غلاب سوتو ہاک کر ہو کھ تہ تم ونہن اے سارہ
پروردگار تریہ کوہ سوزتہ اسہ کن کانہہ رسول
(اگر تہ کر کھ) تہ اُسی کپہ ہونا چاہن نشان
پتہ پتہ امہ بروٹھ رُاسی سپر ہو ڈیل تہ سوا۔

تہ ون پر تہ کانہہ شخص چہر پسنہ انجام کس
انتظار کران تہ تہ بہر سپر و جلدے معلوم نہ کس
شخص چہر سینر و تہ پٹھ پکن والہو مشر تہ ہدایت
بین والہو مشر (تہ کس چہر)۔


وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ
أَزْوَاجًا مِنَّمْهُمْ أَهْوَىٰ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
لِنَفْسِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ حَاشٍ ۚ
وَأَبْقِ ﴿۳۷﴾

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا
تَسْأَلْكَ رِزْقًا ۖ نَحْنُ نَزُرُكَ ۚ وَالْعَاقِبَةُ
لِلتَّقْوَىٰ ﴿۳۸﴾

وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ
أَوْ لِمَ تَأْتِيهِمْ بَيِّنَةٌ مَّا فِي الصُّحُفِ
الْأُولَىٰ ﴿۳۹﴾

وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ
لَقَالُوا إِنَّا لَنَالُوا آيَاتِنَا رَسُولًا
فَتَّحِيمةَ آيَاتِكَ مِّن قَبْلِ أَنْ نُنزِلَ
نَحْرَىٰ ﴿۴۰﴾

قُلْ كُلٌّ مُّتَرَتِّبٌ فَتَرَبَّصُوا ۚ فَسَتَعْلَمُونَ
مَن أَصْحَابُ الصِّدَاقِ السَّوِيِّ وَ مَن
أَهْتَدَىٰ ﴿۴۱﴾



سورة انبياء : یہ سورہ چھ کی تہ لیسم اللہ پہنچے جہا اتھ اگھ تھ ترواہ آہیہ بیہ چھیس سٹھ رکوع

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①

(بہ چھیس) اللہ (تعالیٰ) سندن او پہنچا پرلن) بیس
حدہ رؤس کرم کرن وول (تہ) پھیرگی پھیرگی رحم
کرن وول چھ۔

نہی

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَ
هُم فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ②

لوکن حساب ہینک وقت چھ نزدیک ووتمت۔
مگر تم چھ (توتہ) غفلتس منز (پیسیتہ) تہ روگرانی
چھو کران گرشان۔

مَا يَأْتِيهِمْ مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ
مُخَدَّبٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَ هُمْ
يَلْعَبُوْنَ ③

متن نش چھنہ تہندس ربہ ہند طرفہ زانہہ کاہنہ
تہنٹس پاوان وول نوو پیغام یوان مگر تم چھ
سہ یوزان تہ گرشان تہ تھ چھ کٹنہ تہ کران
گرشان۔

لَا هِيَّةٌ قُلُوْبُهُمْ وَاَسْرُوْا النَّجْوٰى
الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا هَلْ هٰذَا اِلَّا بَشْرٌ
مِّثْلُكُمْ هٗ اَفْتَاتُوْنَ السَّحَرَةَ اَنْتُمْ
تُبْصِرُوْنَ ④

تہندگی دل چھ فغلتس منز پتھ۔ بیو لوکو ظلم کوہ
تم چھ اندرگی اندرگی مشور کران (تہ ونان چھ)
نہ (وچھان چھونا) یہ شغھس چھ توہی بیو
اگھ بشر کیا توتہ چھو توہی تہنٹن فریبی کتھن
منز یوان؟ حالانکہ توہی چھو رتی پاکو زمان۔

قُلْ رَبِّيْ يَخْلُقُ الْقَوْلَ فِي السَّمَآءِ وَ
الْاَرْضِ وَ هُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ⑤

(یکہ کتھ بوزتھ) وون (محمد رسول اللہ ہن)
میون پروردگار چھ زمان تمہ کتھ بیہ آسائس
منز (ونہ یوان چھیہ) بیہ تمہ تہ) بیہ زمپنس
منز (ونہ یوان) چھیہ۔ تہ سہ چھ بوڑ بوزن
وول (تہ) بوڑ زانن وول۔

بَلْ قَالُوْا اضْعَافُ اَخْلَافٍ بَلْ
اِفْتَرَسَهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَايِنَا
بِآيَةٍ كَمَا اُرْسِلَ الْاَدْلُوْنَ ⑥

بلکہ تمہو (یعنی منقو) چھ یہ تمانی تہ وون
مت نہ یہ اکلام) تہ چھ پریشان خواب۔ بورو
تہ (پریشان خواب تہنہ) بلکہ تمہو چھ زانہہ ماہتھ
بیہ کتھ پانے گری نمتر۔ بلکہ سہ چھ اشاعرہ
مزانہ تمہون وول انسان (تیمو ہندس دس منز
رنگہ رنگہ خیال ووتھان روزان چھ) لہذا

تس پڑ نہ اس پر بس ابن کا شہ نشانہ بیتھ کتو
گوڈو کی رسول نشانہ بیتھ سوزنہ آہتی اسی۔
پہو بروٹھ تہ اوس نہ کانہ ایمان او کنت تمو
بیتھو منہز چیم اسہ ہلاک کریا یہ تہ او ابن ناہ ہم ایمان۔

تہ اسی اسی تریہ بروٹھ (تہ ہمیشہ) مہنوی
رسول بناوتھ سوزن تہ اسی اسی بتن کن و حی
کران تہ (اسے منکرو!) اگر تو ہی (یہ کہتھ) چھو
نہ زانان تہ اہل کتابن پر ترھتو۔

بیہ اوس نہ اسہ بتن رسولن تیتھ جسم دیت مت
تر ہم اسی ہن نہ کہین کھیوان تہ نہ اسی تم
پڑنہ پیٹو عمر لین واد لاکھ۔

تہ اسہ لیس وعدہ بتن سستی کومت اوس سہ ہوو
اسہ پور کر تھہ تہ من دیت (دشمنو نشہ) نجات بیہ
تمو ورا ہی تم تہ یمن اسہ یڑھ تہ ہم حد ہبر نیرن
والی اسی ہم کڑی اسہ ہلاک۔

اسہ چھ توہہ کن اکھ ترھہ کتاب تازل کر ہر
بیتھ منہز تہ بند بجرک سامانہ چھو۔ توہی چھونا
عقلہ کام ہوان۔

بیہ کا ترافہ تہ بیتھ چھیم ہم ظلم کران اسہ نہ
اسہ تمہو تم ملکہ و تھہ تہ تمو پتہ کور اسہ اکھ
بیاکھ قوم پاد۔

او بیلہ تمو (ہلک سپدن والہو لوکو) سون
عذاب ترلیون تہ نگلی (تہ نشہ بچینہ با پتھ) دو
دو کر تہ۔

(ادوون اسہ) دو دو مہ کرو تہ تم چیزن کن بیو واپس
بیو وکی توہو آرائج زندگی گزاران اکر و تہ پٹن
گرن کن تہ (بیو واپس) بیتھ زن توہہ تہ مندرن
اعمالن متعلق پر ترھہ کار کر نہ بیہ۔

مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرِيْبَةٍ أَهْلَكْنَاهَا
أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ①

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي
لَهُمْ قَسَصًا لِّأَهْلِ الدُّنْيَا
كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ②

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا إِلَّا يَأْكُلُونَ
الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ③

ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ
نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُشْرِكِينَ ④

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ
أَفَلَا تَعْقِلُونَ ⑤

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرِيْبَةٍ كَانَتْ
ظَالِمَةً ۖ إِنَّا بَعْدَهَا قَوْمًا
آخِرِينَ ⑥

فَلَمَّا أَحْسَسُوا بِأَسْنَانِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا
يَسْكُضُونَ ⑦

لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ
فِيهِ وَمَسْكَنَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُشْكِرُونَ ⑧

امیک دیت تو یہ جواب - زہے انوس! اسی
تہ رودی (سارے ہے) ائسہ (طلبہ کران -
تہ تم گئے یہہ کتہ زمان یوتانی ز اسہ بناوکر
تم مکھ گئی متہ فسکو پانگو میںیچ سارے رونق
تہاہ مگاہتر اوس۔

تہ اسہ چھتر آسمان تہ زمین تہ یہ کینترھا بین
دولونی درمیان چھ محض گند نہ ہنا کر تھ پاد
کڑوت - (بلکہ مینہنر پاد ایشتر منز اوس حکمت -
اگر اسہ کاشہ دل بہلائی ہند تماشے تجویز اسہ
ہے کرن تہ سہ کر ہون اسی پانس نکھ تجویز۔

مگر اسی چھ حق تبتہ باطلس پیٹھ دارتھ دوان
تہ سہ چھ تھ کلمہ پھاناوان تہ سہ (باطل)
چھ یکدم نزلان تہ توہہ پیٹھ چھ تہنرو کتھو
ہند مومکھ افسوس۔

بیسہ بیم وجود تہ آسمان منز تہ زمین منز
چھ ساری چھ توہ بندی تہ بیم تس نش چھ تم
چھ تہ بند عبادتہ نشہ کبہر کر تھ تہ پھران
تہ نہ چھ (تمہ سوتی) تم تھکان۔

تم چھ راس تہ تہ وہس تہ تسج کران تہ
تم چھنہ تمہ نشہ پوت ہوان۔
تو لاکو چھا زمینہ مغز مہبؤد بتاوی متو؟ تہ
تم چھا (زور ڈار) پناو کران۔

اگر پین دولونی (یعنی زمینہ تہ آسمان) مغز اللہ
(تعالیٰ) ہس وراہی بیم تہ مہبؤد اسہ ہن تہ بیم
دولونے عترتہ ہن تہاہ یہ لہذا اللہ (تعالیٰ)
یس عرشک تہ پروردگار چھ، چھ تمام

قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿۱۵﴾

فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى
جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ ﴿۱۶﴾

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
لِعَيْنٍ ﴿۱۷﴾

لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُمْ آيَاتٍ
مِنْ لَدُنَّا ۖ إِنَّ كُنَّا فاعِلِينَ ﴿۱۸﴾

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ
فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، وَ لَكُمْ
السَّيْلُ وَمَا تَصِفُونَ ﴿۱۹﴾

ذَلِكَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَ
مَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ
عِبَادَتِهِ وَ لَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿۲۰﴾

يَسْتَبْخُونَ الْآيِلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿۲۱﴾

أَمْ اتَّخَذُوا إِلَهَةً مِنَ
الْأَرْضِ هُمْ
يُنشِرُونَ ﴿۲۲﴾

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَ اللَّهِ لَفَسَدَتَا
فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَزَّيْزِ
حَمَّاءَ
يَصِفُونَ ﴿۲۳﴾

لہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کیاز سوز ہون اسی دنیا ہس کن سہ تھاو ہون اسی پانے نشہ۔
لہ یعنی اگر کہوتہ جاو تھ اسی ہن تہ تم بناو ہن بیون بیون زمین آسمان تہ پرچہ کتہ زمینہ
تہ آسمان اسہ ہن بیون بیون توہن تہ سارے کائینات گزہ ہے تہاہ۔

نقصو نشہ پاک بیہ ہمو (کتھو) نشہ تریم تم
ذنان چھ -

یہ کیشہا سہ کران چھ تہ متعلق چھنہ سہ
کانشہ کن جواب دینہ آسان - حالانکہ تم (لوگ)
چھ جواب دینہ آسان -

ہمو چھالتس ورائی معبود بناؤ ہمو؟ تر ونگہ
(ہے!) پہنوں لیل اٹو - یہ (قرآن) تو چھ
تم ہند خاطر تر شرف باعث یک میہ سوت
چھ تر تم ہند خاطر تر چھ شرف موجب
یک میہ برونگہ گدرے ہمو چھ - مگر یکو منتر
چھنہ واریاہ حق پر بز ناوان او کئی چھ امر نشہ
لوب، ہوان -

بیہ تر ی برونگہ ہتو تر رسول اسہ سوزی ہمو
چھ اسی اسی ہمو منتر پر ہتہ اکیس کن یہ
وہی کران تر حقیقت چھ یہ تر بہ چھس اکے
خدا۔ لہذا کرو (صرف) میانی عبادت -

بیہ چھ (یک لوگ) ذنان تر رحمان (خدا) چھ
ہتو ہنومت (تہنر کتہ چھنہ درت) سہ
چھ پر ہتہ کمزوری نشہ پاک - حقیقت چھ یہ تر
(بیس یک نیچو) ذنان چھ) تم چھ خدایہ سندر
کیہ ہند یکن خدایہ ہند طرف عزت میولت چھ -
تم چھ خدایہ ہنر کتہ نشہ اکہ لوظ تر جاو ذنان
تر تم چھ تہنر حکمن پچھ عمل کران -

سہ (خدا) چھ تہہ زانان بہ تم سہ پیش ہنہ
وول چھ تر (تہہ زانان) یہ تم چھ تر او تہ
آہو چھ، تر تم چھنہ کانشہ ہند خاطر
سغارش کران تس ورائی نیچو سندر خاطر
خدایہ یہ کتہ پسند کر ہتر آسہ تر تم چھ
تہنر ہسہ تہنر منتر روزان -

بیہ یس تر تم منتر یہ و ہ تر بہ چھس خدایس

لَا يُشْعَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُشْعَلُونَ ﴿۱۷﴾

أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُل
هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا إِذْ كُرِمْنَا
مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي ؕ بَلْ أَكْثَرُهُمْ
لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿۱۸﴾

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا
نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا
فَاعْبُدُونِ ﴿۱۹﴾

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ
بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴿۲۰﴾

لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ
يَعْمَلُونَ ﴿۲۱﴾

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ
وَلَا يُشْفِعُونَ إِلَّا لِمَنْ أِزْتَضَىٰ وَهُمْ
مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿۲۲﴾

وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِّنْ دُونِهِ

كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٥٦﴾
 وَرَأَى مَعْبُودَهُ تَرَاوُونَ أَسَىٰ جَهَنَّمَ مَنُزَّةً هِيَ

كَأَفْرُوجٍ جَعْنَا فِيهَا سَمَواتٍ وَ
 الْأَرْضَ كَانْتَارَتْ فَأَنْفَعْنَاهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا
 مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا ۚ أَفَلَا
 يُؤْمِنُونَ ﴿٥٧﴾

وَ جَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ
 تَمِيدَ بِهِمْ ۖ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا
 سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٥٨﴾

وَ جَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّخْفُوظًا ۖ وَ
 هُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿٥٩﴾

ذَٰهُوَ الَّذِي خَلَقَ النَّيْلَ وَ النَّهَارَ
 وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ ۚ كُلٌّ فِي فَلَكٍ
 يَسْبَحُونَ ﴿٦٠﴾

وَ مَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ۚ
 أَفَأَنْتَ مَتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ ﴿٦١﴾

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۚ وَ

لله التمتع بالهن مشرور و پند و جی سوتی آسمان ادر سپهر زمین پند ره حاتی زندگی نمودار
 سائین دان چهره وان نیلیر کانہہ نونو نطق شمس بنہ لگہ تہ گوٹو چہ امیک ما در
 راکس پیید ہند کہ پاطھو بند آسان پتہ چہ گردش سوتی امیک ما در چھکنہ یوان تہ
 نو کڑ چہ وجودس یوان -

لله سبحانه يسبح: آہن مفرزہا لہ واپسی یا ورن -

تَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۚ
رَالَيْتُمَا تَزَجَّعُونَ ﴿۳۵﴾

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ كَفَرُوا
يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُوًا ۗ أَلْهَذَا
الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ ۗ وَ هُمْ
يَذْكُرُونَ ۝۳۶

خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ حَجَلٍ ۗ
سَآوَرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ۝۳۷

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ۝۳۸

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ
يَكْفُوفُونَ عَنْ دُجُوهِهِمُ النَّارَ
وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ ۗ وَلَا هُمْ
يُنصَرُونَ ۝۳۹

بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ
فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدًّا ۗ وَلَا هُمْ
يُنظَرُونَ ۝۴۰

وَلَقَدْ اسْتَهْزَى بِرُسُلِ مِّنْ قَبْلِكَ
فَوَحَّىٰ بِالَّذِينَ خَلَوْا مِنْهُمْ
مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝۴۱

قُلْ مَنْ يَكْلُوْكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
مِنَ الرَّحْمَنِ ۗ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ
رَبِّهِمْ مُّعْرِضُونَ ۝۴۲

أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا
لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ
وَلَا هُمْ

ناکار تو رہو حالاتو سوتو متہنژ آرمایش - تو
آرمیشو توہی اسی کن چہہ شہ انسہ -

بہہ نیلہ ثریہ کافر و پھان چھی تو ثریہ چھی صرف
اکھ کوسی پایہ چیز زمانہ (تو ونان چھو) کیا لویہ ہے
شخص چھائس تہنڈن معبودن ہنڈن کزوریہ
گنڈراوان چھو؟ حالانکہ تم چھو پانہ رحمان
(خلیہ) ہنڈن ذکر ہنڈن انکار کران -

انسانس منز چھو بانبر ہنڈن ہنڈن آمت
لہذا یاد تھادو) ہنڈن اوو توہہ ہنڈن ہنڈن - او
کئی مہ ہنڈن توہی بانبر کام -

تو تم چھو (یہ بوزھہ) ونان نہ ہر گاہ توہی
لوکھ (یعنی مسلمان) ہنڈن یاری چھو تو یہ وعدہ کر
گنڈہ لویہ!

ہر گاہ کفار سہ گزراہ ہنڈن نیلہ تم ہنڈن
ہنڈن ہنڈن ہنڈن ہنڈن ہنڈن ہنڈن ہنڈن ہنڈن
نہ تو نہ ہنڈن کانسہ ہنڈن ہنڈن ہنڈن ہنڈن
(تو تم کہہن تو ہنڈن ہم ہستی) -

مگر (سہ عذاب) ہنڈن ہنڈن ہنڈن ہنڈن ہنڈن
کر جان لہذا تم ہنڈن ہنڈن ہنڈن ہنڈن ہنڈن - تو
نہ ہنڈن ہنڈن ہنڈن ہنڈن ہنڈن ہنڈن ہنڈن

بہہ ثریہ ہنڈن ہم رسول گزراہ ہنڈن ہنڈن ہنڈن
تو آپ ہنڈن ہنڈن ہنڈن ہنڈن ہنڈن ہنڈن ہنڈن
سوتو ہنڈن کر یاہہ تم اول ہنڈن ہنڈن ہنڈن ہنڈن
تم ہنڈن ہنڈن ہنڈن ہنڈن ہنڈن ہنڈن ہنڈن

تو ون نہ کس ہنڈن توہہ ہنڈن ہنڈن ہنڈن
رحمان (خلیہ) ہنڈن ہنڈن ہنڈن ہنڈن ہنڈن
چھہ ہنڈن ہنڈن ہنڈن ہنڈن ہنڈن ہنڈن
ذکر ہنڈن ہنڈن ہنڈن ہنڈن ہنڈن ہنڈن

کیا تہنڈن ہنڈن ہنڈن ہنڈن ہنڈن ہنڈن
معبود ہم ہنڈن سہ عذاب ہنڈن ہنڈن ہنڈن ہنڈن

وَمَا يَضْحَكُونَ ﴿۷۰﴾

(معبود) چھتہ پنہنن زون ہنز تہ راجھ کر تھ
ہیکان تہ نہ ہیکہ بہن اسر مقابلہ کانہہ ساتھ دتھ۔
حقیقت چھتہ یہ تر اسر اوس جن تہ بہتہ پن
جمن اجادہن تہ سہٹھا مال دولت دتھ تھومت
یوتام تر بہن پیٹھ گڈریو اکھ زویٹھ زمانہ۔ لہذا
تم چھنا وچھان تر اسی چھ تہندس ملکس کن
برہ نہہ برہ نہہ پکان تہ اندوکتہ چھن یہ
شرکران پکان تہ کیا (امر تلہ چھایسی پتہ
نیران تہ) تم پنا غائب؟

تر ون بہن تر بہر چھسو تہ بہر وحیہ ہندہ ذریعہ
بہتیار کران تہ (رڈ پانٹو چھس زمانہ تر)
ییلہ (رؤحانی) زڈر بہتیار کر تہ پن تہ تم
چھتہ آلو بوز تھ ہیکان۔

تہ اگر بہن عذابہ کر تشریح کانہہ تھٹھ پیسہ
تہ تم ون ضرور اسر پیٹھ افسوس! اسی تہ
اسی ظلمہ کران۔

بیہ کرو اسی تیا مثر دہ بہ تھتھ تولن سامانہ لینے
پور تو ہیکہ سامانہ پاد تر پیکو ہندہ ہامتہ کر تہ
زوس پیٹھ اکھ داڈ تہ ظلم کر تہ پیسہ تہ۔
تہ اگر افس آسہرک وانس سنب تہ (کانہہ عل)
آسہ۔ تہ اسی کرو تہ تہ حاضر تہ اسی چھ
حساب بہنن کتہ سہٹھاہ کافی۔

بیہ اوس اسر موسیٰ ہس تہ ہارولس (پریس تہ
اپریس مغز) فرق کران وول نشانہ تہ اکھ گاش
عطا کورمت تہ متقین ہندہ خاطر یاد دہانی ہنز
تعلیم بخشا و بہتر۔

تم (حقیقی) یکم پننس رلبس غایبانہ (تہ)

بَلْ مَتَّعْنَا هُوَ لَاءِ وَ آبَاءَهُمْ
حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، أَفَلَا
يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ
أَطْرَافِهَا، أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿۷۱﴾

قُلْ إِنَّمَا أُنزِلَتْ بِالْوَعْدِ لِئَلَّا
يَسْمَعَ الضُّمُ الدُّعَاءُ إِذَا مَا
يُنذَرُونَ ﴿۷۲﴾

وَلَيْنَ مَسْتَهْمُ تَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ
رَبِّكَ لِيَقُولَنَّ يَوْمَئِذٍ إِنَّا كُنَّا
ظَالِمِينَ ﴿۷۳﴾

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ
الْقِيَامَةِ فَلَا تَظْلُمُ تَفْسٌ شَيْئًا، وَإِنْ كَانَتْ
مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ حَرْدَلٍ آتَيْنَاهَا، وَ
كَفَىٰ بِنَاحٍ سَيبِينَ ﴿۷۴﴾

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَ هَارُونَ الْفُرْقَانَ
وَ ضِيَاءً وَ ذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۷۵﴾

الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَ

لہ یعنی تہندری ملک چھ وار وار مسلمان ہندس تبفس تل یوان بیتھ کئی بچھ
تہندری اولاد تہ اگر اگر اسلام قبول کران۔

هُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿۵۱﴾

کھوڑان چھ تہ بیم جز کہیں تہ سبز کہیں گنڈی تھ
و تھس تہ کھوڑان روزان چھ
تہ یہ (قرآن) چھ اکھ ترشہ یاد و آئی کرن و اجڑ
کتاب یخہ مفز سارہنے آسمانی کتابن ہندی
رہتر و پرتھ آہتی پھلہ۔ اسہ چھ یہ نازل
کڑ ہتر۔ اڈ کیا توہی چھوا یترہ کتابہ ہندی
مکھر؟

وَهَذَا إِذْ كَرَّمْنَا بَرَكًا أَنْزَلْنَاهُ، أَفَأَنْتُمْ
لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿۵۱﴾

بیہ اُسی اسہ ابر بروٹھ ابراہیمس تسنہ صلیت
تہ قابلیت عطا کڑ ہتر تہ اُسی اُسی تسنہ و پوچ
حالت تہ جان پانگھ زاناں۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن
قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ﴿۵۲﴾

نیلیہ تہ پسنس مابس تہ پسنس قومس وون ایم
کیا پوچل چھ بین بروٹھ کہہ توہی بہتہ روزان
چھو؟

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ
الْعَمَلَاتِئِلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا
عَاجِلُونَ ﴿۵۲﴾

تہ وون (تس) اسہ اُسی پنہی جدا جہاد و چھو ہتر
تہ اُسی بہنہ عبادت کران۔

قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عِبَادِينَ ﴿۵۳﴾

تہ وون (تسن ز) نیلیہ اُسی و توہی تہ تہ تہندر
جدا جہاد تہ اُکس تہ واہ گراہی منہ ہتر آہتر۔

قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَ آبَاؤُكُمْ
فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۵۳﴾

تہ وون (تس) تہ چھکا اسہ نش اکھ میز کہتہ
ہتہ آہت کہہ تہ چھکا اسہ سستی مذاق کران؟

قَالُوا آجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ
اللَّعِينِينَ ﴿۵۴﴾

(ابراہیم) وونناکھ حقیقت چھییہ یہ نہ تہند
پروردگار چھ آسمان ہند تہ پروردگار تہ زمینک
تہ پروردگار۔ (سے چھ) بیگی بیم یاد کڑی ہتر
چھ تہ بہ چھسو اتھ کہتہ پٹھ توہی بروٹھ کہہ گواہ۔
تہ تو وون (تسن) خدایہ ہتر درہے! نیلیہ
توہی تھر پھرتھ گتھو تہ بہر تہند بن توہین
خلاف اکھ پوختہ تہد بہر۔

قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَ
الْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ ۗ وَ أَنَا عَلِ
ذِكْرٍ مِّنَ الشَّاهِدِينَ ﴿۵۴﴾

وَ تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ
بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ ﴿۵۵﴾

لہ مبارک چھ لفظ برکتہ مفز درامت۔ بڑکے تیوٹھ تلاویقہ مفز اورک یوک روڈ جمع سپان
چھ لہذا مبارک چھ سو کتاب یخہ مفز سارہنے آسمانی کتابن ہند علم جمع چھ۔

پتہ کر کے تو تم (پتہ) چھلے چھلے، تمومنز
بڑس (اُس) وراٹی بیٹھ نہ تم (اگر لہ
بیر) نش نش بین۔

اتھ پیٹھ وون، تموز سانہن معبودن سستی
کھو چھ یہ کام کر مہتر؟ بیٹھ کرن وول،
چھ پتہ پاٹھی نالو منتر۔

(ا) وونکھ (کینٹرو بیو لوکو) اسر چھ لکھ
توہان بیو سندا و ابراہیم چھ، بہنہ کمزوریہ
بیان کران بوڑمت۔

(ا) دو پکھ (تومہ کہو سردارو، اگر یہ کھتہ
چھین) سہ شخص اُنون سارنہ لوکن بروٹھ
کن شاید تم کرن (تس متعلق) کانہہ فاصلہ۔

تمو وون (پتہ) اسے ابراہیم! کیا یہ کام چھتا
سانہن معبودن سستی تریئے کر مہتر؟

(ابراہیم) وونکھ تر (انجر) کانہہ کرن والی
تہ چھین یہ کام ضرور کر مہتر۔ یہ سارو بے کھو تہ
بوڈ پوتل چھ بروٹھ کہ استاد، اگر تم کھتہ کر تھ
ہیکن تہ تمن (یعنے اُس بڑس پوتلس تہ تہ
بین پوتلس تہ) پر تہتھ موچھو۔

اتھ پیٹھ پھیری تم سنہن سردارن لہ کرن تہ
وون کھ نہ پڑ کھتہ چھین یہہ نہ نال چھو توہی۔

تہ تم لوکھ آہ پسنہو کلو واری پاونہ (یعنے لاجاب
آہ کرن) تہ تمو وون نہ (اسے ابراہیم!)
تہ چھکھ زانان نہ ہم تہ چھنہ کھتہ کران۔

(ابراہیم) وونکھ اڈ توہی چھوا اللہ تعالیٰ
ہس وراٹی تھہ چیز بیج عبادت کران یس نہ توہہ
نفع ووان چھو تہ نہ چھو نوصان واتسا والہ

فَجَعَلَهُمْ جُودًا إِلَّا كَثِيرًا لَّهُمْ
لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴿۱۱﴾

قَالُوا مَن فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ
لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۲﴾

قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذُكُرُهُمْ يُقَالُ
لَهُ إِزْهِيمٌ ﴿۱۳﴾

قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى آعِينِ النَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿۱۴﴾

قَالُوا إِنَّكَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا
يَا إِزْهِيمُ ﴿۱۵﴾

قَالَ بَلْ فَعَلَهُ بَعْضٌ كَثِيرُهُمْ هَذَا
فَسَخَّلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴿۱۶﴾

فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ
أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۱۷﴾

ثُمَّ نَكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ ۖ لَقَدْ
عَلِمْتَ مَا هُوَ إِلَّا يَنْطِقُونَ ﴿۱۸﴾

قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا
يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿۱۹﴾

لہ آنفس امیک واحد چھ نفس بیبیک لفظی معنے چھ رُوح (زُؤ)۔ توہو
سردار تہ نہ مہو تہ چھ توہو رُوح آسان۔

أَقْبَلَكُمْ وَ لِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۳۵﴾

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ فَعَالِينَ ﴿۳۶﴾

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَ سَلْمًا عَلَى
إِبْرَاهِيمَ ﴿۳۷﴾

وَ أَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ
الْأَخْسَرِينَ ﴿۳۸﴾

وَ نَجَّيْنَاهُ وَ لُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي
بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿۳۹﴾

وَ هَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ
تَافِلَةً ۚ وَ كَلَّمَا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴿۴۰﴾

وَ جَعَلْنَاهُمْ آيَةً يُهَدُونَ بِأَمْرِنَا
وَ أَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَ
إِقَامَ الصَّلَاةِ وَ آيَتَاءَ الزَّكَاةِ ۚ وَ
كَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ﴿۴۱﴾

وَ لُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَ عِلْمًا وَ نَجَّيْنَاهُ
مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ
الْخَبِيثَاتِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ
فَاسِقِينَ ﴿۴۲﴾

وَ آذَخْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا ۚ إِنَّهُ مِنَ
الصَّالِحِينَ ﴿۴۳﴾

وَ نُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا

(اُسو جی) تو میرے پیچھے افسوس (کران) میرے تیس
پیچھے تیرے پیچھے سنو تو ہی اللہ (تعالیٰ) ہنس ورازی
عبادت کران چھو۔ کیا تو ہی جھوٹا عقلمند کام ہو گیا؟
(اتھ پیچھے آئیہ تمن شرک تہ) و ننیہ مگر۔ یہ شخص
زالیوں تہ پسنین معبودن کرو اتھ روٹ مگر
توہہ کیہہ کرنک ارادہ کورمت چھو۔

اد وون اسر۔ اسے ناپ! تہ گزہ ابراہیم ہند
خاطر ہندرتہ، تہ بیہ بن اُم ہند خاطر
سلاہتی ہند باعث تہ۔

بیہ ہنو یوزہ تہ سوتی بدسلوک کرن مگر اسر کر
تم ناکام۔

تہ اسر ویت تہ تہ لوطس تہ متتہ زمینہ
کرن نجات یتھ مفر اسر سارہے جمان ہند
خاطر برکتہ تھا و مثر اسر۔

بیہ بخش اسر تہ اسحاق تہ تہ زریکہ (دبلیس)
یعقوب تہ۔ تہ اسر بنا و تم سدی نیک۔

بیہ بنا و اسر تم (لوکن ہند) امام۔ تم اسر
سارہ حکم تمن ہدایت دوان تہ اسر کر تمن کن
نیک کام کر بیخ تہ نماز قائم کر بیخ تہ زکوٰۃ
و بیخ وومی تہ تم ساری اسر سانی عبادت کرن
والی بند۔

بیہ (بخش اسر تہ) لوط (تہ) نہیں اسر حکم تہ
عقل کور تہ علم تہ۔ تہ تہ ویت اسر تمہ بستی
بشر نجات یوہ نہایت مگر کام کران اس۔ تم
(یعنی لوط ہند شہر کر لوکھ) اُسو اکھ سپہاہ ناکار
قوم یعنی نافرمان۔

تہ اسر کور سہ (یعنی لوط) پسند رحمتس مفر
فاجل۔ سہ اوس سانو نیک بند و مفر۔

بیہ (کران یاد) توح نیلہ تمہ یتیمہ (یعنی ابراہیم

بہند واقعہ) بروٹھ (اسیر) آلو و تراو تہ اسیر بوز
تو سندر دغا۔ لہذا اسیر دیت مس تہ تہ
تہندین لوگن تہ اکہ بڑے قدری ہشتہ نجات۔
بہ کور اسیر تنس تہ قوم کس متھالیس منزند
نیم سانی نشانہ ایرادی ہوتی اسی۔ سہ اوس سپٹھا
خراب قوم۔ لہذا اسیر کڑی رقم ساری غرق۔

بہہ اکرن یاد، داوود تہ تہ سلیمان تہ بیلیلہ
تہ دونوں اکہ کھیبتہ ہندس تنازس منزند نا صلہ
کران اسی تہ وقتہ بیلیلہ کہ تو کور ککہ منزلہ سہ
کھیبتہ اسی (یعنی سہ تباہ کر تہ کتا ہوتی اسی) تہ
اسی اسی تہندہ نا صلہ گواہ۔

اسیر تور اہل معاملہ سلیمانس فکر تہ سارنہ اوس
اسیر حکم تہ علم عطا کورمت تہ اسیر اسی داوود اوس
سہتہ پہاڑی لوکھ تہ تہ جانا وار تہ کامیر لاکہ اسی
تہ ساری اسی خدیہ ہنر تسبیح کران تہ اسی اسی
یہ سورے کیبتہ کرنس پیٹھ قدرت تھوان۔

بہہ اوس سہ اسیر تہندہ با پیٹھ اکہ لباس تہ بناون
ہیچینو مت بیٹھ ز سہ تہندہ زو جنٹس منزند پچراو۔
لہذا کیا توہی بوجا شکر گزار؟

بہہ اوس اسیر واو تہ سلیمانہ ہند با پیٹھ قبول کر تہ
تھوومت تہ یس تہندہ حکمہ مطابق تہتہ زمینس تہ
کن چلن اوس بیٹھ اندر اسیر برکت تھوومتہ اسی
تہ اسی چہ سورے کیبتہ زانان۔

لَهُ فَتَجَمَّعَتْهُ وَاَهْلَهُ مِنَ الْكَذِبِ
الْعَظِيمِ ۝

وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا
بِآيَاتِنَا، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ
فَاعْرِفْنَاهُمْ آجْمَعِينَ ۝

وَ دَاوُدَ وَ سُلَيْمَانَ إِذْ يَخْكُمُونَ فِي
الْحَرْبِ إِذْ نَفَّثْنَا فِيهِمُ الْعُقُومَ
وَ كُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ۝

فَفَقَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، وَ كَلَّا أَتَيْنَا
حُكْمًا وَ عِلْمًا وَ سَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ
الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَ الطَّيْرَ وَ كُنَّا
فَاعِلِينَ ۝

وَ عَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ
لِيُخَصِّنْكُمْ مِنَ بَأْسِكُمْ، قَهْلَ أَنْتُمْ
شَاكِرُونَ ۝

وَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي
بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا،
وَ كُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ ۝

لہ فتنمہ: لفظی معنی پچہ تہہر کمر تہہ اسی منزند پچہ تہرن مراد ہمسایہ ملکلو لوکھ یکم سلیمان
علیہ السلام ہندس منکس منزند داوود پیدتہ لوٹ مار کران اسی۔

تہ یعنی زورہ بکرتیس جنٹس منزند انسانس حفاظت کران چہ۔

تہ یعنی حضرت سلیمان اوس بادبانی جہاز بناونک تہ چلاونک علم ایچیناوتہ امت۔

تہ یعنی سرزمین فلسطین کن اسی حضرت سلیمانہ بحری بادبانی جہاز مال ہوتہ یوان۔

وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَنْ يَغْوُ صُؤْنَ لَهُ وَ
يَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ
حَافِظِينَ ﴿۷۰﴾

بہ اسی کینیجہ سرکش لوگ تھے جو ہم تسند خاطر
سمندر منفر دنگہ دوران اسی تہ تمہہ وراہی
تہ اسی بہ کامہ کران تہ اسی اسی تہندہ با پتھ
نگرانی ہنر کام کران۔

وَ أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَيْنَ مَسِينِي
الضَّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿۷۱﴾

بہ (کران تہ) الوب (تہ یاد) نیلہ تمہہ پینس پرورنگار
آلو کر تھہ وون ز میانی حالت جھینہ یہ زہر تھیں
تکلیپین روٹمت تہ اے خدایہ! تہرے چھکھ

فَأَسْتَجِبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ
ضُرِّهِ وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ
رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذَكَرَى لِلْعَبِيدِينَ ﴿۷۲﴾

سارہ وے رجم کران والو کھوتہ جاہر رجم کران وول۔
لہذا اسہ بوز تمہہ سوشن زاری تہ یس تکلیف تس ووت
اوس سہ کورس دور بہہ دیت تس تسند اہل (عیال)
تہ بہہ دہس تہو وراہی پیند طرفہ رجم کران بہہ
تہ، تہ اسہ بنوویہ واقعہ عبادت گزاران ہندہ
خاطر اگھ نصیحتک باعث۔

وَ إِسْمَاعِيلَ إِذْ أَدْرَسَ وَذَا الْكُفْلِ
كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ ﴿۷۳﴾

بہ اسماعیل تہ (کران یاد) تہ ادرس تہ تہ ذوالکفل
تہ۔ ہم ساری اسی صبر کران واکر۔

وَ آذَخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِّنَ
الصَّالِحِينَ ﴿۷۴﴾

تہ ہم ساری اسی اسہ پینس رحمت منفر دنجس
کڑی متو۔ تہ ہم ساری اسی نیکوکار۔

وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ
أَنْ لَّن نَّقِدَّ عَلَيْهِ فِتْنًا ذِي فِي
الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

بہ ذوالنون (یعنی یونس تہ کران یاد) نیلہ سہ
تکھہ منفر گونہ تہ ولس اندر اوسس پوریقین زراہر
کرون تہ سہ تنگ۔ او معین منفر کوز تمہہ

۱۷ یعنی خلیج فارس ساحل پیچہ روزن واکر سرکش لوگہ بہند کارو بارہے
سمندر منفر دنگہ دتھ موختہ کھان اوس ہم اسی بحرین تہ مستط کس علاقہ منفر
حضرت سلیمان ہند خاطر کام کران۔

۷۰ اے آن کن نقدر علیہ، عام مفسرین چہ ترجمہ کران زہ حضرت یونس اوس خیال
کران زراہر بہکن تہ سہ رتھ۔ یہ معنی چھتہ اگس نبیس شایان شان۔
لغش منفر چھہ قدر علیہ تنگ کر تہ کس معنی ہس منترہ استعمال کرنہ یوان
یعنی حضرت یونس اوس خیال کران زراہر واقعہ سوتی کر تہ میہ اللہ تعالیٰ لامنگ بلکہ
دیم جاہر عزت۔

سُبْحَانَكَ يَا رُبِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۰﴾

اسے آلو (تہ و نون) نہ تزیہ سوا چھتہ کا شبہ
معبود، تہ چھکھ پاک تہ ہر اوسس بے شک
ظلم کرن والو اندر۔

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، وَ
كَذَلِكَ نُفَصِّحُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۱﴾

او کو بوز اسے تسد دُعا تہ غمہ نشت دیت تس
نجات تہ اسی چھہ یقہ پا کھر مؤمنن نجات دوان۔

وَكَهَرَبًا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي
فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴿۱۲﴾

بیسہ زکریا تہ (کرن یاد) بیلہ تمہ پینس پروردگار
آلو کریاو تہ و نین نہ اے میانہ پروردگار!
میہ مہ تراو کن زون تہ تہ چھکھ و ارث سپن
والو منہ سار و ہے کھو تہ بہتر۔

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ
وَاصْلَحْنَا لَهُ وَجَّهُ، إِنَّهُمْ كَانُوا
يُسرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَذْعُرُونَ
رَغَبًا وَرَهَبًا، وَكَانُوا الْتَاخِشِينَ ﴿۱۳﴾

تہ اسے بوز تسد دُعا تہ تس کور کیکی عطا تہ تسنہ
آشہ کر تسد خاطر صحت یاب۔ یکم ساری لوکھ
اسی نیکیمن مغز و زہ کران تہ اسے اسی محبتہ
تہ بہر سان آلو دوان تہ سانہ خاطر اسی
لیزی سان زندگی گزاران۔

وَالتِّي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا
فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَ
ابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿۱۴﴾

بیسہ سمہ زنان تہ (کرن یاد) بیگو پنہو شہرم رچہ
لہذا اسے کور تس پٹھ پن کیبہ کلام نازل تہ
سو تہ تسد نیچو تہ بنو دنیا ہر با پتہ کھ نشان۔

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا
رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿۱۵﴾

یہ تہنہز اُمت بہمیز ایک اُمت تہ ہر چیس تہنہ
پروردگار او کو کفر تو ہی میانی عبادت۔

وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، كُلٌّ
إِلَىٰ تَارِحَعُونَ ﴿۱۶﴾

بیسہ تمہو (یعنی نبیین ہندو مخالفو) چھہ پنہ
دین مکہ مکہ (کر تہ پستہ حالہ مطابق کھ مکہ
اختیار) کورمت (حالا کھ) تم ساری چھہ اسے
کن چھہ تہ انہہ میںہ والی۔

فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ
مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، وَإِنَّا
لَهُ كَاتِبُونَ ﴿۱۷﴾

او یس کا شبہ مناسب حال عمل کرتہ سستی اسے
مؤمن تہ تہ تمہ سنہز کوشش پیہ نہ رو کر نہ
تہ اسی تھو تمہ ہندو نیک اعمال یکھتہ۔

وَ حَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ
لَا يَرْجِعُونَ ﴿۱۸﴾

بیسہ پرتہ کھ بستی یو سہ اسے ہلاک کر ہنہ
چھہ تہ خاطر چھہ یہ قاصد کرتہ اُمت نہ
تمہ روزن والی میں نہ چھہ تہ ہنہ دنیا ہن اندر

حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَ
هُمُومِنَ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴿۱۰﴾

وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ
شَاحِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا
يَوْمَئِذٍ كَذَّبْنَا فِي عَفْوَةٍ مِنَ هَذَا
بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿۱۱﴾

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
حَصَبُ جَهَنَّمَ ؕ أَأَنْتُمْ لَهَا
وَارِدُونَ ﴿۱۲﴾

لَوْ كَانَ هُوَ آلَاءَ إِلَهَةٍ مَا دَرَدُوا هَاهُ
وَكَأَلْفِ فِيهَا خِلْدُونَ ﴿۱۳﴾

لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا
يَسْمَعُونَ ﴿۱۴﴾

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا
الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿۱۵﴾

لَا يَسْمَعُونَ حَيْثُ سَمَّوْا وَهُمْ فِي مَا
اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خِلْدُونَ ﴿۱۶﴾

لَا يَخْزَنُهُمُ الْقَبْرُ أَلَا كَبُرَ وَ
تَعَلَّقَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ
الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿۱۷﴾

یونان نہ ییلید یا جوج تہ ماجوجہ بند خاطر و روانہ
ییلہ تراونہ پیہ تہ تم تیلین دنیا ہس منز پر چہ
بہجہ تہ پر چہ سمندر چہ لہر پیچہ تر ہالہ ماران۔
بیہ پیہ (خدا پر سجدہ) پوز و عدہ نزدیک تہ
تہ وقتہ روزن کافر (جانانی ہستی) لوجہ
کڑو کڑو کوچھان تہ تم وزن۔ اسر پیچہ انوس!
اسو روڈی بیچہ دوہس متعلق سخت غفلتس منز
پیچہ، ایکہ اسو لوکھ تہ اسو ظالم۔

(تمہ وقتہ پیہ وقتہ نر) توہی تہ تہ یمن چرین
ہنر توہی اللہ (تعالیٰ) ہس ورائی عبادت
کران اسو سرسالم بن جہنمک زالن توہی
ساری سپرو تہ منز داہل۔

الربیم (بنوئی خدا یمن توہی خدا قرار دو ان چہو)
پڑی پاٹھو خدا اسپہن تہ یم سپہن ہن
جہتس منز تہ یم ساری روزن بیژ کال تام
تہ منز پیچہ۔

تم دن تہ منز کرکچہ تہ تم بوزن ہن تہ منز
(نکر تارن والو اندر کانبہ ہنر) کہہ۔

بے شک تم لوکھ یمن نسبت سانہ طرفہ نیک
سلوگک و عدہ پدمت چہ تم یمن تمہ جہنم
ہنترہ دور تھاو ہن۔

تم بوزن ہن تمیک تمس نام تہ تم روزن تہ
(حالتس) منز ہمیشہ بیچہ تمہندک دل بیڑھان چہ۔

بحر پریشانی ہند وقت تہ کر ہن ہن عثمانین۔
تہ ہن سمکھن ملایک تہ و شکہ یہ چہ تمہند
سہ وہہ نیمیک توہہ سنو و عدہ کرہ امت اول۔

یہ ماجوج یا جوج یعنی مغربی اقوام ییلید دوز میس منز پر چہ مادانس منز غالب
سپن تمہ پتہ سپر مورہ قومنز بیداری پاؤ۔ موجودہ تاریخ عالم چہ امر
پیشگوئی ہنر صد قچ گواہ۔

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ
لِنَكْتُبُ كَمَا بَدَأْنَا أَدَلَّ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ
وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿۵۱﴾

نیمہ دوہم اسی آسمان تھتھ پٹھو وٹھتھ ہون۔
یتھ پٹھو ہر پہر پکھو ہتھس وٹھتھ یوان
چھیلے۔ یتھ پٹھو اسر تھنہز پیدائش گوڈ پنچہ
لٹ شروع کڑ ہتھ اس تھتھ پٹھو کرو بیہ
دوبار، یہ چھ اسر پانس پٹھ لارزم کڑ تھ
تھومت۔ اسی چھ یتھ کرمک اراد تھاولن۔
بیہ چھ اسر زلزلہس منز کینہہ لٹچھتر کرتہ پتہ
یہ لکھتھ تھومت نہ (مقدس) سرزمینگو وارث
آن میاڈ نیک بندہ۔

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ
الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ
الضَّالِحُونَ ﴿۵۲﴾

یتھ (مفہولس) منز چھ اکھ پیغام تھ تھ قومہ
با یتھ یس عبادت گزار چھ۔
بیہ چھکھ تر اسر دؤ میہ با یتھ رحمت بنا و تھ
سوزمت۔

إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ ﴿۵۳﴾
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿۵۴﴾

تر ون نہ میں پٹھ تہ چھ صرف یہ وحی سپان۔
نر تھند چھ اکے خدا۔ اوکیا تو ہی ماڈی وا یہ
کتھ (کہ نہ)؟

قُلْ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ إِنَّمَا أَلَّهِمُّ إِلَهًا
وَأَحَدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ ﴿۵۵﴾

پتہ اگر تم تھر بھرن تہ تر ون یمن نہ میں
چھیلے تو ہر منز مؤمنس تہ کافر س (برابر خبر دتر
ہتھ تہ ہر چھیس نہ زمانان نہ سہ کتھ نیٹمیگ
تھہ سدی وعدہ کرتہ آمت اوس نزدیک چھا
کہ نہ دؤر چھیلے؟

فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ
وَإِن آذَرْتِي فَقَرَيْتُكُمْ وَإِن يَحْيِدْ
مَنِّي فَعَذَابُكُمْ ﴿۵۶﴾

خدا چھ تھی کتھ تہ زمانان تہ یہ تو ہی کھلٹھ تھاولن
چھو تہ تہ چھ زمانان۔

إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ
مَا تَكْتُمُونَ ﴿۵۷﴾

تہ ہر چھیس نہ زمانان نہ سہ کتھ یوہ سہ پٹھ

وَإِن آذَرْتِي لَعَلَّهٗ فَتَنَةٌ لِّكُمْ وَ


لہ السجّل ا طوار۔ نہ چھ کافذ فرد جو سہ گول کریمہ وٹھنہ یوان چھیلے پر اٹھس
زمانس منز اسہ کتابہ یتھ پٹھو لکھتھ یوان۔
لہ الارض: ارض مقدس یعنی پاک سرزمین (فلسطینک علاقہ)
لہ یعنی مسلمان اگر ارض مقدس یعنی فلسطین بیٹھ جان چھ تہ یمن چھ صالح تہ نیک یمن لازم۔

مَتَّاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿۱۱﴾

کتبہ بیان سپر مپز چیمہ (سوما آسہ تہند
خاطر اگہ آزمائش تہ (تمہ سوتی) چہا اگس
مدتس تمام تہہ بہ فایدہ و اتناون نظر تمل (کمنہ)
ہمیشہ ہمیشہ خاطر)۔

قُلْ رَبِّ اِخْلُفْ بِالْحَقِّ، وَ رَبَّنَا
الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰی مَا
تَصِفُوْنَ ﴿۱۱﴾

(محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) فرمود (یہ
وحی پیش پیٹھ) اے میانہ پروردگار! تہ کر
حقہ مطابق فاصلہ۔ تہ سون پروردگار چہہ رحمان
تہ (اے کافرو!) ہم کتہہ توہم کران چہو
بتن خلاف چہہ تسویش مدد منگنہ یوان۔



سورة حج : یہ سورہ چہہ مدنی تہ بسم اللہ چہہ اگہ کتہہ آیتہ یہ چہس داہ رکوع۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾

(بہر چہس) اللہ (تعالیٰ) سندا و ہتہ (پران)
یس حدہ یوس کرم کرن وول (تہ) چہہ کر چہہ کر
رحم کرن وول چہہ۔
اے لوگو! توہم پروردگار سندا تقویٰ
تہ کیاہ (فاصلہ کرن وول) بنیل لہ چہہ سہیٹاہ
بوڈ چہہ۔

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمۡ ۚ اِنَّ
زَلٰلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِیْمٌ ﴿۱﴾

یہیہ دوہہ توہم سہ بنیل وچہون۔ پر چہہ کانسہ
دوہہ ماجہ مشہ سہ یئیس سوہ دوہہ دوان آسہ
تہ پر چہہ محو بہ کھوہہ زنان کر مین حمل اولنگ۔
تہ تہر وچہو ہیکہ لوکھ زن آسن تم نشس
مغز۔ حالانکہ تم آسن نہ نشس مشہ۔ وہ ڈوڈو
اللہ (تعالیٰ) سندا عذاب چہہ جاہ سہخت۔

يَوْمَ تَرَوْهَا تَذٰهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ
عَمَّا اَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلُّ ذَاتِ
حَمْلٍ حَمْلَهَا وَ تَرٰى النَّاسَ سُكْرٰى
وَ مَا هُمْ بِسُكْرٰى وَ لٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ
شَدِیْدٌ ﴿۱﴾

یہ چہہ لاکو مشہ کیہہ تہتہو تہ آسان۔ ہم اللہ
(تعالیٰ) ہند حقہ زانہہ ورائی بحث چہہ کران

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِی اللّٰهِ
بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ یَتَّبِعُ كُلَّ شَیْطٰنٍ

لہ یعنی سہ آخری معیت یہیہ سوتی وڈی ہیکہ ساری نیاے اندن۔

مَرِيضٍ ①

(تر) پر تہہ حقہ ہنشتہ دور تہ ہتھی پھری ہنتر
پاروی چھ کران۔

(بوزوے تہ) بین (ہتھی پھری تہ حقہ ہنشتہ
دور لکان) محبت چھ حاصلہ کرنے آمت نہ یس
(شخص) تہ ہتھیو لوکو منتر کانسہ سستی یارانہ
لگہ سہ (ہتھی پھری تہ حقہ ہنشتہ تہ حینہ گوشت
شخص) کرتس تہ گراہ۔ تہ جہنہ کس غذا یس
کن تہ نہیں۔

اے لوگو! اگر تو ہی دوبارہ منہ میں متعلق شکس
منتر چھو تہ (یاد تھیو) اسہ اسی و تو ہی گوہ
منتر ہنشتہ یاد کر کر ہتھی اڈ لطفہ ہنشتہ پتہ ترقی
دتھ اگر تہ تھہ حائر ہنشتہ یوسہ لار تھہ تہ تھہ
تھامیت تھاولن اس تہ پتہ تہ تھہ حائر ہنشتہ
نر سو اس اکیس ماز چھلہ ہش۔ کینٹرس کاس
تام تہ روز سو اکر پور پور ماز چھلہ ہنتر شکل
تہ کینٹرس کاس تام اکر ارنیچ ماز چھلہ ہنتر
شکل ہتھہ نر اسی توہہ پیٹھ (تھقیقت حال) تھہ
راوو تہ یس چہرہ اسی سہ تھان چھن (سہ) چھن
شکر بان منتر اکیس سدنس تام تھہ ہاوتھہ
تھوان پتہ چھو اسی توہہ اکیس شکر ستر شکلہ
منتر نمبر کڈان۔ (پتہ چھو پور راوان گڑھان)
ہیمیک نتیجہ چھ یہ آسان نہ توہی چھو پنہ مہووی
(ہنتر وائسہ) تام و اتان تہ توہہ منتر چھو کینہ
تھو آسان ہم پنہ طبعی وائسہ و اتھہ مران چھ
تہ کینہ چھ توہہ منتر تھو آسان ہم پنہ انہائی
بچہ چہ وائسہ تام (تر) و اتان چھ ہتھہ نہ واریاہ
کینہ علم حاصل کرنے پتہ چھ علم ہنشتہ ہنتر
تہ ہرک سدان۔ بیہ چھین تہ زمین و چھان نہ
سو چھینہ (کرتہ کینہ) پنہ سورے طاقت راوراوتھہ
تہ تھان۔ پتہ ییلہ اسی تھہ پیٹھ آب

كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّى كَفَافًا
يُضِلَّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ
السَّعِيرِ ①

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ
الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ
ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن
مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ
لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ
مَا نَشَاءُ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ
نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِيَبْلُغُوا
أَشَدَّ كُفْرًا وَمِنْكُمْ مَّن يُتَوَقَّىٰ وَ
مِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَذًى لِّعُصْرِ
لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَ
تَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا
عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَدَتْ وَ رَبَّتْ وَ
أَنْبَتَتْ مِن كُلِّ ذَوْبٍ بِهَيْجٍ ①

نازل کران چھ تہ سو چھینے چیلن تہ نون تہ
پھولن ہوان تہ پرتھ کتہ تہسکو شوہر دار
فصل چھینے وہ پراوڑی ہوان۔

یہ چھ او کتہ سپان نر (کتی راو تہ بیہ نر اللہ
تعالے) ہے چھ قائم روزن واجزی تہ قائم تھون
واجزی ہستی بیہ چھ کتہ مؤدی متبن زند کران
تہ کتہ چھ پرتھ چیزس پیٹھ قومرت تھون وول۔

بیہ پرتھ چیز خاطر بیہ وقت گندھ چھ سہ روز
ضرور بیٹھ۔ اتمہ منز چھنہ کانہہ شک تہ اللہ
تعالے) تکرہ یقینا دو بار تبن بیم قبرن منز چھ۔
بیہ چھ لاکو منز کینہہ تھو تہ آسان بیم اللہ
تعالے) ہس متعلق کلمہ وراوی تہ صلیتہ وراوی
تہ کتہ کاشری کتابہ وراوی بحث کران چھ
(اتمہ حالتس منز)۔

نر پیڑو روح چھ بدلوتھ آسان (یعنی کبرک
اظهار چھ کران) بیٹھ نر اللہ تعالیٰ) سنز
وتہ نشہ لوکن گمراہ کرن۔ یقینن لوکن کتر اہر
دنیاہس منز تہ رسوائی تہ قیامتہ کہ وہ بہ تہ
واتناوہ اوسو اتمن ذرون عذاب۔

تہندبو اتھو یہ کثیرھا (علمہ رنگی) بروٹھ کوربت
اوس۔ تہ کس نتیجس منز سپد یہ کتہ تھو بیہ
اتمہ سوتی سپد معلوم) نر اللہ تعالیٰ) چھنہ پنپن
بندن پیٹھ ہرگز کتہ تہسک ظلم کران۔

بیہ چھ لاکو مغز کینہہ) تھو تہ آسان بیم اللہ
تعالے) سنز عبادت صرف بینہ گار پاتھو کران
چھ۔ او اگر اتن کانہہ قائمہ واتہ تہ تم چھ تھ
(عبادتس) پیٹھ خوش سپان۔ تہ اگر اتن کانہہ
اذا واتہ تہ پس نہ بھتہ سیورسے چھ پھیرتھ
گرشعان۔ تم چھ دنیاہس منز تہ کالمس منز
پوان تہ آخرتس منز تہ، تہ یو ہے چھ نزلانہ

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّهُ يُخَيِّ
الْمَوْتٰى وَاَنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١﴾

وَ اَنَّ السَّاعَةَ اَتِيَةٌ وَّلَا رَيْبَ فِيْهَا ؕ وَاَنَّ
اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ ﴿٢﴾

وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ
بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدٰى وَّلَا كِتٰبٍ
مُّنِيْرٍ ﴿٣﴾

ثٰلِيًا عَظُمَ لِيُضِلَّ عَن سَبِيْلِ
اللّٰهِ ؕ اِنَّ فِي الدُّنْيَا لِحٰزِيْ وَاَنَّ
نُزِيْقَةَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ عَذَابٌ
الْحَرِيْقِ ﴿٤﴾

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ يَدَكَ وَاَنَّ اللّٰهَ
لَيْسَ بِظَلّٰمٍ لِّلْعٰبِدِيْنَ ﴿٥﴾

وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَّغْبُو اللّٰهَ عَلٰى
حٰزِفٍ ؕ اِنَّ اَصٰبَهُ حٰزِيْرٌ اَطْمَآتٌ
بِهٖ ؕ وَاِنَّ اَصٰبَتْهُ فِتْنَةٌ اِنْقَلَبَ
عَلٰى وُجُوْهِمْ تَخٰسِرَ الدُّنْيَا وَاْلآخِرَةِ ؕ
ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرٰنُ الْمُبِيْنُ ﴿٦﴾

کھاڑے۔
تم چھ اللہ (تعالے)، بس ورازی تھے چہرس ناد
دوان لیس تو تمن نو قصان و اتناوان چھ تہ نہ
چھکھ نفع دوان تہ میہے چھینہ حد و زچ گراہی۔
تم چھ تس شخصس ناد دوان میو مند نو قصان
تمو مند نفع نشہ جاو قریب چھ۔ بیتہ آخہ تہ چھ
سپٹھاہ ناکار تہ بیگو ستر باجو تہ چھ سپٹھاہ یکھ۔
بے شک اللہ (تعالے) کر مؤمن یکم مناسب حل
عمل تہ کران چھ۔ تحقیق باعن مشر دا نزل یکن
(ہندک شہلین) تل منہر پکان چھینہ۔ اللہ (تعالے)
بے بیٹھہ (نہ) چھ کران۔

لیس شخصس بے یقین تھوان چھ نہ اللہ (تعالے)
کر تہ تس (یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم)
زانہ مدو۔ نہ دنیا بس مغز نہ آخرتس مغز،
تہ تس پز ز سہ کھابن اکہ رز آسانس تام تہ
تھہ پیٹھ کھین، پتہ تڑن سولہ۔ پتہ وھین ز
تمو مند تدبیر چھا سو کتھ ڈالان یو سہ تس تھ
کھالان چھینہ (یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہندک
آسانی امداد تہ کامیا بی)۔

بہ اسر چھ یہ (قرآن) تھہ پاٹھو ٹنی ٹنی نشاؤ
بناو تھہ نازل کورمت۔ تہ اللہ (تعالے) بیس
متعلق تہ اراد کران چھ تس چھ یقیناً صحیح و کھ لوان۔
بے شک یو لوکو (محمد صلی اللہ علیہ وسلم)
پیٹھ (ایمان اذن تہ تم لوکھ یکم بیہودی بنے یہ
تہ صابی تہ نصرانی تہ یوسی تہ تم لوکھ بیو شرک
کور۔ اللہ (تعالے) کر قیامتس دو ہ بے شک
تمن درمیان فاصلہ۔ اللہ (تعالے) چھ یقیناً
پر چھ کتھ چہرک بہران۔

يَذْعُو مِنَ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْصُرُهُ وَمَا
لَا يَنْفَعُهُ، ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْجَبِيْدُ ﴿۱۷﴾

يَذْعُوَ الْمَنُّ صَرْفًا أَقْرَبَ مِنْ نَفْعِهِ،
لَيْسَ الْمَوْلَى وَ لَيْسَ الْعَشِيْرُ ﴿۱۷﴾

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ
عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا
يُرِيدُ ﴿۱۷﴾

مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ
فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ قَلِيْمًا
يَسْبَبُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعَهُ فَلْيَنْظُرْ
هَلْ يُدْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِيْظُ ﴿۱۷﴾

وَ كَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، وَ
أَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ ﴿۱۷﴾

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هَادُوا
وَ الصَّابِغِينَ وَ النَّصْرِي وَ الْمَجُوسَ
وَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَجْمَعِينَ إِنَّ اللَّهَ بِفِصْلِ
بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ﴿۱۷﴾

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي
السَّمٰوٰتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَ
القَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ
وَالدَّآبُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَ
كَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن
يُؤْمِنِ بِاللَّهِ فَمَّا لَهُ مِن مَّكَرٍ ؕ إِنَّ
اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿١١﴾

(۱) اے اسلام کو مٹا لے، تیرے چھکھکاٹے اور چھپانے والے کاٹھے
تیرے آسمانوں میں چھپنے والے چھپنے والے اللہ (تعالیٰ) سے تیرے
فرمانبرواری کرانے تیرے جیسے پامٹو میس کاٹھے زمین پر
میں چھپنے، سب سے اختاب تیرے، تیرے زون تیرے، تیرے تارکھ تیرے
تیرے بل تیرے تیرے تیرے تیرے چاروازی تیرے، تیرے لاکھ مشن تیرے واریا
اچھے تہنہ تیرے فرمانبرواری کرانے، تیرے لاکھ مغز تیرے چھپنے
اللہ بڑے جماعت تیرے ہفتہ متعلق عذاب تیرے فاصلہ
سیدھے تیرے تیرے تیس خدایا لیل کر تیرے چھپنے کاٹھے
عزت و بڑے ول۔ اللہ (تعالیٰ) یہ کینترھا یہ تہنہ
چھپنے تیرے چھپنے کرانے۔

هٰذِهِنَّ حَٰضِرَاتٌ اِخْتَصَمْنَ فِي رَيْبِهِمْ
فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ذِيَابٌ
مِّن تَارِدٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمْ
الْحَمِيمُ ﴿١٢﴾

یہ پانچ وادی مخالفت کرانے والی تیرے ڈرکے چھپنے تہنہ
پہنہ پنہن پروردگار بندہ حقہ جھگڑ کرانے چھپنے۔ لہذا
یہ اللہ (تعالیٰ) بندہ پنہن (پہنہ کتہ بیان کرانے تہنہ)
صفتن ہندے منکر سیدے پنہن کتہ پنہن تاروکے پلو
تیار کرانے تیرے تہنہ پنہن کتہ پنہن پنہن پنہن گر کتہ پنہن
آب ترازو پنہن۔

يُضْهِرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ﴿١٣﴾

(یوت تمام تیرے) ابرسر آبرے سترے یہ کینترھا تہنہ پنہن
تیرے منہ آبرے سترے وگلے تیرے تہنہ پنہن مسلے تیرے
(پنہن کارنہ)۔

وَلَهُمْ مَّقَامٌ مِّنْ حَدِيدٍ ﴿١٤﴾

سب سے (پنہن) تہنہ پنہن با پتہ سشترے وکے ٹونگ (تیار
کرانے)۔

كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ
عَمَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَابْتِغَاوْا فِيهَا مَخْرَجًا
الْحَرِيقِ ﴿١٥﴾

یہ تہنہ پنہن تیرے فکر بندہ با پتہ تہنہ عذاب تہنہ
تیرے پنہن کوشش کرانے تیرے پنہن پنہن پنہن تہنہ کتہ
چھپنے تہنہ پنہن (تیرے و تہنہ پنہن پنہن) زانوں وول عذاب
تہنہ سو تہنہ پنہن۔

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا
مِمَّن لَّمْ يَكُنِ الْفِتْنَةُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن نَّبِيِّينَ
آخَرِينَ وَمَن يَكْفُرْ
بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ﴿١٦﴾

اللہ (تعالیٰ) تہنہ پنہن پنہن مؤمن پنہن مناسبت حال
عمل تیرے کرانے چھپنے تہنہ پنہن با عن منہن۔ پنہن (پنہن)
سائیں، مثل منہر پنہن آسن۔ پنہن پنہن پنہن (پنہن)

منز سونہ بندہ تہ مونجہ جڑتھ کڑی لاکہ تہ تہند
لباس آسہ تھہ منز پائیو۔

تہ رتن پیہ پاک کتھن کُن رہنہائی کرنہ تہ اللہ
(تعالیٰ) ہندس طلقین کُن پیکیہ ہدایت کرنہ۔

(مگر) تم لوگ ہم کا فرجیہ تہ اللہ (تعالیٰ)
ہنرہ و تہ رتہ چہ روٹ کران تہ بیت اللہ ہس
کُن مرشہہ رتہ تہ یس اسہ سارنہ انسان
ہندہ فایدہ خاطر ہنومت چہ ، تہندہ خاطر تہ ہم
تھہ منز بہتہ خدایہ ہنرہ عبادت کران چہ تہ
تہندہ خاطر تہ ہم جھکن منز روزان چہ۔ تہ
یس اکھاہ اتھہ منز ظلمہ چہ و تہ کاتھہ ہجر یاد
کرنہ پیٹھہ تس دمواسی دگر دار عذاب۔

بیہ (کریا) پیلہ اسہ ابراہیمس بیت اللہ چہ
جایہ سنگ موقعہ ڈراو (تہ و تیس) زکاتہ
چہ بناوز نہ میون شریک تہ میون گرنہ
طوات کرن والین ہندہ خاطر پاک ، تہ استاد
سدتہ عبادت کرن والین ہندہ خاطر ، تہ رکوع
کرن والین ہندہ خاطر ، تہ سبجہ کرن والین
ہندہ خاطر۔

بیہ کر تمام لوکن منز اعلان نہ تم آسن حجہ
کہ نیہ تریہ رتہ یوان۔ پیدل پکان پکان
تہ ، تہ پرتھہ تہرہ سوار پیٹہ تہ یوسہ زیٹہ
سفر کہ ہاعثہ ہرے ہنرہ آسہ۔ (یترہ سوار)
مین دور دور پیٹہ سنہو وتو کئی پکان۔

بیٹہ نہ تم (یعنی بیٹہ والی) تم تقع و حین
ہم تہندہ خاطر (مقرر کرنہ آہتر) چہ۔ تہ کثیرن
گڈتھ وہ ہن منز کرن اللہ (تعالیٰ) ہس
یاد تمو نمشو ہندہ ہاعثہ۔ ہم اسہ رتنہ دژ
منہ چہیہ۔ (یعنی) بڑن چارواں ہندہ ہوسو

أَسَاوَدَ مِنْ ذَهَبٍ وَ لَوْلَا اِ
لْبَاسُ لَهُمْ فِيهَا حَرِيْرٌ ﴿۷﴾

وَهُذُوْا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ۚ
وَهُذُوْا اِلَى صِرَاطِ الْحَمِيْدِ ﴿۸﴾

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَصُدُوْنَ عَنِ
سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
الَّذِيْ جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَآءٍ
فِيْهِ وَ الْبَادِيَةِ وَ مَنْ يُرِدْ فِيْهِ
بِالْحَاۗءِ يُظْلَمْ لُزُقُهُ مِنْ
عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿۹﴾

وَ اِذْ بَوَّأْنَا لِاِبْرٰهِيْمَ مَكَانَ
الْبَيْتِ اَنْ لَا تُشْرِكَ بِىْ شَيْئًا
وَ طَهَّرَ بَيْتِيْ لِلطَّآئِفِيْنَ
وَ الْقَائِمِيْنَ وَ الَّذِيْكَ
الشَّجُوْدِ ﴿۱۰﴾

وَ اِذْ نَفَخْنَا فِيْ النَّاسِ بِالْحَجِّ
وَ يَأْتُوْكَ رِجَالًا وَّ عَلٰى
كُلِّ صَآءٍ يَأْتِيْنَ مِنْ
كُلِّ نَجْحٍ عَمِيْقٍ ﴿۱۱﴾

لِيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَ يُذَكِّرُوْا
اِسْمَ اللّٰهِ فِيْْ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمَتٍ
عَلٰى مَا رَزَقْتَهُمْ مِنْ بَهِيْمَةِ
الْاَنْعَامِ ۚ فَكُلُوْا
مِنْهَا وَاَطِعُوْا النَّاسَ الْفَقِيْرَ ﴿۱۲﴾

مفز (شمالے گاؤ، وڈنٹ بیٹیر) او کوئی پیر
 نہ توہی کھینبو (پانہ تہ) ہتھند ماہ تہ تکلیف
 اندر پیمپس تہ نہ پیمپس تہ کھیا ولون۔
 پتہ کرن پین مل دور تہ پنڈو نڈانہ کرن پور تہ
 پراہ مرگ ایسے خانہ کعبہ کرن طواف۔

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لِيُؤْفُوا
 نُذُورَهُمْ وَ لِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ
 الْعَتِيقِ ﴿۳۰﴾

کہتے چھتے یہ نہ ایس شخص اللہ (تعالے) بہترن
 مقرر کرے مشرن عزتہ واجہن جان ہند تعلیم
 بجاناں چھ تہ یہ چھ تہندس پروردگارس نش
 تہند خاطر جان آسان، تہ اے موبنو! تہند
 باپتہ چھ (ساری) چارواہی حلال کرنہ آہو، تمو
 وراہی ہتھند حرام آسن قرآنس مفز بیان سپدت
 چھ، بہر حال پیر نہ توہی پچو پوتو پوزا
 ہند بشر کہ ہتھ بیہ (یتھے پاتھو) پنڈی عبادت
 تہ فرما تہ وراہی صرف اللہ (تعالے) سہند
 خاطر محفوس کران۔ پچو اپز ونہ ہتھ۔ (تہ)
 توہی مہ بنا وون کاہنہ خدایہ سہ شریک تہ ایس
 کانسہ اللہ (تعالے) سہ شریک بناوان چھ سہ زن
 چھ آسانہ پیٹھ وری پچوان تہ جاناوار چھ ہس
 نصیبہ دتھ نوان تہ واو چھ تس کتہ دور جاہی
 ورتھ وون۔

ذٰلِكَ هُوَ الَّذِي يُعَظِمُ حُرْمَتَ اللّٰهِ فَهُوَ
 خَيْرٌ لَّكَ عِنْدَ رَبِّهِ ۚ وَ اَجَلْتَ لَكُمْ
 الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يُثَلٰى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوْا
 الرَّجَسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَ اجْتَنِبُوْا قَوْلَ
 الرَّذٰوِثِ ﴿۳۱﴾

حُنْفَاءً ۚ لِلّٰهِ عَنِ مَشْرِكِيْنَ ۚ بِهِ ۚ وَ مَنْ
 يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَانَ خَطَاً مِنَ السَّمَآءِ
 فَتَخَطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِيْ بِهٖ
 الرَّيْحُ فِىْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ ﴿۳۲﴾

حقیقت چھتے یہ نہ ایس شخص اللہ (تعالے)
 بندن مقرر کرے ہتھن نشان ہنر عزت کر
 (تہند) یہ (فعل) یہیہ وون ہند تقویٰ مانہ۔
 (یاد تھو تہ) تمو قربانو ہتھ چھو توہس
 اکیس مدتس تمام نفع حاصل کرن چاہز۔ پتہ
 چھ لڈیم ہم خدایہ ہندس پر ایس گرس (خانہ
 کعبس) تمام واتناونہ۔

ذٰلِكَ هُوَ الَّذِي يُعَظِمُ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا
 مِنْ تَقْوٰى الْقُلُوْبِ ﴿۳۳﴾

لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعٌ اِلَّا اَجَلٌ مُّسَمًّى ۚ
 ثُمَّ مَحِلُّهَا اِلَّا الْبَيْتَ الْعَتِيقِ ﴿۳۴﴾

یہ پر چھ توہم باپتہ چھ اسمہ قربانی ہند اکھ
 طریقہ مقرر کورت یتھ نہ ہم ہتھن چارواہن

وَ لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا
 لَّيْذُكُرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا رَزَقْنٰهُمْ

مَنْ بِهِمَّةٍ أَلَانَعَامَ ، فَإِلَهُكُمْ
إِلَهُهُ وَآجِدُ قَلْبَهُ أَشْلَمُوا ، وَبَشِّرِ
الْمُحْسِنِينَ ﴿۲۰﴾

الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ
وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا آصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي
الصَّلَاةِ ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿۲۱﴾

وَالَّذِينَ جَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ
اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ، فَأَذْكُرُوا
اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ ، فَإِذَا
وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَ
أَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ، كَذَلِكَ
سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۲۲﴾

لَنْ يَتَّكَلَ اللَّهُ لِحُومِهَا ، وَلَا ذِمَّاتُهَا
وَ لَكِنْ يَتَّكِلُ التَّقْوَى وَ مِنْكُمْ ،
كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكْتَبُوا مِنَ اللَّهِ
عَلَى مَا هَدَى كُمْ ، وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴿۲۳﴾

پیٹھ پر اللہ (تعالیٰ) ہیں تمہیں بخشاؤ کہ تمہی
چھ ، اللہ (تعالیٰ) سُنَد ناو ہیں (یاد تھو ز)
تہند خدا چھ اگ خدا۔ لہذا توہی کرو تہند
نرنا میر داری۔ بیہ ہم (تھیں) برو نہو کسہ
عاجزی کرن واک چھ ، تمہن و غم شخبر۔

بہتین لوکن میں برو نہو کسہ سبیلہ اللہ (تعالیٰ)
سُنَد ناو ہوتہ بیہ تہ تہند بن دن چھ تھہ
اثران ، بیہ تمہن لوکن تہ (و غم شخبر) ہم
پنس پانس میں والین معیتن پیٹھ ہر
کران چھ۔ بیہ نماز قائم کران چھ۔ بیہ یہ
کیشرھا اسہ تمہن دیت مت چھ۔ تمہ منتر
چھ (سائہ رضامندی باپتھ) خرچ کران۔

بیہ چھ اسہ قربانہ ہندی لونٹ تہندہ باپتھ
شعائر اللہ بناو ہوتی۔ تمہن منتر چھ تہندہ
باپتھ سبھا جانہر۔ لہذا صفتن مغز اسناد
کرہہ تمہن پیٹھ پیٹھ خدایہ سُنَد ناوہ
بیہ سبیلہ تہندہ لم تھہ سوتی لکن تہ توہین
تہندہ ماہر (منتر کینیو پانہ تہ تہ تم تہ کھیاولکھ
ہم پنس غرہتس پیٹھ قناعت کرہہ چھ تہ ہم
تہ کھیاولکھ ہم پستہ عزبتہ کرنی پریشان
چھ ، بیٹھ پانگو چھ ہم جانور اسہ تہندہ
فایدہ خاطر بناو ہوتی میٹھ تہ توہی شکر گزار ہوتی
(یاد تھو ز) میں قربانین ہند ماہ تہ تہ چھ
ہرگز اللہ (تعالیٰ) ہس تمام واتان۔ مگر تہندہ
وکت تقویٰ چھ (در حقیقت) اللہ (تعالیٰ) ہس
تمام واتان۔ پتھ پانگو چھ اللہ (تعالیٰ) ہس
(دراصل) تم قربانیہ تہندہ خدمتس منتر لا جہرہ
یٹھ تہ توہی اللہ (تعالیٰ) ہند ہدایتہ کرنی توہی
سُنَد بجر بیان کرو بیہ دتر اسلامکی حکم پلوہ
پانگو ادا کرن والین غم شخبر۔

إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿۱۱﴾
 ﴿۱۱﴾ یمولوگو ایمان اؤتمت چھ لے شک اللہ
 (تعالے) روز تہندہ طرفہ بجاو کران - اللہ
 (تعالے) چھنہ یقینا پر چھ خیانت کرن واپس
 (تہ) انکار کرن واپس پسند کران -

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا ۗ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿۱۲﴾
 اذین لیلذین یقتلون بانہم ظلموا
 (تہ) چھ تم لوکھ بین سہو (ناحقہ) جنگ کرنہ یوان چھ
 (تہ) چھ (جنگ کرنک) اجازت دہ یوان
 تہ کیا تہن چھ پھہ چھ ظلم کرنہ آمت تہ
 اللہ (تعالے) چھ تہندس مددس پھہ تہوت
 تھوان -

(بیم چھ تم لوکھ) بیم تہندبو مرواندر صرف
 تہندس سیتے و متنس پھہ ز اللہ (تعالے)
 چھ سون پروردگار، کا منہہ جایز وجہ آسنہ
 ورائے، کڈنہ آسے - تہ اگر اللہ (تعالے)
 تہو (یعنے کافرو) مفر کینترن کینترن ہند
 دوسو (شرارتہ ہنتہ) پھہ رٹ ہے نہ تہ
 عیسائین ہندی گرجہ تہ یہودین ہنہر عبادت کا ہہ
 بیہ واریاہ قسمکی عبادت خانہ تہ مسجدین منہر اللہ
 (تعالے) سندناد جاد جاد ہنہ یوان چھ، بیہ ہن تباہ
 کرنہ تہ اللہ (تعالے) کر یقینا سندن مددس نس (یعنے
 تہندس دہنس) مدد کر - اللہ (تعالے) چھ یقینا
 سبھا طاقت ور (تہ) قلوب -

بیم (یعنے مہاجر مسلمان) چھ تم لوکھ نہ اگر اوسو
 (تہ) دنیاس اندر طاقت بخشو تہ تم کرن نماز
 قایم تہ زکوٰۃ دن تہ نیک کھن ہند دن حکم
 تہ ناکار کھو رتہ رن پتہ تہ سارہے کامین
 ہند انجام چھ خدایہ ہندس افس منہر -

تہ اگر (بیم دشمن) تریہ ایزوان چھی تہ یمو
 برونٹہ تہ اوسو (یعنے نبی) ایزاوی ستر نوح
 ہندک قوم تہ عادی ہندی قوم تہ نمود ہندی قوم تہ
 بیہ ابراہیم ہندی قوم تہ تہ لوٹ ہندی قوم

وَالَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ
 حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْ
 لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ
 بِبَعْضٍ لَهَادِمَتِ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَ
 صَلَوَاتٌ وَمَسْجِدٌ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ
 اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَ لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن
 يَنْصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿۱۳﴾

الَّذِينَ إِنْ مَكَتْلَهُمْ فِي الْأَرْضِ
 آقَامُوا الصَّلَاةَ وَ آتَوُا الزَّكَاةَ وَ
 أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ
 الْمُنْكَرِ ۗ وَ لِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿۱۴﴾

وَ إِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ
 قَوْمُ نُوحٍ وَ عَادٌ وَ ثَمُودٌ ﴿۱۵﴾

وَ قَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَ قَوْمُ لُوطٍ ﴿۱۶﴾

وَاصْحَابُ مَدْيَنَ ۚ وَكَذَّبَ مُوسَىٰ
فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ۚ
كَفَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۝

فَكَأَيُّنَ مِن قَدِيحٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ
ظَالِمَةٌ فِيهَا خَاوِيسَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَ
بِئْسَ مُعْتَلَّةً وَذُصِرَ مَوْشِيهِ ۝

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ
لَهُمْ قُلُوبٌ يَغْفُلُونَ بِهَا أَوْ أَذَانٌ
يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى
الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي
فِي الصُّدُورِ ۝

وَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ
يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ
رَبِّكَ كَأَيْفٍ سَنَةٍ يَمَّا تُعَدُّونَ ۝

وَكَأَيُّنَ مِن قَدِيحٍ أَمَلَيْتُ لَهَا وَ
هِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتَهَا ۚ وَالْيَٰ
الْمَصِيرُ ۝

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا آتَاكُمُ تَزْوِيرُ
مُؤْمِنِينَ ۝

فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝

تہ -
بہ مدین کبر لولو تہ - تہ مؤمنی تہ اوس
ازاونہ آمت - لہذا میںہ ڈر انکار کرن والین
کئیہ موبلت پتہ رزم تم لہذا (سوجو ز)
میون انکار کئیہ خطرناک اوس -

بہ کا ترا ہے بستہ چھینہ یکم اسہ تہہ حالتس منز
ہلاک کرے پہ نہ تم آسہ ظلم کران تم چھ
از پسنین پسن پٹہ پتھر پتھر بہ کاتیاہ
کہر کہ چھ یکم لے تراوتہ ترہنتہ آہو چھ
بہ کاتیا تھہر تھہر قلا یہ چھ یکم تہاہ
کا ہو چھ -

کیا تم چھنا زمینہ مغز پکچہ و چھان میتہ نہ
تمن تھہ دل حاصل سپن یکم (تہہ کتہ)
زاتہ مہکن؟ یا تھہ کن سپنکھ حاصل یکم
(تمہ کتہ) بوزتہ مہکن؟ تہ کیا نہ اصل کتہ
چھینہ یہ نہ انبو چھنہ اچھن پٹہ آسان بلکہ
اڈی چھہ دل گڑھان یکم سین مغز آسان چھہ -
یکم لاکھ چھہ عذاب منگس منز مومنا دل کران اڈی
اللہ (تعالیٰ) چھنہ زانہہ پن وعدہ اپز کران -
تہ دکاٹہ) کانہہ دوہ چھہ خدایس انش تہہنز
گرینیز حسابہ ساتس ولس برابر آسان -

بہ کا ترا ہے بستہ چھینہ یکم (گوڈ) تہ میںہ
موبلت ڈر - ہلاکہ تم آسہ ظلم کران پتہ
رچہ میںہ تم تہ میںہ کن چھہ سارے چھہ تھہن

تہ ون اے لولو! بر چھس تو بہر کن صرف
اگس ہتیار کرن واد ہندہ حشیتہ آمت -

او کہو یکم ایمان ان تہ (تمہ کہ) مناسبت
حال عملہ کرن اتھن سپر (خدایہ سنہ) بخشش
تہ عز تہ وول رزق حاصل -

وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُجْرِمِينَ
أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿۱۷﴾

تو ہم لوگوں کو سائیں نشان متعلق جدوجہد
کرو (امیر غفر) تو ہم کرن (اسی) عاجز ہم
لوگوں چھ جہنمیں مفر سہن واول۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ
وَلَا نَحِيٍّ إِلَّا آدَاةَ مَلَأَ الشَّيْطَانُ
فِي أُمْنِيَّتِهِمْ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي
الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۱۸﴾

بہ سوز تو اسے خزیہ برونیہ کا شہ رسول تو
کہ کا شہ نبی مگر نیلیہ تو تمہو اراد کوز شیطان
تراوی تہنیز یشہتو چہ ویت مفر مشکلات
پتہ یہ شیطان تراوان چہ اللہ (تعالیٰ) چہ
تہتہ تہتاوتہ ترصان تو ہم تہندر پتہ نشانہ
آسان چہ ہم چہ مفبوط کران تو اللہ (تعالیٰ)
چہ سہتا زان وول حکمتہ وول بلہ

لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً
لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَاللَّزِيمَةُ
الْقَاسِيَةُ قُلُوبُهُمْ ؕ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ
لَفِي شِقَاقٍ بَحِيدٍ ﴿۱۹﴾

تہتہ چہ یہ سہان تو ہم (مشکلات) شیطان
پاؤ کران چہ ہم چہ ہم لاکن ہند خاطر کھوند
لنگ باوت سہان بین ہندین دن مفر
بیارک آسان چہ تہ ہندو دل سہت آسان چہ
تہ عالم لوگوں چہ (پر پتہ خدای کتہ ہنر) شہد
مخافت کرنس پتہ ہول گندتہ روزان۔

وَالَّذِينَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ آتَاهُ
الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ
فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ ؕ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادٍ
الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۲۰﴾

تہ (یہ سورے کینہ چہ او کوز سہان) سیتہ نہ
ہم لوگوں ہم غلبہ واول آسان چہ، زان نہ سہ
(یعنی قرآن) چہ چانس پروردگار ہند طرفہ لور لور
پرز تو تہتہ پتہ ان ایمان تو تہندو دل من تہتہ
برونہ کتہ تو اللہ (تعالیٰ) چہ مؤمن ضرور
سینر ویتہ کون ہایت بخشن وول۔

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِزْيَةٍ
مِنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً
أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ عَقِيبِهِمْ ﴿۲۱﴾

تہ کافر روزان اتہ (قرآنس) متعلق شمس مفر
پتہ تہتہ وقتس تام نہ (تباہی ہنر) گر پیہ
ہنگتہ منگہ یا پیہ، تمن نش تمہ دہک عذاب میں
پانس پتہ کن کینہی تو چہ تروان۔

۱۷ مفسر چہ یہاں نہ یلہ کا شہ ہی خدای لاک پران چہ شیطان چہ اللہ الہی لاکس مفر واول کران وول
عسل علی اسلام چہ تہتہ ہی نہیں شیطان چہ تہتہ ہیتہ عقیدہ چہ مریا نہیں تو رسول ہند ہتک اگر یہ کتہ
صحیح اسے تیلہ مفر سورے الہی کلام مستحبہ۔

تمہ دوہہ آسہ سارے پادشاہی اللہ (تعالیٰ) سے منجز ہے۔ سہ کرمتن درمیان قاصدہ۔ لہذا مؤمن ایمانہ کہ حالہ مطابق عمل تہ کران آسہ تم روزن نعمتہ والین جنتن منجز۔

بہہ کافر تہ سامنہ آسہ ہندک منکر تہ چہ تم بہند خاطر رسوائی ہند عذاب (مقدر) چہ۔

بہہ تم لوکہ ایم اللہ (تعالیٰ) منجز و تہ منجز ہجرت کران چہ۔ پتہ چہ قتل کرنہ لوان یا پنی تھنہ چہ مران۔ اللہ (تعالیٰ) بخشہ بہن منہایت تھنہ انعام تہ اللہ (تعالیٰ) چہ انعام بخشن والبوشن ساروہے کھوتہ رت۔

سہ کر ضرور بہن تہنہ جاہ منجز اول بیتھ تم پسند کرن تہ اللہ (تعالیٰ) چہ سبھا زانن وول (تہ) سبھا گاڑ جار تھون وول۔

یہ کہتہ چھینہ بیتھ پاٹو تہ یس شخص تہوتہ سزا دہے یوت تس تکلیف دہے آمت اوس، مگر تہ کر تھ تہ پیہ (تند و شمن) تس پیہ حملہ کر تھ تہ اللہ (تعالیٰ) کر ضرور تس مسد۔ اللہ (تعالیٰ) چہ بے شک سبھا معاف کرن وول (تہ) سبھا بخشن وول۔

یہ (جز بک تہ سز بک سلسلہ) چہ او موکھ جاری نہ ثنابت سپر نہ اللہ (تعالیٰ) چہ رازہ دوہس مغز اول کران تہ دوہس چہ رازہ منجز اول کران تہ اللہ (تعالیٰ) چہ یقیناً (دعا) سبھا بوزن وول (تہ حالات) سبھا و تھین وول۔

یہ (دعا بوزن تہ حالو نشہ باخبر روزن) چہ او بکنو نہ اللہ (تعالیٰ) چہ پنسن ذاتس مغز تاہم تہ دوئین چیزن چہ تاہم تھون، بہہ او بکنو نہ بیتھ چیزس تم خدائس ورائی آلو کران چہ سہ چہ تباہ سپدن وول بہہ او بکنو نہ اللہ (تعالیٰ)

الْمَلِكِ يَوْمَ مَعِيذَتِهِ، يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي حَبْطِ النَّوْمِ ④

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، فَاُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ⑤

وَالَّذِينَ هَا جَرُّوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قَاتَلُوا أَوْ مَاتُوا لَيُبَٰرِزَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ ⑥

لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ⑦

ذٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبْ بِمِثْلِ مَا عُوِّقَ بِهِ، ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ⑧

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يُوَلِّجُ النّٰهَارَ فِي النّٰهَارِ وَيُوَلِّجُ النّٰهَارَ فِي اللّٰيْلِ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيْرٌ ⑨

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ⑩

ہے چھ سارے کھوتے بالاتر سارے کھوتے
بڑے۔

کیا ثریہ چھتتا وچھتت ز اللہ (تعالے) ہن چھ
آسمانہ پیٹھ آب وول مت، نیمیر سوتی زمپن
سزاسپن سپان چھیز؛ اللہ (تعالے) چھ
بے شک (پننن بنن سوتی) مہربانی ہند
سلوک کرن وول۔ بیہ چھ (تہند بو حالو نشا)
سپٹھا باخبر۔

یہ کینترھا آسمان مشر چھ تہ یہ کینترھا زمپنہ
مشر چھ تہ سورے چھ تہندے۔ بیہ چھ اللہ
(تعالے) بے شک پسند وراہی سارہے وولن
ہند اتھ رٹ ریشہ بے نیاز (تہ) تعریفن ہند
مالک۔

کیا ثریہ چھتتا وچھتت ز یہ کینترھا زمپنہ مشر
چھ اللہ (تعالے) ہن چھ تہ تہندے کامہ پیٹھ
مزور وراہی لاگتھ تھومت تہ ناو تہ چھ ہندس
مشر تہندے حکم سوتی پکان۔ بیہ چھ تھو آسمان
رٹھ تھومت ز نیمیر سوتی حکم وراہی
کنہ زمپنہ پیٹھ وسی پسینہ۔ اللہ (تعالے)
چھ یقینا لوکن سوتی سپٹھا شفقت کرن وول
(تہ تھن پیٹھ) پھیر پھیر رحم کرن وول۔
تہ سے چھ نیمیر توہی زہند کرکڑ پتہ مارو توہہ
پتہ کرکڑ بیہ زہند۔ انسان چھ پڑی پالمو بوڈ
نہ شکر کرن وول۔

اسر چھ پرتھ ائمہ باپتھ اکھ عبادتک طریق کار
مقرر کورمت۔ نیمیر مطابق سہ پکان چھینہ۔
لہذا اتھ طریقس (یعنے اسلاس) متعلق پز
نہ تھن ثریہ سوتی بحث کرن (تہ کیا نہ یہ چھ
خدا یہ سہ مقرر کورمت) تہ تہ کر (تھن)
پننن بس کن ناد تہ کیا نہ تہ چھکھ سینر

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اِلٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً رَفَتْضِيحُ الْاَرْضِ مُخَضَّرَةً ۚ اِنَّ
اِلٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿٥٧﴾

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَ
اِنَّ اِلٰهَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَمِيْدُ ﴿٥٨﴾

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اِلٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي
الْاَرْضِ وَ اَلْفُلَكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ
يَاْمُرُهَا ۚ وَ يُمَسِكُ السَّمَاءَ اَنْ تَقَعَ عَلَ
الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ اِنَّ اِلٰهَ بِالنَّاسِ
لَرُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿٥٩﴾

وَهُوَ الَّذِيْ اَخْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ
ثُمَّ يُخِيْتُكُمْ ۚ اِنَّ الْاِنْسَانَ
لَكَفُوْرٌ ﴿٦٠﴾

لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مُنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوْهُ
فَلَا يَتَاذَعْتِكَ فِي الْاَمْرِ وَاذْعَالِ رَبِّكَ ۚ
اِنَّكَ لَعَلَّ هُدًى مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٦١﴾

وتر پڑھو۔

اگر تم تری سستی بھت کرن تر ونگہ ز اللہ
(تعالے) چھ تہند لو اعمالو نیشہ ز بر پائو خبر وار۔

اللہ (تعالے) کر (لو تہ تر میہ در میان) قیامتہ
کہ وہ بہ تمن کتھن مفر فاصلہ مین مفر تو ہر
اختلاف تھاولن چھو۔

(اے محمد رسول اللہ!) تری چھے نام معلوم تر
اللہ (تعالے) چھ زمانن پر پتہ چیز بیس
آسمانس تر زمینہ مفر چھ۔ یہ سورے کینہہ
چھ اکیس کتاب مفر لیکھتہ موجود تر پتہ پائو
(کاٹھہ قولون محفوظ) کرن چھ اللہ (تعالے)
سندر خاطر سہل۔

بیہ چھ ہم لوکھ اللہ (تعالے) ہس ورا بی تمن
چیزن ہنر عبادت کران مین ہندر خاطر تمو کاٹھہ
کویل نازل چھ کر مہتر بیہ مین متعلق تمن کتہ
قبلم کاٹھہ علم حاصل چھن تر ظلم ہند آسہ
تر کٹھنہ مدگار۔

بیہ بیلیہ تمن برو تھہ کتہ سانی ما کار آیہ پر سہ
یوان چھ تر تو چھکھ منکرین ہندن بھین پتہ
(صاف صاف) مثر کری (ہندر نشانہ) وھان۔
لینہ چھ یوان تر ہم کرن تمن لوکن پتہ وونی
حلاہ ہم تمن سانی آیہ پترتھ بوز ناوان چھ۔ تر
ون تمن) کیا بہ دمو وا تو بہ نیمیر حالتہ کھو تر
تر اگر پتھہ چاپخ خبر؟ (تر) سہ چھ تہنہک
نار نیمیک اللہ (تعالے) ہن منکرین سستی
وعدہ کورمت چھ تر سہ چھ پتھہ ٹھکانہ۔

اے لوگو! اکھ کتھہ چھو تو بہ و نہ یوان۔ توہی
یوہو سہ دیانہ سان! توہی مین اللہ (تعالے)
ہس ورا بی ناد ووان چھو ہم ہیکن تر اکھ چھ
تر یاد کر تھہ یوہو سے ہم امر خاطر سر سائل

وَاِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللهُ اَعْلَمُ بِمَا
تَعْمَلُونَ ﴿۱۷﴾

اَللّٰهُ يَخْتَمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
فِيْ مَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿۱۷﴾

اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ اِنَّ ذٰلِكَ فِيْ كِتٰبٍ اِن
ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿۱۷﴾

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ
بِهٖ سُلْطٰنًا وَّ مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ
وَّ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ لِّصِيْرٍ ﴿۱۷﴾

وَاِذَا تُثْلِ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ
تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
الْمُنْكَرَ، يَحْكٰدُوْنَ يَسْطُوْنَ بِالَّذِيْنَ
يَعْلُوْنَ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا قُلْ اَفَاَنْتُمْ كُمْ
بَشِيْرٌ مِّنْ ذٰلِكَمُ النَّارِ وَعَدَهَا
اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْ يَسَّ الْمَصِيْرُ ﴿۱۷﴾

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مِّثْلٌ فَاَسْتَمِعُوْا
لَهُ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
لَنْ يَخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوْ اَجْتَمَعُوْا لَهٗ
وَ اِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْعًا

لَا يَسْتَنْدُوا وَنُهُ ۚ صَحَّفَ
الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ④

تہ نمن۔ تہ اگر اکھ چھ تہ بتمن ہند کانہ چیز
تلمتہ نہ تہ تہ تم ہسکن تہ سہ چیز تہس واپس
ہوتہ۔ یہ دعا ممکن وول (تہ) تہ تہس دعا
مکنہ یوان چہ (سہ) کا تیاہ کمزور چہ۔

مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ⑤

تہو لوکو کور تہ اللہ (تعالے) سہ (یعنی تہندین
صفتان ہند) صحیح انداز۔ اللہ (تعالے) تہ چہ
پے شک بوو طاقت وول (تہ) بوو غلبہ وول۔
اللہ (تعالے) چہ ملاکو اندر پیڑی رسول تہاران
تہ (یتھے پاطم) انسانو اندر (تہ) اللہ
(تعالے) چہ (دعا ہن) سہٹھا بوزن وول (تہ حالاتن)
سہٹھا وچین وول۔

اللَّهُ يَضْطَرُّنَا مِنَ الْمَلَأِكَةِ رَسُولًا وَ مِنَ
النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ⑥

سہ چہ تہ زانان یہ کینٹھا تہن بروٹھ کتہ چہ
تہ یہ کینٹھا تہ پتہ کن کتہ آتہ چہ تہ تہ
زانان تہ ساری معاملہ چہ تسو کتے پتہ تہ اتہ
یوان۔

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ۚ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَ
إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ④


اے مونو! رکوع کرو۔ تہ سجدہ کرو تہ پینس
پرور وگا پتہ عبادت کرو تہ نیک کامہ کرو
یہ تہ تو ہی پین مراد یو۔

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكَرُوا ۚ
اشْجُدُوا ۚ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ ۚ وَافْعَلُوا
الْحَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ⑤

یہ اللہ (تعالے) ہنر و تہ منز ترہ کوشش
کرو یہ سہ کمل آسہ تہ کیا تہ چہ
تہ بہ بزرگی عطا کر ہنر تہ دینس (یعنی تہ چہ
تعلیم) منز کورن تہ تہ بہ پیٹھ کانہ تنگی ہند
طریقہ اختیار۔ (اے مونو!) پینس ہاپس
ابراہیم سہ دین (کرو اختیار تہ کیا تہ) تہو (یعنی اللہ
تعالے ہن) چہ تہند ناو مسلمان تہومت۔ یہ
کتا بہ منز تہ تہ امر بروٹھ ہن کتا بہ منز تہ
یہ تہ رسول تہ بہ پیٹھ گواہ سپہ تہ تو ہی رور و
تہ تہ دینا ہس پیٹھ گواہ، لہذا نماز کرو قائم تہ زکوٰۃ
دلو تہ اللہ (تعالے) رُئیون مضبوطی سان۔

وَ جَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ
اجْتَنَبَكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ
مِنْ حَرَجٍ ۚ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ
هُوَ سَمِعُكُمُ الْمُسْلِمِينَ ۚ مِنْ قَبْلُ
وَ فِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا
عَلَيْكُمْ ۚ وَ تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى
النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ وَ آتُوا
الزَّكَاةَ ۚ وَ اعْتَصِمُوا بِاللهِ ۚ هُوَ
مَوْلَاكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَ نِعْمَ
النَّصِيرُ ⑥

سہ چھ تہند آقبہ ، وچھتہ کیا زبر آقبہ
چھ تہ کوتاہ جان مددگار چھ ۔



سورة مؤمنون : یہ سورہ چھ کی تہ بسم اللہ بتھ چھ آیتھ اکھ تھ تہ کتوہ آیبہ بیہ چھیس تہیہ رکوع۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①	(بہ چھیس) اللہ (تعالیٰ) سندن او پتھ (پر ان) بیس حدہ نوں کرم کرن وول (تہ) چھیر کر چھیر کر رحم کرن وول چھ ۔
قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ①	دکابل (مؤمن) مؤمن وا تہ پننس سراس ۔
الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ②	اتم (مؤمن) ہم پننہن نمازن منز عا جزی ہند طریقہ پر او ان چھ ۔
وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ③	بیہ ہم فنسول کتھو نشہ بچتھ روزان چھ ۔
وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ قٰعِلُونَ ④	بیہ ہم (با قاید) زکواتہ دیوان چھ ۔
وَالَّذِينَ هُمْ لِغُورِهِمْ حٰفِظُونَ ⑤	بیہ ہم پننہن شرمگاہن ہنر رآ چھ کر ان چھ ۔
اِلَّا عَلٰٓ اٰزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَیْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غٰیْرُ مَلُومِیْنَ ⑥	ما سو اوہ پننہو آشنہو یا بیہندی ما یک تہندی دچھیر اتھ سپدی ہتر چھہ ڈپو پتھین لوکن بیہ ہر کتہ تسبیح ملامت کرنہ ۔
فَمَنْ ابْتغٰی وَّرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُونَ ⑦	او ہم امر ورا ہی کتہ بدل کتھ ہنر خا ہش کرن تہ اتم لوکھ آسن زیادتی کرن واول ۔
وَالَّذِينَ هُمْ لِآمْنَتِهِمْ وَّعٰوِدِهِمْ رٰعُونَ ⑧	بیہ ہم لوکھ (یعنی دکابل مؤمن) ہم پننہن امانت تہ پننہن وعدن ہند خیال تمھوان چھ ۔
وَالَّذِينَ هُمْ عَلٰٓی صَلٰوةِیْهِمْ یَحٰفِظُونَ ⑨	بیہ ہم لوکھ پننہن نمازن ہنر رآ چھ کر ان روزان چھ ۔
اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ⑩	یکے لوکھ چھ اہل وارث ۔

لہ یعنی ہم زناہ ہم جنگس مفر قیدی بناوتہ آمشہ آسن ۔

الَّذِينَ يَرْتُؤُونَ الْفَيْدُوسَ لَهُمْ فِيهَا
خَلِيدُونَ ﴿١٦﴾

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ
مِنْ طِينٍ ﴿١٧﴾

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ
مَكِينٍ ﴿١٨﴾

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا
الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ
عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ
أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، فَتَبَارَكَ اللَّهُ
أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٩﴾

ثُمَّ إِنَّا نَكَّمْ بَعْدَ ذَلِكَ لِمَ يَسْتَكُونُ ﴿٢٠﴾

ثُمَّ إِنَّا نَكَّمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبَعَثُونَ ﴿٢١﴾

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَ
مَا تَنَآعِنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴿٢٢﴾

وَ أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ
فَأَسْكَنَتْهُ فِي الْوَادِعِ وَ إِنَّا عَلَى
ذَهَابٍ بِه لَقَدِيدُونَ ﴿٢٣﴾

فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّتٍ مِّنْ تَحْيِيلِ
وَ أَنْعَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاحِشٌ كَثِيرَةٌ وَ
مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢٤﴾

ہم فرودوں کے وارث آسن تم گڑھن اتھ منز
ہمیشہ روزان

تہ اسر چھ انسان ادر میٹر ہندس ہر ترس ہنو۔

پتہ تھوویہ افس قرار واجنہ محفوظ جایہ منز
نظن کر رنگہ۔

پتہ وژ نطفس ترقی و تھ ترشہ شکل زرسہ بیویو
لار تھ گڑھن وول وجود پتہ بناو اتھ لار تھ گڑھن
و افس و ہوس اکھ ماز چھل۔ پتہ یدلاویہ ماز
چھل اسر اڑی جن ہنز شکلہ منز۔ پتہ کھول تھن
اڑی جن پتہ اسر ماز۔ پتہ کور پہ زمیں افس
شکلہ منز تبدیل۔ لہذا سبھت ہے برکش وول
وجود چھتہ خدا یس ساروہے کھوتہ رت
پاؤ کرن وول چھتہ۔

پتہ چھو توہر لکھ اسر پتہ من اول۔

پتہ بیو توہر قیامتہ دوہ تھلہ۔

بیہ چھتہ اسر توبہ پیٹو (ہن درجن ہند خا طہر)
نٹھ (روحانی) و تہ بناو مشر تہ اسی رودی تہ
دینہ) مخلوق ہنہ تھل۔

بیہ چھتہ اسر آساہ پیٹو کر انداز مطابق آب دولت۔
پتہ چھتہ زمیہ منز صہر و مت تہ اسی چھتہ
والس ہنس پیٹو تہ قاور۔

پتہ بناو اسر تہندہ خا طہر تہ آہ سوتو باغ کھرن
ہندر (تہ) تہ دھن ہندر (تہ)۔ ہن منز چھ
تہندہ خا طہر واریاہ سو (پاؤ کر تہ آتو) تہ تھو
منز چھو توہر کھوان۔

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ
تَلْبُتُ بِالذَّهْنِ وَصَبْغٍ لِأَكْلِينَ ﴿۱۱﴾

وَأَنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُضِيقُكُمْ
وَمَا فِي بُطُونِهَا ۚ لَكُمْ فِيهَا مَتَاعٌ
كَثِيرٌ ۚ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿۱۲﴾

وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿۱۳﴾

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ
يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ
غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۱۴﴾

فَقَالَ الْمَلَأُوا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ
أَنْ يَحْضِلَ عَلَيْكُمْ ۚ وَإِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا نَزَلَ
مَلَائِكَةٌ ۚ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا
الْأَوَّلِينَ ﴿۱۵﴾

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فُتِّرَبِّصُوا بِهِ
حَتَّىٰ حِينٍ ﴿۱۶﴾

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبْتَنِي ﴿۱۷﴾

فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلَكَ بِأَعْيُنِنَا
وَوَحَيْنَا قَادًا أَجَاءَ أَمْرُنَا ۚ فَارْتَقِنُوا
فَأَسْلَمْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ
وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ

بہ (چھ اسہ تہنہنر خاطر) سہ کل تہ (پاد کورمت)
یس طار سپنا منز نیران چھ یس پانس اندر تہیل
ہتہ وو پلان چھ بہ کھنہن والین کیت سین ہتہ تہ۔
بہ چھ تہنہن ہا ہتہ چار وین منز بود یق۔ اُس
چھو توہر تہر چہر منز یس تہنہنر یس منز اسان چھ
چاروان۔ بہ چھ یمن چاروان منز تہنہن ہا ہتہ بہ
تہ واریاہ نفع تہ توہر چھو تہو منز کینہ کھوان۔
بہ امن (چاروان) تہ ناوان پچھ چھو توہر (سوار
کر تہ) تہنہن پوان۔

بہ سوز اسہ نوح تہنہن قومس کن۔ اہ وون تہر
اے میاہ قومہ! اللہ (تعالیٰ) ہنہن عبادت کر۔
تس وراہی چھہ بہ کانہہ تہنہن معبود۔ توہر چھوانا
تہنہن تقویٰ پراوان ہ

اتھ پچھ وون تہنہن قومہ کو کافرن ہندو سردارو
یہ شخص تہ چھ توہی میو اھ انسان (تہ) یہ چھ
یہتر حال نہ توہر پچھ پراو فہیلت۔ اگر اللہ (تعالیٰ)
(پیغمبر سوز)۔ یہتر ہے تہ طامین کرہے تارل۔
اسہ نے چھ پنہن برنہن من بدن اجدان منز
تہ اسہ تہنہن کانہہ واقعہ پدان بوزمت۔

یہ چھ نقط اھ انسان نیس مشر امت چھ اہ
کو تہنہن انجاک کرہ کیونتر کال انتظار۔

(اتھ پچھ) وون (یعنی نوح) اے میا سہ
پروردگار! میون مدد کر تہ کیا نہ کم لوکھ چھ
میہ اپراوان۔

لہذا اسہ کر تس کن وحی نہ (یوسہ) ناو (تیار
کریمہ خریہ اسہ حکم دیت مت چھ سہ) بناوان
سامن اچمن برونچہ کہہ تہ ساء وحیہ مطابق۔
اہ سون حکم نیلہ پیسہ تہ زمپنگ ناگ وون

۱۱ یعنی زیتون کل، نیلہ کس میوس تہیل کڈنہ یوان چھ تہ سہ کہہ تہ چھ کھنہ یوان۔

مِنْهُمْ جَدًّا لَا يُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا
إِنَّهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۱۸﴾

تہ اتمہ (ناو) منفر برز پر تہ قہمہ کہو جانورو
منفر (مین ہند اسی تہ حکم دوسے) اکھ اکھ کور
بہ پیہی اُستناو تہ کوز کچھ سوار متو ورا ی مین
خلاف سون حکم بروٹھ پیہی تازل سپدست چھ
تہ یو ظلم کورمت چھ تہ متعلق کوزیہ سینہ
سوتو کانہہ کتھ تہ کیاز تم بن ضرور آیس پھانازہ
اد بیلہ تہ تہ چاڈی سوتو باجو ناو منفر تہ پانگہ بن
تہ توہ منفر ورن پر تہ اکھ نہ ساری تعریف چھ
اللہ (تعالے) ہند خاطرے نیو اسہ فل بن
ہند قوم ہنہ نجات دیت۔

فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَ مَنْ مَعَكَ عَلَى
الْفُكِّ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَجَسَّنَا
مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۱۹﴾

تہ (ناو منفر وسہ ورن) ون نہ اے میا تہ
پروردگار! تہ وال مینہ (بہ پیہ ناو منفر)
تہقتس حالتس منفر مینہ پیہہ آسن جاو جاو
برکٹ تازل سپدن تہ (مینہ کیاہ چھ امہ دعا کت
تہ حاجت بیلہ زن) تمام (بون) والن ولو
منفر چون وجود چھ سارو ہے کھوتہ جان۔
اتھ منفر چھ واریاہ نشا تہ تہ اسی چھ یقینا
بندن ہند امتحان ہینہ وائل۔
پتہ کوزی اسہ تمو پتہ کہو یا قوم پاو۔

وَقُلْ رَبِّ آئِنِّي مُنْذَرًا مُّبْرَكًا وَ أَنْتَ
خَيْرُ الْمُنْذِرِينَ ﴿۲۰﴾

تہ اسہ سوز تہن کن رتوے منفر رسول (یہ
پیغام دوان) نہ اللہ (تعالے) سہز عبات کور۔
تس ورا ی پھنہ تہند کانہہ بیاکھ مہبود۔ کیا
توہی چھون نا پن پان تہند دسی ہلاکتہ نشہ پچاوان
تہ تہند قوم منفر جکو کفر کریاو تہ مسرتہ
پتہ خلیس سوتی ملا تہک انکار کریاو، بیہ
بیم اسہ بیہ دُنیا چہ زندگی منفر مالدار بناوکر
تہند پوسر وارو وفون یہ تہ چھ توہہ ہیو اکھ
بشر۔ یہ چھ رتوے (کھنہو) منفر کھوان
بیم توہی کھوان چھو تہ رتوے (چہینہ چیزو)
منفر چھ چھوان بیم توہی چھوان چھو۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّرَآنِ كُنَّا مُبْتَلِينَ ﴿۲۱﴾

ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمًا آخَرِينَ ﴿۲۲﴾
فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ
اعْبُدُوا اللَّهَ مَا كَفَرْتُمْ مِنْ آلِهَتِكُمْ أَفَلَا
تَتَّقُونَ ﴿۲۳﴾

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ الَّذِينَ كَفَرُوا
وَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَ أَتَوْا فِيهِمْ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ
مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَ
يَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿۲۴﴾

وَلَيْنَ اطَّعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ لَأَتَّكُم
إِذَا لَخِيسُودٌ ﴿۱۶﴾

اگر تو ہی پانس ہوں اگس انسانہ سنز کتھ مارنو
تہ تو ہی سپرو گاٹو تلن والبو اندر۔

أَيَّعِدُّكُمْ أَنْكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَ كُنْتُمْ
تُرَابًا وَّ عِطَابًا أَنْكُمْ مُمْخَّرُونَ ﴿۱۷﴾

کیا سہ چھا تو بہ سستی یہ وعدہ کران ؟ نہ میلیہ
تو ہی مسرو تہ مینتر سپرو تہ اڑی جبر مہو تہ
تو ہی بیو (بیہ زندہ کر تھ) کڈ تہ۔

هِيَ هَات هَيْهَات لِمَا تُوعَدُونَ ﴿۱۸﴾

یہیہ کتھ ہند تو بہ سستی وعدہ کر تہ یوان چھ۔
سو چھینہ عقلہ ہنتہ سپٹہ ہے دور بیہ چھستہ
مانیخ کتھ۔

إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ
وَّ نَحْيَا وَّمَا تَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿۱۹﴾

زندگی تہ چھینہ صرف سانی مینہر دُنیا، یح زندگی
اُسی چھ کتھ وز مسردہ حالتس منز آسان تہ
کتھ وز زندہ حالتس منز تہ اُسی یکو تہ زینہ
مسترہ پتہ دوبارہ تملن۔

إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ يُفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
وَمَا تَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿۲۰﴾

یہ تہ چھ (صرف) اکھ کتھ شغفس یس اللہ
(تعالیٰ) ہس پٹھ اپز مانر شہ لاگان چھ تہ
اُسی مانن نہ ہرگز یہ (یعنے اُسی سنز کتھ)۔

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُون ﴿۲۱﴾

تو وون (اتھ پٹھ) اے میانہ پروردگار! کیو
لوکو چھس بر اپز وومت۔ لہذا تہ کر تہ میون مد
(اگر) فرمودن (یعنے خداین)۔ ہم لوکھ گرشھن
کے کالو شتر مند۔

قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لِّيُصِیْحَتِ الدِّمِينِ ﴿۲۲﴾

تہ تم رُو اُگر عذابن مینج پوختہ خبر دینہ آوتہ
اُس۔ تہ اسر بنو تن شھوٹ تہ (ملا مین
دیت محکم تہ) فلانن ہند خاطر (کرو)
لعنت (مقدر)۔

ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا
آخَرِينَ ﴿۲۳﴾

کانہہ قوم چھتہ پینس مدلس برو نہہ نیران
تہ نے ہیکہ تہ ہنتہ پتہ روز تھ (بچتھ)۔

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا
يَسْتَأْخِرُونَ ﴿۲۴﴾

پتہ سوزی اسر پینز رسول پوتس پتھ۔ میلیہ
کتھ قومس ہن تہند رسول یوان اوس تم اُسی

ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَاءٍ كُلَّمَا جَاءَ
أُمَّةٌ رَّسُولَهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا

بَعْضَهُمْ بِبَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ آخًا دِيْتًا ج
قَبِيضًا الْقَوِيًّا لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۳۰﴾

تس ایزواوان۔ اوکمز اسی اسی اتمو منفر کینہہ
قوم کینیشن پیتہ سوزان گرشان (یعنی ہلاک
اسی کران گرشان) تہ اسہ تھاؤر اتم ساری
(پتہ کاگو) افسانہ بناؤتھ۔ تہ (تمن متعلق دیت
ملیکن حکم نہ)۔ یکو لوکو ایمان اذن تہ بہتہ
خاطر (دکرو) خدایہ ستر لعنت (مقدر)۔
امہ پیتہ سوز اسہ موسیٰ تہ تم سہ بوسے مارون
پیتہ ایشا تہ تاکاہ غلیہ دتھ۔

ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَ أَخَاهُ هَارُونَ
بِآيَاتِنَا وَ سُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿۳۱﴾

فرعونس تہ تمو بندن سردارن کن۔ اما پوز
تمو کور کپہر تہ تم سہ پے پتھو پھر لو لوکو اندر
اد وون اتمو کیا اسی انوا پانس ہون دون
انسان پتھ ایمان حالانکہ تمن دہ لونی بند
قوم چھ سانی غلامی کران۔

إِلٰى فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِمِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَ
كَانُوا قَوْمًا عٰلِينَ ﴿۳۲﴾

اد اتمو اپڑاؤر اتم دہ نوے (یعنی موسیٰ تہ مارون)
نتیجہ سید تہ تم تہ بنے پے ہلاک سپن والہو
لوکو اندر۔

فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا
وَ قَوْمُهُمَا لَنَا عِبُدُونَ ﴿۳۳﴾

تہ اسہ وڑ موسیٰ ہس (سہ کتاب) پتہ ساری
زانان چھ) پتہ تہ تم (تہ سہ قوم) ہارت بن۔
بہر بنوا اسہ ابن مریم تہ تم ستر موج اکھ نشا تہ
تہ اسہ دیت تمن دہ لونی اکیس تھڑتہ جایہ
پتھ پتہ یو سہ روزنس لایق تہ کپوڑی آہر واجز
اس۔

فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ﴿۳۴﴾

وَ لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتٰبَ لَعَلَّهُمْ
يَهْتَدُونَ ﴿۳۵﴾

وَ جَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَ أُمَّةً آيَةً وَ
أَوْنٰهُمْ إِلَىٰ ذٰبُوَّةٍ ذٰلِكَ قَوْلُكَ
مَعِينٍ ﴿۳۶﴾

(بہر وون اسہ) اے رسولو! پاک چیزو منفر

يَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّوَا مِنَ الطَّيِّبٰتِ

لہ یعنی دنیا ہس منفر روو نہ تہ بند نیب نشا تہ باقی۔
تہ توار نیچر تلم چھ تہا تہ زہر تھڑ جائے اس کتہر۔ بائیلہ تہ مہو دین
تہ بندن بند توار نیچر منفر تہ چھ واریاہ حوالہ امیک تہا ئید کران۔ محلہ انزمرہ
خانیاہ سری نگرس منفر حضرت یوزا سفن یا نبی صابن روضہ چھ دراصل حضرت عیسیٰ
علیہ السلام نے قبر۔

کھینوو تہ مناسب حال عمل کرو (تہ) یہ چھس
تہ زمانہ یہ توہی کران چھو۔

بیسہ یہ تہنتر جماعت (یعنے نبین ہنتر) چھسہ
اکے جماعت تہ یہ چھس تہنتر پروردگار اور کنز
بناوو میں ہلاکتہ نشتر بچتہ خاطر پین اسپر۔
یتھ پٹھ کر تہو (یعنے گھارو) شریعت چھلہ چھلہ
تہ پریتھ فرقن یوسہ چھل پسنہ باچتہ پانتاوا
تتھ پٹھ لگو ناز کر تہ۔
اور تہ دامن اگس مدس تام پسن غفلتس منز
پتھ روزنہم۔

کیا تم چھاخیل کران نہ اسی چھہ متن مالہ تہ
نیچو یوستی مدد دوان؟

تمن نیکن منز وژھ وژھ بروٹھ پکناونہ خاطر
(سہ چھنہ کتھ) بلکہ تمن چھنہ (حقیقت حال)
بلکہ تران۔

تم لوکھ یمن پسنس پروردگار ہندہ بیہ ستر کر
ازان چھ۔

بیسہ تم لوکھ ہم پسنس پروردگار ہندہ این پٹھ
ایمان انان چھ۔

بیسہ ہم پسنس پروردگار ہندہ کالہہ شرکیہ چھنہ
بناوان۔

بیسہ ہم (خدا یہ سند بخشوست) مال (بروٹھ کن
حقارن) دوان روزان چھو تہ تہنتر دل چھہ
اتھہ کتھ کھوتان روزان نہ تمن آسر
اکہ دوہہ پسنس پروردگار نش واپس
گرتھن۔

یکے لوکھ چھہ نیکن منز وژھ کرن اول تہ یکے
چھہ تم یمن (نیکن) کن اکھ اگس بروٹھ
نیکن روزان چھہ۔

وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ ﴿۱۸﴾

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً
وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿۱۹﴾

فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا
كُلٌّ حِزْبٌ بِمَا لَدَيْهِمْ قَرْحُونَ ﴿۲۰﴾

فَزَهُمْ فِي عَمْرِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿۲۱﴾

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ
وَبَنِينٍ ﴿۲۲﴾

نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا
يَشْعُرُونَ ﴿۲۳﴾

إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشِيَةِ رَبِّهِمْ
مُشْفِقُونَ ﴿۲۴﴾

وَالَّذِينَ هُمْ يَأْتِي رَبَّهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴿۲۵﴾

وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿۲۶﴾

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقَلُوبُهُمْ
وَجِلَةٌ أَلَّهُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿۲۷﴾

أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ
لَهَا سَبِقُونَ ﴿۲۸﴾

وَلَا تُكَلِّفُ نَفْسًا وَاكْلًا وُسْعَهَا وَاكْلًا وَاكْلًا
كُتِبَ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا
يُظْلَمُونَ ﴿۱۷﴾

بہ چھبہ اسی کیے زوں کاٹھہ کُام مٹھہ وان
مگر تہندہ طاقتہ مطابق بہ چھہ اسہ نش اکھ اعمال
نامہ یس پُز پُز کتھ وان چھہ تہ تہن پٹھہ
بہ نہ کاٹھہ ظلم کرنہ -

بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمَرَةٍ مِّنْ هَذَا
لَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا
عَامِلُونَ ﴿۱۸﴾

مگر تہندہ دل تہ چھہ یٹھ تعلیمہ متعلق غفلت
منز پیمتہ تہ امہ ورائی چھہ تہندہ بہ تہ سٹھا
(یکھ) اعمال بیم تم کران چھہ -

حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ
إِذَا هُمْ يُجْرَدُونَ ﴿۱۹﴾

پوت تام نہ نیلہ اسی تمہ اندر آسن بسن وائل
لوکھ عذابس منز ثمان پچھکھ تہ یکدم چھہ تم
فریاد کرن ہوان -

لَا تَجْعَلُوا الْيَوْمَ لَكُمْ مَوَدَّةً
وَأَنْتُمْ لَا
تُنصَرُونَ ﴿۲۰﴾

(تمہ وز چھہ اسی تمہ وان) از مہ کرو فریاد
ساز طرفہ واتہ و تہ توہہ کاٹھہ مدد -

قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُنْفِلُ عَلَيْكُمْ فُكْرَكُمْ
مَلَاعِقًا بِكُمْ تُنْكِرُونَ ﴿۲۱﴾
مُشْتَكِرِينَ بِرَبِّهِمْ سَوِيًّا تَهْجُرُونَ ﴿۲۲﴾

میاؤ آیہ اسی و توہہ پیرتھ بوز ناو نہ ہوان مگر
توہ اسی و تمہ سستی لاپرواہی ہوان تہ بے ہود
کتھ کران تہ اتھ سستی کبر ہوان اسی و پتہن
تھورن پٹھہ پوت پھپھہ گرتھان -

أَقَلَّمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا
لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمْ الْأَدْلِيلَ ﴿۲۳﴾

کیا تمہ لاکو کوزنا یٹھ قولس (یعنی قرآنس)
پٹھہ سوچ سمجھہ؟ تمہن چھہ سہ (و عسہ)
و نہ آمت یس تہندہن پتہ ہن جہن اجلان
اوس نہ و نہ آمت؟

أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ
مُنْكَرُونَ ﴿۲۴﴾

(بہ) کیا تمہ پیرزوںو ناہ پین رسول نبیہ کہ
باعثہ تم امیک (قرآنک) انکار کران چھہ؟

أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ
بِالْحَقِّ وَآكُفَّرُوا بِالْحَقِّ كَرِهُونَ ﴿۲۵﴾

کیا تم چھہ وان زتس چھہ مشرہ؟ (مگر
تڑھ کتھ چھہنہ) نیکھ چھہ سہ تمہن کن حق
پتھ آمت تہ تمہ مشرہ چھہ وریاہ لوکھ حق ناپند
کران -

وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ
لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ
فِيهِنَّ بَلْ آتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ

بہ اگر حق تہندہن تھہن ہنر تابعداری کرہے
تہ آسمان تہ زمین بہہ بیم تمہن اندر بسان پتھہ
(ساری) گرتھہ ہن تباہ - حقیقت چھہنہ بہ نہ

عَنْ ذَكَرِهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿۵۱﴾

اُسی چھہ بہن نش بہتند عزیزنگ سامان بہتھ
آؤتو تہ تم چھہ پستہ عزتہ کہ سامانہ نشہ

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَقَرْجُوكَ خَيْرًا كَيْفَ
وَهُوَ خَيْرُ الرَّزْقَيْنِ ﴿۵۲﴾

لُوب ہوان۔
تہ چھاکسا بہن کا نہہہ جرمانہ منگان ؛ (تہرہ کہتھ
ہیکہ نہ سیدتھ) تہ کیا ز پائس پروردگار سئند
دیت مت مال چھہ سپٹھارت تہ سہ (پروردگار)
چھہ ساروے برزق دنہ والو کھوتہ رت۔
بیہ چھاکہ تہ بہن سیزوتہ کن ناد دوان۔

وَإِنَّكَ لَتَدْعُهُمْ إِلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ ﴿۵۳﴾

بیہ ہم لوکھ اُخرتس پیٹھ ایمان چھہ انان ہم
چھہ (پزہ) وتہ نشہ دُمن وال۔

وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
عَنِ الصِّرَاطِ لَنَّا كِبُؤُونَ ﴿۵۴﴾

اد ہرگاہ اُسی بہن پیٹھ رحم کرو تہ یس ضر بہن
واتان چھہ سہ کرو دور تہ ہم پکن پنہہ روگردانی
منز بیہ ہن تہ بروٹھ۔

وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ
لَلْجُؤِ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿۵۵﴾

بیہ چھہ اسہ ہم سہنت عذابس منز گرفتار تھادو ہوتو
توتہ تے پہ تہ ہم پستس پروردگارس بروٹھ کہتھ
عاجزی سان تہ نہ وودکھ بروکھ تس بروٹھ کہتھ۔
یوتام زہ سبیلہ اُسی بہن پیٹھ سہنت عذابک
دروازہ پہلہ تروو تہ ہم بہن ناوہ مید سیدتھ۔

وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَعَاذُوا
لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿۵۶﴾

حَتَّىٰ إِذَا فَتَخْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا
ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ
مُبْتَلسُونَ ﴿۵۷﴾

بیہ چھہ سہ خدای سیمو تہندہ جاطر کن تہ اچھ
تہ دل پاد کرکھ ہوتو چھہ۔ مگر توہر بھو نہ سٹے
شکرانہ کران۔

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمْ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، قَلِيلًا مَّا
تَشْكُرُونَ ﴿۵۸﴾

بیہ چھہ سہ یس توہر زمیںس منز تیار ہوتو چھو تہ
توہر بیو تسو کن سوہراونہ۔

وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَالَّذِي
يُخَشِّرُوكَ ﴿۵۹﴾

۱۸ خراج نفلک معنی چھہ اسہ تاوان لینے جرمانہ کو رت مگر نبیلہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ بندہ تامل
وتہ پہہ ایمیک معنی چھہ عطیہ آسان تمیاز خدایہ سہند و سہیتس مائس چھہ تاوان ونہ ہوان
تمیاز سہ چھہ بدن ماتحت۔

وَهُوَ الَّذِي يُخَيِّبُ وَيُؤْمِنُ وَ لَهُ
اِخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، أَفَلَا
تَعْقِلُونَ ﴿۵۱﴾

بہ چھ سنے میں تو بہ زبرد کران چھو تر میں تو بہ
مارو۔ بہ چھ راتر ہند تر وہک پتھ بروئھدین
تہندر سے اختیارس منزکیا تو ہی چھونا عقلم کام
ہواں ؟

بَلْ قَالُوا وَمِثْلَ مَا قَالِ الْآدَوُلُونَ ﴿۵۲﴾

حقیقت چھینہ یہ تر تم چھ سہ سے کتھ وان یوا
ہتمن بروئھدین ہو ونے یہ۔

قَالُوا إِذْ أَمِثْنَا وَ كُنَّا تُرَابًا وَ عِظَامًا
ءِ إِنَّا لَنَعْبَعُ لَنُؤُونَ ﴿۵۳﴾

تمو وئیوا تر کیا ییلہ اسی مرو تر میئر گرضو
تر اڑی جہ بنو ، اڈیکو اسی بہ سکتہ ؟

لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَ آبَاؤُنَا هَذَا مِنْ
قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلاَّ آسَاطِيرُ الْآدَوُلِينَ ﴿۵۴﴾

امر بروئھدین اوس امی کتھ ہند وعدہ اسہ سکتہ تر
سانہن جہن اہلوان سکتہ تر کرہ امت (مگر
تر سپد تر)۔ ہم تر چھینہ صرف بروئھدین ہنہ
کتھ۔

قُلْ لِمَنِ الْآرَضُ وَ مَنْ فِيهَا إِنْ
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۵۵﴾

تر ون (ہتمن) اگر تو ہی زمان چھو تر (وڈی تو تر
سہی) یہ سارہے زمین تر یہ کینہترھا اتھ منزچھ
کند چھ ؟

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ، قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۵۶﴾

بے شک ون تم (امر کس جواہس منتر) اللہ
(تعالے) سند ، اتھ پیچھ ون تر (ہتمن) کیا تو ہی
چھونا گاہ جارس کام ، ہواں ؟

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبُّ الْعَرْشِ
الْعَظِيمِ ﴿۵۷﴾

(پتہ) ون تر (ہتمن) تر سہ ونی آسمان
تر عرش عظیمک رب کس چھ ؟

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ، قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۵۸﴾

تم ون تمی دہو (ہم ساری) چھ اللہ (تعالے)
ہند۔ تر ون (ہتمن) کیا اڈ چھونا تو ہی
(نہس خدایہ ہندوکی تباہی ہنہ) بچچ کوکشش
کران ؟

قُلْ مَنْ يُبَدِّلُ مَآكُوتَ كُلِّ شَيْءٍ وَ هُوَ
يُجَيِّدُ وَ لَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿۵۹﴾

(سیر) ون تر کر کو ہندس قبض منتر چھینہ
پر پتھ چیزتج بادشاہی تر سہ چھ (سارہنے)
پناہ وراں ؟ تر ہندس عدلس خلاف ہیکہ تر
بیاکھ کانہہ پناہ وتھ۔ ہرگاہ تو ہی زمان چھو
(تیلہ ہیکہ و یہ فکر تر تھ)۔

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ، قُلْ فَأَنَّى تُشْحَرُونَ ﴿۶۰﴾

(پتہم سوال بوزتھ) ون تم فوران اللہ (تعالے)

بندس (نفسِ مشرِ جھیلے) - اتھ پٹھ ون تہ
(تم) نہ پتہ کوڑکن جھو توئی برم دتھ نہنہ یوان؛
حقیقت چھیلے پہ نہ اسہ چھہ، تمہن بنش حق اومت
تہ تم چھہ جملہ صاف صاف منکر۔

اللہ (تعالے) ہن ہنور نہ کاٹھہ نیچو تہ تس
ستو چھتہ کاٹھہ معبود (اگر تہ آسہ ہے) تہ
پر تھہ معبود نیہ ہے پیڑی پاد کرکری متو چہسز
بیون کر تھہ تہ یو (معبود) اندر کرکری کٹھنہ
کینٹرن پٹھ ملہ۔ اللہ (تعالے) چھہ تہہ رتھہ
پاک یہ بیم کتھہ کران چھہ۔

سہ چھہ فابک تہ علم تھوان تہ حابزک تہ
(علم تھوان) ادریم تم تسد شتریک بناوان
چھہ، متو تھہ چھہ سہ سٹھا قصود۔

تہ ون اے میانہ پروردگار! ہرگاہ تہ میانہ
زندگی مشر تہ کینٹھا ما و باکھ بیٹیک، تمہن وعدہ
کر تہ یوان چھہ۔

تہ اے میانہ پروردگار! تہ بناوکر تہ نہ میہ
ظالم قوم مشر۔

بیہ چھہ اسی اتھ کتھہ پٹھ قومدورت تھوان نہ پہ
تمہن ستو وعدہ کران چھہ، تریڈ دموے تہ کا و تھہ بلہ

نہ کر تھنہنہر بیچھہ کتھہ تڑھو (ہوئی) کتھو ستو
دور بیم نہایت خوب صورت آہن۔ اسی چھہ
تھنہنہر کتھہ زبر پائو زانان۔

بیہ ون تہ اے میانہ پروردگار! بہ چھس ستو
پھرن لوکن ہنرو شیطا بلو رتھہ چون پناہ منکان۔

بیہ اے میانہ پروردگار! بہ چھس چون پناہ
منکان تہہ رتھہ (تہ) تہ تم بن میہ بروٹھ کن۔

تہ تہہ وز تہ نیلہ، متو مشر کاٹھہ موت پہ سہ

بَلْ آتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۱۱﴾

مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ
مِنْ إِلَهٍ إِذْ أَنْزَلَ إِلَهُ بِمَا خَلَقَ
وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ
عَمَّا يَصِفُونَ ﴿۱۱﴾

عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَلَّى عَمَّا
يُشْرِكُونَ ﴿۱۲﴾

قُلْ رَبِّ إِنَّمَا تُرِييَنِي مَا يُوعَدُونَ ﴿۱۳﴾

رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۱۴﴾

وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ تُرِيكَ مَا نَعُدُّهُمْ
لَقَدِيرُونَ ﴿۱۵﴾

إِذْ فَعَّ بِالنَّبِيِّ هِيَ أَحْسَنُ الشَّيْئَةِ
تَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿۱۶﴾

وَ قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ
الشَّيْطَانِ ﴿۱۷﴾

وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴿۱۸﴾

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ

لہ یعنی چاہے زندگی مشرے، نو تمہن پٹھ غلاب۔

رَبِّ الرَّجْعُونَ ﴿۱۱﴾

وہ اے میانہ پروردگار! میں نہتہ واپس پھیرتا
میں نہتہ واپس پھیرتا، میں نہتہ واپس پھیرتا۔
یہتہ نہتہ ہوتے جاوے یوں ہر تہاوتہ آمت چس
دینے دنیاہس مفر) مناسب حال عمل کر۔ یہ
سید نہ ہرگز۔ یہ چھہ صرف اکھ اُپس کتے
اوت یوں ہم دنان چھہ۔ یہ چھہ ہم نپڑ کو
اکھ ٹھوڑتہ دوہس تام نیلہ ہم دو بار ہلنہ
ہن (بہر حال ہم ہن نہ زہد کریتہ نہتہ
دُنیاہس کن واپس انہ)۔

اد نیلہ پوگس چھو کہ دنہ پیہ تہ تمہ دوہہ
روزن نہتہ دن درہیان کتہ رنگہ چہ اُتھا و پیہ
ہاتے تہ نہ پڑھن ہم اکھ اُک ستر خبر اتر۔
اد ہندہ دن گوبن گن ہم لوکھ آسن ہامرد۔

تہ ہندہ وزن لوتی گن ہم لوکھ ہن گاس
مفر) تہ پڑھن زوکرن تباہ) تہ ہہنس مفر
روزن ہمیشہ۔

نار والہ تہندہن بھین کھس تہ ہم سپدن
اتھ مفر وہ سے سیاہ۔

ایسہ پیہ وتہ) کیا توہہ ہونٹہ کتہ اُسی ناہ
میانہ آہہ پرنہ لوان؟ تہ توہہ اُسی و ناہ ہم
ہندہ انکار کران؟

ہم ون اے سانہ پروردگار! سانہ بدبختی آہہ
اسہ پیہ غالب تہ اُسی اُسی اکھ گراہ ہمت۔

اے سانہ پروردگار! اسہ کڈ تہ ہیمہ (جہنہ)
مفر۔ پیہ اگر اُسی (زانہہ ہم گتہ ہن کن) ایسہ
پھیرو نیلہ اُسی نطالم۔

(خدا) فرماو (دور سپدو تہ) جہنس گتھو
تہ میں سترہ مہ کرو کتھ۔

لَحْنٍ أَعْمَلْ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا
إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن
وَرَائِهِم بَدْرٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿۱۱﴾

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ
يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿۱۲﴾

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ﴿۱۳﴾

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ
خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿۱۴﴾

تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَ هُمْ فِيهَا
كَالِحُونَ ﴿۱۵﴾

أَلَمْ تَكُنْ آيَتِي تُنزلُ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ
بِهَا تُكذِّبُونَ ﴿۱۶﴾

قَالُوا رَبَّنَا عَلَيَاتِ عَلَيْنَا شَقُوتُنَا وَ
كُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿۱۷﴾

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِن عُدْنَا فَإِنَّا
ظَالِمُونَ ﴿۱۸﴾

قَالَ اخْسِئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿۱۹﴾

إِنَّهٗ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ
رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذَاتِنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ
خَبِيرُ الرَّحِيمِينَ ﴿۱۱﴾

کہتے چھینے یہ زمیائیں بدن منتر اوس الہ
دور تھیجھ یس دنان اوس نہ اسے ساتہ پروردگار
اسہ چھہ ایمان اونمت۔ لہذا تہ بخش تہ اسہ
تہ اسہ پیچھ کرتہ رحم تہ تہ چھکھ سارہ وہ
رحم کرن والہو مغزہ رت۔

فَاتَّخَذُوا تُمُوهُمْ سِحْرِيًّا حَتَّىٰ أَنْسَوْكُمْ
ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿۱۲﴾

مگر توہہ ترازی ورتم ٹھٹھس لایق۔ یوت تام
نہرتو مشروو (تہننر دل جسی ہند سامتہ بڑتھا)
توہہ میون یاد تہ توہی رودی ورتن ہمیشہ ہلان۔
تہندہ صہر کرنہ موکھ وہہ بہ از ہنن (متاسب
حال) بدلہ۔ بے شک تم سپدن کامیاب۔

إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا
أَنَّهُمْ هُمُ الْفَٰئِزُونَ ﴿۱۳﴾

پتہ فرماو سہ (یعنے خداے تعالیٰ) کترن
ورکین رودی ورتوہی زمپنہ منترہ
تم ون، اسی چھہ اوس دہہس یا دکھس کتہ
جسس زمپنہ پیچھ رودی ورتوہی، تہ پرژھ کترن
والہن۔

فَلَكُمْ لِيَلْبِغْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَاةَ سَيِّئِينَ ﴿۱۴﴾

قَالُوا لَيْسَ لَنَا يَوْمًا آذَ بَعْضُ يَوْمٍ
فَسَعَلِ الْعَادِيْنَ ﴿۱۵﴾

پتہ فرماو (خدا تعالیٰ) اگر توہی دانائی
کام بیو تہ توہی چھو سبٹھا تیل ورتس رودی ورتوہی
کیا توہی اسی وازمان نہ اسہ چھو توہی کتہ
مقصد وراہی پاد کرک ورتوہی؟ تہ یہ نہ توہی بیو
تہ اسہ کن پھیرتھہ انسہ۔

قُلْ إِنْ لِيَلْبِغْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَا
كُنْتُ تَعْلَمُونَ ﴿۱۶﴾

أَوْحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا
وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿۱۷﴾

اد اللہ (تعالیٰ) چھہ سبٹھا تھہ نشانہ وول،
بادشاہ، تہ قائم روزن وول، تہ قائم تھون
وول۔ تس وراہی چھہہ کا نہہ معبود، سہ چھہ
عزتہ والہ عرشک پروردگار۔


فَتَعَلَىٰ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿۱۸﴾

بیہ یس کا نہہ اللہ (تعالیٰ) ہس وراہی کالنہ
بیس معبودس آو کر نیو سہز کا نہہ وپل
اسہ نہ، تہ تس حساب چھہ تہنہس پروردگار
نش۔ حقیقت چھینے یہ نہ کا فر چھہ نہانہہ

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا
بِرْهَانٍ لَهُ بِهِ، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ
رَبِّهِ، إِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُونَ ﴿۱۹﴾

کامیاب روزان ۔

وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَاذْحَمَّ وَاَنْتَ خَيْرُ
الرَّحِيْمِيْنَ ﴿۱۱﴾
بے رون شو، اسے میانہ پروردگار! معاف
کر تہ رُحمت کر تہ شو مچکھ سار و بے کھوتہ
زبر رحم کرن وول ۔



سورة نور: یہ سورہ چھ مدنی تہ بسم اللہ پچھ چھ اتھ پانزہ آیتھ ایہ بے چیس نو رکوع

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿۱﴾

(بہ چیس) اللہ (تعالیٰ) سدا ناو بہتھ اپران) یس
حد رؤس کرم کرن وول (تہ) پھیر پھیر
رحم کرن وول چھ ۔

سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنٰهَا
فِيْهَا آيٰتٍ بَيِّنٰتٍ لِّعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُوْنَ ﴿۲﴾

(یہ) چھ اٹھ بیٹھ سورہ یس اسہ نازل کورمت
چھ تہ (بیٹھ پچھ مل کرن) اسہ فرض کورمت
چھ بے چھ اسہ اتھ منتر پینو گاتہری حکم
بیان کرکے متی بیٹھ نہ توہی نصیحت رٹو ۔

الزَّٰنِيَةُ وَالزَّٰنِي فَاجْلِدُوا كُلَّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلَا
تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ
كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
وَلَيْسَ هٰذَا عَذَابُهُمَا طٰرِفَةٌ مِّنَ
الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۳﴾

زنا کرن واجز تہ زنا کرن وول (اگر تم پچھ
الزام ثابت سپد تہ) اتھ منتر دیو پر تہ کس
ہتھ دے ۔ بے اگر توہی اللہ (تعالیٰ) ہس
تہ آخر تہ کس وہ پس پچھ ایمان انان چھو
تہ اللہ (تعالیٰ) سدا حکم بجا اٹھس منتر گرتھ
تہ توہہ بین دولونی قہس ہنارن مجبرن متعلق
عارین ۔ بے پز زہین دولونی بند سزا
مؤمنن منتر اٹھ جماعت وچھ (اچھو) ۔

الزَّٰنِي لَا يَنْكِحُ اِلَّا زٰنِيَةً اَوْ
مُشْرِكَةً وَّالزَّٰنِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا اِلَّا زٰنٍ اَوْ
مُشْرِكٌ ۚ وَحَرَمٌ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۴﴾

اٹھ زنائی مرد چھنہ زنائی یا مشرک
زنانہ ورائی کانسہ منتر صحبت کران ۔ پچھو
زنائی زنانہ عرتی زنائی یا مشرک مردس ورائی
چھنہ کانسہ تہ ہم صحبت سپدان ۔ بہر حال مؤمن
پچھ تہ چھ یہ (کتھ) حرام ۔

وَالَّذِيْنَ يَزْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ

بے ہم لوکھ پاکدامن زنانن (بدکاری ہنر)

يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَوْ هُمْ
ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً
أَبْدًا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۱۰﴾

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَ
أَصْلَحُوا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۱﴾

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ آذَٰنًا لَهُمْ وَلَا يَكُونُ
لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ
أَحَدِهِمْ أَرْبَعَةٌ شَهْدَاتٌ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ لَمِنَ
الصَّادِقِينَ ﴿۱۲﴾

وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ
مِنَ الْكٰذِبِينَ ﴿۱۳﴾

وَيَذَرُوا عَنْهَا الْحَذَابَ ۖ إِنَّ شَهَادَةَ
شَهْدَاتٍ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ لَمِنَ الْكٰذِبِينَ ﴿۱۴﴾

وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ
مِنَ الصَّٰدِقِينَ ﴿۱۵﴾

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ
اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ﴿۱۶﴾

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِآيَاتِنَا كُفْرًا
وَمِنكُمْ ۖ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ

توہمت لاگان چھ تو پتہ چھتہ ثور گواہ پیش
کران تہ (تہند سزا چھ پیہ ز) جن دیو
شہدہ ڈر - بیہ بہتہ شہادت مہ کرو زہنت
قبول تہ تم لوکھ چھ (پسنہ امر فعلہ کر باعہتہ
اسلامی شریعتہ چہ) فرمانبرداری ہنتہ نمبر -

تہو وراہی ہم پتہ توہم کرن تہ اصلاح کرن ، اذ
اللہ (تعالیٰ) پتہ (یہ کرن پتہ) پڑی پٹھو سٹھا
بختن وول (تہ) پھیر پھیر کر ہم کرن وول -

بیہ ہم لوکھ پسنہ آشتین (بدکاری منز) انترہ
لاگان چھ تہ جن بش چھتہ پسنہ پانہ وراہی کانہہ
گواہ آسان ، تہ تہو منز گرتہ پرتہ شخص
تہ گواہی دین یوسہ اللہ (تعالیٰ) سندن
قسم کھیتہ ثورن گواہین پتہ مشتہل آسہ تہ
(پرتہ گواہی منز) ونہ سہ یہ ز سہ چھ
پڑیا پڑو منز -

تہ پانترہ مہ (گواہی) منز (ونہ) زنتس پتہ
آسن خدایہ ہنز لعنت اگر سہ اپنیا پڑو منز آسہ -

تہ تس آشتہ زنتس (یس تہند خاوند بدکاری ہنز
توہمت لگہ) کر یہ کتہ عذاب دور ز اللہ (تعالیٰ)
سندن قسم باوتہ دیہ سو ثور گواہیہ ز (تہند
خاوند) چھ اپنیا پڑو -

تہ پانترہ (قسم کھین) ہتہ پٹھو ز اللہ (تعالیٰ)
سند غضب سیدن تس (زنانہ) پتہ تانزل
اگر سہ (مانترہ لگن وول خاوند) پڑو پتہ -

بیہ اگر اللہ (تعالیٰ) سند فضل تہ تہنترہجت
توہم پتہ آسہ ہے تہ بیہ یہ آسہ ہے تہ ز
اللہ (تعالیٰ) چھ بوڈ فضل کرن وول (تہ) بچہ
حکمتر وول (تہ توہم لوکھ سید ہو تباہی منز) -

بے شک یو اکھ بڑ توہمت لاجایہ ، تم لوکھ چھ
توہی منز اکھ دور ، توہی مہ زانو یہ (کتہ) پسنہ

خَيْرٌ لَّكُمْ، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا
اَكْتَسَبَ مِنَ الْاَثْمِ، ذَا الَّذِي تَوَلَّى
كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۷﴾

خاطر یہیچھ۔ بلکہ سہ اوس تہنہد باچتھ سبھاہ
رت (تہ کیاز امر کہ باعثہ پہچو توہہ اکھ حکمتہ
بڑتہ تعلیم) تو منتر میاہ پیرتھ شخصس پوت
تو گناہ کوزرت اوس، تمیک سزا، تہ لیس شخصس
تہ گہ بکہ بڑ جفک ذہہ دار اوس تس میلہ
سبھاہ بوڈ عذاب لہ

لَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ
الْمُؤْمِنَاتِ بِانْفُسِهِمْ خَيْرًا وَّ قَالُوا
هَذَا فِكْ مُبِينٌ ﴿۱۸﴾

ییلہ توہہ یہ کتھ بوزایو، تہ کیاز کوزہ مؤمن مرد
تہ مؤمن زنانو پسنس توس متعلق نیک ظنون
تہ یہ کوزہ ووکتھ نہ یہ تہ چھ اکھ بوڈ اپز۔

لَوْلَا جَاءَهُ عَلَيْهِ بِاِذْبَعَةِ شُهَدَاءِهِ
فَاِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ فَأُولَئِكَ
عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُونَ ﴿۱۹﴾

بہ کیاز اذ نہ بنو لکو (یہویہ اپز چھاومت
اوس) تھ پیٹھ ترور گواہ۔ لہذا ییلہ تو گواہ اذ
تہ تہ اللہ (تعالے) بند قاصد موجب چھ تم
اپز یاز۔

وَلَوْلَا قَضَى اللّٰهُ عَلَيْكُمْ وَّ رَحْمَتُهُ فِي
الدُّنْيَا وَاْلْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا اَفَضْتُمْ
فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۲۰﴾

بہ اگر اللہ (تعالے) سد فضل تہ رحمت دنیاہس
منز تہ آخرتس منز توہہ پیٹھ آسہ من نہ تہ توہہ
واتہہ و تہ کامہ بند باعثہ کوزی تھ منز
توہہ پیتی آس و سبھاہ بوڈ عذاب۔

اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسِّنِّينِ وَّ تَقُولُونَ
بِاَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَّ
تَخْسَبُوْنَهُ هَيِّئًا وَّ هُوَ عِنْدَ اللّٰهِ
عَظِيمٌ ﴿۲۱﴾

امہ کوزی توہہ آس و سہ (کتھ) اکھ اکیس نش
زبون پیٹھ ہتھ، برونٹھ برونٹھ کینان تہ پینہو
آسوسو گکو و سہ کتھ و تہہ نیمیک نہ توہہ
کاشہہ علم تہ اوس و (خدا تعالے) سید توہہ
پیٹھ ناراض) تہ توہہ آس و یہ کتھ معمولی
زانان حالانکہ سہ آس اللہ (تعالے) ہس
نش سبھاہ بڑ (کتھ)۔

وَلَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ لَنَا
اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا سُبْحٰنَكَ هٰذَا
بُهْتٰكٌ عَظِيْمٌ ﴿۲۲﴾

بہ کیاز سید نہ نہ ییلہ توہہ سہ کتھ بوزایو، تہ
یکدم کوزہ وولو نہ یہ چیتھ سانی کام ز آس
تارہون یہ کتھ برونٹھ کن۔ اسے خلیہ تہ چاکھ

يَعْظُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُوذُوا بِالْمِثْلَةِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۵﴾

پاک یہ چھ سہا بڑا بہتان۔ اللہ (تعالیٰ) چھ تو بہ امرِ قبیح کتھ دو بار کر نہ نشہ ہمیشہ خاطرِ مٹھا کران۔ اگر تو ہی نہیں چھو۔

وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۶﴾

یہ چھ اللہ (تعالیٰ) تمہند خاطرِ پتہ حکم بیان کران تہ اللہ (تعالیٰ) چھ سہا زان وول (تہ) حکمت وول۔

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۷﴾

یقیناً ہم لوکھ یہ پڑھان چھ نہ مؤمن منہ تہین بڑی نشہ، تمہند خاطرِ چھ سہا کر لوکھ عذاب دنیا منہ منہ تہ آخرت منہ تہ، تہ اللہ (تعالیٰ) چھ زانان تہ تو ہی چھ نہ زانان۔

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ﴿۸﴾

یہ ہر گاہ اللہ (تعالیٰ) سند فضل تہ رحم تو بہ پیٹھ آسہ ہے نہ تہ ہر گاہ اللہ (تعالیٰ) سہا مہربان (تہ) پھیڑ پھیڑ رحم کرن وول آسہ ہے نہ (تہ تو ہی ہی ہو تکلف منہ)۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا ۚ وَلَئِنْ اللَّهُ يُدْرِكِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۹﴾

اے مؤمنو! شیطان ہند بن پد بن پد پد پد تہ یس اکھاہ شیطان ہند بن پد بن پد پد پد تہ سہ زان تہ شیطان چھ بڑ بن تہ ناپند پد کتھ ہند حکم وول۔ یہ ہر گاہ تو بہ پد اللہ (تعالیٰ) سند فضل تہ رحم آسہ ہے نہ تہ زانہ تہ آسہ ہے نہ تو بہ منہ کانہ پاک باز۔ مگر اللہ (تعالیٰ) نہیں یہ پڑھان چھ تس چھ پاک باز بان تہ اللہ (تعالیٰ) چھ سہا دعا بوزن وول سہا زان وول۔

وَلَا يَأْتِيكُمُ الْفُضْلُ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ ۚ

یہ تو بہ منہ (دپس تہ وڈیہس منہ) فضیلت حقون واول تہ وسعت حقون واول لوکھ مہ کینین

لہ یہ تو مس منہ بلا تحقیق الزام بازی آسہ تہ تو ہمہتر لاگو یوان آسین تہ تمہ منہ چہ بڑ بن ہنزاہمیت کم سپان تہ جس منہ چہ وار وار کم بڑیہ تسیلان۔

الْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَيَعْفُوا
وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ
لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۶﴾

قسم نہ اسی کرو نہ سینین مٹناون تہ مسکینن
تہ اللہ (تعالے) ہنر و تہ منز ہجرت کرن والہن
مدد-بہ پزیر تہ تم آسن معاف کران تہ درگزر کران
کیا توہی چھونا یہ شہان ز اللہ (تعالے) کر
تہندہ خطا معاف ؛ تہ اللہ (تعالے) چتھ
سبھا معاف کرن وول (تہ) پھیر کر پھیر کر رم
کرن وول۔

إِنَّ الَّذِينَ يَزُمُونَ الْمَحْضَنَاتِ الْغُفْلَتِ
الْمُؤْمِنَاتِ لِحُنُوفِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۷﴾

یہم لاکھ تڑھن پاکداسن زنانن تہ ہمت لاگان چھ
بکہہ (بد ذاتن ہنر شرار تہ لستہ) غافل آسان
چھیہ تہ ایمان دار آسان چھیہ - تمن (لوکن) پیٹھ
پیہہ وڈی مہس تہ آخرتس مفراعت کرتہ بیہ
آسہ تہندہ خاطر بوڈ غلاب۔

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَ
أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۸﴾

تہ دوہہ ینیلہ ز تہنر زبوتہ ، تہ تہندہ اتھ
تہ ، تہ تہندہ کھور تہ تمن خلاف شہادت دن ،
تہندہن تمن امانن متعلق یم تم کران اسی۔

يَوْمَئِذٍ يُؤْفِكُهُمُ اللَّهُ ۖ يَبْتَلُهمُ الْحَقَّ ۖ
يَخْلُمُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿۱۹﴾

تہ دوہہ دہ اللہ (تعالے) تمن تہندہ صحیح
بدلہ تہ تم زنان ز اللہ (تعالے) ہے چھ کابل
پزر ، تہ پزر ریس پنن پان پانہ نون کران چھ۔

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ ۖ وَالْخَبِيثُونَ
لِلْخَبِيثَاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ ۖ
وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۖ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ
مِمَّا يَقُولُونَ ۗ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۖ وَرِزْقٌ
كَرِيمٌ ﴿۲۰﴾

خبیث کتھ چھیہ خبیث مردن ہند خاطر تہ
خبیث مرد چھ خبیث کتھن ہند خاطر تہ
پاک کتھ چھیہ پاک مردن ہند خاطر تہ
پاک مرد چھ پاک کتھن ہند خاطر
یم ساری لاکھ چھ تھو کتھو لستہ پاک ہم (دس)

ذنان چھیہ ، ہم نے ہند ہاتھ چھیہ بخشائش تہ
عزتہ وول رزق (مقدر)۔

۱۶ عام ترجمہ کار چھ یہہ آیس یتھکن ترجمہ کران ز خبیث زنانہ چھیہ خبیث مردن
ہند خاطر تہ پاک زنانہ چھیہ پاک مردن ہند خاطر آسان ینیلہ وڈی مہس
مفر یتھکن چھیہ بوزہ یوان۔ عربی ز بائی منز چھہ "خبیثات" چھیہ کتھن
تہ چھ کابن تہ و منہ یوان۔ لہذا چھ اسہ امی مطابق ترجمہ
کوزمت۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا
غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا
عَلَىٰ آهْلِهَا، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا
تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤَدَّبَ لَكُمْ، وَإِنْ قِيلَ
لَكُمْ اذْجِعُوا فَاجْزِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ،
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥٢﴾

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا
غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ، وَاللَّهُ
يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٥٣﴾

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّونَ أَبْصَارَهُمْ
وَ يَحْفَظُونَ أَفْرُجَهُمْ، ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٥٤﴾

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنَ أَبْصَارِهِنَّ
وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لِيُضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ
جُيُوبِهِنَّ، سَ وَ لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا
لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ
أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ آبَاءِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ

اے مومنو! پسنبو گرو وراي بين گرن مفر مه
اسوا ازان يوت تام توہی اجازت ہنیو نہ، تہ
اثر نہ برونٹھ، بتن گرن مفر روزن والین کرو
نہ سلام۔ یہ آسہ تہنہد خاطر جان تہ امیک نتیجہ
آسہ یہ نہ توہی تھوو (نیک کتھہ ہمیشہ) یاد۔

تہ اگر توہی متن گرن مفر کانہہ لہی ہن نہ تو تہ
مہ اثر و متن مفر یوت تام نہ توہہ (گرو والہو
بند کتہ) اجازت میولت آسہ۔ تہ ہر گاہ
(کانہہ گرس مفر آسہ تہ) توہہ ونہہ بیو نہ روئی
کین گزھو واپس تہ توہہ پیرو واپس گزھن
یہ آسہ تہنہد باہتھ جاو پاکیزگی ہند موجب تہ
اللہ (تعالیٰ) چھ تہنہد کام نہ زبر پاٹھو زنان۔

تہنہد خاطر متن گرن مفر ازان چھہ گنہک
موجب یمن مفر کانہہ روزن چھہ تہ تہنہد
ساما تہ چھہ متن مفر موٹو۔ تہ اللہ (تعالیٰ) چھہ
بتہ زنان یہ توہی طاہر کران چھو بیہ بتہ
یہ توہی کھنہ تھاون چھو۔

تہ ون مؤمن ز تم آسن پسنبہ اچھہ لون کن
تھاون تہ پستین جای سترن ہنر آسن راچھہ
کران۔ یہ آسہ تہنہد خاطر پاکیزگی ہند موجب
یہ تم کران چھہ اللہ (تعالیٰ) چھہ تمہہ رتہ رہتی
پاٹھو خیر وار۔

بیہ ون شر مؤمن زنان تہ ز تم تہ آسن پینر
اچھہ لون کن تھاون تہ پستین جای سترن
ہنر آسن راچھہ کران تہ پینر پارو مہ آسن
نون کران تمہہ (پارو) وراي یس پاڈی پانے بے
احتیاد پاٹھو طاہر سیکان آسہ تہ پستہ پوتر آسن
پینن وچھن پیٹھہ تراوتھہ سہ تھایہ تھوتھہ دوران

إِخْوَاتِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَاتِهِنَّ أَوْ بَنِي
 إِخْوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُهُنَّ أَوْ الْقَائِمِينَ غَيْرِ أُولِي
 الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِي
 لَمْ يَظْهَرْ وَأَعْلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا
 يَضْرِبْنَ بِأَجْلِبِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفَيْنَ مِنْ
 زِينَتِهِنَّ وَتُؤْتَوْنَ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا آيَةٌ
 الْمُوْتُونَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿۷۰﴾

تہ بتم مہ آرسن پین پوارو نون کڈان ماسوایہ پینہین
 خاوندن، یا پسنہین مالہین یا پسنہین خاوندن ہندہین
 مالہین یا پسنہین نیچون یا پسنہین خاوندن ہندہین
 نیچون، یا پسنہین باین یا پسنہین باین ہندہین
 نیچون یا پسنہین ہینہین ہندہین نیچون یا پسنہین
 (ہم کفولہ) زنان یا ہیندہی ماہک تہہندہ
 ڈچھو اتھ سپرہی ہتر چہ یا تھہین ماتحت مردن
 تھی ہم ونہ جوان چھو آسان کھاتی یا تھہین
 شرن تھی مین ونہ زنان ہندہین خاص
 تعلقات ہندہ علم حاصل سپرہت آسہ نہ تھو
 وراہی بیہ کانسہ تھی مہ آرسن پین پوارو نون
 کڈان بیہ مہ آرسن پین کھور (زور سان زہینہ
 پٹھا امر موکہ تراوان نہ سہ چیز سپرہ نون لیس
 تم پسنہ پوارو منہر کھتھ تھوان چھہ
 تہ اے موبتو! سر سالم کرو اللہ (تعالیٰ)
 ہس کن رجوع تھہ نہ تھو کامیاب سپرو۔

وَأَنْكِحُوا الْأَيَاتِ مِنْكُمْ وَالضَّالِّجِينَ مِنْ
 عِبَادِكُمْ ذَرَاةً مَّا كُنْتُمْ أَنْفُقَاءَ
 يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
 عَلِيمٌ ﴿۷۱﴾

بیہ توبہ منہر ہم موٹہ آسن تھہ کنی غلامو یا
 نوکرانہو منہر ہم نیک آسن جن آسو خاندن کران۔
 اگر تم غریب چھہ تہ اللہ (تعالیٰ) بناو تھن
 پسنہ فضلہ سوتہ مالدار تہ اللہ (تعالیٰ) چھہ سہٹھا
 وسعت تھون وول تہ سہٹھا زان وول۔

وَلَيْسَتْ خُفُوفَ الَّذِينَ لَا يُجِدُونَ رِكَاعًا
 حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ
 يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 فَكَارِبُواهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ

بیہ بکن لوکن نکاح کرکے توفیق آسہ نہ تھن پز
 پاکیزگی پانناو نہ توت تام نہ اللہ (تعالیٰ) تھن
 پسنہ فضلہ سوتہ مالدار بناو تہ تھہندو غلامو
 منہر ہم مکاتبہ بکنک مطلبہ کرن ہرگاہ توہر

یعنی زمین ہند معاشرہ تہ شرافت آسہ تھندس خاندان برابر بد اخلاق زنان
 گزہ نہ کرن منہر تہ دین۔

مکاتبہ چھہ نہ غلام میں پسنہ ماہک سوتہ ہر معاہدہ کر نہ سہ ہور پین قیمت زور ڈکڑتھ تسطن منہر تہ گزہ
 آزاد۔

وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَكَّالِ اللَّهِ الَّذِي أَشْكُمَ
 وَلَا تُشْكِرُهَا فَتَبْتِكُمْ عَلَى الْبِخَاءِ لَإِنْ
 آذَنَ تَحَصُّنًا لَتَبْتَعُوا عَرَضَ الْحَيَوَاتِ
 الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهَنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ
 بَعْدِ الْكُرْهِينَ عَفُودٌ رَّحِيمٌ ﴿۳۰﴾

تَمَن مَنز جَانِبِ رُوحِهِ تَمَن سَبَقُ كَرُومَكَاتِهِ
 تَمَن (اگر تَمَن نَش پُور مال آسَر تَمَن) لیس مال
 اللہ (تعالیٰ) مَن تَوْبِهِ دَبِيت مَت مَجُوه تَمَب
 مَنز دِلو کَیْبَتِ مال (تَمَن تَمَنبَرِ آزادی بَنَاوُمُکِن)
 بَی مَه کَرُیوُک تَوْبِهِ پَسَنبَر کُنَبَر بَد کَارِی پُطَه
 مَجُور ہر گاہ تَمَن نیک رَوَظَن مِیْزہَان آسَن۔

یَقِ تَمَن تَوْبِهِ اَمْرُ دُوسِ دُنْیَاوِی زَنْدِگِی بِنَد سَا مَن
 سَم مَسَرُود، اِدِیْس کَا شَرْحَا تَمَن مَجُور کَر۔ تَمَن
 اللہ (تعالیٰ) چھ تَمَن (زَنَان) مَجُورِی پَسَتہ
 سَبَا بَحْشَن وول (تَمَن پِیْچَرِی پِیْچَرِی رَحْم کَرَن
 وول) سَم کَر نِی تَمَن کَرَت۔

تَمَن آسَر چھ تَوْبِهِ پُطَه نَنی نَنی نَشَانِ تَا زِل کَرِی
 مَتَرِ بَی بَی م لُکھ تَوْبِهِ بَرُوٹھ گُذَرِیوُک تَمَن پِچھ
 تَمَن دَر حَلت تَمَن چھ بَیَان کَرِی مَتَر تَمَن مَنقَلِیَن
 بِنَد خَا طَر چھ بِنَد لَفِیچَرِی چَر کَتہ تَمَن بَیَان کَرِی
 مَنز۔

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا
 مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً
 لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۳۱﴾

۳۱

اللہ (تعالیٰ) چھ آسَا مَن بِنَد تَمَن تَمَن پَنک
 تَمَن تَمَن تَمَن تَمَن کَرِی تَمَن بَی زَن زَا کھ طَا قِی
 آسَر بَیچہ مَنز کھ تَمَن آسَر (تَمَن) سَم تَمَن گ
 آسَر اَکِس شَپْشَوِی فَوُؤُس مَنز (تَمَن) سَم
 شَپْشَوِی فَوُؤُس آسَر تَمَن تَمَن پَر بَر لَان زَن تَمَن
 کھ نِیچہ نِیچہ کَرُون تَمَن آسَر (تَمَن) سَم تَمَن گ
 آسَر کھ تَمَن بَر کَر تَمَن وَا لِه کَلْمَ یَلِیْغَ زَمِنُون (کَر
 تَمَن) سَم تَمَن زَالِیْغَ یَوَان تَمَن سَم (کَلْم) نَہ آسَر
 مَشْرِی نَہ مَغْرِبِی۔ زَمَن تَمَن وُؤُی تَمَن تَمَن تَمَن
 اِدِی نَار تَمَن چھ مَت مَت تَمَن تَمَن تَمَن (بَی تَمَن گ)
 چھ وَا رِیَا مَن لُورَن ہَنز سَم مَبَرِن (مَعْلُوم سِیْلَان)۔

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، مَثَلٌ نُورٍ
 كَمُشْكُوتٍ فِيهَا، مِصْبَاحٌ، الْمِصْبَاحُ فِي
 زُجَاجَةٍ، الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ
 يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ
 لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ، يَكَادُ زَيْتُهَا
 يُضْيِئُ، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، نُورٌ عَلَى
 نُورٍ، يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ، وَ
 يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، وَاللَّهُ بِكُلِّ
 شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۳۱﴾

لہ سَم کَل نَہ آسَر مَشْرِی تَمَن مَغْرِبِی۔ اَتَم کَل س چھ تَمَن تَمَن کَرِیچ سَم لَعْلِم مَراد لِی سَم آفَاتِی چھ بِنَد چھ بِنَد
 مَشْرِی تَمَن مَغْرِبِی۔

اللہ (تعالیٰ) یمن پستہ نور با پتہ بیترہان
چھ (تمن) چھ ہدایت دیوان تہ اللہ (تعالیٰ)
چھ لوکن بند خاطر (سارے ضروری) کتھ
بیان کران بیہ چھ اللہ تعالیٰ پر پتہ اکھ چپڑ
رہی پاتھر زانان۔

یم (شراکر) چھ ہتھین گرن منز یمن ہمز دیک
اللہ (تعالیٰ) ہن حکم بیت مت چھ تہ تمن منز
چھ خدایہ سند ناو ہینہ یوان (تہ) ہنمن تہ شامن
چھ تمن منز تسبیح کرہ یوان۔

کینہ مرو چھ یمن اللہ (تعالیٰ) ہنہر ذکر نشہ
تہ نماز قائم کرہ نشہ تہ زکوٰۃ دینہ نشہ، نہ
چھ تجارت تہ نہ تہ بند سودا کینہ خاطر کران۔
تم چھ تہ دوہس کھوتران بیہر دوہہ دین گزہ
تک پتھ تہ اچھ گزہن چھ پتھ۔

نتیجہ آسہ بیہ زر اللہ (تعالیٰ) دیہ تمن تہ بندین
اعمالن ہند رہت کھوتہ رت جزا تہ تمن کرہ پستہ
فضلہ سوتی ہرہر (ماس تہ اولادن منز) تہ
اللہ (تعالیٰ) یس بیترہان چھ لتس چھ حسابہ
ورای رزق دیوان۔

تہ تم لوکھ یو کھ کوڑ بہندہر اعمال چھو کہہ بیابانی
سرکولہ پاتھر پتھ تہ نشہ ہزت آب زانان چھ،
یوت تام زہ نیلہ سہ تہ نشہ یوان چھ تہ سہ چھنہ
تہ کنبی لہان تہ اللہ (تعالیٰ) ہس چھ تہ
نش وچھان اچھ اللہ (تعالیٰ) تس تند پور پور
حساب چکاولن تہ اللہ (تعالیٰ) چھ سہا جلد
حساب چکاولن والہو اندہ۔

فِي بُيُوتِ إِذْنِ اللَّهِ أَنْ تَرْفَعَهُ وَيُذَكَّرَ
فِيهَا اسْمُهُ، يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ
وَالْآصَالِ ﴿٢٤﴾

رَجَالَ، لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنِ
ذِكْرِ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ
الزَّكَاةِ، يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ
فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٢٥﴾

لِيُجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَ
يَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، وَاللَّهُ يَزِدُّ
مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٦﴾

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُوهُمْ كَسْرًا
بِقِيحَةٍ يَخْسِبُهُ الظَّمَانُ مَاءً،
حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْعًا
وَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَهُ حِسَابًا،
وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٢٧﴾

لہ خدای نور انک ثبوت چھ بیہ مرس منز تہ آسہ سہ لہر دنی بیہس منز تہ عزت
تہ سہ گہ روزہ ہمیشہ عبادتہ تہ ذکر الہی سوتی آباد۔

لہ صحراون منز چھ تا پتہ سوتی نیہر نیہر کرون یکہ شاٹھ آبہ سہر بیو بو زہ یوان
مگر حقیقتن چھ بیہ صرف گنہ نخلستانک یادریاؤک اکھ عکسے اوت آسان۔

یا چھ (تمن کافرن بند بن اعلان ہنر حالت) اتن
 ان گن ہنر ہش یکم اُکس شہن سمنرس پٹھ
 چھاوتھ آسان چھینہ بیتھ پٹھ ملکہ ووتھ وئی آسان
 چھ تہ تمن ملکن پٹھ چھ بیہ ملکہ ووتھ وئی آسان
 تہ تمن سارن پٹھ چھ اکھ او بر آسان یکم چھینہ
 تہ تمن ان گن آسان یکم اکھ اُکس پٹھ چھاوتھ آسان
 چھینہ ییلہ انسان پٹھ کڈان چھ تہ کوشش
 کرٹھ تہ چھنہ سہ تتھ وچھتھ ہیکان تہ نیمر ہند
 خاطر اللہ (تعالیٰ) نور بناو تہ تن چھنہ کتہ کتہ
 نور میلان۔

کیا تہ چھکھتا وچھان تہ اللہ (تعالیٰ) چھ سہ
 زیم آسان تہ زمین ہنر روزان چھ ہتم ساری
 چھ تہنرے سبح کران تہ (وڑ وئی) جاناوار
 چھ صف گنڈتھ تس بروٹھ کتہ حاضرتہ تمو
 ہنر چھ پر تہ اکھ (پسنہ پسنہ پیدائش مطابقت)
 پنر نماز تہ پنر سبح زنان تہ یہ کینر ہاتم کران
 چھ۔ اللہ (تعالیٰ) چھ تہ زبر پٹھ زنان۔
 بیہ آسان تہ زمین ہنر بادشاہت چھینہ اللہ
 (تعالیٰ) ہنر تہ اللہ (تعالیٰ) ہبے کن چھ
 سارن پٹھ چھ گرتھن۔

کیا تہ وچھتھنا تہ اللہ (تعالیٰ) چھ اورن وار
 وار کھ ووتھ اتان پتہ چھ تمن درمیان میل پٹھ
 کران پتہ چھ تمن تہ ہر تہ ہنر بناوان۔ پتہ چھکھ
 تہ وچھان تہ تمو اندر چھ رڈ وکن ہوان تہ
 سہ چھ او بر ہنر سٹھا بڑ باڈوک چیز والان۔
 یو ہنر کینہ ووتھ کر تہسکی آسان چھ اد چھ
 تتھ واناوان بیتھ (توس) تام یئیرتھ تہ بیتھ نش
 ہنرھان چھ (تہ ہنر) چھس بیتھ رمان۔ زرتہ
 وئی تہنر ورتھ ہنر پرلو کر کینہ اچھ ان۔
 اللہ (تعالیٰ) چھ رات تہ ووتھ (اکھ اُکس پتہ)

أَوْ كَلَّمْتِ فِي بَحْرِ لُجِّي يَغْشَاهُ
 مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ
 سَحَابٌ ظَلَمْتُ بِحُضَاهَا فَوْقَ بَعْضِ
 لِأَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكْذِبْهَا وَمَنْ
 لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ﴿۱۹﴾

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَفَّتْ كُلُّ
 قَدَعِلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿۲۰﴾

وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ
 الْمَصِيرُ ﴿۲۱﴾

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ
 يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا
 فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خَلْقِهِ وَيُنَزِّلُ
 مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ
 فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن
 مَن يَشَاءُ يَكَاذِبُنَا بَرْقُهُ يَذْهَبُ
 بِالْأَبْصَارِ ﴿۲۲﴾

يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَعِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿۷۰﴾

گروش دوان ۔ اتھ منز چھ گاشاران ہنسہ
خاطر بڑ عبرت۔

وَاللَّهُ خَلَقَ حُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ ۚ
فَمِنْهُمْ مَّن يَّمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ ۚ وَ مِنْهُمْ
مَّن يَّمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ ۚ وَ مِنْهُمْ مَّن
يَّمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ ۚ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۚ
إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۷۱﴾

اللہ (تعالیٰ) ہن چھ پر پتہ کین وول جانور آبہ نشہ
پاد کوزمت او کینہ تہ چھ تھو یکم پستہ یڑ پیٹھ
پکان چھ تہ کینہ چھ تھو یکم (پستہن) دوان پدن
پیٹھ پکان چھ تہ کینہ چھ تھو یکم ترون پدن پیٹھ
پکان چھ ۔ اللہ (تعالیٰ) ۔ بیٹھان چھ تہ چھ پاد
کران تہ اللہ (تعالیٰ) چھ پر پتہ کتہ چہر س پیٹھ
قودرت تھوان۔

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ مُبَيِّنَاتٍ ۚ وَاللَّهُ
يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيمٍ ﴿۷۲﴾

اسر چھ مئی نئی نشانہ نازل کرکوتہ تہ اللہ (تعالیٰ)
یس بیٹھان چھ تس چھ سیزوتہ کن ہدیت دوان۔

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ
وَ آطَعْنَا ثُمَّ يَقُولُ قَرِيبٌ مِّنْهُمْ مِّنْ
ذَلِكَ ۚ وَ مَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿۷۳﴾

بہ چھ ہم زمان ز اسر افون اللہ (تعالیٰ) ہس
تہ تہدس رسولس پیٹھ ایمان ، تہ اسر کوز اطاعتک
وعدہ تو پتہ چھ ، تمو منز اکھ دور (پستہ اقرار نشہ)
پھیران تہ پیٹھ لوکھ چھتہ ہرگز مؤمن۔

وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ
بَيْنَهُمْ إِذَا قَرِيبٌ مِّنْهُمْ مُّخْرَضُونَ ﴿۷۴﴾

بہ بییدہن اللہ (تعالیٰ) تہ تہدس رسولس کن
او کئی ناد چھ دہ پون بیٹھ ز سہن درمیان
فاصلہ کر تہ تمو منز چھ اکھ دور نوب ہوان۔
تہ اگر کانہ کتہ تہدس حقس منز اسر تہ ہم بہ
یکدم اطاعتک اظہار کران یوان۔

وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ
مُدْعِينَ ﴿۷۵﴾

کیا تہدس دن دن منز چھا کانہہ بیارک ؟ کتہ ہم چھ
شکس منز پیٹھ یا ہم چھ کھوتان ز اللہ (تعالیٰ)
تہ تہدس رسول کر تہن پیٹھ ظہم ؟ تہزہ کتہ چھتہ ہرگز
بلکہ ہم چھ پانہ ظالم۔

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى
اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَّقُولُوا
سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۷۶﴾

مؤمنن بییدہ اللہ (تعالیٰ) تہ تہدس رسولس کن
ناد دہ پیہ ز سہ کر تہن درمیان فاصلہ تہ تہتہد
جواب چھ یہ آسان ز اسر بوز تہ اسر مون ، تہ
بسکے لوکھ چھ کامیاب سپدن روزان۔

وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ يَخْشِ اللَّهَ ۚ

تہ یکم لوکھ اللہ (تعالیٰ) تہ تہدس رسولس تہ اطاعت

وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ يَخْشِ اللَّهَ ۚ

يَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿۵۰﴾

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن
آمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجْنَ ۚ قُلْ لَا تُقْسِمُوا ۚ
طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ ﴿۵۱﴾

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ
فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكُمْ مَا حُمِّلَ ۚ
عَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ ۚ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۚ
وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿۵۲﴾

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ ۚ
عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي
الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ
وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ
وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَن كَفَرَ
بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۵۳﴾

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۵۴﴾

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي

کرن تو اللہ (تعالیٰ) بس کھوڑن تو تشد تقویٰ
کرن اختیار تم چھو بامراد سیدان۔

بہ چھو تم لوگ اللہ (تعالیٰ) بندگی پوختہ قسم
کھولان تو اگر تو حسن حکم دیکھ تو تم نیرن یکدم
گرو منتر نمبر۔ دیکھو! قسم مہ کھیند سون
حکم چھو تو ہر طرف تہ اطاعتک یوسہ عام
پاٹھو اطاعت زانہ یوان چھین۔ اللہ (تعالیٰ)
چھو یقینا تمہ رتہ خیر دار یہ تو ہی کران چھو۔

تو دن اللہ (تعالیٰ) ہنر اطاعت کرو تو تندیس
رسول ہنر اطاعت کرو۔ اور اگر تم پھیرتہ گنہن
تو اوس (رسول) پیٹھ چھین صرف سوسے دہر واری یہ
تہند ذمہ تھاوتہ آمبر چھین تو توہ پیٹھ چھین سوسے
دہر واری یہ تہند مٹ تھاوتہ آمبر چھین تو اگر تو
تہنر اطاعت کرو تو ہی لبو ہدایت۔ تو رسول ہند
ذمہ چھ صرف کتہ واش کڈتہ واتنا وئی اوت۔

اللہ (تعالیٰ) ہن چھ توہ منتر ایمان ان والہن
تو مناسب حال عمل کرن والہن سوتی وعدہ کور مت
زسے بناو ہن زمینہ منتر خلیفہ بیتہ کئی ہن بروٹھ
لوگ خلیفہ بناو ہن ہن۔ بہ لیس دین تمہ تہند
خاطمہ پسند کور مت چھ سہ کر تہند خاطر تہ مغبولی
سان قائم تو تہنر خوفہ چہ حالہ پتہ کر سہ تہند
خاطمہ آمنس منتر تبدیل۔ تم کرن میانی عبادت
دو کرہ چیزس بناون تو میون شریک، تو ہم لوگ
اہر پتہ تو انکار کرن تم بین نافرمانہ منتر کتہ روتہ۔
بہ کرو تو ہی ساری نماز قائم تو زکوٰۃ دلو تو نہیں
رسول ہنر اطاعت کرو بیتہ نہ توہ پیٹھ دم کرہ

بہ۔
(بہ اے مخاطب!) زانہہ کرک زہ نہ خیال نہ

الْأَرْضِ وَمَا دَهُمُ النَّارُ وَالَيْسَ الْمَصِيرُ ﴿۵۱﴾
 کفار کران اسم ز مہبتہ مشر پسنو تدرہ پرو ستر
 عاجز۔ تہ تہندہ ٹھکانہ چھ جہنم تہ سہ چھ سبھا
 یکچہ ٹھکانہ۔

اے مومنو! پز یہ ز تم لاکھ مین ہند کرنا
 تہند کر ڈھونڈو (یعنی غلام) بیہ تم یکم و نر
 بالغی و آڈ ہتی آسن نہ، تم آسن ترین وقتن مشر
 اجازت ہتہ اندریان۔ صبح چہ نماز بروٹھ، سیدہ دیکر
 وقتہ نیلہ توہی پز پلو نالہ کڈان چھو، بیہ نمہ وقتن
 نماز پیتہ، یکم ترید وقت چھ تہند کر پرورک وقت
 یکم وقتو پیتہ (اند پش گڑھنس پیٹھ) نہ چھ
 توہم پیٹھ کاٹھہ گناہ نہ چھ تمہن پیٹھ کاٹھہ گناہ۔
 تہ کیاز اکثر توہم مشر چھ کینہہ کیشن لیش و ز و ز
 یوان گڑھان روزان۔ یتھے پٹھو چھ اللہ (تعالے)
 پینزی حکم واش کڈتھ بیان کران تہ اللہ (تعالے)
 چھ سبھا علمہ وول (تہ) حکمتہ وول۔

بیہ نیلہ تہند کر شرکر بالغ گڑھنس تہ یتھے پٹھو
 آسن اجازت ہوان یتھ پٹھو تمہن بروٹھ (تہند کر
 بڑی) اجازت ہوان آس۔ یتھے پٹھو چھ
 اللہ (تعالے) پینزی حکم تہند کر خاطر بیان کران بیہ
 چھ اللہ (تعالے) سبھا زان وول (تہ) حکمتہ
 وول۔

بیہ تم زمانہ یکم زن سجر گامشہ جمعیتہ تہ نیتمرس
 لایق چھنہ تمہن پیٹھ چھنہ کاٹھہ گناہ ہر گاہ تم پینزی
 پلوٹہ و اہتہ تھوان یتھ پٹھو تر پارو کڈان نہ
 نون۔ تہ تہندہ سچتھ روزان اسم تہندہ خاطر بہتر
 تہ اللہ (تعالے) چھ سبھا بوزان وول (تہ)
 زان وول۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ
 مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا
 الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ
 الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ
 الظَّهْرِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ
 عَوَارَاتٍ لَكُمْ دَلِيسَ عَلَيْكُمْ وَلَا
 عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَافُونَ
 عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
 اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۵۱﴾

وَاذْ أَبَلَّهَ الْإِطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ
 فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ
 قَبْلِهِمْ، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ،
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۵۱﴾

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَزُجُونُ
 زَكَاتًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ
 ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ، وَ
 أَنْ يَشْتَعِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، وَاللَّهُ
 سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۵۱﴾

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَةِ الْكُفْرِ أَوْ بُيُوتِ خُلَاقِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْهُم مَّفَاحِكُمْ أَوْ صَدِيقِكُمْ ، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَاسْلِمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً وَمِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ ، كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۷۰﴾

۱۴

انہیں ہند خاطر ، تم لنگہیں ہند خاطر تہ بیارک ہند خاطر تہ تہند خاطر کینہ کھینس چینس منفر چھہ کا تہہ حرج چینو مرو منفر یا پینین جلدلان ہند پو مرو منفر یا پینین ماجن (یا تامان) ہند گر یا پینین باین ہند گر منفر یا پینین پینین ہند گر منفر یا پینین پینین ہند گر منفر یا پینین پینین ہند گر منفر پو پین ہند گر منفر یا پینین مامن ہند گر منفر یا پینین مامن ہند گر منفر یا پینند ساما نہ کس انتطاس پپہ توہی مقرر چھو یا پینین دوستن ہند گر منفر - (یتھے پانٹھی) تہند خاطر چھہ کا تہہ گنہ نر توہی ساری کینو کپوٹ یا کینو بیون بیون - بہر حال نیلہ گرن منفر ازان آسوتہ پینین ماٹھین یا دوستن آسوتہ سلام کوان - یہ چھہ اللہ (تعالے) ہند طرفہ اکھ بوڈ برکش وول تہ پاکیزہ دعا - یتھے پانٹھی اللہ (تعالے) پتو حکم توہیہ واش گد تہ بوز ناوان یتھ نر توہی عقلہ کام ہئیو - صرف چھہ تے لوکھ مؤمن و نانو کو عقدار یکم اللہ (تعالے) تہ تہندس رسولس پپہ ایمان اتان چھہ بیہ نیلہ گنہ قومی کامہ با چھہ تھس (رسولس) تھس بہتھ آسن تہ و تھتھ چھہ تہیران یوتام تھس اجازت ہین نہ - تم لوکھ یکم تریہ نیشہ اجازت ہتھہ تیران چھہ تے چھہ اللہ (تعالے) اہس تہ تہندس رسولس پپہ ایمان تھوان - لہند نیلہ تم پینہ گنہ اہم کامہ خاطر تریہ اجازت ہینے تہ ہتمو منفر یمن متعلق تہ ہتھہ کھ تھن د اجازت تہ اللہ (تعالے) ہس متگ تہند خاطر بخشش تہ اللہ (تعالے) چھہ یقینا سہما بخشش وول

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ ، إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنٍ مِنْهُمْ فَإِذَا نَزَلَ عَلَيْهِمْ فَأَنْزَلْ لَهُمْ تَحِيَّةً وَمِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۷۱﴾

لے مہووی تعلیم مطابق اسی آئی ، بنگر تہ بیار نا پاک زاتہن یوان - قرآن مجید چھہ اہم عقیدت تروپد کران -

(تہ) پھیڑی پھیڑی رحم کرن وول۔
 اے مومنو یہ مہ زانو ز رسول سہ تو بہ منہز
 کانسہ آلو کرن چھہ سیتھے سیتھے تو بہ منہز کانسہ
 ہند کانسہ آلو کرن (چھہ) اللہ (تعالے) چھہ
 بتن لوکن زمانن ہم تو بہ منہز وول دہتھہ (شوچھہ)
 مجلسہ منہز (ترور تر صیپہ نزلان چھہ۔ لہذا ہم
 تہندہ (یعنی رسول ہند) کایچ مخالف ت کران چھہ
 بتن پز کھوڑن زیتھہ بتن پٹھہ تھایہ ہند طرفہ
 کانسہ بلایہ پیپہ یا پھتھہ بتن کروٹھ عذاب واتہ۔
 بوڑو! یہ کینشہا آسمان تہ زمینہ منہز چھہ، تہ
 چھہ اللہ (تعالے) سندسے۔ (تہ) سیتھ (حاسس)
 پیٹھ تو بہ چھہ، تھہ تہ چھہ اللہ (تعالے) ہے
 زمانن، بیہ سیتھ دو بہ ہم لوکھ اللہ (تعالے) اس
 کن والپن ہنہ پن تہ سہ و ہنہ بتن ہتھنہن اعمالن
 ہند حال تہ اللہ (تعالے) چھہ پر تھہ کانسہ پیچہز
 زبر پٹھہ زمانن۔

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ
 بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ
 يَسْتَسْلِفُونَ مِنْكُمْ لِيُؤَاذِنَهُ الَّذِينَ
 يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ
 فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

اَلَا اِنَّ اِيْلَهُ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَ اَلْاَرْضِ
 قَدْ يَعْلَمُ مَّا اَنْتُمْ عَلَيْهِ وَاَيُّوْمَ يُزْجِحُوْنَ
 اِلَيْهِ فَيُنۡسِفُهُمۡ مِّمَّا عَمِلُوْا وَاَللّٰهُ
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

سُوْرَةُ الْفُرْقَانِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مَعَ الْبَسْمَلَةِ ثَمَانٍ وَ سَبْعُونَ آيَةً وَ سِتَّةٌ وَ اَلْوَعَاثُ

سورة الفرقان، یہ سورہ چھہ مکئی تہ بسیم اللہ ہتھہ چھہ اتھہ السنتھہ آیہ بیہ چھپس تھیہ رکوع۔

(بہ چھپس) اللہ (تعالے) سند ناو ہتھہ (پران) ایس
 حد روں کرم کرن وول (تہ) پھیڑی پھیڑی رحم کرن
 وول پٹھہ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

سو ذات چھپہ سہما برکتر واجزہ نیو پستنس
 بندس پیٹھ فرقان تہ نازل کورمت چھہ سیتھ زن
 سہ سارہنے عالمن ہند خاطر ہشتیاد کرن
 وول بنہ۔

تَبٰرَكَ الَّذِیۡ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰی عَبْدِهٖ
 لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِیۡنِ نَذِیْرًا ۝

سہ یعنی سو تعلیم یوسہ چھس تہ باطلس (پرس تہ اہرس) منہز فرق کران پھتھہ۔

يَا زَيْنِبُ لِمَ مَلَكَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ لِمَ
يَتَّخِذُ وِلْدَانًا لِمَ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي
الْمُلْكِ وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ
تَعْقِيْدًا ۝۱۰

سے (یعنی سوزات) تینو بندیں قبض منز آسمان
ہنر تہ زمین ہنر پادشاہی چھینہ بیہ تینو کا نہہ
تینو چھینہ بنومت تہ تینو ہنر پادشاہی منز کا نہہ
شریک چہ تہ بیہ تینو ہر تہ چیز پاد کورمت چھ
بتہ چین تہ خاطر کہ اندازہ مقرر کورمت۔

وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ
شَيْئًا وَ هُمْ يُخْلَقُونَ وَ لَا يَمْلِكُونَ
لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَ لَا نَفْعًا وَ لَا يَمْلِكُونَ
مَوْتًا وَ لَا حَيَاةً وَ لَا شُؤْرًا ۝۱۱

تہ تو لوگو چہ تمس (خلائق) وراہی معبود بناو تہ
تھاوار ہتو بیم کنہی (تہ) پاد چھینہ کران حالانکہ
تم چہ پانہ پاد کر تہ یوان بیہ بیم پستہ ذاتہ
ت خاطر نہ چہ کتہ نوقصان دنس پٹھہ قودرت تھوان
نہ نفع دنس پٹھہ۔ تہ چہ ہم متو کہ ماک تہ نہ
زندگی ہندہ تہ نہ پتہ زندہ گتہ صتھ ووتھنک۔
تہ کافر چہ زمان نہ یہ تہ چھہ صرف کہ اپز بیس
تہ بنومت چھہ تہ اتھ بناو تنس منز چھہ بیہ اک
قومن تمس اتھ روٹ کورمت اہ تو لوگو چھہ
(یہ کتہ کرتھ) سبھا بوڈ نظم کورمت تہ سبھا
بوڈ اپز وومت۔

وَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ
بِإِفْتِرَائِهِ وَ آعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ ۝۱۲
فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَ زُورًا ۝۱۳

بیہ چہ تم ومان نہ یہ (یعنی قرآن) تہ چھہ پراہن
لوکن ہندہ قصہ بیم تہو (کاتسہ اتھ) لیکتاو
متو چھہ۔ تہ وونی چھہ ہم صبحن تہ نشامن اہس
برو تھہ کتہ پڑتھہ ہوزاوتہ یوان (تہ زان سہ برتہ
پاٹھو قرآن لیکھ)۔

وَ قَالُوا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اَلْكَتَبَہَا فَبِہِی
تُمَلِّ عَلَيْهِمْ بَكْرَةٌ ۝۱۴ وَ آصِيْلًا ۝۱۵

تہ وکاتہ نہ یہ (قرآن) تہ چھہ تہو (خلائق) تا نزل
کورمت بیس آسمان تہ زمین ہندہ رازن ہند
رازی کار چھہ سہ چھہ سبھا بخش مار (تہ) پھیر
چھیرہ رحم کرن وول۔

قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ
وَ الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلْفُورًا رَاحِمًا ۝۱۶

بیہ چہ ہم ومان نہ تینیس رسوئس کیا چھہ گومت۔
نہ سہ چھہ کہن تہ کھوان تہ بازارن منز تہ چھہ
چھیلان تھوران۔ اہس پٹھہ کیا زہ اونہ ملا یک
تا نزل کر تہ بیس سہ وودنہ روزتھہ لکن ہشار
کرہے۔

وَ قَالُوا مَا لِيَ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ
وَ يَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ؕ لَوْ لآ أَنْزَلَ إِلَيْهِ
مُلْكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ تَزْيِيْرًا ۝۱۷

أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنُزًا أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ
يَأْكُلُ مِنْهَا ۚ قَالَ الظَّالِمُونَ إِن
تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّشْحُورًا ﴿١﴾

یا اُمس پیٹھ پیہ ہے کاشہ خزائے والنہ یا اُمس نش
آسہ ہے کاشہ باغ میںکو مہو سہ کھینے ہے ۔ تہ
ظالم چیر فان ز توہی تو چھو اُمس نبھس اناس
پتہ پکان یس کہن کھیاونہ یوان چھہ ۔

أَنْظُرْ كَيْفَ صَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا
فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿٢﴾

وچھہ ! تزیہ متعلق کہہ کہہ کتھہ چھہ ہم بنان
تہ ہم چھہ گراہ گاہو اماپوز بین چھہہ (ٹھیک
کتھہ کر بیخ) کاشہہ و تھہ میلان ۔

تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ
ذَلِكَ جَدَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
وَيَجْعَلُ لَكَ فُصُورًا ﴿٣﴾

سپٹھا برکت وول چھہ سہ خدایس ہر گاہ میںترہہ
تہ چانہ خاطر کر (تہندہ تجویز کرے متہ) تہہ
(باقمہ) کھوتہ سپٹھا برکت باغ پاد بین (ہندن
ساین) تل نہر پکان آسن تہ چانہ خاطر
کر بچہ مندور تیار ۔

بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ
كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿٤﴾

پز چھہ یہ ز ہم لکھ چھہ قیامتہ ہند انکار کران
تہ اسہ چھہ تہندہ باچھہ یس قیامتہ ہند منکر
آسہ شولنہ مارن والہ مذاک انتظام کر تھہ
تھومت ۔

إِذَا رَأَوْهَا مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا
تَغَيُّطًا وَزَفِيرًا ﴿٥﴾

ییلہ سہہ (یعنے جہنم) ہنن دور پیٹھ وچھہ تہ تم
بزن تمیک گریزن تہ (ہینہ والہ) مہیستہ آواز ۔

وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَعِيفًا
مُتَقَرِّبِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿٦﴾

اد ییلہ تم تہرا جہنمہ) چہ اُمس تنگ باقمہ مغز
تھہ کھور گتھہ ڈارتھہ دنہ بین تہ تم کرن تہہ وز
مرکت تہا ۔

لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا
ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿٧﴾

اد دن خدایہ ہندک ملایک تمن) از مہ کرو اکہ
موتک تہنا بلکہ کرو سپٹھاہ موتن ہنتر خاطر
(تہ کیاز توہہ پیٹھ چھہ پھیر پھیر عذاب ہنہ
والہ) ۔

سہ یعنی اُمس چھہ نیزیم لکھ امداد ووان ۔
سہ عربی زبان مغز چھہ جہنم "مونت مگر کاشرس مغز چھہ یہ منکر ۔ لہذا چھہ ترجمہ
تمی حسابہ کرنہ اُمس ۔
سہ زَفِيرًا مصیبت (المفروات)

سہ یعنی اُمس چھہ نیزیم لکھ امداد ووان ۔
سہ عربی زبان مغز چھہ جہنم "مونت مگر کاشرس مغز چھہ یہ منکر ۔ لہذا چھہ ترجمہ
تمی حسابہ کرنہ اُمس ۔
سہ زَفِيرًا مصیبت (المفروات)

قُلْ أَذِلَّكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي
وَعِدَ الْمُتَّقُونَ، كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَ
مَصِيرًا ﴿۱۱﴾

لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ، كَانَ عَلٰى
رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُولًا ﴿۱۱﴾

وَيَوْمَ يَخْشَرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي
هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ﴿۱۱﴾

قَالُوا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يُنْبِئُنَا لَنَّا أَنْ
تَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَ لَكِنْ
مَتَّعْتَهُمْ وَ آبَاءَهُمْ حَتَّى تَسْأَلَ الذُّكُورَ
وَ كَانُوا اقْوَامًا بُورًا ﴿۱۱﴾

فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا تَقُولُونَ ؕ فَمَا
تَشْتَرِيْعُونَ صِرْفَادًا لَا نَضْرَاجُ وَ مَنْ يَظْلِمِ
وَ نَكْمُ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴿۱۱﴾

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا
أَلَّهُمْ لِيَأْكُلُوا مِنَ الطَّعَامِ وَ يَمْشُوا فِي
الْأَسْوَاقِ ؕ وَ جَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً
أَنْ تُضِلُّوْا ؕ وَ كَانَ رَبُّكَ بِصِيرٍ ﴿۱۱﴾

تر وں، تم نے یہ (انجام) چھا بہتر کہتے ہمیشہ
جنت! یہ تمہیں متقین سے وعدہ کر کے آمت پہ
سے آسے تمہند (پور پور) بدلے تمہیں آخری ٹھکانے۔

تم میں سے کون سے منز تہ کینٹھا یہ تمہیں بہتر ہے، تم
تم روزن تہ منز ہمیشہ بسوڑی، یہ چھ اگھ تہ تہ
وعدہ یس پور کر کے چائیں پروردگار سے پیچھے واجب ہے۔
یہ نیلے سے (خلا) تم سے تمہندیں اپڑن
معبودن پائیں بروٹھ کہنے استاد کر کے پتہ و ن
تم، کیا توہمہ اسی و امیانی یم بندہ گمراہ
کرے ہوتے؟ کہتے تم اسی پائے سینے و تہ نشتر
ڈلے ہوتے؟

تم دن جواب (اے) تر چیکھ پاک آسے اوس
نہ کاٹھ حق نے اسی بناو ہوکھ تریہ و راہی بدل
وجود پینے کار ساز۔ مگر تریہ کوڑھ تمہن لوکن تہ تمہند
جدن اجلان دنیاوی مال دولت عطا یوت تام تر
تہو تر صن (چون) یاد مشتراوتھ تہ ہلاک سپدن
وول قوم بنے یہ۔

لہذا (گفاریں پیسہ و تہ تر و چھو) یو اپڑو
سعدو و اپڑو تمہند کہتے۔ او کوئی از تہ ہیکو
توہی عذاب دور کر تھ تہ نہ ہیکو کاٹھ مسد
حاصل کر تھ، تہ یس کاٹھ تہ تہ منز ظالم چھ
اسی و اتنا و تہس بوڑ عذاب۔

یہ تریہ بروٹھ سہی تہ رسول اسے سوزی ہو اسی
تم ساری اسی کہیں تہ کھوان تہ بازن منز تہ
اسی پھیران تھوران۔ یہ چھ اسے توہمہ منز کہینہ
کینٹھن ہند خاطر آزمائش ہند ڈریوہ بناوکر
ہو۔ (یہ و چھن خاطر) نے توہی (مسلمان) چھو
سپر کران (کہتے نہ؟) یہ (اے مسلمان!) چون
پروردگار چھ (حالات) چا و چھن وول۔

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ۖ
لَوْلَا أَنْزَلْ عَلَيْنَا الْمَلِيكَهٗٓ أَوْ نُرِي
رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ
وَعَتَوْعَتُوٓا كِبِيرًا ﴿۱۷﴾

بے تمویم سائز ملو قاتج وہ مید چھتہ تھوان وون
نراسر پیٹھ کیانر آپ نہ ملا یک تامل کرنہ؟ یا اسر
کیانر چھن نہ پنن رب پسنبو اچھو وچھان، تمو
چھہ پسنبن دن منز پنن پان سبھاه بوڈ نیال کوربت
تہ سرکش منز چھ سبھہا بروٹھہ درایت۔

(ہم لاکھ جینا زمانان نر؟) نیبہ دوہہ تم ملا یکن وچھن
تمہ دوہہ میلہ نہ مجھرم کنہی نموشخبر۔ بے دن
تم (کابرتھہ اسر نش) روربو دورہے۔

يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ
يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَ يَقُولُونَ
حِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿۱۸﴾

بے کور اسر توتہ تہننیز پرتہ تمہہ جہر علمہ کن، یوہہ تمو
کر مہتر اس تہ تم بناو اسر واوس منز چھانر آتہن
گرور ذرن ہندک پاتھو۔

جنتی لاکھ آسن تمہ دوہہ بھکانہ کر حسابہ تہ رتہ۔ تہ
آلاسو جابو حسابہ تہ آسن تم تھدرن تعامس پیٹھ۔

وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ
فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا ﴿۱۹﴾

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا
وَ أَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿۲۰﴾

بے (کرو) سہ وہہ (تہ یاد) نیلہ آسمان چھٹہ تہ
اوبر اسر سلا پیٹھو گمان تہ ملا یک پن چھپرک چھپرک
تامل کرنہ۔

تمہ دوہہ پیبہ پادشاہی پڑو کنی رحمان (خداہ)
ہندس تبس منز بوزنہ تہ (یہ) وہہ اسر کافرن
پیٹھ جابو سخت۔

تہ اسر دوہہ دینا لم پسنبن اتھن شڑی (تہ) ونہ
اسے کاش! میہ اسرہے رولس سرتی وتمہ
رٹھپر۔

ہے بدھیبی! کاش میہ اسرہے نہ فلانی شخص یار
بنومت۔

تو کورس بہ خداہ ہندہ ذکر رتہ غافل۔ حالاکہ سہ
آیاو (رسولہ ہندہ وسیلہ) میہ رتہ۔ تہ شیطان
چھہ انجر انسانس کورسے زرنس تراوتھہ گرنھان۔

بے وون رولن، اسے میانہ پرور بگاہ! میاڈ قوم تہ
چھہ یہ قرآن تھہر پتھہ کن تراوتھہ ترصمت۔

وَيَوْمَ تَشْقُقُ السَّمَاوُ بِالْعَمَامِ ۖ
نُزُلُ الْمَلَائِكَةِ تَنْزِيلًا ﴿۲۱﴾

أَلَمْ لِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ، وَ
كَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ﴿۲۲﴾

وَيَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ
يَلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿۲۳﴾

يُوَيْلَتِي لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿۲۴﴾

لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذٍ
جَاءَنِي، وَ كَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْإِنْسَانِ
خَدُوْلًا ﴿۲۵﴾

وَقَالَ الرَّسُولُ يَرَبِّ إِنَّ قَوْمِي
اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ﴿۲۶﴾

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿۲۱﴾

تہ اسے چھ بیٹھے پاٹھو مجھو منہ سارکے نبین ہندو دشمن بناؤ کہی۔ تہ چون پروردگار چھ ہدایت دہن تہ مدد کرنہ کہ حسابہ (بلکل) کٹانی۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً كَذَلِكَ لِيُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ﴿۲۲﴾

بیہ وزن کافرو۔ قرآن کیاز آونہ اُس (نبین) پیٹھ اکی لٹہ تازل کرنہ بہ تہبتہ وزن تہ چھ اکر رنگہ جان (مگر اسے کوز سہ نعتت سورن تہ نعتت وقتن منہ) اوکزی (تازل) نہ اُس روزو امہ (قرآن) کہ ذلیعہ چون دل ڈر لوان بیہ چھ اسے یہ میث خوبصورت بنومت۔

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿۲۳﴾

بیہ (چاہ تہ ردید خاطر) چھ تہ تم کانہہ کتھ کران بیٹھ در جواب اُس اکر اُر تہ ڈر کتھ کرو نہ تہ بیج برتہ کھوتہ رتہ تشریح کرو نہ۔

الَّذِينَ يُخَشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ لِأَجْهَتِهِمْ ۖ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿۲۴﴾

بیم لوکھ تہند سردار ہتھ چہنس کن نہین تہبتہ تمام اسے سہا بیچہ تہ تہنہزوتھ اسے جادے گراہی ہنہ۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَٰهَ آخَاهُ هَارُونَ وَزِيْرًا ﴿۲۵﴾

بیہ اُس اسے موسیٰ ہس اکر (زانی ہنہ) کتاب ڈرہنہر بیہ اوس اسے تہ سہتو قوم سہد بوسے لوان تہ مددگار بناوتھ سوزست۔

فَقُلْنَا اذْهَبْ اِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا، فَدَمَرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴿۲۶﴾

تہ اسے اوس (بتن) دومت نہ توہی دونوں گزہو تہہ قومس کن پیموسا کی اپر اڈو ہتھ چھ۔ اڈ (سیدہ) تمو تسلیغ کوز) اسے گزی تم اپزان واد بلکل تباہ۔

وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَبُوا الرُّسُلَ ۖ اَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً ۗ

بیہ نوح سہ قوم چھاہ نوو اسے آیس سیدہ تمورسولن ہند انکار کوز، تہ اسے بناؤ کہ تم لوکن ہند

تہ قرآن کریم وار وار تازل کرنس منہ اُس یہ مصاحت نہ اکر گزہہ یہ سہل پاٹھو یاد تہ بیہ اُس سورس منہ بیان کرنہ اہنہر ہشگولی سیدل پور گزہہ تہ بیس سورس منہ بیہ تمیک ذکر کرنہ یہ سہتو مومن ہند اپمان مضبوط گزہہ۔

تہ آل چھ تہہ چیز خاطر تہ یون بیٹھ ڈکر بروٹھ سپدنت اسے یا نیٹیک خیال دامنس منہ اسے۔ اوکزی چھ اسے اکتب لفظک ترجمہ "زانی ہنہ کتاب" کوز مت۔

وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦﴾

خاطر اگہ نشان بیہ چھ اسے ظالمین ہندہ خاطر
دگہ دار عذاب تیار کر گرتھ تھومت۔

وَعَادُوا شَمُودًا وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا
بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿١٧﴾

بیہ عادی، تہ نمود تہ، تہ کبریٰ اول لاکھ تہ بیہ
تمن در بیان بیہ واریہ قوم تہ (ترجمہ اسے تباہ کر گرتھ)۔

وَكُلًّا صَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ زَوْجًا
تَبْرًا تَأْتِيهِمْ ﴿١٨﴾

بیہ کڑ اسے تمومنز پر تہ قومہ با تہ حقیقت بیان
تہ (بیلہ نہ فکر توڑ لکھ تہ) ساری کڑ اسے ہوک۔

وَلَقَدْ آتَوْنَا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمِطِرَتْ
مَطَرًا سَوَاءً أَقَلَّمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا
بَلْ كَانُوا لَا يَتْرُجُونَ نُشُورًا ﴿١٩﴾

تہ ایم (ہکو سٹا فر) چھ تہمہ بستی کنی گڈرے
موتی چھ پیٹھ اگہ تکلیف نہ وول رُود والنہ آنت اوس۔
کیا یکم چھنا تھ (یعنی بستی ہندین نشانن) کن
وچھان، حقیقت چھییہ نہ نہ ایم کسی نہ دو بار
وہ تہنچ وہ میدے تھوان۔

وَإِذَا رَأَوْكَ إِذَا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا
هُرُودًا أَهْدَىٰ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴿٢٠﴾

بیہ بیلہ تم تری وچھان چھی تہ تریہ چھی اگہ ٹھٹھ
مخولک چھیز زانان، تہ ونان چھو) کیا اللہ
(تعالے) ہن چھایہ شخص رسول بناوتھ نوزومت؟

إِنْ كَادَ لِيُضِلَّنَا عَنْ الْهَيْتِنَا لَوْلَا أَن
صَبَرْنَا عَلَيْهَا، وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَن أَضَلَّ
سَيِّئًا ﴿٢١﴾

اگر اسی پسین معبودن پیٹھ تاہم روز ہو نہ
تہ یہ (شخص) ہے بجاو اسے جنم نش گمراہ
کرنہ تہ بیلہ ایم عذاب وچھن تہ یمن سپد ضرور
حقیقت معلوم نہ کس اوس پسین طور طریقن
منز جاو گمراہ۔

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ
أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿٢٢﴾

(اے رسول!) کیا تریہ کورتھاس شخصہ سند حال
تہ معلوم مینو پیٹھ نفسانی ارمان مین معبود بناو کر؟
کیا تہ چھکھاس شخصس پیٹھ بھکلان؟ (نہ تہ
رٹہ ہن سہ زور گمراہی نشہ پیٹھ)۔

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ
يَعْقِلُونَ، إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ
هُمْ أَضَلُّ سَيِّئًا ﴿٢٣﴾

کیا تریہ چھیا باسلان نہ تمومنز چھ واریہ بوزان
یا تمن چھ فکر تھکلان؟ تم چھ فقط مینن ہند
پاٹھی بھک تھرایہ گمراہ کئی تموکھوتہ تہ بدتر۔

أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۚ

(اے قرآن کر مٹا طبع!) کیا تریہ چھے نام معلوم

۱۶ ابن عباس چھ فرماوان نہ ایم اسے قوم نمودک اگہ خصم۔ (بحر محیط)
۱۷ یعنی لوط علیہ السلام سہنر بستی۔

نہ چاقی پروردگار ان کتھہ پانٹھو چھ سایہ زہر موت؟
اگر ہر گاہ سہ بیٹھہ ہے تہ تھہ تھاوہے اُکس
جایہ ٹھہراوتھہ - پتہ بنو اسہ آفتاب تھہ پیٹھہ
اکھ گواہ۔

پتہ چھن اُس سہ وارہ وارہ پانس کُن لُتھہ ان ہوان۔
تہ سہ (خدا) چھہ میوہ لاتھہ تہنہہ خاطرہ لباس
بناو تہ بندہر بتاون آراکھ باعث تہ دوہ
(بنوون) پتھہ لک تہ ترقی ہند سب۔

بیہ چھہ سہ (خدا ہی) میوہ ہوا پسنہ رحمتہ
برونٹھہ تھہ شجرہ دہ خاطرہ سوز تہ اسہ چھہ او برہ
منزہ پاک (تہ صاف) آب وولت۔

بیہ زن اُس تہ دس مؤومت ملک زہرہ کرون
تہ پتھہ پانٹھو کروک تہہ (آہ) سترہ پتہز
پاؤ کرہ ہتہ چارواہی تہ واریاہ انسان سیر۔
بیہ تیلرو اسہ سہ (آب) متن (انسان)
منزہ زہرہ پانٹھو بیہ زن تہ نصیحت لبہ مگر لاکو
منزہ چھہ واریاہ لاکھ کھڑ وراہی کتھہ پیٹھہ
راضی سپدان۔

اگر ہر گاہ اُس بیٹھہ ہو تہ پرتھہ بستی منزہ
سوز ہون اکھ ہتیار کرن وول (نبی یا مامور)۔

اوپن سہ مان تہ کافرن ہنہ کتھہ تہ نیہہ (قرآن)
کہ ڈرلیہ کر متن سترہ بڑو جہاد۔

بیہ چھہ سہ (خدا) میوہ نہ سمندر کپنہ وک ہتہ چھہ

وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاحِلًا مِّنْ جَنَّةٍ ثُمَّ جَعَلْنَا
الشَّمْسَ عَلَيْهِمْ دَلِيلًا ﴿۲۵﴾

ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿۲۶﴾
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴿۲۷﴾

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿۲۸﴾

لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَا سَيِّ كَثِيرًا ﴿۲۹﴾

وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا بِآبَائِهِمْ أَكْثَرُ النَّاسِ أَكْثَرُ كُفْرًا ﴿۳۰﴾

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ تَذِيرًا ﴿۳۱﴾

فَلَا تُطِيعُ الْكُفْرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿۳۲﴾

وَهُوَ الَّذِي مَدَحَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا

۱۔ یعنی آفتاب کتھو چھہ پتہ لگان نہ ترہاے اسہ زچہ یا ترھوٹ۔
۲۔ یعنی شام سپنہ پتہ چھہ ترہاے ختم گرھان۔ پتھہ پانٹھو میلہ قوم منزلس کُن

پکان چھہ تہ تنہد اقتدار چ ترہاے تہ چھینہ ترھوٹ ہنہ ہوان۔

۳۔ سماء: آسمان تہ اُزبر (آفتاب)

۴۔ رؤفانی آب یعنی اسلام پمچ تعلیم۔

عَذَابٌ مُّزَجٌّ وَ هَذَا مِزْجٌ أُجَابٌ ۖ وَ جَعَلَ
بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَ حِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿۵۱﴾

یہو منزہ اکھ چھ تہ سبھا میوٹھ تہ بیاکھ چھ نوہ
دار (تہ) میوٹھ تہ تمو (اللہ تعالیٰ ہن) چھ ہمین
دونوی منز باگ اکھ ٹھور تہ تیتھ سامانہ بنومت نہ تم
چھ اکھ اُکس دُور تھاوان تہ رکنہ چھکھ نہ دوان۔

وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا
فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَ صِهْرًا وَ كَانَ رَبُّكَ
قَدِيرًا ﴿۵۲﴾

بہ چھ سے (خلایس) نیمو آہیہ نشہ انسان بنو
اد چھ تس کتہ ساعتہ نسب بناوان تہ کتہ ساعتہ
چھس صفہ بناوان تہ چون پروردگار چھ پرتھ
چیزس پیٹھ تاور۔

وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ
وَ لَا يَضُرُّهُمْ وَ كَانِ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ
ظَهِيرًا ﴿۵۳﴾

تہ بیم (کافر) چھ اللہ (تعالیٰ) ہس ورایی
تہنہز عبادت کران بیم نہ چھ تمین نفع دتھ ہیکان
تہ نہ چھ تمین تکلیف و اتناوتھ ہیکان تہ کافر
چھ ہمیشہ پسنس پروردگارس (یعنی تندن جاری
کرتہ آمتین سلسن) بخلاف آسان۔

وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَ نَذِيرًا ﴿۵۴﴾

اد اسہ چھکھ تہ صرف بشارت دہن وول تہ
پشیر کرن وول بنومت۔

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ
شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿۵۵﴾

تہ وول تمین تہ ہر چھسو تہ توہہ امیج (یعنی خلیہ
سند پیغام و اتناوتھ) کانہہ ضروری منگان۔ وہو
گوو ہرکھ کانہہ شغوس پستہ مرضی ستو یستہ
تہ پسنس پروردگارس کن گتھن واجبی دتھ
پرلو (سے آہہ میون بدلہ)۔

وَ تَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ
وَ سَيَحْمَدُهُ ۚ وَ كَفَىٰ بِهِ إِذْ تُؤَيَّبُ
عِبَادًا ۚ حَبِيرًا ﴿۵۶﴾

بہ کر تہ تس پیٹھ توکل یس زبہ چھ (تہ سارہ
چھ زبہ تھاوان) نہ ہیچہ چھہ مران بہ کر تہ
ہندن تعریفن ستو ستو تہ ستو تہ تہ
سہ چھ پسنہن بدن بندو گوہ ہو نشہ زبہ پانگو
خبردار۔

لہ فوات نفلک معنی تہ چھ میوٹھ تہ عذاب نفلک معنی تہ چھ میوٹھ او بکنی
چھاسہ ترجمہ "سبھا میوٹھ" کورمت۔

سہ یعنی لطفہ نشہ۔ سہ نسبت گوہا و ستر پیر بند اکھ نفر تہ صفا گو ہو وولہ منز
اکھ نفر۔ یعنی پرتھ انساں چھنہ نہ حیشتر آسان۔ کانہہ بند چھ نیچو آسان تہ کانہہ ہند زامتر۔ تیتھ
کو کانہہ ہنز چھنہ کور آسان تہ کانہہ ہنز نوش۔

الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا
بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى
الْعَرْشِ ۗ الرَّحْمَنُ فَسُبْحٰنَ بِهِ حَبِيرًا ﴿۱۰﴾

سے (خدا) سبھو آسمان تو زمین تو یہ کثیر تھا ، تم
درمیان چھ (دویم ساری چیز) ، چھن شین زمان
منز پاد کرے ہوتی پتہ سید سہ مطبوطی سان عرش
پہنہ تاہم (سہ) چھ رحمان - او تر پر ترہ تس
متعلق وار پٹھو کاتبہ خبر تھون وائس (انسائ)

وَلَا ذَا قِبَلٍ لَهُمْ اِسْجُدُوا لِلرَّحْمٰنِ
قَالُوا وَمَا الرَّحْمٰنُ أَنَا نَسْجُدُ لِمَا
تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ﴿۱۱﴾

بیر نیلہ ، تم و تنہ یوان چھ تر رحمان بروٹھ کنہ
وہو سجدس تو ونان چھ ، رحمان کیا چیز چھ !
کیا اسی کروا تس بروٹھ کنہ سجدہ لیند (یعنی
یس بروٹھ کنہ سجدہ کرنک) ، تر حکم وون چھکھ
تو یہ کتھ چھینہ تم نفرتس منز بیر ہن تو ہر ہر
کران -

تَبٰرَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا
وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ﴿۱۲﴾

برکتر واجبو چھینہ سو ہستی تیسو آسمانس منز تارکن
ہند ٹھہرنگہ مقام بناوکر ہوتی چھ ، تو تھہ منز چھن
پر بزلون ٹرونک تو نور دہن واجبو زون بناوکر ہوتی -

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً
لِّمَنۢ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَذًّا ۚ أَذًا شَكُورًا ﴿۱۳﴾

تو سے چھ بیو رات تو دوہ اکھ اکس پتہ سہ وار
بناوکر ہوتی چھ - تس شخصہ سہند (رقائید) خاطر
یس نصبت حاصل کرن کر فی سہترہ یا شکر کرن
ول بند ہن پٹہرہ -

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى
الْأَرْضِ هَوْنًا ۗ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ
قَالُوا سَلَامًا ﴿۱۴﴾

تو رحمان بندو (پڑیاری) بند چھ ہتم آسان
ہم زمینہ پہنہ عاجزی سان پکان چھ - تو سہیلہ
جابل تم سہتی کتھ کران چھ تو تم (چھنہ تم
سہتی ٹرون بلکہ) چھکھ ونان تر اسی چھ تہند
حاطر سلامتی ہند دعا کران -

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ لِرَبِّهِمْ سُجْدًا وَ
قِيَامًا ﴿۱۵﴾

بیر تم لکھ ہم پسنس پروردگار ہند خاطر (پند)
را تر سجدان منز تو وودتر روزتھ گذاران چھ -

۱۰ حَبِيرٌ س چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرویس اللہ تعالیٰ ہن سینہ صفات ہند علم
پہنہ و حیر سہتی دہیت چھ -

۱۱ سیرج ، پر بزلون ٹرونک میں آفتاب - آفتاب نور چھ ذاتی آسان تو زونہ ہند نور چھ آفتاب
نورک پر یو آسان -

تہ تم (رحمان ہندک بندہ) چھ دن - اسے سائے پروردگار! اسے بخش کر تہ جہنمک عذاب (اور تمیک عذاب چھ اگھ سبھا بڑ تباہی)۔
سہ (جہنم) چھ عارضی ٹھکانہ زنگی تہ کچھ تہ مستقل ٹھکانہ زنگی تہ (یکچھ)۔

تہ تم (اللہ تعالیٰ ہندک بندہ) چھ تھو آسان نہ سیدہ خرچ کران چھ تہ فضول خرچی چھنہ کران تہ نہ چھ کجوسی کران تہ تہند (خرچ) چھ بین دولتی حالتی در میان آسان۔

بیہ تم لوگھ چھ تھو آسان نہ اللہ (تعالیٰ) ہس وراہی چھنہ کانسہ بلیس معبودس آلو دول تہ نہ چھ (شرعی) حقہ وراہی تھس روس قتل کران تیسس اللہ (تعالیٰ) ہن حفاظت بخش مہن آسہ تہ نہ چھ تم زنا کران تہ یس کاشٹھا بہ تھہ کام کر سہ وچھ پینہ گوہ بہ جزا۔

قیامتہ دوہر پینہ تہنہ خاطر عذاب نرور کرنہ تہ سہ مگر تھہ منز ذلاتہ سان روزان۔

تس وراہی تینو توبہ کوز تہ ایمان اون تہ ایساہ مطابق کرن علمہ او پم لوگھ آسن تھو نہ اللہ (تعالیٰ) بدلو تہنہ بڑی نیکیں ستو۔ تہ اللہ (تعالیٰ) چھہ بوڈ بخش وول تہ مہربان۔

بیہ یس توبہ کر تہ تمہ مطابق کر عمل تہ تہ سہ شخص چھ بڑی پاٹھو اللہ (تعالیٰ) ہس کن نماں۔

بیہ تم لوگھ تہ (چھ اللہ تعالیٰ ہندک بندہ) بیہم اپنہ گواہیہ چھنہ روان تہ سیدہ فضول کتھو کوز گزان چھ تہ مری دیا دمی پاٹھو چھ (تمن منز شاہل سپدنہ وراہی) گزان۔

بیہ تم لوگھ تہ نہ تہندس پروردگار ہندک آہ نیلہ تمس

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٥٦﴾
إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٥٧﴾

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٥٨﴾

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَ لَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٥٩﴾

يُضَعَفَ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ يَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿٦٠﴾

۴۱- إِلَّا مَنْ تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٦١﴾

وَ مَنْ تَابَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴿٦٢﴾

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَ إِذَا مَسُّوا بِاللُّغُومِ مَرُّوا كِرَامًا ﴿٦٣﴾

وَالَّذِينَ إِذَا دُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ

يَخْرُجُوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ⑤

یاد پادشہین تہ تم سنو چھنہ زرن تہ انہن ہند
(ہجو) ورتا کران۔

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ
أَزْوَاجِنَا ذُرِّيَّتَنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ⑥

تہ تم لوکھ تہ (چھ رحمان ہند کریم پیہ ونان
روزان چھ، ز اے ساہ پروردگار! اسہ کر پینہن
آشنہن ہند کہہ تہ اولادہن ہند کہہ اچھن ہند
شہبچار عطا۔ تہ اسہ بناو متقین ہند امام۔

أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرَّةَ بِمَا صَبَرُوا وَ
يَلْقَوْنَ فِيهَا زَحِيَّةً وَسَلَامًا ⑦


کرم چھ تم لوکھ پین تہ بند کی پیہہ تاہم روزہ
کہ باعہہ (جنتس منز) ڈہہر ڈالہہ دہن تہ
تمن پین تہہ منز دعاہہ تہ سلامتی ہند کہ پیغام
پینکھ واتاؤہ۔

خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقْرَرًا وَ
مُقَامًا ⑧

تم گزہن تمن منز روزان۔ سہ (جنت) چہہ
عارضی روزان جای ہند رنگی تہ سبھا زہرہ مستهل
روزان جای رنگی تہ (چھ سبھا زہرہ)۔

(اے رسول!) ترون تمن ز میا بس پروردگار
تہند کیا پروا سے اسہ۔ ہرگاہ تہند طرفہ دعا
(تہ استغفار) سپدہہ۔ اد میلہہ تہہہ (الہی
پیغام) اپزووو تہ تمیک عذاب روزہ (وہہ
تہہ) لڑتہ گزہان۔

قُلْ مَا يَخْبَوُكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ ۚ
فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ⑨



سورة شعراء، یہ سورہ چھ مکی تہ بسم اللہ ہتہ چہ اتہ نہ تہہ تہ اٹھوہ آیہ بیہس گاہ کرؤہ۔

يَسْأَلُهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ⑩

(یہ چھس) اللہ (تعالیٰ) سنداؤ ہتہ (پران) بیس
حد رؤس کرم کرن وول (تہ) پھری پھری رحم کرن
وول چھہ۔

ظاہر (تہ) سمیع (تہ) مجید (خدا چھ یہ سورہ تاہل
کرن وول)۔

طسّم ⑪

لہ بیتہ سورہ شعراءس منز چھ وکت طہارت تہ دعاہہج قبولیت تہ بزرگی حاصل کرنہ
زرایع بیان کرنہ آہو۔

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ①

یہ آیہ چھ تمہرے کتاب ہند کی سورہ (پہلی مضمون) اور
کتابتہ بیان کران چھین۔

كَلَّا بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ②

شاید تیرا تراوہ بین پان ہلاکتس منز نہ تم کیا نہ چھین
مؤمن بنان۔

إِنْ نَشَأْ نُزِيلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً
فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ③

اگر اسی پیشہ تو آسمان والو تم پر پھل اگہ تبتہ
نشانہ نہ تبتہ برو تبتہ کنہ گرتھن تہنہ نہ گرتھن
تبتہ روز تبتہ۔

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ
مُحَدِّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ④

بہ تبتہ نیش چھین رحمان (خدا) ہند طرفہ زاہدہ کانہہ نوو
ذکر یوں نہ بہ تبتہ نیشہ لکھ لوب، یوں تبتہ ہوں۔

فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِه
يَسْتَهْزِءُونَ ⑤

اگر (تیرا) تمو چھ (خدا تعالیٰ ہند آیہ) اپراور
تو تم کس تبتہ منہ گرتھن ضرور تم پھل تبتہ
ہند تبتہ حقیقت تبتہ۔

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمَا أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ
قَبْلِ ذَٰلِكَ كَرِيمٍ ⑥

تم چھنا زمین کن وچھان نہ اسے چھ اگہ منہ
تبتہ تبتہ نفیس جوہ وہ پراور تبتہ۔

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ
مُؤْمِنِينَ ⑦

اگہ منہ چھ اگہ بود نشانہ مگر تمو منہ چھنہ واریاہ
اپان انان۔

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ⑧

تو یقیناً چھ چون پروردگار ہے غالب تبتہ پھر پھر
رحم کن وول۔

وَلَا ذُنُوبَ لَكَ مُوسَىٰ إِنَّ أَتَى الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ ⑨

بہ (کریا) بیلیہ چاڑی پروردگار موسیٰ ہس ناد
دراو (تو و نیاس) نہ تبتہ گرتھن ظالم تبتہ نیش۔

قَوْمٌ فِرْعَوْنٌ، أَلَّا يَتَّقُونَ ⑩

یہ فرعون ہندس تبتہ نیش (تبتہ تبتہ دن نہ) کیا
تم چھنا تقویٰ پانساوان؟

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ⑪

تمو دن (جوہس منہ) اسے میانہ پروردگار! تبتہ
چھس کھوتراں نہ تم گرتھن نہ میںہ اپراور نہ۔

وَبَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَاكِي
فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ ⑫

بہ میںہ سپنہ چھ نیشگی محسوس کران تو میںہ نہ
چھنہ (ہرتی پاطھی) پکان۔ اور کئی سوزن تبتہ ہارون
تبتہ (میںہ تبتہ)۔

وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ⑬

بہ (چھینہ یہ کتہ تبتہ) تبتہ (لوکن) ہند چھ میںہ

خلاف اہل الزام تہ ، تو بہ جیسے کموزن زتم بینہ
میںہ قبل کرن ۔

فرعونس ، ہرگز نہ ، لہذا (سون حکم بوزتھا) گڑھو
توہری وہ نوے ساڈی آئیہ ہتھ ، اسی روزو توہرہ (تو
تہندہ بن سوتو باجہن) سوتو بیہ روزو (تہندہ کر دغا)
بوزن ۔

لہذا فرعونس نقش گڑھو تہ تس و بوزر اسی چھ
رب العالمین (خدا) ہندہ سوزی سوتو ۔

(یہ حکم ہتھ) نہ اسہ سوتو سوزکھ بنی اسرائیل ۔

اتھ پیٹھ وون نس (فرعون ، اے موسیٰ) اسہ
چھکھ ناتر تہ وقتہ روچھت سیلہ زن تہ وونہ
شرے اوٹکھ تہ تریہ چھتھ پستہ وانسہ ہندہ
واریاہ وری (تہ) اسہ منز گڈراڈی ہتھ ۔

تہ تریہ چھتھ سہ کار کوٹت یس تہ کر تھ گوٹت
چھکھ تہ تہ چھکھ (ساتھن احسان ہند) دشکری کرن
دول ۔

(موسیٰ بن) وون نس سوٹام (میںیک تریہ اشارہ
کوڑتھ) کریا پیہ میںہ تہ وری میںہ میںہ تحقیقک
پے اوس نہ ۔

اوپکو تہ کس تہیں منز میںہ بہ توہر کھوڑ سو تہ
بہ تروٹس توہر نش اتھ پیٹھ کوڑ میںہ پنہر پروردگان
حکم (یعنی تہوٹک مقام) عطا تہ بہ بنوٹس رٹولو
منز (اکہ رسول) ۔

تہ یہ (شری لاری منز میںہ رچچ) نعمت میںیک
تہ میںہ پیٹھ احسان تھوان چھکھ کیا (یہ) میںیک
اتھ کتھ متقابل پیش کر تہ تہ تریہ چھتھ بنی
اسرائیل ہند سوڑے قوم غلام بناوتھ تھوٹت ؟
اتھ پیٹھ وون فرعون (شرمندہ سیدتھ تہ کتھ ڈالہ

قَالَ كَلَّا ۚ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ
مُشْتَمِعُونَ ﴿۱۶﴾

فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُوَا ۖ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ
الْعَالَمِينَ ﴿۱۷﴾

أَنْ أَرْسَلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿۱۸﴾
قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِيمَنَا وَلِيدًا ۖ وَكَيْفَ
فِيْنَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ ﴿۱۹﴾

وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ
الْكَافِرِينَ ﴿۲۰﴾

قَالَ فَعَلْنَاهُمْ آدَاءً ۖ أَأَنْتَ مِنَ الصَّالِّينَ ﴿۲۱﴾

فَفَرَزْتُ مِنْكُمْ لَكُمَا حِفْظًا فَوَهَبَ لِي
رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۲۲﴾

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ
بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿۲۳﴾

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۲۴﴾

مولا، یہ رب العالمین کسُ چھ ؟ (تیسری بند طریقہ
 یں تو ہی بیان کران چھو) ؟
 (موسیٰ ہن) دوپس، آسمان تہ زمین تہ یہ کینہا
 بین دونوں منز باگ چھ، تمہن ہند پروردگار (چھ)
 رب العالمین)۔ اگر توہہ منز پڑھ کر پڑج خواہش
 چھتے۔

اتھ پیٹھ وون فرعون پاس انڈر پھو کین لوکن
 کیا تو ہی چھونا، بوزان ؟ (نر موسیٰ کیا دچھ وون)۔
 جواب دیشس (موسیٰ ہن پسنہ گوڈو بکہ بیا ریخ
 تشریح کران)۔ سٹے یس تہند تہ پروردگار
 چھ تہ تہند بن جمن اجلان ہند تہ اوس پروردگار۔
 (اتھ پیٹھ) دوپن (یعنی فرعون اے لوکو!) تہند
 یہ رطل یس توہہ کن سوزنہ آمت چھ، چھ فرور
 فائر۔

(موسیٰ ہن زون نر سہ چھ کتھ ڈالو بیٹھان تہ)
 دوپن سٹے چھ (رب العالمین) یس مشرک تہ
 پروردگار چھ تہ مغربک تہ (پروردگار چھ) بیہ
 یہ کینہا تمہن درمیان چھ (تہند تہ چھ پروردگار)
 شرط چھ یہ نر تو ہی نیو عقلہ کام۔
 فرعون وون (اتھ پیٹھ، طیشس منز بیٹھ) اگر
 میہ وراہی تریہ کانہہ دوپم مینود بنووتھ تہ
 کرتھہ تہ ہاد۔

تمو (یعنی موسیٰ ہن) ووتس۔ اتھ صولس منز بیٹیا
 نر بر اہر تریہ نش (حقیقت حاس) واش کڈن
 وول کانہہ چہر تہ ؟ (یعنی معجز)۔
 فرعون ووتس (اتھ پیٹھ) ہرگاہ تہ پزور چھکھ تہ
 ان تہ !۔

اد تمو (یعنی موسیٰ ہن) لوسے پنن عامہ زینہ
 پیٹھ تہ اچانک (وچھ فرعون ہندو لوکو نر) سٹے
 چھ واپکار درنیٹھ۔ یوان اکھ اچھ در۔

قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
 إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿۱۵﴾

قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ﴿۱۶﴾

قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿۱۷﴾

قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ
 لَمَجْنُونٌ ﴿۱۸﴾

قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا
 بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَحْقُلُونَ ﴿۱۹﴾

قَالَ لَيْسَ اتَّخَذَتِ الْهَاطِرِي لِأَجْعَلَنَّكَ
 مِنَ الْمَشْجُونِينَ ﴿۲۰﴾

قَالَ أَوْ لَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ ﴿۲۱﴾

قَالَ فَأْتِ بِمِثْلِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ
 الصّٰدِقِينَ ﴿۲۲﴾

قَالَ قِيْلَ لِمَنْ أَهْلِي تُحِبُّكَ مُبِينٌ ﴿۲۳﴾

وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلتُّظْرَيْنِ ﴿٢٤﴾
 تہ تم کوڈ پین اتھ (پسنہ کترہ منتر) تہ
 ساروہے وچین والہو وچھ ہنگتہ منگہ نہ سہ
 پچھ پریون (سشچن ہنو)۔

قَالَ لِلْمَلَآئِكَةِ إِنِّي هَذَا لَسِحْرٌ عَلَيْكُمْ ﴿٢٥﴾
 اتھ پیٹھ وون فرعون پینٹھن اندر کچھو کچھو کن سردان
 بہ تہ پچھ کتھام بوڈ زانی کار جوڈگر۔

يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿٢٦﴾
 پچھ بیٹھان نہ پسنہ جاڈکہ ڈریبہ ترہو و
 توہہ تہنہر منگہ منتر کلا تھ، او کوز وڈ تو توہی
 کیا مشورہ چھو ووان؟

قَالُوا آتِجْهُ وَ أَخَاهُ وَ ابْنَتَهُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿٢٧﴾
 تہو وون، تھس تہ تہنہس بائیس تزاو اکینٹرن
 دوہن) ڈینجر تہ مختلف شہرن کن سوزناو کینہ
 نفریم (قابل انسان) سہ نہر تھہ ہیکن۔

يَأْتُوكَ بِكُلِّ سِحْرٍ عَلَيْهِمْ ﴿٢٨﴾
 ہم پر تھہ ہر س جوڈگرس تہ ہر س زانی کارس تہ
 ہن ان۔

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّخْلُومٍ ﴿٢٩﴾
 اتھ پیٹھ آپہ ساری جوڈگر اکیس زانی ہتس دوہس
 پیٹھ سونہر لوہہ

وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ ﴿٣٠﴾
 تہ لوکن او ونسہ کیا توہی چھوا ساری (اکیس
 مقصدس پیٹھ) کیو ہر سپدن خاطر تیار کینہ نہ؟
 پتھ نہ ہر گاہ جوڈگر غالب سپدن تہ اسی کپو تہنہس
 ونس پیٹھ۔

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿٣١﴾
 امہ پیٹھ جوڈگر آہی تہ تہو وون فرعون نہ ہر گاہ
 اسی غالب سپدن تہ کیا اسہ میلیا کا تہہ انعام تہ؟

فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّمَا لَنَا لَآجِرٌ إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿٣٢﴾
 (فرعون) ڈوپکھ او! بلکہ تھہ صولتس منتر ہنو
 توہی (دربارس منز میانہن) خاص پینٹھن منتر جاہ۔

قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقَوْلُ أَمَّا أَنْتُمْ تُلْقُونَ ﴿٣٣﴾
 اتھ پیٹھ وون موسیٰ ہن تھن یس تہسپر توہہ
 کرن چھو، سہ کرو۔

فَالْقَوْمُ ابْجَالَهُمْ وَعَصَبَتَهُمْ وَقَالُوا بَعْدَ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ﴿٣٤﴾
 اتھ پیٹھ تھاو تہو پسنہ رز تہ پنہہ نور اکٹھ
 ماڈالس منتر) تہ وونکھ فرعونہ ہنہ اقبالک قسم
 اسی سپدو ضرور غالب۔

فَالَفَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ
 امہ دیت موسیٰ ہن تہ پین عاصہ ڈار تھہ تہ وچھان

مَا يَأْفِكُونَ ﴿٦٦﴾

وچھان لوگ سہ تہند بن اپڑن ستیاناس کر تہ۔

قَالِقِي السَّحْرَةَ سَاجِدِينَ ﴿٦٧﴾

اد آیہ جو دگر (خدا لیس بروٹھ کینہ) سجدس والہ۔

قَالُوا أَمْثَلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٨﴾

(تہ) تمہو وون، اسی چہ رب العالمینس پیہٹھ ایمان انان۔

رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿٦٩﴾

یس موسیٰ تہ ہارون سند پروردگار چھ۔

قَالَ امْنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْنِ لَكُمْ

اتھ پیہٹھ وون (ترکھ گرتھتھ) فرعون، کیا

إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السَّحْرَ

میاد حکم دہن بروٹھ اولوا توہہ ایمان؟ یہ

فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَهُ لَا قَطْعَانَ أَيْدِيكُمْ

(دستوں) چھ بے شک تہند کتام سردار تہم

وَأَزْجَلُكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا وَصَلْبَتَكُمْ

توڑی جود ہتھتاوڑی ہتی چھتو ہننا جلدی

أَجْمَعِينَ ﴿٧٠﴾

کرو توہی (پن انجام) معلوم یہ ترہتھ

تہند ک اتھ تر کھور (پستہ) خلاف ورزی

ہند باعثہ ترٹھتہ تہ توہی ساری کھالو واری کولیس۔

قَالُوا الْأَضْيَارَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿٧١﴾

تمہو وون (اتھ مشنر) چھند کاشہ حرج پتو لاکن

چہ اسی پنس پروردگار کتنے چہ تہ گرتھن اول۔

إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَاتِنَا

اسی چہ وو مید کران نرسون پروردگار کر سنی

أَنَّ أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٢﴾

گو ناہ امر باعثہ معاف نہ اسی بنے یہ سارو

کھوتہ بروٹھ ایمان ان والہ اندر۔

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي

بہ کر اسہ موسیٰ ہس کن وھی نہ ترہتھ میا فی

إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ ﴿٧٣﴾

بند رتس رات کڈتھ، توہہ بیہ بروٹھ باچتھ) پتہ لارہ۔

فَأَرْسَلْ فِرْعَوْنَ فِي الْمَدَائِنِ خَشْرِينَ ﴿٧٤﴾

اتھ پٹھ سوز تاوڑی فرعون شہن کن جمع کرن اولو فر۔

إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿٧٥﴾

(یہ دنان) نہ یم لوکھ (یعنی بنی اسرائیل) تہ

چھ اکھ لوکھ ہش جماعت۔

وَأَتَاهُمُ لَنَا لَغَاطُونَ ﴿٧٦﴾

تہ کر تھ تہ چہ ہم اسہ ترکھ کھالان۔

وَأَنَّا لَجَمِيعٌ خَائِرُونَ ﴿٧٧﴾

تہ اسی چہ اکھ (بڑ) جماعت۔ ہم سبھا حبیبہ پکوتی

چہ (او کو پڑ اسہ تہند مقابلہ کرن)۔

فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٧٨﴾

اد (ای بہان) ترہو اسی تم (یعنی فرعون تہ تمہ

سوز جماعت) کر تھ باغو تہ ناگو،

وَ كُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿۱۱﴾

تہ خزانوں تہ عزت والہ ملکہ منبر۔

كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿۱۲﴾

یختہ سپید۔ تہ اسہ کرکرتن (چیزن) ہند وارث
بنی اسرائیل۔

فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ ﴿۱۳﴾

پتہ دراپہ صبح کہ وقتہ ہم (یعنے فرعون تہ تھو بند
تو کہ لاکھ بنی اسرائیل رتنہ منکھ) رتنہ پتے۔

فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعِينَ قَالَ أَعْضَبُ

ادو نیلہ دونوں دربن اکھ اکس پیٹہ نظر پینے تہ
موسی بندو ساتھیو وون، اُس تہ آیہ رتنہ۔

مُوسَى إِنَّا لَمُدْرِكُونَ ﴿۱۴﴾

قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿۱۵﴾

(موسی بن) دوپ نکھ بڑھ کتھ سپد تہ ہرگز، میون
پروردگار چھ میہ سستی، تہ سہ ہاومیہ کاسیالی ہنر و تھ۔

فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ

اتی کر اسہ موسی ہس کن وئی نہ پین عاصہ لاین سند
پیٹہ۔ پتھ پیٹہ (سندر) پھوٹ تہ تمیک پرچہ
مگر ہوتن اکھ بڑ بالہ ٹھنگو پٹھ بوزن پین۔

بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، فَاَنْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ

تہ تہ ورن اون اسہ دویم دور (یعنے فرعون سند
دور) نزدیک۔

ذَوِّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿۱۶﴾

وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ﴿۱۷﴾

تہ موسی تہ تھو ہندن ستر باجن دیت اسہ نجات :
تہ دویم دور پھاٹو نوو اسہ آس۔

ثُمَّ آخَرْنَا الْآخَرِينَ ﴿۱۸﴾

اتھ (پدش) منز چھ اکھ بوڈ ہنشا تہ مگر بھو (مکرو)
منز چھن واریاہ مانان۔

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً، وَمَا كَانَ لَكُمْ هُمْ

تہ چون پروردگار چھ یقینا غالب (تہ) پھیر کر پھیر
رہم کرن وول۔

مُؤْمِنِينَ ﴿۱۹﴾

وَلَا رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۲۰﴾

بہی بوزناو کہ یکم ابراہیمہ سند واقعہ پڑتھ۔

وَ أَتَىٰ عَلَيْهِمْ نَبَأٌ آخَرٌ ﴿۲۱﴾

ییلہ تھو پنشن ہا بس تہ پنشن توس وون، توہر
کہ چیز بیج عبادت چھو کران؟

إِذْ قَالَ لِأَسِيْبِهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿۲۲﴾

تھو وونس اُس چھ پوتھن ہنر پورا کران تہ رتن
برونٹھ کہہ چھ بہتہ روزان۔

قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَنْظِلُّ لَهَا عِذَابِثِينَ ﴿۲۳﴾

اتھ پیٹہ وونکھ ابراہیم ادو کیا نیلہ توہر رتن
آلو چھو کران تہ ہم چھا تھند (یہ) آلو بوزان؟
یا ہم چھو توہہ کا تھہ نفع یا ضرر واتناوان؟

قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَ كُفْرًا إِذْ تَدْعُونَ ﴿۲۴﴾

أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يُضُرُّونَ ﴿۲۵﴾

تمو وزن ، تڑھ کہتے پھرتے مگر اسی چہرے پستہن
بہن مابین پی کران وچھان آہتی۔

تمو وونکھ کیا توہہ چھو اپنے زہرہنتر عبادت توہر
کران چھوہ
توہر تہ تہندکر براونہمہر جد اجلا تہ۔

رب العالمینس وراہی چہرہ تم ساری میاں تہا ہی
کاپھان۔

بیو (رب العالمین) بہ پاؤ کورمت چھس تہ سہ
وہیہ میہ (امبرکس نتجیس منتر) ہاریت تہ۔

تہ بیو سہ صفت یہ چھہ نہ سے چھہ مسیہ
کھیوان تہ سے چھہ میہ چاوان تہ۔

بیہ میلہ بہ بیمار گرھان چھس تہ سے چھہ میہ
بہراوان۔

بیہ میہ مار تہ توہ پتہ زہد تہ کر۔

بیہ سے چھہ تہتہ نہ بہ چھس وہ مید کران نہ سہ
کر میاں گوناہ ہزیکہ سزیکہ وقتہ معاف۔

اسے میاں پروردگار! میہ کراہل تعلیم عطا نہنیک
منتر کرم شابل۔

تہ پتہ بیہ والہن لاکن منتر کر میہ اکھ ہمیشہ قائم
روزن وول تعریف عطا۔

بیہ بناو میہ نعمت والہ جنتہ کہو وارثو منتر۔

بیہ میاںس ہاس کر معاف سہ اوس وقتہ راوان
والہو منتر۔

بیہ بیہر دوہہر لوکھ زہد کر تہ ملہنہ پن میہ کر
نہ نہ تمہر دوہہر رسوا۔

بیہر دوہہر نہ دیہ کاشہہ مال نفع تہ نہ نیچوکر۔
اماپوز (سے لہر نفع) بیس اللہ (تعالے) اس
نشت اکھ اور تہ دور دل ہوتہ ہسپہ۔

قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ
يَفْعَلُونَ ﴿۱۹﴾

قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿۲۰﴾

أَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ الْأَقْدُمُونَ ﴿۲۱﴾

فَأْتَهُمْ عَذَابٌ لِّيَ إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۲۲﴾

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿۲۳﴾

وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿۲۴﴾

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿۲۵﴾

وَالَّذِي يُمَيِّتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿۲۶﴾

وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ
الدِّينِ ﴿۲۷﴾

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقِيقِي
بِالضَّالِّينَ ﴿۲۸﴾

وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿۲۹﴾

وَاجْعَلْنِي مِنْ ذُرِّيَةِ الْجَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿۳۰﴾

وَاعْفِرْ لِإِيَّتِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ
الضَّالِّينَ ﴿۳۱﴾

وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿۳۲﴾

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿۳۳﴾

إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿۳۴﴾

- وَأَذَلَّتِ الْجَنَّةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۱۰﴾
 بِسْمِ يَسْمِيرٍ وَوَهَبَ جَنَّتَ مُتَّقِينَ نَزْوِيكَ اِسْمِي بِسْمِ -
 وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَوِيْنَ ﴿۱۱﴾
 تُوْ كَمْرَامِنِ هِنْدِ فَطَلَبِيْنَ جِهَنَّمَ بِبَيْتِهِ بِرُوْتَهَنُوْدَتَلْمَن -
 وَقِيلَ لَهُمْ آيِنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿۱۲﴾
 تُو وَنَمِيْ بِبَيْتِكُمْ زَكَاةً بِجَهَنَّمَ تَمَّ مِيَهَنَشَرُ تُوْ هِيْ عِبَادَتِ
 كِرَانِ اُسُوْ ۵
 مِنْ دُونِ اللّٰهِ هَلْ يَنْصُرُوْكُمْ اَوْ
 يَنْتَصِرُوْنَ ﴿۱۳﴾
 اللّٰهُ تَعَالَى اِسْمُ وَاِلٰهِيْ كَيْفَا تَمَّ بِبَيْتِكُمْ نُوَا تُوْ هِيْ اَتْمُوْ رُوْطِ
 كَرْتَمَّ ۵ يَا تَهْتَنَدُ يَدِيْ بِبَيْتِكُمْ نَا بِهْتَمَّ ۵
 فَكُتِبُوا فِيْهَا هُمْ وَالْكَافِرُونَ ﴿۱۴﴾
 اِد تَمَّ وَتَمِّيْنَ تَمَّ (اِيْزِيْ مِيْوُوْدُ تُوْ كَاْفِرُ) تُو
 مَحْمُوْدَةُ تَمَّ (جِهَنَّمَ) مَشْرُوْكَوْمُوْ دَارِيْتَهْ دَرِيْ -
 وَجَنُوْا اِبْلِيسَ اَجْمَعُونَ ﴿۱۵﴾
 تُو اِبْلِيسَ هِنْدِيْ سُرْسَالِمِ لَشَكْرَتِيْ -
 قَالُوا وَهُمْ فِيْهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿۱۶﴾
 يَسِيْلِيْ تَمَّ تَمَّ (جِهَنَّمَ) مَشْرُوْ پَانِيْ وَاَذِيْ تُوْ رُوْ اَسْمِ
 تُو تَمَّ وَن -
 تَالِيُوْ اِنْ كُنَّا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۱۷﴾
 خَلِيْدِيْ هِنْدِيْ دَرِيْ اُسُوْ اُسُوْ اَمَّا كَرْمَا رِيْ مَشْرُوْ پَانِيْ -
 اِذْ نُسُوْبِكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۸﴾
 يَسِيْلِيْ اُسُوْ تُوْ هِيْ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ خَالِيْسِ بَرَابَرِ دَرَجِيْ
 دِرُوْ اُسُوْ و -
 وَمَا اَصَلْنَا اِلَّا الْمَجْرُمُونَ ﴿۱۹﴾
 بِسْمِ اُسُوْ تُوْ اُسُوْ جَرِيْمِ دَارِيْ وِيْ وَتُوْ دَاوِيْ مَشْرُو -
 فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ ﴿۲۰﴾
 اُوْ كِيْزِيْ بِجَهَنَّمَ (اَز) سَفَارِشِ كِرَانِ وَاِلُوْ اِنْدِيْ كَانِهِيْ
 سَاذِيْ سَفَارِشِ كِرَانِ -
 وَلَا صٰدِقِيْ حٰمِيْمٍ ﴿۲۱﴾
 تُو نَهْ چُوْ سُوْنِ كَانِهِيْ لُوْلِيْ وُوْلِ (بَارَاه) دُوْتَاَه -
 فَلَوْ اَنْ لَنَا كَرَّةٌ فَنَكُوْنَ مِنَ
 الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۲۲﴾
 اِد وُوْ ذِيْ هِرْگَاهِ اِسْمِ وَاِسْمِ كَرْتَمَنَّكَ طَاقَتِ اَسْمِ هِيْ
 تُو اُسُوْ كَرْتَمَّ هُوْ ضَرُوْرُ (وَاِسْمِ كَرْتَمَنَّكَ) مُؤْمِنِيْنَ مَشْرُو
 (فَسَابِل) -
 اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَايَةً ۗ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ
 مُؤْمِنِيْنَ ﴿۲۳﴾
 اَتْمَ (وَاقُوْدِ اِسْمِ) مَشْرُوْ چُوْ اَكْهَ سَبِيْطَا بُوُوْ نَشَانِيْ
 مَكْرِيْوِيْ (كَاْفِرُو) مَشْرُوْ چُوْ هِيْ وَارِيْ اِهْلِيْنَ اِنَان -
 وَ اِنْ رَبِّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿۲۴﴾
 تُو چُوْنِ بِرُوْرُوْكَارِ چُوْ بِيْ شَكِ قَاْلِبِ (تُو) چُوْ پِيْ
 چُوْ پِيْ رَحْمِ كِرَانِ وُوْل -
 كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحٍ بِالْمُرْسَلِيْنَ ﴿۲۵﴾
 نُوْحِ هِنْدِيْ تُوْمِنِ كُوْرِيْ (پِيْ نَبِيْنِ) رَسُوْلِيْنَ هُنْدِيْ لَكَارِ
 اِذْ قَالَ لَهُمْ اٰخُوْهُمْ نُوْحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿۲۶﴾
 يَسِيْلِيْ زِيْنِ مَشْرُوْ تَهْتَنَدِيْ بَايِ نُوْحِيْنَ وَوْنِ كَيْفَا تُوْ هِيْ

- چھوٹا تقویٰ کران؟
 بر چھس توہمہ کمن اھ امانت دار پے غیر سپد تھ امت۔
 لہذا اللہ (تعالیٰ) سند تقویٰ پر اوو تہ میاڈ فرما براری
 کترو۔
 تہ بر چھس تہ اتھ (ختمتس) بدلہ کاشنہ اجر
 منگان۔ میون اجر تہ چھہ رب العالمین (خدا ایس)
 مرہ۔
 لہذا اللہ (تعالیٰ) سند تقویٰ پر اوو، تہ میاڈ
 فرما براری کترو۔
 دوکچھ (بجو کافرو) زکیا اکر انوا اثریہ پیٹھ ایمان؟
 میلہ زن مولیٰ رذیل لاکھ چاڈی پارو کار بنے
 پتو چھ۔
 تمز وون میہ کتہ کتہ کتہ چھہ علم امت نہ تہ بندہ
 اندرہ اعمال کتھو چھہ؟
 بتن حساب، میون پتھ میانس پروردگارس زہمہ۔
 اگر توہمہ فکر ترؤ۔
 بیہ یس شخص مؤمن سپد تھ میہ نش یوان چھہ،
 میاڈ شام پتہ نہ بر دہم نش دکہ۔
 بر تہ چھس صرف اھ نہ واپہ ہشتار کرن وول۔
 (الناس)۔
 (تہو کافرو) وون ہس، اے نوح! اگر تہ باز
 اھ نہ تہ تہ سپدھ کتہ کتہ کتہ آمتہن مغز
 شابل (یعنی اسی کرو تھ تہ سگسار)۔
 اتھ پتھ دوپ تمز (نوحن)۔ اے میاڈ پروردگار!
 بر چھس پتہ قومن اپز وومت۔
 لہذا تہ کر بتن تہ میہ در میان قطعی قاصلہ تہ
 میہ تہ میان سستی باجر مؤمن د (د شتمہ بندہ)
 شہر نشہ نجات۔
 ادر اسہ بچو سہ تہ تم تہ پتو سستی ایمان
 او نمت اوس، اکر پور برتہ تاو ہندہ ذریعہ
- إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿۱۹﴾
 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرِي ﴿۲۰﴾
 وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ
 إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۲۱﴾
 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرِي ﴿۲۲﴾
 قَالُوا أَأُتُوا مِنْ لَدُنْكَ وَتَنبَعُكَ الْآرْزَاقُ
 أَكْثَرُ مِنْ نِعْمَةِ رَبِّكَ أَفْهَمُ ﴿۲۳﴾
 قَالُوا وَمَا عَلَيْنَا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۲۴﴾
 إِنْ حَسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَو تَشْعُرُونَ ﴿۲۵﴾
 وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۶﴾
 إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿۲۷﴾
 قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهَ بِنَوْحٍ لَتَكُونَنَّ مِنَ
 الْمَرْجُومِينَ ﴿۲۸﴾
 قَالَ رَبِّ إِنِّي قَدِ ابْتِغَيْتُ
 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجَاتٍ وَ
 مَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۹﴾
 فَاتَّقِ اللَّهَ وَ مَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِكِ
 الْمَشْحُونِ ﴿۳۰﴾

- تُثَمَّرًا غَرَفْنَا بَعْدَ الْبَاقِينَ ﴿۱۱۱﴾
 امیر پتہ پریم لڑکھ پتہ کن رُوڈی تم پھاڑ تاوی
 اسیر آئیں۔
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ
 مُؤْمِنِينَ ﴿۱۱۲﴾
 اتھ منزاوس اکھ سپھاہ بوڈ نشاہ نمکر رتمو
 (کافرو) منزا سونہ واریاہ ایمان اننس پیٹھ
 تیار۔
 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۱۱۳﴾
 تہ چون پروردگارے چھہ غالب (تہ) پھیر کھری
 رحم کرن وول۔
 كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهِمْ إِذِ انبَأَتْ
 بِأَنْبَاءِ نَارِ اللَّهِ فَغَوَّاهَا
 إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿۱۱۴﴾
 عاد (قومن) تہ کوزر (یتھہ پاٹھو) رسولن ہند
 انکار۔
 رَبِّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿۱۱۵﴾
 بیلیہ تمہن تہندری بای ہودن وون کیا توہی چھونہ
 تقویٰ کران!
 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا
 وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ
 إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۱۶﴾
 بہ چھس توہد کن اکھ امانت دار پینمبر سپدہ امت۔
 اوبکو اللہ (تعالیٰ) سد تقویٰ پراوو تہ میانی
 فرمانبرداری کرو۔
 أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ﴿۱۱۷﴾
 تہ بہ چھس نہ اتھ (نہد متس) پیٹھ توہر کاتہہ
 اجرت منگان۔ میون بدلہ چھہ صرف رب
 العالمین (خدا ایس) مسہ (بنیو بہ سوزمت چھس)۔
 کیا توہی چھوا پرچھہ تھنرس بنیٹہ بیہ مقصد
 کامہ کرتھہ (یادگار) عمارت بناوان۔
 وَتَتَّخِذُونَ مَصَارِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿۱۱۸﴾
 بیہ چھو توہی بچہ بچہ مندور بناوان۔ ییتھہ
 زن توہی ہمیشہہ تاہم روزو۔
 وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿۱۱۹﴾
 بیہ بیلیہ توہی (کاتہہ) رٹان چھوون تہ توہی
 چھوون ظالم ہندری پاٹھو رٹان۔
 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا
 وَاتَّقُوا الَّذِينَ آمَنُوا بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۲۰﴾
 لہذا اللہ (تعالیٰ) سد تقویٰ پراوو تہ میانی
 فرمانبرداری کرو۔
 آمَدَكُمْ بِأَنْعَاهِ وَبَيْنَينَ ﴿۱۲۱﴾
 بیہ چھسو بہ زمان نہ تسد تقویٰ پراوو، بنیو
 توہہ تمو چھزو سستی مدد کوزو ہم توہی زلزلان
 چھووکہ۔
 تہ چھو توہہ مدد کوزمت۔ چارواہی تہ گبر،

- وَجَنَّتْ ذُعُيُونٌ ﴿۱۶﴾
 تہ باغ تہ تاگ دتھ۔
 رَبِّ اِخْفَافٍ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۱۷﴾
 بہ چھس توہہ پیٹھ اکر بڑ دہک عذاب تا نزل
 سپدنہ نش کھوڑان۔
 قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا اَوَّعْتَ اَمْ لَمْ تَكُنْ
 تمو وون، چھن و عظا کرن یا نہ کرن چھہ سانہ خاطر
 مِنَ الْوَاعِظِينَ ﴿۱۸﴾
 ہیوی۔
 اِنَّ هٰذَا اِلَّا خُلُقٌ اَلَدَلِيْنَ ﴿۱۹﴾
 (تہ کیاز یہ کہتہ اسی کران چہہ) تم تہ چھینہ
 پرانہ زمانہ کو لاکو ہند پیٹھ چلوہہ۔
 وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِيْنَ ﴿۲۰﴾
 تہ اسہ پیٹھ پیہہ تہ (نہ نہیں) عذاب۔
 فَكَذَّبُوهُ فَاَهْلَكْنَاهُمْ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ
 اٰيَةً لِّمَن كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۲۱﴾
 اکر کار، تمو (کافرو) اپزو سہ تہ اسہ
 گری تم ہلک، اتھ واقس منز چھہ اکھ سپھا
 بوڈ نشانہ مگر تمو منز واریاہ بنے یہ تہ مؤمنو
 مَنْزِرٌ۔
 وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿۲۲﴾
 تہ چھن پروردگار چھہ یقینا غالب (تہ) پھری
 پھری رحم کرن وول۔
 كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۲۳﴾
 شمود (سندھو من) تہ اپزا یاویہ رسول۔
 اِذْ قَالَ لَهُمْ اٰخُوهُمْ ضَلِحْ اِلَّا تَتَّقُوْنَ ﴿۲۴﴾
 نیلہ تمہن تہندہ بآلی صالحن و نیا و نہ کیا توہی
 چھونا تقوی کران؟
 رَبِّ اِنِّ لَكُمْ رَسُوْلٌ اٰمِيْنٌ ﴿۲۵﴾
 بہ چھس توہہ کن اکھ امانت دار پیغمبر ہنڈھ سوزا
 آمت۔
 فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْنَ ﴿۲۶﴾
 لہذا اللہ (تعالیٰ) سہ تقوی پرآوو تہ میاڈی
 فرمانبرداری کرو۔
 وَمَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۗ اِنِ
 اَجْرِيْ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۲۷﴾
 تہ بہ چھس نہ توہہ اتھ کامہ پیٹھ کہتی اجرت
 منگان۔ میون اجرت تہ چھہ رب العالمین (خدا ایس)
 مسہ (پیو بہ سنوزمت چھس)۔
 اٰثَرُ كُوْنٍ فِيْ مَا هُمْنَا اٰمِيْنٌ ﴿۲۸﴾
 کیا (توہی چھوا خیل کران نہ) یہ کیشترھا بیتھ
 (دنیا ہس) منز چھہ۔ توہی ہیوا اتھو منز
 امنہ سان تراونہ؟
 فِيْ جَنَّتٍ ذُعُيُونٌ ﴿۲۹﴾
 یعنی باعن تہ تاگن منز۔
 وَرُؤُوسٌ تَخِلُّوْنَ اَعْيُنَهُمْ ﴿۳۰﴾
 تہ گرایہ ماروہن فصلن منز تہ کھنر سکھین

دَ تَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا
فَرِهِينَ ﴿۱۳۱﴾

منتر بیندے مہو باہر سیتو موسیٰ چہوہ ورتی آن۔
تہ توہی لوکھ چہوہ بل نہ کھنڈ کھنڈ (پنشن بجرس پیٹھ)
ناز کڑی کڑی گھر بناوان۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۞ ﴿۱۳۲﴾

لہذا اللہ (تعالیٰ) سدا تقویٰ پراوو تہ میاڈی
فرمانبر واری کرو۔

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۳۳﴾

تہ سہر نمبر نیرن والین لاکن ہنہر کتھ مہ ماہو۔

الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا
يُضِلُّونَ ﴿۱۳۴﴾

تم لوکھ یم ملکس منتر فساد کران چھ تہ اصلاح
چھنہ کران۔

قَالُوا إِنَّمَا آتَيْتُمُ الْمَسْحُورِينَ ﴿۱۳۵﴾

اتھ پیٹھ وون تمو (کافرو) تریہ پتھ صرف
رزق تلہ ورتی یوان۔

مَا آتَيْتُمْ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا بِحَقِّ قَاتِلِ يَأْتِيهِ
إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۱۳۶﴾

تہ چکھ اسی ہیو اکھ انسان۔ لہذا ہر گاہ تہ پڑیو
چکھ تہ کاتھہ نشانہ کڈ تون۔

قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شَرْبٌ وَ لَكُمْ
شَرْبٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ ﴿۱۳۷﴾

تھو وون یہ چہوہ اکھ وونٹو، اگر دہ ہر چھبیہ سیتو
سند خاطر (یاہر بلہ پیٹھ) تریش چہنچ واری
گھنڈتھ تہ اگر گھنڈتھ دہہر چھ تہنہر خاطر
یاہر بلہ پیٹھ آب نین مقرر۔

وَلَا تَمْسُوها بِسَوْءٍ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ
يَوْمَ عَظِيمٍ ﴿۱۳۸﴾

تہ توہی واتنا وک زبو تہ سیتیس (دوونٹنہ) کاتھہ
آزار نتہ رڈ و توہیہ اگر بڑ وکھ عذاب پتھ۔

فَعَقَرُوها فَاصْبَحُوا نَدِيمِينَ ﴿۱۳۹﴾

(یہ بوڑھ تہ) تریہو تھو تھس (دوونٹنہ) ہکھ نادر
تہ پتھ تہ (پتہ) گے پشیمان۔

فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۴۰﴾

اڈو رڈ تھ (وعدہ ورتی آہو) عذاب، اتھ منتر
اوس یقینا اکھ بوڑ باہر نشانہ۔ اما پوز تھو منتر
سپرک تہ واریاہ موہن سیتو شریک۔

رَأَى رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۱۴۱﴾

تہ چون پروردگار چھ بے شک غالب (تہ) پھری
چھیری رحم کرن وول۔

لے یا بالین ہنہر کڈی عزی عزو چہوہ پتہ گر بناوان۔

لے یعنی تریہ چھ نمبر سب تو موہنہر طرفہ، رشتوت تہ مالی امداد ورتی یوان۔ یہ اعتراض

آو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلمس تہ کرنہ۔

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالْمُرْسَلِينَ ﴿۱۳۱﴾

لوٹو ہندو قوم تہ کوز رسولوں ہند انکار۔

إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿۱۳۲﴾

بیلو زن تہندو بای لوٹن دتمن وون کیا تو اکر
چھو نا تقویٰ پر لوٹن؟

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿۱۳۳﴾

ہر چھس تو ہر کن اکھ امانت دار پیغمبر بنا وتم
سوز نہ آمت۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونَ ﴿۱۳۴﴾

لہذا اللہ (تعالیٰ) سدا تقویٰ پر اوو تہ میا
فرمانبرواری کرو۔

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنِ أَجْرِي

تہ ہر چھسو نہ تو ہر امہ (کامہ) بدل کنہو اجر
مکان۔ میون اجر تہ چھہ صرف رب العالمین مہ۔

إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۳۵﴾

آتاتون الذکران من العلمین ﴿۱۳۶﴾

کیا تو ہر چھو سارو ہر منلو تو منہر پسنہ نہ خا طہ
نہرے ہند کرکوتیہ

وَتَذَكَّرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ

تہ تم چھو کو توہی تراوتھہ نہننن ہم تہندو
پروردگارن تہنننن آشنہن ہند رُکُ پاد کر مہر

أَرْوَاحِكُمْ ۖ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿۱۳۷﴾

چھہ (صرف بیٹے اوت نہ نہ توہی چھو ہنہہ حرکت
کران) بلکہ (تحقیقت چھہ یہ نہ) توہی چھو

(انسانی فطررک) تقاضہ ہر تہہ نہہہ پھراون
وول قوم۔

قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ

تمو وون، اے لوٹو! اگر تہ باز اکھ نہ تہ تہر پکھ
ملک بدر سپدن والہن منہر شائل کرنہ۔

الْمُخْرَجِينَ ﴿۱۳۸﴾

قَالَ إِنِّي لَعَمْرِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ ﴿۱۳۹﴾

(لوٹن) دو پکھ (بہر حال) ہر چھس تہنہر عمل
نفر تہ سان وچھان۔

رَبِّ نَجِّي ذَاهِلِي وَمَا يَعْمَلُونَ ﴿۱۴۰﴾

اے میانہ پروردگار! میں تہ میانہن گرہ والہن
دیمین (لوکن) ہند لو (کچھ) اعملو ہنہہ نجات۔

فَنَجَّيْنَاهُ وَآهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿۱۴۱﴾

لہذا اسہ دیت نس تہ تہندہن سارنہ گرہ والہن
نجات۔

إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴿۱۴۲﴾

اکس سچ ہند وراہی ہوسہ پتہ روزن والہن منہر
شائل عہ۔

ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِينَ ﴿۱۴۳﴾

(لوٹس نجات دہر پتہ) کرک اسہ باقی ساری
ہلک۔

وَآمَطْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿۷۶﴾
 بیہ وول اسمہ رتھن پیٹھ (کنہ) رُود ، تہ پیم (خدا) ہند طرفہ) ہنثار کرنہ یوان چھہ - (سگر تو تہ چھہ باز یوان) رتھن پیٹھ یس رُود والنہ یوان چھہ سہ چھہ سبھا ناکارہ آسان -
 اِتھ واقعس منز اوس یقیناً اکھ بوڈ نشاۓ امانوز تمو (کافر) منز بنے نہ واریاہ تو تہ نمون -
 چون پروردگار چھہ بے شک سہ یس غالب (تہ) پھیری پھیری رحم کرن وول چھہ -
 ونہ کبو روزن والیو تہ کریاو رٹون ہند انکار -
 ییلہ رتھن شعیبن دنیاو نہ کیا توہر چھونا تقویٰ پراوان ؛
 بہ چھس توہہ کن اُکس امانت دار پیغیر ہندہ حیثیتہ آمت -
 لہذا اللہ (تعالیٰ) سند تقویٰ پراوو تہ میا ذی فرمانبرداری کریو -
 تہ بہ چھسو تہ توہہ اتھ کامہ پیٹھ کینتو اجرت مشکان - میون اجر چھہ صرت پروردگار عالم (خدا) سہ -
 (اسے لوگو!) ہنشاہ (بانہ) اُسو پور (بڑھ) دوان تہ یمن لوقصان واتاوان و اُل مہ بنو -
 بیہ اُسو سینر ڈنجر تولان -
 بیہ لوکن مہ اُسو ہندہ چہر (تہندہ حقہ کھوتہ) کم دوان تہ مکس منز مہ اُسو ہرگز فساد کن
 بیہ تیگر توہر تہ توہہ برو ہنم مخلوق پاؤ کرر ہتہ چھہ سند تقویٰ پراوو -
 (اتھ پیٹھ) وولس (تہندہ قوم) تہ تہ چھکھ تہہ (شخص) نہیں کھن چیلہ دنہ یوان چھہ -
 اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَايَةَ لِّمَنْ كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۷۷﴾
 وَرَانَ رَبِّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿۷۸﴾
 كَذَّبَ اَصْحَابُ لَيْلٰىكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۷۹﴾
 اِذْ قَالُ لَهُمْ شُعَيْبٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿۸۰﴾
 اِنِّ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿۸۱﴾
 فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا ﴿۸۲﴾
 وَمَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيْ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۸۳﴾
 اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ ﴿۸۴﴾
 وَرَنُوْا بِالْقِسْطِ اِلَى الْمُشْتَقِيْنَ ﴿۸۵﴾
 وَلَا تَبْخَسُوْا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿۸۶﴾
 وَاتَّقُوا الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَ الْجِبِلَّةَ الْاَوَّلِيْنَ ﴿۸۷﴾
 قَالُوْا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ﴿۸۸﴾

بیہ چمکھ تر سانی پامٹھ اکھ انسان تر اسی چیتھ
تر بے شک اپزیر زانان۔

لہذا اگر تر پزیر چمکھ تر اسے پیٹھ ول کانہہ
اؤبر چھلا۔

(اتمہ پیٹھ) وؤن شعبین میون پروردگار چھ تہندر
اعمال زبر پامٹھ زانان۔

مگر تمو اپزوروسہ (تمو ہند فکر تارہ پتہ تر) اڈ
تم رڈ ترعائے کرن ولہ ڈوکر عذابین بیتھ (یعنی گلز
تر ہر کال روزن والی اؤبر ک عذابین) سہ اوس
یقینا اکھ بڑ باہ عذابک دہہ۔

اتمہ واقعس منتر اوس اکھ بؤڈ نشانہ تر تمو کافرو
منتر گئے تر (یہ وچیتھ تر) واریاہ مؤمن منتر شابل۔

تر چون پروردگار چھ بے شک غائب (تر)
پھپھری پھپھری رحم کرن وول۔

بیہ چھ یقینا" یہ (قرآن) رب العالمین (خدا) یہ
ہند طرفہ نازل کرنہ آمت۔

یہ بیتھ چھ اکھ امانت وار (تر) کلام بردار ملاک
(جبریل) نازل سپدنت۔

چائس ولس پیٹھ بیتھ زن تر ہتیار کرن واجتہ
جما تر منتر شابل سپدک۔

(یہ) چھ (جبریل) خدا یہ ہند حکمہ) واش کڈتہ بیان
کرن واجتہ عربی زبانی منتر (نازل کورمت)۔

تر یقینا امیک ذکر اوس بڑوٹھو من کتاہن منتر تر موجود
تہندر خاطر چھاپہ نشانہ کم زر اتمہ (قرآنس)
چھ بنی اسرائیل عالم تر پر پزیر ناوان۔

تر ہر گاہ اسی سہ عجیبو منتر کانہہ پیٹھ نازل کرن
تر سہ بوز ناوہے یہ (قرآن) اتمن (کافون) بڑوٹھ

وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِنْ نَطْنُكَ لَمِنَ
الْكَذِبِينَ ﴿۳۵﴾

فَأَشْقِطْ عَلَيْنَا كَسَافَتِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ
مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۳۶﴾

قَالَ رَبِّيَ اعْلَمْ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۳۷﴾

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ الظُّلَّةِ
إِنَّهُ كَانَ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۳۸﴾

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ
مُؤْمِنِينَ ﴿۳۹﴾

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۴۰﴾

وَلَئِنَّ لَتَنَزِيلَ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۴۱﴾

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿۴۲﴾

عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿۴۳﴾

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿۴۴﴾

وَلَئِنَّ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴿۴۵﴾

أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمُوا
بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿۴۶﴾

وَكُوِّنَّا لَهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿۴۷﴾

فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿۴۸﴾

سہ عربو علاوہ باجے وڈی بہرگی ساری قوم چھ مجھی ورتہ یوان۔

کہہ پڑھتے تھے تم انہوں نے نہ نہیں تھے اتھ پیٹھ
ایمان ۔

پتھے پٹھو پٹھو اسے مجرمین ہندین دن منزیہ (کتھ)
دائیل کرتھ تھا و پٹھ ۔

(لہذا) تم انہ اتھ پیٹھ ایمان یوت تام نہ تم
کر لڑتھ عذاب و پٹھن ۔

تہ سہ (عذاب) پیہ ہنگتہ منگہ تہ ہنگتہ زہری
منز ہمن نش ۔

اد و دن تم، کیا اسے سب سے نامولبت دینہ ؟

ادو کوز (دو توڑ) کیا ہے لکھ آسیاسون عذاب
جلد مکان آسان ؟

لہذا کیا تیری بچے نا پڑھ یوان ؟ نہ اگر کسی تم
و ریبہ بدین تام قایدہ و اتناوان گزہ ہو ۔

پتہ پیہ ہے ہمن نش سہ (عذاب) یہ میک ہمن
سوتی و عدہ کر نہ یوان چھ ۔

تہ یہ کینترھا ہمن دینہ امت چھ، سہ ہیکہ ہے
نہ ہمن نش سہ (عذاب) ڈالتھ ۔

بہ کر نہ اسے تڑھ کانہہ بستی ہاک بیتھ کن
اسہ (خبردار کن اولی) نبی آس نہ سوزو ہتھ ۔

یہ آد او کوز کر نہ زہمن واتہ نصیحت تہ اسی
چھنہ نطلم ۔

تہ شیطان سپدہ کر نہ یہ (قرآن) ہتھ نازل ۔

تہ نہ اسی یہ کام ہمن ہندہ حالو مطابق تہ
نہ اسی تم امیک طاقت تھوان ۔

تم چھ بے شک (حد آپ کلام) ہوز نہ ہنہ دور
تھونہ آوتھ ۔

لہذا اللہ (تعالیٰ) ہس سوتی مہ کر کانہہ نیس
معینوس آلو ۔ نہ سپدہ تہ عدلس منز ہونہ ہونہ
والہو لوکو اندر ۔

كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿۵۱﴾

لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿۵۲﴾

فَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۵۳﴾

فَيَقُولُوا أَهْلَ نَحْنُ مُنْظَرُونَ ﴿۵۴﴾

أَفِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿۵۵﴾

أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴿۵۶﴾

ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿۵۷﴾

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ﴿۵۸﴾

وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِيْبٍ إِلَّا لَهَا
مُنْذِرٌ ﴿۵۹﴾

ذِكْرَىٰ لَهُمْ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿۶۰﴾

وَمَا تَنْزَلَتْ بِهِ الشَّيْطَانُ ﴿۶۱﴾

وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿۶۲﴾

إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَخْرُؤُونَ ﴿۶۳﴾

فَلَا تَذمُّ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونُ مِنَ
الْمُعَذِّبِينَ ﴿۶۴﴾

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿۷۱﴾

وَإِخْفُضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ ﴿۷۲﴾

فَإِن عَصَوْكَ فَقُلْ إِنَّي بِرِجَائِكُمْ
تَعْمَلُونَ ﴿۷۳﴾

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿۷۴﴾

الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ﴿۷۵﴾

وَتَقَلُّبِكَ فِي الشُّجُورِ ﴿۷۶﴾

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۷۷﴾

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ﴿۷۸﴾

تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿۷۹﴾

يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُرُهُمْ كَاذِبُونَ ﴿۸۰﴾

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿۸۱﴾

أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَّهْمُونَ ﴿۸۲﴾

وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿۸۳﴾

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ

بیسے کرکھ تڑ گوڈ پینز نزدیکی آشنا و خیردار۔

تہ ہم تڑیہ نش مومن سپتہ پن تہندہ خاطر
نومراو تڑ پستہ (محبتہ چہ) پکھٹہ۔

پتہ اگر کتبہ وقتہ تم چاڑی نافرمانی کن تڑ ونگہ ز
ہر چھس تہنہز عملہ پیٹھ بیزار۔

بیسے کر تڑ غالب (تہ) پھیرے پھیرے رحم کرن واجتہ
ہستی پیٹھ توکل۔

یس تڑیہ تمہ وقتہ تہ وچھان چھٹے۔ نیلہ تڑ کئے
زوں نماز باپتہ) استاد سپان چھٹہ۔

بیسے تمہ وقتہ تہ نیلہ زن تڑ (با جماعت نماز
باپتہ) سجدہ کرن واجتہ جمائز منز اور یور پھیران
روزان چھٹہ۔

بے شک چھ سہ (خداپی) سبھا بوزن وول
(تہ) سبھا زانن وول۔

کیا ہر وولوا توہہ نہ شیطان کس پیٹھ چھ وسان؛
تم ایسے شیطان) چھہ پرستہ اپز یارس گوناہ گارس
پیٹھ وسان۔

تم چھہ پینز کن لہ (آسمانس کن) دارتھ بہسان
تہ جمو منز چھہ واریاہ اپز یارک آسان۔

بیسے شاعرن ہنہر جماعت چھہ تڑتھ آسان نہ تمن
پتہ (پتہ) پکن والی چھہ گراہ سپان۔

(اے عقاب!) کیا تڑیہ توڑے نا (وینیکام) ہکر
نہ تم (شاعر) تہ چھہ پرستہ وادی منز بے مطلب
چھیران۔

بیسے چھہ تم تڑتھ کتھہ وان پیہہ تم کران چھتہ۔
(شاعر و منز) ماسوایہ مومنو تہ نیک عمل کرن

لہ تہ کتھہ جانان و سپنہن لڑتھن پیٹھ کتھہ تراوان چھہ۔ سہ سنیغ۔ امیک معنی چھہ کن تہ آسان۔

سہ بین پیٹھ تم پانہ عمل چھہ کران۔

دَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ
مَا ظَلَمُوا ۗ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ
مَنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴿۱۹﴾

والہو (شاعرو) تہ بہتو یم اللہ (تعالیٰ) مند ذکر
(پنہن شعرن منتر) جاو جاو کران چھہ، تہ
(اگر) جو کران چھہ تہ ابتدا چھہ کران بیکہ (مظلوم
سپندو پتہ چھہ (جاہیز) بدلہ ہوان بیکہ تہ تم لوکہ
یم زن ظالم چھہ، زان ضرور نہ کہتہ جایہ کرن
آسہ اتن چھہ تہ کرنہن۔

سُورَةُ التَّمَلِّ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مَعَ التَّسْمِيَةِ اَدْبَمُ وَتَسْمَعُونَ آيَةً وَمِنَعَهُ رُكُوعَاتٌ

سورة التمل: یہ سورہ چھہ مکئی تہ بسم اللہ بہتہ چھہ اتہ نہ نہتہ آسہ بیکہ چھہ ستہ رکوع۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾

طس ۛ تِلْكَ آيَةُ الْقُرْآنِ وَالْقُرْآنِ وَكِتَابٍ
مُّبِينٍ ﴿۱﴾

هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۲﴾

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الرَّكْعَةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿۳﴾

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
زَيَّنَّ لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿۴﴾

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ

(بہ چھہس) اللہ (تعالیٰ) سند تاو بہتہ (پران) بیکہ
حدہ رؤس کرم کرن وول تہ، چھہرہ ک چھہرہ کرم
کرن وول چھہ۔

طاہر (تہ) سمع (یعنی پاک تہ دعا بوزن وول
خدا چھہ نیہ سورک نمازل کرن وول) اکر آسہ
چھہ قرآن تہ مدلل کتابہ ہند چھہ۔
(بیم) مؤمن ہند خاطر ہدایت تہ خوشخبر (دیک
باعت) چھہ۔

(تہتمو مؤمن) بیم باجماعت نماز ادا کران چھہ تہ
وکوۃ ادا کران روزان چھہ تہ آخرتہ چھہ زندگی
پیٹہ (تہ پتہ بیتہ واجتہن وعدہ دنہ آمترن کتھن پیٹہ)
چھہ پڑہ تھوان۔

تم لوکہ بیم آخرتہ چھہ زندگی پیٹہ ایمان انان چھہ
اسہ چھہ تہندہر اعمال تہندہ خاطر خوبصورت کرنہ
تاو کہ ہتہ۔ او کوفہ چھہ تم تارن پریشان چھہران۔
تمن ہند خاطر آسہ کرنہ غلاب تہ تم آسن

فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخْسَرُونَ ﴿۱﴾

آخرت چہ زندگی مفر سار وہے کھوتہ جسا
خسارین والی -

وَأَنَّكَ لَتَلَقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ
حَكِيمٍ عَلَيْهِمْ ﴿۲﴾

بیہ چھے تریہ قرآن یقیناً تہندہ طرفہ حاصل سپان
لیس سپہا حکمتہ وول (تہ) سپہا زبان وول چہ۔

إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِيهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا
سَاءَ بَيْتُكُمْ مِنهَا بِخَبَرِ آؤَانِيكُمْ بِشَهَابٍ
فَبَسَّ لَهَاكُم تَصْطَلُونَ ﴿۳﴾

(یاد کرو) بیلہ موسیٰ ہن پستہن گرواہن وون
نر میہ چھہ اکہ ناریہ کھچھمت بہرہ انہ یقیناً توہر
نش امر (نامہ) نشہ کانہہ (غلطیہ واجتہ) خبر یا انہ
توہر نش اکہ زوتہ ون تریہ نکل بیہ زن توہر بیہ ناریہ
توشنیہ اہ کرو۔

فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي
النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحٰنَ اللَّهِ رَبِّ
الْعٰلَمِينَ ﴿۴﴾

اد بیلہ سہ تھہ (نارس) نش آو تہ نس آو آوہن
نر یس کانترھا) نارس مفر یا اتھہ اندر میکھو چھہ
نس چہ برکت دہہ آمشر تہ اندر رب العالمین چھہ پاک۔

يُمُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۵﴾

اے موسیٰ! بہ چھس اللہ۔ یس غالب (تہ) حکمتہ
ول چھہ۔

وَأَلْقَى عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا
جَانٌّ وُلِيَ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ
يُمُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ
الْمُرْسَلُونَ ﴿۶﴾

تہ تراون بین عامہ پتھر۔ تہ بیلہ تہو سہ (عامہ)
وچھہ نر سہ چھہ سوسراے کران زن سہ اکہ
لوکٹ سرف اوس تہ سہ نزول تھر پھر تہ
پتھہ پھر تہہ دہن نہ نظر۔ (اد وون اسپہ) اے
موسیٰ! مہ کھوڑ! بہ چھس سہ نہ نزول چھہ
میانہ حضوری مفر میہ کھوڑان۔

إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلْ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ
فَأَبَىٰ عَفْوًا رَّحِيمٌ ﴿۷﴾

مگر بیہو ظلم کور پتہ سہ ظلم تراوتھہ پراون
نہکی۔ بہ چھس (تہندہ خاطر) بوڈہ بخش وول
(تہ) پھیرک پھیرک رحم کرن وول۔

وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجَ
بَيْضًا مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فَيَسْمَعُ آيَاتِ
إِلٰهِ فَرْعَوْنَ وَاقْوَمِهِمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا
فٰسِقِينَ ﴿۸﴾

بیہ تراو تہ پین اتھہ پستس ناس مفر سہ نیر
کرو مرضہ وراہی سفید۔ یہ چھہ ہتھو تھو ہتھو
مفر پیم فرعون تہ تہندس تومس کن سوزہ پین۔ سہ
چھہ فرعون واری تہہ نہر نیرن وول توم۔

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا
هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿۱۷﴾

وَ جَحَدُوا بِهَا وَ اسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ
ظُلْمًا وَ عُلوًّا فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُفْسِدِينَ ﴿۱۸﴾

وَ لَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَ سُلَيْمَانَ عِلْمًا وَ قَالَا
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ
مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۹﴾

وَ دَرَبَتْ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَ قَالَ يَا أَيُّهَا
النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَ أُوْتِينَا
مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ؕ إِنَّا هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ
الْمُبِينُ ﴿۲۰﴾

وَ حُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِبِّ وَ
الْأَنْبِيسِ وَ الطَّيْرِ فَهُمْ يُؤَذُّونَ ﴿۲۱﴾

حَتَّىٰ إِذَا اتَّوَا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ ؕ قَالَتْ
نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ
لَا يَحِطُّ بِكُمْ سُلَيْمَانُ وَ جُنُودُهُ ؕ وَ هُمْ
لَا يَشْعُرُونَ ﴿۲۲﴾

فَتَبَسَّهَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَ قَالَ رَبِّ
أَدْرِ عَنِّي إِنَّ أَشْكُرَ نِعْمَتِكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ

اِدْبِيْلِهِ تَمَنُّ نَشِ سَانِي بِنَشَانِ آيَةٍ ؕ بِيَمِ اُجْهِ
مُتْرَارُونَ وَ اَلْ اُسْمِ ؕ تَهْتَمُو وَ وُن يَه تَهْ جِهْ اَكْ
اَكَا رِ بَعْدِ -

تَهْتَمُو كُوْر اَصْرَارِ سَانِ نَعْلِمُ تَهْتَمُو كَبِيْر كَرْتَهْ كُوْر تَمُو
تَمَنُّ (نشان) ؕ تَهْتَمُو اَكَا رِ حَالَانِكْ تَهْتَمُو دِلُوْ اَسْمِ
تَمَنُّ پِيْطَهْ پَرْتَهْ كُوْر مِيْشَر - لَهْنَا وَ وِجَهْتَهْ فِسا د كَرْنِ
وَ اَلْبِنِ بِنْدِ اِنْجَامِ كَبِيْطَهْ جِهْ اَسْمَانِ -

اِسْمِ كُوْر بِيْهْ دَاوُوْسِ تَهْتَمُو سَلِيْمَانِ عِلْمِ عِلْمًا تَهْتَمُو
وَ وِجَهْ وَ وُن ؕ اَللّٰهُ (تعالیٰ) هِيْ جِهْ سَارِكِيْ تَعْرِيفِكْ
مَّا لِكْ يَمِيْرُ اِسْمِ سِنْتِنِ وَ اِرِيَا اِنِ مُؤْمِنِ بِنْدِ
پِيْطَهْ فَضِيْلَتِ دَر مِيْشَر جِهِيْ -

بِيْهْ بِنِيُوُو سَلِيْمَانِ دَاوُوْدِ سُنْدِ وَ اَرِيَتْ تَهْتَمُو وَ وُن
اَسْمِ لُوْكَوْ! اِسْمِ جِهِيْ جَانَا وَ اَرْنِ لَهْ بِنْتَرِ بُوْلُوْ اَيْمِيَا وَ
اَمِيْشَر تَهْتَمُو جِهْتَهْ ضَرْوِيْ جِهِيْ (بِيْعِنِ عِلْمِ تَهْتَمُو) جِهْتَهْ
اِسْمِ وَ وُن اَمْتِ يَهْتَمُو نَبْ وَ اِنِ فَضْلِ -

بِيْهْ (اَكْر لِهْ) اَيْهْ سَلِيْمَانِ بَرُوْطَهْ كَبِيْهْ جِنُوْ تَهْتَمُو
اِنْسَانُوْ تَهْتَمُو جَانَا وَ وُوْ مِيْشَر تَهْتَمُو شُكْرِ دَر جِهْ بَر جِهْ
سَوْنِيْر اَوْنِيْ - (پِيْطَهْ اَوْتَمَن رُوْا نِيْ سِيْكَتْ حَاكِمِ دِنِيْ)
يُوْتَامُ زِيْنِيْلِيْ تَم نَمْلَهْ وَ اَكِيْ مِيْشَر وَ اَتِيْ تَهْتَمُو نَمْلَهْ
قَوْمِ مِيْشَر وَ وُن اَكْر شُخْصِنِ - اَسْمِ نَمْلَهْ قَوْمِ! سِنْتِنِ
سِنْتِنِ گَرْنِ مِيْشَر اَتِيْو - جِهْتَهْ زِيْنِيْلِيْ سَلِيْمَانِ تَهْتَمُو
تَمُو بِنْدِيْ شُكْرِ (تَهْتَمُو حَالَتِ) تَهْتَمُو زَانِيْهْ كَبِيْ
قَوْمِيْ پَرِنِ تَلِ مِيْطَهْتَهْ تَر جِهِيْو -

اِد تَهْتَمُو كَبِيْهْ بُوْرْتَهْ اَو سَلِيْمَانِ اَسْمِ تَهْتَمُو وَ وُن
اَسْمِ مِيَا نِيْ پَرُوْر كَا نِيْ! مِيْهْ وَ تَوَقِيْعِ يَهْتَمُو نَرْنِ بَر

له طيّر، جاناو ليے آسمانی پرواز کرن والی مؤمن -

بله دمشق پيٹھ اڪه تھه مپل دور جھاز يوون سائل سمندر س پيٹھ چھه واقع وادي
نمل اتھه منتر اوس "نملہ" قوم روزان - نملک لفظی معنی چھه "رسيہ"
امی چھه کيئرو ترجمہ کرن والہو اصل رسيہ مراد نيمشہ -

چاہے نعمت مند، یوسف ثریہ میں تہ میاںس مابلس ماجہ
عطا کر ہمش چھتہ، شکرانہ ادا کرتے ہوئے۔ تہ
ترتہ مناسبت عمل کر یوسف ثریہ پسند فرماؤ گے۔ تہ
(اسے خلیفہ!) پستہ زخمیہ سیدی کر میںہ پستہنہ
بزرگ بندن منفر داہل۔

تہ تمہ ہنیز سارہے جاناوارن حاضری، پستہ
وون میںہ کیا گوہر "ہدھد" چھن تہ بہ
وچھانے۔ کہہ سہ چھ (زائتہ تانہتہ) غار حاضری۔
بہ وہہ یقینا تس سخت سزا با کرن سہ قیل۔
نتہ کرن سہ میںہ بروٹھ کہہ لائہہ ٹاکاہر ڈیل
(پستہ غار حاضری ہنیز) پیش۔

اد کینٹرس کاس کور تمہ قرار (بیتس کاس سپد
ہدھد حاضری) تہ وون نہ میںہ چھہ تمہہ جزک
علم حاصل کورمت میںہ ثریہ حاصل چھے نہ تہ میںہ
چھہ سہا (ہند قومہرہ علاقہ) پہلہ ثریہ کر تہ اکہ
پڑہہ دار خبر از ہنیز۔

(یوسف بہ چھہ نہ) میںہ وچھہ تہتہ) اکہ زبان یوسف
تہن (ہندس سالم تومس) پہلہ حکومت کران چھہ
تہ تہس چھہہ پرتہہ نعمت حاصل بہہ چھہ تہس اکہ
بوڈ نخت۔

بہہ وچھہ میںہ سمہ تہ تہند قوم چھہ اللہ (تعالے)
ہس وراہی آفاہس بروٹھ کہہ سبجہ کران تہ
شیطان چھہ تہندک اعمال تہن خوبنورت کر تہ
نور ہنیز۔ تہ تہم چھن پیز و تہ ہنیز ٹاکاؤک
ہنیز میںہ کونہ تہم ہلہت چھہہ لبان۔

(تہ ہٹھ چھہ کران) نہ اللہ (تعالے) ہس کرو تہ
سبجہ میںہ آسمان تہ زمبہہ ہند پرتہہ پوسٹہہ

عَلِيٍّ وَعَلَىٰ وَالِدَيْيَ وَآنَ أَعْمَلَ صَالِحًا
تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ
الصَّالِحِينَ ﴿۱۹﴾

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا آرَى
الْهُدَىٰ كَمَا كَانَتْ مِنَ الْعَائِلِينَ ﴿۲۰﴾

لَا عِدْبَتُهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَا أَذْبَحْتَهُ
أَوْ لِيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ﴿۲۱﴾

فَمَكَتْ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا
لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ
بَقِيٍّ ﴿۲۲﴾

رَأَيْتِ وَجَدْتِ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ
مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَوَلَّاهَا عَرْشَ عَظِيمٍ ﴿۲۳﴾

وَجَدْتُهُنَّ وَ قَوْمَهُنَّ يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ
مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ
أَعْمَالَ لَهُمْ فَصَدَّاهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا
يَهْتَدُونَ ﴿۲۴﴾

أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَاءَ فِي
السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ يَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَ

لہ ہدھد چھہ تہہ و تہس زمان۔ یہ اوس حضرت سلیمان ہند دربارکس اگس سردار
ناو (جیوش انسائیکلو پیڈیا)۔ کینٹرو ترجمہ کران والہو چھہ اصلی سبہہ تہ مراد نبوت۔

مَا تَخْلُقُونَ ﴿۳۱﴾

تقدیر ظاہر کران چھ۔ بیہ یہ کینٹھا تو ہی
کھنڈتھا تو ان چھو تہ (یہ کینٹھا) نون کڈان
چھو۔ تم تدبیر تہ چھ سہ زانان۔

(سیلزن) اللہ اتعالیٰ چھ سہ بیٹیس ورا لی کانہ
مبوء چھتہ (سہ) چھ اکہ بڑ تختک مالک۔
(اتھ پیٹھ) وولس (سیمان) ز اسی وچھو ز تریہ
چھتا یوز وولنت کہہ تہ چھکھ اپز یارو مشزہ؟

تہ نہ میاڈیہ چھو تہ یہ تراور زین (سبا سبندس
فوس) بروٹھ کنہ۔ پیتہ روزی تہ (ادب سان) پیتھ
تہ وچھ نہ تم کیانہ جواب چھ دو ان۔
(ییلہ کئی مینہ کئی کوز) تہ تمہ (ملکانہ) وولن،
اے میانو دربارو! میں بروٹھ کہہ چھ اکہ عزتہ
وول خط تھاوتہ آمنت۔

یہ خط چھ سلیمانہ سبند طرف تہ اتھ مشز چھ
لکھتھ "بسم اللہ الرحمن الرحیم" یعنی ز اللہ
(تعالیٰ) میں اتھ روس کرم کرن وول تہ
پھیر پھیر کرم کرن وول چھ، تم کئی سبند
ناو چھ اسی دس تلان۔

(بیہ چھ لکھتھ) ز اسی پیٹھ مہ کروی زیادتی
تہ سانس دربارس مشز سپرو فرنا نبردار سپد تھ
حاضر۔

پیتہ وولن تمہ (ملکانہ)۔ اے سردارو! میانس
معاملس مشز دیو پینو پونہتہ رائے تہ کیانہ بہ
چھس نہ زانہہ کانہہ فاصلہ کران، یونام زن
تو ہی میں نش حاضر سپرو تہ (تہ مشورہ دیو نہ)۔

تمو (دربارو) وولن ہس، اسی چھ بڑ طاقتہ
والہ تہ بڑی جنگ کرن والہ تہ (آخری) اختیار
چھ چانس اتھس مشز او کئی کر تہ سوتج سمجھ
نہ تہ کیا حکم چھکھ دین میں تھان (اسی کرو
جمع فرمانبرداری)۔

أَلَمْ يَلَأَلْهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿۳۲﴾ يَا

قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ
الْكَاذِبِينَ ﴿۳۳﴾إِذْ هَبْ بِكُفْتَبِي هَذَا فَالَقَهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ
تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿۳۴﴾قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا إِلَيَّ الْإِي
كُتِبْ كَرِيمٌ ﴿۳۵﴾إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ
الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۳۶﴾

أَلَا تَخْلُقُونَ عَلِيًّا وَآتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿۳۷﴾

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي
مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴿۳۸﴾قَالُوا نَحْنُ أَوْلُوْا قُوَّةً وَ أَوْلُوْا بَأْسًا
شَدِيدًا وَ الْآمُرُ إِلَيْكَ فَانظُرْ
مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿۳۹﴾

قَالَتِ اِنَّ الْمُلُوكَ اِذَا ادْخَلُوْا قَرْيَةً
اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْا اَعْدَاةَ اَهْلِهَا
اِذْلَةً ۚ وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ﴿۳۰﴾

وَالَّذِيْ مُرْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ
فَنظُرَةٌ بِهَا يَرْجَعُ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿۳۱﴾

فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمٰن قَالَ اَتُمِدُّوْنَ اِيْمَالِيْ
فَمَا اَنْتُمْ بِاِلٰهٍ خَيْرٌ مِّمَّا اَنْتُمْ بِل
اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ ﴿۳۲﴾

اِجْعَلْ اِلَيْهِمْ فَلَنَايِسْتَهُمْ بِجُنُوْدٍ
لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَ لَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا
اِذْلَةً وَهُمْ صَاغِرُوْنَ ﴿۳۳﴾

قَالَ يَا اَيُّهَا الْمَلِكُ اِيْحْكُمْ يَا رَيْبِيْ
يَعَزُّ عَلَيْهَا قَبْلَ اَنْ يَأْتُوْا بِمُسْلِمِيْنَ ﴿۳۴﴾

قَالَ عَفْرِيْتُ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اَتِيْتُكَ بِهٖ قَبْلَ
اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ ۚ وَالَّذِيْ عَلَيَّ
لَقُوِيْ اٰمِيْنَ ﴿۳۵﴾

قَالَ الَّذِيْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ
اَنَا اَتِيْتُكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَزْتَدَّ اِلَيْكَ

تمہ وون نہ بیلیہ بادشاہ کتہ مکس منتر اثران چھ
تہ تہ تہ چھ تباہ کران تہ تہ تہ کپور روزن والپو
منتر چھ معزز لوکن ڈیل کر تہ تہ تہ تہ تہ تہ تہ
چھ بیٹھ پٹھ کران آہو۔

تہ (میہ چھ قافلہ کوڑمت نہ) بہ سوز بہن کن
اکہ ڈال۔ پتہ وچہ نہ میانی قافلہ کیا جواب

ہتہ بین واپس؟

پتہ بیلیہ سوہ ڈال سلیمان بروٹھ کتہ اُبتہ تھاوہ

آپہ تہ تہ وون، کیا توہی چھوا مالہ سوتی مسیہ

مد کران بہ تھان؟ (اگر یہ کتہ چھینہ تہ یاد تھاوہ

نہ) اللہ (تعالیٰ) ہن یہ کتہ کتہ میہ دیت مت

چھ، سہ چھ تہ کھوتہ کتہ کور بہتر یہ توہیہ

دیت مت چھنو۔ تہ (معاوم چھ سپدان نہ) توہیہ

چھو پتہ ڈالہ پٹھ سبھا ناز۔

(اے حد حد!) تہ گرتہ بہن کن واپس تہ بہن

ون نہ) اُسی یو اکہ بوڈ لشکر ہتہ بہن نش تہ تہ

لشکر نہ تہ کہ متباک آس نہ بہن طاقت تہ

بہ کڈکہ تہ تہ (مکبہ) منتر بہنس حالتش منتر

نہ (بادشاہتک) شان آسکھ روو مت۔

تہ (سلیمان) وون (تمہ پتہ پتہ پنہن دربارن

کن کلامہ کران) اے دربارلو! توہیہ منتر کنس

انہ تہ تہ تہ تہ تہ تہ تہ تہ تہ تہ تہ تہ

(لوکھ) سپدان فرمانبردار ہتہ میاںس خد متس

منتر حابز۔

(مبارک توہو منتر) اکر محفوظ سردارن وون،

تہ تہ (نیمہ) مقامہ پٹھ گرتہ بہن بروٹھ ان

بہ سہ (تخت)، تہ بہ چھس اتہ کتہ پٹھ پٹھ

تہ درت تھون وول (تہ) امانت دار۔

تہ شخصن بیس (الہی) کتا بہ ہند علم حابص

اوس وون (اتہ پٹھ) نہ بہ ان سہ (تخت)

طَرَفُكَ ، فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقَرًّا عِنْدَهُ
 قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي
 ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ۚ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا
 يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي
 غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴿۷۰﴾

شریہ نش چاہیہ اچھہ ٹھوہر کرنہ بروٹھے۔ اِد
 نیلیر (سیمان) سہ (تخت) پانس بش تروٹ
 وچھہ تہ تمو وون، یہ چھہ میانس پروردگار بندہ
 فضلہ کنی سیدت میتھ زن سہ میں آزماؤ نہ بہ
 پھسا شکرانہ کران کہتہ ناشکری چھس کران تہ یس
 شکرانہ کر سہ پھر پست نہ زو کہ قایدہ خاطر
 تہ کران تہ یس ناشکری کر، تہ یقینا چھ میون
 پروردگار بے نیاز (تہ) بار سہ ادت کرن وول۔

قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرُ
 أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ
 لَا يَهْتَدُونَ ﴿۷۱﴾

تھو وون اپتہ، تھو سنبہ (یعنی ملکاتہ ہندہ)
 خاطر آولون تھو سنبہ تخت کوسی پایہ کر تھلہ
 اسی وچھو ز سہ چھا ہدایت لیان کہتہ تمو لاکو اندہ
 چھیبہ بنان یکم ہدایت چھتہ لیان۔

فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ ۖ قَالَتْ
 كَأَنَّهُ هُوَ ۚ وَأُوتِينَا الْحِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا
 وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿۷۲﴾

اد نیلیر سہ (ملکہ بلقیس) آہ تہ ونہ آو۔ چون
 تخت چھا یٹھے؟ اتھ پیٹھ وون تمہ، نہ پتھ کنی
 چھہ معلوم سپان یہ چھہ سہ، تہ اسہ اوس امر بروٹھے
 علم حاصل سیدت تہ اسی اسہ (چانی) فرمانبردار
 بنے ہوتے۔

وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿۷۳﴾

تہ سیمان کور ملکاتہ اللہ (تعالے) ہس وراہی
 عبادت کرنہ رتہ ٹھاٹھ۔ سہ اس بے شک کافر
 قومہ اندہ۔

قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ۚ فَلَمَّا رَأَتْهُ
 حَسِبْتَهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا
 قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ ۖ
 قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ
 مَعَ سُلَيْمَانَ يَلُودِ رَبِّ الْحَلِيمِينَ ﴿۷۴﴾

بیہ آوس ونہ نہ محلہ خاس منتر اشہ۔ اِد نیلیر
 تمہ سہ (محلہ خانہ) وچھہ تہ تمہ زون سہ سون
 آب تہ گابریے پتھ۔ اتی وونس سیمان، یہ تہ
 چھہ محلہ خانہ پتھ منتر سنبہ چھہ لگتہ آنت۔ اِد
 وون تمہ (ملکاتہ) اے میانہ پروردگار! میں
 کور پننس زوس پیٹھ ظلم تہ بہر چھس سیمانس

لہ یعنی بیٹھ تخت بناو یس تہ بہر تختہ رتہ تمہو تہ اعلیٰ آسہ۔

لہ کشفنت عن ساقیہا : یہ چھہ عربی محاورہ بیکیک مطلب چھہ گابرن آسان مفسرو
 چھہ اتھ لفظی ترجمہ کر تھ غلطی کر مہر تہ بلڈ داستان چھکھہ بناو مہر۔

سستی رب العالمین خدائیں پیٹھ ایمان آمان لیہ
 بیہ سوزاوسہ (قوم) شمس کن تہند بوے
 صالح رسول بناوتھ - (یہ زمان) نہ اللہ (تعالیٰ)
 ہنر عبادت کرو - اڑیہ (بوز وئے) گئے یمن
 نہ ڈرکیم پانہ وافی ترورہ لگی -

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا
 أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَيْنِ
 يَخْتَصِمُونَ ﴿۳۰﴾

قَالَ يَقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ
 قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ
 لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۳۱﴾

تو (صالح) وون - اے میاں قوم! توہی کیا
 چھو خوشحالی ہنرینہ برورنٹھ بدحالی ہنر خاطر
 وڑھ کران! کیا توہی چھونا خدائیں نش پینہن
 گونہ ہن پیٹھ استغفار کران، بیتہ نہ توہر پیٹھ
 رگم کرنہ بیہ -

تھو وون (اے صالح!) اسہ (یوتام سوچت
 چھ) نہ تہ پانہ ساتھی چھ مغوہے بو ہتر -
 تو (صالح) وون تہند سونگ سبب تہ چھ
 اللہ (تعالیٰ) ہس ہنر - بلکہ چھ حقیقت یہ نہ
 توہی چھو اگہ بیتھ قوم یس امتناس منر تراونہ
 چھ آمت -

بیہ اسی شہرس منر نو انسان یم (سارہے)
 ملک منر فساد کران اسی تہ اصلاح اسی نہ کران
 تو وون (اگہ اوس) نہ توہی ساری کینو اتھ
 پیٹھ اللہ (تعالیٰ) سترقم نہ اسی کرو ہنر
 تہ تہند ہن گر کہن پیٹھ رات کیتھ حملہ پتہ یس
 تہ تہند وارت ہنر (تہند خوابک مطالبہ کرنہ
 پیہ) اسی ووتس نہ اسہ وچھ نہ تہند ہن
 گر والہن ہنر ہلاکت (یعنی سہ واقعہ) تہ اسی
 چھ پڑیادہ -

قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ
 طَبَّرَ اللَّهُ عَنَّا اللَّهُ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ
 تُفْتَنُونَ ﴿۳۲﴾

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ
 يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿۳۳﴾

قَالُوا تَقَا سَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ
 ثُمَّ لَنَنقُوهُ لَنَلْبِسَنَّهُ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ
 أَهْلِهِ وَإِنَّا لَكَاذِبُونَ ﴿۳۴﴾

لہ ملک بقیس اسی آقا بس پرستش کران - حضرت سلیمان بناو نوو اگہ محل
 بیتھ منر اسی پیٹھ شہر لگتھ اوس آمت - سینہ تہر بلقبہ سہ وچھ تہ
 تس توریکر نہ تھلکو چھ آقا ہر کس نوز پتہ اللہ تعالیٰ سندے نور پڑیادہ
 تہ تہر وون ایمان -

تہ تم کو کور اگہ تدبیر تہ اسہ تہ کور اگہ تدبیر
تہ تم اسی تہ زانان۔

اد وچھتہ تہہندہ تدبیرک کیا نتیجہ دراو۔ اسہ
تھاوی تم تہ تہہندہ قوم ساری تیاہ کر تھ۔

ادوکھی (وچھ) پیم چھ تہہندہ گر پیم تہہندہ لو
ظلمو کھی سوی پیم تہ چھ۔ اتھ مغز چھ علمہ
والہ قومہ با پتھ بوڈ نشان۔

تہ اسہ دیتہ متن لوکن نجات بیکو ایمان اولن
تہ تقوی کران اسی۔

بسیہ (سوز اسہ) لوط (تہ رسول بناوتھ) بیلیہ
زن تمہو پیننس قومس وون۔ کیا توہی چھوا
بڈیہ کران؟ بیلیہ زن توہی وار کاہ وچھان
آسان چھو۔

توہی چھوا زانانہ تراوتھ مردن نش شہوتہ کر نیہتہ
پوان؟ حقیقت چھییہ بو تر توہی چھوا اگہ جاہل
قوم۔

اد تہندہ قومک جواب اوس صرف یہ نہ راے
لوکو، لوطہ سند خانانک ترہینون بیتہ شہر مشر
کڈتھ، تم چھو تھو لوکھ پیم بڑ نیک بن شہان
چھو۔

نتیجہ سپد یہ تر اسہ دیتہ تس (یعنی لوطس) تہ
تہندہ خانانہ کن لوکن نجات، تہنہ آشرہ وراہی
سہ اس اسہ پتھ روزن والہن مغز گتہ راوتھ نیمہتر
بہ وول اہر متن پیٹھ اگہ روو۔ تہ بین غلا پتھ
شیچھ واٹر مشر اسہ تہندہ روو پتھ سبھا پتھ آسان۔
ترہ ون، پرتھو تعریف ستھار چھ اللہ (تعالیٰ ہے)
تہ تمہو ہندہ تم بندہ پیم تمہو تر آرہ ہو آسن،
تہن پیٹھ چھو ہمیشہ سلامتی نمازل سپدان۔ اللہ
(تعالیٰ) چھا بہتر کہنہ تم چیز میں تم (تہندہ)
شریک تھہراوان چھو؟

وَمَكَرُوا مَكَرًا وَ مَكَرْنَا مَكَرًا وَ هُمْ
لَا يَشْعُرُونَ ﴿۵۱﴾

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ ؕ
اِنَّآ دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِينَ ﴿۵۲﴾

فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا ؕ اِنَّ
فِي ذٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۵۳﴾

وَ اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ كَانُوْا
يَتَّقُوْنَ ﴿۵۴﴾

وَ لُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ اَتَاْتُوْنَ
الْفَاحِشَةَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿۵۵﴾

اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ
ذٰوْنِ النِّسَاءِ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ
تَّجَاهِلُونَ ﴿۵۶﴾

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖ اِلَّا اَنْ قَالُوْا
اَخْرِجُوْا اِل لُّوْطٍ مِّنْ قَرْبَتِكُمْ ؕ اِنَّهُمْ
اِنَّا سَ يَنْظُرُوْنَ ﴿۵۷﴾

فَاَنْجَيْنَاهُ وَاَهْلَهُ اِلَّا امْرَاَتَهٗ نَقَدَتْهَا
مِنَ الْغٰثِرِيْنَ ﴿۵۸﴾

وَ اَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۙ فَسَاءَ مَطَرُ
الْمُنْذِرِيْنَ ﴿۵۹﴾

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ سَلَّمَ عَلٰٓى عِبَادِهٖ
الَّذِيْنَ اصْطَفٰٓى ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَخَبِيْرٌ اَقْبَا
يُشْرِكُوْنَ ﴿۶۰﴾

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتَأْتِيْنَا
بِهِ حَذَائِقُ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ
لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ؕ إِنَّهُ مَعَ
اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعِدُونَ ﴿٥٦﴾

(مگر تو) آسمان و زمین کو چھ پاؤں کرے
ہو؛ تہ تہند خاطر (کو) چھ اوبہ منج آب
وہ مت؛ پتہ چھ امیر (کو) ستی اسر خوبورت
بانج وہ پادوی ہوتی۔ توہی بیکہ ہو تہ جن (باغن)
ہندو کو نوڑاوتھ۔ کیا اللہ (تعالیٰ) ہس ستی
چھا بیاکھ تہ معبود؛ (میں ساری کائینات انتظام
کران چھ)۔ اناپوزیم (کافر) چھ تہتھ قوم ہم
تہدی شریک بناوان چھ۔

أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَ جَعَلَ
خِلْفَهَا آتْهُرًا وَ جَعَلَ لَهَا رَوَاسِيًا وَ
جَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ؕ إِنَّهُ
مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾

(وہ توڑ) کرے چھ زمین قرار تہج جاے بناوتہر؛
تہ اتھ منج چھن کولہ تہ ڈریاو پکناوی ہوتی تہ تمہ
کہ (قاید) خاطر چھن پہاڑ بناوی ہوتی تہ وہن
سمندرک درمیان (میں منج اکھ میوٹھ تہ اکھ توش
آسان چھ) چھن ٹھور ہوتہ۔ کیا اللہ (تعالیٰ)
ہس وراڈی چھا کانہہ بیاکھ معبود؛ وہ ڈی گوو حقیقت
چھتھ یہ نہ تو منج چھتہ واریاہ زانان۔

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ
يَكْشِفُ السُّوءَ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ
الْأَرْضِ ؕ إِنَّهُ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا
تَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾

(بہر و ہوتے) کس چھ کانہہ بے کسہ سد دعا
بولن؛ نیلہ سہ تس (خالی) دعا منگن چھ تہ
سہ چھ (تہ) تکلیف دور کران تہ سہ بناوی
و تہہ (دعا منگن والہن انسان) اکھ وہہ ساری
زمینک وارث کیا (تہس قادر مطلق) اللہ (تعالیٰ)
ہس وراڈی چھا کانہہ بیاکھ معبود تہہ؛ توہی چھو
تہ سہ نصیحت مان۔

أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ
وَالْبَحْرِ وَ مَنْ يُرْسِلُ الرِّيْحَ بُشْرًا
بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ؕ إِنَّهُ مَعَ اللَّهِ
تَعْلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾

(وہ تو) خود شکیں تہ سمندرک ہندن نصیحت منج
کس چھو توہہ نجارت تہہ ملوان، تہ کس چھ پینہ
(باران) رحمتہ بروٹھ نمہ شخبر ہند رنگ، خوش ہوا
سوزن؛ کیا اللہ (تعالیٰ) ہس وراڈی چھا کانہہ
بیاکھ معبود؛ اللہ (تعالیٰ) چھ تہننرو شرکہ جو

لہ روایتی واحد راسیة لنگر نیمہ ستی سمندری جہاز ڈولہہ نشہ بچان چھ۔ کوہ
تہ چھ زمینہ ہنر حرکت منج ہواوی تہ راہاری پاؤں کران۔

کتھو رشتہ سہما تھوڑ۔

(تو تو تر) سہ یس گھوڑیکہ لہڑ پاد کران چھہ
 تہ بیہ چھہ (پیدا آیتہ ہند) سلسلہ جادی کران
 تہ یس اوہر تہ زمینہ منز توہر برزق ووان چھو
 کیا (تس تدر مطلق) اللہ (تعالیٰ) ہس ورا ی
 چھا کاشہہ بیاکہ معبود تہ؟ تہ ون نہ اگر توہر
 پز یارک چھو تہ پنہ ڈیل کرو پیش (نہ تو ہند
 بھو چھہ بیہ تہ)۔

(بیہ) ون تر آسمان تہ زمینہ منز یوسہ پاد آیش
 تہ چھہ۔ تھالیں ورا ی چھہ (تو منز کاشہہ) کتاب
 زانان تہ تو منز چھہ تہ تہ کاشہہ فکر تران نہ
 تم کرین زندہ کر تھہ تھلہ۔

بلکہ حقیقت چھہ یہ نہ آخرتہ چھہ زندہ متعلق
 چھہ تہ ہند علم ملے مو کلیومت۔ بلکہ تم چھہ تمہ
 کہ حقہ سخس منز پیچہ۔ بلکہ تم چھہ تمہ کہ
 حقہ نہ اذ۔

بیہ چھہ سافر ونان نہ کیا نیلہ اُس تہ سانی چلا جا
 میٹر گڑھن تہ اُس بکوا بیہ (زمینہ منز)
 زندہ کر تھہ کڈہ؟

اسہ تہ سانہن جہن اجلاد سنی اوس امہ
 برو تھہ تہ میٹھ وعبہ کر نہ آمت۔ مگر ہم چھہ صرف
 برو تھہ ہن لوکن ہنہر کتھہ (ہم نہ زانہہ پلوہ
 سپلان چھہ)۔

تہ ون نہ زمینہ منز چھہ تہ وچھہ زمجر من
 ہند انجام کی تھہ سپدے یاو۔

بیہ مد کر تہ ہن پیچہ علم تہ تہ ہند پو تھلو ہند
 باعتہ مد کر منگل محسوس۔

بیہ چھہ تم ونان اگر توہر پز یارک چھو تہ یہ (غالب)
 وعبہ کر سپد پلوہ؟

تہ ون نہ ممکن چھہ نہ سہ (عذاب) بیہہ خاطرہ

أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَ
 مَنْ يَزِدُّكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
 إِلَهُ مَعَ اللَّهِ، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ
 إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۵﴾

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ
 يُبْعَثُونَ ﴿۶﴾

بَلِ إِذْ رَكَ عَلِمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ تَبَلَّ
 هُمْ فِي شَكِّ مَثَلًا تَبَلَّ هُمْ مَثَلًا
 عَمُونَ ﴿۷﴾

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا
 تُرَابًا وَآبًا وَنَا أَنَا لَمُخْرَجُونَ ﴿۸﴾

لَقَدْ وَعَدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا
 مِنْ قَبْلُ، إِنْ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ
 الْأَوَّلِينَ ﴿۹﴾

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ
 كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿۱۰﴾

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي
 ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ﴿۱۱﴾

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ
 كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۲﴾

قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدْفَ لَكُمْ

بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿۳۱﴾

تو ہی ورتھ کران چھو، تمیک کینہہ حصہ آسر
توہر پتہ پتہ پکان۔

وَأَنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ
وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿۳۲﴾

تہ چون پروردگار چھ لوکن پیٹھ فغیل کرن وول
وولنی گوو، تمو مغز بھنو واریاہ شکرانہ کران۔

وَأَنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ
وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿۳۳﴾

بہ چون پروردگار چھ تم چیز تہ زانان ہم تہندہ
وچھ کھٹھ تھوان چھ تہ ہم تم تھولان چھ۔

وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿۳۴﴾

بہ آسان تہ زمینہ مغز میں کائہہ تہ کھٹھ
چھنر چھ (سہ) چھ اُکس بیان کران واجہہ کتابہ
مغز (تھرتھ)۔

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَفُضُّ عَلَىٰ بَنِي
إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ
يَخْتَلِفُونَ ﴿۳۵﴾

یہ قرآن چھ بنی اسرائیل ہرونہ کئہ یتر پانٹو
تہ کتہ بوزناوان ہم مغز تم اختلاف کران چھ۔

وَلِأَنَّهُ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۶﴾

بہ ہمہ یہ (قرآن) لوہن ہندہ خاطر ضرور
ہایت تہ رحمت۔

إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ ۚ وَ
هُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿۳۷﴾

چون پروردگار چھ ہم (بنی اسرائیل) در میان
پسنہ محکمہ (یعنی قرآن) سنو (وز) نامہ
کران۔ تہ سہ چھ غالب (تہ) سبھا بڑھلہ وول۔

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ الْحَقِّ
الْمُبِينِ ﴿۳۸﴾

لہذا اللہ (تعالیٰ) ہم پیٹھ کرتوک تہ چھاکہ
بے شک اُکس اولیہ و اُکس حقس پیٹھ قائم۔

إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمَعُ الضَّمَّةَ
الدَّعَاءَ إِذَا دَلُّوا مَذْبِرَيْنِ ﴿۳۹﴾

تہ ہیکہ تہ ہرگز مودن بوزناوتھ تہ نہ ہیکہ
کھ زُرکی (پنڈو) آواز بوزناوتھ۔ (خاص کتھ)
نیلیہ تم تھرتھ گتھان چھ۔

وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعَمَىٰ عَن
ضَلَّاتِهِمْ ۚ إِنَّ تَسْمِعَ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ
بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۴۰﴾

بہ ہیکہ نہ تہ انہن تہ تہنر تھرتھ ہی نشہ بجاتھ
ہایت وٹھ۔ تہ تہ چھکھ صرف تہ بوزناوان
ہم سامن آہن پیٹھ ایمان انان چھ تہ تم چھ
(علمہ کوی تہ) فرمانبروار آسان۔

وَأِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا
لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ

بہ نیلیہ تہنر تہا ہی ہنر پیٹھ کوی پور سپد
تہ اُکس کڈون تہندہ خاطر زمینہ مغز اُکھ کیوم

لہ اتھ چھ مراد طاعت کیوم یا جراثیم۔ حدیس مغز چھ اُمت ز آخری زانس مغز یہہ بہ بیاری خاطر کرہ۔

أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿۵۷﴾

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿۵۸﴾

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَكَمْ تَحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ آذًا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۵۹﴾

وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ﴿۶۰﴾

أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسَكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۶۱﴾

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَ كُلٌّ أَتَوْهُ دَٰخِرِينَ ﴿۶۲﴾

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدًا وَ هِيَ تَمُرٌّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَثَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿۶۳﴾

یس امن لو پیر دیہ - امیر با عشر نہ لوکھ چھینہ سائین نشان پٹھہ پڑھ تھولن۔

بیہ (کریاو) سہ دوہ نیلہ اسی پرتیہ (تتہ) قومس منزیس سائین نشان انکار کران روزان آسہ اکھ بڑ جماعت کھڑا کرون - پتہ پیہ سہ (جماعت پڑھ گار خا طہر) بیون بیون درین منز با گراونہ تہ نیلہ تم تس نش وا تن ، سہ وہ تن ، کیا توہہ کریاووا میانین نشان ہند امیر با وجود انکار نہ توہہ اسیوہ علیہ کہ ذریعہ امن ہنر پور زان حاصل کر ہنر - یا لو یو یہ نہ (اسلاس ہنل کھ) کہہ سا زہرہ اسیوہ توہہ کران۔

تہ تہند لو تھلو کہو سپہ امن ہنل کرتہ آمہرہ پٹھہ لو پورہ ، تہ تم ہون تہ کاتھہ کتھ کتھ۔

کیا امن چھنا معلوم؟ نہ اسر چھ او کہو رات بناو ہنر نہ تم کرن اتھ منز آرام حاصل ، تہ دوہ چھہ اسہ و چھنک طقت دہ وول بنوومت۔

اتھ منز چھہ یقینا مومن قومہ خا طہر پڑھ نشان۔ بیہ (سہ دوہ تہ کریو یلا) نیہہ دوہہ پوگس پھو کہ دنو پیہ نیہہ کس نیہہس منز آسان تہ زمینہ منز یس کاتھہ تہ چھہ (سہ) ترہہر - تس ورا بی نیہہس متعلق اللہ (تعالی) نیہہرہ (زسہ روزان ترہہر نشہہ پٹھہ) تہ سر سالم بن (خدا یہندس) دربارس منز تالیار تہ فرمانبردار سپدہ۔

بیہ چھکھ تہ بانن اتھ مولتس منز وچھان زن تم چھہ پسنہ جایہ ٹھہر تھہ - حقیقت چھینہ یہ نہ تم چھہ او برکٹ پا طہی پکان ایہ چھہ اللہ (تعالی) ہنر کارگری ، نیہہ پرتھہ چیز مضبوط بنوومت چھہ (تہ) سہ چھہ تہند لو اعلو نشہہ یلوہ تجردار۔

لہ اتھ آس منز چھہ اشار ز زمین چھید حرکت کران پرا نی عالم اسی زمینہ ساکن زمانان

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِمَّا يَكْتُمُ ۚ وَ
هُم مِّنْ فَزَعِ يَوْمِئِذٍ آمُونَ ﴿۱﴾

میں اچھا نیک کر کے اس میں سے کوئی خیر کھوتے جا رہے ہیں
تو پتھر لڑکھ روزانہ تمہارے وہ تمہارے خوفناک (نیک) سے
بچنے کے لیے ذکر کرنے اور (حفاظت سے) سنان۔

وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ دُجُوهُهُمْ
فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ
تَعْمَلُونَ ﴿۲﴾

تو ایم لاکھ بیکچہ اعمال ہتھیے خدایہ ہندیں خدایتس
مغز سے ہندیں۔ ہندیں سردار میں جہنمیں
مغز سے ہندیں وارڈ ترہیں تو (تو و منہ پیسے) نہ کیا
تہند جزا پھنا تمہیں عمل مطابق؟

إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدِ
الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ رَّوَّأُمِرْتُ أَنْ
أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿۳﴾


میں تو کچھ صرف یہ حکم دیا آیت نہ بہ کر نیس
(مکہ) شہر کے پروردگار ہنہ عبادت میں تمہیں
(پروردگار) عزت و دل بنو مت چھ۔ تو پر تہ
چہر چھ تہند ہے اتھس مغز۔ میں چھ میں حکم
دیا آیت نہ بہ سپہ فرمانبردار و منہ۔

وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ ۚ فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا
يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا
أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿۴﴾

میں یہ چھ میں حکم دیا آیت نہ بہ بوزناو قرآن
پڑھ۔ اور میں تو بوزناو ہدایت لہر تہ تہ ہدایت لبس
میں صرت تہند ہے زوس بکار۔ تو میں بوزناو تہ
مغز گرتہ تہ تہ دن تہ نہ بہ چھس صرف اکھ
بشیر کرن دزل (و عود)۔

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ
فَتَعْرِفُونَهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِخَافِلٍ عَمَّا
تَعْمَلُونَ ﴿۵﴾

میں دن یہ تہ نہ اللہ (تعالیٰ) ہے چہ سارے
قرین ہند خد ر۔ سہ ناوہ تہ ہر ہنہ تہستان یوت
تام نہ تو ہر تم پر بوزناو لکھ۔ تو تہند پروردگار
چھند تمہیں علوانشہ غافل۔



سورة قصص، یہ سورہ چھ نکل تہ بسم اللہ ہتھیے چھ اتھ کتھتھ آیت میں چھس نو رکوع۔

(بہر چھس) اللہ (تعالیٰ) ہند ناو ہتھیے (پرآن)
میں حد زوس کرم کرن اول (تہ) چھیر ک چھیر ک
رحم کرن اول چھ۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾

طسّمۃ ①

طاہر (پاک) سمیع (دعا بولنے والی) مجید (بجہ بزرگی و بزرگوں کے لیے) چھ منیہ سوکڑے تانے کرنا (ول۔)

یہ منیہ سوکڑے آپ (چھ اکو مدال کتاب ہندی آپ۔ مؤمن قوم کے لیے) خاطر چھ اسی موسیٰ تہ فرعون ہندی اہل واقعات تریہ بروٹھ کتہ پران۔

فرعون اوس (پنس) ملکس مشرین تھنر تہ بجر تھیکان تہ بکر روزن وارا امن چھلہ کڑی بٹو۔ سہ اوس بیٹھان تھو مشر اکھ وڈور کمزور کرن۔ (تھیمہ پانچو ز) تھننن نیچون اوس کھش کران تہ تھننن کورن اوس زبند تھالان تہ سہ اوس یقینا فساد واندہ۔ تہ اسر اوس اراد کر تھو تہ زیم ٹوٹھ ملکس مشر کمزور زاتہ آتھو اسی، تھن پٹھہ کرو اسی اسان تہ تم بناوٹھ سردار تہ تم کروٹھ (سارنہ نمرن ہندی) وارث۔

بہیہ تھساو تھن ملکس مشر طاقت تہ فرعونس تہ تھانس تہ تھننن لشکران اوو تہ کینتھاسا بیسیک بہم تھن اوس۔

بہیہ اسی موسیٰ ہنر ماجہ کن ووجی کر تھنر زہتس (یعنی موسیٰ ہس) و وود۔ پتہ بیلیہ تریہ تھنہ (زوک) حقہ خطرہ باسی تہ سہ تراوی زین تہ دریاوس مشر تہ کھوڑی زہ تہ نہ ہنیر تہ کتہ پتہ کتہ ہند علم۔ اسی انون سہ تریہ کن واپس چھپتھ تہ سہ بناون رسولو مشر (اکھ رسول)۔ (ادکیاہ تہ موسیٰ ہنر ماجہ کڑ وچہ مطابق عمل تہ موسیٰ تروون دریاوس مشر)۔

اد تھل اسر پتہ سہ (موسیٰ) فرعون ہند تھانسانہ مشر اکھ بیسیک تھننن دراویہ زاکر وہ بہ سپد

تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ②
تَشَلُّوا عَلَيْكَ مِنْ لَبِئْسَ مَوْسَىٰ وَفِرْعَوْنَ
بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ③

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا
أَهْلَهُ أَشْيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ
يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ
أِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ④

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا
فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ
الْوَارِثِينَ ⑤

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي
فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمْ مِمَّا مَنَعَهُمْ
مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ ⑥

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ آلِ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ
فَإِذَا خَفِيَ عَلَيْهِ فَالْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَ
لَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۗ إِنَّا رَادُّوهُ
إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ⑦

فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ
عَدُوًّا وَحَزَنًا ۗ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَ

جُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ ①

سہ بہمن کیسے دشمن ثابت تہ تمک باعیت بنیو کہ
فرعون تہ امان تہ بہمن دونوں ہندک لشکر
اسی غلطی منتر ہینہ آہتی۔

وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قَرَّتْ عَيْنِي
لِيْ وَ لَكَ لَا تَقْتُلُوهُ بِ عَسَى اَنْ
يَنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذَهُ وَ كَدًا وَ هُمْ
لَا يَشْعُرُوْنَ ②

تہ فرعون ہند خاندان چہ (اکہ) زنانہ وڈن (بیرا شرا)
سید بیانہ خاطر تہ میانہ خاطر اچھن ہند شہیاد
موجب ۔ یہ مہ کر لیں قتل ۔ ممکن چھ تہ اکر
دوہ واناو یہ اسر قایدہ یا اسی بناوون یہ (پینا)
نیچو ۔ تہ بہمن اس نہ اصل حقیقت معلوم۔

وَ اَصْبَحَ فُؤَادُ اِمْرِ مُوسَى فِرْعَاوَانَ
كَادَتْ لَتُبَدِيْ بِه لَوْ اَنَّ رَبَّنَا عَلٰى
قَلْبِهَآ لَتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ③

تہ موسیٰ ہنتر ماجہ ہند دل گود (غمہ آہتہ) آزاد۔
اگر اسی تند دل مومن بناو تہ خاطر ڈراو ہون
تہ تہ ممکن اوں نہ سو کرے اسر و اچھ سارے
اصلیت نیچو۔

وَقَالَتْ لِأُخْتِهٖ قُصِيْهِ زَقَبُصْرَتْ بِه
عَنْ جُنُبٍ وَ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ④

تہ تمہ (یعنی موسیٰ ہنتر ماجہ) وڈن تہنتر (یعنی
موسیٰ ہنتر) بیسہ نہ تمس پتہ پتہ پتہ گزشتہ۔
اتی روز سوس دوہ پتہ نظر تہ تم (یعنی
فرعون ہندک لاکہ) اسی بے خبر۔

وَ حَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ
فَقَالَتْ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِ
يَكْفُلُوْنَهٖ لَكُمْ وَ هُمْ لَهٗ نَاصِحُوْنَ ⑤

تہ اسر کر تہ (یعنی موسیٰ ہس) پتہ اسر ہنتر
دوہ ماجہ حرام۔ اتی وڈن تمہ (یعنی موسیٰ ہنتر
بیسہ) نہ اچھا کیا یہ و لو و توہہ اکر تہس گہ
واہن ہند پے ہم اسر تہنتر با پتہ رہیں تہ تم
سیدن اکر ہندک رت کاچھن و اہل ثنابت۔

فَرَدَدْنَاهُ اِلٰى اٰمِهٖ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَآ وَ لَا
تَحْزَنَ وَ لَتَعْلَمَنَّ اَنَّ وَّ عَدَا اللّٰهِ حَقٌّ
وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ⑥

تہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ
زن تہ ہنتر اچھ شہن تہ سو بر تہ علم بیہ زانہ
نہ اللہ (تعالیٰ) سہد و عدہ چہ پتہ سیدتہ روزان۔
اما پوز (منکر و منتر) چھنہ واریاہ زانان۔

وَ لَقَا بَلْعًا اَشَدُّهٗ وَ اَشْتَوٰى اَتَيْنَهٗ
حُكْمًا وَ عِلْمًا وَ كَذٰلِكَ نَجْزِي
الْمُحْسِنِيْنَ ⑦

پتہ نیلہ سہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ
تحدس اخلاص پتہ (سید مقبولی سان قاپم) تہ
اسر بخش تہ حکم تہ علم تہ اسی چہ محسن میتھ
بدلہ ووان روزان۔

وَ دَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى حِيْنٍ غَفْلَةٍ

تہ سہ آو (اکہ دوہہ) شہرس منتر تہتہ وقتہ نیلہ لاکہ

مِنَ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ
يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شَيْعَتِهِ وَهَذَا
مِنَ عَدُوِّهِ فَاسْتَعَاثَهُ الَّذِي مِنْ
شَيْعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ
فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ هَذَا قَالَ
هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ
مُضِلٌّ مُبِينٌ ﴿۵۰﴾

غفلتہ کس حالت میں موسیٰ نے تم کو دیکھا تھا (شہر میں)
منزل پر انسان اسی پانچ واڈی شروان اکھ اور تہند
تو کوک تہ بیا کہ اوس تہندو دشمنو منزل میں تہند
جہازہ منزل اوس، تم مونگ تہندو تہندو تہندو
خوف میں تہندو دشمنو منزل اوس۔ اتھ پیٹھ لے
موسیٰ ہن تہندو (دشمنس) اکھ مکالہ تہندو (مکالہ)
سوتی گوو سہ از جان۔ پیٹھ وون موسیٰ ہن یہ سوئے
وارکوات سید شیطانی عملہ سوتی۔ سہ (شیطان) پٹھ
(موتہ سہند) دشمن تہندو (تہندو سہند چہ و تہندو سہند)
ڈالہن وول۔

قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي
فَعَفَرَهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ
الرَّحِيمُ ﴿۵۱﴾

پیٹھ کوز موسیٰ ہن دھارے اے میانہ پروردگار!
میں تروو پین زو تکلیس منزل۔ لہذا تہندو تہندو
میانہ اتھ کارس پیٹھ پرورد۔ اتی تروو تہندو تہندو
کارس پیٹھ پرورد۔ سہ چہ سہندو بخش وول (تہندو)
پہچری پہچری رگم کرن وول۔

قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ
أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ﴿۵۲﴾

تم (موسیٰ ہن) وون، اے میانہ پروردگار! نکلیا ز
شریہ چھتہ میں پیٹھ انعام کوزرت اوکو بیہ بیہ تہندو
زانہہ کانسہ مجرم سہند مددگار۔

فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ
فَإِذَا الَّذِي اِسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ
يَسْتَصْرِحُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ
لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ ﴿۵۳﴾

تہندو پیٹھ دراوسہ شہر میں صبح کر وقتہ دشمن کھولن
تہندو اوکن یوکن وچھان تہندو کیا چہ وچھان، تہندو رات
تہندو مدد اوس مونگتہ سہ چہ بیہ تہندو مدد
خاطر او وون۔ اتھ پیٹھ وون تہندو موسیٰ ہن،
تہندو چھکھ یقینا نکا کار پانگو اکھ گراہ۔

فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي
هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَمْوَسَىٰ أَنْتَ يَدُ
أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا
بِالْأَمْسِ إِنَّ نُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

ادو۔ بیلہ تم ارادہ کوز تہندو شخصس رٹھ سے
یس تہندو دونوں ہندو دشمن اوس تہندو (شخصس)
وونس تہندو اے موسیٰ! کیا تہندو چھکھا بیہندھان تہندو
میں تہندو کرکھ تہندو پانگو تہندو راتھ اکھ شخصس

لہ یعنی پتہن کرن منزل اوس شونگتہ آرام کرن۔

لہ یعنی بنی اسرائیل شخصس زون غلطی سوتی ز موسیٰ ہن ماہیوتس بہ تہندو قبل کرن۔

جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ
مِنَ الْمُضْلِحِينَ ﴿۱۰﴾

قبل کرایہ ؟ تیرے چمکے صرف یہ بیٹھان نہ
کنزور دباؤ کہہ ٹکس منز تہ اصلاح کرن والہن
منز شامل سیدن چھتہ چرن مطلب -

وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ
يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ
يَأْتِمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ
إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ﴿۱۱﴾

بیہ آو تہہ وقتہ کہ شخص شہر کیر دور کیر حصہ پیٹھ
دوان دوان تہ ووزن اسے موسیٰ ! (ٹنگو) رئیس
چہ مشور کران نہ تریہ کرنے قبل - لہذا (میان)
کتھ بوز تہ (تیبہ شہر منز نیر بہ چھس چانو
رت کاچھن والہو منز -

فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ
رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۱۲﴾

اڊ درو سہ تہہ شہر منز، کھوڑی کھوڑی تہ ہشاری
سان اوس سہ اوکھ یوکن وچھان پکان - تہہ
وقتہ کور تہہ دعا تہ ووزن، اسے میانہ پرور دگار!
میںہ دروالم توہہ ہشہ نجات -

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تَلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ
رَبِّيَ أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿۱۳﴾
وَلَمَّا دَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ
أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ لَهُ وَجَدَ مِنْ
دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا
خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ
يُضِرَّ الرِّعَاءَ وَأَبُونَا شَيْخٌ
كَبِيرٌ ﴿۱۴﴾

تہ ییلہ سہ مدین شہر کس ناگس پیٹھ دوت تہ تہہ
وچھ تہہ پیٹھ لوکن منز کہہ جماعت استاد ریم
(پسنہن چارواہن) تریش چاوان اوس تہ تہہن
نش پتھ یہن ڈولتہ وچھن وودنہ نہ زنا تہہم
پسنہن چارواہن اوکپور کڈان آسہ - موسیٰ ہن
وون تہہن، توہہ دونوئی کوسہ اہم کام چھو کر نہی
تہہ پیٹھ وولس دونوہے وہے زنالو - اسی ہنیکو
نہ تریش چاوتہ یوتانی باقی پہلی نیرن نہ تہہن
مول چھ سبھا بڑہ (اڊ کتہ ہنیک تہ اسہ سوتہ تہہ)
لہذا چاوتہ تہہن دونوئی ہند خاٹہ (تہہندر چارواہن)
تریش - پتہ درو اگس تہہا یہہس کن - پتہ ووزن
اسے میانہ پرور دگار! پسنہن چاوتہ منز یہ کینترھا
تہہ میںہ پیٹھ نازل کر کہ بہ چھس تہیک محتاج -

فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ
رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ
فَقِيرٌ ﴿۱۵﴾

تہہ پتہ آہہ تہہ دونوہے وہے کولہ منز کہ کور
پکان تہہ سوس منہ چھان تہہ تہہ وولس - میون
مول چھے تریہ آوکران تہہہ نہ تریہ نہ کتہ

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَىٰ
اسْتِخْيَاءٍ رَّكَعَتْ إِنَّ رَبِّي يَدْغُوكَ
لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا

جَاءَهُ وَقَضَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ ۖ قَالَ
لَا تَخَفْ ۖ نَتَجَاوَزُ مِنَ الْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ ﴿۳۱﴾

(چارواہین) تریش چا و پوچھ اُجرت دسی۔ او بیلیہ
سہ تمس (یعنے کورن ہندس ماس) بنش آو
تہ تہس بنش کورن (پین) سورسے رودلا بیان
تہ تمز وونس، مہ کھوش، تریہ پچھتہ وورڈ ظالم
قومہ بنشہ نجات لوہمت۔

قَالَتْ اخذْهُمَا يَا بَتِ اشْتَا جِزُهُ زَانٍ
خَيْرٍ مِّنْ اشْتَا جِزَتِ الْقَوِيِّ الْاَمَامِينِ ﴿۳۲﴾

اتھ پیٹھ وون تمو (دوہوے وپے کورلو) منہز
اکہ، اے میاں بہر! یہ تھون تہ موزم تہ
کیا نہ پیم تہ لوکر تھو کہہ تمو منہز بہتر آسہ سے
شخص لیس مغبوط تہ آسہ تہ امانت وار تہ آسہ۔

قَالَ رَبِّي اُرِيدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتِي
هَاتَيْنِ عَلٰى اَنْ تَاْجُرْنِيْ نَمْرِيْ حَجِيْجٍ ۚ
فَاِنْ اَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۚ
وَمَا اُرِيدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِيْ
اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۳۳﴾

اتی وون تمو (اے موسیٰ) بہ چیس بیہرہان نہ
بہ کرے پسنبو پیمو دولو کورلو منہز اُس سستی تریہ
نکاح، اتھ شرطس پیٹھ تہ تہ کرکہ اٹھن وورکین
تام میاں خدمت۔ او اگر تہ (اٹھو بدلہ) داہ
(ووری) و تھ پین وعدہ مکمل کرکہ تہ یہ آسہ پون
احسان تہ بہ چیس نہ بیہرہان تریہ پیٹھ کا نہہ
بار تراون۔ اگر اللہ (تعالے) ہن یوزھہ تہ تہ
بکہ مینہ نیک ورتا و کرن والہو منہز۔

قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِيْ وَ بَيْنَكَ ۙ اَيُّمَا
الْاَجَابَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ۗ
وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿۳۴﴾

(اتھ پیٹھ) وون (یعنے موسیٰ ہن) یہ کتھ گئے مینہ
تہ تریہ درمیان پونہہ۔ بکو وونوے وپے ملو منہز
یس اکہ) تہ بہ پوزہ پیکہ کرکہ مینہ پیٹھ آسہ نہ کا نہہ
الزام۔ تہ یوہہ کتھ اُس کران پیم۔ اللہ (تعالے) کتھ
تتھ پیٹھ گواہ۔

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْاَجَلَ وَسَارَ
بِاهِلِهِ اَنْسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا ۗ
قَالَ لَآ هٰلِهٖ اِمْكُثُوْا اِنِّيْ اَنْشُتُ نَارًا
لَعَلِّيْ اَتِيْكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ جَذْوَةٍ
مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ﴿۳۵﴾

بیلیہ موسیٰ ہن گند نہ آمت مدت پوزہ کور تہ پینہز
گر باہر ہتھ دلو تہ تمز وچھ کوہ طور کوزی اکہ نار
(تہ) پسنبین باشن وون۔ توہی روزو مینو ہے،
مینہ وچھ اکہ نار، شاید بہر اتہ تہ پیٹھ تہ بندہ خاطر
دعزور) کا نہہ خبر یا انہ کا نہہ نار تہ تہ گلاہ
نہ توہی سہ پیٹھ وشنیرا کرہ۔

فَلَمَّا اَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ
الْاَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ

پتہ بیلیہ سہ تہ (داس) بنش ووت۔ تہ برکترناک
جاہ ہند اکہ برکترناک حصہ کہہ اکہ کتھ بنشہ آو

الشَّجَرَةَ أَنْ يُمُوسَىٰ رِيبِي أَنَا اللَّهُ رَبُّ
الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ
كَأَنَّهُهَا جَانٌّ وَلِي مُذِيرًا ۖ وَلَمْ
يُعَقِّبْ، يُمُوسَىٰ أَقْبَلَ وَلَا تَخَفْ
رَأَيْتَكَ مِنَ الْآمِنِينَ ﴿٧﴾

تس نادو نہ، اے موسیٰ! یہ مجھ سے اللہ تعالیٰ
سارے عالمین ہند پروردگار۔

بسیہ یہ نہ، تیرا دن بین حاصہ پتھر ڈارتھ۔ اور نیلے
توڑ سے (عاصہ) سوسراے کران کوچھ زن تہ سواں
اکھ لوکٹ سرف۔ سہ تروال تھر پھرتھ تہ پتھ
کن پھرتھ ورن نہ نظر (اد آوتس ونہ) اے
موسیٰ! برٹھ پکھ تہ کھوڑ مہ، تہ چکھ سلاتی لین
والہو لکو اندر۔

أَسْلَكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرِيحَ بَيْضَاءَ
مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ۚ وَأَضْمَمَ إِلَيْكَ
جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذُنُوكَ
بُرْهَانٍ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ ۖ
مَلَأْنَاهُ مِنْهُمْ كَانُوا فٰسِقِينَ ﴿٨﴾

(بسیہ) پین اتھ تروان پنس ناس منز، سہ نیر
گنہ مرزہ وراڈ پریون تہ پتہ تر بلناون خوفہ
کر بامتہ (زور سان) ٹوتھ (پنٹس بدس ستی)
بیم نہ دلپہر چھینے (بیو دلپہو علو) بیم فرعونس
تہ تسدین دربارین کن چائس پروردگار ہند طرفہ
سوز نہ آمتہ چھینے۔ تہ کیا زہم چھ فرمانبردار کی تہ
نیرن واری لوکھ۔

قَالَ رَبِّ رَبِّي فَعَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ
أَنْ يُقْتَلُونِ ﴿٩﴾

(موسیٰ) ہن، وون، اے میانہ پروردگار! میں نے
فرعون ہند توہ منز اکھ شخصس قبل کوڑت۔ او کو
پنٹس ہر کھوڑان نہ تم گڑھی نہ میں قبل کرڈا
(تہ بھان پیغام بیہ نہ واتاوتہ)۔

وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا
فَأَرْسَلَهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ۚ إِنِّي
آخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿١٠﴾

تہ میون بوے ہارون چھ کتھ کرنس منز میانہ
کھوڑ جاو عتس کلام۔ لہذا سوزن سہ میں ستی مدگار
ہند حیشیت، میتھ زن سہ میون تصدیق کر۔ ہر
چھس کھوڑان نہ تم گڑھی نہ میں اپنا وڈ۔

قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ ۖ
نَجْعَلُ لَكُمَا لِكْمًا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُونَ
إِلَيْكُمَا ۖ بِآيٰتِنَا ۖ أَنْتُمَا وَ مَنِ
اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُونَ ﴿١١﴾

فرعونس (اللہ تعالیٰ) ہن، اسی کرو چائس باڈی ہند
دسو چاڈی تر مغبوط تہ توہہ دونی ہند مخاطبہ
کرو قبلی سامانہ پاو۔ او ہمکن نہ تم توہہ تام
واتھ۔ توہی دونوے تہ ہم توہہ دونی ہند تباہ
آسن سدن سانہو آیو ہند دسو غالب۔

اور نیلے موسیٰ سانی ٹا کا کر آیہ ہتھ او تہ فرعونہ
ہند لوکو وون۔ یہ تہ چھ اکھ فریب یس بناوتہ

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِآيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ
قَالُوا مَا هٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى ۖ وَمَا

سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿۵۰﴾

آمت پچھ۔ اسے پچھنے سے پہلے جن اجداد انش
پڑھ کتھ نہ نہیں بوز موش۔
تہ موشی ہن وون میون پروردگار چھ تس نہ ریا پو
زمان میں تہندہ طرفہ ہدایت اہر بیہ تس تہ سیمو
سند انجام رت آسہ۔ پزر چھ پیر نہ ظالم چھنہ
نہ نہیں کامیاب سپان۔

وَقَالَ مُوسَى رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ
بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ وَ مَنْ تَكُونُ لَهُ
عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ
الظَّالِمُونَ ﴿۵۱﴾

تہ فرعون وون۔ اے دربارو! میں تجھ پانس
ورای تہندہ کتنو معبود معلوم۔ لہذا اے مان!
میان خاطر زال میشر پیٹھ نار (یعنی سیر کوندر
لگناو) پتہ کر میان خاطر اکھ قلب تیار۔ شاید اتھ
پیٹھ کھتہ کرن ہر موشی سند خداے معلوم۔ تہ
ہر تہ چھن سہ اپز بارو منتر زمان۔
بیہ تمو تہ تہ تہندو لکھو تہ پیٹھ لکس منتر ناحقہ
تکس کام تہ خیال کوڑک نہ تم میں نہ اسے کن
چھہ تہہ اشہ۔

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأَ مَا
عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِي ۚ
فَأَوْقَذِنِي يَهَامُنْ عَلَى الطَّيِّبِ
فَأَجْعَلْ لِي صَرْحًا لَّحَيٍّ أَطَّلِعُ إِلَىٰ آلِهِ
مُوسَىٰ وَرَأْيِي لَا ظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿۵۲﴾

وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ
يَغْيِرُ الْحَقَّ وَ ظَنُّوْا أَنَّهُمْ لَآئِنَا لَا
يُزْجَعُونَ ﴿۵۳﴾

اڈرٹ اسے سہ تہ تمو ہندو شکر تہ تہ تم وڈ
سندرس منتر دارتھ الی وچتہ نہ ظالم ہند انجام
کیتھ سپڈ؟

فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي
الْيَمِّ ۚ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الظَّالِمِينَ ﴿۵۴﴾

بیہ آسی آسی تم (فرعون) سردار بناؤرتو ہم
اپنہ سرداری ہندس شمس منتر) لوکن جہنم
کن سل کران آسی تہ قیامتہ دوہر بیہ نہ تم
کتنو اتھ نوٹ کرنہ۔

وَجَعَلْنَاهُمْ آئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى التَّارِجِ
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴿۵۵﴾

بیہ یچہ تہ نیاس منتر تہ سوز اسے اتھ پیٹھ لعنت
تہ قیامتہ دوہر تہ آسن تم بد حال لاگو منتر۔

وَآتَبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ۚ
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴿۵۶﴾

بیہ بخشاو اسے موشی ہن کتاب اسے پتہ نہ
اسے آسی برونہم قوم ہاک کرے موش۔ تہ پتہ تعلیم
اس لوکن روحانی اچھ کاشش عطا کران بیہ اس
سہ ہدایت تہ رحمتک موجب (تہ) اسے باپتہ
(اس دہر آہتر) نہ تم رٹن نصیحت۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ
مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ
لِلنَّاسِ وَ هُدًى وَ رَحْمَةً لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ ﴿۵۷﴾

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْخَزْيَيْنِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿۱۵﴾

وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَابِتًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿۱۶﴾

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحِمَةً مِّنَ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۱۷﴾

وَلَوْ لَا أَن تُصِيبَهُمُ مُّصِيبَةٌ مِّمَّا قَدَّمْتِمْ آيَاتِهِمْ فَقُولُوا رَبَّنَا لَوْ لَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۸﴾

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْ لَا أُوْتِيَٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَٰ مُوسَىٰ أَوْ لَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَٰ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ۖ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا ۖ وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَفْرٍ وَّوَن ﴿۱۹﴾

بیسے اوسکھ نہ تہ (کوہ طور پر) مغربی طرف
 نیلے اسے موسیٰ ہس (پیغمبری ہنتر) کام توالہ کر یا بیہ
 تہ نہ اوسکھ تہ (تہ وقتہ) گواہن منتر اگہ گواہ۔
 دوڑ کوڑ اسے کڑی واریاہ قوم پاد۔ اور نیلے جس وائس
 زبیلے پہ (تہ جس گے پس نہ پیشگو بیہ مشتہ) تہ نہ
 اوسکھ تہ مدین والہن سستی تہ روزان، تہ جس بروٹھ
 کہہ بوز ناہ کہہ سانی نشانہ پرتھ۔ اما پوز رسول سوزن
 واپر چہ اسی۔

بیسے اوسکھ نہ تہ کوہ طور پر پاسہ۔ نیلے اسے (موسیٰ ہس)
 ناد کر یا۔ اما پوز پہ سورے کہہ نہ چہ چائس پروردگار
 ہند طرف رحمت۔ بیٹھ نزن تہ سہ قوم ہیشا کر ہن
 یکن ہش تہ بروٹھ کانہ ہشیا کرن دول اوس تہ
 آمت۔ بیٹھ نہ تم نصیحت رٹن۔

بیسے اگر یہ خیال آس رہے نہ نہ پسنبوا اعمال ہی کانہ
 مصیبت پیش پیشہ و ن تم، اسے سانہ پروردگار!
 تہ کیاز سوزتھ نہ اسے کن کانہ رسول بیٹھ زن
 اسی چائس این ہنتر پاروی کہ ہو تہ مؤمنو منتر
 ہن ہو۔ (نیلے شاید اسی سوزتھ نہ تہ رسول بناوتھ
 مگر کافرن پہلے اسی حجت قائم کرن ضروری)۔

پتہ نیلے جس سانہ طرف حق آو تہ تم وون
 اوس (یعنی محمد رسول اللہ ہس) کیاز بیچ نہ ترہ
 تعلیم پتہ موسیٰ ہس بیچ منتر اسی؟ کیا تمو
 اوس ناہ اسے بروٹھ موسیٰ ہنتر تعلیم ہند انکار
 کوزمت؟ تمو اوس وونمت نہ نیم دولوسے چہ
 بڑی بودریم کہ اگس مدد کران چہ اسی اوسکھ
 وونمت نہ اسی چہ بیو اندر پرتھ اگ ہند دعوہ کر

۱۵ یعنی نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بذریعہ وحی اطلالہ دہے اور نثر یہ پتہ پہا کہ عظیم الشان شریعت وول رسول یعنی
 محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مغز سوزتہ تہ موسیٰ علیہ السلام کڑیہ پیشگوئی پہن ہس تو اس بروٹھ کہ بیان۔
 (استثناء باب ۱۸)

مُسْكَر۔

تہران (اگر موسیٰ تہرانوں تہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے ہنر کتھ اپڑ پھیر تہ) ہرگاہ توہی پڑیا کر چھو تہ اللہ (تعالیٰ) ہس رشتہ انوکھ ترشہ کتاب یوسہ یمن دونی کتابن ہند رشتہ جہاد ہدیت دوان اسہ سیتھ زن ہر تہج پاروی کر۔

پتہ اگر تم تریہ کانہہ جواب دے تہ تیلہ زن تہ تم چھ صرف پنتین ٹاہشن ہنر پاروی کران۔ اڈ تہند کھوتہ جاد گراہ کس چھ یس اللہ (تعالیٰ) ہند ہدیت تڑوتھ ترچہنتھ پنہ نہا شہ پتہ پکان چھ۔ یقینا چھنہ اللہ (تعالیٰ) ظالم ٹوس کامیابی ہنر وتھ ہاولن۔

بیہ رودی اسی تہند خاطر پوتس پتہ وحی نازل کران سیتھ زن تم نفیحت لین۔

تم لڑکھ یمن اسہ سیمہ (قرآن) بروٹھ کتاب ڈر مہتر اُس، تم چھ اتھ (قرآنس) پیٹھ (اِس) منتر، ایمان تھوان۔

بیہ سیمہ (قرآن) یمن بروٹھ کتہ پرہ یوان چھ تہ تم چھ ونان اُس چھ اتھ پیٹھ ایمان انان، بیہ چھ سائس پروردگار ہند طرفہ برحق کلام۔ اسی اُس سیمہ وہ ہر بروٹھ مسلمان۔

یمن لوکن مپلہ تہند اجر تہند صہ کتہ رنہ بیہ لہ تہ تم چھ نیکی سستی بڑی ہند مقابلہ کران تہ یہ کینزھا اسہ یمن دیت مت چھ، تمی منتر چھ تم خرچ کران۔

بیہ (یہودیو منتر مسلمان سیدن والی سیدلہ) کانہہ قفول کتھ بوزان چھ تہ تمہ رشتہ چھ پتھ روزان تہ ونان چھ، اے کافرو! سانی اعمال چھ سانہ باپتہ تہ تہند اعمال چھ تہند باپتہ۔ تمہ ہر پیٹھ

قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۵۰﴾

فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِخَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنْ لَّا يَهْدِيَ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۵۱﴾

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۵۲﴾

الَّذِينَ اتَّبَعَتْهُمْ إِكْتِبَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿۵۳﴾

وَإِذْ آيَتُنَا عَلَيْهِمْ فَأَلَّوْا أَمْنَابَهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿۵۴﴾

أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَ يَذَرُونِ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ وَمَا كَرَرْنَا لَهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿۵۵﴾

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا إِنَّا عَمَّا لُنَا وَ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ رَسَلْنَا عَلَيْكُمْ لَّا نُبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴿۵۶﴾

لہ یعنی پتہ دنیاہس منتر تہ تہ پتہ دنیاہس منتر تہ۔

سیدنا سلامتی نازل (یعنی خدا کڑی لو تو بہ ایمان
نصیب)۔ اسی چھپتے چاہیں سب سے تعلق تھا وہاں پسند
کران۔

تو ہلکے نہ تھے ہدایت دتھ لیس تریہ تھوش کر ہی
مگر اللہ (تعالیٰ) سب سے بڑھتے تھے جس چھ ہدایت دلوں
تہ سہ چھ ہدایت لین والہن زبر پاتھو زماناں۔

بہ چھو تم وناں ہرگاہ اسی تمہ ہدایت پوری کرو
لیس تریہ پہلے نازل سیدنا چھ، تو پستہ منکھ منہ
یہو تھپتھ دتھ شہہ، (ڈرواں) کیا اسہ ڈرناہ اتہن
حفاظت تہ امہ وائس مقاس منتر جاے۔ یہ تھ
کن پر تھ قسکو مہو سارنہ یوان چھو یہ چھ سارہ
طرفہ بخشا پیش مگر تمہ منتر چھپتہ واریاہ زماناں۔

بہ واریاہ بستیہ چھپتہ پیمہ اسہ ہلاک کر ہم پستہ
روزی روزگار (چہ وٹوری)، کئی منکھری اسہ گامترہ
او (وچھتہ) ہم چھ بہنتر بستیہ یکن منتر تمہ پتہ
کونہو بیسو نہ لے۔ تہ اسی بنے یہ تہندک وارتہ۔

بہ چون پر روزگار یوتانی کنبہ سرکزی بستیہ منتر تھتہ
رسول سور نہ لیس تمہ برو تھ کنبہ سانی آسہ
پرتھ بوزناو (نوتانی) ہر کہ ہے نہ تمہ بستیہ ہنتر سو نبرہ
(یعنی پورہ نکلس) ہلاک کر تھ (تہ کیا ز یہ چھ نقصان
خلاف) تہ اسی چھپتہ زانہہ بستیہ ہلاک کران اسہ
واری ز تہندک روزن وار بن عالم۔

بہ یہ کینترھا تو بہ دتہ یوان چھ سہ تہ چھ صرف
نیہر وڈیہ ہر زنگی ہند سامانہ تہ امیک پارا و،
تہ یہ کینترھا اللہ (تعالیٰ) ہس ہنتر چھ سہ چھ
بہتر تہ باتے روزن وول۔ کیا تو ہی چھو نا عقلہ
کام، ہلان؟

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لَكِنَّ
اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَ هُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ ﴿۵۶﴾

وَ قَالُوا إِنْ تَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ
نُتَخَطَفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَمْ نُمَكِّنْ
لَهُمْ حَرَمًا أَمِنًا يُحِبِّي إِلَيْهِ
ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا
وَ لَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۵۷﴾

وَ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِيْبٍ بَطِرَتْ
مَوْحِشَتُهَا فَبِتِلْكَ مَسْجِدَهُمْ لَمْ
تُشْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيْلًا وَ
كُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴿۵۸﴾

وَ مَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى
حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَّسُولًا يَتْلُوا
عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَ مَا كُنَّا مُهْلِكِي
الْقُرَىٰ إِلَّا وَ أَهْلَهَا ظَلِمُونَ ﴿۵۹﴾

وَ مَا أَوْثَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّاعٌ
الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ زِينَتُهَا وَ مَا
عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَ أَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۶۰﴾

اَقْمَنَ وَءَعَدْنَهُ وَاَعْدًا حَسَنًا فَهَوَّ
لَا يَتِيمَ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيٰوةِ
الْذٰنِبِيْنَ ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنَ
الْمُخْضَرِيْنَ ﴿۱۶﴾

کیا سہ شخصیں نہیں آسہ رت (یعنی آخرت پر زندگی
بہتر کامیابی ہند) وہ کوزت آسہ تہ آسہ تہ
(یقیناً) لین وول تہ، سہ بیکیا تمس شخصہ ہندی
پاٹھو آسہ تہ نہیں آسہ صرف دنیاوی زندگی ہند
کیہنہ سامانہ دیت آسہ! پتہ آسہ سہ قیا مشر
دوہہ (خلایس روبرو پر شہ گار با پتہ) پیش کرنہ
یہنہ وول۔

وَاٰیٰتِ الْكُرٰنِ يُنَادِيهِمْ فَيَقُوْلُ اٰیْنَ
شُرَكَاءِی الَّذِیْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿۱۷﴾

بہہ (کرو یاد) یتیمہ دوہہ سہ (اللہ تعالیٰ بہن
ناد کر پتہ پر شہکھہ زمیانی تم شریک کرتے تھے
یہم تہندہ تفتورن بناوتھہ تفتادہ ہتہ آسہ تہ
یکم توہی میہ مقابلہ میبود شہراولن آسہ دوکھ۔

قَالَ الَّذِیْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا
هٰؤُلَاءِ الَّذِیْنَ اَغْوَيْنَاۤ اَغْوَيْنَهُمْ
كَمَا غَوَيْنَاۤ تَبَرَّأْنَا اِلَيْكَ مَا
كَاۤنُوْا اِلٰیۤنَا يَعْبُدُوْنَ ﴿۱۸﴾

(تمہ وز) بہن پتہ سانہ عذابہج خبر پڑ سپدے ہتہ
آسہ تہم وکن اسے سانہ پروردگار! یکم چہ تم لوکھ یکم
آسہ اول ہتہ آسہ، آسہ آسہ تم تھے پاٹھو اول
ہتہ پتہ پاٹھو آسہ پانہ اول ہتہ آسہ۔ وہ ذہج
آسہ تہیہ بروٹھ کتہ (تہو گمراہی ہتہ) لالعلق
(ہند اقرار) کران۔ تم لوکھ آسہ تہ سانی عبادت
گزار۔ (بلکہ آسہ پتہن خیالین پتہ پکان)۔

وَقِيْلَ اِذْ عٰوَاۤشُرَكَاءِ كُمْ فَدَعَوْهُمْ
فَلَمْ يَسْتَجِیْبُوْا لَهُمْ وَاٰۤا الْعَذٰبَ
لَوْ اٰتٰهُمْ كَاۤنُوْا يَهْتَدُوْنَ ﴿۱۹﴾

بہہ پتہ و تہ توہی کرو پتہن شریکین آلو، آتی
کران تم بہن آلو مگر تم دن نہ تہن جواب،
تہ (مشرک) وچین مقرر کرنہ آمت عذاب۔
کیا رت گڑھ ہے اگر تم ہدایت لہہ ہن۔
بہہ سہ وہہ تہ کرو یاد بیلہ خدا بہن آلو کرتہ
و نہکھ توہہ کیا اوس و رسولن (ہندس و غلس)
جواب دیت مت؟

وَاٰیٰتِ الْكُرٰنِ يُنَادِيهِمْ فَيَقُوْلُ مَا ذٰ
اٰجَبْتُمْ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۲۰﴾

اد تہ دوہہ گڑھن بہن سارے اولہد مشتہ
تہ تم بہن تہ اکھ اکس کانہہ سوال کرتہ۔
لہذا یس کانہہ توہہ کرتہ ایمان انہ تہ متاسب حال
عمل کر جلدہے ماسپد سہ باسراد لوکن مشر
شامل۔

فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْاٰتِبَاءُ يَوْمَ تَوٰ
فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُوْنَ ﴿۲۱﴾

فَاَمَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صٰلِحًا
فَعَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ ﴿۲۲﴾

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَلَّى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۱۱﴾

تو چون پروردگار بہ سبزهان چھ تہ چھ پاد کران۔
تہ یس سبزهان چھ تس چھ زارتہ نیوان۔ یمن
چھتہ اتھ معاملس مفر کاٹہہ اختیار جاہل۔
اللہ (تعالیٰ) چھ پاک تہ بہنتر و بشکر برتر و
کھو رتہ چھ بالا۔

وَرَبُّكَ يَخْلَعُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿۱۲﴾

تو چون پروردگار چھ بتہ زانان یہ تم پینین
و یمن مفر ترور تھاوان چھ تہ بتہ یہ تم ظاہر
کران چھ۔

ذَٰهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ ۚ وَ لَهُ الْحُكْمُ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۱۳﴾

حقیقت چھ یہ ز اللہ (تعالیٰ) ہس ورا ی چھتہ
کوتہر مسبود۔ گوڑ تہ اوس سے تعریف حقار تہ
آخر تس مفر تہ آسہ سے تعریف حقار۔ سار
بادشاہت چھ تہ سہر سہ اتھس مفر تہ
توہر سار سہ آسہ و تسو کن پھرتہ گزہن۔
تر ون (یمن) مینہ و نو تہ سہی ز اگر اللہ (تعالیٰ)
تہندہ خاطر قیام مفر ہنس دوہس تام رات ز پھرو
تہ اللہ (تعالیٰ) ہس ورا ی کس بیاکھ مسبود چھ
یس توہر نش کاش ہتہ پیہ؟ کیا توہی چھونا
بوزان؟

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْآيِلَ سَزَمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَمْ لَا تَسْمَعُونَ ﴿۱۴﴾

تر ون ، مینہ و نو تہ سہی تر ہراہ اللہ (تعالیٰ)
تہندہ موکھ دوہس ، قیام مفر ہنس دوہس تام ز پھرو
تہ اللہ (تعالیٰ) ہس ورا ی کس ہو مسبود چھ یس
توہر نش رات ہتہ پیہ ہتہ مفر توہی سکون ہو۔
کیا توہی چھونا و چھان؟

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَزَمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَمْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿۱۵﴾

تہ یہ چھتہ تہنر رحمت ز تہو چھ تہندہ ہتہ رات
تہ دوہہ بناوکی ہتی ز ہتہ (درا) مفر کر و (توہی)
سکون جاہل۔ بیہ (دوہس مفر) ترھاٹرو توہی
تہندہ فہل۔ ہتہ زن توہی شکر گزار ہو۔

وَمِنْ ذَخْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ الْآيِلَ ۚ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَاللَّكُمُ تَشْكُرُونَ ﴿۱۶﴾

بیہ ہتہ دوہہ سہ ہتن ناد ہتہ تہ ونہ ز
کتہ چھو تم میاڈ خیالی شریک یمن توہی
(معبود) خیال کران آسہ و؟

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿۱۷﴾

وَكَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا
فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا
أَنَّ الْحَقَّ يَلِيهِمْ وَأَصْلَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا
يَفْتَرُونَ ﴿٥١﴾

بہ پرچھ کر اُمّتہ منبر انو اُسرا کھ گواہ کڈ تھہ پتہ
دلو، پتہ ڈیل ایلو۔ اڈ زمان تم ز پلور پلور
حق چھ اللہ (تعالے) ہسے بش تہ تہند سورس
اپز لائن پیہ جس بش راو داوہ۔

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى
عَلَيْهِمْ سَاءَ مَا يَكْتُمُونَ مَا إِنَّ
مَفَاتِحَهُ لَتَنُودًا بِالْعُصْبَةِ أُولِي
الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٥٢﴾

قارون اوس (در ایل) مہسن ہند قومہ منبر
مگر سہ گوو تم بے جلوب نلمس پیٹھ تیار تہا
اُس تس تہی خزانہ دتی ہتی، نہ مین ہنز کنگز
اُس طاقت ور بھاڑ ہند خاطر تہ تملیہ مشیل
آسہ۔ (یادکر) میلہ تہ ہند قوم تس دنون نہ
(یوت) مہ آس تھکان۔ اللہ (تعالے) چھنہ
یقینا تھکن والین پسند کران۔

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ
وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
أَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ
وَلَا تَبْغِ
الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ ﴿٥٣﴾

تہ پے کیشہا تریہ اللہ (تعالے) ہن دیت مت
پتے۔ تمہ سوتی ترھا ہن آخرتہ چہ زندگی ہند
مگر۔ تہ دنیاوی زندگی منبر یس بوگ تریہ میلوت
چھتہ سوتہ مہ مشراو (اُس پھس نہ تریہ اُس جس
تمام دنی ہجہ آسائیتہ ورتاوتہ ہنہ تھاک کران) تہ
چھہ پٹھو اللہ (تعالے) ہن تریہ پیٹھ احسان کور
چھہ تہ کر لوکن پیٹھ احسان تہ نلمس منبر فساد
تیدراو پچ کوشش مہ کر۔ یقینا اللہ (تعالے) چھنہ
فسادین پسند کران۔

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي
أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ
مَنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ
مِنْهُ
قُوَّةً وَ أَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْئَلُ
عَنْ
ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٤﴾

تمو (قارون) دنون یہ سورس تہہ چھہ مینہ
اگر تھہ علمہ کر باعتہ میلوت لیس صرف مینہ
حاصل چھہ سہ اوس ناہ زمانا نہ تس بروٹھ
آسہ اللہ (تعالے) ہن واریاہ پیرہ ہلاک کر
منبر پیرہ تہند کھوتہ ساد طاقتور تہ تہند کھوتہ
جاو مالدار آسہ۔ تہ مجرمین (میلہ عذاب دینہ
یوان چھہ تہ) تہندین گوناہن متعلق چھنہ پرتہ
تھار کر نہ یوان۔

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ
الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

(دونا سببوز) سہ دراو پشمن قومس بروٹھ کن
مین پارو (یعنی پتہ ذاتی محافظ) ہتھ اتھ پیٹھ

دُونِ تَمُو لَوْكَ بِكُمْ دُنْيَاهُ جِبْرَ زَنْدِغِي هُنْدِ سَامَانِ بِسِيْرَهَانِ
 اُسے ، کیا جان گیو ہر گاہ اسے تہ تی کینترھا میلہ
 سے یہ قارونس دینہ آمت چھہ ۔ تس ہے چھہ
 (دوڑیہک) واریاہ بڑو حصہ میولمت ۔

تہ یمن لوکن علم دینہ آمت اوس ، تمو دُونِ
 توہر گزہر نو وارانہ ، اللہ (تعالے) ہند طرفہ
 میلن دول جزا چھہ مؤمن سندر خاطر تہ ایمانہ کر
 حالہ مطابق عمل کرن والد سندر خاطر سچھا رت
 آسان تہ یہ (جزا) پھینہ صرف صبر کرن واجہز
 جماعتہ لبان ۔

اد کور اسے تہ تسند قبیلہ مکرین کامین
 مغز گہر تہ کانہہ جماعت درایہ نہ ہر تھہ یوسہ اللہ
 (تعالے) ہس وارانہ تس مدد کرے ، تہ گتہ تدبیر
 سدیو ہیکہ سہ (سپنس و شمنس رتس) بچتھہ ۔

بہہ تم لوکہ ہم بہو تام تہنہن مقاس پیٹھ
 آسنگ تمنا کران اسی ، لگی و تہرہ ہلاکت اُسے نے
 ثریہ پیٹھہ ۔ یقینا چھہ اللہ (تعالے) ہے اُس پنہو
 بندو منہر نیکی سندر خاطر ہیرھان چھہ رزقس
 مغز چھس و فوری دولان تہ یہی سندر خاطر ہیرھان
 چھہ شعلی چھس کران ۔ ہر گاہ اسے پیٹھ اللہ (تعالے)

ہن احسان اسے نہ کورمت ۔ اد اسے تہ
 کرے مصیبتن مغز غیر ۔ ثریہ پیٹھ اُس ہلاکت
 دکتہ چھینہ یہہ نہ کافر چھینہ نہ ہینے کامیاب
 سیدان ۔

(پہ یوسہ) اخرج زندیگ (چھینہ) اسی چمن یہ
 تم نے ہند خاطر مغضوب کران ۔ ہم نکلس منز
 ناجایز پیٹھوولی تہ فساد چھینہ ہیرھان تہ
 انجام چھہ تقویٰ کرن والہن ہندے (زبر) آسان ۔

یس شخصس ہار کسو فی عمل کر ۔ تس میلہ تمہ
 کھوتہ رت بدلہ تہ یس اکھ تپتھ عمل کر اد پیٹھ

لَبِيتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ مِنَّا
 لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ۝

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ
 ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَن آمَنَ وَ عَمِلَ
 صَالِحًا وَلَا يُلْقِيهَا إِلَّا الصَّادِقُونَ ۝

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا
 كَانَ لَهُ مِنْ فَئِةٍ يَتَصَدَّقُونَ ۝
 اللَّهُ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُتَصَدِّقِينَ ۝

وَأَصْحَابَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ
 بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَآتُ اللَّهَ
 يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ
 عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْ لَا أَن مَنَّ اللَّهُ
 عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيَكَآتُ لَا يُفْلِحُ
 الْكَافِرُونَ ۝

تِلْكَ الذَّارُ الْآخِرَةُ نَجَعَلَهَا لِلَّذِينَ
 لَا يُبْرِدُونَ عُلوًا فِي الْأَرْضِ وَلَا
 فِسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا
 وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ

عَمِلُوا الشَّيَاطِ اِلا مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿۵۷﴾

اعمال کرن والہن بیہ تہنہنہ پسنہ عملہ برابر جزا دینہ۔

اِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ
لَرَادُّكَ اِلَىٰ مَعَادٍ، قُلْ رَبِّي اَعْلَمُ مَنْ
جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلٰلٍ
مُّبِينٍ ﴿۵۸﴾

سہ خدا بیگو تریہ پیٹھ یہ قرآن فرض کورمت چھہ
چھہ پسنہ ذہک قسم کاوتھ وٹان نہ سہ انی تریہ
تتھ تقاس کن واپس پھیرتھ یتھ کن لاکھ پھیری
پھیری یوان چھہ۔ تہ ون میون پرور وگار چھہ
دس تہ) زبر پٹھ زمانان یس حدایتس پیٹھ
تھیم آسان چھہ۔ تہ دس تہ) یس ٹاکار ٹکرای
منز ہسبہ امت آسان چھہ۔

وَمَا كُنْتَ تَرْجُو اَنْ يُّلْقَىٰ اِلَيْكَ
الْكِتٰبُ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ فَلَا
تَكُوْنَنَّ ظٰهِيْرًا لِّلْكَافِرِيْنَ ﴿۵۹﴾

بیہ تہ اوسکھ نہ (کاتبہ) وومید تھاوان نہ تریہ
پٹھ پیہ اکھ مکمل کتاب نازل کرنہ۔ مگر چائس
پرور وگار ہند طرفہ سپز چھہ کتھ رحمتہ کر رنگہ۔
او کوز تہ بوز نہ تہ تہ شہے کافرن ہند مدگار۔


وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ اٰیٰتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ
اُنزِلَتْ اِلَيْكَ وَاذْعُ اِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا
تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿۶۰﴾

بیہ پتہ تریہ کاتبہ شہے ٹھاک کرن وول بنی امہ
پتہ نہ اللہ (تعالیٰ) ہند آہ، آپہ تریہ پیٹھ
نازل کرنہ تہ تہ و پسنس پرور وگار س کن
(لوکن) دعوت تہ مشر کن منز مہ سپد شابل۔

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا اِلٰهَ
اِلَّا هُوَ فَتَدْعُ كُلُّ شَيْءٍ هٰٓئِلًا اِلَّا وَجْهَهُ
لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿۶۱﴾

بیہ (اے مخاطب) اللہ (تعالیٰ) ہس وراہی
مہ کر کاتبہ معبودس آلو۔ تس وراہی چھہ کاتبہ
معبود۔ پر پتھ اکھ چیز چھہ ہاک سدن وول، تہ
وراہی یتھ کن تسد (یعنی اللہ تعالیٰ سدا توجہ
آسہ۔ حکم چھہ تہ ہند سہ اتھس منز۔ تہ
توہ ساری بیو تسو کن واپس پھیرتھ نہہ۔

لہ یعنی عنقریب بیہ مک معظم چائس تبھس معز تہ تہ حرکتھاکہ توت فاتحہ رنگس منز۔



سورۃ عنكبوت، یہ سورہ چھ کی تہ اسم اللہ پہ چھ آیتہ سنتہ آیتہ بیہ چھس سنتہ رکوع۔

(یہ چھس) اللہ (تعالیٰ) سُنَدِ نَاوِ ہوتہ پیران (یس
 حہر رُوسِ کرمِ کرنِ وولِ دتہ، پھیڑی پھیڑی رُومِ
 کرنِ وولِ چھ۔
 یہ اللہ (تعالیٰ) چھس سارِ وہے کھوتہ جسدِ
 زانِ وول۔

کیا (سیمبہ زمانہ کو) لاکھ چھا پہ زونمتِ نر تہند
 تیتے وَوَنِ نر اسر چھ ایمانِ اُونمتِ (اسر سہٹھا)؛
 تہ تم بین تراونہ تہ تم بین نہ آزماونہ؛
 حالانکہ ہم (لاکھ) بہنِ بروٹھ گڈے موتی چھ تم
 اُسو اسر آزماو موتی (تہ وول کر سٹی)
 توے کر اللہ (تعالیٰ) ظاہرے بہنِ تہ یو پوز
 وول تہ تم تہ یو ایز وول۔

ہم لاکھ ہدیہ کران چھ کیا تم چھا خیال کران
 نہ تم گزھن سارہ سزارہ تہلہ بچھتہ؟ سہٹھا
 ناکارہ چھ سہ فاصلہ یس تم کران چھ۔

یس شخصس اللہ (تعالیٰ) ہند ملا تارنج وومید
 تھوان چھ۔ (تس گزھ پے آسن نہ) اللہ (تعالیٰ)
 سُنَدِ مقرر کورمتِ وقتِ چھ ضرور بینہ وول تہ
 سہ چھ سہٹھا بوزنِ وول (تہ) سہٹھا زاننِ وول۔

بیہ یس شخصس خلیہ (ہندِ خاطر) کوشش کران
 چھ دراصل چھ سہ پسندِ نروِ خاطرے کوشش
 کران۔ اللہ (تعالیٰ) چھ سارِ وہے جہانوشہ
 پے نیاز (تہ جہندِ عبادتکِ محتاجِ بچھنہ)۔

بیہ یو لوکو ایمانِ افزن تہ اپنا تہ مطابق کر تموعلمہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①

الْمَلِكِ ①

أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ
 يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ②

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
 فَلِيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا
 وَلِيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ ③

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ
 أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ④

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنْ أَجَلَ
 اللَّهُ لَكَ آتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ⑤

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ
 إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ⑥

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

لُكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَ
لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿۵﴾

وَ وَصَيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُشْنًا
وَ إِنْ جَاهَكَ لِيُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ
بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِيَّايَ مَرْجِعُكُمْ
فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۵﴾

اُسی کرو تہہنتر بیدہ تمونشہ دور تہ بیہ کامہ
تم کران اُسی تمون مطابق بیس بہترین جزا تمون
مہاہتہ ہیکان آسہ۔ سہ دہو اُسی تمون۔

بیہ چہہ اسہ انسانس پسنس ماس ماجہ سوتو رت
سلوک کرناک حکم دیت مت تہ (دوہمت چہہ
نہ) ہرگاہ تم دونوںے تریہ سوتو اتہ کتہ منز بکت
کران نہ تہ مہراون میون کا نہہہ شریک۔ بیہ لزن
تریہ چہہ نہ تمیک کا نہہہ علم، نہ کرک نہ نہ اتہ
کتہ منز) تمون دونوںی ہنتر فرما نہر داری تکلیاز
توہہ سارنہ چہو بیہ کن واپس پھیر تہہ یں تہ
ہو کروو تہہنتر علمہ (ہنتر نیکی بڈی) نشتہ توہہ
خبردار۔

وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴿۶﴾

بیہ میو لوکو ایمان اوہمت چہہ تہ تمہ مطابق چہہ
تہو عمل تہ کر مہتر۔ اُسی کروکھ تم تہہن بدن
منز داخل۔

وَ مِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ
فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً
لِلنَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ
مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ
أَوْ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ
الْحٰمِلِينَ ﴿۶﴾

بیہ چہہ لوکو منہر (کینہہ تہہو تہہ آسان) ہم زمان
چہہ نہ اسہ چہہ اللہ (تعالے) ہس پیہہ ایمان
اوہمت۔ اد بیہ اللہ (تعالے) ہندہ تا طہر تمون
تکلیف دہر یوان چہہ، تم چہہ لوکن ہندہ طرفہ
آز مہیشہ اللہ (تعالے) ہندہ عذابکی پاتھو زمان
تہ ہرگاہ چاہن پور دگار ہندہ طرفہ املا دیوان
چہہ تہ تم چہہ ونان اُسی تہہ اُسی (دراہل)
توہہ سوتو۔ کیا دنیاہ جمان کہن لوکن ہندہ دن
منہر یہ کینہہ چہہ تہ چہہنا اللہ (تعالے)
رتی پاتھو زمان؟

وَ لَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ
لَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ﴿۷﴾

بیہ کر اللہ (تعالے) ضرور نظر ہر تمون تہہ بیہو
ایمان اون تہہ تمون تہہ ہم منافق چہہ۔

وَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا
اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَ لَنَحْمِلَ خَطِيئَتَكُمْ
وَ مَا هُمْ بِحٰمِلِينَ مِنْ خَطِيئَتِهِمْ

تہ کافر چہہ مؤہن ونان۔ توہہ پکو سارہ و تہہ اسہ
پیہہ، اُسی تہہو تہہندہ گوناہ۔ حلاکہ تہہندہ گوناہ
ہکن نہ تم نہر نہہہ) سبتہ۔ یقینا چہہ تم اپنہ کر۔

شَيْءٍ ؕ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿۵﴾

وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ ۚ وَلَيَسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۶﴾

پڑھو پھر یہ نہ تم تلخ پینے باری تہ، تو پسینو بارو ملاو تلخ میں لوکن ہندو باری تہ (میں تم دعا دون چھ) تہ تیا ہنر دو ہو پیہ تم اتھ اپڑ لگتہ تھونس پیٹھ سوال کرنہ۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا ۚ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿۷﴾

بیمہ اوس اسمہ نوح تسندس قومس کن سوز مت سہ رود ہن مفر پانترہ کم ساتس وریس نامہ او رڑی تم طوفان تہ تم اسی ظالم۔

فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ ۚ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿۸﴾

ادویت اسمہ تس تہ تسنر ناو مفر بہن والہن سبتو باجین نجات تہ اسمہ بنو یہ واقعہ تمام دنیا بہ کین لوکن ہند خاطر اکھ نشان۔

وَأَبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۹﴾

بیمہ (اوس اسمہ) ابراہیم (تہ رسول بناو تھ سوزمت) یلیہ تمو پسینس قومس و نیاو ز اللہ (تعالے) ہنر عبادت کرو تہ تسند تقویٰ پراوو اگر توہی زاناں چھو تہ یہ چھ تہند خاطر سہٹھارت۔

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۚ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۱۰﴾

توہی چھو اللہ (تعالے) ہس وراہی بن ہستین ہنر عبادت کران تہ (مذہب کہتہ) چھو اپڑ کہتہ بناوان)۔ تم (ہستین) میں ہنر توہی اللہ (تعالے) ہس وراہی عبادت کران چھو، تم ہیکہ تو تہ توہم رزق دتہ۔ اوکتی اللہ (تعالے) ہس ہنگو بن رزق تہ تسنرے عبادت کرو تہ تسند شکرانہ کرو۔ توہی پیو تسو کن والپس چھو تہ تہ۔ اگر توہی میاکی کہتہ اپڑ تھہراوو تہ (یہ کاہنہ تو کہتا چھتہ) توہم براٹھو میو قومو تہ اسی (پینر رسول) اپڑ اوک ہتو تہ رسول ہنر نام چھینہ صرف واش کڈی کڈی (پیغام) واتناون آسان (زبردستی سان مانناون چھتہ آسان)۔

وَأَن تَكْفُرُوا فَقَدْ كَذَّبْتُمْ ۖ فَسَبِّحُوا بِحَمْدِ رَبِّكُمْ وَاسْتَمِعُوا لَهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَافِرُونَ ﴿۱۱﴾

وہی کہتہ چھتہ (پیغام) واتناون آسان (زبردستی سان مانناون چھتہ آسان)۔

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ
ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ
يَسِيرٌ ﴿۱۰﴾

کیا تم جیسا زمانہ از اللہ (تعالیٰ) کہتے پاؤ گے پھر دوبارہ
پاؤ آیش کو دیکھ لے شروع کران، پتہ چھ
اتھ پھیری پھیری (تہ پاؤ) کران کر تھان یہ
کام چھین اللہ (تعالیٰ) بند خاطر پوہ پاؤ
سہل۔

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا
كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ
يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۱﴾

تہ ون زمینہ مفر پھیرو (ژونونی طرفن) اد
وچھو اللہ (تعالیٰ) ہن کہتہ پاؤ مہس مخلوق تاج
پاؤ آیش شروع کر مہرتہ پتہ چھ اللہ (تعالیٰ)
سے بہن مرتہ پتہ دو بار زندہ کران لہ یقیناً
اللہ (تعالیٰ) چھ پر پتہ کتہ چیزس پیٹہ تادر۔
سہ یس سہر تھان چھ عذاب چھس دیوان تہ یس
پیٹہ سہر تھان چھ رگم چھس کران تہ تسو کن
بیونوہی واپس پھیرتھ اتہ۔

يُحَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن
يَشَاءُ ۚ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿۱۲﴾

بہ توہی، بیکیون تہ خداے تسہر مرضی جلاوت
مجبور کرتھ نہ زمینس منز تہ نہ آسانس منز تہ اللہ
(تعالیٰ) ہس وراہی نہ چھ کا تہ تہتہ دوست
نہ مددگار۔

وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا
فِي السَّمَاءِ وَلَا مَالِكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ
ذَلِكِ وَلَا نَصِيرٌ ﴿۱۳﴾

مہ تم لوکھ ہم اللہ (تعالیٰ) ہندہن نشان ہند
تہ تس سوتی ملاقات سپدک انکار کران چھ،
تم لوکھ چھ تھو ہم مینانہ رحمتہ نشہ ناووسید
گاہو چھ۔ تہ تھے چھ ہمیں کر لو تھ عذاب میلہ۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَ
لِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِن رَّحْمَتِي
وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۴﴾

امر پتہ تھو ہند (یعنے ابراہیم ہند) توک
جواب اوس نہ امر وراہی کہنی نہ تمو وزن یہ کران
قبیل یا پہ زالیون (اد) تمو دیت سہ نارس
مفر دار تھ) مگر اللہ (تعالیٰ) ہن۔ پجوو سہ
نارہ نشہ۔ اتھ مفر چھ بلا شک مومن توہ خاطر
بڑو نشان۔

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ
قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ
اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۱۵﴾

دوہن (یعنے ابراہیم) توہ چھو اللہ (تعالیٰ) ہس

وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ

أَوْ قَانَاءَ مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ
بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَ يَلْعَنُ بَعْضُكُمْ
بَعْضًا وَ مَا أُولَئِكَ إِلَّا لَكُمْ مِنْ
نُصْرَتِنَا ۖ

ورای پوتلین سستی تعلق قائم کرتے تھوڑے ہی
تہند یہ کار چھ، دُنیاوی زندگی مندرجہ میں مُشترک
سستی محبت جاہ کرنے خاطر۔ پتہ قیامت دوہر کر
تو ہر مندرجہ کیسٹن ہند انکار۔ تو تو ہر مندرجہ
شخص کیسٹن کیسٹن پتہ لعنت تو تہند ٹھکانا
چہدم۔ تو پیم توہی مددگار زمانہ چھوڑو
مندرجہ پتہ نہ کہہ تہندس مدرس۔

قَالَ لَهُ لَوْ طُردَ قَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ
إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْحَزِينُ الْحَكِيمُ ۖ

اسہ (القیامت) پتہ اذن لوطن تس پتہ ایمان۔ تو
دوین (ابراہیم) یہ تو چسپس پنس پروردگار
کن ہجرت کرتے مگر من وول یہ سہ چھ ہاشک
نکلب (تہ ہار حکمت وول۔

وَدَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَ
جَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ
وَآتَيْنَاهُ آجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَآتَيْنَاهُ
فِي الْآخِرَةِ لِمَنِ الصَّالِحِينَ ۖ

یہ ہجرت کردی اسہ تس اسحاق تو یعقوب تو
ذریعہ سستی کُ نبوت تو کتاب مخلص۔ یہ
اسہ تس دُنیاہس مندرجہ تمیک اجر تو آخر تس
مندرجہ پیسہ سہ نیک بدن مندرجہ قابل کرنے۔

وَلَوْ طُردَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَنَا تُؤَنُّونَ
الْفَاحِشَةَ رَمَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ
آخِرِ مِنَ الْعَالَمِينَ ۖ

یہ لوط تو (سوز اسہ رسول بناو تھ) بیلیہ زن تم
پس تس قومس وون نہ توہی چھو اکہ تر تھ ہدی کلان
یوہہ دُنیاہس مندرجہ برو تھ سانس کُ مندرجہ اس نہ

أَرَأَيْتُمْ لَتَأْتُونَ الرَّجَالَ وَ تَقَطَّعُونَ
السَّبِيلَ ۚ وَ تَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ
الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ
إِلَّا أَنْ قَالُوا أَتَيْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ
إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ ۖ

کیا توہی چھو (زنا نہ تراو تھ) مردن نش یوان
چھو ڈاکہ مار تھ و تہ تر مان لہ تہ پستین مجلس مندرجہ
چھو نازیبا کار کلان ہاتھ پتہ اوس نہ تم کو بند تو کم
جواب اسہ ورای کہنی تہ نہ تو وون اگر تہ پزارو
لوکو مندرجہ چھو تہ اللہ (تعالی) سند عذاب کر
اسہ پتہ نازل۔

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ
الْمُفْسِدِينَ ۖ

تھ پتہ وون لوطن، اسے میانہ پروردگار! مفید
قومس خلاف کر میون مدد۔

لہ یعنی اللہ تعالیٰ ہند حکم مطابق چہ میر ہجرت کر لے۔
لہ یعنی و تہ کو پون مسازن تہ تامل لوطن۔

تہ نیلہ سانی رسول ابراہیم بنش خوشخبر پہتہ آپہ
تہ ہنوزون اسی چکھہ بیٹہ ہستی ہندی لوکھ ہلاک
کرن وادی۔ تہ کیا نہ اکی روزن وادی چھ ظالم۔

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ
بِالْبَشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ
هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا
ظَالِمِينَ ﴿۳۶﴾

دوین ابراہیم (نیلہ سانی) ہستی (بستی) منز چھ لوط
تہ روزن، ہنوزون اسی چکھہ بیٹہ (یعنی ہستی
ہندی) روزن وادی زبر پانچو زانان۔ اسی دمو
تس (یعنی لوطس) تہ بیہ تہندن گر باثرن نجات
تسنہ آتہ وادی یوسہ پتہ روزن والہن منز
شابل سپد۔

قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ
بِمَنْ فِيهَا لَنَنْجِيَنَّكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا
أُمَّرَاتَهُ لَقَدْ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿۳۷﴾

اگر نیلہ سانی رسول لوطس بنش آپہ تہ تہند
باعثہ ووت تس دو کہ تہ تہند باعثہ سپد
تند دل تنگ تہ دتمو ہنوزون سم حالت وچھتہ
(ہنوزو چھ اتن والہو) وچھتہ کتہ (بیٹہ واجنہ)
کتہ ہند باعثہ مہ کھوتہ تہ پتہ کن کاتس
کتہ واقس پیٹہ تہ مہ کرائسوس اسی چھی تریہ
تہ چانہن گر باثرن نجات وادی چانہ آتہ
وادی یوسہ پتہ روزن والہن منز شابل سپد۔
اسی چھ بیٹہ ہستی منز روزن والہن پیٹہ تہند
تافرمانی کتہ عذاب نازل کرن وادی۔

وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيبًا
بِهِمْ ذُوقُوا لَهُمْ دَذْعًا وَ قَالُوا لَا
تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجِيُونَ
وَأَهْلَكَ إِلَّا أُمَّرَاتَكَ كَانَتْ مِنَ
الْغَابِرِينَ ﴿۳۸﴾

بیہ چھ اسر نیلہ ہستی ہند (واقعہ کو) باعثہ اگر
تاکہ ہجرتک ساہنہ عقلہ والہن لوکن کیت پتہ کن
ترو ورت۔

إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ
الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا
كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿۳۹﴾

بیہ مدنیس کن سلوز اسر تہند بوے شعیب
رسول بناوتہ۔ (نیلہ سہ آوتہ) ہنوزون، اسے
میانہ قومہ! اللہ (تعالیٰ) ہنوز عبادت کرو تہ
آخرتچہ زندگی ہند وقت تھاوو یاد۔ بیہ تھو
تسادو کار مہ کرو زکلس منز نیلہ تہند بو
کارو کتہ فساد۔

وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِثْلَهَا آيَةً لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ
لِيَعْقِلُوا ﴿۴۰﴾

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
يُجْزَوْنَ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿۴۱﴾

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثْمِينَ ﴿۱۰﴾

اتھ پیٹھ ایڑوں سے رتھو تہ اُک اہ اہ اہ تلوئی غلابن
کر رہن من تھپیٹھ۔ پیٹھ بکنی تم پستہن کرن منز
(تھسر سوتق) لاری لاری گئے۔

وَعَادَاةٌ تُمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ
مِنْ مَسْكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ
الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ
عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴿۱۱﴾

بیہ عاد تہ تہ تھمود تہ (رُڑی سانبہ طرفہ اُک اہ اہ
الہ تلوئی غلابن) تہ (اسے کہہ والہو) تو بہ
پیٹھ پیٹھ تہننن بستیہن ہند حال نونے بلہ۔
تہ شیطان ماوکرا تہنن تہننن اعمال ہر تہ کر تہ تہ تہ
(شیطان) ٹھکانا وک تہم (اللہ تعالیٰ ہننن) وتہ
ہننن۔ حالیکہ تہم اسی زبر پیاٹھو زانان۔

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ
وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ
فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا
سَائِقِينَ ﴿۱۲﴾

بیہ قارون تہ فرعون تہ هامان تہ (کرری اسہ غلابن
منز گرفتار) تہ موسیٰ اوس ہننن ہننن ٹھکانا کار ہننن
ہننن آمت۔ (مگر تو تہ مون نہ تہو بلکہ) تہو ہننن
ٹھکن منز کبرس کلام تہ (سانہ غلابہ ہننن) ہننن
نہ تہ ہننن۔

فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِمْ فَمِنْهُمْ
مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ
مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ
خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ
أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيظْلِمَهُمْ
وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۱۳﴾

اڈ اسہ روٹ تہو منز پر تہہ اہ تہننن گوتہ کبر
ہننن۔ تہ تہو منز اوس کانہہ تہہہ لیس پیٹھ اسہ
کنہ روڈ وول تہ کانہہ اوس تہہہ لیس کتہ
بدل وکھہ غلابن روٹ تہ کانہہ اوس تہہہ
ز سہ کز اسہ ٹھکن منز ڈیل تہ کانہہ اوس
تہہہ ز سہ ہننن نوو اسہ آس۔ تہ اللہ تعالیٰ
اوس نہ ہننن پیٹھ ٹھکن کرن وول بلکہ تہم اسی پانے
پستہنن زون پیٹھ ٹھکن کرن۔

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ
أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ عَلَى
إِثْحَاطٍ بَيْتِهَا وَإِنْ أَوَّهْنَ
الْبُيُوتَ لَبِيتُ الْعَنْكَبُوتِ مَرَّةً
وَكَا تَوَّأَبَعْلَمُونَ ﴿۱۴﴾

ہیو لوکو اللہ تعالیٰ تہو تہہہ بدل دوست بناو
تہننن حال چھہ زبر سہ ہننن ہننن (پستہ ہننن)
اہ گوتہ تہ ہننن۔ مگر گرو منز چھہ ساروہے
کھوتہ کزور گرو زبر سہ سہے آسان۔ (کیا رت
گننن) ہر گاہ ہننن لوکھ زانو ہننن۔

لہ کبر والی قریش سبیل ہننن تہہہ تہہہ شام اسی گرتھان تہ وتہ اسی عاد
تہ تھمود قومن ہننن ویران ہننن اچھو وچھان۔

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۲۹﴾

اللہ (تعالیٰ) چھ پرستہ تہہ چیزس زمانا یتھہ یم لوکھ تس ورآئی اوکران چھ، بیہ چھ سہ غالب (تہ) حکمتہ وول۔

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِنَضِرْ بِهَا لِلنَّاسِ ۚ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴿۳۰﴾

تہ یم چھ مثالیہ یم اسی لوکن ہند خاطر بیان کران چھ۔ امانوز عالمو ورآئی چھتہ رہن کاہنہ پستہ لوچھ گندان۔

خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۱﴾

اللہ (تعالیٰ) ہن چھ آسمان تہ زمین خاص مقصد خاطر پاد کرکری ہتی۔ اتھ مشر چھ مؤمن ہند خاطر اکھ بوڈ نشانہ۔

أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿۳۲﴾

تہ یم کتابہ (یعنی قرآن) مشر یہ کثیر ہاثریہ کن وحی کرن بیان چھ، سہ پر (بیہ بوزناو لوکھ پڑتھ) بیہ کر نماز (ہک ساری شرط ہتھ) ادا۔ بے شک نماز چھینہ سارو بے بد تہ نازیبا کھو ہتھ پتھ رٹان تہ اللہ (تعالیٰ) سندا چھ یقیناً بیو ساروے کامو کھوتہ (بوڈ۔ تہ اللہ (تعالیٰ) چھ تہندگی اعمال زمانا۔

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا ۚ وَأَنْزَلَ إِلَيْكُمُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ۚ وَاحِدٌ ۚ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۳۳﴾

بیہ اہل کتابن سستی مہ کرو زنیہ بحث مگر قصہ پایہ تہ مضبوط دلیل ہتھ۔ تمو لوکو ورآئی یم جن مشر ظلم کرن واڈ چھ (ہن ہیکو الزامی جواب دتھ) بیہ وونو جن ز یہ اسہ پیٹھ نازل سپدنت چھ اسی چھ تہہ پیٹھ تہ ایمان انان تہ یہ توہر پیٹھ نازل سپدنت چھ تہہ پیٹھ تہ (چھ ایمان انان) بیہ سون خدا تہ تہند خدا چھ اکے تہ اسی چھ تہندگی فرمانبردار۔

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمِنَ الْكٰفِرِينَ أَجْرًا ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِينَ ﴿۳۴﴾

بیہ یتھ پٹھو چھ اسہ تریہ پیٹھ پر کابل کتاب نازل کر مشر۔ لہذا تم لوکھ یمن اسہ یہ کتاب ڈر مشر چھینہ تم چھ اتھ پیٹھ ایمان انان تہ تمو لوکو مشر (یعنی اہل کتابو مشر تہ) چھ کینہ اتھ پیٹھ ایمان انان تہ صرف کافرے چھ سامنہن این ہند ضد سستی انکار کران۔

بیسے پیہر (قرآن) کہ نازل سپرہ بروٹھ اوسکھ تہ
 تر کہنہ کتاب پران نہ اوسکھ لوکھ بوزناوان تہ
 نہ اوسر ہن سمہ پینہ رچینہ اتھ سرتی بیکھان
 ہرگاہ (ترتھ کتھ) آسہ ہے تیلہ پیہر ہن اپراون
 واد شاکس منر۔

مگر یہ (قرآن) تہ چھ ٹاکاہ نشانہ ہن لوکن
 ہندرن دن منرین علم دنہ امت چھ تہ سامن
 نشان ہند چھنہ ظالمو وراہی کانہہ تہ انکار کران۔

بیسے چھرم زمان نہ کیازمے تہ تہنہس پروردگار
 ہند طرفہ تس پیٹھ کینہ نشانہ نازل ؛ و لو نہ
 نشانہ تہ چھ خدایس نش (بیلہ سہ ناید وچھان
 چھ، اہ چھ نازل کران) تہ بہ تہ چھس صرف
 اکھ ٹاکاہ ہتیار کرن وول۔

کیا ہن ہند خاطر اوس نا (یہ نشانہ) کافی ؛ نہ
 اسہ کر تریہ پیٹھ اکھ کھل کتاب (قرآن) نازل ؛
 یوسہ اتھن تہ تہ بوزناوتہ یوان چھیلہ اتھ کتھ منر چھ
 مؤمن ہند خاطر بڑ رحمتی تہ تہ چھک سامانہ۔

تہ وکھ مینہ تہ توبہ درمین بطور گواہ فاصلہ کرن وول
 چھ اللہ (تعالے) ہے کافی۔ بیہ یہ کینشہ آسمان
 منر تہ زمپنہ منر چھ تہ چھ سہ زنان۔ تہ
 ہم لوکھ باطلس پیٹھ عمل کران چھ، تہ اللہ (تعالے)
 ہندرن حکمن انکار کران چھ، تہ چھ گاش منر
 پسہ واد۔

بیسے چھی تم تریہ عذاب کہ وول وول اتنک مطالبہ کران
 مگر ہرگاہ اکھ گڈتھ وقت آسہ ہے تہ تہ عذاب
 بیہ ہے اتھن نش تہ اہ وول تہ پیہ سہ منور
 اتھن نش تہ وچھان وچھان پیہ تہہ حالتس
 منر نہ تم آس تہ تہ ثنیان تہ۔

(تہ) تم بھی تریہ عذاب وول وول اتنک مطالبہ
 کران تہ جہنم چھ کافرن بے شک تباہ کرن وول۔

وَمَا كُنْتُمْ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ كِتَابٍ
 وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكُمْ إِذْ لَأْتَابَ
 الْمُبْطِلُونَ ﴿۳۱﴾

بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ
 أُوتُوا الْحِكْمَ، وَمَا يُحْجَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا
 الظَّالِمُونَ ﴿۳۱﴾

وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ
 رَبِّهِ، قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ، وَإِنَّمَا
 أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿۳۱﴾

أَوَلَمْ يَكْفُوهُمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ
 يُتْلَى عَلَيْهِمْ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَ
 ذِكْرًا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۳۱﴾

قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيِّنَاتٍ وَ بَيْنَكُمْ
 شَهِيدًا، يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَ
 الْأَرْضِ، وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَ
 كَفَرُوا بِاللَّهِ، أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿۳۱﴾

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وَلَوْلَا أَجَلٌ
 مُسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ
 بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۳۱﴾

يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وَإِنَّ
 جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿۳۱﴾

نیمہ دوہہ (زن جہنمک عذاب کا فرن گیر کرتے
تباہ کر۔ یہ آسمان سے دوہہ تر خدائی) عذاب کر
تمن منیہ کو تیر و ولت تیر تہندو کھوروی نہر
تیر پیہ تمن ولہ۔ (تہ خدایے) و نہ سینین عملن
ہند نتیجہ تیر ہو۔

اے میانہ مؤمن بندو ! میا فی زمین چھینہ کشاؤ اڈ
توہ کر میا فی عبادت الہ

پر تہ زوات پھینہ موتک منر تہ من واجتہ۔ پتہ
یہ توہر (ساری) اسی کن واپس پھیر تہ آسنہ۔

تہ تم لوکھ یک ایمان اتان چھ تہ تمہ مطابق پچھ
عمل تہ کران۔ آسو دمو تمن جننس منر ڈسہ
ڈالان منر جائے۔ (تہ جس جننس منر) نہر تہ
آسن (سایں) تہ کہ کہ لہ یکان۔ تم (مؤمن)
گرنہ من تمن جننس منر ہمیشہ خاطر روزان۔ تہ
رہر عملہ کرن والہن بند اجر چھ سہٹا رت
آسان۔

تمن (مؤمن) ہند یکم (سینس عقیدس تہ عملہ پیہ)
ڈٹتہ روزان چھ تہ سینس پرور و گارس پیہ چھ
توکل کران۔

یتہ دنیاہس منر چھ واریاہ جالور تہ یکم پانس
سرتی (انسان ہندو پاٹھو) پین رزق چھینہ
بار تہ پھیران۔ اللہ (تعالیٰ) ہے چھ تمن
رزق دو ان تہ توہر تہ، بیہ چھ سہ دعا سہٹا
بوزن وول (تہ) حالو تہ زہر پاٹھو خیر دار۔

تہ ہر گاہ تہ تمن لوکن پرتھک نہ آسمان تہ زمین
کو چھ پاؤ کرے متی؟ تہ آفتاب تہ زون کو
چھ (منور و رانی) انسان ہندس خدس پیہ
لہ کہتہ تھادو متی؟ تہ تم وئے، اللہ (تعالیٰ)

يَوْمَ يَخْسَهُمُ الْعَذَابُ مَنْ فَوْقَهُمْ وَ
مَنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۵۹﴾

يُعْبَادِي الَّذِينَ اٰمَنُوا لَآ اَرْضِي
وَ اِسْعٰةً فَاِيَايَ فَاَعْبُدُوْنِ ﴿۶۰﴾

كُلُّ نَفْسٍ ذٰرِئَةٌ لِّلْمَوْتِ وَ تُوۡفٰ
اِلَيْنَا تُرْجَعُوۡنَ ﴿۶۱﴾

وَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا وَاَعْمَلُوا الصّٰلِحٰتِ
لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا
تَجْرِيۡ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيۡنَ
فِيۡهَا نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيۡنَ ﴿۶۲﴾

الَّذِيۡنَ صَبَرُوۡا وَاٰوٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوۡنَ ﴿۶۳﴾

وَ كٰتِبِيۡنَ مِمَّنۡ دَابَّۡةٌ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا لَآ
اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ بِۡ وَ هُوَ السَّمِيۡعُ
الْعَلِيۡمُ ﴿۶۴﴾

وَ لَئِيۡنۡ سَاَلْتَهُمۡ مَّنۡ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ
الْاَرْضَ وَ سَجَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ لَيَقُوۡلُنَّ
اَللّٰهُ جۡ فَآتٰنِ يُوۡفُوۡنَ ﴿۶۵﴾

لہ یعنی ہر گاہ کہس جاہ توہر عبادت کرنہ ولو نہ تہ ہجرت کرتے ہو بیس باہ۔

ہن۔ (اوپر بیٹلہ تم یہ کتھہ زانان چھہ) تیلہ کتھہ
طرفس کن چھہ تم ہڑ مراونہ یوان ؟

اللہ (تعالے) ہے چھہ یس پسنو بندو مفر نیمر
سندہ خاطر بیٹھان چھہ برزق کشا دکران تہ بیہ بند
خاطر بیٹھان چھہ برزق چھس تعلق کران بیٹھ
اللہ (تعالے) چھہ پرتھہ کتھہ نش خبردار۔

بیہ ہرگاہ تہ تم پرتھہ نہ اوپر منز کتھہ
آب وولمت ؟ تو پتہ چھن زمین امہ (آبکے اڈلیو
تہ کہ منہ پتہ زبند کر پتہ - تہ تم دتھہ یقینا
اللہ (تعالے) ہن۔ تہ ون زساری لغت چھہ
اللہ (تعالے) ہندی خاطر۔ انا پوز یو (انسانو)
مفر چھہ وار یان ہکر تران۔

بیہ یہ دتھہ زبندگی چھہ صرف اکھ غفلت تہ
گندنگ سامانہ تہ آخر تہ چھہ زبندگی ہند گرنے
چھہ دراصل اصلی زبندگانی ہند گرنے۔ کاشس ! تم
لوکھ زانہ ہن۔

بیہ بیٹلہ تم لوکھ ناو منز سوار سپان چھہ تہ
پنہ عقیدت چھہ چھتھہ چھتھہ اللہ (تعالے)
سندہ خاطر کتھہ تہ دعا منگان مگر بیہ سہ
تم بٹھس کن نجات دتھہ واتناوان چھہ تہ ہنگتہ
منگہ چھہ تم بیہ شرک کرن ہوان۔

یٹھ نہ یہ کینٹھا اسہ تھن دیت مت چھہ تھہ کن
انکار۔ (تہ سہ انعام کرن خدائیس وراہی بین شریکن
کن منسوب) تہ امیک (یعنے عارضی توکے)
نتیجہ چھہ یہ آسان نہ (اللہ تعالے) چھہ تم
تہ تھہ شرجھان تہ) تم چھہ کینٹھس کاس تام
دنیوی سامانہ نشہ قایدہ تھان۔ (اگر دوہو
گرتھہ یہ بخشش ختم تہ) تم وچھن (پتن
اصلی جزا)۔

جن چھنا پے نہ اسہ چھہ حرم (یعنے مکہ) منگ

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ
عِبَادِهِ وَ يَقْدِرُ لَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ ﴿۳۷﴾

وَلَيْسَ سَأَلْتَهُمْ مِّن نَّزَلٍ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَآخِيًا بِهِ الْأَرْضُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا
لِكَيْقُولَ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ
أَعْتَرَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۳۸﴾

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُمْ
لَعِبٌ ۚ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ
الْحَيَاةُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۳۹﴾

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَوْا اللَّهَ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ فَلَمَّا نَجَّيْتَهُمْ
إِلَى الْبَرَادِآءِ هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿۴۰﴾

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ۚ وَلِيَتَمَتَّعُوا
فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿۴۱﴾


أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مِّنَّا

مقام ہو مت۔ تہ تمہیں لاکھ اندر کھیر (یعنی
 مکہ تیز کر کتو) چھ لاکھ تھپھہ دتھ نہیو یوان۔
 تہ کیا تم چھا اپڑس پیٹھ ایمان اتان تہ اللہ
 (تعالے) ہندس نعمتس چھ انکار کران؟
 بیہ تمس شغفہ ہند کھوتہ بوڈ تلم کس آسہ؟
 یس اللہ (تعالے) ہس پیٹھ اپڑ گتھہ ہاشرہ
 لاگان چھ؟ یا یس پڑ کتھہ تمہ وقتہ اپڑاوان
 چھ بیلہ سو تمس نش یوان چھہ۔ کیا یقین آفرن
 ہنر جاعے گڑھہ نا جہنم منر آسہ؟
 بیہ تم (لوکھ) ہم اسہ سترے تعلق تلم کریم کریم
 کوشش کران چھہ اسی بختو تمس ضرور پینن
 وشن کن یتک توفیق تہ اللہ (تعالے) چھہ
 یقینا احسان کرن والہن سترے۔

يَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ
 أَفِيَا لِبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ
 يَكْفُرُونَ ﴿۳۰﴾

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ
 كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ
 أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿۳۱﴾

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ
 سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۳۲﴾



سورة روم: یہ سورہ چھہ کلی تہ بسم اللہ پتھ چھہ اتھہ اکھ باٹھ آہہ بیہ چھس شہہ رکوع۔

(بہ چھس) اللہ (تعالے) سدا ناو ہتھہ (پر ان)
 یس حد رؤس کرم کرن دول (تہ) پھیر ک پھیر ک
 رحم کرن دول چھہ۔
 بہ اللہ چھس سار نے ہند کھوتہ جاوڑان دول۔
 رومی لوکھ (یعنی تھیر ہند ساقی) گے زیر۔
 نزدیکہ چیر زہندہ مشرتہ تمہین پسندہ زیر گڑھنہ پتہ
 بیہ غالب۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾

الْمَلِكِ ﴿۲﴾

عَلِيْبَتِ الرُّؤْمِ ﴿۳﴾

فِي آدَاتِي الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ
 عَلَيْهِمْ سَيَّغْلِبُونَ ﴿۴﴾

کیشنن ورین مشن۔ امہ واقعہ بروٹھ تہ آسہ
 اللہ (تعالے) ہنر حکومت تہ پتہ تہ آسہ تسنیزے
 حکومت) تہ تمہ دوہہ آس مؤمن سہٹھا تھس بلہ

فِي بَضْعِ سِنِينَ لَهُ يُلْهَى الْأَمْرُ مِنْ
 قَبْلِ وَ مِنْ بَعْدِهِ وَ يَوْمَ عَصْفٍ يَنْفِرُ
 الْمُؤْمِنُونَ ﴿۵﴾

لہ یہ آس قرآن کریم پھیر پیشگوئی چنا چھہ امہ مطابق ایراکر بادشاہ کسرہن کڑی حجاز چھہ (جاری)

اللہ تعالیٰ) ہند مدد پر ستر (تہ) اللہ تعالیٰ) ہمیں
یہ ستر صاف چھتس چھ اتھ روٹ کر اللہ تہ سہ چھ
غالب (تہ) پھیری پھیری رحم کرن وول۔

اللہ تعالیٰ) سند و عہد (تھا) لو زبر یا ٹھیا دی (تہ) اللہ
(تعالیٰ) چھتہ پنچو وعدہ اپڑو کران۔ مگر واریا من
لوکن چھتہ یہ کتھ فکر تران۔

تم لوکھ چھتہ پنچو ڈی پہچہ زندگی ہندس غا ہرس
(یعنی امریکس شان و شوکتس) زبر یا ٹھیا ستر زانان
اما پوز آخرتہ چھ زندگی بنتہ چھ اُکے انزان۔

کیا تم و میت ناپنسن دلن منتر نہیہ یہ دین
ز آسمان تہ زہین تہ یہ کینہ شاہن منتر باگ چھ،
چھ اللہ تعالیٰ) ہن کتہ حکمتہ مطابق تہ اگر
شکر کتہ وقتہ خاطر پاؤ کورمت ہ؛ اما پوز لوکو
منتر چھ واریاہ پنسن پروردگار ہند ملا قارگر
بمکر۔

کیا تم پھیر ناہ زمینس منتر تہ یہ وچکھ ناہ
زہیم تمن بروٹھ لوکھ اُسی تہند انجام کیا
سیدے یاو؛ تم اُسی تہند کھوتہ جاو طاقتور تہ
تمو اُسی زہین زبر یا ٹھیا پراٹھتر (یعنی واکھتر)
تہ پھیر یو آباد کر منتر چھتہ تمو اُسی تہ کھوتہ
جاو آباد کر منتر تہ تہند کی رسول اُسی تمن نش
دلیدر ہتہ آہتو تہ اللہ تعالیٰ) ہند شاہ
مطابق اوس تہ زہین پہچہ کرے ظلم۔ بلکہ تم لوکھ
اُسی پانہ پنسن زون پنچہ ظلم کران۔

پتہ سید تمن لوکن ہند، یو بدکار کرے ہو اُسی
اللہ تعالیٰ) سندن آین انکار کرے کتہ ناکارے

يَنْصُرِ اللَّهُ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ
الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ①

وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ②

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۖ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ
غٰفِلُونَ ③

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ
اللَّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا
بِالْحَقِّ وَآجَلٍ مُّسَمًّى ۚ وَلَا تَكْثِيرًا
مِّنَ النَّاسِ يُلَاقَىٰ رَبَّهُمْ
لَكٰفِرُونَ ④

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ
كَانُوا أَشَدَّ مَنَهُمْ قُوَّةً وَأَنكَارًا فِي الْأَرْضِ
وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَ
جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنٰتِ، فَمَا
كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلٰكِن كَانُوا
أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ⑤

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ آسَأُوا
الشُّوْءَىٰ أَن كَذَّبُوا بِآيٰتِ اللَّهِ وَ

بقیہ حاشیہ:

نزدیک چہ زمپتہ منتر رؤمی زیر۔ مگر کینہ ڈری گذرہ پتہ کرے رؤمیو ایراڈی زیر تہ
سلمان نش واثر یہ خبر تہ وہہ میلہ تمن جنگ بدرس منتر فتح حاصل سیدے پہ۔

كَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۱۱﴾

﴿۱۱﴾

انجام۔ بیہ سعی تم اللہ (تعالیٰ) سندن آیین
سینتو ٹھٹھ کران۔

أَلَيْسَ يُبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ
لَا يُؤْتِرْجِعُونَ ﴿۱۲﴾

اللہ (تعالیٰ) چھ (مخلوقا تہج) پادائیش شروع تہ
کران تہ پتہ چھ یہ (سلسلہ) پھیر پھیر کر
تہ کران روزان۔ پتہ لاکن پتہ توہا
ساری تسو کن پھیر تھ نہنہ۔

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ
الْمُجْرِمُونَ ﴿۱۳﴾

بیہ یتیم دوہر قیامت برپا سپد۔ مجرم عرصن
ناوہ سپد۔

وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ
وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ ﴿۱۴﴾

تہ یکن تم خدایہ سندن شریک بناوان اسی۔ تمو
مشترک بنہ نہ کانہہ ہتہند سفارش در تہ تم
کران پستین (بناوہ متہین) شرکین ہند الکار۔
بیہ یتیم دوہر قیامت برپا سپد تہ دوہر
سپدن ساری (مشرک) بیون بیون۔

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ
يَتَفَفَّرُونَ ﴿۱۵﴾

تہ تم لاکھ یوا پمان اذن تہ یکو پسنہ ایمانہ
مطابق عمل تہ کر۔ متن پیہ عالیشان باعس منز
فرحت (تہ شادمانی) واتاوتہ۔

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿۱۶﴾

تہ تم (لوکھ) یکو کفر کوز تہ سانبن آیین ہند تہ
آخر تہج زندگی ہند حاصل سپدنک انکار کوز، تم
پن عذابس بروٹھ کتہ حاکم کرہنہ۔

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ
مُخْضَرُونَ ﴿۱۷﴾

او کوز کرو اللہ (تعالیٰ) ہنر تسبیح۔ نیلہ توہو
شامہ کس ولس منز دا نجل سپدو یا صلح کس ولس
منز دا نجل سپدو۔

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِیْنَ تُمْسُونَ وَ حِیْنَ
تُصْبِحُونَ ﴿۱۸﴾

تہ آسمان تہ زمینہ منز چہ تہندی تعریف۔ بیہ
کرو دوہر ڈلتہ تہ تہترہ تسبیح۔ بیہ پانٹو
(عالم) ڈپہر کہ وقتہ تہ۔

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَ عَشِيًّا وَ حِیْنَ تُظْهِرُونَ ﴿۱۹﴾

سہ چہ موردس بخش زندہ کڈان تہ زندہ بخش چہ
مورد کڈان تہ زمینس چہ امہ کہ مورد کڈہند پتہ
زندہ کران۔ تہ بیہ پانٹو بیو توہا تہ کڈہنہ۔

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ
الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ يُحْيِي الْاَرْضَ بَعْدَ
مَوْتِهَا وَ كَذٰلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿۲۰﴾

تہ تہندو نشانو منز چہ (اکھ) یہ (نشانو) تہ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ

إِذَا أَنْتُمْ بَشَرًا تَنْتَشِرُونَ ﴿۱۱﴾

ز تکر چھو توہر میشر نشہ پاد کرک متری۔ پتہ
چھو توہر تمہ پادایشہ ہندس پنجس منز بشر
بنان تہ (سارے زمینس منز) چھو تیلان۔
تہ تکر بندو نشانو منز چہ (اکھ) یہ (نشانہ)
تہ ز تکر چہ تہندی جلسہ منز تہندی خطر
جوہر بناوکر متری میٹھ زن توہر (مترن سستی مے
محبت ورتاوتھ) تہندی کنہ تسکین لبو بیہ چہن
توہرہ درمیان ٹاٹھنیا کرک تہ ہمدروی ہند واطھ
پاد کورنت۔ اتھ منز چھ سوچ کرن والہ قومہ
باپتہ بڑی نشانہ۔

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَبِرُونَ ﴿۱۲﴾

تہ تہندیو نشانو منز چہ آسمان تہ زمیں تہند
پاد کرن اتہ تہنترن بولن تہ تہندی زنگن
ہند الگ الگ آسن تہ اتھ منز چہ سارے
زان والین ہند ٹاٹھ بڑی نشانہ۔

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ ﴿۱۳﴾

بیہ چہ تہندیو نشانو منز رات کیت تہ وہ ہلہ
تہنتر بندر کرنی بیہ توہر مند فضل حاصل
کرنی ٹاٹھ محنت کرنی تہ۔ اتھ منز چہ بوزن
والہ قومہ باپتہ بڑی نشانہ۔

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاءِكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُسْمَعُونَ ﴿۱۴﴾

بیہ چہ تہندیو نشانو منز بیہ ز سہ چھو توہرہ
وزل ، بہم تہ وہ مید پاد کرنی ٹاٹھ ہوان
تہ اوہر منز چہ آب والان۔ پتہ چھ تمہ سستی
زمینتہ تمہ کہ موہر گڑھنہ پتہ زبند کران۔
اتھ منز چہ عقلم والین لوکن کیتی بڑی نشانہ۔

وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ الْبَرْقِ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۱۵﴾

بیہ چہ تہندیو نشانو منز آسمان ہند تہ زمینک
تہندی امر سستی قائم روزن تہ۔ او (نیر لند
یہ نشانہ تہ لوکن ز) بیلہ سہ توہرہ زمینتہ منز
نہیر نہینر باپتہ اکے لوکر و۔ تہ وچھان
وچھان بیہ توہر زمینتہ ہنترن۔

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ هُنَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿۱۶﴾

بیہ آسمان تہ زمینتہ منز (ہن وای) ساری
وجود چہ تہندی فرمانبردار۔

وَكَلَّ مِنَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَانُونٌ ﴿۱۷﴾

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۚ وَ لَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۳۸﴾

۳۸

صَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ ۖ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ ۚ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيٰتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۳۹﴾

بہ سے چھ (مخلوقات) پادائش شروع تکران تہ پتہ چھ یہ (سلسلہ) پھیر پھیر عملہ منز انان روزان تہ یہ کام چھ تہ بند خاطر سہا سہل۔ تہ آسان تہ زمپنہ منز چھ تو سندن شان ساروے کھوتہ تھو۔ بہ چھ سہ غالب (تہ) بوڈ حکمتہ وول۔

تو چھ تو ہہ فکر تارہ موکھ تہ تہری ڈاثر ہنراکھ حالت بیان کر ہنرا (یوسہ بہ چھ تہرا) لیکن ہندر تہندر ڈچہری اتھ ہا یک آسان چھ۔ کیا تو منز چھا کاتہ تہ (مالہ) منز یس اسہ توہہ دتیت چھو تہند ہر ابرک شریک تہ آسان؟ بہتہ یا سھو نہ توہہ ساری (ہا یک تہ غلام) اوسوتتہ ڈ مال دولس) منز برابرک شریک سدان۔ بہ اسہ توہہ تہن دھان تہتہ یا سھو کھوتران تہتہ یا سھو توہہ پانہ وانی (اکھ اوس) کھوتران چھو۔ بہتہ یا سھو چھ اوس عقلمہ والہ قومہ باپتہ نشانہ واش کڈی کڈی بیان کران۔

بلکہ (حقیقت چھ یہ نہ) غلام لوکھ چھ علمہ ورائی پنہن خاوشن پتہ دراہوتہ تہ نیس اللہ (تعالیٰ) گراہ کر تہس سس ہیکہ ہا بیت و تہ (تہ) لیکن (لوکن) ہند اسہ نہ کاتہہ ہڈکار اڈ موکھ کر تہ پین سورے توجہ وپتہ خاطر مخفوس۔ اتھ ملورس منز نہ تہ منز اسہ نہ کاتہہ ہجر۔ (تہ) اللہ (تعالیٰ) ہنرا (پاڈ کر ہنرا) فطرت پرا (سہ) فطرت) بہتہ پتہ اللہ (تعالیٰ) ہنرا لوکھ پاڈ کر ہوتہ چھ۔ اللہ (تعالیٰ) ہنرا پاڈائشہ منز منیکہ نہ کاتہہ تبدیلی سہتہ۔ یوسہ چھ تاہم روزان

لہ یعنی ہم تہند غلام آسان چھ

وول دین - اما پوز واریاہ چھنہ زمانان -
 (لہذا) توہی ساری کروی تہ (خدا ایس) کن نمیتھ
 دین بطرت اختیارہ بیہ تند تقویٰ پراوود تہ مناز
 کروی تمک شرط بہتہ ادا - بیہ مشرک کو مشرک نہ بنو -
 یعنی تمو (مشرک) لاکو منزی یو پنشن دپس چھلہ
 چھانگر کر تہ (دین چھلہ چھلہ کر تہ) آہر بیون
 بیون فرمن باگر تہ تہ پڑتہ دور چھ اہر خیالہ کنو
 خوش زریس حصہ تمو نیوئے چھ رت لہ -

بیہ نیلہ انسان کا نہہ تکلیف واہ تہ تم چھ پنشن
 پروردگار کن نمیتھ تس او کران - پتہ سینلہ
 تند طرفہ تم کا نہہ رحمت و اتان چھینہ تہ تمو
 مشرک چھ الہ دور پنشن پروردگار مقابله شریک
 بناوڑی ہوان -

نیمیک نتیجہ چھ یہ آسان زریہ کینترھا اسہ تم
 دیت مت چھ تم چھ عملا تمیک انکار کرن ہوان
 (اد چھ تم و نیز ہوان - دنی یاہ لنتہ) یس کینہ
 فایدہ تم چھو ، تلو ، تہ کیا ز توہی و چھو جلدہ
 یئن انجام -

کیا اسہ چھ اتن بند خاطر کا نہہ (بشر کج)
 دلیل نازل کر مشرک یوسہ تم تہ کہتہ و نان
 چھینہ یہ شرک متعلق تم بیان کران چھ -
 تہ نیلہ اس لاکن ستر رحمتک سلوک کران چھو ،
 اد تم چھ تہ ستر خوش گرتھان - ادا اگر تم
 پڑتہ ہو اعلو بند باعثہ کا نہہ تکلیف واہ تہ تم
 چھ ہنگتہ منگہ ناوومید گرتھان -

کیا تمو و چھنا ز اللہ تعالیٰ تینگی سندر خاطر بیترھان
 چھ ، بریق چھس کشد کران تہ تینگی سندر خاطر
 بیترھان چھ تس چھ رزقس تنگی کران - اٹھ منز

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَ اتَّقُوهُ وَ اقِيمُوا
 الصَّلَاةَ وَ لَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۳۰﴾

مِنَ الَّذِينَ فَزَعُوا مِنْهُمْ وَ كَانُوا
 شِيْعَاءَ كُلِّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ
 فَرِحُونَ ﴿۳۱﴾

وَ إِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُمْ
 مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا آذَاهُمْ مِنْهُ
 رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ
 يُشْرِكُونَ ﴿۳۲﴾

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَهُمْ فَتَمْتَعُوا بِهِ
 وَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿۳۳﴾

أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُنْطًا فَهَوْ
 يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿۳۴﴾

وَ إِذَا آذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا
 وَ إِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ
 آيَاتُهُمْ إِذْ هُمْ يُقْتَلُونَ ﴿۳۵﴾

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ
 لِمَن يَشَاءُ وَ يَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ
 لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۳۶﴾

لہ تھکنی اڑو کر زمانہ کی علما و دین کران چھ -

چھ ایمان انن والہن لوکن ہند خاطر سہا بٹانہ۔
 او کوئی پزیرا بیلہ خداے برقس منتر کشادی
 دیہ تنید، اے قرآن پران والہ، تر بجٹا دی زہ
 نزدیکی کین اٹھان، بسکین تہ مسافرن ہند
 حق - یہ کتھ چھینہ سہا جان تھن لوکن ہند
 خاطر یم اللہ (تعالے) ستر رضا حاصل کرن ہر
 چھ تہ تے لکھ چھ مراد لین ولہ آسان۔

بیہ یم دیار توہر سود حاصل کرنہ خاطر دوان چھو
 بیٹھ زن سہ لوکن ہندس ماس منتر ہر سہ تہ
 تم دیار چھینہ اللہ (تعالے) ہس نش ہران تہ یہ
 توہر اللہ (تعالے) ستر رضا حاصل کرنہ ہاتھ
 زکوٰۃ ترنگ دوان چھو تہ یاد تھو زرا ہی تسک لکھ
 چھ خدایس نش (دیار) ہراوان۔

اللہ (تعالے) چھ سہ نیمو توہر پاؤ کرک ہتر چھو
 پتر چھو تے توہر برزق دیت مت پتر مارکو
 تہ توہر سہ، پتر کرکو توہر زند تہ سہ ہند
 (تجوڑ کرک ہتھو) شرکو منتر تہ چھا کاتھہ تہ
 یس امر کامر ہند کاتھہ حصہ تہ کران آسہ؟ سہ
 چھ ہند بشرک ہتھ پاک، تہ تھو شان تھون ول
 بیٹھ زماس منتر چھ تھو شک منتر تہ تہ آس منتر
 تہ سہ لوکن ہنرو کامو کوئی فساد ظاہر سپد مت
 یسک تہچہ یہ سپر ز خداے دیہ لوکن تہنن
 علمن ہند کثیر جمک سزا (تھو ڈوہس منترے)
 بیٹھ زن تہ (نافرمانی تہ) پوت پھین۔

قَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ
 وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ
 يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ زَوْاٰ لِيَكَّ هُمْ
 الْمُفْرِحُونَ ﴿۳۱﴾

وَمَا آتَيْتُم مِّن زَبَاٰ لِيَزَبُوْا فِيْ اَمْوَالِ
 النَّاسِ فَلَا يَزَبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ذَمًا
 اَتَيْتُم مِّن زَكٰوٰةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ
 اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْحِقُونَ ﴿۳۱﴾

اَللّٰهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ
 يُمِيْنُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ هَلْ مِنْ شَرِّ
 مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۚ ﴿۳۱﴾

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا
 كَسَبَتْ اَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
 بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ
 يَرْجِعُوْنَ ﴿۳۱﴾

لہ کیہ لکھ چھ خیال کران ز صرف سہ سود چھ منع یس عزیزین قرمن دتھ ہنہ یوان چھ
 ہتھ خیال چھ ز تجارتی یا صنعتی قرض پیٹھ سود ہون چھ جائز۔ چھ آیس منتر
 چھ امر نیاک رد کرنہ آمت۔

لہ وجہ - مَرْمَآةٌ (اقریب) یعنی رضا
 لہ یعنی دین تہ ڈوہس دونی منتر چھ فساد تہ یگار پاؤ سپد مت۔

تَرُونُ مَلَكًا مِّنْ جِبْرِيلَ ! تَرُونُ مَجِيئِي لَكُمْ تَوْبَةً
بِرُوحِي أَمْ تَهْتَدُوا بِحُجَّتِ الْوَيْلِ مِنْكُمْ . تَمَنُّونَ
مِنْ أُمَّي وَارِيَاهُ مُشْرِكِينَ .

اوسے کوئی تڑ پھیر پینا دیکھنا تو ایسا تمہارے روزوں کا
دشمن کن ہے اور برونیہ نہ سہ دوسہ بیسہ ، ایسے ڈالنے
خاطر اللہ (تعالیٰ) ہند طرف کا منہ علاج تازل
چھین سیدمت - بیسہ دوسہ رتم (مومن تہ کافر)
اکھ اُکس نش الگ سپدن -

نیم کو کورس پیٹھ سپیہ تندر کفرک و بل
تہ بیسہ پستہ ایمانہ مطابق عمل کر - سہ پچھ
پینتی نصہ کہ فایہ خاطر تیار کران -

یہ زن خدایے مؤمن تہ ایمانہ مطابق عمل کران
والین پستہ فضہ سستی جزا دیہ یقینا سہ چھینہ
مکن سستی ٹاٹھنید کران -

بیسہ تکر سیدلو نشانو منتر چھہ اکھ نشانہ واہ ترھن
ہند نو شخیر دوان سوزن تہ ، تہ سہ چھہ یہ او کوئی
کران یقہ سہ تہ بہ پینو رحمت (یعنی تیک مز)
ترہناؤ - تہ ناویکن تندی مکھ سستی - تہ توہر
کرو تندر فضل حاصل تہ توہی بؤ شکرانہ کرن
والی -

بیسہ اسی تریہ برونیہ کوی یا رسول تہندین توہن
کن سوزی ہتو - لہذا رتم آیہ تمن نش ما کا نشانہ
ہتہ تہ اسہ ہیوت مجرمین بدلہ یقہ شوہر ہے تہ
تیتہ - تہ مؤمن مدد کرن چھہ سون فرہن -

اللہ (تعالیٰ) چھہ سہ یس واہ ترھن سوزن چھہ
پتہ چھہ رتم واہ ترھہ باہس او برچہ شکرہ منتر تان
پتہ چھہ سہ سہ آسماس منتر شہر چھہ تیلراوان
ہتہ پانٹھو بیہرھان چھہ تہ سہ چھہ متھہ (اوبرس)

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ
كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿۲۱﴾

فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ
أَنْ يَأْتِيَ يَوْمًا لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ
يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّ عُورًا ﴿۲۱﴾

مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۚ وَ مَنْ عَمِلَ
صَالِحًا فَلَا نَفْسِهِمْ يُمَهِّدُونَ ﴿۲۱﴾

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكُفْرِينَ ﴿۲۱﴾

وَ مِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ
مُبَشِّرَاتٍ ۖ تَلِيكُمْ فِي الْبُحْرِ
لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ
وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۲۱﴾

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ
رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ
فَجَاءُواهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ
فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ
أَجْرُمُوا ۚ وَ كَانَتْ
حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۱﴾

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ
فَتُحْمَلُهُ سَحَابًا فِيهِ
يُسْطَفَى فِي السَّمَاءِ كَيْفَ
يَشَاءُ ۚ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا
فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ
مِنْ خِلْفِهِ ۚ فَإِذَا أَصَابَ
بِهِ مَنْ يَشَاءُ

مِنْ عِبَادِهِ إِذْ أَنهَمْ يَسْتَشِيرُونَ ﴿۳۰﴾

پہلے چھل کران اِد چھکھ تِر وچھان زِ امہ (اوبر) منز چھ رُوڈ وُسُن ہوان - پتہ نیلہ خدایہ تھہ اوبرس پستہو بندو منز یس سہاڈی سیتہہ ، واتن وان چھ تہ آتی چھ تم خوش گرتھان۔ نیلہ زن تم اُسی سہ (رُوڈ) پستہ برومٹھ اُکے ناوہ مید گاہی۔

وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنزَّلَ عَلَيْهِمْ
مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ﴿۳۱﴾

لہذا (اسے مخاطب!) اللہ (تعالیٰ) سبند رجسٹک تشاہد وچھ تر سہ کہتہ پاٹھو چھ زہینہ ہند مرتر پتہ تھہ زہنہ کران۔ یوہے خدایہ چھ یس (قیامت کدوہہ) مودن زہنہ کر تہ سہ چھ پرتھ چیزس پیٹھ قودرت تھون وول۔ بیہ اگر اُسی واوسوزو تہ یکم لوکھ وچھن تھہ (یعنی فہلس) ززریومت، تہ یہ وچھتہ پتہ بن تم (نہیت حاصل کر تہ بدل) ناشکر کران والی۔

فَأَنظُرْ إِلَىٰ آثَرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ
يُخَيِّ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، إِنَّ ذَٰلِكَ
لَخَيِّ الْمَوْتَىٰ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ ﴿۳۲﴾

لہذا تِر وچھن سیتھ کر تہ، تہ کیار نہ تہ ہیکہ ہیکہ تہ مودر بوزناوتھ تہ نہ ہیکہ ہیکہ تہ تری تہ وقتہ بوزناوتھ نیلہ تم تھہ پھرتھ تزل۔

وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا
لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ﴿۳۳﴾

بیہ نہ ہیکہ ہیکہ تہ اُلی تہنتر گمہ ہی نشہ پھرتھ سیتھ و تہ پیٹھ اُنتھ۔ تہ ہیکہ ہیکہ صرف تہ بوزناوتھ ہم سائین آین پیٹھ ایمان اتان چھ اِد چھ تم سانی فرما تہ وار بیان۔

فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ
الضُّمَّةَ الدُّعَاءَ إِذْ أَكَلُوا مَذْيَبِينَ ﴿۳۴﴾

اللہ (تعالیٰ) چھ تہ سینی توہی اتھہ حالتس منز یاد کر تہ توہہ منز اس کزورک موبوڈ پتہ بخشنو کزورک پستہ توہہ قوت، پتہ طاقتہ پتہ دترنو تو تو اُنی تہ سجر۔ سہ یس چیز سیتھان چھ یاد چھ کران۔ بیہ چھ سہ بڑ علم وول (تہ) قودرتہ وول۔

وَمَا أَنْتَ بِهَادٍ الْعُمِّيَّ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ
إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ
مُسْلِمُونَ ﴿۳۵﴾

بیہ سیمہ دہہ گندہتر وز سیمہ، مجرم کران تم

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ
مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ
قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَ
هُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿۳۶﴾

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ


زیر تم روڈ کی بند (ڈز بیس منتر) شریبہ کھنڈ علاؤ،
تم چھ بیتے کئی وولہ دولہ کتہ بناوان۔

بیسہ تم لوکھ بیکن علم تہ ایمان دینہ آمت چھہ،
ون توہی چھو اللہ (تعالے) بندس حسابس منتر
تتہ دھس تمام ٹھہرے متو یس تہند بیہ
وہ تلنہ باپتہ گتہ اوں بیہ (تھوو یاد ز) یوہے
چھہ بیہ وہ تلنک دھہ۔ اما پوز توہی چھونہ زانان۔
انہ از دیہ نہ فلن تہند کاٹھہ عذر قاید تہ نہ
پیسہ تمن معاف کر تہ ڈیڑہ تمام نیٹ تہ موقہر دینہ۔

تہ آسہ چھہ لاکن بند باپتہ بیتہ قرآنس منتر
پر تہ تھہ تھہکی پزرواش کڈی کڈی بیان کر کر دی
تہ ہرگاہ تہ تمن لٹس کاٹھہ نشانہ انکھہ تہ سکا منر
ون ضرور نہ توہی لوکھ تہ چھو صرف اپنہ کتہ
پیش کرن وال۔

بیتہ پاتھر چھہ اللہ (تعالے) بے علم لاکن بندین
ولن پیٹھ معہر کرن۔

اوکزی (اے قرآن کر مخاطب!) تزیڈ تہ در کر
سان روز (پنس ایمانس پیٹھ) قایم۔ اللہ (تعالے)
سند وعلو روز ضرور پور سپد تہ۔ بیہ یکم لوکھ
چتھ چھہ تھوان۔ بیہ تم برم دتھ تریہ (پسنہ
جاپ) ڈال نے؟



سورۃ لقمان - سیر سورہ چھہ کئی تہ بسم اللہ بہتہ چھواتھ پانشر تہ آتہ بیہ چھس ضرور رکوع۔

(بیر چھس) اللہ (تعالے) سند ناو بہتہ پران، یس
حدہ روس کرم کرن وول (تہ) پھیر کر پھیر کر رحم
کرن وول چھہ۔

بہ اللہ چھس سار وہے کھوتہ جاو زان وول۔

الْمُحْرَمُونَ مَا لَيْسُوا غَيْرَ سَاعَةٍ
كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ⑤

وَقَالَ الَّذِينَ أَذْنَبُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ
لَقَدْ لَيْسْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ
الْبَعْثِ، فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلِكِنِّكُمْ
كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ⑥

فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا
مَعذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ⑦

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ
مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ
لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا
مُتَّبِلُونَ ⑧

كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ⑨

فَاضِرٌ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا
يَسْتَحْفِظُنَّكَ الَّذِينَ لَا يُؤْقِنُونَ ⑩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴿۱﴾

یٰم (سیر سوپرک آیه) چھ، نیمہ کمال کتاب ہندک
آیہ یوسہر بچہ حکمتش واجب چھینہ۔

هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ﴿۲﴾

تہ پتہ فرہن شوہر دار پاطھر نامہ والن والہن
ہندہ باپتہ چھینہ یہ ہدایتک تہ رحمتک باعت۔
تم لوکھ یم نماز (تمہ کہو پور شرطوسان) ادا
کران چھ بیہ چھ (غریبن تہ مسکینن) زکوٰۃ
دوان روزان تہ آخرتچہ زندگی پپتہ چھ پترہ
تھوان۔

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ يُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿۳﴾

تیکہ لوکھ چھ سپنس پروردگار سندر طرفہ پینہ
والبس ہدایتس پپتہ مضبوطی سان قائم تہ پتھی
لوکھ سیدن (پرچہ مادانس منز) کامیاب۔

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُقْتَدِرُونَ ﴿۴﴾

تہ لوکو منز چھ کہینہ تھہ ییم (پتن مل ضایع
کرتہ) فعلول کتہ ملی ہوان روزان چھ یتھ زن
لوکن اللہ (تعالے) منز و تہ لنتہ علم آسنہ
پتھ رتن۔ تہ یتھ (یعنی اللہ تعالیٰ منز و تہ)
چھ ٹھانن منون لایق چیز بناوان رتن لوکن
ہندہ خاطر آسہ رسوائی وول غلاب۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ
لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِخَيْرٍ عِلْمٍ وَ
يَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ
مُّهِينٌ ﴿۵﴾

بیہ بیلیہ تھفس شخصس بروٹھ کتہ سانی آیہ پتھ
بوزناونہ یوان چھ تہ سہ چھ کبرسان تھر پھران
یعنی زن نہ تمو بوز پسی (سہ چھ اتھ حدس تمام
لا پروائی کران) زن تہ چھ تہندن کنن زرہر۔
لہذا سہ بوزناون تہ کہہ کر پتھ ہذا زبح خبر۔

وَإِذَا تَثَلَىٰ عَلَيْهِ أَيْنًا وَ لَىٰ مُسْتَكْبِرًا
كَانَ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا
فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿۶﴾

بلا شک تم لوکھ پکو ایمان اون تہ پکو تمہ کہ
حالہ مطابق عملہ کر رتن میںن لغتروالی باغ۔
یمن منز تم روزان کرھن۔ یہ چھ اللہ (تعالے)
سند کورست پوتہ وعدہ تہ سہ چھ غائب (تہ) بکیر
حکمتش وول۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ﴿۷﴾
خَالِدِينَ فِيهَا، وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا وَهُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۸﴾

تمو چھ آسمان تھمو ورائی یاد کر رہی متی۔ یتھ پاطھ
توہی تو پھان چھو۔ تہ زمینہ منز پھن بال امہ کتہ
مگر انداز تھادو متی زر سہ کرھ نہ توہی پتھ

خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِخَيْرٍ عَمَدٍ تَّرَدُّنَهَا
وَ أَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن
تَمِيدَ بِكُمْ وَ بَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاتَّبَعْتَنَا
فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَرْعٍ كَرِيمًا ﴿۱۰﴾

گذریں جو بس منتر ٹبر گزرتی۔ بیہ تیل راون
اتھ منتر پر پتھ تھیکو جانر تہ اوپر منتر چھ
اسہ آب نازل کوزمت۔ پتہ وو پد اوک اسہ
اتھ منتر پر پتھ تھیکو تفسیر سور۔

یہ چھ اللہ (تعالے) منتر پادائش۔ لہذا مینہ
مُود تو ہی نہ تس ورائی، یکم تو ہی شریک ٹھہراون
چھووکھ تموکیا چھ پانچ کوزمت؟ (کہنی تہ
نہ) بلکہ پوز چھ یہ نہ ظالم چھ نہہ وانہ گزری
منتر۔

هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ
الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ۗ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي
ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۱۱﴾

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اِذَا اشْكُرْ
لِيْلٰهُ ۚ وَمَنْ يَشْكُرْ لِيَّ تَمًا يَشْكُرْ لِنَفْسِهٖ ۗ
وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿۱۲﴾

بیہ اس اسہ لقمانس حکمت وثر ہتر تہ ووزمت
اوسس نہ اللہ (تعالے) سند شکرانہ کراوا تہ
یس شخص تہ شکرانہ کر۔ تمو مند شکرانہ کرنک
ناید چھ تمو مند سے زوس وانان۔ تہ یس
ناشکری کران چھ (تس پز یاد تھون نہ) اللہ
(تعالے) چھ ساری قسمہ کو شکرانو لیشہ بے نیاز
(تہ) بڑ حسد دول۔

بیہ (یاد کر) مینہ لقمان سپنس نیچوس نصیحت
کران وون۔ اسے مینہ گوہر! اللہ (تعالے)
سند کانہہ شریک ٹھہراو زہہ۔ شرک چھ یقینا
سبھا بوڈ ظلم۔

وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَحْضُرُهٗ
يٰۤابْنٰى لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ۗ اِنَّ الشِّرْكَ
اَكْظَمُ عَظِيْمٌ ﴿۱۳﴾

بیہ اسہ چھ انسانس تہندس مایس ماجہ ہند حقہ
تھاکپدی حکم ویت مت نہ میون تہ تہند شکرانہ
روزی نہ ادا کران۔ تہنہ ماجہ اوس پینہ نوتووانی
(ہند اکر دور) پتہ کزوری (ہندس دویمس دورس)
منتر سہ تلمت (تروومت) تہ تمو سند دور
تراواناون اوس دولن ویرن ہندس متس منتر۔
(یاد تھوز) توہہ اسہ وینے کن واپس پھیر تھین۔
اد ہگاہ تم دولوے تریہ سوتی بخت کرن نہ
تہ کرن میون کانہہ شریک مقرر نیمو سند تریہ
کانہہ علیہ چھ نہ۔ تہ مال نہ نہ سرگزینم دولونی

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۖ حَمَلَتْهُ
اُمُّهُ وَهَنًا عَلٰى وَهْنٍ ۚ وَفِضْلُهُ فِي
عَاَمِيْنَ اِنْ اشْكُرْ لِيَّ وَّلِوَالِدَيْكَ ۗ اِلٰى
الْمَوْصِيّٰتِ ﴿۱۴﴾

وَاِنْ جَاهَدَكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا
لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۗ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ وَ
صَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْقَانِ ۗ وَاَتَّبِعْ

سَيَبِيكَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ
فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۳۱﴾

بہنر کہتے - بیتہ رُو د دنیاوی معائن منفر تھوؤ ز
بتن سدی نیک تعلق قائم تہ تس شخصس پستہ
یکو زریں میہ کن نمان چھ تہ بیٹے کن آسہ
توہہ سارے بندہ وایسین - تمہ وڑ کروو بہ
توہی تہنہز عملہ رشتہ خبردار۔

يُبَيِّنُ لَهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ
خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي
السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿۳۲﴾

(لقمان وون ز) اے میانہ گوہر! کہتہ چھینہ بیہ ز
اگر اکھ عمل آسہرک دانس سنب تہ آسہ پستہ آسہ
سہ (آسہرک دانس سنب عمل کنہ) شیلہ منفر یا
آسمان منفر یا زمینہ منفر تہ کھٹتہ تہ اللہ (تعالے)
کڑ تھہ نون - اللہ (تعالے) چھہ زاولہ کھوتہ
زاولہ راز تہ لین وول تہ سپٹھا خبردار۔

يُبَيِّنُ أَمْرَ الصَّلَاةِ وَ أَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ
وَإِنَّهُ عَنِ الْمُشْكِرِ وَاضِحٌ عَلَى مَا أَصَابَكَ
إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿۳۳﴾

اے میانہ گوہر! نماز تھوؤ ز (ساری شرط
ہوتہ) برپا - تہ برترن کہتن ہند روزک زہ
تھم دولان تہ ناپسند کہتہ رشتہ آسہ ز ٹھاک کن
تہ یہ (شوک مؤور) تہیہ واتی تھہ پٹھہ ہنہر
صبرس کام - یہ کہتہ چھینہ بے شک سپٹھہ ہے
ہمتہ واجینو کامو منتر۔

وَلَا تُصَوِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي
الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ
مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿۳۴﴾

تہ پینن بیتہ ہنہر راوزنہ لوکن بروٹھ کتہ (شرارتہ
سبتو) بیہ زمینہ منفر یکوزنہ کبہر سان - اللہ
(تعالے) چھنہ یقینا پر تھہ دہر ہنہر وایس تہ
تھپکن وایس سدی ماٹھنیار کران۔

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَ اغْضُضْ مِنْ
صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ
الْحَمِيرِ ﴿۳۵﴾

بیہ پینس پکس منفر پراور اعتدال تہ بیتو آواز
تھوؤ سوتہ - (تہ کیارت) آوازو منفر چھینہ سارو
کھوتہ ناپسند آواز کھہ ہنہر آواز (یعنے خرٹھاگ
یوہہ سپٹھا تھنر چھینہ آسان)۔

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي
السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ
نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَ بَاطِنَةً وَ مِنَ النَّاسِ
مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ لَا
هُدًى وَ لَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ﴿۳۶﴾

کیا توہہ (لوگو) وچھو نازہ یہ کینرھا آسمان منفر
چھہ تہ زمینہ منفر چھہ (تہ) چھہ اللہ (تعالے) ہن
تھندس خدمتس منفر لگتہ تھوؤ مت - بیہ چھن
سپنہ نمشر اظہرک آسٹن یا باطن، توہہ پٹھہ
آبک پکھو واجہر - بیہ لوگو منفر چھہ کینہر تھوؤ

بیم علمہ ورائی، تو ہدایتہ ورائی، تہ کتبہ گا شرک
کتابہ ہنرہ دلہ ورائی اللہ (تعالے) بندہ حقہ
بحث کران چھ۔

بیہ میلہ تمن و نہ یوان چھ نریہ کیترا اللہ (تعالے)
ہن نازل کورست چھ جمع کرو فرما نہ واری۔ تہ
ونان چھ، نہ، اسی کرو جمع پاروی بیہ پیٹھ
اسہ پیٹھ جداجداد و پھو متی چھ۔ او اگر شیطان
تمن (تہندو جداجدادو ہند ڈریعہ) جہنم
کن ناد ووان آسہ ہل پیٹھ تہ کرناہ ہم تی؟۔

بیہ یس شخص پتہ دیان اللہ (تعالے) ہس کن
پھران چھ بیہ چھ سہ پستہ علیہ منتر تہ پلور
چسہ سان پکن وول۔ تیلہ (زن تہ) چھ تہ مہنوا
کریں تھہ کڑ ہنتر تہ اللہ (تعالے) ہس کئے چھ
سارہے کا ہن ہند انجام پھرتہ گرہان لہ۔

بیہ ہم لاکھ کفر کن، تہند کفر مہ کری نے تریہ
فلکین۔ تمن پنیہ اوس اسی کن واپس پھرن۔
پیٹھ کروکھ اسی ہم تہند لو اعمالو ہنتر خبردار۔ اللہ
(تعالے) چھ یقینا سینہ اندر مہ سارہے کتھ
زانان۔

اُسو واتا و تمن کیترا س کاس تام دنیا وکی فایدہ
پیٹھ، نوکھ تم مجبور کریتہ سہٹھا وکھ عدلیس کن۔

بیہ اگر تمن پرتھاکھ نہ آسمان تہ زمین کتھ
چھ پاؤ کری متی؟ تہ ہم دن ضرور، اللہ۔
(تعالے) ہن۔ تہ ون تمن (جان گنو) ساری
تقریب چھ اللہ (تعالے) ہندی۔ مگر تمہ (منکرو)
منتر چھتہ واریاہ یہ کتھ زانان۔

آسمان تہ زمین تہ منتر یہ کیترا چھ، تہ چھ

وَاذْ قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ
قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ
آبَاءَنَا، أَوْ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُهُمْ
إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿۲۱﴾

وَمَنْ يُشْرِكْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ
 فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، وَإِلَى
اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿۲۲﴾

وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ،
إِنَّمَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا،
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۲۳﴾

نَمَتَّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ
عَذَابِ غَلِيظٍ ﴿۲۴﴾

وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ
بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۲۵﴾

يَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، إِنَّ اللَّهَ

هُوَ الْعَرَبِيُّ الْحَمِيدُ ⑩

اللہ (تعالے) سندے . اللہ (تعالے) ہے
چھ بے شک سہ (ذات) یس (پر تھہ عبادتہ
تہ تعریفہ بنتہ) بے نیاز چھ (مگر) سہ چھ
(سستی) سارہے تعریفن ہند مقدار تہ -

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ
وَالْبَحْرِ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ
مَا نَفَذَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنْ أَلَّه
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ⑪

بیہ اگر زمینہ منزیتی کلی چھ ، بمن قلم
بن تہ سمندر آسہ میلہ بڑتھہ تھہہ پانٹھوز
سٹھہ بیہ میلہ سمندرین تھہہ منز بلاناوہ توتہ
موکلن تہ اللہ (تعالے) ہندو نشانہ اللہ
(تعالے) چھ یقینا غالب (تہ) بجز حکمتروول -

مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَعْظُمُكُمْ إِلَّا كَفْئِيسٌ
وَاحِدٌ إِنْ أَلَّه سَمِيعٌ بَصِيرٌ ⑫

تہہہ سارہے ہند یاد سیدن تہ تہند زبند کربتہ
تلمن یں چھ صرف اگس شخصہ ہند یاد
سیدن پانٹھوز - اللہ (تعالے) چھ بے شک
سبھا بوزن وول (تہ) سبھا وچین وول -
کیا تریہ وچھتھنا ز اللہ (تعالے) چھ راتہ
دوہس منز داغل کران تہ دوہس چھ راتہ
منز داغل کران ؛ بیہ چھ تھو آفتاب تہ
زون خدمتس پیٹھہ لگتھہ تھادو ہتی - کیومنز
چھہ پرتھہ اکھ گنڈت سدتہ خاطر پکان گزھان
تہ اللہ (تعالے) چھ تھندلو اٹھالو بنتہ زبریا پٹھو
واقف -

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُوَلِّجُ الْبَحْرَ الْبَيْضَ فِي النَّهَارِ
وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي الْبَيْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
رَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ⑬

یہ سورے کہینہ چھ امر کہی سپدان تہ اللہ (تعالے)
شتر ذات چھینہ پیز تہ تاہم روزن واجزیہ
او کہی ز پین تم لوکھ تس ورائی آلو کران
چھہ تم چھہ اپز یاری تہ فنا سیدن واکر تہ
اللہ (تعالے) چھہ یقینا سبھا تھو تہ کشاد
شاہ وول -

ذَلِكَ يَأْتِيَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَآنَ مَا
يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ
هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ⑭

کیا تریہ وچھتھنا ز ناو چھینہ اللہ (تعالے)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفَلَكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ

لہ کلمتہ "امیک معنی چھہ سینہین ، آہ نشان -

لہ "باطل" امہ لفظک معنی چھہ اپز یاری تہ تہ "فنا سپدان وول تہ"

منزل نعمت بہتہ سمندر منظر پکان، میتھ زن
سہ توہمہ پتو نشانہ ناوو۔ اتھ منزل چھ پرستہ
بڑس صبر و افس تہ پرستہ بڑس شکر گزار
بندہ بندہ خاطر واریاہ نشانہ۔

بہیہ نیلیر بہمن کانہہ نلر نہا یہ ہندی پاپہ طہ
وڑن کران چھ۔ تہ بہم چھ صرف اللہ (تعالیٰ)
ہندی خاطر عبادت مخلصوں کر تھ، تسو اوکران
اوپر نیلیر بہمن بھٹس کمن سجات دو ان چھ،

تہ بہم منزل چھ کیٹھی لوکھ اعتدلس بیٹھہ تاہم
روزان۔ (تہ کیٹھ چھ بہیہ سے نلکم تہ بہرک
کران لاگان) تہ ساہن آہن ہند انکار یہ چھ
صرف بد عہد تہ تا شکر کران واد کران۔

اے لوکو! پسنس پروردگار سہ تقویٰ پر اوو
تہ تھہ دوہس کھوترو سیمبہ وہہہ کانہہ مول تہ
پسنس تیچوس بکار ہیکہ نہ چھ تہ نہ ہنیدہ
کانہہ تیچو پسنس تالس بکار چھ۔ اللہ (تعالیٰ)
سہ و عہد چھ ضرور پور سپد تہ روزان۔ لہذا
پتہ وڈیہیچ زندگ تہ توہمہ فریبس منزل تراو و؟
بہیہ بہتہ دوکھ دنہ وول شیطان توہہ اللہ (تعالیٰ)
بندہ چھہ دوکھس منزل تراو و؟


قیامت ہند (یا کہہ توہہ کہہ آخری فاصلک) علم
چھہ اللہ (تعالیٰ) بہیہ تہ سے چھہ روڈ تراوان
بہیہ شرک بان منزل یہ کیٹھ نہا چھہ بہتہ چھہ سے
زانان۔ تہ کیٹھو شخص چھہہ زانان نہ لیکاہ سہ
کیا عمل کرے؟ تہ نہ چھہ کانہہ شخص زانان تہ سہ
کہہ زہینہ منزل مسر۔ اللہ (تعالیٰ) بہیہ چھہ
یقیناً زانن وول (تہ) خیر تھون وول۔

بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿۳۱﴾

وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوَجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوْا اللَّهَ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ؕ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ
إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ
بِآيَاتِنَا إِلَّا كَلَّ حَتَّىٰ يَكْفُورَ ﴿۳۲﴾

بِآيَاتِهَا النَّاسُ أَلْفُوا بِكُمْ وَأَخْشَوْا يَوْمَ مَا
لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ
هُوَ جَائِزٌ عَنِ الْوَالِدِ ؕ إِنَّا وَعَدُ
اللَّهُ حَقًّا فَلَا تُغْرِكُمُ الْحَيَاةُ
الدُّنْيَا وَوَلَا يُغْرِكُكُمُ بِاللَّهِ
الْغُرُورُ ﴿۳۱﴾

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۖ وَيُنزِلُ
الْغَيْثَ ۖ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۗ وَمَا
تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۗ وَمَا
تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۗ إِنَّ اللَّهَ
عَلِيمٌ حَبِيرٌ ﴿۳۲﴾



سورة سجده - یہ سورہ چھ کئی ہے بسم اللہ ہیچہ چھ آیتہ اکثرہ آیتہ بیچس تریہ رکوع۔

(بہ، چھس) اللہ (تعالیٰ) سُنَد ناو ہیچہ (پران)
یس صر رؤس کرم کرن وول (تہ) پھری پھری
رحم کرن وول چھ۔
بہ چھس اللہ ساروہے کھوتہ جاد زانن وول۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①

اللّٰہ ①

تمہ کتاب ہند (بیمیک) یہ اکھ سور چھ (بہ العالمین)
ہند طرفہ تا نزل کرن چھ اکھ پترہ برتر کتہ ہیچہ
خز کا نہ شک چھ نہ۔

کیا تم لوگ چھا ونان زرا می شخصن (یعنی محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) چھینہ یہ پسنہ
طرقہ بناو ہنتر۔ ہنترہ کتہ چھتہ بلکہ یہ کتاب چھینہ
پائس پروردگار ہند طرفہ تا نزل سپدن واجز (تہ)
قائم روزن واجز (کتاب) ہیچہ زن تر سر قوم ہنتر کرن
ہنتر کرن ہنترہ کاتہہ رسول آوہن ہیچہ زن ہم ہدایت لبین۔

اللہ (تعالیٰ) چھ سہ سیکو آسمان تہ زمین بیہ
یہ کیشرہا یمن دونوںی منز باگ چھ تہ سورہ
چھن شہن و متن نہ منز پاد کوروت تمہ پتہ
سپد سہ کلوسہتہ کس عرشس پیٹھ مضبوطی
سان قائم۔ تس (خدایس) ورازی نہ چھ
کا نہہ تہند پوز دوست تہ نہ کا نہہ سفارش
کرن وول کیا توہی چھو نا نصیحت حاصل کران۔
سہ کر پسنہ تہ پسر مطابق آسمان پیٹھ زمینس
تمام بین حکم قائم۔ اہہ نیسہ سہ کھس تس

تَنْزِیْلُ الْکِتٰبِ لَا رَیْبَ فِیْهِ مِنْ رَبِّ
الْعٰلَمِیْنَ ①

اَمْ یَقُولُوْنَ اَفْتَرٰهُ ۗ بَلْ هُوَ الْحَقُّ
مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا اَتٰهُمْ مِنْ
نَّذِیْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ یَهْتَدُوْنَ ②

اِنَّهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَ
مَابَیْنَهُمَا فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اَسْتَوٰی
عَلَى الْعَرْشِ ۗ مَا لَکُمْ مِنْ دُوْنِهِ مِنْ
وَلِیٍّ ۗ وَلَا شَفِیْعِ ۗ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ③

یَدَبُرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمٰوٰتِ اِلَى الْاَرْضِ
ثُمَّ یَخْرُجُ بِرَآئِهِ فِیْ یَوْمِ کَانَ مِقْدَارًا ④

لہ عربی زبان منز چھنہ یوم صرف صبح پیٹھ شام تام کس وقتس ونان بلکہ یوم گوو زمانہ تہ
وقت یس لچہ بدن ورنین ہند تہ آستہ ہیکہ۔

أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا تَعُدُّونَ ①

کُن اُکس تھقس و تفس مفر ینبج بمقدار اکھ
ساس ڈرک چھید، نیمہ مطابق توہی دنیاہس مفر
گر بند کران چھو۔

ذَٰلِكَ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ
الرَّحِيمُ ②

یہ چھ غالب تہ محاکرک زانن وول (خدا)
یس غالب (تہ) پھیری پھیری رحم کرن وول چھ۔

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ
خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ ③

نیمو یہ کینرھا تہ یاد کورمت چھ (تہ) چھن تھد
پایہ طلقو سبتو یاد کورمت - بیہ چھن انسان
اُدر میٹر بنتھ یاد کورمت۔

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ
مَّهِينٍ ④

پتہ چھن تھنر ذریات اکھ کمزور آبہ کہ ہر تہ
(یعنی نطفہ) بنتھ یاد کورمت۔

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَعَهُ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَ
جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْإِبْصَارَ وَ
الْأَفْئِدَةَ ، قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ⑤

پتہ و تہ تہس بر پور طانت تہ تہس مفر ترو
پتہ طرفہ رُوح بیہ بتاوان تہندہ خاطر
کن تہ اچھ تہ دل - مگر توہی چھو نہ اُکے
شکرانہ کران۔

وَ قَالُوا ءِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا
لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُم بِلِقَائِ
رَبِّهِمْ كَفِرُونَ ⑥

بیہ چھ تم ونان - کیا نیلہ اسی زمیہ مفر راوہ۔
تہ اسی یوا اکھ نو یاد آیشہ مفر شکلیہ مفر استاد
کرتہ (یم لوکھ چھنہ امہ نو یاد آیشہ ہندو متکرا
بلکہ چھ پینس پروردگار ہندو ملاقاتی متکر۔

قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي
وُكِّلَ بِكُمْ ثَمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تَرْجِعُونَ ⑦

تہ و تہ یس ملک الموت تہہ پٹھ مقرر کرتہ
آمت چھ، سہ کر ضرور تہندہ رُوح قبض پتہ
بیو توہی پینس پروردگار کن واپس پھیر تھہ
اشہ۔

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا
رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ءَأَرْبَابًا آبْصَرْنَا وَ
سَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا
مُقِنُونَ ⑧

بیہ ہر گاہ توہم سہ حالت معانم سپر و نیلہ مجرم
پینس پروردگار برو تھہ کرتہ پینو کلہ لون
کن تہ ترو تھہ وود نہ آسن - تہ ونان آسن
اسے سانہ پروردگار! (یہ کینرھا تریہ وومت

یہ یعنی اُکس ساس ڈرک گزہ اسلام کور تہ سپر و بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ستر و پینو مطابق اسلاس
عروج حاصل (آشا اللہ)

یہ یعنی انسانہ ستر جسمانی یاد آیش مکمل کرتہ پتہ کورن تہس پٹھہ کلام الہی نازل۔

اوسته) سہ وچھ تہ آسہ تہ بوزتہ لہذا وہ فی بنتہ
اسہ تہ واپس بیتہ زن اسی چانہ حکمہ مطابق
عمل کرو۔ اسہ چھیز وہ فی چانہ کتھ پیٹھ پلور
پا سٹھ پترہ کر مہتر۔

اگر اسی بیترہ ہو تہ پرتھ شخصس دہر ہو
تہندہ حالہ مطابق ہدایت۔ اما پوز میا فی کتھ گے
پلور تہ بہ برن جہتم ضرور جنو تہ انسانوستہ۔

وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى
وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ
جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ
أَجْمَعِينَ ﴿۱۷﴾

لہذا ازی کر وک ملقات مشراوتہ کتہ تہ پینہو
عملو کتہ تہری تو توہی میز کال روز و سہ
عذابک منہر۔ بیہ (تھاوو یاد تہ) اسہ تہ
چھو توہی (از) مشراوی ہمتی (یعنی تہندہ
پروائے کرن چھ آسہ تروومت)۔

فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ
هَذَا إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ
الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۸﴾

سانہن آین پیٹھ چھ تے لوکھ ایمان اتان تہ نیلہ
بتن تہندہ نسبت یاد پاوتہ یوان چھ تہ تم چھ
سجدان منز پوان تہ پستہس پرور دگار ہندر
تعریف تہ سبح چھ کران تہ کبیر چھنہ کران۔

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا
ذُكِرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا
بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿۱۹﴾

(بیہ) بتن (مؤمن) ہنہر لہر چھینہ تہندہو
وتھہر نو نیشہ الگ سپدان (یعنی تہ پتہریچ نماز
پرہنہ خاطر) (تہ) تم چھ پستہس پرور دگار س
تہندہو غلابو نیشہ بچنہ موکھ تہ تہنہر رمنہ حاصل کرنہ
خاطر، آلو کران بیہ یہ کیشہا اسہ بتن دیت
مت چھ تہ منز چھ تم خدایہ ہنہر و تہ خرچ کران
روزان۔

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ
يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿۲۰﴾

بیہ (پز چھ یہ نہ) کا نہہ شخص چھنہ زمانان نہ
بیتا (مؤمن) ہندہ خاطر کم کم اچھ تہبلاون
وال چیز چھ تہندہن اعلم ہندہ اجر کتہ کھٹھ
تھاوتہ آمہتہ۔

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ
أَعْيُنٍ بِرِجْزَاءٍ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۲۱﴾

کیا، یس شخص مؤمن آسہ سہ بیکیا تس شخصہ

أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا ۗ

لَا يَسْتَوُونَ ⑩

ہندو یا مسیحی اسیستہ، ایس فرمانبردار کی نسبتہ نمبر نمبر؟
بیم دہنوں سے یہاں نہ زراہ ہوئی اسیستہ۔

أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ رُزُلًا يَمَّا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ⑪

تم لوگ جو ایمان آؤمیت چھ تہ تمہ مطابق چھینے
تمو عملہ تہ کڑی مشہ۔ تمہن میں بسنس لایق جنت۔
یہ آسہ تمہند پو اعمال مطابق مہمان ڈاری۔

وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ
كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا
أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا
عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا
تُكَذِّبُونَ ⑫

یہ ہم لوگ فرمانبردار کی تہ دراپتو چھ تمہ میں
روزہ خاطر جہنم۔ پیلہ ہم زانہہ تمہ مشہ نمبر نمبر
اراد کرن تمہن تنہو کن واپس کرن تہ تمہن یہ
وتہن، تر وہن تہ تو جہنم سہ عذاب ایس توہو
ایزادان اسی و۔

وَلَنذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَلَدِ نِ ذُنُوبِ
الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ⑬

یہ تمہ بڑ بینہ والہ عذاب بروٹھ تہ ہنا وکھ اسی
تم (یہیہ دنیا ہک) لوگٹ عذاب تہ۔ یہیہ زن
تم پھیرن (تہ توہ کرن تہ آخرتہ کر عذابہ
بچن)۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ
أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ
مُنْتَقِمُونَ ⑭

یہ نہیں تمہ بندس پرور دگار ہند کی آہ یاد پادہ
ہن پتہ کر سہ توہن تہ روے گردانی، تہند کھوتہ
جاد بوڈ ظالم کس آسہ۔ اسی ہو یقینا مجرم بدلہ۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي
مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى
لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ⑮

یہ و تہ اسی موسیٰ ہس کتاب۔ او تہ تہ مہ کر
اکھ کابل کتاب میلش متعلق شک۔ تہ اسی اس
سو کتاب) بنی اسرائیل ہند خاطر صلہیت بناؤ تہ۔

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَّهْدُونَ بِأَمْرِنَا
لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ⑯

یہ اسی اسیہ توہو مشہ امام بناؤ ہتی ہم زن سادہ
شکہ لوگن ہدایت دوان اسی۔ اسی ہا عتہ نہ تو ہوتہ
صبرس کام تہ ہم لوگ اسی سانبہن آہن پیٹھ پوہر
پوہر پڑھ تھاولان۔

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُم يَوْمَ
الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ⑰

چون پرور دگار چھ سہ ایس دلا ہی کلام واتا دن
والہن تہ (تمہن ہند بن سنکرن) درمیان قیامتہ
کر دہ ہہ پرتہ تہ کتہ متعلق فاصلہ کر سہ
مشہ ہم اختلاف کران اسی۔

وَلَمَّا يَهْدِي لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن
قَبْلِهِمْ لَمَّا هَدَيْنَاهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ
الَّذِينَ آمَنُوا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ
الَّذِينَ آمَنُوا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ
الَّذِينَ آمَنُوا ⑱

کیا تمہ ہدیت نا امر کتہ ہدایت نہ اسی اسی توہو
ہمہ ہدایت نہ اسی اسی توہو ہمہ ہدایت نہ اسی اسی توہو
ہمہ ہدایت نہ اسی اسی توہو ہمہ ہدایت نہ اسی اسی توہو

وَلَمَّا يَهْدِي لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن
قَبْلِهِمْ لَمَّا هَدَيْنَاهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ
الَّذِينَ آمَنُوا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ
الَّذِينَ آمَنُوا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ
الَّذِينَ آمَنُوا ⑲

ہمہ ہدایت نہ اسی اسی توہو ہمہ ہدایت نہ اسی اسی توہو
ہمہ ہدایت نہ اسی اسی توہو ہمہ ہدایت نہ اسی اسی توہو
ہمہ ہدایت نہ اسی اسی توہو ہمہ ہدایت نہ اسی اسی توہو

وَلَمَّا يَهْدِي لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن
قَبْلِهِمْ لَمَّا هَدَيْنَاهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ
الَّذِينَ آمَنُوا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ
الَّذِينَ آمَنُوا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ
الَّذِينَ آمَنُوا ⑳

ہمہ ہدایت نہ اسی اسی توہو ہمہ ہدایت نہ اسی اسی توہو
ہمہ ہدایت نہ اسی اسی توہو ہمہ ہدایت نہ اسی اسی توہو
ہمہ ہدایت نہ اسی اسی توہو ہمہ ہدایت نہ اسی اسی توہو

برونٹھ واریا بن زمان ہندک لڑکھ ہلاک کرک ہترے
(تہ) یکم لڑکھ چھ (دو ذی) تہندک ہنے گرن منز
نشان پھیران۔ اتھ منز چھ یقینا واریا ہ نشانہ
مگر کیا تم چھنا یوزان؟

کیا تمہو چھنا زرا کسی چھ اُکس بنجر ز میس کن آب
(رود) کھتا و تھ و اتنا وان، پتہ تہہ (آب) کہ
ذریعہ چھ فصل کلان نیمہ منز تہندک چار وائی
تہ چھ کھوان تہ تم پانہ تہ چھ کھوان۔ کیا تم
چھنا و چھان؟

بسے چھ تم زمان ز یہ فتح نیمیک توہی ذکر کران
چھو اؤئی تو ز سو کر آبہ اگر توہی پزیرا کر چھو؟
تہ ون انہ امر فتح کہ دو ہہ وہ نہ کافر
تہند ایمان نفع تہ نہ بسے تہن موہلت وہن۔
لہذا تہ روز تہن نش نوب تہ (تہندس انجامس)
پیار تہ تم تہ پیارن موز کینش کلاس تام۔


قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي
مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً أَفَلَا
يَسْمَعُونَ ﴿۲۱﴾

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ
الْجُرُزِ فَنَخْرُجُ بِهِ ذَرْعًا نَأْكُلُ مِنْهُ
أَنعَامُهُمْ وَأنفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿۲۱﴾

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ﴿۲۱﴾

قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ
كَفَرُوا إِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿۲۱﴾

فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ لِأَنَّهُمْ
مُنْتَظَرُونَ ﴿۲۱﴾



سورة احزاب : یہ سورہ چھ مدنی تہ اسم اللہ بیتہ چھ اتھ تہ ستھہ آہیہ بسے چھس نو رکوع۔

(بہ، چھس) اللہ (تعالے) سُنَد تاو ہتھ (پران) بسے
حد رؤس کرم کرن وول اتہ، پھیرک پھیرک رحم
کرن وول (چھ)۔

اے نبی! اللہ (تعالے) سُنَد تقوی پرلو تہ کافرن
تہ منافقن ہنر کتھ مسہ مان۔ اللہ (تعالے)
چھ بے شک سبھا زمان وول اتہ، سبھا حکمت وول۔

بسے کرا صرف، تمہہ ہنر پادری یوسہ چانس
پروردگار ہند طرف تہیہ پیٹھ تا زل کرنہ یوان چھینہ۔
اللہ (تعالے) چھ تہند لو اعمالو نشہ ز بر پاتھ خبردار۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ
وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا ﴿۱﴾

وَأَتَّبِعْ مَا يُوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿۱﴾

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ①

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جُوفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ مِنَ الْعَالَمِ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ①

أَدْعُوهُمْ إِلَّا بِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانِكُمْ فِي الدِّينِ وَ الْمَوَالِيكُمْ ۚ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ①

الَّتِي أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجَهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْآرْحَامُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَخْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ①

بے کر اللہ (تعالیٰ) ہس پیٹھ توکل تہ اللہ (تعالیٰ) چھ کار ساز آسنہ کر لحاظ سپہا۔

اللہ (تعالیٰ) ہن بناوکی نہ کانبہ مہنوی ہندس وچیں مفرز دل، بسہ نہ چچین تہنہز آسنہ بین توہر (کنہ ویر) موج ورتھ گرتھان لہ چھو، تہنہز ماجہ بناو مشر تہ نہ چچین تہنہز منگتہ رتی ہتی تہنہز تپوکی بناوکی ہتی۔ یک چھید سارہے تہنہز زباڈ کتھ تہ اللہ (تعالیٰ) ہے چھ پز کتھ زمان تہ سینور و تھ اول۔

(توہر پز پ تہ) چچین (منگن) کرو تہنہز ہن پینہن مالہن ہندک تپوکی ورتھ اول۔ یہ چھ اللہ (تعالیٰ) ہس ہنش جاو انصاف وول کار تہ اگر توہر علم آسرو تہ نہ تہنہز مال کم چھ تہ تم چھ (بہر حال) تہنہز دہتی یاہی تہ دہتی دوست۔ بسہ پہ توہی غلطی سدی بروٹھ کرتھ گاہتی چھو۔ تھ پیٹھ چھتہ توہر کانبہ گوناہ بار، اما پوز یتھ کتھ پیٹھ تہنہز دل پوتہ اراد کرتھ گاہتی آسن (سہ) چھید سز ہس لایق) تہ اللہ (تعالیٰ) چھ (پر تھ توہر کرن اول ہند خاطر) سپہا بخش وول (تہ) پھیر کر چھیر کر رحم کرن وول۔

تہی چھ مؤمن تہنہز پونہو زو ورتھ تہ جاو نزدیک تہ تہنہز آسنہ چھید تہنہز ماجہ تہ ڈونہ کہو آشاو و مفرز چھ اللہ (تعالیٰ) ہنہز کتابہ مطابق کیہتہ کینہز و کھوتہ جاو نزدیک (غدا آشاو) مؤمنو تہ مہاجر و نسبت، اما پوز تہنہز ہنہن دستن سدی نیک سلاک کرن (چھ جائیز) پہ کتھ چھید قرآن مشنر لیکھتہ آہنہز۔

لہ بعضے وقتہ چھ انسان شرارتس مفر سینہ آسنہ زمان نہ ہر گاہ تریہ فلکڈ گام کرتھ یا فلکڈ گام کرتھ نہ خر لکبھ میہ موج لینے تہ گرتھکھ سینہ پیٹھ حرام۔ اصطلاحس مفر چھ یقینس تسمس "ظہار" زمان۔

بیر (کرو یاد) بیلیہ زن اسہ نبیین بہن مہ تھوتہ
آمتر اکہ خاص کتھہ ہند و عدہ ہتھراو تہ تریستہ
(ہتھراوے و عدہ) تہ نوہس تہ ابراہیمس تہ
موسیٰ ہس، تہ عیسیٰ ابن مریمس تہ بلکہ اسہ
ہتھراو بہن سارنہ اکہ پوتہ و عدہ۔

بیٹہ زن اللہ (تعالے) بیڑک یاربن تہندس بیڑس
متعلق سوال کر تہ کافر ن کیت چھ تھو اکہ کروٹھ
عذاب تیار کورنت۔

اے مومنو! اللہ (تعالے) ہنر سو نعمت کرو یاد
یوسہ تھو تہ ہتھراو و ہتھراو بیلیہ زن تہ ہتھراو کیتھو
لشکوہ ملہ کریاد بیہ سوزاو اسہ بہن کن اکہ
واو بیہ سوزایہ ہتھراو لشکر ہم توہی اسی د نہ
وچھان تہ اللہ (تعالے) چھ تہندک اعمال زہر
پاٹھو وچھان۔

(اد کیا، سہ وقت تہ کرو یاد) بیلیہ زن تہندک
دشمن تہند ہتھراو ہتھراو طرف تہ (یعنے بالہ کر طرف
تہ) تہ بلا زہر طرف تہ آسے پہ بیہ بیلیہ زن گاہرہ
موکھ اچھ در آسو ہتھراو تہ واہجہ آسو (دبراے
کران) گیس تام واژ متھرا۔ تہ توہی اسی و اللہ
(تعالے) ہس متعلق رنگہ رنگہ شکن منتر ہینہ آمتر۔
تہ وقتہ اسی مومن اکیس ہتھراو پہ آزمائشہ منتر
تراوتہ آمتر۔ تہ سجت زلہ زلہ او مکھ تلہ آمتر۔

بیہ (کرو سہ وقت تہ یاد) بیلیہ زن مناق تہ
بیس لوکن ہتھراو دن منتر مرض اوس و منتر بحابہ
نہ اللہ (تعالے) ہن تہ تہندک رسولن اوس اسہ ستر
صرف اکہ پتر و عدہ کورنت۔

بیہ بیلیہ زن تھو منتر اکہ طائفہ ہتہ و نہ لوگت

وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ
وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَاِبْرٰهِيْمَ وَاٰمِسٰى وَا
عِيْسٰى ابْنِ مَرْيَمَ وَاَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا
غَلِيظًا ﴿١٠﴾

لِيَسْئَلَكُمُ الصّٰدِقِيْنَ عَن صِدْقِهِمْ
وَاَعَدَّ لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١١﴾

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ
اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا
عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَاَجْنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَاذ
كَانَ اللّٰهُ يَمَّا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ﴿١٢﴾

اِذْ جَآءَ وَاكُم مِّنْ قَوْكُم مِّنْ اَسْفَلٍ
مِّنْكُمْ وَاِذْ رَاغِبْتِ الْاَبْصَارُ وَاَبْلَغَتِ
الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَاَتَّظَّنُوْنَ بِاللّٰهِ
الظُّنُوْنَكَ ﴿١٣﴾

هٰنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَزْلُوْا
زُلْزَالَ شَدِيْدًا ﴿١٤﴾

وَاِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ
قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَا
رَسُوْلُهٗ اِلَّا غُرُوْرًا ﴿١٥﴾

وَاِذْ قَالَتْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يٰۤاَهْلَ

لہ بیٹہ اکیس منتر چھ احزاب کہ جنگت ذکر بیلیہ سجت واو پینہ سبتی کافر ن ہندک
نار تھرتہ گیا۔ تہ تھہ نختہ زانتہ تم ساری تھرجاے۔

يَثْرِبَ لَا مَقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ۚ وَ
يَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ
لَا بُيُوتُنَا عَوْرَةٌ ذَا مَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۗ
إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ۝

وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ
سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَأْتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا
بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ۝

وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا
يُؤْتُونَ الْأَذْيَارَ ۚ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ
مَسْئُولًا ۝

قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ
مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ ۚ وَإِذَا لَا
تُمْتَحُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ
إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً
وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا
وَلَا نَصِيرًا ۝

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَ
الْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلْكُمْ أَلَيْتَانِ ۚ

اوس نے اے مدینہ کیوں لوگو! تمہیں خاطر چھینے
(دو ذی) کاٹنے ٹھکانے۔ لہذا (اسلامہ ہنتر) پھیرو
پڑت۔ تمہو منتر لجاو اگھ فریق نیسیں اجازت
مگھہ تمہو نہ سارے گریہ و شہتہ ہندس نشانس پٹھ۔ پوزوسے
تمہو تمہو (اوس) دہنتہ ہندس نشانس پٹھ تمہو اوس صرف رلیج سکھران
او ہرگاہ مدینہ کیوں مختلف طرفوں کیوں تمہو پٹھ (فون)
واہل کرنے پیسہ ہن تمہو پیسہ ہے تمہن (کافرو
ہند کیوں) مرتد گڑھتک مطالبہ کرنے تمہو ہم
کرن ضرور سے مطالبہ قبول، مگر تو تمہو ہیکن تمہو ہم
ہمتھ (مدینہ) منتر جاو کالس روز تھہ۔

ہیہ (پزر چھہ یہ نہ) اہر بروٹھ اوس تمہو منافقو
اللہ (تعالیٰ) ہس سستی عہدہ کوزمت نہ تمہو ہین
نہ نہ ہیمہ تمہو (بلکہ تہمت قدم روزن) تمہو اللہ
(تعالیٰ) ہس سستی گند نہ آہس عہدس متعلق
پیسہ ضرور سوال کرنے۔

تمہو ون تمہن نہ ہرگاہ توہی موتہ یا قتلہ ہنتر تمہو
او تمہن ترلن ویہ ون تمہو ہرگز کاٹنے نفع نہ
تھہ منورس منتر بلو نہ توہی کاٹنے نماید۔

تمہو ون نہ کس آسہ یس توہی اللہ (تعالیٰ) ہند
رہنہ) ہنتر بجاو و۔ ہرگاہ سے توہی سزا ہین
ہنتر ہو و یا ہرگاہ سے توہی پٹھ رحم کرن ہین ترہ
(تمہو نہ ہنتر کس ہیکو توہی محروم کریتھ) تمہو ہن نہ
اللہ (تعالیٰ) ہس وراہی ہنتر خاطر کاٹنے
جانی دوست نہ نہ کاٹنے مددگار (یعنی ہینلہ تمہو
بکار پیسہ، خدا ہے پیسہ)۔

اللہ (تعالیٰ) چھہ توہی منتر ہن لوکن پور پٹھران ہم
ہین مسلمان (جہاد ہنتر) پٹھ پھران اوس۔ تمہو

لَا يَأْتُونَ الْبَاسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿۱۱﴾

پسینہن ہایں اسی دنان نہ اسہ کن بیو (تہ جہادس
منز مہ گزہو تہا بل) بیہ اسی نہ تم پانہ نہ دشمنس
سیتی لے جنگ کران۔

تم چہ توہ ہر متعلق سہا نخل تھاون والہ۔ ایضہ
تم چہ نہ نہیہ ہر تھان نہ توہ ہر واہہ و کانہہ
غار) اد بیلہ ہن پیٹھ کانہہ خوفک وقت بیہ
تہ تر و چہ ہیکہ نہ تم چہ نہ نہ کن بیہ پاٹھی
وچھان نہ تہندر لال چہ نزان آسان، نس
شعبہ ہندر پاٹھیس موتہ کس غنٹس منز گیر
آسہ۔ پیٹھ بیلہ خوفک وقت گزہان چہ، اد چہ
تم توہ ہر پیٹھ تلوار ہندر پاٹھی ترٹن واجتہ نہ بو
چلاوان تم چہ ہر چہ متعلق بچیل۔ (تہ
ہر تھان چہ نہ ہر گوزھو نہ توہ ہر میلن) بیولاکو
اوس نہ (پڑی پاٹھی) ایمان اولن مئے۔ اوس
کر اللہ (تعالے) ہن تہنہر سارہے کوشتبہ
تباہ۔ (یم تم اسلامس خلافت کران اسی) تہ
اللہ (تعالے) ہس پیٹھ اوس یہ کتھ ملے سہل۔
(بیہ ایم لوکھ چہ وہی تہ وہ سید تھاون نہ
کیا رت گیاو، کفارن ہند) لشکر آسہ نہ ونب
تہ گو مت۔ حالانکہ اگر کفارن ہند) لشکر واپس
تہ بیہ تہ یم لوکھ کرن (تہنہر پینس پیٹھ
خوش گزہنہ بدل) تہا ہش زکاش نہ تم آسہ
ہن صحرا بی لوکن منز روزہ وئی (تہ اے مومنوا)
توہ متعلق آسہ ہن (لوکن) ہر تھان (تہ ونب
چہا زندہ کتہ تباہ چہ سید ہتی) بیہ اگر یم
(ضرورتہ کہ وقتہ) توہ سیتی روزہ ہن اد توہ
کر ہن نہ تہنہر طرفہ جنگ۔

تہنہر ہا پتھ (یعنی ہن لوکن ہند نہا طہر یم اللہ
(تعالے) تہ آخرتہ کس دوہس سیتی میلان و وہید
تھاوان چہ بیہ چہ اللہ (تعالے) سند واریاہ

أَشْحَةً عَلَيْكُمْ ۖ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ
رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ
كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۖ فَإِذَا
ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِالْإِسْنَةِ
جِدَادٍ أَشْحَةً عَلَى الْخَبِيرِ ۚ أُولَٰئِكَ لَمْ
يُؤْمِنُوا فَأَخْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ ۚ وَكَانَ
ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿۱۱﴾

يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا ۚ وَإِن
يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ
بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يِشْأَلُونَ عَن
أَنْبِيَائِهِمْ ۚ وَ لَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَّا
قُتِلُوا إِلَّا قَلِيلًا ﴿۱۱﴾

۱۱

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ
حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَ
الْيَوْمَآءَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهُ كَثِيرًا ﴿۱۱﴾

ذکر کران اللہ (تعالیٰ) ہندس رسولس منز چھ
 اکھ تھدی پایہ نمونہ (سینچ بہن پادوی کرنی پڑے)۔
 چنانچہ (وچھو) یلیلہ حقیقی مؤمنو حملہ آور لشکر
 وچھو تہ ووتھم یکم تہ چھ تھے (شکر) بہند
 اللہ (تعالیٰ) ہن تہ تہندک رسولن اسر سستی
 وعدہ کوزمت اوس تہ اللہ (تعالیٰ) ہن تہ
 تہندک رسولن اوس بالکل پوز ووتمت۔ تم
 ہرراؤک اُمی واقعہ ہن اپناس تہ فرما تہندک
 منز (تہ کزور کرن تہ)۔

یکو مؤمنو منز چھ کینہہ تھو لکھ یکو سہ وعدہ
 پوز کوزیس تمو اللہ (تعالیٰ) ہس سستی
 کوزمت اوس۔ اوکئی کینہہ چھ تم یکو پنزی نیت
 پوز کوز (یعنی لڑان لڑان کے شہید) تہ تمو
 منز چھ کینہہ تھو یکم و تہ پیارن چھ تہ
 پسنس ارادس منز و تہ تمو کانبہ کھلہ بل گزھنہ
 امیک نتیجہ نیر یہ تہ اللہ (تعالیٰ) دیہ
 تھن پیارن تہند پزرگ بلہ تہ اگر نیرتھ
 تہ منافقن دیہ عذاب یا کر بہن پیچھ رحم تہ
 اللہ (تعالیٰ) چھ یقینا پوز بخش ار (تہ)
 چھہرہ چھہرہ رحم کرن وول۔

بیرہ پزر چھہرہ یہ تہ اللہ (تعالیٰ) ہن
 فی کفار تہنتر سارے شرارت بہتہ (مدینہ
 پیچھ) واپس پھیرتھ۔ تہ بہن ووت تہ کتبہ تھم
 ناید۔ تہ اللہ (تعالیٰ) ہن کوز یا تہ مؤمنن
 ہند کتبہ جنگ۔ تہ اللہ (تعالیٰ) چھہرہ پوز
 طاقتہ وول (تہ) غالب۔

بیرہ تمو (اللہ تعالیٰ ہن) وادی تم اہل کتاب
 یکو بہن (حملہ کرن والین مشرکین) مسد
 کوزمت اوس۔ پسنہو تلیو پیچھ تہ تہند ہن

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ ؕ قَالُوا
 هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ
 اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا
 وَتَسْلِيمًا ۝

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رَجَالَ صَدَقُوا مَا
 عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ
 قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ ۚ وَمَا
 بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ۝

لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ
 وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ
 عَلَيْهِمْ وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِخَيْبِهِمْ لَمْ
 يَنَالُوا آخِذًا وَكَفَىٰ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ
 الْقِتَالَ ؕ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيمًا ۝

وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ
 الْكِتَابِ مِنْ صَيَّاصِيهِمْ وَقَذَفَ
 فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا

تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ قَرِيبًا ۝

دین منتر کورن بيم واخل - بونت تام ز توہی
گئے و رتو منتر اکھ حصہ قبل کرنس پیٹھ تہ
اکھ حصہ قادی کرنس پیٹھ قادیور -

وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَ
أَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطْعُوهَا وَكَانَ
اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۝

بیمہ کرمی نو توہی تہندین زمینین تہ تہندین
گرن تہ تہندین مان ہندک وارث اکھتے
تہ زمینیکر تہ بیتھ پیٹھ تہندین قدم و نہ پیٹھ
تہ اللہ (تعالے) چھ پرتھ اکس چیزس پیٹھ
قادیور -

۱۴

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكُمْ كُنتُمْ
تُرَدُّنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا
فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعِكُنَّ وَأَسْرَحِكُنَّ
سَرَاحًا جَمِيلًا ۝

اے نبی! پسینین آشینن ون ز اگر توہی دنیا
تہ تمیک پاراو بیترھان چھو نیلہ ولو بہ دموہ
توہہ کیٹھ دنیاوی مال تہ توہہ کروہ پرتہ
طریقہ سان رحمت -

وَ إِنْ كُنتُمْ تُرَدُّنَ اللَّهُ وَ رَسُولَهُ وَ
الدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ
لِلْمُخْسِنِينَ مِثْقَالَ أُجْرًا عَظِيمًا ۝

تہ ہرگاہ توہی اللہ (تعالے) تہ تسد رسول
تہ آخرتچہ زندگی ہند گر بیترھان چھو، تہ
اللہ (تعالے) ہن چھ توہہ منتر پور پاطھ
اسلاس پیٹھ تاہم روزن واجہین ہند خاطر
سبھا بوڈ انعام تجویز کرتھ تھومت -

يُنِسَاءَ النَّبِيِّ مَنِ يَاْتِ مِنْكُم مِّنْكُمْ
بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ يُضَعَفْ لَهَا
العَذَابُ ضِعْفَيْنِ، وَ كَانَ ذَٰلِكَ عَلَىٰ
اللَّهِ يَسِيرًا ۝

اے نبی ہنرو آشینو! اگر توہہ منتر کاٹھہ اکھ
تھہ پایہ ایمانس خلاف کتھ کر اڈ تسد عذاب
پیہہ دو گناونہ - تہ یہ کتھ چھیہ اللہ (تعالے)
ہس پیٹھ سہل -

وَمَنْ يَّقْنُتْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَ يَلْمِ
تَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۝
وَ أَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ۝

بیمہ توہہ منتر یوسہ کانشہا اللہ (تعالے) تہ تہندین
رسولہ ہنر فرمانبرداری کر تہ (تھہ فرمانبرداری
سوتی) شولوبہ کامہ تہ کر تہ اسی دموہس انعام
تہ دو گنہ بیمہ چھ اسہ پرتھ ہنرہ (آشینہ) ہند
خاطر عزتہ دول رزق تیار کرتھ تھومت -

يُنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ

اے نبی ہنرو آشینو! (ہرگاہ توہی پین مقام

لہ اتھ آس منتر چھ نمبر فتح گرتہ صبح پیشگوئی یوسہ پیہ پور سپر -

إِن اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ
فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ
قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿۳۳﴾

زانیوں پر (نہ) توہم چھو نہ عام زنانہ ہندک
پاکھی۔ اور کئی ور (یعنی خنجر ناز) کڑی کڑی
مہ آسو کتھ کران۔ بیتھنہ تہ سپد زہ سیمو
ہندس دس منتر بیارد چھیدہ سہ کر تہندہ حقہ
کاٹہ بد راے۔ بیہ آسوزو ہمیشہ لاکن نیبک
کتھ وناں۔

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ
تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَاقِمْنَ
الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ وَآطَعْنَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ
عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيرًا ﴿۳۴﴾

بیہ آسوزو بیٹھن گرن منتر بہتھ روزان تہ پرانہ
جاہلیتہ کرنا کر (یعنی متن طور طریقین ہندک) پاکھی
مہ آسو پن پاران (دوپر لوکن نش) نون کران
بیہ آسو نماز (صا بطوسان) ادا کران۔ بیہ آسو
زکوٰۃ ووان تہ اللہ (تعالیٰ) تہ تہندس رسولہ
سوز آسو اطاعت کران۔ اے اہل بیت اللہ
(تعالیٰ) چھ توہ بہ ہنٹہ پر سٹھ قسیم گندگی دور
کرڈی میترہان تہ توہ بہ چھو پور پاکھی پاک
کران (میترہان)۔

وَإِذْ كُنَّ مَا يَثُلُ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ
اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا
خَبِيرًا ﴿۳۵﴾

بیہ یہ کیشہا تہندین گرن منتر اللہ (تعالیٰ)
سندین آین تہ حکمتہ چین کتھن ہنتر تلاوت
کر تہ یوان چھینہ۔ تہ تمہا وویاد۔ اللہ (تعالیٰ)
چھ سبھا مہربانی کرن وول (تہ) خبر (اتر)
تھون وول۔

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ
وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ
الْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ
وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ
وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ
وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّالِحِينَ
وَالصَّالِحَاتِ وَالْحَافِظِينَ
فِرْدَاجَهُمَ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ
اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ ۗ أَعَدَّ اللَّهُ

پور پور مسلمان مردن تہ پور پور مسلمان زنانہ بیہ
پور پور مؤمن مردن تہ پور پور مؤمن زنانہ بیہ پور پور
فرمانبردار مردن تہ پور پور فرمانبردار زنانہ بیہ
پور پور پوز وشن والہن مردن تہ پور پور پوز
وئن واجنہن زنانہ بیہ پور پور صبر کرن والہن
مردن تہ پور پور صبر کرن واجنہن زنانہ بیہ
پور پور پور ما جزئی ماون والہن مردن تہ پور پور
ما جزئی ماون واجنہن زنانہ بیہ پور پور صدقہ

لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمًا ﴿۳۳﴾

دنہ والہین مردان تہ پور پور صدقہ دنہ واجنہین
زناتن بیہ پور پور روزہ دار مردان تہ پور پور
روزہ دار زناتن بیہ پستہین شرمگاہن ہنوز پور
پاٹھ حفاظت کرن والہین مردان تہ پستہین شرمگاہن ہنوز
پور پاٹھ حفاظت کرن واجنہین زناتن بیہ اللہ (تعالے)
سند سپٹھا ذکر کرن والہین مردان تہ اللہ (تعالے)
سند سپٹھا ذکر کرن واجنہین زناتن (یعنی) بیکن
سارک ہن ہند خاطر چھ یقیناً اللہ (تعالے) ہن
بخشاشہ ہند سامانہ تہ بوڈ انعام تیار کرتھ تھوتہ
بیہ اللہ (تعالے) تہ تمکو سند رسول نیلہ گتہ معاملس
منز کاٹھہ فاصلہ کرن تہ کاتھہ مؤمن مردس
یا زناتہ ہند خاطر چھتہ ہرگز جائز نہ تم کرن
(لو پتہ تہ) پستہ معامک پستہ مرضی سوتہ
فاصلہ۔ بیہ یس کاتھہ اللہ (تعالے) تہ تو
ہندس رسول ہنوز نافرمانی کران چھ سہ چھ ٹاکا
گر اہی منز سہلک۔

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى
اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ
الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ
رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿۳۴﴾

بیہ (اے نبی! یاد پاو) نیلہ تہ تس شخصس
وانان اوسکھ نیس پیٹھ اللہ (تعالے) ہن
تہ تریہ انعام کوزمت اوس نہ پنڈی آ شتر تھون
ٹھاکن وتھ (تہ طلاق ہر دس) تہ اللہ (تعالے)
سند تقویٰ پرلو۔ بیہ اوسکھ تہ پستہ دس
منز سوتھ کھٹھ تھاون بیوہ اللہ (تعالے)
تہ راون وول اوس۔ تہ تہ اوسکھ لوکن کھوتان
حالانکہ اللہ (تعالے) چھ جاہ حقار نہ تہ کھوتھ

وَإِذَا تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ
وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ
مُبْدِي سِرِّكَ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ
أَنْ تَخْشَاهُ، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا
وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لَيْكَ لَا يَكُونُ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي إِزْوَاجِ
آذِيَابِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا

سہ بعضے مفسر چھ لیکھان نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی پستہ پوہ چھتہ بیہ سوتہ
نکاح کرن بیڑھان تہ یہ کتھ اوسکھ دس منز کھٹھ تھاموتہ (نعوذ باللہ)۔ یہ کتھ
چھتہ صحیح اہل کتھ چھتہ۔ یہ نہ حضرت زینب اوس حضور پانہ حضرت زید ہندس
نکاحس منز ڈر ہنوز۔ تم اسی نہ بیڑھان نہ زید دہ تس طلاق تہ خاندا تس منز سپد
فتنہ پاؤ۔

وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿۳۳﴾

تس - پتہ نیلہ زیدان تسہ (یعنی زنانہ ہند) تحسہ
 پتہ خاہش پور کُر (یعنی طلاق دینیس) - اسہ
 کور تس (زنانہ) شریہ سوتی خاندہ - پتہ زن
 مؤمن ہندین دن منتر پتہ پنہن مسکتن ہنشن
 آشنہ سوتی نکاح کرلش متعلق، کانہہ حرصہ روزہ
 نہ سیلہ تمن طلاق میولمت آسہ، تہ خدایہ
 ہندس فاملس اوس ہر حالس منتر پور میدتہ روزان
 نیس پتہ پتہ چھنہ کانہہ الزام، تتہ معاملس منتر
 یس اللہ (تعالے) ہن تس پتہ فرض کورمت
 چہ۔ یوہ ہے طریق اوس اللہ (تعالے) ہن یروٹو
 ہن لوکن منتر جاری کورمت تہ خدایہ سہ حکم
 تہ چہ کھ فاصلہ سیدمت چیز (کانہہ منکر تہ تتہ
 وابتہ)۔

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ
 اللَّهُ لَهُ، سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا
 مِنْ قَبْلِهِ، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا
 مَقْدُورًا ﴿۳۱﴾

(یوہ ہے سنت اوس بروٹھہ گذرے برتہن پیغین
 منتر تہ جاری)۔ ہم اللہ (تعالے) ہندک پیغام
 لوکن واتنا وان اوس تہ تسو اوس کھوژان تہ اللہ
 (تعالے) ہس ورای اوس نہ بیہ کانہہ کھوژان تہ
 حساب ہنشن منتر چہ اللہ (تعالے) کانی۔
 نہ اوس محمد توہ منتر کانہہ مہنوی سند مول نہ
 چہ (تہ نہ آسہ) مگر سہ اللہ (تعالے) سند رسول
 بیہ چہ خاتم النبیین۔ تہ اللہ (تعالے) چہ
 پر چہ کتہ چیز نش زبر یا کتہ زانی باب۔
 اسے مؤمنو! اللہ (تعالے) سند ذکر اوس واریاہ
 کران۔

يَا الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ
 وَيَحْشَوْنَ اللَّهَ وَلَا يَحْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ
 اللَّهُ، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿۳۰﴾

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ
 وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، وَ
 كَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿۳۲﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا! اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا
 كَثِيرًا ﴿۳۴﴾

لہ عین ہنر مور یعنی تہند تصدیقہ تہ تہنتر پاروی ورای ہنیکہ تہ کانہہ انسان نبوت
 یا ولایت جامل کر تہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چہ فرما وان بہ اوس تمہ وہ بہ
 تہ خاتم النبیین نیلہ آدم ونہ آس تہ رہ منترے اوس۔ سارے نبیین ہنر صداقت چھین
 اسہ پیٹھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہند تصدیقہ سوتی ثابت لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ و
 سلمن ہند آخری نبی آسک مطلب چہ یہ نہ خدا تعالے ہس نزدیک چہ تہند زبہ
 سار وہ نبیو ہند کھوتہ تھو تہ تہند رتہ پور چھنہ کانہہ رتہ۔

وَسَيَحْوُهُ بَكَرَةٌ وَاَصِيلاً ①

هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَ مَلَائِكَةُ
لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ
وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ②

بہ اسو صبحن تہ شامن تو ہنتر تسبح کران۔
سے چھ یس تو بہ پیچہ پستہ رحمتہ سوزان
چھ تہ تندر ملائک تہ چھ تہندہ خاطر دعا
کران یتہ زن (تمیک پھل پہ نیر ز) سہ
ان و تو بہ انہ گٹو منتر نوز کن بیہ چھ سہ مؤمن
پیچہ پھیرک پھیرک رحم کران وول۔

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَّ
اَعَدَّ لَهُمْ اَجْرًا كَرِيْمًا ③

بیانہ تم تس سستی ملاقات کران جن میلہ دعاہج
وال سلامتی ہنتر شکہ منتر بیہ کر سہ جن
ہندہ خاطر اکھ بوڈ عزتہ وول اجر تیار۔
اسے نبی! اسہ چھک تہ اتہ حیثیت منتر سوزت
ز تہ چھک (ڈمیہک) نکران تہ، (مؤمن)
تو شجر دہ وول تہ تہ (کقرن) کھوزتاون وول تہ۔
بیہ مزید (چھک) تہ اللہ (تعالیٰ) ہندہ چھک
تس کن ناد دہ وول تہ پرزبون آفتاب بناؤتہ
(سوزت)۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَدَسَلْنَاكَ شَاهِدًا
وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيرًا ④

وَّ دَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهِ وَّ سِرَاجًا
مُنِيرًا ⑤

بیہ و مؤمن بشارت ز تم میلہ اللہ (تعالیٰ)
ہندہ طرفہ سہما بوڈ فعل۔

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ يَاۤنَّ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ
فَضْلًا كَثِيْرًا ⑥

بیہ ز مانی ز تہ کافرن تہ منافقن ہنتر کتہ ہرگز۔
تہ تہندہ اذا دین ترہن تراوتہ۔ تہ اللہ (تعالیٰ)
ہس پیچہ کر توکل تہ اللہ (تعالیٰ) چھ کارماز
آسٹس منتر کافی۔

وَلَا تُطِيعِ الْكٰفِرِيْنَ وَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَاَدَّ
اٰذُهُمْ وَاَتَوَكَّلْ عَلٰى اللّٰهِ وَاَكْفٰى بِاللّٰهِ
وَ كَيْلًا ⑦

اسے مؤمنو! بیلہ تو ہی مؤمن زنان سستی خاندہ
گرو پتہ دیو تم، تم چھو نہ بروٹھے طلاق
تہ تو بہ چھتہ کاشہ حق ز تم و لو عدت پلار
کران۔ او کئی (شوبہ ز) تم واتا و کینہہ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نَكَحْتُمُ
الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِّنْ قَبْلِ اَنْ
تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ

سہ یتہ آہس منتر چھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب ونبہ آمت۔ آفتابس چھ پتہ
ذاتی نور آسان۔ تہ آمت محمدیس منتر چھ کینہہ و جویم امہ روحانی آفتابک فاض تلمتہ و
بہن انہ گٹن وور کران چھ یتھکنی زون آفتابک نور منعکس کرتہہ از گٹہ راترن گاشراوان چھیہ۔
سہ بیہ ہم ستر سیدہ بروٹھے۔

تَعْتَدُوْنَهَا ۖ فَمَتَّعُوْهُنَّ وَاَسْرَحُوْهُنَّ
سَرَاحًا جَمِيْلًا ۝

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ
الَّتِي آتَيْتَ أُجُودَهُنَّ وَا مَا مَلَكَتْ
بِيَمِينِكَ مِمَّا آفَاءَ اللَّهِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ
عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَ
بَنَاتِ خَالَتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَا
وَأَمْرًا مُّؤَمَّنَةً إِن وَهَبْتَ نَفْسَهَا
لِلنَّبِيِّ إِن آرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنْكِحَهَا
خَالِصَةً لَّكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ قَدْ
عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَا
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ
حَرَجٌ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

دُنْيَاوِي قَائِدِ تَبَّ حَم كُرُوْا لِكِه بَرْبِرْسَان رُوْخَصْت

اے نبی! چاہو (موجود) آشنو منتر تم میں شریعہ
تہند حق مہر ادا کورمت چھتھ، چھینا سہ جانہ خاطر
حلال کرک منتر۔ بیتھے پاٹھو آئینہ خاطر تم زمانہ
پہندر مالک پٹاڑی ڈھیڑا تھ سیدہ ہتی چھ ایم
اللہ (تعالیٰ) ہن چائس قبض منتر جنگ پستہ
اڑی منتر چھینہ۔ بیتھے پاٹھو چائس پستہ ہنتر
کور، بیتھے چائس پوجھن ہنتر کور، بیتھے چائس ماہہ
ہنتر کور، بیتھے چائس ماس ہنتر کور یو تریہ سوتی
ہنتر پان نبی ہند خاطر ہبہ کور۔ بشرطیکہ نبی
کر تھ سوتی لکا جگ اراد۔ بیتھے چھ خاص
کر تھ جانہ خاطر، تہتہ مؤمن ہند خاطر چھینہ
اسو چھ تہ زبر پاٹھو زمانہ بیتھے اسہ یکن
(مسلمان) پیٹھ تہنتر آشنن متعلق تہ تہنتر
کینتر متعلق فرض کورمت چھ، بیتھے زن
تریہ پیٹھ کانہہ نامناسب روٹ سپدہ تہ
اللہ (تعالیٰ) چھ سپٹھا کجتن وول تہ پھیرک
پھیرک حرم کرن وول۔

یکو (آشنو) منتر یوسہ تہ بیتھے ہن کرن
الک تہ یوسہ تہ بیتھے ہن سوہ تھون پائس
لش۔ تہ ہنو زمانو منتر پیمہ تریہ بیون کجہ
منتر چھتھ۔ اگر تہ کانہہ پائس لش ان ہن
تہ تریہ پیٹھ چھتہ کانہہ گوناہ۔ بیتھے چھینہ
تھ کتھ سپٹھا جاد نزدیک تہ تہنتر اچھ شہلن
تہ تم ہن تہ عم تہ بیتھے کینترھا تریہ ہن بیتھ
چھتھ، تھ پیٹھ کترھن سارہے راضی۔ تہ
اللہ (تعالیٰ) چھ تہندین وول ہنتر پرتھ کتھ
زمانہ بیتھے سپٹھا زان وول (تہ) سپٹھا

تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُغْوِي إِلَيْكَ
مَنْ تَشَاءُ ۚ وَمِنْ أَهْلِ عَمْرٍاءَ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَٰلِكَ إِذْ أَنْ تَقَرَّ
أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَخْرُجَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا
آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي
قُلُوبِكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ۝

لَا يَجِدُ لَكَ الْإِسَاءَ مِنْ بَعْدِ وَلَا أَنْ
تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ
حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ
اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَاقِبًا ﴿۳۳﴾

۳۳

حلیہ وول۔

چاہئے خاطر چھین (امیر علاؤ) زمانہ از پتہ حلال
تہ نہ چھہ یہ حلال نہ یہ از یہ آشتہ بدلوئے
کرکھ تہ بیہ آشتہ باے تہند حسن تہیہ کوتاہی
پر نیون آسی الاموزناتو وراہی مہندی مالک
چاہی ڈھچھی اتھ سپدی ، تہ اللہ (تعالی) چھہ
پر تہ کتہ چیزک نگران۔

اے مومنو! انہی ہندین گرن منتر مہ اوسو ہرگز
اثران ، امیر وراہی نہ توہی بیو کھپتہ خاطر سال
دہتہ اتہ ، سہ تہ بیہ شرطہ سان نہ کھین
رہنہ بیہ کس انتظارک منتر مہ اوسو بہتہ روزان
تہ نہ اسی زبو کتہ کرنہ کہ بار مہ بہتہ روزان۔
اماہ پوزہ نیلہ تہہہ اویو کرنہ تہ نیلہ اوسو ضرور
گرتھان۔ پتہ نیلہ کھین کھتہ سپان اوسو
پتہ اوسو زبو پستہن پستہن گرن گرتھان۔
یہ کتہ ایہ بیہ قاید بہتہ روزان یا بروٹھے
پن (اوس تبیس تکلیف دوان۔ مگر اوس
(تہند خیال کرتہ) تہہہ (منع کرنہ) لنتہ

منہر چھان۔ مگر اللہ (تعالی) چھہ بیہ کتہ
بیان کرتہ لنتہ (لوکن ہندو خیال کتہ) بہتہ
روزان۔ بیہ (شوہ تہ) نیلہ توہی (یعنی
نبی سہنن آشتہن) کانہہ گرتہ چیز منگوتہ
پر پتہ کتہ اسی زبو منگان۔ یہ کتہ چھہ تہند
دن تہ تہندین دن ہند خاطر سٹھا رتہ۔ تہ
اللہ (تعالی) ہندس رسولس تکلیف وین چھہ
تہند خاطر جائز تہ نہ چھہ یہ جائز نہ توہی کرو
تس پتہ سہنن آشتہن سہتی زانہہ تہ خاند
یہ کتہ چھہ اللہ (تعالی) ہند فاصلہ مطابق
سٹھا ناکار۔

اگر توہی کانہہ چیز نون گدو یا کھوتہ اللہ (تعالی)

يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا
بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى
طَعَامٍ غَيْرِ نَظِيرِينَ إِنَّهُ دَلِيلٌ إِذَا
دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ
فَانْتَشِرُوا وَلَا مَسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ
إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي
مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ إِذَا
رَأَى سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَلُّوهُنَّ مِنْ
وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ
وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا
رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ
مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ
عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿۳۴﴾

ان تہدو اشیئا او تحفوه فان الله

كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿۵۱﴾

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا
أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا
إِخْوَانِهِنَّ وَلَا آبَائِئِهِنَّ وَلَا
نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ
وَأَتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
بِكُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿۵۱﴾

چھ پر تجھ کا شہ چیز زبر پانچھ زمان -

بین ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوزن گر
واجبوں (پچھ چھتر پہنہن مالن، یا پسنہن
نیچوہن یا پسنہن باین یا پسنہن یا پسنہن
بہ پسنہن یا پسنہن ہم رتبہ زنان یا پسنہن زبر
قبضہ کنہن بروٹھ کن پسنہن منز کا نہہ پانہن
بیہ اللہ (تعالے) سُنْد تقویٰ پراوو۔ اللہ (تعالے)

چھ پر تجھ اکھ چیز و پھان -

اللہ (تعالے) چھ یقیناً اُمس نیس پچھ رحمت
تا نزل کران تہ تہندہ ملاک تہ (چھ یقیناً تہندہ
خاطر دغا کران، اوکتی) اے مؤمنو! توہو تہ
اُمس اُمس نیس پچھ درود سوزان تہ تہندہ
خاطر دغا کران روزان بیہ اُمس تہندہ خاطر سلامتی
مکان روزان -

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿۵۲﴾

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ
اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ
عَذَابًا مُهِينًا ﴿۵۲﴾

تم لوکھ ہم زن اللہ (تعالے) تہ تہندہ رسول
اذا ووان چھ، اللہ (تعالے) چھ تمن (پچھ)
دنیاہس منز تہ تہ اندرس منز تہ پسنہن قمرہ
نہشہ محزوم کران۔ بیہ چھ تہ تہندہ خاطر رسوا
کران وول عذاب تیار کر تہ تھومت -

وَالَّذِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَ
الْمُؤْمِنَاتِ بغيرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ
اخْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿۵۳﴾

تم لوکھ ہم زن مؤمن مردوں تہ مؤمن زنانہ
ورایہ زہتمو اسہ کا نہہ تصور کوڑمت، اذا ووان
چھ۔ تہمو لوکو چھ خطرناک اپز تہ ٹا کا پر گونہک
بور پانس پچھ تہمت -

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأُذَوِّجَكَ وَبَنَاتِكَ
نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ
جَلَابِئِبِهِنَّ، ذَلِكَ آذَنِي أَنْ يُخْرِفَنَّ
فَلَا يُؤْذِينَ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا

اے نبی! پسنہن آشنہن تہ پسنہن کورین تہ
مؤمنہن ہزن آشنہن ون زہ (بیلہ تم نمبر
تیرک) پسنہن بچہ تراوہن آسن کلہ پچھو لہمتہ
پسنہن وچھن تمام واتنا وان۔ امر سہتو سپد

۱۔ عیس مشرک مسلمان زناہ عرس مولا کس پوڑہ ووان تہ پسر نیر نہ وزیر اسہ اکہ پڑا دیو پچھ دیوان تہ تمبیک
تہ سپک اسہ ستر کران یو سہ چھ اسلامی پڑہ

رَّحِيمًا ⑩

ممکن نہ تم میں پرہیزناویہ ہے تمہیں پیسہ نہ تکلیف دینے نہ اللہ (تعالیٰ) چھ بڑے بخش و دل (تم) پھیر کر پھیر کر رحم کرن وول۔

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِبَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِدُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ⑪

اگر منافق مرد نہ تم لوگ مہتدین دن منتر مرض چھ بیہ تم لوگ یکم زن مدینس منتر اپڑ شوویہ تراوان روزان چھ ، بازین نہ تمہے اسی کرو تھہ ترہتمن لوکن خلاف (اگر وہ) استاد پتہ گزارن تم تریہ سترہ بیٹہ شہرس منتر کم سے کالس تمام ہمسائیگی منتر وقت۔

مَلْعُونِينَ ۖ أَيُّهَا الَّذِينَ أُخَذُوا قَاتِلُوا قَاتِلِيًّا ⑫

تم مہتدین تمہے اتھ گلن پڑیہ نہ تم میں رٹنہ تمہے قتل کرنہ تمہے کیا نہ تمہے خلیہ بند رحہر ہتہ محروم کرنہ آہو۔

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۗ وَلَٰكِن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ⑬

اللہ (تعالیٰ) سُنَد سُنَد (پڑاؤ) میں تمہن لوکن منتر رائج اول یکم توہہ بڑو تھہ گدرے ہتہ چھ بیہ بیکھ نہ تمہے زانہہ اللہ (تعالیٰ) سہنرس سنس منتر فرق۔

يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ۗ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَمَا يُذْرِيكَ كَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ⑭

لوگ بھی تریہ اند و اتاون واجنہ گر متعلق ترہان ترہان نہ تمہیک علم چھ بس اللہ (تعالیٰ) ہنس نہ تریہ کیا چھ یہ کتھ معلوم نہ شاید سو گڑ آسہ نہ دیکھے؟

إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكُفْرِينَ ۚ وَآمَدَ لَهُمْ سَعِيرًا ⑮

اللہ (تعالیٰ) ہن چھ بے تنک کافر پینہ قریہر ہتہ محروم کرک ہتہ بیہ چھن تہندہ خاطر کھ وہن عذاب تیار کورمت۔

خَلِيدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ⑯

یتھ منتر تم ہمیشہ روزان گڑھن (بیہ ہتہ) ہن نہ کانہہ دوست نہ نہ مددگار۔

يَوْمَ ثَقُلَتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ ۚ

یئہ وہ ہر تہندین بڑن بڑن انسان نارس پیٹھ پھیر دینہ پیسہ سک۔ تمہے ون اے کاش!

سہ نہ تمہے مسلمان ہنہر نہانہ۔ اے وچوہا، تو کہتی یعنی نہ تمہے سردار۔
سہ تمہے کاش کبائس تنگن پیٹھ پھیر دینہ یوان چھ۔

أَطَعْنَا الرَّسُولَ ۝

اُسو کر ہو اللہ (تعالیٰ) تہ تمہیں رسولہ پہنچے
فرمانبرداری۔

وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَ
كِبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا ۝

تہ (عام لوگ) وٹن - اے سائے پروردگار! اسے
کڑے پستہن سردارن تہ زبھن ہنز فرمانبرداری
اد اسی ڈالی تمہو (اصلی) وتہ ہنہ۔

رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ
وَآلَعْنَهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ۝

اے سائے پروردگار! تمنن و دہگن عذاب تہ تم
کرکھ پستہ رحہ ہنہ دور۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا
كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا
قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا ۝

اے مؤمنو! تو ہی مہہ بھو تمن لوکن ہندری پاکو
یہو موسیٰ ہس اذا وڑاو۔ یتھ پھہ اللہ (تعالیٰ)
ہن سہ بری قرار وڑاو تمہو کتھو ہنہ ہم تم
(س متعلق) کران اسی تہ سہ چھ اللہ (تعالیٰ) ہند
در بارس منز تھو شتان تھوان۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ
قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝

اے مؤمنو! اللہ (تعالیٰ) سہ تقویٰ پرا ووبہ
وولو سہ کتھ یوسہ ودر آسہ نہ، (بلکہ پیز آسہ)۔

يُضْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَخَفِزْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
فَقَدْ قَارَفَ زَا عَظِيمًا ۝

(اگر تو سہ کرے) تنیلے کر اللہ (تعالیٰ) تھندری
امال ٹھیک۔ بیہ کر تھندری گوناہ معات، تہ
یس شخص اللہ (تعالیٰ) تہ تمہیں رسولہ پہنچے
فرمانبرداری کر سہ چھ بڑ کامیابی لبان۔

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ
وَ الْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ
يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
الْإِنْسَانُ، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۝


اسہ کریاو (شرعیات) کمال امانت آسمان تہ
زمینہ بیہ بالن بروٹھ کتہ پیش۔ اماہ پلوز
تہو کور سہ تلہ ہنہ انکار تہ آتھ کھوڑی مگر انسان
تل سہ (پور) سہ چھ یقینا سہٹھا ظلم کرن لہ
دول (تہ) تہتجو ہنہ بے نکر۔

لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ
وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ
وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هُمْ

(سائے امر شرعیات) پور لہنگ (تہتجو سید یہ
نہ منافق مہوین تہ منافق زنان تہ مشرک
مہوین تہ مشرک زنان ویت اللہ (تعالیٰ)

۱ یتھ آیس منز چھ کمال انسانہ سہ ذکر کر نہ آمت نہ سہ چھ پاس پھہ ظلم کر تھہ
شرعیات پور پستہن نکھن پھہ تھان۔

المؤمنین دَرَّكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَّحِيمًا
 من عذاب - تہ مؤمن مہنوں تہ مؤمن زمان
 پیٹھ کورن نفل - بیہ اللہ تعالیٰ) چھہ بیہ
 بوڈ بخشش کرن وول (تہ) پھیرک پھیرک رم
 کرن وول۔



سورة سبا: یہ سورہ چھہ کلی تہ اسم اللہ چھہ اتھ پانز و نزاہ آہ بیہ پھس شنیہ رکوع۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①
 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ
 مَا فِی الْاَرْضِ وَ لَهٗ الْحَمْدُ فِی الْاٰخِرَةِ ۝
 وَ هُوَ الْحَكِیْمُ الْخَبِیْرُ ②
 یَعْلَمُ مَا یَلِجُ فِی الْاَرْضِ وَ مَا یَخْرُجُ
 مِنْهَا وَ مَا یَنْزِلُ مِنَ السَّمٰوٰتِ وَ مَا
 یَعْرُبُ فِیْهَا ۝ وَ هُوَ الرَّحِیْمُ الْغَفُورُ ③
 وَ قَالَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا لَا تَأْتِیْنَا
 السَّاعَةُ ۚ قُلْ بَلٰی وَ رَبِّیْ لَنَأْتِیَنَّكُمْ ۚ
 عَلَیْمُ الْغَیْبِ ۚ لَا یَعْرُبُ عَنْهُ مَثْقَالَ
 ذَرَّةٍ فِی السَّمٰوٰتِ وَ لَا فِی الْاَرْضِ وَ لَا
 اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَ لَا اَكْبَرُ ۚ اَلَا فِیْ كِتٰبٍ
 مُّبِیْنٍ ④

(بہ چھس، اللہ تعالیٰ) مند ناو ہتھ (پران) یس
 صہ روس کرم کرن وول (تہ) پھیرک پھیرک رم کرن
 وول چھہ۔
 ساری تعریف چھہ اللہ تعالیٰ) ہندی۔ (بیہ) یہ کینہہ
 آسان تہ زمینہ منز چھہ سورے چھہ تندے تہ
 (تہ) کتو سہ گوہر حمد حقار چھہ (آخر) پٹھہ تہ
 چھہ سہ حمد حقار آسان۔ بیہ چھہ سہ کن چھہ تہ
 ہند تابک (تہ) پتھہ چیز ہتھہ چھہ خبر دار۔
 یہ کینہہا زمینہ منز دا نفل سپان چھہ اتہ
 چھہ سہ زمان، تہ یہ کینہہا امہ منز نیران چھہ تہ
 چھہ زمان بیہ تہ یہ آسانہ وسان چھہ بیہ تہ یہ
 آسانس کن کھسان چھہ۔ بیہ چھہ سہ پھیرک پھیرک
 رم کرن وول (تہ) سٹھا بخشش وول۔
 بیہ وون کافرو تہ سانہ تہ مچہ تہ ہی ہنز تہ گرو
 وچھوں تہ اس۔ تہ وون تہ کتھ چھہ۔ منہ بہتھ
 پسنس (تہ) پروردگار سند قسم یس غابک
 زان وول چھہ بیہ آسان تہ زمینہ منز کانہہ
 چیز چھہ تہ نظر تہ کھتھ روزان۔ اد اکس
 وہ زجر ریبہ سب تہ اسکتن یا تمہ کھوتہ تہ
 لوکٹ یا تمہ کھوتہ بوڈ اسکتن، یہ گرو وچھوں
 تہ ضرور تہ کیار سہ چھہ اکس نون کڈن

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ①

اُمس دستاویزس مشرُترتھرته۔
(تمہ گریہ بندین چھ او موکو ضروری) میخہ زن اللہ
(تعالے) مؤمنین تہ ایمانہ مطابق عمل کرن والین
وہ تہندہ ایمانہ تہ عملہ مطابق جزا۔ تم چھو بے شک
تھو زہتم روزِ قیامہ بندِ طرفہ مغفرت تہ عزتہ
وول رزق ہمیشہ واتان۔

وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُجْرِبِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ ذِجْرِ أَلِيمٌ ①

بیہ تم لوکہ یم سانین نشان متعلق (اسہ) عا جز
کریخ کوشش کران چھو بہن میلہ تہندہ گونا گونا
باعثہ کر لوٹھ غلاب۔

وَيَرَى الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، وَ يَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ①

بیہ تم لوکہ یم علم دہن آمت چھو، چھو سہ
چیز حق زانان یس تریہ کن چابنس پروردگار
سندِ طرفہ نازل سپدت چھو۔ بیہ یہ (تہ چھو
زانان) زہ (سولہ تعلیم) چھو غلاب تہ حمد
وایس خدایس کن زوان۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنْبِئُكُمْ إِذَا مُرِّقْتُمْ كُلَّ مَمْرَقٍ، إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ①

بیہ تم لوکہ ایو کفر کورمت چھو، چھو ونان زہ اسے
لوکو! ایسا دیووا توہہ اُکس شخصہ سند
چہ پتہ؟ یس توہہ یہ وان چھو زہ نیلہ لو کفر
(مشرہ پتہ) ریزہ ریزہ کرنہ پیو تو پتہ جورنہ پتہ
بدلو توہہ اُکس نو یاد آیشہ ہنر شکہ مشرہ
ادسہ شخصہ جھا اللہ (تعالے) ہس پیٹھ اپز
لا کتھ تھوان؟ کہہ تس چھو مشرہ۔ یزہ کتھ پتہ
بلکہ یم لوکہ اُکس پیٹھ ایمان چھو انان۔ تم چھو
(دیکھو بدخیالو کتہ و ذک کہ پیٹھ) عدایس تہ خطرناک
گرا ہی مشرہ ہسبہ آتہ۔

أَفَتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ، بَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ①

کیا تمہو چھتا تھہ چیزس کن یس آسمانہ تہ زمینہ
پیٹھ تہندہ بروٹھو مہ طرفہ کتہ بیہ تہندہ پتہ مہ
طرفہ کتہ، تم گریہ کر تھہ چھو۔ اگر اسی بیترتھو تہ
تم کروکہ تہندہ سہ ٹکس مشرہ مصیبتن مغز مبتلا
یا کرو تم پیٹھ اوہر چہ کینہہ چھلہ نازل۔ اتھ مشرہ

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، إِنَّ نَشْأَ نُخِيفُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطُ عَلَيْهِنَّ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِرَجُلٍ عَبْدٍ مُنِيبٍ ①

چھ خدایس کن تمن واپس پر پتھ بندہ بندہ خطر
اکھ نشان۔

بیہ کریاو اسہ داؤدس پسنبہ طرفہ فعیس عطا (تہ
ونیاس نر) اے پہاٹن ہندو روزن والہو! توہی
تہ تو اے جانا تو توہی تہ کرو تس سستی تسبیح
بیہ اوس اسہ تمہر ہندہ خاطر شہتر نرم کورمت۔
(بیہ اوسس وورمت) کھلہ ڈلہ نرہ بناو تہ تہندک
کری بناو زلو لوگو لوگو۔ بیہ (اے داؤد ہندو
سستی باجو!) پسنبہ اپمانہ مطابق کرو عمل۔ یہ
چھس تہندک اعمال وچھان۔

بیہ (اسر اوس) سلیمانس تیبہ ہوا (عطا کورمت)
نیگک صہک کین اوس ریتس برابر آسان اوس۔
تہ شاک کین تہ اوس اوس ریتس برابر آسان ،
بیہ اوس اسہ تہندہ خاطر تراہہ تاکہ ویکو وورمت
بیہ اوس اسہ تس چنن تہ ہنر اکھ جماعت تہ عطا
کری ہنر یوسہ تہندس پروردگار ہندہ حکمہ تہندس
فرانس ماتحت کام کران اوس۔ تہ (بیہ اوس
اسہ وورمت نر) تمہو مشر بیس اکھ ساہہ حکمہ نشہ
(ڈلہ تہ) ہجر بلو اوس واتنا ووس و ہون عذاب۔
سہ یہ کینترہا ہنرہان اوس۔ جن (یعنی نررت
قبائل ہندی سردار) اوس تہندہ خاطر تہ بناوان، یعنی
مسجد تہ گرتھہ شہر تہ مجسمہ بیہ بڑی بڑی ٹھہ ایم
تلوان برابر اوس آسان، بیہ بجز بجز دیکھ پتھ پر پتھ

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يَجِبَالٌ
أَوْ يَمَعَهُ وَالطَّيْرَ بِرِئَاكَ لَهُ
الْحَدِيدُ ﴿۱۱﴾

أَنِ اعْمَلْ سِيغَتَ ۖ وَقَدْ ذِي الشَّرِّ ۖ
اعْمَلُوا صَالِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ﴿۱۲﴾

وَلِسَلِيمَانَ الرِّيحَ غَدُوَهَا شَهْرًا ۖ
رَوَّاحُهَا شَهْرًا ۖ وَآسَلْنَا لَهُ عَيْنَ
الْقَطْرِ ۖ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ
يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَمَن يَزُغْ
مِنْهُمُ عَن آمِرِنَا نُذِقْهُ مِنْ
عَذَابِ الشَّعِيرِ ﴿۱۳﴾

بِعَمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ ۖ مِنْ مَّحَارِبٍ ۖ
تَمَّكَ ثِيْلًا ۖ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ ۖ وَقُدُوْرٍ
رُّسِبَتٍ ۖ اِعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا ۖ
وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ ﴿۱۴﴾

۱۱ یعنی روحانی پروردگارن اول نیک لوکھ۔

۱۲ یعنی بجزی تجارتی ہوا ایم خلیج فارسہ پیٹھ انطکیہ تمام پکان اوس، تہ حضرت سلیمان

ہندی بادبانی بجزی جہاز اوس خوب تجارت کران۔

۱۳ یعنی تس اوس ترام ونگلاو پنج ہنر تہ صنعت معلوم تہ تمہو آسہ اسہ چہر ہدی ہدی

کارخانہ لاگربت

۱۴ یعنی زوراور چہر بلا سے ہور پہاڑی لوکھ۔

وقتے تروین پیٹھ روزان آسہ - (بیر وون اسہ) اسے
 داوود بندہ خاندانہ کپو لوگو! شکر گذاری سن کرو
 عمل تہ میا تہو بندو منز چہ سپہا کم لوکھ شکر
 گزار آسان۔

پتہ نیلہ اسہ تہندہ خاطر موت ذبک فاصلہ کور تہ تہمن
 (یعنی سرکش قومن) دتر تہندہ مو پتج خبر اکو زینک کینرہ
 یس تہندس (حکومت بکس) فاضل کھوان اوس
 پتہ نیلہ سہ ووسی پیو تہ جنن پیٹھ سپہا ہر زراگر
 بہن علم غاب آسہ ہے نیلہ روز بہن تہ تم ذلاتہ
 وایس غالیس منز ہے پیٹھ۔

(قوم) سبأ پسند خاطر اوس تہندس پنفس ملکس منز
 اکھ یوڈ ہشاندہ موبوڈ۔ (تہ سہ اوس) دون باہن
 ہنز شکہ منز کپو منز اکھ ڈچہو کپو اوس تہ اکھ
 (اوس) کھور کپو۔ (بیر اوس اسہ بہن ونبہ تہمت
 تہ) پینس پروردگار مند رزق کینو تہ تم سہند
 مشکرا تہ کرو۔ (تہند) شہر چہ اکھ شوہر دار شہر تہ
 (تہند) پروردگار چہ سپہا بخش مار۔

پتہ تہ چہر تہمو (حقہ تہش) تہر۔ اڈ سوز اسہ
 (تہندہ حق لبند ہشاندہ ناومید سپہتہ) بہن پیٹھ پیٹھ
 سلاب یس پر تہتہ (کتہ) چہس تباہ کران گتہان
 اوس۔ بیر وڈ اسہ بہن تہندہ پو تہندہ پایہ کین باہن
 ہنز جایہ تہتمو بارغ پینہدی مہو شیٹھو تہ بیہ منز
 اسی بیر بہن منز اسی کار زرنڈ تہ موبوڈ بیر اسی
 کینہہ بیر کلو تہ۔

یہ سزا اوس اسہ بہن تہہنز ناشکری ہند سبہہ دیت
 مت تہ ناشکری کرن والینے چہ اسی تہ بدہ دول۔

بیر آسہ اسہ بہن در میان تہ بہن بستین در میان

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ
 عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ
 مِنسَاتَهُ ۚ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنَّ
 أَن لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا
 لِيُثْأَفِيَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿۱۱﴾

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ ۚ
 جِئْتَنِي عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ ؕ كُلُوا مِن
 رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ؕ بَلَدَةٌ
 طَيِّبَةٌ وَرَبِّ غَفُورٌ ﴿۱۱﴾

فَاعْرَضُوا فَاذْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَبِيلَ
 الْعَرَبِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ
 ذَوَاتِي أُكُلِ خَمْطٍ وَآثِلٍ وَثَمِيءٍ وَن
 سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴿۱۱﴾

ذٰلِكَ جَزَآئُهُمْ بِمَا كَفَرُوا ۗ وَهَلْ
 نُجْزِي ۙ اِلَّا الْكٰفِرِيْنَ ﴿۱۱﴾

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَىٰ الَّتِي

یعنی حضرت سلیمان مند وارث اوس دژ میہک اکھ کوزم (۱۔ سلاطین باب ۱۲) سہ نیلہ
 تختس بیٹھ تہ تہہنز حکومت تباہ کر تہ تہ ساری قبایل سپہ کتس باغی

بَرَكْنَا فِيهَا قُرَىٰ ظَاهِرَةً وَ قَدَدْنَا
فِيهَا السَّيْرَ سَيْرُوا فِيهَا لِيَالِي دَ
آيَاتًا مَّا أَمِينِينَ ﴿۱۱﴾

یمن اسم بركت دژ پشراس (یعنی فلسطین یمن
سلیمان ملک اوس) واریاہ محام آباد کرکڑ و تو۔ ہم اکھ
اگس بروٹھ کنہ تہ نزدیک (نزدیک) اوس۔ بیہ
اوس اسم اکہ لبتیہ پٹھ بیس بستی تمام گرنہ صنگ
سفر کم کورنت تہ و دومت اوس نہ توہر اوس زوہ
رات کیت تہ تہ دوہلہ تہ تہ من منز امتہ سان
سفر کران۔

فَقَالُوا رَبَّنَا بَعِثْ بَيْنَنَا
ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ
وَمَرَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَرِّقٍ ؕ لَاتَ فِي ذَلِكَ
لَايِبٌ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿۱۲﴾

ادہتمو دون (شکرانہ کرنہ بدلہ) نہ اے سانہ
پروردگار! ساڈا سفر ز سیرا (میٹھ نہ سائل تہ
سفر نہ پیر) بیہ کورہتمو پیننہن زون پیٹھ ظلم
ادہ اسم تہن تہنہ ناو نہنہاوتھ تہ تم ہنادو قدم
ز ہادو داستان۔ تہ تباہ کرکھ کورکھ لوکھ سورا۔ اتھ
منز چہ صبر کرن و اوس تہ سبھا شکرانہ کرن و اوس
بندہ بند خاطر بڑو نشاہ۔

وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ
فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۳﴾

بیہ کورہ ابلیس تمن بندہ تہر بین خیال پوز ثبات
تہ موین ہند اکھ دور تراوتھ کرمتی مولو کو (یعنی
کافرو) تہنر پاروی۔

وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطٰنٍ إِلَّا
لِنَحْلَمَهُ مِّن يُّوْمٍ بِالْآخِرَةِ يَمُنُّ هُوَ
مِنْهَا فِي شَكٍّ وَ رَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
حَفِيظٌ ﴿۱۴﴾

حالانکہ تس (یعنی شیطانس) اوس نہ تمن پیٹھ کانہہ
قبضہ حاصل (یہ سپد صرف او خاطر نہ) میٹھ اوس
تمن لوکن ہنر اندہم حقیقت نہ راوہ ہم آخرتس پیٹھ
ایمان اتن و اچھ، تمن مقابلہ ہم آخرتس پیٹھ
شک تھوان چھ۔ تہ چون پروردگار چھ پر تہ چرک
راچھد تہ بکران۔

قُلْ اذْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّن دُونِ
اللَّهِ ؕ لَا يَمْلِكُونَ وِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي
السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَ مَا لَهُمْ فِيهِمَا
مِن شِرْكٍ وَ مَا لَهُ مِنْهُمْ مِّن ظٰهِيٍ ﴿۱۵﴾

ترہون نہ بین لوکن توہی سینہ خیال مطابق اللہ تعالیٰ
ہس وراہی آلودان چھ ہم اٹیکھ (سینہ مدد کرنہ
خاطر) نادوتھ۔ تم چھتہ آسمان تہ زمینہ منز اوس
بچہ ریسہ برابر تہ ہرگز گنہ چرکہ ٹایک تہ بین
دہنونی (ہنر بلکیش) منز چھتہ تمن (کانہہ) شکر تہ
حاصل تہ نہ چھتمو منز تہند کانہہ مددگار۔
بیہ تہندس (یعنی اللہ تعالیٰ ہندس) (دبارس منز چھتہ

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَن

أَذِنَ لَهُمْ حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ
قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَ
هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿۱۷﴾

کاتبہ شخصہ سبز سفارش فایزہ دوان تس شخصہ سبز
سفارش ورائی تیس اللہ (تعالیٰ) ہن اجازت
وہمت آہ (یا تیس شخصہ ہند حقہ اللہ تعالیٰ
ہن سفارش کرنک اجازت دیت مت آہ) یوت
تمام زینیلہ (سفارش کرنک اجازت لین والین)
ہندلو دلو پیٹھ رعب مہ کلان چھ تہ باقی لکھ چھ
تین پررھان زوکیا ونیاو تہندری پروردگار
توہر؟ تھ پیٹھ چھ تم جواب دوان ز یہ کینرھا
تو ونیاو، پوزے ونیان۔ بیہ چھ سہ تھہ شانہ
تہ بڑ اختیار وول۔

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
قُلْ اللَّهُ وَلَا تَأْتُوا بِالْحَقِّ بَشَرًا
صَلِّ مُبِينًا ﴿۱۸﴾

(بیہ) تہ ون (ز اسے لکو!) آسمانو تہ زمینہ منز
کس چھ توہر بزق دوان؟ (تہ پتہ) ون پانے
اہ سوالہ کس جوالیس منز) اللہ (تعالیٰ)! (بیہ
کس؟) تہ ہو تہ توہر یا تہ چھ ہائیس پیٹھ
تاکیم یا چھ ٹاکار گراہی منز ولہ آہو۔

قُلْ لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نَسْأَلُ
عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۱۹﴾

تہ ون (اگر اسی تہند خیاہ مجرم چھ تہ) سائین کرن
متعلق بیہ نہ توہر پررھنہ تہ نہ بیہ اسہ تہندین عملن
متعلق پررھنہ۔

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا
بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴿۲۰﴾

بیہ ون بیتہ ز سون پروردگار کر توہر تہ اسہ (اکہ
دہ ہو اگس جنگ کس نادانس منز) جمع آیتہ کر
حقہ تہ الفناہ سان اسہ دہ لونی درمیان نما صلہ
تہ سہ چھ سارک وہے کھوتہ بوڈ (تہ) رت فاصلہ کرن
دول تہ پر چھہ کانہہ) کھتہ چھ سہ زبر پائو زانان۔
دیکھ میہ آوری توکھ تہ سہی تم ییم توہر شریک بناوتہ
تس سیدی بلناوان بیو کھ۔ ہرگز چھنہ (تسند کانہہ
شریک بناوان) درست بلکہ حق چھ یہ ز اللہ (تعالیٰ)
چھ غالب (تہ) بجز حکمت وول۔

قُلْ أَرْوِي الَّذِينَ كَفَرْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ
كَلَاءَ بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۲۱﴾

بیہ اسہ چھکھ تہ تمام آدمی دازن کن (یہو منز
اکہ تہ چانہ رسالتہ کہ آہر نمبر گرتہ نہ روزن، بیہ)
رسول بناوتہ سوزمت یس (موبان) غمہ شجر دوان

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ
بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَئِن كَثَرَتِ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُونَ ﴿۲۲﴾

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۵﴾

تہ (کافرن) ہتیار کران چھہ۔ اپوز السانوفتر چھہ
واریاہ امر تحقیقہ لبتہ بے خبر۔

بیسہ چھہ تم (جو شس مشرتیہ) زمان نہ اگر توہی
پڑی یارک چھو تہ یہ (سارکے دنیاہس تام
رسالتک پیغام ونک) وعدہ کر گتھہ پوہر؟

قُلْ لَكُمْ وَعِثَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْذِرُونَ
عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِرُونَ ﴿۶﴾

تہ ونکھہ نہ تہندہ خاطر چھہ اگر وہک معیاد گتھہ
تہ نہ ہیکو توہی تہ لبتہ اگہ گری پتھہ روزتھہ، نہ
ہیکو اگہ گری بروٹھہ نہ تھہ۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ
وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ إِذِ الظُّلُمُونَ مَوْقُوفُونَ
عِنْدَ رَبِّهِمْ يَبْزِجُ بَعْضُهُمْ إِلَى
بَعْضٍ بِالْقَوْلِ هَ يَقُولُ الَّذِينَ
اسْتَضَعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْ لَمْ
أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿۷﴾

تہ کافر چھہ زمان نہ اسی نہ تہ چھہ یہ قرآن مانان
تہ نہ تہہہ ہتیکو بیہہ اتھ متعلق کرنہ آمتر چھہ
اد اگر تہ ظالم تہہ وز وچھہکھ نیلہہ تم سینس
پرور دکاس بروٹھہ کتہ استاؤ کرنہ پن تہ تہہ
منتر آس کینہہ کینترن سبتو بحت کران تہ کمزور
دور آس کبر واپس دیرس کن دان۔ نہ اگر توہی
اُسی رہو نہ تہ اُسی اہو ہو ضرور ایمان۔

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ
اسْتَضَعِفُوا أَنْخُنْ صَدَدُكُمْ عَنِ
الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ
مُجْرِمِينَ ﴿۸﴾

کبر وول دور ونہ ہولہس منتر کمزور دیرس کن نہ
نیلہہ ہایت توہہ نش اُمت اوس تہ کیا اسد اُکروا
توہی تہہ لبتہ مٹا کتاوی توہی؟ (ہرگز نہ)
ہیکہ اُسی و توہی پانے مجرم۔

وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِلَّذِينَ
اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ الْبَيْلِ وَالنَّمَارِ
إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَ
نَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسْرَدَ
الضَّمَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَ
جَعَلْنَا الْأَعْمَلَ فِي آعْتَابِ الَّذِينَ
كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿۹﴾

بیسہ تم لاکھ یکم تو توان زانہہ اہو اُسی وئن بہن
لوکن یکم کبر واد اُسی (اُسی اُسی نہ بیتھہ مجرم
بنے ہتہ) ہیکہ تہندہ بڑا (ہندلو) تہ دکہوتدیر
بناؤ اُسی ہتہ۔ نیلہہ توہی اسد اللہ (تعالیٰ) ہند
حکمن ہند انکار کر پچ تہ تند شریک بناؤ پچ تعلیم
دوان اُسی و۔ بیہ نیلہہ (بین نافرمانین ہندس تھیں
منتر) تو اگہ خطرناک عذاب وچھہ۔ تہ (یکم لاکھ پنس
پانس بوڈ خیال کران اُسی) تمہہ ہتہ (پستین دن ہنتر)
مندچھہ کھٹتھہ معاہدہ تہ تمہو منتر یکم پونہہ کافر آس
اُسی تراو تہ ہنترن گردہن منتر طوق مار لہ۔ (تہ یہ

سزا آسید نہ تہنیزو بدکاریو کھوتہ جاو۔ متن چھنا بھکان
فکر تھتھہیز) متن یس سزا دہنہ بیہ سہ آسہ
تہنیزو علمہ مطابق۔
بیہ سوز نہ آسہ کتہہ بستی منز کانہہ ہتیار کرن ول
(نہی) تہتہ کپو مالدر آسہ نہ یہ وودنت نہ
(اسے رٹولو!) اسی چھ تہنیز رسا تکی منکر۔

بیہ چھہ تم بیتہ وتان روڈی ہتی ز اسی چھہ تہنیز
کھوتہ ماس تہ اولاد منز جاو۔ تہ آسہ بیٹھ سپد
نہ نہنہ عذاب نازل۔

تہ ون میون پروردگار تیکو بند خا طرہ بیترہان
چھہ (تہنیز خا طرہ چھہ) رزق کشا د کران تہ تیکو
بند خا طرہ بیترہان چھہ تس چھہ (رزقس منز)
کی کران۔ مگر لوکو منز چھہ واریاہ زانان۔

بیہ تہنیز مال تہ تہنیز اولاد چھہ تہنیز چھہ
بیم تو ہہ اسہ نزدیک انہ نیو۔ ماہ پوزیس ایمان انان
چھہ تہ تہنیز حالہ مطابق عمل کران چھہ (سہ چھہ اسہ
نزدیک آسان)۔ تہ تہنیز نے لوکن میں تہنیز پو
تہنیز اعمالو کفی ہری جزا تہ تم گڈ راون بال
خان تہ ڈہ اولاد منز زندگی امتہ سان۔

بیہ تم لوکہ ہم زن سانین نشان متعلق اسہ
عاجز کرنہ خا طرہ کوششہ کران چھہ۔ تم لوکہ بین
سخت عذاب برو تھہ کتہ پیش کرنہ۔

(بیہ) تہ ون میون پروردگار چھہ پتہنو بند منز
تیکو بند خا طرہ بیترہان چھہ (تہنیز خا طرہ چھہ) رزق کشا د
کران تہ تیکو بند خا طرہ بیترہان چھہ تس کیت چھہ
(رزقس منز) کی کران۔ بیہ یہ کینزھا توہی خرچ
کرو سہ کڑ تیک تہنیز ہزور۔ سہ چھہ ساری
وہے رزق دہنہ والہو منز رت (تہ کابل)۔

بیہ تیکو دوہہ سہ (اللہ تعالیٰ) متن سار کرنہ

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ
إِلَّا قَالُوا مُتْرَفُوهُمْ إِنَّا بِمَا
أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿۶۱﴾

وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا
وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿۶۲﴾

قُلْ إِنْ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ
يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُونَ ﴿۶۳﴾

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي
نُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنِ
أَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا رَأَوْا لِيَكْ لَهُمْ جَزَاءُ
الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي
الْعُرْفِ أَمْنُونَ ﴿۶۴﴾

وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا
مُتَعَجِّزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ
مُخْضَرُونَ ﴿۶۵﴾

قُلْ إِنْ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ
مِنَ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ مَا
أَنفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ
وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿۶۶﴾

دَبَّوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ

لِلْمَلَائِكَةِ أَهْوَاءَ إِيَّاكُمْ كَانُوا
يَعْبُدُونَ ﴿۷۰﴾

قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَرَبُّنَا مِنْ
دُونِهِمْ ۚ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ۚ
أَكْثَرَهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴿۷۱﴾

قَالِيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ
نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ
ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ
بِهَا تُكذَّبُونَ ﴿۷۲﴾

وَإِذَا تَثَلَىٰ عَلَيْهِمْ أَيُّنَا يَنْتِ قَالُوا
مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ
عَمَّا كَانُوا يَعْبُدُ آبَاءَكُمْ وَقَالُوا مَا
هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُّفْتَرًى ۚ وَقَالَ
الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنْ
هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿۷۳﴾

وَمَا آتَيْنَهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا
وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ
نَذِيرٍ ﴿۷۴﴾

وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ وَ مَا
بَلَّغُوا مَعْشَارَ مَا آتَيْنَهُمْ فَكَذَّبُوا
رُسُلَنَا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿۷۵﴾

سوزنا و پتہ و نہ سہ ملائکین، کیا ہم لوگ اسیا
تہنہز عبادت کران؟

تم وزن نہ چھکھ پاک، تم تڑاوتھ چھکھ صرف
تہے سون دوست (لہذا تہہ کئی نہ بیٹھ پاٹھ
کافر و ن)، بلکہ پیزر چھ یہ نہ تم اسی خیال تہ
پوشیدہ ہستین ہنہز عبادت کران تہ تمہو منہز
اسی واریاہ ہنہز ہستین پیٹھ ایمان تہ انان۔
(او کو پیہ ہنہز و سنہ) از ہکین نہ تہ ہسہ
منہز کینہہ کینہز ن فایدہ و اتناوتھ نہ (ہکین) ہنہز
(واتناوتھ) تہ اسی و تو ظالمین نہ ہسہ ہارک
عذاب تہ ہو، ہس تو ہر اپراوان اسی و ن۔

ہسہ نیلہ ہنہز ہر ونٹھ کبہ سانی ماکار نشاہ پڑتھ
ہوز ناو نہ یوان چھ تہ تم چھ و نان نہ ہسہ
چھ صرف تہتھ انسان ہس تو ہہ ہنہز (ہستین)
ہنہز عبادت ہنہز ٹھکانا و ن ہنہز ہان چھ، ہنہز ہنہز
ہمد اجلاہ عبادت کران اسی۔ ہس چھ و نان یہ قرآن
چھ (صرف) ایز۔ ہس ہنہز ہسہ ہسہ بناو نہ آمت
چھ۔ تہ نیلہ پور پور ہنہز ہنہز یوان چھ تہ کافر
چھ ہنہز ہنہز ہنہز ہنہز کئی و نان نہ تہ چھ اکھ
نہز و نہ فریب۔

ہسہ اسہ و نہ ہنہز کینہہ (آسمانی) کتاب ہکین
تم پران اسہ ہنہز (تہ ہنہز ہنہز ہنہز ہنہز
ہے ہنہز کتھ لیکتھ) ہسہ نہ چھ اسہ ہنہز کئی نہ
ہر ونٹھ کانہہ (تہتھ) ہنہز کرن و ول سوزمت
(نیو ہنہز ہے ہنہز کتھ ہنہز ہنہز و ک ہنہز ہنہز)۔

ہسہ ہم لوگ ہکین ہر ونٹھ اسی ہنہز اسی پتہ رسول
اپراو ہنہز۔ تہ ہسہ زمانہ ہنہز ہنہز ہنہز
تہہ طاقتگ ہنہز ہنہز ہسہ ہنہز ہنہز ہنہز
ہنہز ہنہز ہنہز ہنہز ہنہز۔ ہنہز ہنہز ہنہز

۵۹

برونٹھو مہو لوکو ہند کھوتہ ڈیل آسند باوجود تہ
تہند سزا وچھتہ باوجود) کوز سانین رسولن
ہند انکارے۔ اوکئی (وونی وچھوتن نرین
حالاتن منز) میانہ انکارک نتیجہ یعنی عذاب کیگتھ
چھہ آسان۔

تر دن ، برہمنو توہمہ اہہ کتھ ہنر نفیحت کران۔
اکم سے کم ، سہ تو مانو (سو چھتہ ہر اللہ تعالیٰ)
ہس برونٹھو کتھ سیدو نر نر آستھہ تہ کئی کئی
آستھہ استاد۔ پتہ کرو غور (تہ لازمی طور تہرہ یوہے
نتیجہ) نر تہندس نہیں رسولس چھتہ (کتہ قسمک)
متر۔ سہ چھہ صرف توہمہ برونٹھو پتہ والہ سخت
عذاب ہنتر ہتیار کران وول (شخص)۔

تر ونکھ میہ یوسہ تہ اجرت توہمہ (اللہ تعالیٰ مند
پنیام واتناونہ بدل) شجرتہ آسہ۔ سو فی تو توی۔
میون حق چھہ صرف اللہ تعالیٰ) ہس نش تہ سہ
چھہ پر تھہ (کانہہ) چیز وچھان۔

تر دن (بیہ ہمن) نر میون پروردگار چھہ یقینا
حقہ کہ ذریعہ (اپزس) چھہ چھلہ کران بیہ چھہ سہ
پر تھہ (کانہہ) ثواب بری پانٹھو زمانان۔

(بیہ) دن نر پلور پلور حق چھہ آمت تہ باطل
چھتہ کانہہ چیز پاد کران تہ نہ چھہ کتہ ہلاک
گامبتس چیزس واپس آنتھہ ہیکان۔

تر دن ، اگر بہ گراہ چھس تہ میانہ گراہی ہند وول
پنیہ میانس ذاتس پٹھہ۔ تہ اگر بہ ہدایتس پٹھہ
چھس تیلہ چھس بہ صرف تہ وچھہ ہند باعہتہ
یوسہ میانی پروردگارن میںہ پٹھہ نازل کر ہنتر چھہ
سہ چھہ بے شک سبھا وعا بوزن وول (تہ)
ہندس نکھہ روزن وول۔

بیہ ہرگاہ تہرہ حالت وچھکھہ نیلہ زن ہم (خدیہ)
ہندو بولوکئی) گامرن تہ تمہن میںہ نہ تہ لپچ

قُلْ لَئِنَّمَا أَعْظَمُ بِوَأَحَدَةٍ ۖ أَن
تَقُوْا مُوَالِيَهُ مَثَلِيْ وَ فَرَادَى ثُمَّ
تَتَفَكَّرُوْا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ
جُنَّةٍ ۚ إِن هُوَ إِلَّا نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ
يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ ﴿۶۱﴾

قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ۚ
إِن أَجْرِيْ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ شَهِِيْدٌ ﴿۶۲﴾

قُلْ إِنْ رَّبِّيْ يَكْذِبُ بِالْحَقِّ ۚ عَلَٰمُ
الْغُيُوْبِ ﴿۶۳﴾

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَ مَا يَبْدِيْ الْبَاطِلُ وَ
مَا يُعِيْدُ ﴿۶۴﴾

قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ
نَفْسِيْ ۚ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فِيمَا يُؤْتِيْنِي
إِلَٰهُ رَبِّيْ ۚ إِنَّهُ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ ﴿۶۵﴾

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوْا فَلَا قُوَّةَ وَ
أُخِذُوا مِّنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ﴿۶۶﴾

کاٹھہ و تھہ تہ اکر نزویکی مکا تہ پیٹھ یں تم رٹہ۔
(تہ تریہ سپدی معلوم نہ یم کھتو لہڈ چہ)۔

بیہ تم وٹن، اسہ اون اتھہ (کلاس) پیٹھ ایمان
اما پوزہ یں یہ (یعنی ایمان) کتھہ پاٹھی ہنیکہ یوت
دور گتھہ جاہل کرن نصیب سپدہ۔


تہ تمو چہ امہ بروٹھہ امیکہ انکار کورمت تہ دور
بہتھہ چہ سویت سمجھ وراہی تہ بوز شوتر رؤس
اعترافن کران روزان۔

تہ یمن درمیان تہ بہترین جاہش درمیان آپہ
تہتھہ پاٹھی ٹھری تراونہ یٹھہ پاٹھی بہندین ہم ذات
لوکن سوتو یمن بروٹھہ کرنہ آمت اوس۔ تم تہ
اسی ایکس تھتھس شکس منز ولہہ آہتی یس بقراری
پاؤ کران ول اوس (تہ یم تہ)۔

وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَإِنَّا لَهُمُ التَّنَادُ
مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿۳۶﴾

وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ
وَيَقُولُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ
بَعِيدٍ ﴿۳۷﴾

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ
كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِّن قَبْلُ
لَا تَأْتُهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّبِينٍ ﴿۳۸﴾



سورة فاطر: یہ سورہ چھ کئی تہ بسم اللہ تہ چھ اتھہ شیشے تاجی آپہ بیہ چھس پاٹھہ رکوع۔

(بہ چھس) اللہ (تعالیٰ) سندا ناو بہتھہ (پر ان)
یس حد رؤس کرم کرن ول (تہ) بیہرک بیہرک
رحم کرن ول چھہ۔

اللہ (تعالیٰ) ہندی چہ ساری تعریف یس آسان
تہ زمینہ ہند (اکہ نو نظامہ مطابق) پاؤ کرن
ول چہ (تہ) ملائک چہ تھتھس حاس منز رسول
بناوتھہ سوزن ول یسیہ زن کتہہ وز چھینہ یمن
نہ نہ کچھ آسان تہ کتہہ وز تریہ تریہ تہ کتہہ وز
شور شورہ (تہ بین ملائک ہنزن یکھ ہنر)۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾

الْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولٰٓئِیْ اَخْبَحَیْ
مَشْحٰی وَاُثَلَتْ وَاُزْبِعَ وَاَبْرِیْدُ فِی الْخَلْقِ
مَا یَشَآءُ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ
قَدِیْرٌ ﴿۱﴾

لہ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھ یم فرشتہ وحی ان تم آسن دون دون، ترہن
ترہن تہ ترہن، ترہن خدایٰ جفات ہند کہ قابل تہ ظاہر کرن اولی۔

پادائیشہ منقر لوت سے (اللہ تعالیٰ) سے بڑھان چھ
ہر رچھ بختان۔ اللہ (تعالیٰ) چھ یرتھ اگس
چسپس پیٹھ سپٹھا قادر۔

یس رحمتک سامانہ اللہ (تعالیٰ) لکن ہند خاطر
متر او تھ چھنہ کانہہ بند کرن وول۔ تہ نیمہ
رحمتک سامانہ سے بند کرن تھ چھنہ خدایس پتہ
کانہہ جاری کرن وول۔ بیہ چھ سے غالب (تہ)
بڑ حکمت تھون وول۔

اے لکو! اللہ (تعالیٰ) ہنر یوسہ نعمت توہہ
پیٹھ نازل سپر ہنر چھینہ۔ سو کرو یاد۔ اللہ (تعالیٰ)
ہس ورا ی تہ چھا کانہہ پاو کرن وول یس آسانہ تہ زمینہ
نبتہ توہہ برزق دو ان آسہ و؛ لیس ورا ی چھنہ
کانہہ معبود۔ اڈ توہہ کو کن جھو بڑ مر او تھ تہ
پوان۔

اگریم لکھ تریہ اپزاوان چھی تہ (حرج کیا چھ) ؟
تریہ بروٹھ پتہ رسول گزرسے ہتو چھ تم تہ اس
اپزاونہ آہتو۔ تہ ساری معاملہ بین (فائدہ ہاتھ)
اللہ (تعالیٰ) ہند کسے دربارس منقر پیش کرنہ۔

اے لکو! اللہ (تعالیٰ) سند وعدہ چھ یقیناً پوز
اوبکزی پتہ نیمہ دنیا یچ زندگی توہہ فریس منقر
ترا وک و بیہ پتہ کانہہ دو کھ دہ وول توہہ
اللہ (تعالیٰ) ہندس حقس منقر دو کھ دی و۔

شیطان چھ یقیناً تمہند دشمن۔ لہذا سے زامیون
وشینہ۔ سر چھ پسنہن سرتو باسین او مو کھ ناد
دوان نہ تم بن جہنمی۔

تم لکھ پھو کفر کورست چھ تہند خاطر چھ سمیت
عذاب سیکھتہ بیہ تم لکھ پھو ایمان اون تہ ایمانہ
مطابق کرتو کامہ تہ تہندس باگس منقر بیجھ
بختا پیش تہ سپٹھا بوڈ انعام

کیا تمیس شخصہ ہند خاطر تو ہنر بد اعمال

مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ ذَخْمَةٍ فَلَا
مُمْسِكَ لَهَا، وَمَا يُمْسِكُهَا فَلَا يُمَسَّلُ
لَهُ مِنْ بَعْدِهَا، وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ①

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ
اللّٰهِ عَلَيْكُمْ، هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللّٰهِ
يَزِدُّكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، فَاتَىٰ تَوْفِيقُونَ ②

وَأَنْ يُّكْذِبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ
مِّن قَبْلِكَ، وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ③

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ
فَلَا تَغُرُّوكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا، وَ
لَا يَغُرُّكُمُ بِاللّٰهِ الْغُرُورُ ④

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ
عَدُوًّا، إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا
مِنَ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ⑤

الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، وَالَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
وَآجْرٌ كَبِيرٌ ⑥

أَفَمَنْ رُئِيَ لَهُ سُوءٌ عَمِلِهِ فَرَاهُ

حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ
وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ فَلَا تَذْهَبِ
نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ
عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ①

شوہ دار کرحہ ماونہ آمہتر آسہرہ بیہ آسہ سہ تہہ
جان زانان (سہ چھا ہیکان ہدایت لبتہ) بیہ
تھوہو یاد نر اللہ (تعالے) نیس بیہترھان چہ (یعنی
تہہ لایق لبان چھس) تس چہ ہلاک کران تہ
نیس بیہترھان چہ (یعنی تہہ لایق لبان چھس)
تس چہ کامیابی ہنزوتھہ ہوان۔ لہذا چھان زو
مہر سپدن تہندہ مہو کہ حسرتہ تہ عمہ کہ باعستہ
ہلاک۔ اللہ (تعالے) چہ تہندہ اعمال زہر پاکھی
زانان (لہذا خدایہ سندا سزا چہ ٹھیک عملن مطابق
آسان ہناتہ منگر چھتہ آسان)۔

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ
سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ
فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
كَذَلِكَ النُّشُورُ ①

بیہ اللہ (تعالے) چہ سہ یس واون سوزن چہ
یم اوہرس تلان چہ پتہ چھن اسی سہ اُکس
سورہ مٹکس کن ہکھ دتھہ ہوان تہ امہ دسی
چھن زمین تہہ چہ وارانہ پتہ آباد کران۔ یٹھہ
پاٹھو چہ مسرتہ پتہ وہتھنک توون مقرر۔
یس کا نترھا عزت بیہترھان چہ تس روزن
یاد زعزت چھتہ سارہے اللہ (تعالے) ہندس
انفس منتر۔ پاک کتھہ چھتہ تسو کن کھتھہ ترھان
تہ ایمانہ مطابق عمل چھتہ تھن تلان۔ بیہ یم لوکھ (آہہ
بخلاف)۔ چہ تہد سہر کران چہ۔ تہندہ خا طرہ چہ
سخت عذاب (مقدّر) تہ ہنن لوکن ہند تہد سہرہ
چہ تباہ سپدن وول چیز (نہ زتوہی)۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ
جَمِيعًا ۗ إِلَيْهِ يَرْجِعُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ
وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْجَعُهُ ۗ وَالَّذِينَ
يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ
شَدِيدٌ ۗ وَكَرُ أُولَئِكَ هُوَ يُبْذَرُ ①

بیہ اللہ (تعالے) ہنن چھو توہی میٹرہنتہ پاد
کررہ ہتو۔ تہہ پتہ لظہرہنتہ۔ پتہ چھو ہوہ ہوہ
بتاؤد ہتو۔ بیہ کانبہ زانہ چھتہ حمل سپدن تہ
نہ چہ تس شترہ ہوان مگر تہ چہ خدایہ ہند علمہ
مطابق سپدن۔ بیہ نہ چہ کانبہ وانٹھہ جاد
وانس لبان تہ نہ چھتہ کانبہ ہنز وانٹھہ منتر کمی
کرہ ہوان۔ مگر تہ چہ اگر توونہ مطابق۔ ییکتھہ چھتہ
اللہ (تعالے) ہس تس بلکل سہل۔

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ
نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا ۗ وَمَا
تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۗ
وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقِضُ
مِنْ عُمْرَةٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ ۗ إِنَّ ذَلِكَ
عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ①

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ فِي هَذَا عَذَابٍ
فَرَاتٍ سَائِعًا شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ
أَجَاجٌ، وَ مِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا
طَرِيًّا وَ تَسْتَخْرِجُونَ حَلِيَّةً
تَلْبَسُونَهَا، وَ تَرَى الْفُلْكَ فِيهِ
مَوَازِرَ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۱﴾

یہ تھوڑا سمندر (یا ڈرکیاؤ) بہکن نہ ہرگز برابر
آہستہ نہ (پھو منبر) اکھ آسہ میونٹہ تہ خمہ شون
تہ تمیک آب آسہ سہیل پاٹھی ہٹہ وسان تہ (ساکھ)
اکھ آسہ نوہن منزل گپگ زانن دول تہ توہی
چھو (امر باو بولڈ) تھو دوہوے وہے سمندرو
(یا ڈرکیاؤ) منبر سادر وار ماز کھوان تہ تھو
منبر چھو گہنہ کہ رنگہ چیز کڈان۔ (یعنی موہتہ
ہیتر) یکم توہی لاگان چھو وکھ، بیہ چھو توہی ناہ
تہ سمندری جہاز وچھان، ایو (ڈرکیاؤ تہ سمندر)
منبری چھو لہر پھیراں پکان گزھان۔ بیٹھ زن
توہی تھی سند (یعنی تھادی سند) فضل تھانہو
بیہ بیٹھ زن توہی شکرانہ کرن اولیٰ بنو۔

يُولَجُ اللَّيْلِ فِي النَّهَارِ وَ يُولَجُ
النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ
وَ الْقَمَرَ، كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى،
ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ، وَ الَّذِينَ
تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ
قُطْمِيرٍ ﴿۱۲﴾

سہ چھ راتز دوہس منبر دا نخل کران تہ دوہس
راتز منبر دا نخل کران۔ بیہ چھ آفتاب تہ زون
تھی (تمام مخلوقاتن ہندس) چندتس پیٹھ لاگتہ
تھیمو۔ تھو منبر چھ پیرتہ اکھ گنڈتھ مدتہ پایتہ
پکان گزھان۔ یہ چھ تھند پروردگار۔ پاوش تھی
چھینہ تھی ہنبرے۔ بیہ بین توہی تھی ہند وراہی
آلو کران چھو تم چھنہ کھنر آچھ ہندس منبر
مس دہس برابر تہ گنہ چیز کڈانک۔

إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ
وَ لَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، وَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، وَ لَا
يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿۱۳﴾

اگر توہی تمہن آلو کرو تہ تم بوزن نہ زہنہ تھندک
آلو تہ یوہوے بوزن تہ تہ تھند قاید خٹہ
بہکن نہ سہ قبول کرگتہ تہ پتہ کرن قیا منبر دوہہ
تھندس شرکس انکار۔ بیہ بیٹھی تہ تریہ واقف
کارہ ہند کھوتہ جاوہر خبر کاہنہ دتھ۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى
اللَّهِ، وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿۱۴﴾

اے لوگو! توہی چھو اللہ (تعالے) ہندک محتاج
تہ اللہ (تعالے) چھنہ کاہنہ ہند محتاج بلکہ سہ
چھ سارکے تھنہ ہند ماہک (یعنی بین

إِن يَشَاءُ يُدْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ
جَدِيدٍ ﴿۵۵﴾

وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿۵۶﴾

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِن تَدْعُ
مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جُنْحِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ
شَيْءٌ وَلَا لَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ إِنَّمَا تُنذِرُ
الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۚ وَمَنْ تَزَخَّرَ فَإِنَّمَا
يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿۵۷﴾

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴿۵۸﴾

وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ﴿۵۹﴾

وَلَا الظُّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ﴿۶۰﴾

وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۚ
إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَا أَنْتَ
بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ ﴿۶۱﴾

إِن أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿۶۲﴾

إِنَّمَا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا
وَلَا مِن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿۶۳﴾

وَلَا يَكْفُرُ بِكَ فَكَدَّبَ الَّذِينَ مِن
قَبْلِهِمْ ۚ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ
وَيَا لِرُبُوبٍ بِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿۶۴﴾

مندگی حاجت چھ پور کران)۔
اگر سہ پیشہ تہ تو ہر سارکے کر دوتاہ تہ
اکھ نو مخلوق کر پانہ۔
تہ یہ کہتہ چھنہ اللہ (تعالے) ہس نش ہرگز شکیل۔
تہ کانہہ بورئمن وول نو ہیکہ نہ بیے سند
پور تہ تہ اگر کانہہ ہارس تل و ہومت بین بور تہ
نخا طہر کانہہ آلو کر تہ تہ سند اکھ داڈ تہ بور پہ
تہ تہ تہ۔ اوسہ کوتاہ تہ نکہ تنگ کو تہ آسہ تہ
تہ چھہکھ صرف تم لوکھ ہشیار کران یکم پسس
پروردگار تہ تہائی منز تہ کھوزان چھ تہ نماز چھ
(شرطو سان) ادا کران۔ بیہ یس شخص پاک سیدان
چھ سہ صرف پسسہ زو کہ فایدہ نخا طہ پاک
سیدان تہ آنجر کار چھ سارکے نے اللہ (تعالے) ہے
کن واپس پھیرتہ عمر تہن۔

تہ اذن تہ کاشدار ہیکن نہ برابر آستہ۔

تہ نہ (چھ ہیکان) انہ عمر تہ کاش (برابر آستہ)۔

(تہ) نہ (چھ ہیکان) ترعاسے تہ تا پھ (برابر آستہ)۔

تہ نہ (چھ ہیکان) زیندہ تہ مورہ (برابر آستہ)۔

یقینا اللہ (تعالے) سنیس سینرہان چھہ
تس چھہ بوزناتہ ہیکان۔ انا بوز تہ ہیکہ کہہ نہ
تم بوزناتہ یکم قبرن منز دوتہ چھہ۔

تہ تہ چھکھ صرف اکھ ہشیار کران وول۔

اسر چھکھ تہ اکھ تا یکم روزن واجز صداقت ہتہ
اکھ نحو شیخبر دنہ وول تہ ہشیار کران وول بنا و تہ
سوزمت تہ کانہہ قوم چھنہ تہ تہ تہ منز خدایہ
سند طرفہ) کانہہ ہشیار کران وول آسہ نہ آمت۔

بیہ یوز وے یکم لوکھ تہ اپزادان چھی تہ تمو
لوکو تہ یکم بہن بروٹھ گذرے تہ اسر اسر
(پسہ و تہ کو رنول) اپزادہ ہتہ۔ بہن نش

تہ اسی تہنہد زما کی رسول دلیلہ ہتھ تہ کینہہ
تعلیم ہتھ آہتی۔ بیہ دہن منتر اسی کینہہ کا شران
واجز کتاب ہتھ (تہ آہتی)۔

پتہ رٹی میہ کافر تہنہد اپزاوہ کر سبہہ (عذاب
منتر)۔ ادر کیا (وچھو تن ز بین حالات منتر)
میانہ اکارک نتیجہ (یعنی عذاب) کینہہ ہتھ
آسان۔

کیا تریہ وچھتھا ز اللہ (تعالیٰ) ہن چھ اوہر منتر
آب وول مت؟ پتہ چھ اہر اہر ستمو بیون بیون
رنگن ہندو ہو پاد کرک ہتھ۔ بیہ چھ بان منتر بیون
بیون رنگن ہندو بال آسان (ہم اکھ اہس ہنش فرق
تھوان چھ) کینہہ سفید، کینہہ ووزو (کینہہ) بیون بیون
رنگن ہندو تہ کینہہ کر تہ کال ہوک۔

تہ لوکو تہ حیوانو تہ چار پاہو منتر تہ چھ کینہہ تہتھو
آسان ز ہتھ منتر چھ پر تہ اکر سندرنگ ڈویمہ ہند
ہنتر بیون آسان۔ حقیقت چھینہ تہتھ پانگرو (تہ)
لہند (تعالیٰ) ہندو ہندو منتر چھ صرف عالم تس
کھوژان۔ اللہ (تعالیٰ) چھ بوڈ غالب (تہ) سہٹھا
بختہ وول۔

تم لوکہ ہم اللہ (تعالیٰ) ہنتر کتاب پران چھ
بیہ چھ (باجماعت) نماز ادا کران تہ یہ کینہہ شعا
اہر ہنتر دیت مت چھ تہ اندر چھ کھٹھ تہ
تہ تہ واپ تہ خرچ کران۔ تہ چھ دراصل تہ
تجار تہ لہ کس تلاشس لو ہتھ۔ لیس زانہہ
تباہ گرتھو تہ۔

تہ کیانز تہیک نتیجہ سپد یہ ز اللہ (تعالیٰ) دیہ
تہندین اعمال ہند پور پور اجر۔ بیہ دیہ ہنتر
(اہر علاو) ہنتر فضلہ ہتھ بیہ ہن تہ جاہ۔ (تہیکہ)

ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ
كَانَ تَكْوِينُ ۝

۱۵

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا
وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ
مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ۝

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ
مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ ۚ إِنَّمَا
يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْحُلَمَاءُ
إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ۝

إِنَّ الَّذِينَ يَثْلُثُونَ كَتَبَ اللَّهُ
أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا
رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْتَجُونَ
تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ۝

لِيُؤْتِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّنْ
فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ عَفُورٌ شَكُورٌ ۝

نہ یعنی سہ تجارت میں خدا تعالیٰ ہس سہ کر تہ یوان چھ۔

کہ باعث تہنیز حالت منیر دنیا ہم کھوتہ سامہنو
بہتر سپد (تہ کیا ز سہ خدا) چھ سہٹھا بخش
بار (تہ) سہٹھا قدر کرن وول۔

بہ سہ کھتہ یومہ اسہ یتھ قرآنس منز شریہ پیٹھ
وہیہ ہند ڈریجہ سوز ہتر چھیہ ، چھیہ بیکل پز تہ
پور سپدک واجو تہ تمہ بروٹھ یومہ وحی آہتر
چھیہ ، تھہ چھیہ پور کرن واجو ۔ اللہ (تعالیٰ) چھ
یقینا پنہن بندن رتس خبردار (تہ) تہنیز
حالت چھ وچھان ۔

تہ کڑتھ (حقیقت چھیہ) یہ ز وحی نازل کر تھہ
پرتھ (بتو) بناو اسہ پتہ کتابہ ہندک وارث (ہمیشہ)
تھ لاکھ یکم اسہ پتھو بندو منز ترارک ، اد
تھو منز سپد کانہہ کانہہ انسان تہتھہ تہ ثبات یس
پننن زوس پیٹھ اتھہ زوس ظلم کرن وول اوس
تہ کانہہ دراو تھو منز تہتھہ یس درمیانی رنگہ یکن
وول اوس تہ کانہہ دراو تھو منز تہتھہ یس نیکی
منز اللہ (تعالیٰ) ہند حکمہ سوڈہ یس ہند کھوتہ
بروٹھ نرن وول اوس ۔ یہ چھ (اللہ تعالیٰ سہ)
بوڈ فضل ۔

ہمیشہ روزن والی تم جنت آسن (امیر متھاک بدلہ)
یکن منز تم (لوکھ) دا نول سپدک (تہ) اتھن منزین
اتھن سوڈہ ہندک کرک لاکھ تہ بیہ موختہ (مالہ)
تہ تہ تہنیز بیاس آسہ تھہ اندر پوٹ ۔

بہ ہم ونن ز ساری تعریف چھ اللہ (تعالیٰ) ہندک
نیجو سون عم دور کور ۔ سون پروردگار چھ بے شک
سہٹھا بخش بار (تہ) سہٹھا قدر کرن وول ۔

سہ (خدا) نیجو پتہ فضلہ سنو اسو روز ہنن طر
اگس تترھ جاہ پیٹھ تھاکو تھو چھ یتھ منز اسہ
نہ تہ چھ کانہہ تکلیف واتان تہ نہ چھ کر تہ تمک
تھکن (باسان) ۔

وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ
هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ
يَدَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ
بَصِيرٌ ﴿۲۷﴾

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا
مِنَ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ
لِّنَفْسِهِ ۖ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۖ وَمِنْهُمْ
سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ ۖ يُؤْتِنُ اللَّهُ ذَٰلِكَ
هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿۲۸﴾

جَنَّتْ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا يَحِلُّونَ فِيهَا
مِنَ آسَافِرٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَكُلُوا فِيهَا
لَبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿۲۹﴾

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا
الْحَزْنَ ۗ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿۳۰﴾

لِلَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمَقَامَةِ مِن
فَضْلِهِ ۖ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَ
لَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿۳۱﴾

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۖ
لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا
يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا ۚ كَذٰلِكَ
نَجْزِي كُلَّ كٰفِرٍ ﴿۳۵﴾

وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا ۖ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا
نَعْمَلْ صٰلِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ
اَدَلَّمْ نُوَعِّزُكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ
تَذَكَّرَ وَجَاءَ كُمْ النَّذِيرُ ۚ فَذُوقُوا
فَمَا لِلظَّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ﴿۳۶﴾

بیسہ ہم لاکھ بیس کفر کو مدت چھ بہن کیت چھ
جہنمک نار۔ نہ تو سپد بہن کیت موتک فاملو
جاری نہ تم مرن۔ تو نہ بیس بہنہ خاطر جہنم
کس عذابس منز کاٹھ لوٹر کرن۔ اسی چھ پرچہ
ناشگری کرن واپس سوتی سیتھ ورتا وکران۔

بیسہ ہم دن تھہ (جہنمک) منز بارو (تو ورن)
اسے سائے پروردگار! اسے کہ تو نیمہ جہنم منز
تو اسی کرو (مؤمن ہندک یا طھر) نیک کامبر۔
ہمو عملو نشہ بدل ہم اسی گو ڈیچہ زندگی منز
کران اسی (اسی و تو بہن) کیا اسے اسونا تو ہے
تپتر واپس ورت ہتر سیتھ منز نصیحت رٹنگ ٹاٹاش
مند نصیحت رٹان چھہ بیس اسی تو بہن نش ہشار
کران واری (تو) آہو (تو پتہ) تو کون مانی و لو بہ
جہنمک کتھ؟ لہذا (وہی) تو ہو (یہ) عذاب۔
اد غلامن ہند چھہ کاٹھ اتھ روٹ کرن دول
آسان۔

اللہ (تعالیٰ) چھہ آسان تو زمین ہند غائب ران
دول۔ سہ چھہ ورن ہتر کتھ تو جان زبر یا طھر ران۔
سے چھہ نیو تو ہی دنیاہس منز ا بڑو ٹھو بین
لوکن ہند (جانشین بنا وکو و۔ اہی اکار
کر تہند انکارک سزا پینہ تسو پٹھ۔ بیس
کافرن ہند کفر چھہ بہن ہندس پروردگار منز
نظر منز صرف ناراضگی منز ہے ہراوان۔ تو
کافرن ہند کفر چھہ بہن صرف کاس منز ہے ہر
دوان۔

تو وکھ، تو ہر وچھو اتھندی تم (گمانی) شریک
بین تو ہی اللہ (تعالیٰ) ہس واری آلو کران چھہ
(ہر گاہ تم لوڑن لیوان چھہ تو) میں تو کو جہنم
سہ یا واپس یو سہ ہمو زمینہ منز یا و کتر ہتر
چھہ یا کیا آسان ہیک بنا واپس منز تہنر چھا

اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ
اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذٰتِ الصُّدُوْرِ ﴿۳۷﴾
هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلِيْفًا فِى الْاَرْضِ ۚ
فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ ۚ وَ لَا يَزِيْدُ
الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهٗمْ عِنْدَ رَبِّهٖمْ اِلَّا
مَقْتًا ۚ وَ لَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهٗمْ
اِلَّا اَخْسَارًا ﴿۳۸﴾

قُلْ اَرَاَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ
الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى السَّمٰوٰتِ ۚ
اَمْ اَتَيْنَهُمْ كِتٰبًا فَهُمْ عَلٰى بَيِّنٰتٍ
مِّنْهُ ۚ بَلْ اِنْ يَّعِدُ الظّٰلِمُوْنَ بَعْضُهُمْ

بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ۝

کائنہد شرکوت و یا کیا اسہ چھا تہن کائنہد کتاب
دیر مہتر؛ نہ تم چھہ تہمیح بیان کرتہ آہتر ڈول
پانس سیتو تھوان (ڈول تہرہ کتہ چھہ ہرگز) بلکہ
ظالم چھہ یادہ وادی اکہ اکیس سیتو صرف فریب دینہ
والی وعدہ کران۔

إِنَّ اللَّهَ يُمِصُّكُمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْ
تَزُولَا ۖ وَكَلِمَةٌ لِّكَلِمَةٍ إِنْ أَمْسَكْتُمْهَا
مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ ۗ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا
عَفُورًا ۝

اللہ (تعالیٰ) سہنے چھہ آسمان تہ زمین اسہ کتہ
نشہہ ٹھاکاوتہ تھاکو دتی، نہ تم گرشہن پسہنہ
جایہ ڈولتہ۔ تہ اگر تم ڈولن۔ اڈ تہ پتہ ہیکہ تہ
تہن کائنہد (تہاہ گرشہن نشہہ) پتہ رتہ۔ بلشک چھہ
سہ سٹھا بروبار (تہ) سٹھا معاف کرن وول۔
بسہ چھہ تم اللہ (تعالیٰ) ہندک پلوتہہ قسم کران نہ
اگر تہن نش کائنہد نبی بسہہ تہ تم بن تمام
امتو منہر پرستہ اکیسند کھوتہ جاد ہایت لبین
والی۔ مگر نیلہ تہن نش نبی او تہ لشدہ یان پید
تہن صرف نفرس منہر ہر راوتک باعت۔

وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ
جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ
لِّأَحَدَى الْأُمَمِ ۗ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا
زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ۝

تیکیا نہ تم اسی زمپہ منہر بڑی بن سہرہا تہ
یکچہ تدبیر اسی کرہی سہرہا تہ یکچہ تدبیر چھہ
تہ کہن کرن والہ نے ہاک کران، اڈ کیا تم ماہ چھہ
گھوڈ بکھن ہندہ مستک (یعنی عذابک) انتظار
کران؛ (تہ اگر تہرہک) تہ اللہ (تعالیٰ) ہندک
سنتس بیکہ تہ تہ زمینہ کائنہد فرق تہ نہ
وچھک تہ زانہہ اللہ (تعالیٰ) سندستہ دلان۔
کیا تم بھیرک ماہ زمپس منہر؛ (اگر تہ کہن)
تہ تم وچھہن نہ تہن بروٹھو من لوکن ہند
انجام کیا سید؛ بوز وسے تہ تم اسی تہندہ نشہہ
طانتس منہر جاد تہ کائنہد چیز ہیکہ تہ اللہ
(تعالیٰ) ہس آسمان منہر تہ زمپہ منہر سہن
اڈس منہر ناکام کرتہ۔ سہ چھہ یقینا سٹھا زان
وول تہ، یکجہ تہرہ وول۔

إِشْتِكَبَارًا فِي الْأَرْضِ وَ مَكَرَ السَّيِّئِ ۗ
وَلَا يَجِئُ الْمَكْرُ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۗ
فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السُّنَّتَ الْأَوَّلِينَ ۗ
فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۚ وَ لَنْ
تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ۝


أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ
كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۚ وَ مَا كَانَ
اللَّهُ لِيُجِزَّهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ
وَ لَا فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا
قَدِيرًا ۝

اڈ ہرگاہ اللہ (تعالیٰ) وکن تہنہرو کامو ہندہ

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا

مَا تَرَكْ عَل ظَهْرَهَا مِنْ دَابَّةٍ وَ لَكِنْ
يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ
أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ
بَصِيرًا ۝

باعتہ رکن بیسیہ ہے تہ زمین ہتہر تھہر پپہہ
تراوہے نہ گائنبہ زوہ دارس - اما پوز سہ چہہ ہن
اگس ہدس تمام موہبت دول - پتہ نیلہ تہہہ ہد
گوئڈم وقت یوان چہہ تہ (ثبات چہہ سیدان
ز) اللہ (تعالے) اوس پستہن بدن زبر پاٹھو
وچھوہن -



سورة یس : یہ سورہ چھ کی تہ بسم اللہ ہتہہ چہہ اتھ زوئی شتہہ آہ بیہ جس پاتہہ کورہ

(بہ چھس) اللہ (تعالے) سندا و ہتہہ (پران)
یس حد رؤس کریم کرن وول (تہ) پھیرک پھیرک
رحم کرن وول پھہ -
اے سید!

اُ سہ چھن حکمتہ وول قرآن (چاہن سید آہنہ
کس) شہاوتس مشز پیش کران -
یقینا چھکھ تہ رسولو مشز -
(بہ چھکھ) تہ سیز و تہ پپہہ -

(بہ قرآن) چہہ غالب (تہ) اُ تہہ رؤس رحم
کرن و آل ہندہ (یعنے خلیہ ہندہ) طرفہ نازل کرنہ
آمت -

امر غرضہ زہر کریم سہ قوم ہشیار ہتہہ دجد
اجلاو ہشیار اُ سہ نہ کرنہ آمتہ تہ تم اُ سہ غافل
پہیر -

سول دعوی سید تو مشز واریا ہن ہند حقہ پوہر -
اُ تم چہہہ ایمان انان -

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

یس ۱

وَ الْقُرْآنِ الْحَكِیْمِ ۝

إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِیْنَ ۝

عَلِ صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ۝

تَنْزِیْلِ الْعَزِیْزِ الرَّحِیْمِ ۝

لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤَهُمْ فَهُمْ
غٰفِلُونَ ۝

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰی أَكْثَرِهِمْ
فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

لَا تَجْعَلْنَا فِيْ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلًا فَهِيَ
اِلَ الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ ﴿۱۰﴾

اسی چھ تہنن گرد زمین مشروط تالی تراوی ہوتی۔
تہ تم چھ تہنن ہونگن تمام کھتی ہوتی۔ تہ تم
چھ (تکلیف ہنہ بچہ خاطر پستہ) گردی تھراوا۔
بہ اس چھ تم بروٹھ کتہ تہ اکھ تھور ہوت
تہ تم پتہ کتہ تہ چھ اکھ تھور ہوت تہ تم
پتہ چھ ورن ترومت اوکتی ہکن تہ تم وچھتہ۔

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًّا
وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ
لَا يُبْصِرُونَ ﴿۱۱﴾

بہ چون ہنثار کرن یا نہ ہنثار کرن چھ تہنن
خاطر برابر ہے۔ تم ان نہ ایمان (یونانی نہ
تم پننس ولس مشر تبدیلی یاد کرن)۔

وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَاذَنَّا لَهُمْ اَمْ لَمْ
نُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۲﴾

تہ ہیکہ ہن صرف سہ شخص ہنثار کتہ ہس یاد
پاؤن مانان چھ تہ رحمن (خالیس) چھ تہننی
مشر تہ کھوتان۔ لہذا ہن شخص ورن اکھ
درنچ معانی ہن تہ اکھ عزتہ والہ اجر ہن خوش ہن۔

اِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ
الْزَلْمَانَ بِالْغَيْبِ ۚ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ
وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴿۱۳﴾

اسی چھ مہرہ زندہ کران بہ یہ کینہا تم نہ واہن
زندہ دل خاطر بروٹھ سوزان چھ تہ چھ رتھرتھ
تھوان۔ بہ ہم اعمال تم و دنیا ہس مشر کتہ ہتی
اسی تہننک ہم نتیجہ نیرن تم تہ چھ اکتھرتھ
تھوان تہ پرتھ چہر چھ اسہ اکتھ مشر رتھ
کتا بہ مشر گنرتھ تھومت۔

لَا تَأْتِي نَفْسٌ اَلْمَوْتِ وَ تَكْتُمُ مَا
قَدَّمُوا وَاَنذَرْتَهُمْ وَاَكْلُ شَيْءٍ اَخْصَيْنَهُ
فِيْ اِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿۱۴﴾

بہ کر تہ تم بروٹھ کتہ اگر ہستی واپن ہنرتھ
بیان ہنہ زن ہن ہن تہننک رسؤل آہے۔

وَاَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلًا اَصْحَابَ الْقَرْيَةِ
اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿۱۵﴾

یعنی ہنہ ورن اسہ گوٹہ ہتھ ہن کن نہ رسول سوز
امہ پوز تم کوہر ہن دونوی ہننکار۔ اتھ پتھ
ہنن اسہ گوٹہ نہ ہن دن رسؤل اکھ تر ہنیم
رسؤل سوزتھ طاقت۔ پتہ وون تم سارک وہے
ہمتھ پننس تومس نہ اسی چھ تہننک پروردگار
ہنن طرفہ توہہ کن اکھ پیغام ہتھ سوزنہ آہتی۔

اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ
فَكَذَّبُوهُمَا فَعَبَّزْنَا بِتَالُوتِ
فَقَالُوْا اِنَّا اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ ﴿۱۶﴾

لہ یعنی تہنن اچھن تہ مقلن پتھ چھ رسم وروا کتھ پتھ پتھ پتھ آسان نہ چھ تم
وچھتھ ہکان تہ نہ چھ سوچتھ ہکان۔

قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا
وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ ؕ إِنْ
أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذُوبُونَ ﴿۱۰﴾

تو وہوں (جو ایسے مغز) تو توہی تہ چھو اسی ہوی
انسان تہ رحمن خدایں چھتہ کانہہ چیز (الہامہ
کہ صورتہ) نازل کورمت۔ توہی چھو صرف ایز
ونان۔

قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا لَأَكِيدُكُمْ
لَمُرْسَلُونَ ﴿۱۱﴾

تو وہوں نہ رسولن پروردگار چھتہ یہ کتھ زنانہ نہ
اُسی چھتہ توہہ کن رسول بناوتھ سوزنہ آہتہ۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿۱۲﴾

تہ ساڈ کلام چھتہ صرف یہ نہ اُسی کرو تہ وادہ تبلیغ۔

قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا
لَنَجْجَمَنَّكُمْ وَكَأَنَّمَا عَذَابٌ
لَّيْلِيكُمْ ﴿۱۳﴾

اتھ پیٹھ وہوں کافرو، اُسی تہ چھتہ تہند اسہ
کن یں منحوس زنانہ، اگر توہی پسندو کتھو نشہ
پتھ روزنہ نہ اُسی کروو توہی سنگسار بیہ وادہ
و توہہ سائہ طرفہ اکھ کریٹھ عذاب۔

قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ، إِنْ هَذَا إِلَّا
بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّشْرِكُونَ ﴿۱۴﴾

تو وہوں نہ تہنہر عمل تہ چھتہ تہہ سرتی (توہی
سیتین تہ اُسو تہنہر بد عملن ہند بد نتیجہ روز
نیران) کیا توہی چھو یہ کتھ اوکھی ونان نہ اُسی
چھو تہہ ہر کاسہ یاد پاولن! بلکہ حق چھتہ نہ
توہی چھو حد نمبر نیرن دول قوم (اوکھی نیو
توہی ضرور سزا)۔

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ
يَسْأَلُ قَالَ يَا قَوْمِ أَتَّبِعُوا
الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۵﴾

تہ شہر کہہ دوکیم اندر پیٹھ آو اکھ شتھوں دولن دولن
تہ تمہ وون نہ اسے میانہ توہو! (یکن) رسولن
ہنہنہ فرمانبرواری کرو۔

اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْئَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ
مُهْتَدُونَ ﴿۱۶﴾

تہنہر پاروی کروو ہم تہہہ کانہہ اجر تہ چھو نہ
منگان تہ ہمہ چھتہ ہدایت توہمت۔

وَمَا لِي لَأَعْبُدَ الَّذِي ظَنَّ رَبِّيَ لِي بَغْيًا
وَلَا تَرْجَعُونَ ﴿۱۷﴾

بیہ میںہ کیا چھتہ گوہت نہ بہ کر نہ تہنہر عبادت
نیو بہ یاد کورمت چھتہ، تہ توہی ساری بیوتنی
کن واپس پھرتھ انہ۔

وَآتَاكُم مِّن دُونِهَا آيَةً لَّئِن يَرِيذِ
الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنْكُمْ شَفَاعَتُهُمْ
شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُون ﴿۱۸﴾

کیا بہ کاتس وائی بیکھ معبود پر اوتھ، اگر (خلایہ)
رحمن میںہ کانہہ نو قصان و اتناون سیتھ تہنہ
(معبودن) ہنہر سفارش ہیکہ نہ میںہ کانہہ قاید و اتناوتھ
تہ نہ ہیکہ ہم میںہ (تہند ضرر نشہ) بچاوتھ۔

(ہر گاہ بہ تڑکھ) تنبیہ آسہ بہ یقیناً نہ وہ نہ گمراہی
منز ولہ آمت۔

میں چھ تہتدس پروردگارس پیٹھ اپمان اون مت
اوپر کئی بوزومیائی کہتہ۔

(اوتس) او (خداہ ہندو طریقہ) وتہہ جنس منز
سپد داغل۔ تو وون (اتھ پیٹھ) کاش! میا بس
توس آسہ ہے (میاہ برتہ انجا مک) علم۔

نہ کہتہ پاٹھی چھ میاڈی پروردگارن میں بخش
مت تہ بہ چھن عزتہ وائس دوس منز قابل
کوڑمت۔

بہ وول نہ اسہ تمہ پتہ تہتدس توس پیٹھ آسہ
(تمن تباہ کرہ خاطر) کانہہ شکر، تہ نہ چہ
اسی زانہہ (تیتھ شکر) والہے۔

صوت آواک خطرناک عذاب تمن پیٹھ تہ تم
پیٹھ زہبتہ گرتھتہ بین سہ سورسے شان تہ
شوکت راو راوتھ۔

ہے افسوس! (اکارس کن مالدار) بندن پیٹھ،
نہ بیلیہ زانہہ تہ تمن بنش کانہہ رسول یوان چھ
تم چھ تنس بچہ نظر وھین ہوان (تہ محولہ
کر نہ لگان)

کیا تمواوستا وھمت در تمن بروٹھ کاتہاے بیسیہ
آسہ اسہ ہلاک کردی متہر؟ (بہ بیہ تہ تہم ہلاک
کر نہ آسے یہ) تم پھیری نہ پوت۔

تہ ساری لوکہ میں ضرور اسی بروٹھ کن حاضر کر نہ
بہ بین اگھارن، ہند خاطر پھیند مہر زمین تہ
اکھ نشانہ، اسہ پھیند سہ زہد کر مہر تہ تمہ منز
چھ اناج کوڑمت۔ لہذا ہم چھ تمہ منز کھوان۔

بہ چھ اسہ زمینہ منز کھتہر تہ وچہ باغ تہ نو
راوتہ۔ بہ چھ اتھ منز ناگ تہ جاری کر نہ متہ۔
یہتہ زن تم امکہ (یعنی باغہ کر) مہر منز ضرورتہ

إِنِّي إِذْ أَلْفَيْ صَلِّ مُبِينٍ ⑩

إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ ⑪

قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي
يَعْلَمُونَ ⑫

بِمَا عَفَاكَ رَبِّي وَ جَعَلَنِي مِنَ
الْمُكْرَمِينَ ⑬

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ
جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ⑭

إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَاحَةً وَاحِدَةً فَاذًا
هُم خَامِدُونَ ⑮

يَحْسِرَةٌ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنَ
رَسُولٍ إِلَّا كَأَنُوبِهِ يَسْتَفْهِرُونَ ⑯

أَلَمْ يَرَوْا كَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ
أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ⑰

وَأَنْ كُلَّ لَفَّا جَمِيعَةٍ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ⑱
وَإِيَّةَ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ ۖ أَخْيَبْنَاهَا
أَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ⑲

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَجِيلٍ وَ
أَعْتَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ⑳
لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذْ مَا عَمِلْتُمْ

أَيِدِيهِمْ ءَأَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿۵۷﴾

مطابق) کہیں تہ یہ (بارغ) چھنہ تہندو اتھو
نورومت (بلکہ چھ اسر نورومت) کیا تم
چھنا شکرانہ کران

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ وَاجَّعَلَهَا مِثْقَالَ
ثَنِيثٍ وَالَّذِي دَامَنَ أَنْفُسِهِمْ دَمِثْقَالَ
رَيْحَانٍ ﴿۵۸﴾

پاک چھ سو ذات نیجو پر تھ تسکو جوہر پاؤ کرک
متمو چھ، تمہ منزرتہ یہ زمین وہ پداوان چھیہ
بیہ پاؤ تہندو وجودو منزرتہ بیہ رتمو چیزو
منزرتہ یکم نہ تم زانان چھیلے

وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ بِمَا تَسْلَخُونَ مِنْهَا النَّجَارَ فَإِذَا
هِيَ مُظْلِمُونَ ﴿۵۹﴾

بیہ چھ راتھ تہ تہند خا طر اکھ بوڈ نشان۔ نیہ
اندہ لیمتھ اسی وہہ کڈان چھ۔ سیکہ پیستہ
وچھان وچھان تم انہ گٹس منز چھ روزتھ
گڑھان۔

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ؕ ذَٰلِكَ
تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿۶۰﴾

بیہ آفتاب چھ اکیس مقرر کرنہ آمتز جاہ کن پکان
گڑھان۔ یہ چھ غالب (تہ) علمہ واد سدا یعنی
خداہ سدا مقرر کرنہ آمت قولن۔

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ
كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿۶۱﴾

بیہ زون (وچھون نہ) اسر چھ تمہ خا طرتہ منزل
مقرر کر تھ تھاووتہ۔ نوت تامزن سو چھیہ
(بیمن منزلن پیٹھ پکان پکان) اکیس پرانہ
کھنر موریش (زواج) سپد تھ بیہ پھیرتھ
یوان۔

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ
الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ؕ وَكُلٌّ فِي
فَلَاقٍ يَشْبَعُونَ ﴿۶۲﴾

نہ تہ چھ آفتاب طاقت نہ سہ واتہ پنسنس
ورکیس عمروشس منزرتہ وقتہ زونہ نکھرتہ
کیاز اگر تہ سپد تہ سورسے نظام شمسی گڑھ
تباہ) تہ نہ چھ راتز (یعنی زونہ) طاقت نہ سہ
رٹ بروٹھ گڑھتھ وہس (یعنی آفتاب) بلکہ
یم سار ساری چھ اکیس مقرر سپرڈ مشرتہ
پیٹھ میران میران پکان گڑھان۔

لہ قرآن کریم چھ تروہ شہتہ وری بروٹھ بیان کوزمت، نہ حیوانات، نباتات تہ
جماداتن منز چھ جوہر آسان۔

لہ اتھ آس منز چھیہ یہ سائیس حقیقت بیان کرتہ آمتز نہ خلائس منز چھ بے وزنی ہنر کیفیت
تہ پرتھ کرہ چھ خلائس منز میران گڑھان تھیا مٹو اکیس منز کانہہ ہم میران چھ۔

وَ آيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ﴿۷﴾

وَ خَلَقْنَا لَهُمْ مِن وَّجْهِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴿۸﴾

وَ إِن نَّشَأُ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَ لَا لَهُمْ يُنْقِذُونَ ﴿۹﴾

إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَ تَتَّعَىٰ إِلَىٰ حُبٍّ ﴿۱۰﴾

وَ إِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَ مَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۱۱﴾

وَ مَا تَأْتِيهِمْ مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿۱۲﴾

وَ إِذَا قِيلَ لَهُمُ انْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَلَّذِينَ آمَنُوا الْاُطْحَمُ مَن لَّو يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۱۳﴾

وَ يَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۴﴾

مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً

بیس تہندہ خاطر چھ بیتہ نشاۃ ز اسی چھ تہندہ پستے پرتھ ناوان منتر تلکھ پھیران۔

بیس کرو اسی امی تہہکو بیس (چیز) تہ پاؤ بیم تم سوار ہندس ورتاوس منتر ان لہ

تہ ہر گاہ اسی بیترھو تہ تم کروکھ چھاٹاوتھ ہلک۔ پتہ آسہ نہ کینہی تہندہ واہ بداد بوزن وول تہ نہ پن سانہ رحمتہ وراہی کنہ و سیلہ تم

بجاؤنہ۔ بیس تم تلن صرف اہس مدتس تام دنیوی قاید۔

بیس بیلیہ تم ورتہ بیس نہ یہ کیشرا توہہ مہتھ بیس وول چھو (تمہ بیسہ بچو)۔ بیس بیم اعمال توہہ

پتھ کن تراوتھ آہی چھو۔ تمہ ہند بدلہ ہتہ تہ کرو بچن کوشش تہہ زن توہہ پتھ رحم کرتہ بیس (اہ تم چھ نصیحت رٹنہ بدل اتھ حقارت کران تہ قاید چھنہ تلان)۔

بیس تہندس پروردگار ہند بوشاؤ منتر بیس کاہنہ اہم نشاۃ ظاہر سپلان چھ۔ تم چھ تمہ ہتہ تہ ہتھ پھیران۔

بیس بیلیہ تم ورتہ بیان چھ نہ یہ کیشرا توہہ ہس خداین ویت مت چھو، تمہ منتر کرو خرچ، اتی چھ کا فر مؤمن ونان نہ اسی کھیا وکھا تم، این ہر گاہ اللہ (تعالے) بیترھ ہے تہ پاؤ تہ ہیکہ ہیکہ کھیاوتھ؟ توہی چھو (خداہ سنہ مرضی جلال تعلیم دتھ) ٹا کاہر گرا ہی منتر ہسہ آہی۔

بیس چھ تم ونان نہ ہر گاہ توہی بڑا کر، چھو تیلہ وولؤ اسہ نہ سہ (عذابک) وعدہ کر گتھہ پورہ؟

تم چھ صرف اہس ہنگتہ متگہ پتہ و اس غلابس

ل اتھ ایس منتر چھ موجود زمانہ چین سوارین موٹر، ریل، اسمندس تہ ہوائی جہازن ہند ایجاد سپدیچ پتھکوی۔

تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿۱۰﴾

پیاران لیس بہمن بیتھ رطہ تہ تم آسن مجاہدن
منز آوری۔

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ
يَرْجِعُونَ ﴿۱۱﴾

تمہ وقتہ نہ تہ بہکن تم اہکس کانہہ نصیبت
کرتھ نہ بہکن تم پسنبہن شترین ہاژن کن
واپس کرتھتھ (بہمن بکر تھتھ)۔

وَتُفِخِرُ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ
إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴿۱۲﴾

اد بیہ پوکس پھوکھ ونہ تہ وچھان وچھان قیرو
منز نسپرتھ واتن تم ٹوکھ تلبتھ پنہنس پروردگار
کن۔

قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا ۗ بَلْ نَحْنُ
هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ
الْمُرْسَلُونَ ﴿۱۳﴾

کہہ۔ نیکیگ (رحمان (خداین) اسمہ سبتی وعدہ کورمت
اوس تہ رسولو یہ کینترھا وونمت اوس پوزے
اوسکھ وونمت۔

إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا
هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُخْضَرُونَ ﴿۱۴﴾

یہ اسمہ (مخت) اہکھ ہنگتھ منگر عذاب ییکس نتجیس
منز تم سر سہالم سمہ نیرتھ اسمہ بروٹھ کن پیش
کرتھین۔

قَالِیَوْمَ لَا تُظَلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ
إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَحْمِلُونَ ﴿۱۵﴾

اد تمہ وہ ہر بیہ نہ کتہ زوس پیٹھ اہکھ دانی تہ
ظلم کرتھ۔ تہ توہ ہر بیہ تہند لو امالو مطابق
جزا دیو۔

إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْیَوْمَ فِي شُغْلٍ
فَکْهُونَ ﴿۱۶﴾

جنتی لوکھ آسن تمہ وہ ہر اہکس اہم کامہ (یعنی
ذکر الہی لیس) منز آوری تہ (پنہی حالت وچھتھ)
آسن خوشی سبتی آسان۔

هُمْ وَأَذْوَابُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرَائِكِ
مُتَّكِنُونَ ﴿۱۷﴾

تم تہ تہندک سبتی باجی تہ آسن ٹھتھر وار
پیرتھ تخت پوشن پیٹھ ڈکھو دی دکی بہتھ۔
(بیہ آسن خدایہ ہند رحمتہ کہن) ساین تل۔

لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَ لَهُمْ مَا
يَدْعُونَ ﴿۱۸﴾

تہندہ خاطرین بہمن جنتن منز مہو دستیاہ کرتھ
بیہ یہ کینترھا تم طلب کرن تہ بیہ بہمن و نہ۔

سَلَامٌ تَقُولُوا مِنَ رَبِّ رَحِيمٍ ﴿۱۹﴾

بیہ بیہ بہمن سلام ونہہ یوہہ پھیرک پھیرک رحم
کرن واپس پروردگار ہند طرف بہمن کن (سلامی
ہند) پیغام آسہ۔

وَامْتَا رُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿۳۰﴾

بیہ (و لا اسی پتہ نہ) اے مجرمو! ازسپردو
توہی (مؤمن ہنتر) الگ۔

الَمْ آعْهَدَ إِلَيْكُمْ بِيَنِّي أَدَمَ أَنْ
لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ
مُبِينٌ ﴿۳۱﴾

اے بنی آدم! کیا میں اُس ناہ توہر پیٹھ
یہ فرمہ داری ترا دہتر نہ شیطان نہ سہتر عبادت
اُسی زلو نہ کران۔ سہ چھ تہند ٹاکار دشمن

وَأَن اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿۳۲﴾

تہ صرف کرو میانی عبادت تہ میں چھہ سیز
وتھ۔

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ كِتَابًا كَثِيرًا ۖ أَقَلَّمْ
تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿۳۳﴾

بیہ شیطان چھہ سہٹھ ہے مخلوق ہلاک کرے
موتی۔ کیا توہر چھونا پہ فکر تران؟

هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿۳۴﴾

(و چھو!) یہ چھہ جہنم، نیکیک توہر وعدہ کرتہ
یوان اوس۔

رِاضِلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿۳۵﴾

پسنہ کفر کہ باعثہ اُترو ازاتھ منز۔

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا
أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ ﴿۳۶﴾

از کرو اسی (تہند کفر کہ باعثہ) تہندین پائین
پیٹھ مہر (یعنے کتہ کرنک ضرورت اسی نہ) تہ
تہند کہ اتھ کرن اسہ سہتر کتھ۔ بیہ تہند کہ
کھور دن تہندین کر تواتن پیٹھ شہادت۔

وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ
فَأَسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَلَّا يَبْصُرُونَ ﴿۳۷﴾

بیہ اگر اسی بیہتر ہو تہ تہنتر اچھہ کرو انہ۔ بیہترین
تم وچھند ورا لیکھ وتھ تھان نہ نہ۔ اماہ پوز اتھ حالس
منز کتھ پانٹھو ہیکن تم (پز وتھ) وچھتھ۔

وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ
فَمَا اسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ وَلَا يَسْرِجُونَ ﴿۳۸﴾

بیہ اگر اسی بیہتر ہو، تیند نیستین تم چھہ ہتی
کرو تہند کہ فر کھٹھ۔ پتہ نہ تہ لین تم کرن
بروٹھ گرتھتک طاقت تہ نہ لین واپس پھیرنج
وتھ۔

وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ۖ أَفَلَا
يَعْقِلُونَ ﴿۳۹﴾

بیہ نیکی ستر دانس اسی جاہ ز ٹھراوان چھہ، سہ
چمن بدہ کین طاقتن منز تووان کران۔ کیا تمس
پچھنا فکر تران!

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۖ إِنْ
هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ ﴿۴۰﴾

بیہ اسہ بیچھنو نہ سہ (یعنے محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم) شعرون تہ نہ اُس یہ کام تس شوبان۔
یہ قرآن تہ چھہ صرف اکھ نصیحت۔ بیہ چھہ پھیر کچھہ

پرین واجیو کتاب۔ یوسو (سیتی سیتی دلائل) بیان کران چھی۔

یہہ زن لیس (دلہ کنی) زیند چھہ تس کر ہتیار تو کافر بند حقہ خدیہ سدق صلہ سپر پلور۔

کیا تم چھنا دچھان؟ زرا اسہ چھہ تہند خٹ طر پسہ خاص تو درتہ سیتی چارپاہ بناو کہ تو ادر چھہ تم تہندک مالک بنے ہو۔

تہ اسہ بناو کہ تم چارپاہ تہند خدمت کار۔ ادر چھہ تم بہو مشر کینترن پیٹھ سوار سپدان، تہ کینترن چھہ تم کھوان۔

بیہ چھہ تم نیش کھو یا کھو فایدہ تلان تہ چہنگ سامانہ تہ چھہ دستیاب کران۔ کیا تم چھنا شکرانہ کران؟

بیہ چھہ کیو لوکو اللہ (تعالیٰ) اس ورائی کہتہ بیہ معبود بناوتھ تھو کہ تو ز دیو کنہ وقتہ (یکو معبود و ہند ذریعہ) تہند اتھ روٹ کرنہ بیہ۔ تم (معبود) ہیکن تہ تہند کانہہ مدد کر تھ۔ بلکہ (اتھ روٹ تہ کیتھہ کر تھ) تم ساری دن پھرتھ تہنے خلاف اکہ شکر کس صورتس منز شیکھ شہادت۔ لہذا بیقتہ تہ تہ ہنر کتھ دل ملول کرنے؟ اسی چھہ تہہ زمانہ بیہ تم کتھ تھوان چھہ بیہ تہہ بیہ تم نون کڈان چھہ۔

کیا انسان چھنا ہے، زرا اسہ چھہ سہ اکہ (ادسنے آہ) چھیر تہہ پاد کورمت۔ ادر (بیلہ) سہ (پاد سپدان چھہ تہ) وچھان وچھان چھہ سہ سہت ترون گور بیقتہ گتھان۔

تہ سانہ ہستی متعلق چھہ کتھ بناو تہ ہوان، تہ پنڈ پیدائش چھس مشہہ گتھان تہ ون چھہ

لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ الْقَوْلَ عَلَى الْكَافِرِينَ ④

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنَّا عَمَلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ⑤

وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ⑥

وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ⑦

وَاتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ⑧

لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحَضَّرُونَ ⑨

فَلَا يَخْذُوكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا نَعْلَمُ ⑩

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ⑪

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُخِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ⑫

ہوان زینیلہ اُڑی جہ دودرن تہ بہن کس
سنا کر زینہ؟

تہ ون ز تہن اُڑی جہن کر سہ زینہ سیمو
ہم گوہو لہ پاد کرہ منہر آسہ تہ سہ چھ
پہرہ چھ مخلوقہ جہہ حالتہ بنہہ زہر پانگو خبر وار۔
سہ (خدا) سیمو تہنہر خاطر سہر کلہو منہر نار پاد
کوزمت چھ ، اہو چھو توہی تہہ کہ ذریعہ نار
زالانہ۔

کیا سیمو آسمان تہ زمین پاد کرہ ہو چھ، سہ چھنا
اتھ کتھ پتھ قادر ز بہن ہندہ ہوہی بیہ مخلوق
تہ کر پاد؟ سیمو خیال (زہر سہ ہیکر تہ
پاد کر تھ) چھتہ صبح۔ بلکہ سہ چھ سبھا پاد
کرن وول (تہ سبھا زان وول)۔
تہ سہا پتھ چھ سیمو کئی زینیلہ کتہ وہر سہ یہ اراد
کران چھ ز فلانی چیز سپان سہ چھ تہہ کہ حقہ
وان ز پتھ پانگو سپان تہ تہ چھ تھ پانگو
سپان۔

لہذا پاک چھ سہ سیمو سہر پور پور قبضہ تل
پہرہ چھ چیز جہ بادشاہت چھتہ بیہ سیمو کئی توہر
ساری چھ تہہ بہنہ بیو۔


قُلْ يُخْبِتُهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ①

الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا آنْتُمْ مِّنْهُ تُوقَدُونَ ②

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلٰى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ③

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ④

فَسُبْحٰنَ الَّذِي يَبْدِءُ مَلَكُوتَهُ كُلِّ نَیْمٍ ⑤
وَأِلَیْهِ تُرْجَعُونَ ⑥



سورة صافات : یہ سورہ چھ کی تہ اسم اللہ پتھ چھ اتھ اللہ تہہ تریشیتھ ایہ چھیس پانزہ کوع۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ① (بہر چھیس) اللہ (تعالیٰ) سہ ناو پتھ (پران)
یس حدہ رؤس کرم کرن وول (تہ) پھیرہ پھیرہ
رحم کرن وول چھ۔

لہ یعنی زالہ خاطر چھ زین کلہن نیشہ حاصل سپان۔

وَالضَّفَّتْ صَفًّا ①

شہادت پڑھا پڑھی چھس (ہر) پیش کران تم وجود ہم
(مدقتہ کہن دشمنن بروٹھ کہن) صف گندری
گندری استاد چھیلہ۔

فَالزُّجُرَاتِ زَجْرًا ①

ہم بچھ کار کران والہن نہیبہ کران چھ۔

فَالثَّلِيثِ ذِكْرًا ①

بہ ذکر الہی (یعنی قرآن کریم) پڑی پڑی
بوز ناوان چھ۔

إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ ①

یقیناً چھ تہند معبود کئے معبود۔

رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
وَرَبِّ الْمَشَارِقِ ①

آسمان ہند تہ چھ پروردگار تہ زمینک تہ ،
بہ کینترھا مین دولونی مژباگ چھ تمیک تہ
بہ چھ مین سارہے جان ہند تہ پروردگار کو
نشہ نو پھولان چھ۔

إِنَّا زَيْنَا السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِزَيْنَةٍ
يَا لَكُوكِبٍ ①

اسر چھ یور کئے کس آسمان تار کو سستی پارا کو کومت۔

وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ①

بہ چھ اسر یہ پرتھ بچھ چھرس شیطانس نش
رترھ تھ تھومت۔

لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقَدِّفُونَ
مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ①

تم (بچھ پھر شیطان) چھتہ ہنرک مین زور
آور ہستین ہنرکتہ بوزان تہ پرتھ طرفہ
چھ تم (دور دی دی) دور بوان کرنہ۔

دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَأَصِيبٌ ①

تہ تہند خاطر چھ اکھ ہمیشگ عذاب۔

إِلَّا مَن خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شَهَابٌ
ثَاقِبٌ ①

اماہ بوز تمو مژبیس نر شرارتہ سستی کانہہ
کتھ تھیبہ تھہ تزلہ، تس چھ اکھ شہاب
تثاقبہ پتہ لارن۔

فَاسْتَفْتَيْهِمْ آهْمُ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَن

او کئی پرتھ نر تھن تر پیدا پتہ ہند لحاظ چھا

لہ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یو پرتھ رنگ جہاد کر تھ اسلامج مخالفت کر۔

لہ۔ یعنی لایک کرام

سہ امیک لفظی معنی چھ چکن واجسہ ناہ برینہ۔ مگر عام دہانی مژ چھ ڈلہ

گھڑوہ وین تارکن ونان۔ مراد چھ تم خدای عالم یم قرآن کریمس پیٹھ اعتراض

کران والہن جواب دتھ لاجواب کران چھ۔

خَلَقْنَا إِيَّانَا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ
تَلَازِي ⑩

تم پاؤ کرئی جاؤ مشیل کینہ (کائناتک نظام)
یس اسہ بومنت چھ؟ اسہ چھ تم اُس لارکہ
گڑھونہ میٹر بناؤ مٹو۔

بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ⑪

بلکہ پزر چھ یہ زٹر چھکھ (تہنزن کتھن پٹھ)
نعیب کران تہ تم چھ (چانہ کتھ) اوس پایہ زمانان۔
بیہ نیلہ تم نصیحت کرنہ یوان چھ تہ تم چھ
نصیحت زمان۔

وَإِذَا دُكِرُوا لَا يَدْكُرُونَ ⑫

بیہ نیلہ تم کانہہ نشانہ وچھان چھ اتی چھ تھ مانہ
کران۔

وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخَرُونَ ⑬

بیہ چھ زمان زہ تہ چھ اھ لاکار چھند۔

وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ⑭

کیا سنا نیلہ اسی مرو تہ اکر سپدو میٹر تہ
اڑو جہ تو پیتہ تہ کیوا اسی تھتھ استاد کرہ؟
سانی برو تھم جد اجلا تہ پنا (یتھ پاٹھی زندہ
کرہ)؟

وَإِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَمَاءَ إِيَّانَا
لَمَبْعُوثُونَ ⑮

تہ ون، او! او! بلکہ توہی گڑھو ذیل۔
سو گڑھو ہر اھ نہیبہ (ہو پیتھ سہ
نہیبہ سید) تم بن (زندہ گڑھو) وچھن۔

أَوْ أَبَاءُ نَا الْكَافِرُونَ ⑯

بیہ ون، ہے انوس اسہ پٹھ! یوہے ہے
چھ جزبک تہ سزبک دہہ۔

قُلْ تَعْمَ وَانْتُمْ دَاخِرُونَ ⑰

فَاتَمَّ هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ
يَنْظُرُونَ ⑱

(تہ خدایہ ہند طرف بیہ آواز) یہ چھ سہ فاصلک
دہہ نیلیک توہی اکار کران اُسو۔

وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ ⑲

هَذَا يَوْمُ الْفَضْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِمِ
تُكذِّبُونَ ⑳

(اُسو ونو ملائکین زہ) تم تہ کر لاکھ زندہ کر تھ استاد۔
پو تھم کوربت اوس تہ تہندو سہو باجر تہ بیہ
تم تہ یمن ہنر تم عبادت کران اُسو۔

أُحْشِرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ دَاخَرْتَهُمْ وَمَا
كَانُوا يَعْبُدُونَ ㉑

اللہ (تعالیٰ) ہس درائی پتہ زبوکھ تم ساری
جہنم چہ و تہ کن۔

مِن دُونِ اللّٰهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ
الْحَقِّ ㉒

پتہ کر لاکھ یلم (توت تام تھ) استاد۔ تہ کیا ز
تہ بین یمن کیہ سوال پڑھنہ۔

وَقِفُّهُمْ إِنَّهُمْ مَسْغُولُونَ ㉓

مَا كُفِّرَ لَا تَنَاصَرُونَ ⑤

(تو لیکن پہلے پر ترسہ، تو ہم کیا چھو گومت، تو ہم چھو نہ، اگہ اگر سُنَد اتھ روٹ کران؟ پزیر چھ یہ نہ (اتھ روٹ کران تو روڈ الگ) تم تراوان اسر دوہہ ساری ہتھیار۔ تو تمہو منہز کر اگہ دُور نہیں سیدی بخت۔

بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ⑥

وَ أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ⑦

(تو) تس کن رویہ سخن کر تھ و نہ نہ تو ہی اسی و دوہے اسر دُھینہ لکھنہ یوان۔ (تہند کر گمانی معبود) وزن (جواہر مشر) یتھ گئی نہ۔ پزیر چھ یہ نہ توہہ اوسو نہ پانہ اپسان (یعنی ایمانی قوت)۔

قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ⑧

قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ⑨

بہ اسر اوس نہ توہہ پیٹھ کانہہ پوشن پاس حاصل۔ بلکہ تو ہی اسی و اگہ جتو پھیر قوم۔ او مہو کہ از گے اسر ساری نے متعلق س اس پروردگار ہنہر کتھ پور نہ اسی چھ (غذاب) ترہن و ا۔

وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّنْ سُلْطٰنٍ ۚ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِينَ ⑩

فَحَقِّقْ عَلَيْنَا قَوْلَ رَبِّنَا ۗ إِنَّآ لَشٰقُونَ ⑪

بہ (چھ) پزیر (آسی اسی و تو ہی و تہ ڈال ہتھ۔ تہ کیا نہ اسی اسی پانہ تہ و تہ ڈال ہتھ۔ او کئی (امیک) نتیجہ آسہ یہ نہ (تہ) دوہہ آسن تم ساری غدایس مشر شریک۔ اسی چھ مجرم ہتھ یتھ کران روزان۔ یتھ گئی و ترہن یہ و نہ یوان اوس نہ اللہ (تعالیٰ) ہس و راہی چھنہ کانہہ معبود، او تم اسی سکر کران۔

فَاَعْوَبْنٰكُمْ اِنَّا كُنَّا غٰوِبِينَ ⑫

فَاِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ⑬

اِنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ⑭

اِنَّهُمْ كَانُوْۤا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ ⑮

بہ اسی و نان گترہان کیا اسی تراو دکھاہنہ معبود اگس شاعر تہ دیوانہ ہندس و تنس پیٹھ بہ پزیر چھ یہ نہ سہ (یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) چھ پور پور پزرت ہتھ آمت تہ ساری

وَيَقُولُوْنَ اِنَّا لَعٰرِكُوْۤا اِلٰهَتِنَا اِشْرٰعٍ مَّجْنُوْنٍ ⑯

بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ ⑰

لہ کھوور اند چھ دنیا تہ دُھین اند چھ مطلب مذہب یعنی مذہبی لباد لگتھ اسی و اسر کن یوان۔

إِنَّكُمْ لَذَاتُ قُوَّةٍ وَالْحَذَابِ الْأَلِيمِ ﴿۳۵﴾

نے بروٹھ میں رسولوں چھ پڑیاری ٹھہراوان۔
(اے منکرو!) تو ہی چھو یقیناً کروٹھ عذاب
توہن والی۔

وَمَا تُحْزَنُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۳۶﴾

بیہ یہ کینڑھا تو ہی کران اسی و اہمی مطابق پوئسزل۔
وہ ڈگوویم اللہ (تعالیٰ) ہندک ٹرارک ہنری بندہ
چھ (تہن میلہ نہ کروٹھ عذاب)۔

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿۳۷﴾

(بلکہ) تہن میلہ سے ریزق ینیک حل معلوم چھ۔
(یعنی) ہوبکہ رنگہ بیہ بیہ تہن عزت کرنہ۔
نغشراہین باغین مشر۔

أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّغْلُومٌ ﴿۳۸﴾

تم بہن چھتر پارانول تخت پوٹن پٹھ رو برو
(ناگہ) آہ بڑی بڑی گلاس بین تہن پیش کرنہ۔

قَوَاصِحُهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ﴿۳۹﴾

یم سفید شپن آسن بیہ آسن چہنہ والہن ہندہ
خاطر لذید۔

فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿۴۰﴾

تے تہ کر تہہ سیدی کلہ دود تہ نہ راواروان تم
تہہ سیدی عقل۔

عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿۴۱﴾

بیہ آسن تہن نش و نیچہ و نیچہ اچھ واجتہ (تہ)
ہوان کن نظر تھوان واجتہ زانہ۔

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَاسٍ مِّنْ مَّعِينٍ ﴿۴۲﴾

زنتہ تم پھیر تہکی مھول آسن
پتہ کرن تہو منڑ کینہہ کینڑن کن سوال کرنہ
خاطر توجہ۔

بِضُفَاءٍ لَّدَىٰ لِلشَّرْبِينَ ﴿۴۳﴾

تہ تہو منڑ وہ اکھ نغراہ میہ اوس اکھ سیدی
بوج آسان۔

لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ﴿۴۴﴾

سہ اوس ونان ڈکیا تہ تہ چھکا (حشر تہ
نشر) مانن والہو مشر؟

وَإِذَا هُمْ قَصِرَتْ الظُّرُفُ عَيْنٌ ﴿۴۵﴾

دہ آریہ کتہ چھینہ تہ ون نہ کیا ہ نیلہ اسی
مروتہ میشر تہ اڑی جہر گشھو تہ اسرہ بیہ

كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُودٌ ﴿۴۶﴾

تہ تہو منڑ وہ اکھ نغراہ میہ اوس اکھ سیدی
بوج آسان۔

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿۴۷﴾

دہ اڑیہ کتہ چھینہ تہ ون نہ کیا ہ نیلہ اسی
مروتہ میشر تہ اڑی جہر گشھو تہ اسرہ بیہ

قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿۴۸﴾

تہ تہو منڑ وہ اکھ نغراہ میہ اوس اکھ سیدی
بوج آسان۔

يَقُولُ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ ﴿۴۹﴾

إِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ۚ إِنَّا

لَمَدِينُونَ ﴿۵۰﴾

۱۰ یعنی بیہ رزق قرآن مجیدس منڑ خبر وہ آہش چھینہ۔

۲۰ یعنی تہنہن انمان ہند جزا تہ کیا نہ مپل چھ عملہ ہندس جز ہس ونان۔

- ساتھیں اعمال ہند بدلہ دینے؟
اتھ پیٹھ ورنہ سہ (مؤمن شخصوں) توہ پر مفر
چھا کا نہہ تہتہ یس نظر اہ دتھ وچھہ نہ تہند
حال کیا چھہ؟
- ۵۰ قَالَ هَلْ آتَيْتُمْ مُطْلِعُونَ
- پتہ کر سہ پاتے حال معلوم کر ریخ کو سہش
اڈ وچھہ سہ پنس دنیاوی سہی با جس جہنس
مفر ہوت۔
- ۵۱ فَاطَّلَعَ فَرَأَاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ
- پتہ ورنہ نس۔ خدایہ سہر درسے! تہ ہے لچھ
میتہ ہلک کر۔
- ۵۲ قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كُنْتَ لَتُذِرِينَ
۵۳ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّ لَكُنْتُ مِنَ الْمُخْضَرِّينَ
- یہ ہرگاہ میانس پروردگار سہ فضل آسہ ما نہ
تہ پتہ آسہ ما از جہنس برو تہ کتہ حاض کر نہ
آمتہ مفر۔
- ۵۴ أَمَّا تَخُنُ بِمَيِّتِينَ
- (اے جہنمی!) وہ فی وان تہ (نہ) کیا سہہ حاطہ
چھنا سہہ کا نہہ موت۔
- ۵۵ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ
بِمُعَدِّيْنَ
- گہ ڈیکر موتہ ورا یہ تہ اسہ یہہ نا کا نہہ عذاب دتہ
یہ (مؤمنہ سہر حالت) چھہ بے شک بڑا سیابی۔
- ۵۶ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
- تہ عمل کرن والہن پتہ یہہ ہے مقم حاصل کر ریخ
کو سہش کر فی۔
- ۵۷ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ
- یہ مہان ڈاری چھا بہتر کہہ زقوم
کل۔
- ۵۸ أَذَلِكْ خَيْرٌ لِّذُلًّا أَمْ شَجَرَةٌ الزُّقْمِ
- اسہ چھہ سہ ظاہن ہند حاطہ اکر آزما یثہ ہند ڈریہ
ہوت۔
- ۵۹ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ
- سہ چھہ اکہ تہتہ کل یس جہنہ کس تہ کس تہل
وہ پلان چھہ۔
- ۶۰ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ
- تیک ہو چھہ تہتہ آسان میتہ سرفن ہند ک۔
- ۶۱ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رِئُوسُ الشَّيْطَانِ

۱۔ اکہ زہر وول کنڈی دار وبل کل و پھہ تہہ وہ دچھہ نیران تہ یس ووسہ تہ چھہ لگان۔
ارڈوز بانی مفر چھہ اتھ تھوہر ونان تہ انگریزی زبانی مفر چھہ CACTUS ونان۔

- قَاتِمُهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا كِلُونَ مِنْهَا
الْبُطُونَ ﴿۱﴾
- تو کہو کہیں تم امر کلمہ پیٹو تہ اسر سوتی برن پتی سیدہ۔
- ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوَابًا مِّنْ حَمِيمٍ ﴿۲﴾
- بیہ امہ علاوہ بیہ بہنسنز تریشتر منتر تیز کر کے
دن آب تراوتہ۔
- ثُمَّ إِنَّ مَرَجَعَهُمْ لَا إِلَى الْجَحِيمِ ﴿۳﴾
- پیتہ میں تم ساری جہنم کن چھتہ تہ۔
- إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ ﴿۴﴾
- تمو لئی پتی جدا جدا وتہ ڈولی تہ۔
- فَهُمْ عَلَىٰ آثِرِهِمْ يَهْرَعُونَ ﴿۵﴾
- تہ تم تہ دوے یہ تہندین پدی اکمن چہٹہ۔
- وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَدْلِيَّةِ ﴿۶﴾
- بیہ تمن بروٹھ چہ واریاہ بروٹھم قوم تہ نماہ
گاہتی۔
- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُّنْذِرِينَ ﴿۷﴾
- تہ اسر اسی تمن منتر ہشیار کرن والی رسول
سوزی تہتی
- فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذِرِينَ ﴿۸﴾
- تو پتہ تو چھو یم ہشیار کرنہ اسی آہتی تہنتہ
انجام کیا سیدہ؟
- إِنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿۹﴾
- اللہ (تعالیٰ) ہندلو تراری ہتہو بندو وراہی
- وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلْيَنْصَحْ الْمُجْرِمُونَ ﴿۱۰﴾
- بیہ اسر اوس (رسولو منتر) نوحن تہ ناد دیمت
تہ اسی چہ سپھارت جواب دتہ واد۔
- وَنَجَّيْنَاهُ وَآهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿۱۱﴾
- تہ اسر وراو تس تہ تہ تسدین مان والہن تہ
بحر پریشانی ہتہ نجات۔
- وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴿۱۲﴾
- بیہ تھوے صرف تھو بندرک اولادہے دنیا ہس
منتر پتہ کن با تہے۔
- وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿۱۳﴾
- بیہ تس پتہ بیہ والہن قومن مشرتھا ویو وتسرتہ
رت وٹن دین برقرار۔
- سَلِّمْ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعِلْمَيْنِ ﴿۱۴﴾
- تمام قومن ہند طرفہ چہ نوحس پتہ سلامتی ہند
دعا سپدن روزان۔
- إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۵﴾
- اُسی چہ احسان کرن والہن پتہ پاتھی جزا دیوان۔
- إِنَّهُ مِن عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۶﴾
- سہ اوس سانہو مؤمن بندو منتر۔
- ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ ﴿۱۷﴾
- تہ تھتی مہ لوکھ پھاٹہ ناوے یہ اسرہ اوس۔
- وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَأَبْرَهِيمَ ﴿۱۸﴾
- بیہ اوس تہنزی ہما تہ منتر ابراہیم تہ۔

إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿۵۱﴾

بیلبرسہ پسنس پروردگارس بروٹھ کن اکھ بتیتھ
دل بہتہ آیاویس (پرستہ تہسہ کہ کفر تہ شکر کوشہ)
پاک اوس۔

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿۵۲﴾

تہ تمہ وتہہ پیرتھادو تمہ پسنس ماس تہ تہ پسنس
توس تہ نہ توہی کہ چیزچ عبادت چھو کران؟
کیا اپڑچ ہا؟ یعنی اللہ (تعالیٰ) ہس ورائی
بیہ معبود چھو وکھا بیہ شہان؟

أَفَمَا لِلَّهِ دُونُ اللَّهِ تُرِيدُونَ ﴿۵۳﴾

بہر حال وٹو رب العالمینس نسبت تہند کیا خیال چھ؟
پتہ وچہ تمہ تمارکن کن۔

فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۵۴﴾

تہ وونن نہ بہ چھس بیمارگتھن دول۔

فَنظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ﴿۵۵﴾

اتی گے تم لوکھ تس تراوتھ۔

فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿۵۶﴾

تہ تہ گود تھوہ پدپ کڑتھ تہندن معبودن کن۔
تہ تم وچیتھ وونن۔ کیا توہی چھو ناکیہ تہ کھوان؟
توہہ کیا گود و نہ توہی چھو تہ کتھ تہ کران؟

فَدَاغَ إِلَىٰ آلِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿۵۷﴾

پتہ لوین (تھوہ پدپ کڑتھ) پسنہ وچہ اتھ سترتھن
پتھ اکھ کارگردب۔

مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ﴿۵۸﴾

فَدَاغَ عَلَيْهِمْ صَدَبًا بِالْيَمِينِ ﴿۵۹﴾

بیلبر لوکن خبر گے تہ تم آہہ نس کن دولن دولن۔

فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزْفُونَ ﴿۶۰﴾

تمہ (ابراہیم) وون (رحمن) کیا توہی چھوا
پسنہ اتھ گری متہن (پتھن) ہنر پوزا کران؟
حالاکہ اللہ (تعالیٰ) ہنے چھو توہی تہ پاد کرکوتہ
تہ تہنتر عملو تہ۔

قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْجِتُونَ ﴿۶۱﴾

تمو سارو وہے (لکو) وون نہ اوس اندر اندر
کرو اکھ دوس استاہ (تہ نتھ اندر تراو نار)
پتہ تراوون پتھ و ہوس نارس مشن۔

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿۶۲﴾

بیہ یوتھ تمو نس سترتھ اکھ تھل تھ کران۔ مگر

قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي

الْجَحِيمِ ﴿۶۳﴾

فَارَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ

لہ یعنی تہندبو زاکھو مطابق پڑمیتہ بیمار سپدن۔

تھ کتھ "بہ لفظ بیلبر خدا تعالیٰ سندر تھاطر بیہ تہ امیک معنی چھ معنی "تدبیر" آسان

تہ مگر انسانہ سندر تھاطر بیہ تہ امیک معنی چھ چھالکی اترھل بیتہ آسان۔

الْأَسْفَلِينَ ⑩

وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ⑪

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ⑫

فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ⑬

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئِي لِرَبِّي
أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا
تَرَىٰ ۚ قَالَ يَا بَنِيَّ افْعَلْ مَا تَأْمُرُ
سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ ⑭

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ⑮

وَتَادَيْنَاهُ أَنْ يَا بُرْهَيْمُ ⑯

قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ۚ إِنَّا كَذَبُكَ نَجْزِي
الْمُحْسِنِينَ ⑰

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ⑱

وَقَدَّيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَدِيمٍ ⑲

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ⑳

سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ㉑

كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ㉒

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ㉓

وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ㉔

اسیر کر کے تم بیٹے رسوا۔

تو ابراہیم وون بہ گڑبہ پسینس پروردگار کن
سہ ہومیہ ضرور کامیابی ہنتر و تھ۔

(بہ وون) اسے میانہ پروردگار! میہ کر تہ
صالح اولاد عطا۔

اد وڈ اسہ تس اگس برد بار نیچوکر ہنتر خوشخبر

پتہ نیلہ سہ لڑکر تس سہو وڑھ کپنس لایق گوو تہ

تو وونس، اسے میانہ گوہر! میہ چھکھ تر خاس
منز و پھمت تر (زنتہ) چھسے بہ تر تہ کش کران۔

لہذا تر کر فاصلہ زاتھ منز کیا چیلہ چانی راسے؟

(اسہ وقتہ) وون تھو (یعنی) نیچو اسے میانہ بہر! یہ

تر تہ خدا ونان چھے تی کر، انشاء اللہ تر بکھ میہ

پسینس ایمانس پیٹھ قائم روزن دول۔

پتہ یلہ تم دہ لوسے (مال پوتھس) فرمانبروری پیٹھ تیار

کے تہ تھو (یعنی مال) پوسہ (یعنی رضا بندی

ماون دول نیچو) ڈیکر وڑھ۔

تہ اسہ کور تس آلو تہ وونس، اسے ابراہیم!

تر تہ کوڑتھ پنن غاب پلہر، اُسو چھہ یتھے پاٹھو

پسینس احسان کرن ولہن بدلہ دوان روزان۔

بے شک اوس پر اکھ ٹاکاہ امتحان۔

تہ اسہ بیت اوسند (یعنی اسماعیل سند) بدیہ اکر

بجہ قربانی ہندس رنگس منز۔

تہ پتہ بیہ ولہن قومن منز تھوو تھو ہند حقہ رت

ذکر باتے۔

ابراہیمس پیٹھ روزن سلامتی تازل سپدان۔

اُسو چھہ احسان کرن ولہن یتھے پاٹھو بدلہ دوان۔

سہ اوس بے شک ساتھ مؤمن بندو منز۔

بہ اُس اسہ تس اسماعیل متعلق ہنتر ڈھ ہنتر۔ یس

نہی اوس تہ صالح لاکو منز اوس۔

وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَ عَلَّ إِسْحَاقَ ۚ وَ مِنْ
ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ
مُؤْتِنٌ ﴿۳۶﴾

بہ کر اسے تمہیں (یعنی ابراہیم) پیٹھ تہ اسحاقس
پیٹھ برکت نازل تہ، تمہندو اولادو منتر تہ اسی
کیٹھ نوکھ پڑو فرما نبردو تہ کیٹھ اسی پستہن زون
پیٹھ تہ وائے ظلم کرن وائی۔

وَ لَقَدْ مَنَّآ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَ هَارُونَ ﴿۳۷﴾

بہ اوس اسے موسیٰ ہس تہ ہارونس پیٹھ تہ احسان
کوڑمت۔

وَ نَجَّيْنَهُمَا وَ قَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ
الْعَظِيمِ ﴿۳۸﴾

بہ اوس اسے بہنن دو زونی تہ تمہندس قومس اکہ بڑ
عمر تہ بارہتہ نجات دیت مت۔

وَ نَصَّرْنَاهُمْ فَاكْفَرُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿۳۹﴾

بہ دیت اسے بہنن سارکھنے مدد یتیمک فقیر پہ
دراو نہ تم گئے غالب۔

وَ اتَيْنَهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿۴۰﴾

بہ دتر اسے بہنن اکھ کابل کتاب یوہہ ساری حکم
واش کڈی کڈی بیان کران اسی۔

وَ هَدَيْنَهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿۴۱﴾

بہ اسی اسے بہنن دو زونی شیخ و تھ ہاو میرتہ۔

وَ تَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْأَخْيَارِ ﴿۴۲﴾

تہ تہر والہن قومن منتر اوس اسے تمہند حقہ رت
رت چھکاون (پتھ کن) ترورمت۔

سَلَّمَ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَ هَارُونَ ﴿۴۳﴾

موسیٰ ہس تہ ہارونس پیٹھ روزن ہمیشہ سلامتی سپدان۔
اسی چہر پتھے پانٹھو احسان کرن والہن بدلہ دووان۔
تم دو نوے اسی سڈی مؤمن بنہ۔

وَ اِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۴۴﴾

بہ الیاس اوس بے شک رسولو منتر۔

اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَلَا تَتَّقُونَ ﴿۴۵﴾

(ترتیس پانچو) یتیم تو پستس قومس و نیاو۔ کیا
توہی چھو نا تقویٰ کران؟

اَتَدْعُونَ بَعْلًا ۙ وَ تَذَرُونَ اٰحْسَنَ
الْبٰحِلِيْنَ ﴿۴۶﴾

کیا توہی چھو انہن پوتیس (دیوتا نا تھ) آلو کران؟
تہ تیس بہترین پیدائش کرن دول چھ (یعنی اللہ
تعالے) سہ چھوون تراوان۔

اِنَّ رَبَّكُمْ وَ رَبَّ اٰبَائِكُمُ الْاَدْلِيْنَ ﴿۴۷﴾

بہ تمہند تہ پروردگار چھ تہ تمہند بہنن برانظم بہن
جہن اجدادن ہند تہ پروردگار چھ۔

فَكَذَّبُوهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿۴۸﴾

(پہ ہون تھ) تمہندو قومن اچر دو سہ لہذا تم بہن
غدا بہ خاطر پیش کرنہ۔

اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلِصِيْنَ ﴿۴۹﴾

اللہ (تعالے) ہندو مخلص بندو وائی۔ (ز بہنن

- سوتی پیہ نہ یہ ورتا کر نہ۔
 بیہ ترود اسہ تہند (یعنی الیاس ہند) حقہ پتہ
 بینہ والہن قومن منزرت رت مچکاون (پتہ کمن)۔
 الیاسہن پتہ روزن ہمیشہ ہمیش سلامتی سپدن۔
 اسی چہ پتہ پانچو احسان کرن والہن جزا دولن۔
 روزان۔
- سہ (یعنی گھڈنیک الیاس) اوس سانہو مؤمن بندو
 منز۔
 بیہ لوط تہ اوس بے شک رسولو اندر۔
 (یاد پاوو سہ وقت) سیلہ زن اسہ تس تہ تہنہن
 مان والہن تہ نجات وژاو۔
 اکیس بجہ زنا نہ وراہی یوسہ پتہ روزن والہو
 منز اسی۔
 پتہ کمری اسہ شتمہ ساری تباہ۔
 بیہ (اسے مکہ والہو) توہی جھوہو (تہنہن لہو)
 بکنہ کینہ صبحس نیران۔
 تہ کینہ رات کینت تہ کیا پتہ تہ جھونا توہی
 عقلم کام ہوالہ؛
 بیہ یونس تہ اوس بے شک رسولو اندر۔
 (یاد پاوو) سیلہ سہ تہلہ اکیس تہنہ ناو کمن گیاو
 یوسہ (مسافر و سوتی) پُر سپدن واجز اسی۔
 تہ طوفان وڈا تہ تہ سارنہ ہند آس پھینک
- وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿۳۷﴾
 سَلَّمَ عَلَىٰ إِيَّاسِ بْنِ
 إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۳۸﴾
 إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۹﴾
 وَإِنَّ لُوْطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۴۰﴾
 إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَآهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿۴۱﴾
 إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴿۴۲﴾
 ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخِرِينَ ﴿۴۳﴾
 وَإِنَّكُمْ لَتَعْمَدُونَ عَلَيْهِمْ فُصْحِحِينَ ﴿۴۴﴾
 ذُرِّيَّتًا أَقْلًا تَعْقِلُونَ ﴿۴۵﴾
 وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۴۶﴾
 إِذْ أَتَىٰ إِلَى الْفَلَكِ الْمَشْهُونِ ﴿۴۷﴾
 فَسَاءَ لَهُمْ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿۴۸﴾

لہ الیاسین چہ الیاسک جمع تہ الیاس ناوک چہ تریہ بزرگ گزرے متی۔ اکی الیاس گود
 سہ لیس حضرت موسیٰ علیہ السلام بروفقہ گڈریومت اوس۔ بیاک الیاس چہ حضرت یحییٰ علیہ السلام
 تہ تریہم الیاس چہ حضرت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ میہنتر قبر بالاکوٹ ضلع ہزارہ
 پاستاس منز واقع چھینہ۔

لہ سیلہ کبہ والہن ہندو نا فلہ شام کمن گڑھان اسی تہ و تہ آسہ لوط علیہ السلام ہند تو مچہ تباہ تہ
 فاران بستہ ہوان۔

گوؤ خطر پاپو (اڈ تراو، تمو) باجے سارک ہنے
سواربن سستی رلقتہ (چپر تہ) تہ کیاز چپر بو منز دراو
تسند ناو) سہ سپدیو (چپر بو کبزی) دریاوس منز دارکتہ
دلس لایق لوکو منزہر۔

فَالْتَقَمَهُ الْحَوْتُ وَ هُوَ مُلِيمٌ ﴿۳۶﴾
یہتہ پٹہ سہ اکر بجر گاڑ ہنگلوو ییلیرن سہ سینس
پانس ملامت کران اوس۔

قُلُوا لَا آتَاءَ كَان مِنَ الْمَسْجِحِينَ ﴿۳۷﴾
تہ اکر سہ تسبح کران واہو منز آسہ ہے ہن۔

لَكَيْتَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿۳۸﴾
تیلیر روز ہے سہ تس گاڑ ہنزریڈ منز ہما متہ کس
دوہس تام پتہ (یعنی سرے)۔

قَنَبْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَ هُوَ سَقِيمٌ ﴿۳۹﴾
پتہ دیت اسہ سہ اکر کھلہ مادلس منز دارکتہ۔

وَ أَنْبَثْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ ﴿۴۰﴾
اتھ حالس منز ز سہ اوس بیار۔

وَ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿۴۱﴾
یہ اسہ سوز سہ اکر لچہ کھوتہ ہنا جادے انسان
کن رسول بناوتہ۔

فَأَمَّا نُو فَامْتَعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿۴۲﴾
اڈ تمو سارک وہے اذن اپمان تہ اسہ واتاؤدی تہن
بیز کال تام دنیاوی فایدہ۔

فَاسْتَفْتَيْهِم بِلرَبِّكَ الْبَنَاتِ وَ لَهُمُ
الْبَنُونَ ﴿۴۳﴾
اڈ کبڑ پر شہ تر تہن نہ کیا چانس پروردگار س چھا
کوب تہ تہن چہ نیچوکی؟

أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَ هُمْ
شَا هِدُونَ ﴿۴۴﴾
کیا اسہ کڑیا ملائک زنان ہنز شکلہ منز پاپو تہ تم
چھا تہن ہر پیدایشہ ہندک گواہ؟

أَلَا إِنَّهُمْ مِّنْ أَلْفِكُمْ لَيَقُولُونَ ﴿۴۵﴾
ممن دارکتہ بوزو! تم چہ پستہ دلہ کر داریاؤمیتہ اپز
مطابق یہر کتہ کران۔

وَلَعَلَّ اللَّهُ لَا تَأْتِيهِمْ لَكُذِبُونَ ﴿۴۶﴾
ز اللہ (تعالیٰ) ہس تہ چہ اولاد۔ اپانوز تم چہ
سے اپز یارک۔

أَضْطَرُّ الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ﴿۴۷﴾
کیا تم چھا نیچوکی تراوتہ کوب تزاری مشہر؟

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿۴۸﴾
تہ ہر کیا گوؤ۔ نہ تو ہر چہہ تہو بے وقوفی ہندک
فاصلہ کران؟

۱۰ یعنی گاڑ ہندس دس منز کڑ اسہ تحریک و رسہ کر قسسی یا نہ تہ یونس علیہ السلامس دیہ
مادلس منز دارکتہ۔

أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۳۱﴾

کیا توہم چھوٹا فکر کرنا؟

أَمْ لَكُمْ سُلْطَنٌ مُّبِينٌ ﴿۳۲﴾

کیا توہم ہر بات چھا کاٹنے کا ٹاکر ڈھیل؟

فَاتُوا بِكُتُبِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۳﴾

ہر گاہ توہم پڑھنا چھو سنید اُڑ تو پتہ سو کتاب تہ
منز یہ لیکھتہ چھ،

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسْبًا ۚ

بیہ یکم لاکھ چھ تہس (یعنے خدایس) تہ جن دریاں

لَقَدْ عَلِمْتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿۳۴﴾

آشتاوی تجویز کران۔ حالانکہ بین تاوک حقدار

تو مل چھ زہر پائٹھ زانان۔ تہ (سہ تہ اگر دہس

پٹھ تاہم آسہ تہ) تہس تہ پیہ نہا پچ حالتھ

ہونہ۔

مُبْحَنَ اللَّهُ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿۳۵﴾

اللہ (تعالیٰ) چھ تہسز و بیان کہ از مشرو کہتھو لہتہ

پاک (یعنے ملائک چھنو کور ہکا۔ ہم چھ عبادت

کرن والہ بند)۔

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿۳۶﴾

اللہ (تعالیٰ) بندلو خلوصہ والہو بندو سوآئی (تہ

زہر ہم چھنہ پٹھ کئی کران)۔

اد (بوزتھ تھوو) توہی تہ تہسز عبادت توہی

کران چھو۔

فَاتِكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿۳۷﴾

ہنکیو تہ خدایس خلاف کاٹھہ ڈالتھ۔

مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِينَ ﴿۳۸﴾

تہس نہتہس وراہی یس جہنس منز (پانے) اثران

وول چھ۔

إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ ﴿۳۹﴾

بیہ اسہ ساری ہنہ خاطر چھ اکھ مقرر کرنہ

آمت مقام۔

بیہ اسی ساری چھ خدایس بروٹھ کتہ صف گنڈتھ

استاد۔

وَمَا مَثَلًا لَّآلِهِمْ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴿۴۰﴾

وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّادِقُونَ ﴿۴۱﴾

بیہ اسی ساری چھ تسبیح کرن والہ۔

وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ﴿۴۲﴾

بیہ کتہ وز اسی یکم لاکھ (یعنے کبہ والہ) زمان۔

وَأَنْ كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿۴۳﴾


دہر گاہ بروٹھ من لوکن بندہ رسول ہوک اسہ

لَوْ أَنَّ وَعِدْنَا كُرْآنًا لِآلِ ذَرِيَّتِنَا ﴿۴۴﴾

لہ یعنے بڑی مہنوی تہ پھاری لاکھ۔

تہ یعنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ تہندہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔

- نیش تہ پیسہ ہین ۔
 تیلہ اُسو تہ بنہ ہو اللہ (تعالیٰ) ہندی مخلص بندہ۔
 لہذا ہتو کور اللہ (تعالیٰ) ہس انکار تہ تمن شہر
 جلدیہ پین انجام فکر ۔
 بیہ سانہن بندن (یعنی رسولن) بندہ خاطر
 چھہ سون نا صلہ برو نکلے دہہ آمت ۔
 (یس یہ چھہ) زہ تمن پیہ مدد کرنہ ۔
 تہ سون شکرہے (یعنی مؤمنن ہندے دور)
 روزہ غالب ۔
 لہذا تہ پھر کیشہ کالہ خاطر تہندہ کنہ بہتہ ۔
 بیہ روز کھنہ تہم زہر پاشو وچھان تہم تہ وچھین
 (پین انجام) کپے کالہ ۔
 کیا ییم لاکھ چھا سون عذاب اول و اول بیڑھان؟
 اوییلہ سہ (عذاب) تہندہن آنگنن مشر تازیل سپد
 تہ سہ قوم نیس کن ہشیر کن ول (رسول)
 سوزنہ آمت چھہ تہندہ صبح آسہ سبھا افسوسنگ ۔
 اُسو چھہ بیہ زمان زہ تمن نیش پھر و کیشہ کالہ
 خاطر بہتہ ۔
 تہ تہندہ حال روزو وچھان تہ تہم تہ وچھین یقینا
 (پین انجام) ۔
 چون پرور و کار یس سارک نے بجرن ہندہ ما بک
 چھہ ، چھہ تہنترو بیان کرک مشر و کتھو نشہ پاک ۔
 بیہ روز رسولن پدہ ہمیشہ سلامتی تازیل سپان ۔
 بیہ ساری تعریف چھہ اللہ (تعالیٰ) ہندی یس
 سارک نے عالمن ہندہ پرور و کار چھہ ۔
- لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿۳۷﴾
 فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿۳۸﴾
 وَ لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا
 الْمُرْسَلِينَ ﴿۳۹﴾
 إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴿۴۰﴾
 وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿۴۱﴾
 فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿۴۲﴾
 وَ أَبْصَرْتَهُمْ فَسَوْفَ يَأْبُورُونَ ﴿۴۳﴾
 أَلَيْسَ جَدًّا بَيْنَنَا يَسْتَفْجِلُونَ ﴿۴۴﴾
 فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ
 الْمُنذَرِينَ ﴿۴۵﴾
 وَ تَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿۴۶﴾
 وَ أَبْصَرْتَهُمْ فَسَوْفَ يَأْبُورُونَ ﴿۴۷﴾
 سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿۴۸﴾
 وَ سَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿۴۹﴾
 وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۵۰﴾



سُورَةُ صَ : یہ سورہ چھوٹی تر اسم اللہ ہے چھ آیتھ کلمتہ آیت بیس چھس پانترہ رکوع۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①

(یہ چھس) اللہ (تعالیٰ) سندن اوہتہ (پر ان ایس) حد رؤس کرم کرن وول (تہ) پھیرک پھیرک رگم کرن وول چھ۔

ص وَالْقُرْآنِ ذِی الذِّکْرِ ①

یہ قرآن چھ صادق (پڑیا رک) خداین نازل کورمت اسی چھس امر دعویٰ کس تبولتس منز شہادتہ کر زنگہ قرآن پیش کران۔ ایس پرہتہ قسم چھو تفسیر شو سبتی مال مال چھ۔

بَلِ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا فِیْ عَذَابٍ وَّ شِقَاقٍ ①

امہ یوز پکو کفر کورمت چھ تم چھ کبرس منز مبتلا۔ تہ اپنی اپز کتہ پز کرنہ خاطر (اختلاف کرن چھ تہند دستور۔

كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوا وَاَلَاتِ حَیْثَ مَنَّا ①

اسہ کاتیاہ تہ قوم چھ امن بروٹھ ہلاک کرکری۔ یہ پٹھ ہمو فریاد کریاو۔ گمرسہ پٹھہ نجائک ووت آسان۔

وَعَجِبُوْا اَنْ جَاءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ زَوَّالٍ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا سِحْرٌ كَذٰبٌ ①

بیس تم چھ تعجب کران تہ امن بش او تہندی قومہ منز اکھ ہشار کرن وول تہ کافر چھ وان نہ یہ تہ چھ اکھ پھند باز (تہ) اپز یوز۔

اَجْعَلِ الْاِلٰهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا اِنَّ هٰذَا لَشَیْءٌ عَجَابٌ ①

اگر چھا واریا امن معبودن اکھ معبود بنومت؟ یہ چھنیہ بڑ عجیب کتہ۔

وَاَنْطَلِقَ الْمَلٰٓئِمُ مِنْهُمْ اَنْ اَمْشُوا وَاَضْبِرُوْا عَلٰٓی اِلٰهَتِكُمْ اِنَّ هٰذَا لَشَیْءٌ یَّرٰٓدُ ①

بیس تمو منز بڑ لو لوکو وون ترسیہ تہ نیرو تہ سبتن معبودن پٹھ روزو مضبوطی سان قائم۔ یہ (کتہ) یعنی قرآنک دعویٰ) چھ یقینا تترہ کتہ تراختہ منز

مَا سُوِّعَتْ بِهٰذَا فِی الْمِلَّةِ الْاٰخِرَةِ ۗ اِنَّ هٰذَا اِلَّا اِخْتِلَافٌ ①

چھ کیا تہام منصوبہ (یعنی کتہ غرض تل چھ ووتہ آتہ) اسہ یوز نہ امیک (یعنی امر قسم چھ کتہ ہند) ذکر پٹھہ بڑوٹھو بس قومس منز نہ شہبہ۔ یہ چھ محض اکھ اپز۔

ءَاَنْزَلَ عَلَیْهِ الذِّکْرُ مِنْ بَیْنِنَا ۗ بَل

کیا سارہ قومہ منز چھا اگہ سے پٹھہ ذکر نازل سبت

هُم فِي شَاكٍ مِّنْ ذِكْرِي ج بَل لَّئِن
يَذُوقُوا عَذَابِي ①

حقیقت چھینے سے نہ بہن چھ میاں یہ طرفہ ذکر نازل
سیدس منزبے شک (دراصل میں چھینے سے شک
نہ اس شخص سے پیٹھ سید ذکر نازل کہ نہ) بلکہ
(اسل کتہ چھینے سے نہ) تموثرہ نہ ونیکتام میون
عذاب (او کو چھ دلیر کا ہوتی)۔

أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ
الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ②

پھون پروردگار میں غالب (تہ) بخش مار چھ، کیا
تمو سید رحمت کو خزانہ چھا تہندک سے اتھس مل۔
(او دن یا نہ دن)۔

أَمْ لَهُمْ مَثَلُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ذَا مَا
بَيْنَهُمَا فَالْيَزْتَفُوا فِي الْأَشْبَابِ ③

کیا آسمان ہنرتہ زہینج تہ یہ کینرشہا بہن دریاں
چھ، بہن ساری تہ ہنرتہ بادشاہی چھا تہندک سے
قبض مشر؟ اگر تہرتہ کتہ چھینے تہیلہ پرتہ رزو
ہندہ دروہ کھن ہنور (تہ کا شہہ خدایا شہادت لینے
پہچھنرتہ کتاب ان توبریتہ کا فر پرتہ بہکن۔ یہ
پاکو ہم محمد رسول اللہ سے مطالبہ کران اسلم۔
اگر چھ کہ غار متقی مگر منظم لشکر خبر دوان
میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندس مقاس
پہچھ حملہ کر مگر) اتر تہرتہ پہچھ۔

جَعَدْتُمْ مَاهُنَالِك مَهْزُومٍ مِّنَ الْأَحْزَابِ ④

یو بروٹھ اپزاوے یاے (پہنرتہ رسول) نوح ہندک
تومن تہ عادل تہ تہ فرعون (تہ) میں بڑ طاقتہ
لول اوں۔

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ عَادُ وَ
فِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَانِ ⑤

یتھے پاٹھ تھوون تہ لوطہ ہندک تومن تہ ایکہ والہو
تو کو (تہ اپزاوے یاے پہنرتہ رسول)۔ ہم ساری
اسی اکھ (غیر متقی) منظم جماعت۔

وَ ثَمُودُ وَ قَوْمُ لُوطٍ وَ أَصْحَابُ لَيْكَةِ
أُولَئِكَ الْأَحْزَابِ ⑥

تو مشر پرتہ اک اپزاوے یاے رسول۔ او انہر
رود میون عذاب نازل سیدتھ۔

إِن كُلَّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ
عِقَابِي ⑦

لہ کفار ہند آمہ مطالبک ذکر چھ سوہ بنی اسرائیل آیت ۹۵ اس مشر۔

لہ اتھ آیس مشر چھ غزوہ احزاب مشر کفار ہند شکستہ پیٹھ کوئی۔

لہ ایکہ اول اس حضرت شعیب علیہ السلام قوم ہم مدین شہر بن نزولک اکس جنگلس مشر

روزان اس۔

وَمَا يَنْظُرُ هُوَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا
لَهَا مِنْ قَوَائِي ۝

وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْعَانَا قَبْلَ يَوْمِ
الْحِسَابِ ۝

إِضْبِرْ عَلَيَّ مَا يَهُودُونَ وَإِذْ كُذِّبْنَا
دَاوُدَ وَالْأَلْيَدِ بِرَأْسِهِ إِذْ أَبَا ۝

إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ
بِالْعِشِيِّ وَالْآشْرَاقِ ۝

وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهُ أَدْوَابٌ ۝

وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَأَتَيْنَهُ الْحِكْمَةَ وَ
فَضَّلْنَا الْإِسْرَاقَ ۝

وَهَلْ أُنْتَلِكُ نَبُوءَ الْخَصُومِ إِذْ تَسْوَرُونَ
الْمُحْرَابَ ۝

إِذْ خَلَوْا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ
قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمِينِ بَغِي بَعْضُنَا
عَلَى بَعْضٍ فَأَخَلُّكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا
تُشْطِطُوا وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ۝

إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ
نَجْعَةً لِي تَجْعَةً وَاحِدَةً فَقَالَ
أَكْفُلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ۝

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِي نَجْعَتِكَ
إِلَى نَجْعِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ

تہ یکم لوگھ چھ صرف اُس ہنگہ ہنگہ پنہ وائس
عذائس پیارن بیتھ منز کانہ ترھن آسہ نہ۔

بیہ چھ ونان ، اسے سانہ پرور وگار ! سون جھہ
یہ کینترھا تہ چھ اسہ د تہ اول اول، حسابہ کہ وقتہ
برونہ۔

یہ کینترھا تم ونان چھ تہ پیچھ ہیہ تہ سرس کام
بیہ کرن تہ سون بند داوود یار یس برطاک
مالک اوس۔ یقینا سہ اوس خدائس کن چھ کر چھ تہ بان
اسہ اسی پہاڑی لوگھ تس ماتحت کر رہی تہ تم
اسہ شامن تہ صبحن شینج کرئس، منز آور
روزان۔

اسہ علاو بلند پرواز انسان تہ اسی جمع کر تہ تس
سینتہ لاکھ تھاکر ہی۔ تم اسی سرسالم خدائس
کن تمن وال۔

بیہ اسی اسہ تسنر حکومت مضبوط کر مہتر بیہ اسی
تس حکمت تہ لاجواب دلیل عطا کر مہتر۔

تہ کیا ترہیہ چھ یا بہن دشمن ہنتر خبر معلوم، ایسہ
زن تم دہ سہ پیٹھ ووتھ تار تھ اندر اسی اسی بہ

یہ تم داوودس بش آہ، تہ سہ گابریولس وچھ تھ
تمو وونس کھوڑ مہ! (اسی دہ لوسے) چھ تر ون وال
نہ زڈ۔ اسہ منز چھ اکھ ہیس پیچھ زبردستی کران
لہذا تر کر اسہ در میان الصافہ سان تا صلہ تہ فلکم
کر کر نہ۔ بیہ کر اسہ سینر و تہ کن رہنالی۔

بیہ چھ میون بوسے اسی چھ منہ تھ گبہ تہ میہ
چھ صرف اکھ گب۔ توتہ چھ یہ ونان نہ پنز گب
تہ دن میہ، تہ مجادس منز چھ یہ میہ دبا والن۔

اتھ پیچھ وون تمو (یعنی داوودن) چاڑی گب مگلس
منز چھینے اسی ظلمت کام ہنتر مہتر۔ تہ دریاہ شریک
چھ تھو آسان یکم اکھ اسی پیچھ ظلم کران چھ، سولہ

أَمْثُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَلِيلٌ مَّا هُمْ
وَذَلَّ ذَاؤُدُ أَتَمَّا فَتَتْهُ فَاستَغْفَرَ رَبَّهُ
وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿۱۵﴾

مؤمنو تہ تمویم ایمانہ مطابق عمل کران چھ تہ تم
لوکھ چھہ کے۔ بیہ گوو داوودس یقین نہ اسہ چھہ نہ
امتھاس مشر تروومت (یعنے دشمن ہند کلمہ
تلمہ کوز) اذ ایوت تم پسنس پروردگارس مغفرت
منگن۔ تہ اطاعت ظاہر کران کران پیو پتھر زینہ
پلٹھ سجس مشرتہ (خدا یس کن) کوزن رجوع۔

فَعَقَرْنَا لَهُ ذَلِكْهُ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا
لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ ﴿۱۶﴾

اذ تروو اسہ تم ہنزن تم ساری نے کمورین پلٹھ
پرہ۔ تہ کیا تہ کر اوس داوود سون مقرب تہ تن
مید اسہ بش رت مقام۔

يَا دَاؤُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ
فَاخُذْ كِتَابَ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ
الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ
عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ
الْحِسَابِ ﴿۱۷﴾

(پستہ وون اسہ تن) اسے داوود! اسہ چھہ کر
زمینہ مشر خلیفہ نومت اذ کوز کر کر لکن مشر ایسا
حکومت تہ پستہ وون ہمیشہ مشر پاری کر کر نہ ہو
ذالی تریہ اللہ (تعالے) ہنزر و تہ ہنستہ۔ تم لوکھ یکم
زن اللہ (تعالے) ہنزر و تہ ہنستہ ڈلان چھہ، تن چھہ
سخت عذاب میلان تکیا ز تم چھہ حساب دہہ مشر
شہان۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا
بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكْهُ ظَنُّ الَّذِينَ
كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ
النَّارِ ﴿۱۸﴾

بیہ اسہ بنو نہ آسمان تہ زمین تہ یہ کینترھا تن
وہ نونی درمیان چھہ بیتھے ضایع سپدن وول۔ یہ چھہ
تن لکن ہند گمان یم کافر چھہ۔ لہذا کافرن
پٹھ چھہ نار کرب عذاب کوز ہلاکت نازل سپدن واجی۔

أَمْ تَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ تَجْعَلُ
الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴿۱۹﴾

کیا اسی زلوکھا مؤمن تہ ایمانہ مطابق عمل کرن
وآل زمپنس اندر قساد کرن والین برابر؟ کہہ
متقی زلوکھ بدکارن برابر؟

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا
آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿۲۰﴾

یہ (قرآن) چھہ اکھ کتاب یوہ اسہ تریہ کن نازل
کر ہنتر چھہ، یہ چھہ سار کے نے رزرن ہنزر ہنزن
چھہ زن تم (اللہ تعالیٰ) ہنزن کتھن پٹھ سوچ
سمجھ کرن تہ یہ زن عقل مند لوکھ نصیحت حاصل
کرن۔

وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ ؕ نِعَمَ الْعَبْدِ ؕ
إِنَّهُ آوَابٌ ۝۱۵

بہ بخش اسے واوودس سلیمان تہ سہ اوسس
اکھ سلیم ہے رت بندہ تہ سہ اوس خدایس کن سلیم
ہے من وول۔

إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصُّفُوفُ
الْجِبَادِ ۝۱۶

(بہ کر یاد) نیلہ تس بروٹھ کتہ شام وقتہ اعلی
تہسکو گری پیش کرتہ آپ۔

فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن
ذِكْرِي ۖ حَتَّى تَوَارَثَ بِالْحَبَابِ ۝۱۷

تہ تمو وون، بہ تجسس وئی بہکین ترہن چیزن ستر
او موکھ محبت تھاوان تہ کیاہہ تم چھ مینہ میون
پروردگار تہس پاوان یوت تام زہ نیلہ تم گری
تھریس پور گئے۔

رُدُّوهَا عَلَيَّ ۖ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَ
الْأَعْتَابِ ۝۱۸

(تہ وون)، تم انیوکھ مینہ کن واپس (نیلہ تم آپ)
تہ تمکو ہیشہر (لولہ پسان) تہنزن گروہ زن تہ گروہن
تھاپ تھاپ وئی۔

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ ۖ ذَالِقَيْنَا عُلَىٰ كُرْسِيِّهِ
جَسَدًا لَّمَّا آتَا بَ ۝۱۹

بہ اسے کرسی سانس آزمائش تہ تہدیس تختس
پٹھ کور اکھ بیہ روجسم بہناونک قاصدہ (پتہ نیلہ
بہ نظارہ تم کشف منزوچہ) تہ سہ نمیو وپنہن
پروردگار کن۔

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا
يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي ۖ إِنَّكَ أَنْتَ
الْوَهَّابُ ۝۲۰

تہ تمو (سلیمان)، وون (پنہن نیچو ستر اصلیت
خدایس نش معلوم کر تھ) نہ اسے میانہ پروردگار
میانن عابن کرتہ پردہ تہ مینہ کر تہرہ بادشاہی
عطا یوسہ مینہ پتہ پتہ والہن اولادن وراثتس
منز میلہ نہ۔ تہ چکھہ یقینا بوڈ بختن مار۔

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً
حَيْثُ أَصَابَ ۝۲۱

بہ لوگ اسے واوتہند خاطر خد متس پٹھ۔ یس
تہند حکمہ مطابق یون سہ گرتھن سترھان اول
نرمی سان اوس سکتہ پکان۔

وَالشَّيْطَانِ كُلِّ بَنَاءً ۖ وَخَوَّاصٍ ۝۲۲

یتھہ پٹھ اسی اسے سرکش شیطان یعنہ انجمنہ
محمار تہ ونگل تہندس خد متس پٹھہ لاگتھ
تھا و ہتہ۔

۱۵ یعنی حضرت سلیمان اوس بادبانی جہازن ہند علم ورتہ امت۔
۱۶ یعنی مشکہ سان تولو گرتھن اول۔

وَالْحَرِيْنَ مُقَرَّنَيْنِ فِي الْأَصْفَادِ ①

بلکہ کینہ بیہ لوگ تیرے ، ہم زولان منتر پابند کرتے
روزان اسی۔

هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ
حِسَابٍ ②

یہ اوس سون بے حساب عطا، لہذا ادا نہ تم تو من
پہچہ احسان کرتے یا ادا تم منستی پیشتر متواہر
(پیشتر) سختی کرتے۔

وَلَا تَلَمَّ لَهُ وَعِدَّتَا لَزُلْفَى وَحَسَنَ مَا بَ ③

بیہ تش (یعنی سلیمان) چھ اسہ نیش سپٹھا قرب
تا بصل۔ تیرے اسہ نیش چھ تندر سپٹھا رت تمام۔

وَإِذْ كُرِهِيَ تَارَ أَيُّوبَ مَرَادُ تَأْدَى رَبَّهُ آيَةَ
مَسْنِيَّ الشَّيْطَانِ يَنْصِبُ وَعَدَا بَ ④

بیہ کرن سون بند ایوب (تیرے) یاد ییلہ تم کو پسنس
پروردگار پہ ونان ناد دژاو ز میہ چھ اک
کافر دشمن سپٹھا تکلیف تیرے عذاب و اتونمت۔

أُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ
وَشَرَابٌ ⑤

(اسہ وون تش ز) پسنہ سوار کر کھور۔ یہ چھ
برونٹو اکھ سرائس لایق آب ایس ٹھنڈ تیرے چھ
تیرے چپنس لایق تیرے چھ۔

وَدَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ
رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لَأُولَى الْأَبْيَابِ ⑥

بیہ وڈی اسہ تش تندر گروا ل تیرے بیہ تم ہو کر
و تش پسنہ رحمت سستی بیہ تیرے۔ تیرے عقلم والہن
بکیت بخش اکھ لغتھمک سامان تیرے۔

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِعْفًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا
تَحْنُثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَادِقًا نِعْمَ الْعَبْدُ
إِنَّهُ أَوَّابٌ ⑦

تیرے (ایوبس وون ز) بیہ رٹھ پسنس اتھس منتر
اکھ گوند کر دار کھنر مور تیرے تمہ کر مدد کرتی
سان سفر (یعنی تمہ سستی چوب وون دون وون
سوار کر) تیرے حق تراوتھ گرتھم ز نہ باطلس کن
مال دارتہ۔ اسہ اوس سہ (یعنی ایوب) صابر تو بمت
سہ اوس سپٹھا رت بند۔ سہ اوس بلا شک خالیس
کن جا د جا د من وول۔

وَإِذْ كُرِهِيَ تَارَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَ
يَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ⑧

بیہ کر کھ یاد سہ ز بند ابراہیم تیرے اسحاق تیرے یعقوب
ہم کارند تیرے پہچہ بروٹھ سرن وائل اسی۔

إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ⑨

اسہ اسی تمہ اکھ خالص کتھ بند خاطر تیرے تیرے تیرے

سہ بچہ ناو پکانون وائل سمندر منتر کام کرن وائل غلام اسی لیلان زولانہ کر تھ پابند تھونہ۔
سہ ضغث اکھ گوند کر دار کھنر مور (تفسیر فتح البیان) جنت اپوز تراوتھ اپنرس
کن مال کرن۔

وَأَتَاهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُضْطَفِّينَ
الْأَخْيَارِ ﴿۳۷﴾

سوکتھ اُس اصل گرگ (یعنی اُترنگ) یاد۔
بہ اُس تم ساری اسے بٹس تزاری ہوتے بڑ خاٹر اول
لکھ۔

وَإِذْ كُنَّا إِسْمٰعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ
وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ ﴿۳۸﴾

بہ کرن اسماعیل تو یسع (یعنی یسعیاہ) تہ یاد
بہ ذوالکفل (یعنی حزقیل) تہ تہ یلم اُس سرسالم
نیک بندو منبر۔

هَذَا ذِكْرًا وَإِن لِّلْمُتَّقِينَ لِحُسْنِ مَا ب ﴿۳۹﴾

یہ (بیان) چھ تہن لوکن ہند بن پڈر اکھن پیٹھ
پکڑ خاٹر اکھ تہ بٹس پاوون کتھ تہ متقین ہند خاٹر
چھ یقینا سبھا تھدر درجک ٹھکا تہ مقرر۔
(یعنی) ہمیشہ روزن اول باغ یکن ہندو دروازہ
ہمیشہ تہند خاٹر پہل روزن۔

جَنَّتْ عَذْرٰی مُفْتَحَةً لَّهُمْ الْآبْوَابُ ﴿۴۰﴾

تم آسن تھ اندر ڈوگ وی دی بہتھ، تم منگن
تھ منز پر تھ تھمگ میولیس تہ تہ گٹل آسہ، تہ
یتھے پاٹھی چہنک چہنر تہ۔

مُتَّكِنِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ
كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ﴿۴۱﴾

بہ آسن تہن بٹس یوان کن وچین واجتہ تہنری
وانسہ ہنر (تم سپنہ زنا تہ)۔
یک چہنہ تہ تہ کتھ یکن ہند تہ ہر سیدی قیامتہ ہر
میںک وعدہ چھ کرن یوان۔

وَإِنَّمَا تُوْعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿۴۲﴾

یہ چھ سون رزق یس تہ نہنہ مہکلہ۔

إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن تَفَافٍ ﴿۴۳﴾

یہ چھ (مؤمن ہند وعدہ دنہ آمت چہنر) مگر
تہو چہن بن ہند خاٹر (چھ) سپٹھا یچھ ٹھکانہ
(مقرر کرنہ آمت)۔

هَذَا وَإِنَّ لِلطَّغْيَانِ لَشَرَّ مَا ب ﴿۴۴﴾

یعنی جہنم بیتہ اندر تم اثرن تہ روزن جائے آسہ کنہ
چھ سہ ناکارہ۔

جَهَنَّمَ يَرْضَلُونَهَا فِيئْسَ الْمِهَادُ ﴿۴۵﴾

یہ (چھ کافرن ہند وعدہ دنہ آمت چہنر) لہذا پڑ تم
تہن یہ۔ یعنی مگر کہہ ون آب تہ چھ کن ہند چہن
دور۔

هَذَا فَلَیْذُو قُوَّةٍ حَمِيمٍ وَغَسَّاقٍ ﴿۴۶﴾

بہ اتھو (دوس) ہوک آسن بہ تہ ڈرک (یکن)
ہندو اعمال پانہ واذی رلان میلان آسن)۔

وَآخَرٌ مِّن شَحْلِبَةٍ آذْوَابٍ ﴿۴۷﴾

هَذَا قَوْلٌ مُّقْتَضٍ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا
بِهِمْ وَإِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ۝۱۰

(تمو منتر ونب اکھ دور بیس دُرس کن اِشارہ کر تھہ)
یہ تہ چھہ اکھ دور بیس توہ بہ ستر جہنم منتر دا نل
سپد (تہ) تمہن آسہ نہ کا نہہ خوش آمد ون وول۔
تم سپد ضرور جہنم منتر دا نل۔

قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ
قَدْ مَتَّمُّوهُ لَنَا فَبئس القَرَارُ ۝۱۱

(اتھ پیٹھ) ونہ سہ دور (بیس ستر سہ یہ کتھ کر تہ بیہ)
سائی کتھ تراو۔ توہ تہ چھو تھو لوکھ نہ بین خوش
آمد ون وول کا نہہ چھہ۔ توہہ اوس و بیہ بہنم
اُسی و تہ ڈال ڈال سا نہ خاطر برو تھ سوز مت۔
تہ یہ چھہ سبھا بیچھہ ٹھکانہ بہ۔

قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَرِذَّةً
عَدَا بًا ضَعُفًا فِي النَّارِ ۝۱۲

اتھ پیٹھ ونہ سہ دور (بیس ستر سہ یہ کتھ کر)
اسے سا نہ پرور وگاہ! بیہ اُک (تہ چاہ نظر منتر)
سا نہ خاطر یہ جہنم برو تھ سوز مت چھہ، تس و تہ
نارس منتر جا و کھو تہ جا و عذاب۔

وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا
تَعَدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ ۝۱۳

بیہ ون (تہ ون جہنمی) اسہ کیا گونہ نہ اُسی چھہ
نہ از تہ لوکھ وچھان ہم اُک سا کاہ زمان اُسیکھ۔

اتَّخَذُوا لَهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ
الْأَبْصَارُ ۝۱۴

کیا اُسی اُسی کھا تم (یتھہ پستہ دلی خیال کنی) جہنم
زمانا؟ کہہ و لی کن چھہ سا نہ اُچھہ وچہ منتر (تہ
تم چھہ اسہ بزنہ یولن)۔

إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ۝۱۵

جہنم ہند پا نہ وانی ترون چھہ اکھ حقیقت تہ یہ
روز سپد تھہ۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِّنْ إِلَهِ إِلَّا
اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝۱۶

تر ون (تمہن) یہ تہ چھس صرف اکھ ہشار کرن
وول۔ اللہ (تعالی) ہس ورا نی چھہ کا نہہ معبود
سہ پتھ کتے (تہ) غالب۔

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ۝۱۷

(سہ چھہ آسمان ہند تہ زمین پرور وگاہ بیہ یہ
کینترھا یمن دلوئی درمیان چھہ تمیک تہ۔ سہ
چھہ غالب تہ (امہ باوجود چھہ) بخش وول۔

قُلْ هُوَ نَبَوُّا عَظِيمٌ ۝۱۸

تر ون نہ یہ چھہ اکھ بڑ خبر۔

لہ بیہ تہند تہ تہ موجب اس اس تہ عمل تو عقیدہ پرومت نرا ز پیو اس جہنم تہ وچھن۔

أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿۱۱﴾

مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَآءِ الْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿۱۲﴾

إِنْ يُؤْمِنُ إِلَّا آتَمًا آتَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۱۳﴾

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴿۱۴﴾

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿۱۵﴾

فَسَجَدَ الْمَلٰئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿۱۶﴾
إِلَّا إِبْلِيسَ ؕ اسْتَكْبَرَ ؕ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِينَ ﴿۱۷﴾

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ؕ أَسْتَكْبَرْتَ ؕ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعٰلِينَ ﴿۱۸﴾

قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ؕ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿۱۹﴾

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿۲۰﴾

وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدَّيْنِ ﴿۲۱﴾

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿۲۲﴾

(امہ پڑھو) تو ہی جھو امر بشتہ بشتہ بھیران ۔
میہ اوس نہ تھدر تسمہ والہن ملائکین ہند کا تھہ
علم - بیلیہ تم ایہ (بخت کران اسی) نہ بیٹھ ناس
اندر کس شخص اسی ہدایت دہ نہ خاطر متاسب
میہ جھیلہ صرف یہ وحی کرہ یوان نہ یہ جھیس واش
گڈی گڈی بیان کرن وول مذہر (یعنی نبی)۔

(یاد پاؤ !) بیلیہ زن چانی پروردگار ملائکین
وون ، نہ یہ جھیس سرسہجہ میٹر نشہ اکھ بشر پاؤ
کرن وول۔

اڈ بیلیہ بہ سہ مکمل کرن تہ تس منتر تراوین کلام
تہ تو ہی لکھ نحو زہو فرمانبرداری سان تس بروٹھ
کتہ۔

اڈ ساروہے ملائکو کڑ تھو سہز فرمانبرداری اختیار۔
ایلیس درائی ، نیکی کپہ کور تہ سہ اوس اولہ بیٹھ
کا فر۔

(اللہ تعالیٰ ہن) فرموس اے ایلیس : تہ کڑ تھانوکھ
امہ کتہ نشہ زلیس میہ پستہو دھلوہے وے اتھو
بنومت اوس ، تھو سہز کر بھہ فرمانبرداری ۔ کیا
ثریہ زونھا پنن پان بو ڈکتہ تہ چھاکھ شرکہ میانی
حکم مانتر بشتہ بالا ؟

تھو (یعنی شیطان) دوپس بہ جھیس اوس شخص
(یعنی آدم) ہند کھوتہ رت ۔ ثریہ جھتھس بہ
نار بشتہ پاؤ کورمت تہ سہ جھتھن ثریہ سرسہجہ
میٹر بشتہ پاؤ کورمت۔

اتھ پھہ فرموس (اللہ تعالیٰ ہن) سیتہ نیرا تہ
کیا ز تہ چھاکھ سانہ دربار منہ مردود قرار دہہ امت۔
تہ جزا سہز بھس وقتس تام روز ثریہ پھہ میانی
لعت پیوان۔

اتھ پھہ وون تھو ، اے میانہ پروردگار ! (اگریسی

کرن چھ (تیلہ و تہ میہ تھہ و قس تام موہت
یوت تام، تم زندہ کر تھہ استاد کرن پین۔
اتھ پٹھ فرموس اللہ تعالیٰ من ہر گاہ بی بیڑھا
چھکھ (تیلہ زان پین پان موہت ورنہ آمتہ و نرن۔
یہ (موہت) آسہ اگس معلوم و قس تام۔

اد و دن تھو، میہ چھہ چانہ عزت چ دہے! بہ کرکھ
یہم سر سالم گمراہ۔

چانو تراری مہ تہو بندو وراہی۔

اد فرموو (اللہ تعالیٰ من) نہ بیزر چھہ یہ، تہ
بہ چھس تحقیقہ بیان کران آسان۔

نہ بہ برن جنہم چانہ سہو بیہ تمو ساروہے
سہو یہم چانہ فرما نہ واری کرن۔

تہ ورن، نہ بہ چھس نہ توہہ اتھ (الہی پیغام
واتناوس) پٹھ کونہو اجر منگان تہ نہ چھہ مسیہ
ہو باو کر تھہ کتھ کر تک عادت۔

یہ (قرآن) تہ چھہ سارک ہنہ عالم ہنہ خاطر
اکھ نصیحت کتاب۔

تہ توہہ بوڑو کینہہ کال پتہہ آچہ خبرہ۔

قَالَ قَاتِلْكَ مِنَ الْمُظَلِّينَ ﴿۱﴾

إِلَى يَوْمِ الْوَعْدِ الْمَعْلُومِ ﴿۲﴾

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأَعُوَّبَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۳﴾

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿۴﴾

قَالَ فَالْحَقُّ زَوَّالِحَقِّ أَقُولُ ﴿۵﴾

لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَوَمَنْ تَبِعَكَ
وَمِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۶﴾

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَ مَا أَنَا
مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿۷﴾

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿۸﴾

وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴿۹﴾

سُورَةُ الزُّمَرِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مَعَ الْبَسْمَلَةِ سِتُّ وَسِتُّونَ آيَةً وَتَمَامُهَا رُكُوعَاتٌ

سورة زمر۔ یہ سورہ چھہ کی تہ بسم اللہ ہتھ چھہ اتھ سٹ سٹتھ آہر بیہ چھس اٹھ رکوع۔

(بہ چھس) اللہ (تعالیٰ) سدا تاو ہتھہ (پران) یس
حدہ رؤس کرم کرن وول (تہ) چھہرہ چھہرہ رحم کرن
وول چھہ۔

یہیہ کتاب ہنہ تارل پین چھہ اللہ (تعالیٰ) ہنہ طریقہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ

لہ یعنی قرآن کریم چہرہ پیشگو بیہ گزہن ہنہ۔

الْحَكِيمِ ①

یس غالب چھ (تہ) سارے کامر چھ جبکہ سترن تہت کرن وول۔

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ①

اسر چھیر تیر کن یہ کتاب (یعنی قرآن) پور پور پرن پیٹھ ڈرتھ نازل کر ہتر او کچ کر تہ اللہ تعالیٰ) سہنر تہتھ پٹھ عبادت ز فرما نبر و آری کر صرف تہندی خاطر خاص۔

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ، إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كُذِّبَ كَفَّارًا ①

بوزرو! اطاعت چھیر خاطر اللہ تعالیٰ) سُنْدے حق تہ ہم لوکھ تس ورا بی بین ہستین (یہ و تہتھ) دوست بناوان چھ نرا کچھ تہنتر عبادت صرف او موکھ کران ز تہم بن اسر اللہ تعالیٰ) ہس نزدیک۔ اللہ تعالیٰ) کر تہن در میان قاسلہ ہن کھن متعلق یکن منزتم اختلاف تھوان چھ، یقیناً اللہ تعالیٰ) چھنر اپز یارس تہ ناشکری کرن و اہس کامیابی منز و تھ ماوان۔

لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ، وَهُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ①

اگر اللہ تعالیٰ) تہی بناونک اراد تھوہے او پسنہو مخلوق منز تہس ہیر تھہ ہے تس ترار ہے سہ چھ (حقیقی نیچو ہند غایہ ہتہ) پاک۔ کتھ چھیر یہ ز اللہ تعالیٰ) چھ کن (بیہ چھ) غالب۔ تھو چھ آسمان تہ زمین اکر پور پور مصالحتہ سہر پاد کر کر ہتر۔ سہ چھ راتھ دھ ہس پیٹھ ولان تہ دہہ چھ راتھ پیٹھ ولان بیہ چھ تھو آقاب تہ زون اہس (قولوس تل پاندر کتھ) کامر لاگتھ تھو و ہتر۔ دہنو وہے منز چھ ہر تھہ اھہ کھ گتھ مدتہ خاطر اہس و تہ پیٹھ پکان۔ بوزرو! سہ چھ بوڈ غالب (تہ) بوڈ بخش ہر۔

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ ، يَكُونُ أَيْلٌ عَلَى النَّهَارِ وَ يَكُونُ النَّهَارُ عَلَى الْإِيلِ ، وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ، كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ، أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْعَقَّارُ ①

توہی چھو تھو اکر زو ہتہ پاد کر کر ہتر پتہ چھ تھو اسی ڈا تہنز تہند سور ہومت۔ بیہ چھ تھو چار وایو منز اٹھ جوہر بناو کر ہتر۔ سہ چھو تو ہس تہنترن ماہن ہند لو شکو منز پاد کران۔ (یعنی) اکر پیدائش پتہ و ذمیر پیدائش منز بدلوان تر یو

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَّةً ، أَرْوَاحًا ، يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ، ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ، لَا إِلَهَ

إِلَّا هُوَ فَآتَىٰ تُصْرَفُونَ ﴿۱۰﴾

إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَبْزُقِي لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ؕ إِنَّهُ عَزِيزٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۱۰﴾

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ عَارِيَةً مِّنِيئًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا حَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْذَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ ؕ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴿۱۰﴾

أَمَّنْ هُوَ قَانِثٌ آتَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَزْجُوا رَحْمَةً رَبِّهِ ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ؕ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿۱۰﴾

قُلْ يُعْبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ؕ وَأَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةٌ ؕ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ

انہ گنہگاروں کو کفر سے روکنا۔ یہ چھوٹے اللہ (تعالیٰ) تہند رب۔ بادشاہی چھینے تہندے قیمنس تل۔ صرف چھوٹے سے ات اکہ معبود۔ لہذا توہی کو کون چھو پھیر نہ لوین۔ اگر توہی کفر کرو تہ اللہ (تعالیٰ) چھوٹے تہند محتاج تہ سہ چھوٹے پستہن بدن بدن خاطر کفر نہ نہیں پسند کران تہ اگر توہی شکر کرو تہ سہ چھوٹے تہند خاطر یہ پسند کران۔ تہ کا تہہ بور تلمن واجو ہستی چھوٹے بیسہ سند بور تلمنہ پیکان بیسہ توہہ سار کونے آہہ پستہن پروردگارس کئے چھوٹے تہہ مرصہن۔ اتی کر کو سہ توہہ تہند لو اعمالو تہہ خبردار، سہ چھوٹے وچھن منز کھٹتہ کتہ تہ زانن وول۔

بیسہ بیسہ انسانس کا تہہ تکلیف واتان چھوٹے تہ سہ چھوٹے پستہن پروردگارس کون وینان و تہہ تنس آلو کران۔ تہہ بیسہ بیسہ سہ (خدا) انسانس پستہن طرفہ نعمت عطا کران چھوٹے، تہ انسان چھوٹے مقصد مشراوان بیسہ خاطر سہ خدایس آلو کران اوس۔ بیسہ چھوٹے خدایس ہندک شریک مقرر کران بیسہ زن (لوکون) تہہ تہہ و تہہ تہہ ڈال رہے۔ تہہ و ن (اے انسان!) کینہہ کال تل پستہن کفر کہ باعیتہ فایدہ۔ تہہ لکن چھکاہ تہہ نایہ والین ہندے سہ تہہ بوج۔

کیا ایس شخصس راتہ ہنزن گرین منز سجدہ تہہ قیام کس مولوتس منز فرمانبرواری ہند نمونہ ہاوان بہتہ بیسہ چھوٹے اترس تہہ کھونزن بیسہ چھوٹے پستہن پروردگارس ہند رچھوچ وہ مید تہہ تھاوان۔ (سہہ ہیکیا نافرمانہ ہندک پاستو آہتہ)۔ تہہ و ن، کیا علمہ اول تہہ جاہل چھاہوی آسان؟ نصیحت چھوٹے صرف عقل مند لوکھ حاصل کران۔

دیتے پاستو) تہہ و ن، تہہ اے میانہو مؤمن بندو! پستہن پروردگارس سند تقویٰ پر اوو۔ تم لوکھ ہم۔ بیسہ دنیاہس منز (الہی) حکم پور پاستو ہمکھ ولان چھوٹے

أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ⑩

بتن کیت چھ (بروٹھو میس دنیا ہس منز) نیک
اجر مقرر کر تہ آمت۔ بیہ اللہ (تعالے) ہنر
زمن چھ سبھا کشادہ۔ صبر کرن والین بیہ تہند
اجر بے حساب یا کھی لور لور دینہ

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا
لَهُ الدِّينَ ⑪

تر دن ز مینہ چھ حکم دتہ آمت تر بر کر اللہ
(تعالے) ہنر تہہ پا کھی عبادت تر فرمانبردار کر
صرف تہندی خاطر خاص۔

وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ⑫

تر مینہ چھ حکم دتہ آمت تر بر ہنر ساری وہے
کھوتہ بڑو فرمانبردار۔

قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ
يَوْمٍ عَظِيمٍ ⑬

تر دن، یود و سے بر سینس پروردگار ہنر نافرمانی
کر تیلہ چھس بر کہ بڑو کہہ عذاب ہنر کھوتہ۔

قُلِ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ⑭

(تر بیہ) دن بر چھس اللہ (تعالے) ہنر عبادت
کران ہنر اطاعت صرف تہندی خاطر وابستہ
کر تہہ۔

فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ
إِنَّ الْغَيْرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ
وَآهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ
الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ⑮

(چھ رور و توہر) اہیکو ہنر توہر اللہ (تعالے)
ہس واری عبادت کر تہ ہنر ہو، کرو۔ (بیہ
پتہ) دن تر لور پاکھی خسار منز سپتہ و آلہ
لوکھ چھ تے یکو ہنر پان تر تہ ہنر آشنا تہ
قیامتہ وہہ خسار منز تراوک۔ یوزو! یو ہے
چھ نہ واسہ خسار۔

لَهُمْ مِنْ قَوْعِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ
تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ
عِبَادًا يَعْبادُوا قَاتِفُونَ ⑯

تن پیٹھر کئی تر آسن ناروی سائبان تر تلہ کر تہ
تر آسکھ ناروک سایہ۔ یہ چھ سہ چیر ہنر ہنر
اللہ (تعالے) ہنر بنن بدن کھوتہ ناوان چھ، اسے
میانہ بندو! میون تقویٰ پراوو۔

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاعُوتِ أَنْ
يَعْبُدُوها وَأَتَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمْ

بیہ یک لوکھ کھی پھر ہنر ہستین ہنر فرمانبردار
ہنر بچان چھ تر اللہ (تعالے) ہس کون چھ نمان۔

۱۔ یعنی اگر کسی ملکس منز مؤمن دینس پیٹھ عمل کرنس منز تکلیف آسہ تر تنس پیر
ہجرت کر تہ تر بیس ملکس گرتھن۔
۲۔ یعنی تہند دن و تھن آسہ نارو۔

الْبَشَرِ ج قَبِيضًا عَبَادًا ۝

تہند خاطر چھپے بڑا خوشخبر۔ اوکو و تر میانین
تہن بندن خوشخبر۔

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ
أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُ اللَّهُ
وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ۝

یہ ساقی کتھ بوزان چھ تو پتہ چھ تمہ منز سارک
وہ کھوتہ بہتر کچھ پادوی کران۔ تے لاکھ چھ
یہن اللہ (تعالے) ہن ہدایت دیت تہ تے لاکھ
چھ عقلہ اول۔

أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ أَفَأَنْتَ
تُنْفِقُ مِنْ فِي الثَّارِ ۝

کیا سہ شخص نہیں پیٹھ عذاب چھ پیشگوئی پڑے
گے (تس ہیکیا کاسنہ بچاوتھ؟ تہ) کیا تہ ہیکیا
نارس منز سدن اول بچاوتھ؟

لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ
مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَةٌ وَتَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَّ اللَّهُ مَا لَا يُخْلِفُ
اللَّهُ الْمِيثَاقَ ۝

اماہ پڑے تم لاکھ ہم پتہس پروردگار سدا تقویٰ پرادا
چھ، تہن سدن کھو یا پور اول مکان عطا یمن
پیٹھ بیہ پور درکر سان بختہ آسن۔ تہن بوزی
کوئی آسن کولہ پکان۔ یہ چھ اللہ (تعالے) سندا
اکھ پونہ وعدہ (تہ) اللہ (تعالے) چھ پونہ وعدہ
پھٹراوان۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَسَلَّكَهُ يَتَّيْبِعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ
يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ
يَهْبِئُ بِهِ الْقَنَازِعَ مُمْضِرًا ثُمَّ يَجْعَلُ
حُطًا مَاءً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي
الْأَلْبَابِ ۝

کیا تہن وچھتھنا زر اللہ (تعالے) ہن چھ آسمان
پیٹھ آب وولمت پتہ چھن سہ زمبہن منز ناگہ
راد بناوتھ پکونمت۔ پتہ چھ سہ تہ دوس مختلف
رنگن ہند کر زراعت وہ پداوان پتہ چھ سہ پتہس
پیٹھ یوان تہ تہ چھکھ سہ وچھان زر تھ پھیور
زر رتھ لیدریر۔ پتہ چھ اللہ (تعالے) تھ بوس
شاوتھ پڑے چور کران۔ اتھ منز چھ عقلہ والہن
کرش بڑا لقیحت۔

أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلدِّسْلَامِ فَهُوَ
عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ قَوْلٌ لِّلنَّفْسِیَّةِ
قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِکْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي صَلَاتِ
مُتَّبِعِينَ ۝

کیا نیجو سندا وچھ اللہ (تعالے) فرمانبرداری
باچھ ستر او تہ تس آسہ پتہس پروردگار
سندا طرفہ نور تہ میولمت۔ (سہ ہیکیا تس برابر
آستھ یس بتیہ آسہ نہ)۔ اوکو اتھوس تہن
پیٹھ مہند دل اللہ (تعالے) سندا ذکر ستر
سختی تریان چھ۔ تم چھ بتہ وانہ گراہی منز
اللہ (تعالے) چھ سہ سیکو برتہ کھوتہ رتہ کتھ

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا

مَثَانِي ۛ تَشْعُرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ
يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ
قَلْبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهُ
يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُضِلِلِ اللَّهُ
فَمَا لَهُ مِن هَادٍ ۝۱۷

یعنی سوہ کتاب نازل کر مہتر چھینے، پوسہ مستشایہ
تہ چھینے تہ اہکو معنوں چھ سہیا تھدی تہ۔ ہم
لواکھ پستیس پروردگارس کھوڑان چھ تہندین
مسلمن ہندی روم وال چھ امہ کہ پرہن سہیو کھڑا
گرتھان۔ پتہ چھ تہندی مسد تہ دل نرم سہدقہ
اللہ (تعالے) ہندیس ڈکرس کن نماں -

(قرآن) چھ اللہ (تعالے) سہد ہدایت۔ (یعنی
قرآن ینیم ہدایتک مابک چھ سہ چھ اللہ تعالیٰ
سہد ہدایت) ینیم کر دوس سہ یس ینزھان چھ۔
ہدایت چھس روان تہ ینیس اللہ (تعالے) وتہ
ڈولمت گنزارو تس چھتہ کنہو ہدایت وتھ ہیکان۔
کیا سہ شخص یس ینن ینتہ قیا مہر دوہ ہسجت
عذابہ نشہ بچھن خاطر سپر بناوان چھ (سہ ہیکان)
جنس منز مہر من واپس برابر آہتہ) تہ فلان
سپر ونہن زہنن عملن ہند نتیجہ تہ ہو۔

تہو برو نیمم لواکھ تہ چھ اپڑوتھ کاہتی۔ پتہ آو
تہن پتہ (تہہ کس نتیجس منز) عذاب تہتھو
تہتھو طرفو یس ہند ہنن خیال تہ اوس تہ۔

تہ اللہ (تعالے) ہن تہ بنائے تم دنیاوی زندگی
مہر ذلت تہ، تہ آخرتس منز یس عذاب ہیکہ
سہ آسہ امہ کھوتہ تہ بوڈ۔ اگر تمن فکر تہ۔

سہ اسہ چھینیتھہ قرآنس منز پرہتہ قسبہ چہ
کھتہ بیان کرک مہر تھہ زن تم (یعنی کافر)
تھیوت رٹن۔

تہ اسہ چھ اتھ قرآن ہنومت یس ینن مطلب وائل
کھتہ بیان کرن وول چھ۔ اتھ اندر چھنہ کاہتہ
ہجر تہ کجر (یہ چھ او موکھ نازل سہد مت)

أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ذَٰلِكَ لِلظَّالِمِينَ ۚ ذُوقُوا
مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ۝۱۸

كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَاْتَهُمُ
الْعَذَابُ مِن حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۝۱۹

فَاذْقُوهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا
وَكَذٰبِ الْاٰخِرَةِ ۚ اَكْبَرُ مَلُوْكَا نُوٰۤا
يَعْلَمُوْنَ ۝۲۰

وَلَقَدْ صَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ
مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝۲۱

قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا غَيْرِ ذِيْ عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ
يَتَّقُوْنَ ۝۲۲

۱۷ یعنی قرآن کریمکو کہینہ حصہ چھ پرانہن الہی کتابین سمیو رلان تہ کہینہ چھ بالکل
نوی تہ پتہ مہو تعالیاو لہتہ تھدی پاپہ۔

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ
مُتَشَاكِسُونَ ذَرَجَلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ
يَسْتَوِينَ مَثَلًا هَ الْكَمْدُ بِلَّوَجِبِلْ أَكْثَرُهُمْ
لَا يَتْلَمُونَ ﴿۱۵﴾

بیچہ زن لاکھ تقویٰ پراون۔ اللہ (تعالیٰ) چھوٹے شخصہ سہنر حالت
(عبرتہ خاطر) بیان کران۔ بیسی ہندو کہو یا
مالک چھو، یکم پانہ وانی اختلاف تہ چہر تھاولن۔
تہ اکھ شخصوں چھو سر تو بوت، کس انسانہ
سہنر ملکیت۔ کیا یکم دہ نوے شخصوں ہیکہ نا
پینس حاسل سہنر برابر آسٹھ؟ ساری
تقریب چھو اللہ (تعالیٰ) ہندی اما پوز، تو
اندرو چھنہ واریاہ زانان۔

إِنَّكَ مَعِيكَ وَإِنَّهُمْ مَمِيتُونَ ﴿۱۶﴾

تہ تہ چھو کہ دہ ہر مرن وول تہ تم تہ چھو
مرن وانی۔

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ
تَخْتَصِمُونَ ﴿۱۷﴾

پتہ کرو توہو ساری قیا سہنر دہ ہر پینس
پروردگارس بروٹھو کنہ پتہ پتہ عقیدہ تہ
عملہ پیش۔

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى
اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصَّدَقِ إِذْ جَاءَهُ
أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى
لِّلْكَافِرِينَ ﴿۱۸﴾

بہ تہنہ کھوتہ جاوہ ظالم کس آسہ یس اللہ (تعالیٰ)
ہس پتہ اپڑ لاکھ تھوتہ (خداہ سہنر طرفہ سہنہ
وأس) پڑس اپڑاوی سہنر تہس تہنہ سہنہ، کیا کافرن
ہند بھکاوہ چھنا جہنم؟

وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدَقِ وَصَدَّقَ
بِهِ أَذَلُّكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۱۹﴾

بہ (پرچہ) سہ شخصوں یس خداہ سہنر طرفہ پڑ تعلیم
انہ تہ (پرچہ) سہ شخصوں یس سہنر تعلیمہ ہند تصدیق
کر۔ پتہ لاکھ چھو متقی آسان۔

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ
جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿۲۰﴾

تم یہ کینہہ سہنر سہنر بہن سہنر پڑ پڑ پروردگارس
نش آسان کرن والہن ہند بدلہ چھو سہنر آسان۔

يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي
عَمِلُوا وَ يُجْزِيهِمْ أَجْرَهُمْ
بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۲۱﴾
أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَ

بیچہ زن اللہ (تعالیٰ) تہنہ بہن عملن ہند بہن
بد زہن پروردگاری تہ تہنہ لو عملو سہنر یک سارو
وہے کھوتہ رتی عمل آس، تو مطابق دین بہن بدلہ۔
کیا اللہ (تعالیٰ) چھنا پینس بند سہنر خاطر کانی؟

يَخَوُّنُوكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ
وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ
هَادٍ ۞

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ
أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ۞

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ
قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ
كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ
هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ
اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ۞

قُلْ يَقُولُوا عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ
إِنِّي عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞

مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ
عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ۞

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ
بِالْحَقِّ ۚ فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ ۚ
وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ ۚ وَ مَا
أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ۞

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَ

بہ حکم لاکھ بھی تری تمونہ کھوڑنا وان ہم تس (فدلیں)
ورائی چھ - بیہیمس اللہ (تعالے) وتر ڈولمت
زانہ تس ہدایت دہ وول چھمہ کنہی -

تہ بیہیمس اللہ (تعالے) ہدایت دہ تس ہیکہ ہ
کنہی وتر ڈالمت کیا اللہ (تعالے) چھنا غالب
تہ بدلہ ہیش پیٹھ قادر ؟

بہ ہرگاہ تر ہمن پیرترھکہ ز آسمان تہ زمین کمر
چھو پاؤ کرکری ہتی ؟ تہ تم ومن ضرور ز اللہ (تعالے)
ہن - تر وکھ کیا تو ہر چھوا معلوم تر توہی کس
چھو اللہ (تعالے) ہس ورائی آلو کران ؟ ہرگاہ
اللہ (تعالے) مینہ تو قصان واتناون - بیٹھ تہ کیا تم
(اپری معبود) ہیکناہ تہ نہ تو قصان دور کر تہ ؟ یا
اللہ (تعالے) میر رحمت واتناؤ بیٹھ تہ تم
(معبود) ہیکنا تہ رحمت ٹھاکناؤ تہ ؟ تر ون
مینہ چھو اللہ (تعالے) کانی - ساری (پڑی) توکل
کران واول چھو تس پیٹھ توکل کران -

تر ون، اسے میانہ قوم ! توہی کرو پسنہ پسنہ چاہ
عمل - پسنہ کر (پسنہ چاہ) عمل - اڈ توہر لگہ و
ضرور پسنہ

تر کس چھو تہ عذاب یوان یس تس رسوا کر - تہ
تس پیٹھ بیہ ہمیشہ روزون عذاب

اسر چھو تری پیٹھ (یہ) کتاب لیتنا لوکن ہند فاید
خاطر حق تہ حکمت ہبتہ نازل کر ہتر - اڈ تہ ہدایت
نوب تمیک نفع آسہ تہند ہے زوس جاہل - تہ
یس دہ ذول تہند وتر ذون پسنہ تہ ہے پیٹھ -
تہ تر چھاکہ تہ پیٹھ کار ساز مقرر کرہ امت -
اللہ (تعالے) چھو پر چھو شخصہ سند روح تہند

الَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَاجِيهِمْ سِلْكُ
الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُزِيلُ
الْأَخْدَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْتَبِرُونَ ﴿۳۹﴾

مردہ کر وقتہ قبض کران تہ نیس موت آسہ نہ
آمت (تند رُوح چھ) تہنر بند روہر (قبض
کران) اہ سہ نیو ہند موتک حکم جاری کوزمت
چھن آسان تند رُوح چھ ٹھکانا ہتھ تھوان تہ
بیس چھ اکر گنڈتھ مدتہ خاطر واپس سوزان سہ۔
اتھ اندر چھ فکر کران والہ قومہ باہتہ نشانہ۔

أَمْ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ ۗ
قُلْ أَوْلُوا كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا
وَلَا يَحْقِلُونَ ﴿۴۰﴾

کیا تمو چھا اللہ (تعالیٰ) ہس ورؤا کیہنہ سفارش
در بناوتھ تھاواک ہتھ؟ دیکھ اکر تمہن اتھ کہنہ
طاقت آسہ نہ تہ نہ آسہ تمہن (کہہ تہیح) شہود ہود
(پتہ تہ مانیکھا تم توہی سفارش در؟)

قُلْ يَلِلُوا الشَّفَاعَةَ جَمِيعًا ۗ لَهُ مُلْكُ
السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ ۗ ثُمَّ رَآلِيهِ
تُزَجَعُونَ ﴿۴۱﴾

تہ دن نہ شفا تھک اختیار چھ سرسالم اللہ (تعالیٰ)
بندس اتھس مندر سہیس سہرٹھان چھ، تس چھ یہ
اختیار ہوان) آسان تہ زمینہ ہنز بادشاہی چھنہ
توہنر تہ توہی بیو تسوکن چھیرتھ ہنہ۔

وَإِذَا دُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ
الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ وَمِنْهُمْ
مَن دُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِمْ إِذَا هُمْ
يَسْتَبْشِرُونَ ﴿۴۲﴾

بہ نیلہ کبھ خداہ سہ ذکر کرتہ ہوان چھ تہ تم لوکھ
ہم اترتس پٹھ ایمان چھنہ انان۔ تہندک دل چھ دیکھس
وٹھس سہتہ) لغت کرتہ ہوان۔ بہ نیلہ تمہن (دیوتاہن)
ہنز ہم حدیس مقابلہ بلک حقیر چھ، کہتہ وہ تھان
چھیرتہ تم چھ اولیٰ خوش گزھن ہوان۔

قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ
عَلِيمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ
بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ
يَخْتَلِفُونَ ﴿۴۳﴾

تہ دن، اے اللہ! (اے) آسان تہ زمین یاد کر
والہ! غائب تہ ظاہرک علم تھوان والہ! تہ ہے چھاکھ
پہنہن ہنک درمیان تمہن سارک نے چہن ہند فاصلہ
کران ول پین منتر تم اختلاف کران چھ۔

وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي
الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا

بہ یود وسے ظالم لوکھ زمینہ منتر بہ کثیر تھا چھ
تھکو ٹاٹک آسہ ہن بلکہ یوتے بہ تہ تمہن ہش

۱۔ یہ آیت چھ واضح کران تہ توفی ہنز چھیرتہ ممکن۔ اول موتہ کر ویز۔ دوم بند روہر۔
توفی ہنز تہریم کا نہ صورت چھنہ ثابت۔ مولوین ہند یہ ونن ز اللہ تعالیٰ بن کوز میس علیہ السلام
اتھ صورتس منتر توفی کرتھند روح تہ جسم دن نو سے ہنن ٹرورس آسانس پٹھ کھا لتھہ یہ
عقیدہ چھ قران کریم کس پتھ آیس خلاف

بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَبَدَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا
يَحْتَسِبُونَ ﴿۳۹﴾

وَبَدَّ لَهُمْ سَيِّئَاتِ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ
بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۴۰﴾

فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا نَادِيَهُ
إِذَا حُوِّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا
أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فَتْنَةٌ وَّ
لَكِنِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۴۱﴾

قَدْ قَالُوا لِلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا
أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۴۲﴾

فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتِ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ
ظَلَمُوا مِن هَٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتِ
مَا كَسَبُوا وَا مَا لَهُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿۴۳﴾

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ
لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۴۴﴾

قُلْ يُعْبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ
أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا
إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿۴۵﴾

وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلُمُوا لَهُ مِن

اسے ہے، تو تم دیر ہن قیامت کہ وہ ہر عذاب
بنتہ بچنے خاطر تہ (سورے) فدیہ کنہ تہ اللہ
(تعالے) بند طرف سپر بہن پیٹہ تہ وانکاف
سینیک تم گمانہ تہ حقوان اسی تہ۔

بیہ نیرن بہن پیٹہ بہن بہن اعمالن ہنر خرابیہ نہ
تہ بیٹہ عدلیس تم مانہ ترمان اسی (سورہ تہ) ولہ
بہن پرستہ طرفہ۔

بیہ نیلہ الناس کا نہہ ہنر واتان چھہ تہ سورہ
چھہ اسرہ الکرن ہوان پتہ نیلہ اسی تس پسہ
طرفہ کا نہہ نعمت دون چھہ تہ سورہ چھہ وان۔ میہ
چھیہ یہ نعمت پسہ علمہ کہ زور پچ ہنر۔ (یہ چھہ
درست) بلکہ امیک میلن چھیہ کھ آزمایش۔ ۱۱۱
پوزتمو ہنر چھہ واریاہ زاتان۔

یہنہ (کھہ) چھہ تمو برو تم لوکھہ تہ ونقہ کا ہن
توتہ آیہ نہ بہنہنر اعمال بہن بکار۔

بلکہ بہنہنر عملو ہنر ہدیو (یعنی بہنہنر ہنر ہن) رڈ
تم بیٹہ تہ نیہ زانہ کہو لوکو ہنر پیم ظالم چھہ بہن تہ
رٹن بہنہنر علمن ہنر ہدیہ تہ تم بہن تہ عدلیس
تہنہنر ارادہ بنتہ ٹھانواتھ۔

کیا بہن چھنا پنے ز اللہ (تعالے) نیہر ہنر خاطر
ہنر ہنر چھہ تہنہنر رزقس ہنر چھہ کتادی بخشان
تہ (نیہو ہنر حقہ ہنر ہنر چھہ رزقس ہنر)
تنگی کران۔ تہ اتھ ہنر چھہ مؤمن قومہ خاطر ہنر
ہنر ہنر ہنر۔

تہ ون (بہن سانہ کنہ) اے میانو ہنر! یہو
پسہن رزقس پیٹہ (گوناہ کر تھہ) ظلم کر کر ہنر چھہ۔
اللہ (تعالے) ہنر رحمتہ ہنر ہنر گنہونا وہ سپر
اللہ (تعالے) چھہ ساری گوناہ بخشان سورہ چھہ ہنر
ہنر تہ، چھہرہ چھہرہ رحم کرن وول۔

بیہ توہی ساری ہنر پسہنر پروردگارس کن تہ

قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿۵۱﴾

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَغْةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿۵۲﴾

أَنْ تَقُولَ لَنْفُسٍ يُحْسِرُنِي عَلَى مَا فَرَطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ ﴿۵۳﴾

أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿۵۴﴾

أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۵۵﴾

بَلْ قَدْ جَاءَ ثَلَاثُ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكٰفِرِينَ ﴿۵۶﴾

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَغْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿۵۷﴾

وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمِقَاتِ رِيحِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۵۸﴾

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكَيْلٌ ﴿۵۹﴾

تہندے پور پور فرمانبردار بنو۔ امیر بروٹھہ ز توہم پیٹھ سپد بیٹھ عذاب نازل نیہ کرے تازل سپد پتہ تہندہ اتھ رٹہ ہاتھ کھنڈی و اتھ ہیکہ تر۔

بیہ یہ کینٹھا توہم کن نازل سپد مت چھ تمہ مفر کڑو (پسند حالہ مطابق) سارک وے کھوتہ جہتر جھکج پاری۔ امیر بروٹھہ ز توہم پیٹھ بیہ وچھان وچھان عذاب تہ توہم آسویہ زانان۔

یہ تہ سپد ز توہم مفر بیہ کاشہہ شخص بیہ وٹن ز یہ کینٹھا اللہ (تعالے) بندہ حقہ میہ چھوڑ کورمت چھ تہ کس بناہس پیٹھ (چھ) میہ پیٹھ افسوس! تہ بہ تہ اوسس (الہی وٹی) حقہ زانان رُو د مت۔

یا کاشہہ) بیہ بیہ وٹن ز یو د وے اللہ (تعالے) منیہ از بروٹی) ہاریت دیہ ہے تہ بہ سپد ہاتھ متقیو مفر

یا بیہ عذاب وچہ تہ وٹن بیہ ز مگر منہ واپس گرشک موقعہ میلہ ہے تہ بہ رلہ احسان کرن والین سوت۔

ہرگز (ہیکہ) نہ (یہ سپد تھ) بلکہ تریہ نش اسی سانی نشانہ آہی تو پتہ تہ کورٹہ تریہ تہند انکار تہ کبر من اکھ پیش تہ سپد کافرن مفر شاہل۔

بیہ قیامتہ کہ وہم وچھک تہ تم لوکھ یو اللہ (تعالے) ہس پیٹھ ایز لگتھ مھوومت اوس، تہ تہند کہ بھو مگر من کربز سیاہ۔ کیا کبر کرن والین ہنز جائے چھنا تہنس مفر؛

بیہ کر (اللہ تعالے) متقین تہند شانہ مطابق کامیابی بختھہ پر تھہ تہم کہ عمر تہہ نجات عطا۔ نے تہ وایہ امن کاشہہ کلپ تہ نے ہن تم (کبر پرانہ کوتاہی پیٹھ) غم۔

اللہ (تعالے) چھہ پر تھہ چیزک پاد کرن اول بیہ چھہ سہ پر تھہ کامر ہاتھ کانی۔

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ،
وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيٰتِ اللّٰهِ
اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿۳۷﴾

قُلْ اَتَعْبِدُ اللّٰهَ تَامُرُوۡنِيۡۤ اَعْبُدْ
اَيُّهَا الْجٰهِلُوۡنَ ﴿۳۸﴾

وَلَقَدْ اَوْحٰٓى اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيۡنَ مِنْ
قَبْلِكَ جَلَدُنْ اَشْرَكَتْ لِيَّخْبَطَنَّ عَمَلَكَ
وَلَتَكُوۡنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيۡنَ ﴿۳۹﴾

بَلِ اللّٰهَ فَاَعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشّٰكِرِيۡنَ ﴿۴۰﴾

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِۦ ۗ وَالْاَرْضُ
جَمِيۡعًا قَبَضَتْهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيٰتًا يَمِيۡنِيۡهِ ، سُبْحٰنَهُ
وَتَحٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوۡنَ ﴿۴۱﴾

وَنُفِخَ فِي الصُّوۡرِ فَصٰعِقَۢ مَنْ فِي
السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ
اللّٰهُ ، ثُمَّ نُفِخَ فِيۡهِۤ اٰخَرٰى فَاِذَا هُمْ
قِيٰاَمٌ يَّنظُرُوۡنَ ﴿۴۲﴾

وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوۡرٍ رَّهِيۡا وُضِعَ
الْكِتٰبُ وَجَآئِءٌ بِالنَّبِيۡنَ وَالشُّهَدَآءِ
وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا
يُظَلَمُوۡنَ ﴿۴۳﴾

آسمان تہ زمین ہنز کُنز چھینے تہندے ہے اتھس
منز تہ یم لاکھ اللہ (تعالے) ہندین آین ہند
انکار کران چھ تم چھ خسارس منز پھوان۔

تر و ن ، اے جاہلو! کیا تو ہی چھو میں حکم دو ان
نہ اللہ (تعالے) ہس وراہی کر ہر کانسہ بل (ہستی)
ہنز عبادت ؟

حالانکہ پانہ خدایہ ہند طرف چھینے تری کمن تہ تریہ
بروٹھو ہن (نشین) کمن وومی کرنہ آمنز۔ (تہ
پر تھہ اگس نیس اوس و منہ آمت نر) ہرگاہ تہ
شکر کرکھ تیلہ سپن چاکی ساری اعمال ضایع تہ
تہ سپدکھ تمو لوکو اندر یم خسارس منز پھوان چھ۔
(لہذا سچہ مہ کر !) ہیکہ اللہ (تعالے) ہنز عبادت
کر تہ شکراہ کرن والہن بدن سستی زل۔

بہ پھو لاکو کور تہ اللہ (تعالے) ہندین صفاتن
ہند صحیح اندازہ۔ حالانکہ زمین چھینے سر سائلم کو
ہنز بلکیت تہ آسمان (تہ زمین وہ لوے)
آسن قیامتہ کہ وہ ہر تہندس دچھس اتھس منز
وہتہ (یعنی موچہ منز)۔ سہ چھہ پاک بہ چھہ
تہندو بشرکی عقیدو تہتہ سبھا بالا۔

بہ پگس پیہ چھہ کہ وپہ تہ آسمان تہ زمین منز
یس کانسہ تہ آسہ تس پیٹھ سپدکھ بے ہوئی غالب
تس (شخصس) وراہی یس اللہ (تعالے) (بچوان)
یہنہ۔ پتہ پیہ دویمہ لٹ پگس چھہ کہ وپہ تہ
وچھان وچھان سپن تم ساری (پانس متعلق فاصلک)
انتظار کران استاز۔

تہ زمین سپد سینس پروردگار ہند نور سستی گاشدر
تہ کتاب پیہ بروٹھ کمن تھاوہ تہ نبی تہ دویم
گواہین حاضر کرنہ۔ تو پتہ پیہ اتھن سارکے انسان
درمیان پور پور پزہ مطابق فاصلہ کرنہ۔ تہ اتھن
پیٹھ پیہ تہ ظلم کرنہ۔

وَوَقَّيْتُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿۱۱﴾

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ
زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَتَحَتْ
أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ
يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ
آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُوكُم لِقَاءِ
يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِن حَقَّتْ
كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿۱۱﴾

قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ
خَالِدِينَ فِيهَا ۖ فِيمَسُّ مَثْوَى
الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿۱۱﴾

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَىٰ
الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَ
فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا
سَلِّمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا
خَالِدِينَ ﴿۱۱﴾

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا
وَعَدَهُ وَآوَرَنَا الْآرَافَ نَنعَبُوا مِن
الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ۖ فَنِعْمَ أَجْرُ
الْعَامِلِينَ ﴿۱۱﴾

تہ پرچہ نفس یہ کوزمت آسہ تمہ مطابق یہ تہ
پور پور بدلہ دینہ تہ سہ (اللہ تعالیٰ) چہ تہندہ
اعمالو ہنہ پور پور پور واقف۔

یہ کافرین جہنم کن لو گجیو لو گجیو کہہ ناو نہ یوت
تام تر ییلہ تم متھ ہنش واتن تہ ہنکی دروازہ
مشر راونہ تہ ہن (کافرین) ونن اکی (یعنی جہنمی)
داروغہ۔ کیا توہ ہن کسی نا تہندی قومہ مفر رسول
آہو؟ ہم توہہ ہر ونہ کہہ تہندس پروردگار ہنہ
آیہ پرتھ ہرناوان کسی تہ اڑو کہ وہہ ملاقاتہ ہنہ
کسی توہہ ہنہ کران؟ تم ونن، او! تی سیدے
یاو۔ امانہ پوز کاؤن پیٹھ اُس غذا پچ پیشگوئی پور
سیدہی۔ (یعنی اسی کافر، اسی کتھ پانگو ہنہ
ہو کہ رسول ماہتہ)۔


تہن یہ ونہ نہ جہنم کن دروازن اُترو اتھ صورتس
مفر نہ اُکس نہ پیٹس ہنہ سیدہ توہہ اتھ مسز
روزن۔ بہر حال تکبر کرن والہن ہنہ کاتہ بہتھ
سبھا پچھ۔

یہ ہم لو کہ تقویٰ کران کسی تمہ بن جنس کن لو گجیو
لو گجیو پکناوتھ ہنہ یوت تام نہ سیدہ تم جنس تام
واتن تہ ہنکی برین سیدہ تراونہ تہ ہنکی داروغہ
ونن ہنن، توہہ پیٹھ اُسن ہمیشہ سلامتی، توہہ
چھو سبھا ہنہ حالتس واتہ ہنہ۔ اڈکیا، اُترو
اتھ (جنس) مفر یہ فاصلہ ہنہ نہ توہہ رُوڑو
ہمیشہ اتھ مفر۔

تہ تم ونن اللہ (تعالیٰ) ہنہ خاطرے چہ ساری
تعلیق نیو اسہ سستی پنن وعبہ پور کور تہ اُسی ناوان
نیوہ جایہ ہنہ وارت۔ اُسی روزو جنس مسز
ہنہ ہنہ۔ ہنہ (ہنہ سید نہ) پور
پانگو عمل کرن والہن ہنہ انعام چہ سبھا ہنہ رت
آسان۔

وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَاقِقَاتٍ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَأَقْصَى بَيْتِهِمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۰﴾

بہ وچھبکھ تہ تمہ دوہہ ملایکھ زعرشس اندر
 اندر آسن وور گنہ پسنس پروردگار سندن حمد
 تہ سبتو سبتو تسبیح تہ کران تہ تہن (نورسن) درین
 بیہ پلور پلور الفاضلہ سان فاضلہ کرنہ تہ ورتو بیہ
 زساری تعریف چہ اللہ (تعالیٰ) بیہ حاصل
 یس سارکے عالمن ہند پروردگار چہ۔



سورة مؤمن : یہ سورہ مجہلی تہ بسم اللہ ہتھ چواتھ شیشہ آسہ بیہ چھس نو رکوع۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾

خَمَّ ﴿۲﴾

تَنْزِيلِ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿۳﴾

غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْحِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهُ الْمَصِيرِ ﴿۴﴾

مَا يَجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَخْرُوكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْأِلَادِ ﴿۵﴾

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ

(بہ چھس) اللہ (تعالیٰ) سندن اوہتھ (پران) یس
 حد رنوس کرم کرن وول (تہ) چھپرک چھپرک رجم کرن
 وول چہ۔
 یہ سورہ چہ خدایہ سندن حمد تہ تمہ ہنر بزرگی ثابت
 کران۔
 یہ کتاب چھنیہ علیہ ولس (تہ) علمہ ولس خدایہ
 سندن طرفہ تا نزل سبیز ہتر۔
 یس گوناہ بخش وول تہ توبہ قبول کرن وول چہ (تہ)
 امر کوز چہ حمدک حقدار۔ سزا ولس منتر چہ سخت۔
 بوڈ احسان کرن وول چہ۔ تس ہوا چھنہ کانہہ
 معبود اتسوں کن چہ چھپرچہ گرتھن۔
 کافرو وراڈی چھنہ کانہہ تنھس اللہ (تعالیٰ) سندن آبن
 مستقل مجاہدہ لاگان۔ اوکوز تہنہد مختلف ملکن منتر تجارہ
 بیترہ باچہ بے وایہ پانچ (نژان) چھیرن بیہ ترسیہ
 دوکھس منتر تراوی۔ (تہ کیاہر تہنہدو اعمال چہ
 تہنہ ہنر تباہی ہند باعنت)۔
 اتن برزخو ہو قومو تہ اوس (پنہنن رنوں ہند)
 انکار کوزمت۔ نوح ہندک قومن تہ تہ اتن پستہ

أَمْ يَرِثُهَا سُلُوكُهُمْ وَيَسْأَلُونَ لَهَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنْفُسِ آبَائِهِمْ لَمْ يَأْتُوا بِالْحَقِّ فَاخَذَتْهُمْ دَرَكَاتٌ كَيْفَ كَانَ عِقَابِ ①

بہو، بہو، قومو تہ (بہو پستہنن نسبتین خلاف
لوگبر بناؤ) تہ پر پتہ قومن کور پستنس رسولس متعلق
ارادہ نہ سہ کرون مرقمہ تہ اپڑ پو ڈیلو سبتو ہونگہ
بحث شروع کرن پتہ زن پستہنن مجاہدہ بازی سبتو حق
تہ کہ اہل تمقاہر ہنہ ڈالیں لہذا امیہ زئی تم۔ دولہ
وڈی تو میون سزا دیون کیہتہ اوس؟

تہ پتہ پٹھو سپد پٹھو پٹھو پروردگار سبند فاصلا کرن
متعلق پٹھو۔ (یعنی یہ) نہ تم چہ جہنمی۔

تم ملائک ہم عرش علیہ ہتہ چہ بیہ ہم تہہ اندر
اندر چہ، تم (ساری) چہ پستنس پروردگار ہنہ
تعریفن سبتو سبتو تہنہز پاکیزگی تہ بیان کران تہ
اتہ (حمدس) پیٹھ چہ پٹھو اپہن مقولان تہ مؤمنین
ہند خاطر چہ استغفار کران۔ (بہیہ چہ وان) اے
سانہ پروردگار! پر پتہ کبہ چہنرس پٹھو تہ پستہنن
رحمتہ تہ علمہ سبتو احاطہ کر تہ۔ لہذا تو بہ کران
والہن تہ پستہنن و تہ پٹھو بین والہن کر معاف تہ، تم
بچاؤگہ جہنمی کہ عذابہ ہنہ۔

اے سانہ پروردگار! تم، تہ تہندو جد اجدادو
تہ تہنہزوا شنہو بیہ تہندو اولادو منہز ہم نیک آسن
تم تہ کرگہ ہمیشہ کہن جنن منہز ڈاٹل، مین ہند
ترتہ من سبتو وعدہ کورمت چتہ۔ تہ چکھہ غالب
(تہ) بچہ کورمت وول۔

بیہ بچاؤگہ تم تمام تکلیفو ہنہ۔ تہ لیس تہ تمہ وہہ
تکلیفو ہنہ تہ چتہ تمہون اد یقینا کور تہ تہس
پیٹھ رحم۔ تہ یہ چہیہ بڑ کامیابی۔

بہر کافرن بیہ بے شک (مرنہ پتہ) و منہ نہ از
یوت توہی پستہنن زون نفرتہ چہ نظر و چہان چہو
اللہ (تعالیٰ) ہنہ نفرت (لوہہ سہ تہہ سبتو
کران چہ) چہیہ تہہ کورمت جاؤ۔ (یاد پادو) بیہ
تہہ ایمانسن کن ناد اوسو کرنہ یوان تہ توہی آس

وَكَذَلِكَ حَقَّتْ لِكُلِّ مَن تَرَكَ عَلَى
الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ②
الَّذِينَ يَخْمَلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ
يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ
وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا
وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ
لِلَّذِينَ تَابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ
وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ③

رَبَّنَا وَاَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي
وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ
أَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ④

وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ ۚ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ
يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ ۚ وَ ذَلِكَ هُوَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ⑤

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لِمَقَّتْ
اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ مَقِّكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ
تُذْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ⑥

دُكُفْرُ كِرَانِ -

تم وقت نہ اسے ساتھ پروردگار! تیری مارتھ اسی
 وہ یہ لڑتے تھے کہ تیرے ساتھ اسی زینہ۔ لہذا اسی چھ
 ستیہن غلطیوں ہند اقرار کران۔ بہر حال (تر و متبر) نہ
 وہ (امیر حقہ سید) نیرنچ چھا کا نہہ و تھا؟

تہند یہ حال چھ اوکزی نہ میںہ صرف اللہ (تعالے)
 ہس آلو کر نہ یوان اوس تہ توہی اوسو انکار کران
 تہ میںہ تہند کا نہہ شریک مقرر کر نہ یوان اوس
 تہ توہی اوسو ایمان انان اُنہر کار۔ (از سید یہ
 ثابت نہ) سارے حکومت چھید تہند شانہ تہ
 کشاد سلطنتہ و اوس اللہ (تعالے) سہزے۔

سے چھو توہی پنہی نشانہ ہوان تہ آسانہ پیٹھ چھ
 تہندہ خاطر رزق نازل کران۔ تہ نصیحت چھ
 صرف سے رمان۔ یس خدایس کن نماں چھ۔

لہذا کرو اللہ (تعالے) ہس آلو پنہی اطاعت
 تہندی خاطر خالیس کران، اوستا فر کر نہ تن یہ ناپنہ

(سہ چھ) تہند درجہ اول، عرشک ہابک چھ پنہی
 حکم چھ سہ پنہو بندو مغز یس پیٹھ یہ ہر حال
 چھ پنہن کلام چھ نازل کران۔ میںہ زن سہ
 (خالیہ سہ) کلاما تہ کر وہ ہر ہتہ لکن کھو تر ناو۔
 یہ وہ ہر تم ساری لوکھ خدایس بروٹھ کبہ حاضر
 سپن۔ تہند کا نہہ چیز تہ آسہ نہ اللہ (تعالے)
 ہس ہتہ پو شید۔ تمہ وہ ہر کس آسہ بادشاہی
 حاصل ہ (صرف) اللہ (تعالے) ہس یس کتہ
 چھ (تر) سارک نے پیٹھ چھ غالب۔

تمہ وہ ہر یہی پرتھ ترس تہنہر علمہ مطابق جزا
 دہ (تر) تمہ وہ ہر سپن نہ کتہ تنگ ظلم۔ اللہ
 (تعالے) چھ سہیٹھا جلد حساب ہوان۔

یہ کرکھ تر تم ہشیار تمہ وہ ہر ہتہ یس نزدیک

قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا اِثْنَتَيْنِ وَا
 اٰخِيَّتَيْنَا اِثْنَتَيْنِ فَاَعْتَرَفْنَا
 بِذُنُوبِنَا فَهَلْ اِلٰى خُدُوٰجٍ مِّنْ
 سَبِيْلِ ۝۱۲

ذٰلِكُمْ بِاَنَّهُ لَازِدُعِي اللّٰهَ وَاخَدَهٗ
 كَفَرْتُمْ ؕ وَاِنْ يُشْرِكْ بِهٖ تُؤْمِنُوْا
 قَالِحْكُمْ بِلٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيْرِ ۝۱۲

هُوَ الَّذِي يُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُنَزِّلُ
 لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ رِزْقًا وَّمَا يَتَذَكَّرُ
 اِلَّا مَن يُنۡذِبُ ۝۱۳

فَاذْعُوْا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهٗ الدِّيۡنَ
 وَ لَوۡ كَفَرَا الْكٰفِرُوۡنَ ۝۱۴

رَفِيْعِ الدَّرَجٰتِ ذُو الْعَرْشِ ؕ يُلۡقِي
 الرُّوۡحَ مِنْ اَمۡرِهٖ عَلٰى مَن يَّشَآءُ مِنْ
 عِبَادِهٖ لِيُنۡزِلَ يَوْمَ التَّلَاقِ ۝۱۵

يَوْمَ هُمۡ بَارِزُوۡنَ ؕ لَا يَخۡفِي عَلٰى اللّٰهِ
 مِنْهُمۡ شَيْءٌ وَّ لَمۡ يَلۡمِزِ الْمَلِكُ الْيَوْمَ اللّٰهَ
 الْوَاحِدَ الْقَهَّارَ ۝۱۶

اَلْيَوْمَ تُجۡزٰى كُلُّ نَفۡسٍ بِمَا كَسَبَتْ ؕ وَا
 ظَلَمَ الْيَوْمَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝۱۷

وَ اَنۡذِرُهُمۡ يَوْمَ الْاَزۡفَةِ اِذْ

الْقُلُوبِ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاطْمِينٍ ۙ
مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ
يُطَاعُ ۝۱۱

کھوتے تزدیک یوان گزشتان چھ۔ نیلدرن دل نمبر
سوتی برتھ (آسن تہ) ہرین تام واتن۔ ظلمن ہند
آسہ نہ تمہ دوہہر کاٹھہ دوست تہ نہ (آسبکھ) کاٹھہ
سٹارش در نیکی ہنرکتھ مانترہ پیہ ہے۔

يَخْلَعُ حَائِثَةً الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفَى
الصُّدُورُ ۝۱۲

اللہ (تعالے) چھ اُچھن ہند نیانت تام زانان۔
بیہ تہترہ پہ وچھ یا دل کھٹھتھ تھوان چھ۔

وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ
يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَفْضُونَ
بِشَيْءٍ ؕ إِنْ أَلَّ اللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
الْبَصِيرُ ۝۱۳

بیہ اللہ (تعالے) چھ ہمیشہ الصافہ مطابق قاصد
کران۔ تہ بین یکم لاکھ خدایس ورآئی آلوکران چھ
تم بھجہ کاٹھہ تہ قاصد کر تھ ہکان۔ یقینا اللہ
(تعالے) چھ سپٹھا بوزن وول (تہ) سپٹھا
وچھن وول۔

أَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا
مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ
قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ
اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ؕ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ
اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ۝۱۴

کیا یکم لاکھ پھیر کرناہ زمپس منز میتھ وچھ
ہن زہتن لوکن ہند انجام کیا اوس سپٹرت؟
یکم ہتن بروٹھ آسہ تم لاکھ آسہ پھند کھوتہ جاڈر
طقتس منز (تہ) تہ پتھ کن تراور مہ
تو نشانو کوی تہ۔ تو پتہ تہ کرری اللہ (تعالے)
ہن تم تہندو گوہن ہوکھ تہا تہ اللہ (تعالے)
سند رٹنہ رٹنہ کہنر تہ سپد تہ ہتن بچاون وول
پاڈ۔

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ وَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ
إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْحِقَابِ ۝۱۵

یہ (کے کسی) اُس امر موکھ زہتن رٹش راور
تہندو رسول نشانہ ہتھ یوان تہ تمو ہنر ہمیشہ
انکارس کام تہ اللہ (تعالے) ہن تہ کرری تم
ہاک، سہ چھ سپٹھا زور وول (تہ) سٹد
عذاب چھ کر لٹھ۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ
مُتِينٍ ۝۱۶

بیہ سوزا امر موسیٰ تہ پنر نشانہ ہتھ تہ صاف
صاف علیہ ہتھ۔

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَفَأُذُنَ فَعَالُوا
سَلِحًا كَذَّابًا ۝۱۷

فرعونس تہ ہامانس تہ قارونس کن۔ مگر تمو
وون یہ شیخس چھ دوکھ دتہ وول (تہ) اپزلیور۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا

اد بیلسہ (موسیٰ) سانہ طرفہ حق ہتھ ہتن

اَثَلُوا اَبْنَاءَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ
وَاسْتَحْيٰوْا نِسَاءَهُمْ ؕ وَ مَا كَيْدُ
الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ۝۱۱

نہش آو تہ تمو وؤن یم لاکھ ایمان ائمہ تس
سہو رے ہوتو چھ تہندری نیچو مار لاکھ تہ تہنہز
زناہ تھا ویلکھ زند تہ کافرن ہند تہ ہر چھ ہمیشہ
پھری تھے گزہان۔

وَ قَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِيْ اَقْتُلْ مُوسٰى
وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ؕ اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يُبَدِّلَ
دِيْنَكُمْ اَوْ اَنْ يُظْهِرَ فِي الْاَرْضِ
الْفِسَادَ ۝۱۲

تہ فرعون وؤن میہ تراوو بیلہ میٹھ بہ مارن موسیٰ، او
سہ کڑی تن پسنس پروردگارس آو، یہ چھس ائمہ
کھتھ کھوڑان نہ پینہ سہ تہند دین بدلاو یا پینہ
سہ مگس منز فساد پاؤ کر۔

وَ قَالَ مُوسٰى اِنِّىْ عُدْتُ بِرَبِّيْ وَ رَبِّكُمْ
مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ ۙ لَا يُؤْمِنُ
بِالْحِسَابِ ۝۱۳

(اتمہ پٹھ) دوپ موسیٰ ہن۔ یہ چھس پسنس
پروردگارس تہ تہندس پروردگارس پناہ مذگان
پر پتھ تکبر کرن اول سہد شرارتہ ہنہس حساب
کس دہس پٹھ ایمان چھنہ انان۔

وَ قَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ
يَكْتُمُ اٰيْمَانَهُ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ
يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ وَ قَدْ جَاءَكُمْ
بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَبِّكُمْ ؕ وَ اِنْ يَكُ
كَافِرًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ؕ وَ اِنْ يَكُ
صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِيْ يَعِدُكُمْ ؕ وَاِنَّ
اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذّٰبٌ ۝۱۴

تہ آل فرعونہ منز اک ایماندار شخصن یس پین ایمان
کھٹھ تھاوان اوس وؤن، اے لاکو! کیا توہ
چھوونا اکھ انسان صرف او موکھ مارن نہ سہ چھ
وانان نہ اللہ (تعالے) چھ میون پروردگار تہ کو
چھ تہندس پروردگار سہد طرفہ نشانہ تہ ائی ہوتو
او اگر سہ ایزور چھ تہ تہند ایزیک وبال پینہ
تس پٹھ تہ اگر سہ ایزور چھ تہ تہنہز کرک مہز
کینہ (کھوڑوان واجنہ) پینہگو یہ سپدن تہند
حق پور۔ اللہ (تعالے) چھنہ حد نہر درامس
تہ ایزون وارس تہنہ کامیاب کران۔

يَقُوْمُوْا لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظٰلِمِيْنَ
فِي الْاَرْضِ رَمٰنٌ يَّنصُرُنَا مِنْ بَآئِنِ
اللّٰهِ اِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا
اُرِيْكُمْ اِلَّا مَا اَرٰى وَ مَا اَهْدِيْكُمْ
اِلَّا سَبِيْلَ الرَّسٰى ۝۱۵

اے میاہ قوم! از چھ تہنہز تہنہ حکومت نہ
توہ چھو مگس پٹھ غالب۔ اوئی تو زاسرس
کر اتمہ روٹ۔ اللہ (تعالے) سہد عذاب کس مقابلس
منزہ ہرگاہ سہ اسہ پٹھ نازل سہد۔ فرعون وؤن
ہر چھو توہ تی ماوان یہ مینہ پانس رت بوزہ یولن
چھ، تہ ہر چھو توہ صرف ہدایت و تھ داوان۔

وَ قَالَ الَّذِيْ اٰمَنَ يَقُوْمُ اِنِّىْ اَخَافُ
عَلَيْكُمْ وَ مَثَلُ يَوْمِ الْاَحْزَابِ ۝۱۶

بہ سہ شخصن نیچو (پزوکو) ایمان اؤنت اوس
تمو وؤن، اے میاہ قوم! پٹھ کن گدر کینہ برن

بڑی قوم ہند ہلاکت کر دیکر پانچویں چھس یہ تہمت
ہلاکت کس دوہیں تہ کھوڑان۔

یہ تہ پانچویں زن نوح ہندس قومس تہ عا دس
تہ قومس بیعتہ آیاو۔ بیہ تمین لاکن ہم تمین
پتہ گڈس یہ۔ اللہ (تعالے) چھہ پتہ پن بندن
پتہ ظلم کرن یہ پتہ حان۔

بیہ اسے میا تہ قومو! یہ چھس تہمتہ حقہ تہہ وہیں
کھوڑان۔ تیمر دوہہ لاکھ اکھ افس مدہ خاطر ناد ناد
کرن۔

تیمیر دوہہ توہی (خدایا لشکرن بروٹھ کنہ) تہہ تہہ
تڑلو تہ اللہ (تعالے) ہس مقابلہ آسہ تہ تہمتہ
کہتہ۔ بچاون دول۔ بیہ تیمس اللہ (تعالے) گرافہ
قرار دیہ تیمس چھہ کینتہ ہدایت دتہ ہیکان۔

بیہ چھہ امہ بروٹھ یوسف (نہ) دلپہ ہتہ توہہ ہنش
آمت۔ مگر یہ کینتہا تم توہہ ہنش اوٹمت اوس،
توہہ رودی و تمہہ کو حقہ شکہ ہے منز۔ یوت تام
نہ سید سہ فوت سپد تہ توہہ ہنوٹو (ناوہ میدی
سان) دنن نہ اللہ (تعالے) سوزہ تہ تیمس
پتہ کاتہہ رسول۔ تہہ پانچویں چھہ اللہ (تعالے)
پر چھہ حلہ نہہ نیرن و افس (تہ) شک کرن و افس
وتہ ڈولمت گنتر راوان۔

ہم لاکھ کتہہ ولیدہ وراہی لوسہ تمین نش (اللہ تعالیٰ
سندہ طرہ) آہتر آسہ اللہ (تعالے) ہندہن
آہن متعلق بکت کران چہ (تمین گڑہہ پے آسن نہ)
یہ چھہ اللہ (تعالے) ہس ہنش تہ مؤہن ہنش سہٹھا
ناکارہ تہہ پانچویں چھہ اللہ (تعالے) تکمیر کرن و افس
الناسہ ہندس پور پور دس پیٹھ مہہ ہر کران۔

بیہ فرعون و ون، اسے لمان! میا تہ خاطر بنا و ناو
اکھ تھنر مندوہ، میہ زن ہر تمین و تن پیٹھ و اٹتہ
پیٹھ۔

مِثْلَ ذَٰلِكَ قَوْمُ نُوحٍ ذَٰلِكَ وَتَمُودَ
وَٱلَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِرَبِّدٍ
ظَلَمًا لِّلجَبَادِ ﴿۷۱﴾

وَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱرْتَابُواْ ٱلْحَقَّ يَوْمَ
ٱلْعَٰدِ ﴿۷۲﴾

يَوْمَ تَوَلَّوْنَ مُذِٰبٍ مِّن مَّا لَكُمْ مِّن
ٱللَّهِ مِنْ عَٰصِمٍ ۚ وَ مَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ
فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿۷۳﴾

وَ لَقَدْ جَآءَكُم يُوسُفُ مِن قَبْلُ
بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا
جَآءَكُم بِهِ ۚ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ
لَن نَّبْعَثَ ٱللَّهَ مِن بَعْدِهِ رَسُوْلًا
كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن هُوَ مُشْرِكٌ
مِّزَٰبًا ﴿۷۴﴾

وَ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ
سُلْطَنٍ ٱتَّهَمُوهُم وَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ ٱللَّهِ
عِنْدَ ٱلَّذِينَ ٱمَنُواْ ۚ كَذَٰلِكَ يُطَبِّعُ ٱللَّهُ
عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٍ جَبَّارًا ﴿۷۵﴾

وَ قَالَ فِرْعَوْنُ يَهَآءُنِ ٱلَّذِينَ ٱرْتَابُواْ
لَعَلِّي ٱبْلُغُ ٱلْأَشْبَابَ ﴿۷۶﴾

اَسْبَابَ السَّمَوَاتِ قَاطِلَةً اِلَىٰ اِلٰهِ
مُوسَىٰ وَاِنِّي لَآظُنُّهُ كَاذِبًا وَّكَذٰلِكَ
زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْءَ عَمَلِهٖ وَصَدَّعِن
السَّبِيْلَ ۗ وَاَمَّا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلاَّ فِي
تَبٰٓءٍ ۝۸

۸

بیم آسمان چیر و تہ چھیند تہ بیتھے پاٹھو گکہ میہ موسیٰ
ہندس خدایہ سند پے پتاہ۔ تہ کیا زہ ہر چھین سہ
اپز لور زمانان۔ تہ پتھہ پاٹھو آسہ فرعون ہنرن
نظرن منز تہ ہنرن اعمالن ہنرن بدیہ شوبہ دار
بنائوتھہ ہاونہ آمتر۔ تہ سہ اوس (پہنہ نونا فرمائونہ
رکوز) اصلی و تہ ہنرن پتھہ رٹنہ آمت۔ تہ فرعونہ
سند تہ ہر اوس ناکامی ہندس مولتس منزے نون
گر تہ ہن وول۔

وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُونِ
اٰهْدِيكُمْ سَبِيْلَ الرَّشٰدِ ۝۹

بیہ سہ شخصس بیجو ایمان اومت اوس، کو وون
اے میانہ قومہ! میانی تا بعداری کرو۔ ہر ہا و تہ ہر
ہا بیچ و تھہ۔

يَقُوْمِ اِنَّمَّا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا
مَتَاعٌ وَّاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ۝۱۰

اے میانہ قومہ! بیہ دنیا بیچ پہ زہنگ چھینہ صرف
کینترن دہن ہنداکھ نماید۔ تہ آخر بیچ زندگی
ہے چھینہ یقینا (اکھ) پایدار جھکا تہ۔

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ اِلَّا مِثْلَهَا
وَمَنْ عَمِلَ صٰلِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ
الْجَنَّةَ يُدْرَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ
حِسَابٍ ۝۱۱

یس ناکار عمل کر۔ تس میہ تہی حسابہ نتیجہ تہ یس
کا فرضا ایمانہ مطابق عمل کر، ا د مہنیہ اوس تن
یا زنان، بشرطیکہ سہ آسہ ایمانس منز پز لور۔
سہ تہ تہندری سہتی باجو گر تہ ہن جنتس منز داخل
تہ تہن بیہ تھہ اندر حسابہ ورائی انعام دہن۔

وَيَقُوْمُ مَا لِيْ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجْوٰى
وَتَدْعُوْنِيْ اِلَى النَّارِ ۝۱۲

تہ اے میانہ قومہ! میون تہ کیا عجیب حال
چھہ زہ ہر جھسوتہ ہر نجاست کن ناد دوان تہ
توہری جھو میہ جہتس کن ناد دوان۔

تَدْعُوْنِيْ لَآكُفِّرَنَّ بِاللّٰهِ وَاَشْرِكْ بِهٖ
مَا لَيْسَ بِهٖ عِلْمٌ وَاَنَا اَدْعُوْكُمْ
اِلَى الْعَزِيْزِ الْعَقَّارِ ۝۱۳

توہری جھو میہ امر غرضہ ناد دوان زہ ہر کہ اللہ تعالیٰ
سند کفر تہ تہندری شرک بنا وکہ تم میہندس شرک
آسنس متعلق میہ کہنہی علم چھتہ تہ ہر جھسوتہ ہر
اکیس غالب (تہ) جنتس ہر ہستی کن ناد دوان۔

لَا جَرَمَ اِنَّمَّا تَدْعُوْنِيْ اِلَيْهِ لَيْسَ
لَكَ دَعْوَةٌ فِى الدُّنْيَا وَاَلَا فِى الْاٰخِرَةِ
وَاَنْ مَّرَدًّا اِلَى اللّٰهِ وَاَنْ
الْمُشْرَفِيْنَ هُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ۝۱۴

اتھہ منز چھہ کا نہہ شک زہ توہری جھو میہ ترشہ ہستی کن
ناد دوان نیو ہنرن کا نہہ (اشرواجی) آواز چھہ ہانہ
بیجہ دنیا ہس مشرتہ نہ نیہ وائس دنیا ہس منز۔ تہ
(پز چھہ یہ ز) اسہ ساری نے جھہ اللہ (تعالیٰ)

ہیں لئے پھرتے گڑھن میں یہ نہ حد نیرن وال
لواکھ چہ جہتی۔

لہذا بہ لوسہ نصیحت تو بہ کران جیسو سو کر لوان
تو ہی اول اول یاد تہ (بہ چھس نہ تہ ہدین کھرہ کن
کھوژان) بہ چھس پین معاملہ اللہ (تعالے) اس
پشراوان۔ اللہ (تعالے) چھ بے شک (پنہن)
بندن پیٹھ نظر تھون وول۔

اتھ پیٹھ پھو اللہ (تعالے) من سہ (مؤمن شخص)
تھن (کافرن) ہندو ہندو بد تہ ہوتہ
تہ آل فرعون وول دگر دار عذاب تہ لوسے وہ
طرف۔

یعنی نارن تہ ہر وقت کہ تم صبح تہ شام میں
کہہ لوان چہ تہ نیلہ گھڑ تہ گریہ (ملائکین میں
وہ تہ) فرعون ہندو سوتو باجو کر لوانک سہنت
عذاب منور داخل۔

بہ (کر سہ وقت تہ یاد) نیلہ زن (فرعون ہندو
سوتو باجو) نارن منور بحت کران آسن۔ تہ تھو
منور کھورا آسن ہرین لوان کن ونان نہ آس کر
تہ ہندی تالبار۔ لہذا وڈی تو) کیا از ایڈر وا تو ہو
اسہ نار کہ عذاب کہ کتہ حصہ نشہ تہ بجا و تھ؟
بڑی لاکھ ون، اسی ساری چہ اتھ عذاب منور
ولہ آتو۔ اللہ (تعالے) اس یس قاصہ پنہن
بندن درمیان کران اوس سہ کورن۔

تہ جہتی لاکھ ون جہنم کین داروغن۔ تو ہر کر و نا
پنہن پروردگار آوزر عذاب کہ کینہ مدت تہ
کر سہ اسہ کم۔

تم وزن کیا تو بہ نش آس ناہ تہ ہندی رسول دلایل
پتھ آتو۔ تم وحن او، کیا نہ، اتھ پیٹھ ون
تم (جہنم داروغہ)، وہ ڈی (یوت بیٹھو توت)
گرتھ ہو تو ہی آلو دوان تہ کافرن ہند دغا چہ کول

فَسْتَذْكُرُونَ مَا أَقُولَ لَكُمْ وَأَفَؤُصُّ
أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ
بِالْعَبَادِ ﴿۲۳﴾

فَوَقَّعَهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَّا مَكْرُوهًا وَحَاقَ
بِالَّذِينَ فَرَعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ﴿۲۴﴾

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَ
عَشِيًّا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ نَدِ
أَدْخَلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿۲۵﴾

وَإِذْ يَتَحَفُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ
الضَّحَفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا
لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُخْفُونَ عَنَّا
نَصِيبًا مِنَ النَّارِ ﴿۲۶﴾

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا
إِنَّ اللَّهَ فَذَحَكَمَ بَيْنَ الْعَبَادِ ﴿۲۷﴾

وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ
ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَوِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ
الْعَذَابِ ﴿۲۸﴾

قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ وَقَالُوا فَاذْعُوا
وَمَا دَعَا الْكُفْرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿۲۹﴾

گڑھان۔

اُسے کرو پینین رسولان تہ بہن پیٹھ ایمان اتن والہن
یتھ دنیاہس اندر تہ ضرور مدو بیہ تمہ دہ ہر تہ نیلہ
گواہ استا و سپدن۔

یہیہ دہ ہر ظالمین بہنہز معذرت کاٹھہ نفع دیہ ہنہ
بیہ سپد بہن پیٹھ (اللہ تعالیٰ بہنہز) لعنت تازل۔
تہ بہن میلہ (روزہ نہ خاطر) کچھ گہر۔

تہ اسہ اوس یقینا موسیٰ ہس ہدایت دیہ مت تہ
بنی اسرائیل اُسی (تمہ) کتابہ ہندکر (یعنی
توراک) وارث بناوکر ہتی۔

یوہ ہر عقلمندن ہند خاطر لہیفیکٹک موجب اُس۔

او کز کر شہر - اللہ (تعالیٰ) سندن
وعہ روز ضرور پور سپد تھہ بیہ یکم چاڈی گواہ لاکو
کری متی چھ بہن ہنہز تہ روز تہ بہنہز حقہ بخشایش
منگن بیہ روز صبح تہ شامین پنہن پروردگار
سندن حمدس سدی سدی تسبیح تہ کران۔

حکم لاکہ یکم زن اللہ (تعالیٰ) سندن آیین
ہند حقہ بمادس منز آورکر روزان چھ، گویہ دلپہر
ورائی یوہ بہن ہنہز (خدا یہ ہند طرفہ) آمیز آسہ،
تہ ہند بن دین منز چھ بڑی بڑی ارمان یکم ہنہ
تم نہ ہنہ واتن - لہذا اللہ (تعالیٰ) سندن پناہ
روز منگان - سہ چھ سپٹھا بوزن وول (تہ)
سپٹھا وچین وول۔

آسمان تہ زمینہ ہند پاد کرن چھ انسان ہنہز
پاد کرنہ ہنہز بڑ کام نگر وراہ انسان چھنہ زمانان

اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ اٰمَنُوا
فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ يَوْمَ يَقُوْمُ
الْاَشْهَادُ ﴿۱۷﴾

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِيْنَ مَخْرَجَتُهُمْ
وَلَهُمُ الْعَذَابُ الَّذِيْ لَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ ﴿۱۸﴾

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوسٰى الْهُدٰى وَاَوْثَقْنَا
بِئْتِيْ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبِ ﴿۱۹﴾

هُدٰى وَاذْكُرْ لِادْوٰى الْاَلْبَابِ ﴿۲۰﴾

فَاذْكُرْ اَنْ وَعَدَ اللّٰهُ حَقًّا وَّاسْتَغْفِرْ
لِذَنْبِكَ وَ سَتِّخْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
بِالْعَشِيِّ وَاَلْبٰكِرِ ﴿۲۱﴾

اِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِىْ اٰيٰتِ اللّٰهِ
يَغْيِرْ سُلْطٰنِ اَتْمٰهُمْ ؕ اِنْ فِى
مُدُوْرِهِمْ اَلَا كِبْرًا مَّا هُمْ بِبٰلِغِيْنَ
فَاَسْتَجِزْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
الْبَصِيْرُ ﴿۲۲﴾

لَخَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ
خَلْقِ النَّاسِ وَ لٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا
يَعْلَمُوْنَ ﴿۲۳﴾

لہ یعنی نیلہ لاکہ فوج نوجو اسلامس مغز داہل سپدن تہ بہنہز ترہیتس مشر یوہ ہر کسی
روزہ - اللہ تعالیٰ ہس گڑھہ دعا منگن زسہ تراوتھہ پیٹھ پرودہ تہ امت محمدلیس
بچاو تمہ کہو بدستجو ہنہز۔

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالبَصِيرُ ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۗ لَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ ﴿۵۱﴾
 إِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ ۖ لَا رَيْبَ فِيهَا ۗ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۵۲﴾

بہ بچھنے اُنی تہ گاشدار برابر آستہ بہکان - تہ بکو لکو ایمان اون تہ ایمانہ مطابق کر بکھ کامہ تم بچھنے بدکار لوکن (برابر آستہ بہکان) - توہی لوکھ چھو نہ ملے نصیحت زمان -
 تہ اتھ مفر چھنے کانہہ شک نہ تباہی ہنر گر چھینے ضرور پتہ واجز ، وہی گوو واراہ لوکھ بچھنے ایمان انان -

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَشْكُرُونَ عَن عِبَادَتِي سَيَرْحَمُهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿۵۳﴾

بہ چھ تہند پروردگار ونان ، میں کرو آلو ، بہ بوز تہند دعا - ہم لوکھ سائس عبادتہ کس معامس مفر تکبرس کام ، ہوان چھ تم سپدن ضرور رُوا گرشعتہ جہتمس مفر داغل -
 اللہ (تعالے) چھ سہ سیکو تہندہ خاطر راتھ بناو یقہ زن توہی اتھ مفر آرام حاصل کرو - تہ وہ چھن مان وول بنومت - اللہ (تعالے) چھ لوکن پٹھ بوڈ فغول کرن وول - مگر لوکو مفر چھینے واریاہ شکرانہ کران -

ذِكْرُ اللَّهِ رَبِّكُمْ خَالِقِ كُلِّ شَيْءٍ ۗ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ قَالَىٰ تَوْفَكُونَ ﴿۵۴﴾

یہ اللہ (تعالے) چھ تہند سہ پروردگار یس پتھ چیزک پاڈ کرن وول چھ - تس ورنی چھنے کانہہ مسبود - اد وڈی تو تہ سہی توہی کوکن بچھو پچھرتھ ہنر یوان -

كَذَلِكَ يُؤْفِكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿۵۵﴾

تہیے پٹھی چھ تم لوکھ کم عقل ہنر کتھن کن پچھرتھ ہنر یوان - ہم اللہ (تعالے) ہندین آین ڈر پتھ انکار کران چھ -

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا ۗ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۗ وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمُ ۗ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ ۖ فَتَعَبَّرِكُمُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۵۶﴾

(حالیکہ) اللہ (تعالے) چھ سہ سیکو زمین تہندہ خاطر قرار پچ جائے بناو ہنر چھینے بہ (چھن) آسمان اکر مکاتہ کس صورتس مفر (حفاظتہ خاطر) بنومت) بہ چھو تم توہہ بیون بیون طاقت بخشاوڈ ہوتی تہ پتہ چھن تم طاقت سپٹھا تھدہ درجو تہ مضبوط بناوڈ ہوتی - تہ توہہ چھنو پاکیزہ رزق عطا کورمت - یہ چھ اللہ (تعالے) یس تہندہ پروردگار

ترچہ۔ لہذا اللہ (تعالیٰ) چھ سپٹھا برکتر وول
ییس ساری نے عالمن ہند پروردگار چھ۔
سہ چھ زند (تو بین تر چھ زندگ دین وول)
تس ورائی چھن کا شہ معبود، تہ اللہ (تعالیٰ)
ہند خا طر عبادت خالص کران دیو تسی آلو۔
ساری تعریف چھ اللہ (تعالیٰ) ہندی ییس
ساری نے عالمن ہند پروردگار چھ۔

تر وول بہ چھس امر نیشہ ٹھاکنانہ آمت
تر بہ کر بہن ہنر عبادت بین توہی اللہ (تعالیٰ)
ہس ورائی آلو کران چھو۔ خاص کر تھہ ینیلہ زن
میہ نش میاس پروردگار ہند طرفہ ٹا کا پر نشاہ
تر آتھی چھو۔ تہ میہ چھ حکم دین آمت تر بہ کہہ
صرف ساری نے عالمن ہند پروردگار ہنرے

اطاعت۔

سے چھ بیگی توہی (گو دیکس دورس مثر) میثر
نیشہ پاؤ کر و۔ پتہ (دو کس دورس مثر)
نظہ نیشہ۔ پتہ (ترتیس دورس مثر) اکہ رتہ
لو تھہ نیشہ۔ پتہ چھ سہ توہہ (امہ مثر) اکہ شر
بنا و تھہ کڈان۔ پتہ چھ تھیک یہ نتیجہ نیران تر
توہی چھو پستہ بوانی تام واتان پتہ چھ تھیک
یہ نتیجہ آسان تر توہی چھو بکرس واتان، تہ
توہہ مثر چھ کائہ ہند روح امر (یعنی بکرجہ
وانسہ واتن) برو تھہ قبض کر تہ لوان تہ سہ
چھ یہ اوکی کران تر توہی وا تو تھہ مدس ییس
تہندہ خا طر مقرر کر تہ آمت چھہ بیہ میثہ زن
توہی (تھہ مہ ہتہ کس زماس فایدہ تھہ) عقلہ
کام اییو۔

سہ چھ خدای ییس زندہ کران چھہ توہ ماران تر چھہ
او بیلہ سہ گد کتھہ ہند فاصلہ کران چھہ توہ
تمہ کہ حقہ چھہ ونان "سپرن" اتی چھہ سہ

هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَادِعُ عَوْه
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۱﴾

قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ
تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِي
الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي زَادْتُ أَنْ أُسَلِّمَ
لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۲﴾

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ
نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ
طِفْلًا ثُمَّ لِيَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ
لِيَكُونُوا شُيُوخًا رَمِيمًا مَنْ يُتَوَفَّيْ
مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ لِيَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى
وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۱۳﴾

هُوَ الَّذِي يُخَيِّبُ وَيُمْنِتُ ، فَإِذَا قَضَىٰ
أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۱۴﴾

سپان -
کیا تزییہ وچھتھنا تم لوکھ ایم اللہ (تعالیٰ) ہنڈن
آین متعلق مجاہدہ کران روزان چھ۔ تم کو کون چھ
چھہر تھہ ہنڈہ یوان۔

ایم چھہ (امی قہلمی) لاکھ یوساہ کتاب ہنڈتہ بیہ
سانہور رسولو ایم پیغام آئی ہنڈ چھہ یمن ہنڈ تہ
انکار کورمت چھہ۔ اوکون ایم وچھین وھنڈی وڈولی پین
انجام۔

یئیلہ زن ہنڈر تہ مالکھہ تہنڈن گروہن منڈر
آسن تہ (تمو ہانکو ہنڈ ذلیعہ) تم یمن کھکھہ
ہنڈہ۔

(گرکھہ ونس) شتیس آیس منڈر پتہ پین جہمتس
منڈر وار تھہ ونڈہ۔

پتہ پتہ یمن ونڈہ، تم معبود کتہ چھہ ایم توہی
(خدایہ ہنڈ) شرک بناوان آس ووکھ۔

اللہ (تعالیٰ) ہس وراہی؟ تم وٹن، وڈی کین
چھہ تم اسہ نیش راوکرمی (پتہ وٹن) یتھ کئی
تہ، اصلیت چھہ پہ نہ آس آس تہ امر بروٹھ
کاٹھہ چیز خدایہ منڈ شرک بناولہ۔ یتھ پانٹھ
چھہ اللہ (تعالیٰ) کاہرن گمراہ کران۔

یہہ چھہ (حقیقت)۔ نیہر باعتہ توہی کتہ دلپہ
وراہی خوشیہ آس و مناوان۔ بیہ نیہر کئی توہی
بلی تھیکان آس و۔

(وہی گرتھتھ) اٹھو جہنم کین دروازان (تہ کیاہر
تہنڈ حقر چھہ وہی فاصلہ سپد مت ز) توہی گرتھو
اتھ منڈ روزان بیہ کبہر کران والہن ہنڈ ٹھکانہ چھہ ہٹھا
بیچھہ۔

اوکون کر تہ صبر۔ اللہ (تعالیٰ) منڈ وعدہ روز ہنڈر
پور سپد تہ آراہی تزییہ تمو کتھو منڈر یمن ہنڈ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَكْفُرُونَ فِي
آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ ﴿۱۰﴾

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا
أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَخْلَمُونَ ﴿۱۱﴾

إِذِ الْأَغْلُلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلْسِلُ
يُصْحَبُونَ ﴿۱۲﴾

فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿۱۳﴾

ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ آيِنَ مَا كُنْتُمْ
تُشْرِكُونَ ﴿۱۴﴾

مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ
لَمْ نَكُن نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا
كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ﴿۱۵﴾

ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي
الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ
تَمْرَحُونَ ﴿۱۶﴾

أَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ
فِيهَا ۚ فَيَسَّ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿۱۷﴾

فَاضْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۚ فَإِمَّا
نُرِيدَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ

تَتَوَقَّيْتِكَ فَإِلَيْنَا يُزَجِّحُونَ ﴿۵﴾

تمن سبوتی وعدہ کرتے یوں چھ کیہنہ (چاہتے فوت سپدیں تام) ہاوسے (تہ کیہنہ پستیکونی سپدن چاہہ وفاتہ بیتہ پلورہ ، تہ اتھ اندر چھنہ کاٹنہ حرج) تہ کیا زہ تم بین اسی کن چھہ تھ اتہ (تہ تہ سپد تہنہ انجام تمن پیٹھ و اسگاف)۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ؕ وَمَا كَانَ لِرُسُلِكُ أَنْ يَأْتِيَهُ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ فُضِي بِالْحَقِّ ۖ وَخَسِرَ هُنَّالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴿۶﴾

تہ اسہ سوزاپہ تریہ بروٹھ کھی یا رسول۔ کینترن ہند وکر چھ اسہ تریہ بروٹھ کینہ کورمت تہ کینترن ہند وکر کورنہ تریہ بروٹھ کینہ تہ کاتنہ رسولہ سند چھنہ یہ طاقت نہ خدایہ ہند حکمہ ورایی انہ کاتنہ کلام تہ بیبلہ اللہ (تعالے) سند حکمہ یوں چھ تہ حقہ مطابق چھہ فامصلہ کرتے یوں تہ اپنہ وئن واد لکھ چھ خسارس منزہ بیوان۔

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْآلَانَاعِمَ لِيَتَزَكَّبُوا مِنْهَا وَأَمَّا تَأْكُلُونَ ﴿۷﴾

اللہ (تعالے) چھہ سے تیکو تہنہ خاٹہ چارپاہ پاؤ کڑی تہی چھہ بیٹھ زن تمواتر کینترن پیٹھ توہی سوار کڑی تہ تمن اندر کھینپو (کینترن ہندمان)۔ بیہ بین چارپاہن اندر چھہ تہنہ خاٹہ بیہ تہ کھی یا فایہ بیہ یہ تہ (چھہ مطلب) نہ توہی اوسو تمن پیٹھ ہارسارے بیتر کڑھ پنہن دن ہند حاجت پلورہ کران۔ بیہ بین (چارپاہن) پیٹھ تہ بیہ ناوان پیٹھ چھو توہی سوار کرتے یوں۔

وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ ۖ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلِ الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿۸﴾

بیہ سہ (خدایے) چھو توہی بنجی نشاہ ہاوان۔ لہذا اللہ (تعالے) ہند لو تشارو منز کھہ تشارن ہیکو توہی انکار کڑھہ

وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ ۖ فَآيِيَ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ﴿۹﴾

کیا یم پھری ناہ زسپس منز بیٹھ زن و چھین نہ بیو بروٹھ من لوکن ہند انجام کینتھ سپدہ تم اس ملکس منز تمو کھوتہ گریمنز تہ طاقتس منز تہ جاؤ۔ تہ عمارتہ تعمیر کردہ تہ کارجری (انجینئرنگ) منز تہ اس جاؤ (کارگر) اماہ پوز تہنہ لو کنبو اوس تہ تمن کھنوز نفع دیت مت۔


أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ؕ كَانُوا أَكْثَرًا مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً ۖ وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا آغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۱۰﴾

بیہ بیبلہ تمن انش تہنہ دی رسول نشاہ ہوتہ آہ ، تہ

فَلَمَّا جَاءَ ثَمَّهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ

فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَ حَقَّ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٥٠﴾
 قَالُوا يَا لَنَا بِاللهِ وَ خُدَعَةٌ وَ كَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿٥١﴾
 فَلَمَّ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَاَوْا بِاسْتِئْذِنَتْ اللهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَ خَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ﴿٥٢﴾

تمن نش یہ کم جاو غلم اوس تھہ پیٹھ لگی تھہ کینہ تہ پیٹھ (غلامس)، تم ممانہ شرمان اوس، تمو اولو تم۔
 اد نیلیر تمو سون عذاب وچہ تہ ہیونکھ وُن اُس تہ چھہ اللہ (تعالیٰ) اکھ زائنتھ تس پیٹھ اپمان اتان تہ تس سرتی یکم چیز اُس شریک مٹھراوان اُس تہ تہند چھہ اُس انکار کران۔
 اد نیلیر، تمو سون عذاب وچہ تہ تہند کر اپمان واتموو نہ، تمن کاشہ تہ تہ فایدہ۔ یوہ ہے چھہ اللہ (تعالیٰ) سُنڈ مقرر کورمت سنت لیس تہند من بندن منز جاری چھہ تہ تمہ وقتہ پیئے کافر خدراک منز۔



سورة حم سجده ۱۱۰ یہ سورہ چھہ کلی تہ بسم اللہ بہتہ چھہ اتھ منز پنشر و نزاہ آپہ بیہ چھس تہ کران۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿١﴾
 حَمَّ
 تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿٢﴾
 كَتَبْنَا فُصِّلَتْ اٰیٰتُهُ قُرْاٰنًا عَرَبِیًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ﴿٣﴾

(ہر چھس) اللہ (تعالیٰ) سُنڈ ناو بہتہ (پران) لیس حد رؤس کرم کرن وول تہ پیچھری پیچھری رجم کرن وول چھہ۔
 تمپد تہ مجید (خدایہ بندہ صفت چھہ یٹھ سوس منز بیان کرنہ آوتی)۔
 یہ قرآن چھہ اُنچہ رؤس کرم کرن واپس تہ پیچھری پیچھری رجم کرن واپس (خدایہ) بند طرفہ تا نزل سُد مت۔
 (بیہ) چھییہ یہ تترہہ کتاب نیکیو آہ زبر پاٹھو تہقیلہ سان بیان کرنہ آوتی چھہ۔ بیہ یوسہ یسلہ پاٹھو پر نہ بیہ تہ (سہ چھییہ تترہہ زبانی منز بیہ سہ) پینن مطلب پاہر واش کڈتھ بیان کران چھییہ مگر تہنہ چھییہ (یہ کتاب) فایدہ دیوان یکم (رؤ حانی) علم تھاوان آسن۔

بَشِيرًا وَ نَذِيرًا ۚ فَأَعْرَضَ
أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۝

وَقَالُوا فَلَوْلَنَّا فِي آيَاتِنَا مِمَّا
تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمَنْ
بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ فَاغْمَلْ
إِنَّا عَامِلُونَ ۝

(نیکن) خود شجر دینہ واجبی تہ (بدن) ہیشیار کرن
واجبی چھینہ۔ تمہ پیتہ (تہ) کر، تمہ منیز واریا ہو
رو سے گردانی تہ تم چھینہ اتھ بوزنہ خاطر تہ تیار۔
بہی چھ زمان یتھ چیزس کن توہی اسر ناد کران
چھو تمہ کر ماتہ ہنہ چھ سانی دل پردن منز۔
ایغہ سہ چھینہ سانہ دن پیٹھ اثر کر تھ ہکان)
تہ سانہ کن چھ زرہر (نیمہ کوی اسی تہنہنہ
کتھ بوزنہ تھ چھینہ ہکان) بہی چھ اسر تہ
توہر در میان اکھ مھور۔ لہذا تہ کر (پسنہ عقیدہ
مطابق) کلام تہ اسی کرو (پسنہ عقیدہ مطابق)
کلام۔

تہ ون، بہر تہ چھس توہی ہو اکھ انسانا۔ مہیہ
کن چھینہ وحی کر نہ یوان نہ تہنہ چھ صرف اکھ
خدا، لہذا تہ خیل کر تھ تاوو استقامت تہ
تس بش روزو مغفرت منگان (ز کھور گو تھ تہ
ڈون) بہی (یاد تھوور نہ) مشرکن ہند خاطر
چھ عذاب (پیکھتھ)۔

تم مشرک یم نہ نکولا دولن چھ تہ نہ چھ اترس
پہٹھ ایمان انان۔

بے شک تم (لوکھ) کیو ایمان تہ اذن بہی کر کچھ
تمہ مطابق عملہ تہ۔ تمہ ہند خاطر چھ اکھ
نہ موکلن وول اجر (پیکھتھ)۔

تہ ون، کیا توہی چھو تس خدایہ سند انکار کران؟
تیکو زمین دون دون منز پاد کر مہتر چھینہ؟ بہی
چھو تہند کر شریک مہر کران؟ یہ (خدا سے تہ)
چھ ساری نے عالمن ہند پروردگار۔

بہی چھ تم ز مپنس منز تھ پہٹھ بل بتاوک ہتہ
تہ اتھ منز چھن بڑ برکت تھا و مہتر بہی اتھ منز
روزن والہن ہند کھینہ چھینہ خاطر چھن پر تھ چیز
اندازہ مطابق ہومت (تہ اسورے کینہ چھن ترون

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ
إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ
فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا ۗ وَ
وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ۝

الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ هُمْ
بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۝

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝

قُلْ أَيْنَ كُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي
خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَ تَجْعَلُونَ
لَهُ أُنْدَادًا ۗ ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝

وَ جَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي مِّن قَوَّهَا وَ
بَرَكَ فِيهَا ۗ قَدَّرَ فِيهَا أَلْوَانَهَا فِي
أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلشَّائِلِينَ ۝

دوران منفر کوڑھت یہ کتھ چھینہ سار کے پرتھن
والین ہند خاطر برابر۔

پتہ دن آسمان کن دیان تہ سہ اوس اکہ مئلہ
ہندک پامٹھ تہ تھو وون تھتہ تہ زمپنہ توہر دولو
بیو پستہ مرضی سہو یا مجبور سپدھ میانی فرناہر
کران حاضر۔ بتو دولوے وہے ووشن اسی چھ
فرمانبردار سپدھ حاضر کرشعان۔

پتہ بتاون تم سنن آسمان ہندس سورس منفر
دولن دوران منفر۔ بیہ پرچہ آسمان منفر یہ کیشہا
سپن اوس تمیک طاقت کورن تھتہ حوالہ بیہ
پارو اسہ (سار وہے کھوتہ) بڑنم آسمان
(ژانگوتہ) کاشو سہتی تہ (خوبصورت بناوتہ علاوہ)
حفاظتہ خاطر تہ (کوڑ اتھ اندر سامانہ یاد) تہ
یہ تھ غالب تہ (زانن و اوس خدایہ سند تقدیر۔
پتہ اگر تم روگردانی کرن تہ بہن وان نہ میہ
چھو توہر تہ غلابہ تہ پشیر کرکرتہ۔ میں عاد
تہ شوموکس عبدالس، بوجھ۔

یعنی سبیلہ بہن ہنش بہن بروٹھر کوتہ تہ بہن
پتہ کتہ تہ رسول آپہ (یعنی قومی زندگی منفر آپہ
پوتس پتہ رسول) یہ وان تہ اللہ (تعالیٰ)
ہس ورازی مہ کرو کاتہ ہنر عبادت، اہم
دیت بہن جواب تہ یودوے سون پروردگار
سینترہ ہے سبیلہ کر ہے اسہ پیٹھ پانہ ملائیک
نازل۔ اوکرتہ اسی چھ تہ تعالہ ہند انکار کران
لوہہ ہتھ توہر سوزنہ آوتہ چھو۔

اہ عاد قومن ہنر کتہ حقہ ورازی مئکس منفر تکبر
کام تہ وونن اسہ کھوتہ ہادکس چھ زورس منفر
کیا بتو وچھناہ نہینو خداین تم یاد کرکرتہ
چھ سہ چھ بہن ہند کھوتہ ہاد طاقتہ وول تہ
تم اسی ساہن آین ڈٹتہ انکار کران۔

ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ
فَقَالَ لَهَا وَاللَّيْلِ أَنْتِ يَا طُوعًا أَوْ
كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴿۵۱﴾

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمُوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ
وَأَوْخَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهُنَّ وَزَيَّنَّا
السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ ۖ وَحِفْظًا
ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿۵۱﴾

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً
مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ﴿۵۱﴾

إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ
أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا
إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا
لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَأِنَّا إِذَا رُسِلْنَا
بِهِ كُفْرُونَ ﴿۵۱﴾

فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ
بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا
قُوَّةً أَدَّوْلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي
خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَ
كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿۵۱﴾

فَازْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي
آيَاتٍ نَّحْسَابٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ
الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ
لَعَذَابِ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ
لَا يُنصَرُونَ ﴿۱۵﴾

اوپر کوئی سوزا سہہ بہہ پیٹھ اٹھ تہیجہ واو لیس سہٹھا
تیز اوس تہ منخوس دوہین منتر اوس آمت تہیجہ نہ
اُسی تہیجہ دنیا ہنس منتر رسوائی ہند عذاب تہ ہاواکھ
تہ آخر تہ چہ زندگی ہند عذاب چہ امہ کھوتہ تہ
جاد رسوائی وول - بیہ پیہ نہ بہمن (تہتہ) کتہ
زندگی تہ روٹ کر تہ۔

وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا
الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذْنَا مِنْهُمُ
طَبَقَةً
الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا
يَكْفُرُونَ ﴿۱۶﴾

بیہ تمود (تو کوک اوس یہ حال نہ) اسہ ناوس
یہ بہمن ہدایت تہ گم تہودیت ہدایت پیٹھ
گمراہی ترجیح - لہذا تم اول تہندلو اعمالو ہند
باعثو اک رسوائی ہند عذابن۔

وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَ كَانُوا
يَتَّقُونَ ﴿۱۷﴾

تہ ہم متقی اُسی تہ مؤمن اُسی بہمن دیت اسہ نجابت
تہ ہم

وَيَوْمَ يُخْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ
فَهُمْ يُوَدَّعُونَ ﴿۱۸﴾

بیہ سیکہ دوہہ اللہ (تعالیٰ) ہند دُشمن
(یعنی کافر) زندہ کر تہ نارس کن نہنہین پیہ
ہن تم بیون بیون درجن منتر باگر تہ تراوتہ۔

حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ
سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ
بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۹﴾

اوت تام نہ سیکہ ہم جہنم نشن واتن ، تہندک
کن تہ تہنتر اُچھ تہ تہندک مسلہ دن تہنتر
عملہ ہند باعث بہمن خلاف شہادت ۔

وَقَالُوا لَجُلُودُهُمْ لِمَ شَهِدْتُمْ
عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي
أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ
مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۲۰﴾

تہ ہم ون پینہن مسن ، توہہ کیازہ در و اسہ
خلاف شہادت ؟ تہ تہندک مسلہ ون جوابہ کتہ
اُسی چہ تمہی خداین کتہ کرناوہ ہمتی ، سیکہ پرتہ
چہز کتہ کرناومت چہ - بیہ اُسی و توہی گمراہ
لہ تہ تمہی پاؤہ کر تہ ہمتی تہ پیہ تہ پیہ توہک
تہ کن پھرتہ نہنہ۔

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَشِيرُونَ إِنْ يَشْهَدَ
عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا
لَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ
لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۲۱﴾

بیہ توہی اُسی و تہ پتہ عاب امہ خوفہ سستی کھان
نہیجہ کتہ تہندک کن تہ تہنتر اُچھ تہ تہندک
مسلہ توہہ خلاف شہادت دن (بلکہ بین لوکن
منتر پینہ ہدائی ہند خوفہ سستی اُسی و پیہ کتہ
کران) بلکہ توہہ اوسو یقین نہ اللہ (تعالیٰ) ہنس

تہ چھنہ تہنہنن واریاہن کھقن ہندہ علیہ۔
 تہ بیہہ اُس سو بدقلی یوہہ توہہ سہنس پرورگار
 متعلق کرؤ، میجر توہی ہلاک کرؤ و تہ توہی
 سپرے و پرچہ رنگہ نوقصان ملن والہو منہر۔
 لہذا اگریم لوکھ صبرس کام ہن تہ نار چھ تہنہ
 بھکانہ۔ تہ اگریم خدایس برونہ کن حاضر سپن
 ہرہن تہ تن بیہہ نہ خدایہ ہندس دربارس منہر
 حاضر سپنک اجازت دہن۔

تہ اسر چہ تمن سہو کیہہ ہتھو سہو باجر لاکھ
 تھاکر ہتھو یو تہنہر اعمال تمن تولیورت کرہ
 تاوکر تہ تمن بیہہ سپرے حکم جاری یس جنو
 تہ سالو منہر تمن برونہ گذرے مہ تمن تو من
 بیہہ جاری سپرمت اوس (یعنی یہ) نہ تم سپن
 گاٹہ لین والہو منہر۔
 بیہہ کافر و ون، بیہہ قرآن پڑھ تعلیم مہ اہو بوزاء
 تہ اسر کہ بوزناوہ و نہ اہو کرکہ نادتلان۔ بیہہ
 زن توہی تیہا ٹھہر غالب سپرو۔

اوسے اسر کس نتیجس منہر اُسی تہ ہناووکہ کافر
 منور سجت غذاہک سہر تہ تمن دمو تہنہن
 ساری وہے کھوتہ ترہن بیچہ اعمالن ہند بدلہ۔

تہ اللہ (تعالیٰ) ہندن دشمنن ہند جزا چھ
 یوہے، یعنی نار۔ تھہ منہر میلہ تمن اُکس زہیہ
 مدتس تمام روزہ خاطر گر۔ یہ بدلہ میلہ تمن اہ
 کئی نہ تم اُسی سانن آین ہند ڈہنہ انکار کران۔
 تہ کافر ون نہ اسے سانہ پرورگار! تہ ہواکھ
 اسر جنو تہ انسانو منہر تم لوکھ بجم اسر گراہ کران
 اُسی بیہہ زن اُسی تم کھورن تن مہتھہ ترہوہ
 تہ تمہ کس نتیجس منہر سپن تم ساری وہے
 کھوتہ ذہیل لوکھ۔

وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ
 اَذْسَكُمُ فَاصْبِحْتُمْ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿۴۱﴾

فَاِنْ يَصِيْرُوْا قَالُوْا لَنْ نُّمَوِّیْ لَهُمْ دِرًا
 يَّسْتَعْتَبُوْا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِيْنَ ﴿۴۲﴾

وَقَدِّضْنَا لَهُمْ قُرْآنًا فَذَبَّوْا لَهُمْ مَّا
 بَدِيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلَقَهُمْ وَحَقَّ
 عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْ اُمِّ قَدْخَلَتْ مِنْ
 قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِيْنِ وَالْاِنْسِ بِرِ اِنَّهُمْ
 كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿۴۳﴾

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا
 لِهٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ
 تَغْلِبُوْنَ ﴿۴۴﴾

فَلَنْذِيْقَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَذَابًا
 شَرِيْدًا وَّلَنْجَزِيْنَهُمْ اَسْوَا الَّذِي
 كَانُوْا يَحْمَلُوْنَ ﴿۴۵﴾

ذٰلِكَ جَزَاءُ اَعْدَاءِ اللّٰهِ النَّارُ لَهُمْ
 فِيْهَا دَاوُ الْخُلْدِ جَزَاءُ بِمَا كَانُوْا
 بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ﴿۴۶﴾

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا رَبَّنَا اِنَّا
 الَّذِيْنَ اٰمَلْنَا مِنَ الْجِيْنِ وَالْاِنْسِ
 نَجْعَلُهُمَّا تَحْتِ اَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا
 مِنْ الْاَسْفَلِيْنَ ﴿۴۷﴾

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَابْشُرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿۲۱﴾

تم لو کہ یہو وولن ز اللہ (تعالیٰ) چھ سون پروردگار۔ پتہ سپدی مزار ڈنجر تھاوتھ اتھ عقیدس پیٹھ قائم۔ تمن پیٹھ وس ملایک یہ وان نہ کھوٹرو مہ تہ کتہ پتہ مہ غلطی ہنتر بکر مہ کرو تہ سہ جنت میلہ سوتو سپدی نوحش تہ میک تو ہر سوتو وعبر کر تہ آمت اوس۔

تَحْنُ أَوْلَیُّوْكُمْ فِی الْحَیْوَةِ الدُّنْیَا وَفِی الْآخِرَةِ ۚ وَلكُمْ فِیْهَا مَا تَشْتَهَىْ أَنْفُسُكُمْ وَلكُمْ فِیْهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿۲۲﴾

اُسو چھ ڈو بیس منز تہ تہندک دوست تہ آخرتس منز تہ روزو تہندک دوست تہ تنھ (جنتس) منز یہ کینترھا تہندک دل بہتر من تہ میلو تو ہر تہ یہ کینترھا تو ہر منگو تہ تہ میلو تو ہر تنھ منز۔

۲۲

نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِیْمٍ ﴿۲۲﴾

یہ آسہ بخش بار (تہ) اُنھہ روس رحم کرن واس خدایہ ہند کتہ مہان واری ہند رنگ۔ تہ تہند کھوتہ جادو رتھ کتھ کبھتر آسہ یس اللہ (تعالیٰ) ہس کن لوکن تاد کران چھ۔ یہ چھ پتہ اپنا تہ مطابق عمل کران تہ وان چھ بہ چھس فرما نبر دارو منز۔

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِی مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ ﴿۲۳﴾

بہ نیکی تہ ہدی چھتہ ہشی ہکان آستھ تہ تہ در ہدی ہند جواب جادو نیک سلوک سان۔ تمیک نتیجہ تہ یہ ز سہ شخص یس تہ سوتو عداوت آسہ، بہ چون حسن سلوک وچھتھ (چون) اکھ جانی یار۔

وَلَا تَسْتَوِی الْحَسَنَةُ وَلَا السَّیِّئَةُ ۚ اِذْ قَعَّ بِاللَّذِیْ هِیَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِیْ بَیْنَكَ وَبَیْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِیٌّ حَمِیْمٌ ﴿۲۴﴾

تہ (ظلم ترالہ باوجود) چھ امیک (یعنے امہ قسم کہ سلوکات) توفیق صرف تم نے میلان ہم بڑی صبر کرن اول آسان چھ۔ تہ یا چھ ہتن میلان یمن (خدایہ ہند طرف نہکی ہند) اکھ بود حصہ میولمت آسہ۔

وَمَا یُلْقِیْهَا اِلَّا الَّذِیْنَ صَبَرُوْا ۚ وَمَا یُلْقِیْهَا اِلَّا ذُو حِظٍّ عَظِیْمٍ ﴿۲۵﴾

بہ اگر شیطان (یعنے حقہ ہنہ دور ہستی) تہ یہ تکلیف و اتناوی تہ (نورا) اُس ز تہ تمیک بدلہ

وَاِمَّا یَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّیْطٰنِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۚ اِنَّهُ هُوَ السَّمِیْعُ

الْعَلِيمُ ﴿۳۷﴾

ہوئے تجا طر تیار سپدان بیکہ (اللہ تعالیٰ)
ہس اسی فریناہ مکان (زسہ زچی زریہ تمہوسو
پایہ تخلقہ نشہ) اللہ تعالیٰ) چھہ یقینا سپہا
بوزن وول (تہ) سپہا زانن وول ۔

بیر تہندو نشاوا منتر چھیہ رات تہ تہ وہہ تہ تہ
آفتاب تہ چھہ تہ زون تہ چھیہ ۔ نہ کرک زلو
آفتاب سبجہ تہ تہ زونہ بیکہ صرف کرک
اللہ تعالیٰ) ہس سبجہ بیکہ بیکہ وہوسے یاد
کرک ہتہ چھہ ۔ اگر توہی پونہ تہ توحید واطر چھو ۔
تو پتہ کریم لوکھ تکبر کرن تہ یاد تھو زہ تہ لوکھ
بیم چائس پروردگار ہندک مقرب چھہ ہم چھہ
راتس تہ وہ ہس تہ ہنرے تسبیح کران تہ ہم
چھہ زہنہ تھکان ۔

بیر چھہ تہندو نشاوا منتر (اکھ نشان) یہ تہ تہ
تہ چھہ زہن (کینشن وقتن منتر) واران
وچھان ۔ پتہ بیلہ اسی تہ پیٹھ آب ولان چھہ
تہ سو چھیہ اکھ لو زہنگ لبان تہ (سبزاس)
چھیہ زہر پانٹھ وہ پراوان ۔ سہ (خدا) ۔ پتہ
(زہن) زہند کر منتر چھیہ سہ کر بے شک
سوردن تہ زہنہ ۔ سہ چھہ پرہہ کتہ چیزس پیٹھ
قادر ۔

ہم لوکھ ہم سانہو آہو منتر وٹھ وٹھ غلط کتہ کران
روزان چھہ ۔ ہم چھہ اسہ نش کھٹھ ۔ سہ شخص
ہس جہنس منتر تراونہ پیہ چھا جسد رت کہہ
سہ یس قیامتہ کہ وہ ہر امتہ سان (اسہ
نش) ۔ پیہ ؛ (اسے لوکو !) ۔ یہ کینشترھا
(توہی) ۔ پیہ سہ کرک ۔ اللہ تعالیٰ) چھہ تہندک

وَمِنَ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ
وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا
لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ
إِن كُنتُمْ رَائِيًا تَعْبُدُونَ ﴿۳۷﴾

فَإِنِ اشْتَكَبُوا فَاَلَّذِينَ عِنْدَ
رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۳۸﴾

وَمِنَ آيَاتِهِ أَلَّا تَرَى الْآرِضَ
حَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ
اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا
لَمُخِي الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ ﴿۳۹﴾

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا
يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَن يُلْفَىٰ فِي النَّارِ
خَيْرٌ أَمْ مَن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
إِغْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَاصِيرٌ ﴿۴۰﴾

لَهُ إِغْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ، امیک معنی چھہ یہ زہ انسان چھہ پستہن اعمان منتر
مبجور ۔ یہ مطلب چھہ زہ یہ مرضی گزہہس تہ کر تہ تہ پٹھ پیہ نہ رٹہ ۔ تہ کیاز (جاری)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿۲۰﴾

اعمال نبر پائٹو و چھان روزان -
تم لوکھ بيم زن امر و ذکرک (یعنی قرآنک) انکار
کران چھ بیلیہ سہ تمن نشن آو۔ و چھوے تہ سہ
چھیہ اکھ بڑ عزتہ و اجوت کتاب (تم چھو پسنہ تباہی
ہندک ساما تہ پسنہوا تھو کران)۔

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿۲۱﴾

باطل نہ چھہ ہکان اتھ بر و تھی کتو بیتہ نہ اتھ
پتو کتو۔ سہ چھہ بچ حکمتہ و اس تہ بڑس تعریفہ
و اس خدایہ ہند طرفہ نازل سیدمت۔

مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدَّ قَبْلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴿۲۲﴾

ترتیب چھہ صرف تھے کتھ و نہ پوان بيم ترتیب بر و تھی
من رسولن و نہ آسہ آسہ۔ چون پروردگار چھہ
بڑ بخشش و ول تہ تند عذاب چھہ دگر و اسان۔

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَبِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُضِّلَتْ آيَاتُهُ أَءِ آعْجَبِيٌّ وَءَعْرَبِيٌّ ۚ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ۚ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُولَٰئِكَ يُعَادُونَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿۲۳﴾

اگر اسویہ قرآن عجمی بنا و ہون (یعنی عربی زبان
و رانی بیہ کتہ زبانہ مشر تازل کر ہون) تہ بيم (کہ
و اول) ہیکہ ہن و نہ تہ اکی آپہ کیا ز آہ نہ و اش
کد تھ بیان کرنہ۔ عجمی زبان تہ عربی نبی چھا
کا نہ تہ ہشر تھا و ان تہ ترون ز سہ چھہ مولن
ہند خاطر ہدایت تہ شفا تھوان (یعنی عربی
زبانہ مشر چھہ تازل کرنہ آمت۔ تہ ہیکہ لوکھ

چھہ یہ تر تہ تھہ ہکان) تہ بيم نہ ایمان
چھہ تہ ہندین کنن چھہ زر، تہ تہ (یعنی اچھ
حقیقت) چھیہ تمن نشن پوسٹہ۔ تم لوکھ چھہ
تھی بیتھ پائٹو کانسہ دور جاہ پتھہ آلو کرنہ پتھہ
بیہ اسہ اس موسیٰ ہس تہ اکھ تھہ پانچ کتاب
در ہتر تہ تم کہ حقہ تہ آیا و اختلاف کرنہ تہ
اگر اکھ کتھ پانس پروردگار ہند کتہ بر و تھہ
گذرے ہتر آسہ ہے تہ تمن لوکن ہند

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِّيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿۲۴﴾

بقیہ حاشیہ:- خدا تعالیٰ ہن چھیہ نبی تہ ظاہر کر ہتر تہ بڑی تہ چھین ظاہر کر ہتر۔ نیکی
زائسہ باوجود اگر کا نہہ شخص بیدی کران چھہ تہ سہ چھہ پانہ ذمہ وار۔ تہ
اسو و نو اتھ متعلق لی ز سہ چھہ بیدی پسنہ مرضی سدی پیراوان۔

آسہ ہے کز نام فَاصلہ سُدَّتْ - تم چھہ میئہ
(قرآن) کہ حقہ اُکس بقیس شکس مشر پیہتی
یس تہندس ائس چھہ مکھ دولان (یعنی حدہ
روس شکس مشر چھہ ولہز آہتی تہ تھہ کن چھہ
دیان دولان) -

یس شخص ایماہ مطابق عمل کر تہ تمیک فَاصلہ
چھہ تہندس پتس زوس واتان تہ یس بدلہ
کر تمیک عذاب تہ چھہ تسی پٹھ وسان بیہ چون
پروردگار چھہ پتہن بدنک پٹھ کہہ ظلم کران۔

فَاصلہ تیا مکھ علم چھہ تسی کن چھہ تہ نہ یوان۔ (یعنی قیامتک
پور پور علم چھہ تسی حاصل)۔ جامو (یا غلامو) مشر
(تہ) چھہ کہہتو ہو تیران تہ زمانہ تہ چھہ کہہتو
پتہن شکس مشر تھان تہ نہ چھہ تھہ پھوان۔

مگر تہ سورہ چھہ اللہ (عالی) ہس معلوم آسان۔ میہ
دوہہ سہ اتن لوکن آلو کر تہ ونیکہ، سیانی
شریک کہہ چھہ؟ تم وزن آسہ چھہ تہ چھہ
کہہ وٹ نہ آسہ مشر چھہ امہ کہہ ہند کہہتو گواہ۔

بیہ یمن (معیون) تم امہ بروٹھ ناد دولان اُسی
تم راون تم نش تہ تم بیہ پتہ نہ وونی
چھہ تہند با پتہ کن تہ تہ تہ چھہ جاہ۔

انسان چھہ برتہ چہز منگہ نشہ نہ نہ تھکان۔
وونی گوو اگر تہ زانہ کہہ تکلیف واز تہ سہ چھہ
دہتم حالت مشر آوتھ) ناو مید سپلان۔

تہ یود وے تس دو کہ واتہ پتہ اُس تس رتھک
مشر تہناو تہ سہ چھہ ونان یہ تہ اوس میون چھہ
تہ میہ چھہ پور بہتہ نہ قیامت بیہ تہ اتہ اگر
بیہ پتہن پروردگار کن چھہ تہ نہ تہ چھہ تہ
تہ نش آس میانہ با پتہ (میہ و تہ پتہ وناو کھوہ)

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ
فَعَلِيهَا وَمَا أَزْبَكَ بِظُلْمٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٢١﴾

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ، وَمَا
تَخْرُجُ مِنْ تَمَازُتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا
تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ
وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ آيَاتُ شُرَكَائِهِمْ قَالُوا
أَذْنَبْنَا وَإِنَّا مِن شَاهِدِينَ ﴿٢١﴾

وَصَلِّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَ
ظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ ﴿٢١﴾

لَا يَسْمَعُ إِذْ نَسَاوْنَ دُعَاءَ الْخَيْرِ وَإِن
مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَسْأَلُ قَنُوطًا ﴿٢١﴾

وَلَئِن أَدْقَنَهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَحْدِ
ضَرَاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا
أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ۖ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَى
رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَىٰ ۖ فَلَنُنَبِّئَنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَكَلَنُذِيقَنَّهُم

لہ یعنی گوہر کھور چھہ روزان - لہ پرسان چھہ۔

وَمَنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۝۱۱

تمہارے پاس کی انعام موجود۔ تیرا اسی دوسرا کافران ضرور
تہنہ دین اعمال متعلق خبر تہ تم تہرنا دوکھ اکھ سخت
عذاب۔

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَ
نَابِجًا بِنَبِيٍّ ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ
عَرِيضٍ ۝۱۲

تہر میلہ اسی انسان پہنہ انعام کران چہ تہر سہ چہ
بہنہ پھران تہر اسہ نیش چہ اوک طرف گڑھتہ دوزلان
تہر میلہ تس کا نہہ تکلیت واران چہ تہر سہہا نہہ
ز چہو دعا پہہ کران۔

قُلْ آدَاءُ يُسْتَمَرُّ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ
كَفَرْتُمْ بِهِ مِنْ أَضَلِّ مِمَّنْ هُوَ فِي
شِقَاكِي بَعِيدٍ ۝۱۳


تہر وان تم۔ میںہ لوگو تہر سہی، اگر یہ (قرآن) اللہ
(تعالیٰ) ہندہ طرفہ اوس تہر تو ہی کرو امیک انکار
تہر تس شخصہ ہندہ کھوتہ جاو گراہ کس اسہ نیس
حقہ ہنہ سہہا دوز تہر لہہ گڑھہ ؟

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَ فِي
أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ
الْحَقُّ ۚ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝۱۴

اسی ماورہم لوکن ضرور ہنہ نیشا نہ ہنہ عالمس منز
تہر پہنہ طرفہ تہر پانہ تہنہ دین و خورن (تہر خاندان)
منز تہر ایوت تام تہر یہ آنتہ (تہنہ نہہ خاطر پور پانہ
نہہ۔ تہر یہ (قرآن) چہ حق۔ کیا چائس پروردگار ہند
پر پہنہ چیزس پہنہ ہکران اسن چہنا تہنہ نہہ خاطر کانی ؟

أَلَا إِنَّهُمْ فِي مَرِيضَةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ
أَلَّا يَأْتِيَهُمْ كَلِمَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ ۝۱۵

خبردار! ہم لاکھ چہ ہنہ پنہس پروردگار ہندہ ملاقات
کہ حقہ شکس منز پہنہ تہر کن داریتہ ہوزو!
اللہ (تعالیٰ) چہہ پر پہنہ کنہ چیزس پہنہ اساطیر گڑھہ
(تہر تمہ کس تباہ کرنس پہنہ چہہ تہر قدرت تھوان)۔



سورة شوریٰ، یہ سورہ چہ کئی تہر بسم اللہ پہنہ چہ اتھ تہر و نزاہ آہیر یہ چہس پانہہ رکوع۔

(یہ چہس) اللہ (تعالیٰ) ہند ناو پہنہ (پر ان) نیس
حدہ رؤس کرم کرن وول (تہر) پھیرک پھیرک رحم
کرن وول چہہ۔
(یہ سورہ چہہ) حمید (تہر) مجہد۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

عَسَق ①

علیم ، سمیع (تہ) تدبیر (خدایں نازل کورمت)۔
تیجے پانچو چھ اللہ (تعالے) تری پیٹہ تہ وومی
کران تہ تمن پیٹہ تہ (چھن وومی کر مہتر) ہم
تری بروٹھ گدرے ہو چھ۔ سہ چھ غالب تہ تہ
حکمتہ وول تہ۔

كَذٰلِكَ يُوَجِّىٓ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ
قَبْلِكَ ۗ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ①

آسمان تہ زمينہ منز یہ کینرھا چھ سورے چھ
تندے تہ سہ چھ تھہر شاہنہ وول۔ بیہ چھ بچہ
ہستی وول تہ۔

لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۗ وَهُوَ
الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ①

کبے وقت چھ نر آسمان پین (غالب ہستی ہند
حکمہ کر باعشہ) پھلٹہ پتھر۔ امہ باوجود نر ملک
چھ پنسن پروردگار سند حمد تہ کران تہ تیج تہ چھ
کران تہ ہم لکھ زمينہ منز چھ تہندہ خاطر چھ مغفرت
تہ منگان (تو پیٹہ تہ تھاو تہ خدایے پین عذاب
پتہ ، تیجہ زن تہنر غفاری تہ رحیمی نل ہر سید)
بوزواللہ (تعالے) چھ سبھا بخش بار (تہ) اُنچہ
رؤس رحم کرن وول۔

تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَنْقَطِرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَاَلَمْ
تَلْمِذِكُمْ ۙ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِنَّ وَاَلَمْ
يَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِى الْاَرْضِ ۗ اَلَا اِنَّ اللّٰهَ
هُوَ الْعَفُوُّ الرَّحِيْمُ ①

تم لکھ ہم اللہ (تعالے) ہس وراہی کانسہ پین
پناہ دہ وول بناوان چھ۔ اللہ (تعالے) ہن چھ
ہن جلات پسہن والی ساری اعمال رزہر تھ تھاو
ہتو بیہ تر چھک تہ تمن پیٹہ نکران (خدایا ہجھ
نکران)۔

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاۗءَ
اللّٰهُ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ ۗ وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ
بِوَكِيْلٍ ①

تہ تیجے پانچو (یعنی پنسن نکران اسپہ کس تنوٹس
منز) چھ اسپہ قرآن عربی زبانی منز تری کن نازل
کورمت تیجہ نکران تہ ملکہ کر مرکزہ تہ تیجہ اندی پھی روزن
والی لکھ ہشیارہ کر کبھ بیہ تیجہ تہ تہ وقتہ نیشہ تہ ہشیار

وَكٰذٰلِكَ اَدْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا
لِتُنذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا وَاَتُنذِرَ
يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۗ فَرِيْقٌ فِى
الْجَنَّةِ وَاَفْرِیْقٌ فِى السَّعِيْرِ ①

سہ حمید ، تعریفین لایق ، مچید ، بزرگی وول ، علیم ، علمہ وول ، سمیع ، بوزن

وول ، قدیر ، قوم تہ وول

سہ یعنی تہنر حکومت چھیہ مخلوقات ہندس پر چھ طبیقت پیٹہ تاوی۔

سہ یعنی کہ شریفی لکھ روزن والی۔

کر کچھ تیلہ ساری لاکھ حج کر نہ پین یہیہ کس نیس منشر
کا نہہ شک چھنہ۔ تمہ وہ ہر گزہ اکھ دور جنس منشر
تہ اکھ دور گزہ جہنم منشر۔

بیہ ہر گاہ اللہ (تعالے) پینہ مرضی کام ہینہ
(یعنی چہر کر ہے) تہ بین سار کے بناو ہے
اکے جماعت۔ وہ لکھو سہ نیس بیہر جہاں چھ نیس چھ
سپنس رحمت منشر وائل کران تہ ظالمن نہ چھ کا نہہ
پناہ دہ وول آسان تہ نہ چھ کا نہہ اتھ روٹ
کران وول۔

کیا تمو چھا اللہ (تعالے) ہس ورائی کا نہہ
بیاکھ پناہ دہ وول تجویز کورمت؟ لہذا (یاد
پیز تھاون) ز اللہ (تعالے) ہے چھ پناہ دہ
وول تہ سے چھ معرون زبند کران۔ بیہ چھ سہ
پین پر چھ ارادہ پلور کرس پیٹھ توہرت تھوان۔
بیہ بیتہ (کتھ) منشر توہر اختلاف کر و تیمیک
آخری فاصلہ چھ اللہ (تعالے) ہند کے بیہن
منشر۔ بیہ چھ تہند اللہ (تعالے) نیس میون تہ
پروردگار چھ، مینہ چھ نسو پیٹھ توکل کورمت تہ
تسو کن چھس بہ نمان۔

سہ چھ آسان ہند تہ زمینک پاد کران وول۔ تمو
چھ تہنری ذات منشر تہند کر جوہر بناو ہتو تہ
چلر پابن ہندی تہ چھن جوہر بناو ہتو تہ بیتھ
پاٹھو چھو سہ توہر زمینہ منشر ہراوان۔ تس ہو
چھو کہنہ چہر تہ سہ چھ سہٹا بوزن وول (تہ)
وچھن وول۔

آسمان ہنر کتہر تہ چھینہ تسو اتھ تہ زمینہ
تہ۔ سہ نیس ہند خاطر بیہر جہاں چھ تس چھ
رزقس منشر کشادی ووان تہ (تسو ہند خاطر
بیہر جہاں چھ تس چھ رزقس منشر) تسکی کران۔ سہ
چھ پر چھ کا نہہ معاملہ جادو زبر پاٹھو زانان۔

ذَلَّوْا شَاءَ اللهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَ
لَكِنْ يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۗ وَ
الظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ دَلِيلٍ ۖ وَلَا نَصِيرٍ ①

أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَاءَ ۖ قَالَ
هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ②

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ
رَبِّ اللّٰهِ ۗ ذٰلِكُمْ اللّٰهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ③

فَأَطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالأَرْضِ ۖ جَعَلْ لَكُمْ مِنْ
أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ۚ مِنَ الأَنْعَامِ ۗ أَزْوَاجًا ۚ
يَذَرُوْكُمْ فِيْهِ ۗ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۗ وَهُوَ
السَّمِيْعُ البَصِيْرُ ④

لَهُ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالأَرْضِ ۖ يَبْسُطُ
الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَ يَقْدِرُ ۗ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيْمٌ ⑤

شَرَمَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَىٰ بِهِ نُوْحًا وَ
الَّذِي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖ
ابْرٰهِيْمَ وَ مُوسٰى وَ عِيسٰى اَنْ اَقِيْمُوْا
الدِّيْنَ وَ لَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ؕ كَبُرَ عَلٰى
المُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ؕ اِنَّهٗ
يَجْتَبِيْ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَ يَهْدِيْ اِلَيْهِ
مَنْ يُّنٰبِ ۙ ﴿۱۷﴾

تمو (اللہ تعالیٰ ہن) چھے تریہ (اولیٰ طوبیٰ) سے
دین دیت مت نیکیک تاکید تمو نوحس کورمت
اوس۔ بیہ لیس اسر وہ فی تریہ پیٹھ (قرآنہ ڈوسی)
تأزل کورمت چھ۔ بیہ نیکیک تاکید اسر ابرھیس
تو موسیٰ ہس تو عیسیٰ ہس کورمت اوس۔ تو سر اوس
یہ نہ (اللہ تعالیٰ ہنر) اطاعت کرو دنیا ہس
منز قائم۔ بیہ امہ (دینہ) کہ حقہ مہ ابرو تریہ
احکام کران۔ مشرکن چھید سہ (تعلیم سپٹھا)
گوب گرھان بیتھ کن تہ بہن ناد کران چھکھ۔
بوزوے تو اللہ تعالیٰ) ہس لیس پسند آسان
چھ تس چھ سہ امہ (دینہ) ہا پتھ ناران تو
یہ تعلیم چھید تسو میلان لیس خدایس کن پر پتھ
وزر ہمتھ روزان چھ۔

وَ مَا تَفَرَّقُوْا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ
الْعِلْمُ بَغِيًّا بَيْنَهُمْ ؕ وَ لَوْ لَا كَلِمَةُ
سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى لَّفُضِيْ
بَيْنَهُمْ ؕ وَ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرثُوْا الْكُتُبَ مِنْۢ
بَعْدِهَا لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ﴿۱۸﴾

بیہ کافر و کورنہ دینہ کس معاسس منز (تو تام) اخلان
یو تام نہ بہن نش اکھ کابل علم (یعنی قرآن) آو۔
تو یہ اختلاف چھ تمو پانہ وادی بغض تو حسد کہ
باعث کورمت (کہ عقلی دلیلہ ہند باعث کورک نہ)
بیہ اگر چانس پر در و گاہ ہند طرفہ اگس گت تھ
مدتہ خاطر اکھ کتہ ہند فاصلہ سیدلومت آہ
ہے نہ تو بہن کافر ہنر تباہی آسہ ہے کر تام
سیدے ہنر تو تم لوکھ ایم ہمو (بروٹھی مہ لاکھ)
پتہ کتاب ہند وراث کر نہ آہ، تم چھ نیہ کتاب
ہند باعث اگس تبس شمس منز ہنر آہ لیس
تہندن دن منز بے قراری یاد کران چھ۔

فَلِذٰلِكَ فَادَّبْهُ وَاَسْتَقَمَّ كَمَا اُمِرْتَ
وَ لَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ ؕ وَ قُلْ اٰمَنْتُ بِمَا
اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ ؕ وَ اُمِرْتُ لِاعْتَدِلَ
بَيْنَكُمْ ؕ اَللّٰهُ رُبُّنَا وَ رَبُّكُمْ ؕ لَنَآ اَعْمَالُنَا
لَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ؕ لَا حِجَّةَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ
اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ؕ وَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴿۱۹﴾

او کو تو کر (تھی دنیس کن) لوکن آو تو تو روز
دستھے پاٹھی دنیس پٹھ) صبر سان قائم پتھ پاٹھی تریہ و ہنہ
آمت پتھے، بیہ تہننر خاہن ہنر پاروی
مہ کر بیہ ون نہ (اللہ تعالیٰ) ہن یہ کینر شا پس نہ
کتابہ منز تأزل کورمت چھ ہر چھس تھ پیٹھ
اچان انان تو میہ چھ حکم و ہر آمت نہ ہر کہ

توہمہ درمیان عدلہ سان فاصلہ - اللہ (تعالیٰ) چھ
سوں تہ پروردگار تہ تہند تہ پروردگار - ساد
اعمال چھ اسہ سوتہ تہ تہندک اعمال (چھ) توہمہ سوتہ
توہمہ تہ اسہ منز ہاگ چھنہ کپنہز نیاسے - اللہ
(تعالیٰ) کر اسہ (اگر وہ ہے) جمع - تہ تسو کن
چھ اسہ سار کپنہ پھیر تہہ گرتھن -

بیسہ تم لوکھ پیم اللہ (تعالیٰ) سہند حقہ مجا دلہ
لاگان چھہ نیلہ زن (واریا ہو لوکو) تسنہز آواز
قبول کر مہتر چھہہ - تہنہز ڈیل چھہہ تہندس
پروردگار س برونیٹ کپنہ پھنہراونہ سہنہ واجہز
تہنہ پیٹھ سہد غضب تہازل تہ تہندہ ہا پتھہ پیٹھہ
کر یوٹھ عذاب (لہکھتہ) -

اللہ (تعالیٰ) چھہ سے نیو پزہر ہتھہ یہ کابل کتا
(قرآن) تہ میزان تہازل کورمت چھہ تہ توہمہ
کو (یعنی کہہ کتھ) چھو وونتہ زکرتھہ ساعت
چھہ نزدیک امت -

پیم لوکھ تہتھ پیٹھہ ایمان چھہنہ انان تم چھہ تہر ساعتک
وڈوڈین سہر شعان تہ مؤمن چھہ تہہ ہنہ کھوژان
روزان تہ پتھہ چھہ تھونہ نر سہہ چھہ واقع سہدھہ
روزان وول - بوزو ! پیم لوکھ قیامتس پیٹھہ
شک کران چھہ تم چھہ کس لا علاج گراہی منز
ولہنہ آوتہ -

اللہ (تعالیٰ) چھہ سینہنہ بدنہ ہندہ پو شہد

وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا
اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةً عِنْدَ
رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَ لَهُمْ عَذَابٌ
شَدِيدٌ ﴿۱۷﴾

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَ
الْمِيزَانَ، وَ مَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ
قَرِيبٌ ﴿۱۸﴾

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا
وَ الَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَ
يَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، أَلَا إِنَّ الَّذِينَ
يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿۱۹﴾

اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَذُرُّ مَنْ يَشَاءُ ۚ

سہ قرآن کریمک اہہ ناو چھہ "میزان" تھونہ امت - تہ کیا ز اٹھہ منز یوسہ کتھہ ونہہ یوان
چھہہہ ، ڈسپہ سان چھہہ ونہہ یوان تہ ڈیل چھہہ سار کپنہ انسانہ منز ہاگ
اھہ سرورہ قدر - تہ یوتام تھہ کاتھہ اپز شاپت کر ہہ سہہ ہیکنہر اٹھہ رد کر تھہ -
قرآن کریم چھہہ پرتھہ کتھہ ڈسپہ سان ونان لہذا چھہہ سہہ "سپران"
یعنی یوسہ کتھہ تہہ چہر تر کر منز پوہر وتر سوسے چھہہ پز - تہہ مہ سار سہہ
کتھہ چھہہ غلط ، تہ کیا ز ، تہہ چھہہہ عقدہ ہنہر شر کر منز پوہر وتران -

ذٰهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ﴿۱۰﴾

﴿۱۰﴾

بسر زمانان - نیمیس بیژھان چھ وافر برزق چھیں
 دوان تہ نیمیس متعلق بیژھان چھ برزق منتر چھیں
 کئی کران - سہ چھ بڑ طاقتہ وول تہ غالب -
 یس کاشرا آخریک زراعت بیژھان چھ اسی
 چھ تہند با پتھ تہند (آخریک) زراعت ہرلان
 گڑھان تہ یس کاشرا نیمہ دنیا یک زراعت
 بیژھان چھ، اسی چھ نیمہ (دنیا یکہ زراعتہ)
 منتر تہ تہند حصہ دوان (یعنی دنیاوی دولت
 چھیں تہ میلان) تہ آخرت منتر چھ تہند کاشرا
 حصہ آسان -

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي
 حَرْثِهِ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا
 نُؤْتِهِ مِنْهَا ۖ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ
 نَصِيْبٍ ﴿۱۱﴾

کیا تم ہند با پتھ چھا تھو شریک؟ یو تہند
 خاطر تہند دینی تعلیم تجویز کر مہتر چھیں نیمیک
 اللہ (تعالیٰ) ہن حکم چھ تہ دیت تہ ہر گاہ
 اللہ تعالیٰ ہند طرف (آخری فاصلہ سپدلیت
 آسہ ہے تہ تہن درمیان پیہ ہے فاصلہ کر تہ
 تہ یقیناً ظالمین واتہ دگر وار عذاب -

اَمْ لَهُمْ شُرَكَوَا شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ
 مَا لَمْ يَأْتِنِ بِهِ اللّٰهُ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ
 لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۗ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ
 اَلِيْمٌ ﴿۱۱﴾

تہ چھ ہنک ظالم وچھان تہ تہم چھ پتہ علیہ ہند
 باعتہ کھڑان - حالانکہ سہ (وعدہ دینہ آمت عذاب)
 چھ تہن پیہ ضرور نازل سپن وول تہ تہم لوکھ
 یو ایمان اؤن تہ ایمانہ مطابق کرکھ عمل، تہم
 آسن گنہن یا عن منتر (تہ) تہندس پروردگار
 نیش آسہ تہند خاطر تہ سورے کینہ موچو نیمیک
 تہن اور زوے آسہ، یو ہے چھ بوڈ فہل -

تَرَى الظّٰلِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا كَسَبُوْا وَهُوَ
 وَاَقْبُ بِهِمْ ۗ وَاَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
 الصّٰلِحٰتِ فِيْ رَوْضِ الْجَنَّةِ ۗ لَهُمْ مَا
 يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ
 الْكَبِيْرُ ﴿۱۲﴾

یو ہے چھ سہ چیز تہنچ اللہ تعالیٰ) بشارت دوان
 چھ، پتہن مؤمن بدن (یعنی) تہن مؤمن بدن
 یکم ایمانہ مطابق عمل تہ کران چھ، تہ وکھہ ہر
 چھو تہ تہہ پتہ تہم بدلہ کاشرا اجر نمان
 تہہ ماٹھنیاہ ورا اسی یس پتہن سارک وپہ کھو
 نزوکہ آشنان سوتی کر تہ یوان چھ - بیس تہن
 کاشرا نیکی، منتر کام کران چھ اسی چھ تہہ

ذٰلِكَ الَّذِيْ يُبَشِّرُ اللّٰهَ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ
 اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۗ قُلْ لَا اَسْئَلُكُمْ
 عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى ۗ وَمَنْ
 يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نّٰزِدْ لَهُ فِيْهَا حُسْنًا ۗ اِنَّ
 اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ﴿۱۲﴾

نیکی تہند خاطرہ بیہ جاہ حسین بناوان - اللہ
(تعالیٰ) چھ سہٹا بختن بار (تہ) قدر زان وول
کیا تم جھاوانان نر اوی شخصن (یعنی نمد رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) چھ تھلیس پیٹھ اپڑ
لاگتھ تھومت ؟ اڈ امر اللہ (تعالیٰ) بیترہ تہ
چائس ولس پیٹھ کر موہر - بیہ اللہ (تعالیٰ) چھ
ہمیشہ باطل تہتاوتھ تھجان تہ حق چھ پستہو
تساو سبتی قائم کران - سہ چھ ولس ہنر کتھ
تہ زانان -

تہ سہ چھ یس پستہن بدن ہند توہر قبول کران
چھ بیہ چھ تہتدی خط معاف کران - تہ یہ کیتھھا
توہر کران چھو تہ چھ زانان -

بیہ مؤمن تہ اپمانہ مطابق عمل کرن والہن ہنر
دعا چھ قبول کران - بیہ چھ پستہ فضلہ سبتہن
(تہندہ حقہ کھوتہ تہ) جاہ وول تہ کافرن ہنر
خاطر چھ سبت عذاب مقرر (سبتہ) -

بیہ ہرگاہ اللہ (تعالیٰ) پستہن بدن ہنر
خاطر برق جادے گشاہ کرے تہ تم ہنیہ ہن
ملکس منز سہٹا روے گردانی کرے - اماہ یوز
سہ پکیتھھا بیترہان چھ اندازہ مطابق چھ
تازل کران - سہ چھ پستہن بدن ہندو حالاتو
بشہ خبردار (تہ) تہتدی حالات کوچھن وول -
بیہ سہ چھ یس ناوہ میدی پتہ رود تراوان چھ
تہ پتہ رحمت چھ چھالوان بیہ سہ چھ (یوز)
پناہ دین وول (تہ) ساری نے تعریفن ہنر
ہابک -

بیہ آسمان ہنر تہ زہینچ پیدایش تہ یہ کیتھھا تم
جن دہلونی منز ہابک نو دارن ہنر رنگ چھالومت
چھ، چھ تہو ہندو تہتاو اندر تہ بیلیہ سہ بیترہ
سہ آسہ تم ساری سوہراوس پیٹھ تہ قادر -

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنَّ
يَسْأَلُهُ يُخَيِّتُمْ عَلَىٰ قَلْبِكُمْ ۖ وَيَمُحُ اللَّهُ
الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ۖ إِنَّهُ
عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۲۵﴾

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَن عِبَادِهِ ۖ
يَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿۲۶﴾

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ۖ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ
عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿۲۷﴾

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَا فِي
الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ
بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿۲۸﴾

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مَن بَعْدَ مَا
قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ ۚ وَهُوَ الْوَلِيُّ
الْحَمِيدُ ﴿۲۹﴾

وَمِن آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَ
فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا
يَسَّاءٌ قَدِيرٌ ﴿۳۰﴾

وَمَا آصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبْتُمْ
أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴿۵۱﴾

بیسے پرچہ کا ہنہ مصیبت میں تو ہر واہر و سہ چہ
تہندو اعلو ہند موکو آسان تہ اللہ (تعالے) چہ
تہندو واریاہ تفسیر معاف کران۔

وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ
مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿۵۲﴾

بیسے تو ہی بیکیوں تہ (اللہ تعالیٰ تہندین ارادون
منز) زمیتہ پیٹھ کتہ جلیہ تہ ناکام کڑتہ تہ اللہ
(تعالے) ہس ورائی چھونہ توہر کا شہ پناہ دہہ
وول تہ نہ چھ کا شہ تہند اتھ روٹ کرن وول۔
بیسے تہندو نشانو منتر چہ مہارن ہندو پانگی
سمندر منتر پکونہ ناو (یعنی ہم زن سہما تہنہ
تہنہ چھید آسان)۔

وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿۵۳﴾

إِنْ يَشَاءُ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِبَ
عَلَى ظَهْرِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ
صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿۵۴﴾

تہ اگر سہ بیٹھ تہ وائس ٹھہرو تہ تم گڑھن
سمندر کس آس پیٹھ کتہ (اُکسے جلیہ) روزتہ
اتھ منتر چہ پرچہ صبر کرن وائس تہ قدر
زانن وائس رکو نشانہ۔

أَوْ يُوقِفَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ
كَثِيرٍ ﴿۵۵﴾

یا اگر سہ بیٹھ تہ ناو (والین) کر تہندو اعلو
ہند باعشہ ہلک بیسے چہ سہ واریاہ گوناہ معاف
کران۔

وَتَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا
لَهُمْ مِنْ مَخْرَجٍ ﴿۵۶﴾

تہ سہ چہ تمہن لوکن زانان ہم سانہن نشان منتر
بخت کران چہ۔ تہند خاٹھ چھنہ تہ پچ کتہو جاسے۔

فَمَا أَوْتَيْنَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَنْفُسُ
الَّذِينَ أَمْنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿۵۷﴾

بیسے بی کینترھا توہر دنہ امت چھو سہ چہ سپارچہ
زندگی ہند سامانہ تہ یہ (کینترھا) اللہ (تعالے)
ہس نش چہ سہ چہ مؤمن تہ پشعش پروردگار
پیٹھ توکل کرن والہن ہند خاٹھ حادرت تہ جاو
بائے روزن وول۔

وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ كَلِمَةَ الْآثِمِ وَالْ
فَوَاحِشَ وَإِذَا مَا قَضَوْا هُمْ
يَعْفُونَ ﴿۵۸﴾

بیسے (تمہن ہند خاٹھ) ہم گوناہو تہ بدکاری ہنہ
بچان چہ تہ میلہ تمہن ترکھ چھید کھسان تہ تم چہ
معاف کران۔

لہ سانہ زماکو بگری جہاز چہ امہ آنگ جاو مصداق تمکبانہ تم چہ و پورے تہ پورے بلکہ
تمہ تہ جاو پور وائ آسان تہ سمندر منتر چہ مہارن ہندو پانگی روزنہ لیون۔

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، وَ
مَعَارِفُ لَهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿۳۱﴾

بہ یکم پنشنس رہے ہمنز آواز تہنزل کران چھ تہ
باجماعت نماز چھ پران - بہ ہتہند طریقہ چھ
تہ نہ پٹن پر ہتہ کاتہہ معاملہ چھ پانہ وانی مشورہ
سہو طے کران - تہ یہ کیتہہا اسہ ہمن دیت
مت چھ تہہ منز چھ خرچ کران -

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ
يَنْتَصِرُونَ ﴿۳۲﴾

بہ ییلہ ہمن پیٹہ کاتہہ ظلم سپدان چھ اڈہ تم چھ
بدلہ تہ ہوان (گمہ یہ چھ یاد ہوان) -

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا
وَأَصْلَحَ فَاجْزَاهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الظَّالِمِينَ ﴿۳۳﴾

نہ ہدی ہند بدلہ چھ تہ تہ تہ ہدی آسان، تہ تہس
معاف کر تہ اصلاح تہو نظر تہس تہس آبر دین
چھ اللہ (تعالے) ہس مہ آسان، سہ (اللہ
تعالے) چھنہ ظلمن پسند کران -

وَلَمَنْ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا
عَلَيْهِمْ مِنْ سَيِّئٍ ﴿۳۴﴾

بہ یکم لوگہ پنشنس ذاتس پیٹہ ظلم سپدنہ پر تہ
متاسب بدلہ ہوان چھ ہمن پیٹہ چھنہ کتہ تہسک
اعتراض سپدنہ ہکان -

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ
النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۳۵﴾

اعتراض چھ صرف ہمن لوگن پیٹہ سپدان یکم لوگن
پیٹہ ظلمس (تہ حملس) منز گوڈ چھ کران تہ تہس
منز چھ کتہ حقہ ورائی چھ کران ہوان - ہتہن لوگن
میدہ وگہ وار عذاب -

وَلَمَنْ صَبَرَ وَصَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ
الْأُمُورِ ﴿۳۶﴾

تہ تہ تہ صبر کر تہ معاف کوڈ تہ (تہس) بہ کار
چھ بڑو ہمتہ واپو کارو منز -

وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ دَلِيلٍ مِنْ
بَعْدِهِ، وَتَدْرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا
العَذَابَ يَقُولُونَ هَذَا لِمَنْ كَرِهَ مِنْ
سَيِّئٍ ﴿۳۷﴾

بہ تہس اللہ (تعالے) تہراہ گنہراو تہ سہ
(اللہ تعالے) تراوتہ چھنہ تہس کوہنو مددگار
آستہ ہکان - بہ تہ وچھہکہ ظالم نہ ییلہ تہ
عذاب یوان وچھن تہ وزن نہ کیا یہ عذاب چھ
چھرک تہ چھا کاتہہ تہ بہرہ ؟

وَتَرْهَبُهُمْ تُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِيعَتٍ
مِنَ الذَّلِيلِ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ،
وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ
الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَآهْلِيهِمْ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَّا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي

بہ وچھہکہ تہ نہ تہ بین تہ عذابس برو تہ
کن پیش کر تہ تہ ذلالت کتہ آس تہ کلہ نو مرآتہ
اچھ یوان کن تہاوتہ تلی تہار دچھان تہ مومن
ون نہ اہل خسارہس وائل چھ تہ یکو پیٹہ
زو تہ شرکہ باز تہاوتہ کہ دوہہ خسارہس منز

عَذَابٌ مُّؤْتَمِرٌ ﴿٢١﴾

تراوی - کن داریتھ بوزو! ظالم لاکھ آسن
اکیس قایم روزن واپس عدلیس منتر -
تہ بہن پناہ دینہ والی آسن نہ کنہی یم اللہ (تعالیٰ)
ہس مقابلہ بہن مدد کر تھ ہیکن - تہ بیس
اللہ (تعالیٰ) گمراہ زانان چھ تہس و تہ پیٹھ
انگ چھنہ کنہی تدبیر -

وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُوهُمْ مِّنْ
دُونِ اللَّهِ، وَ مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ
مِن سَبِيلٍ ﴿٢١﴾

لَا تَحْجِبُوا أَلْبَابَكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ
يَوْمٌ لَا مَرَدَ لَهُ مِنَ اللَّهِ، مَا لَكُمْ مِنْ
مَلْجَأٍ بَعْدَ ذَلِكَ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَّكِيرٍ ﴿٢١﴾

توہر دیو پنشن پروردگار ہندس آلوں (تھ پیٹھ
لیک و نان) بواب - امیر بروٹھ نرس و تہ
پسہ بیٹھ اللہ (تعالیٰ) ہس مقابلہ کنہی پھرن وول
چھنہ نہ - تہ وہ ہر آسہ نہ تہنہر خا طہر
کنہی جایہ پناہ تہ تہنہر خا طہر آسہ نہ انکار
تہ کنہی گنجائش -

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ
حَفِظًا، إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاءُ، وَإِنَّا إِذَا
أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرَحَّ بِهَا وَ
لَنْ نُصْنِفَهُمْ سِتْرَهُ، بِمَا قَدَّمْتَ أَيْدِيَهُمْ
فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ﴿٢١﴾

یوہر وے تو پیٹہ تہ ہم روے گردانی کرن تہ،
(کران روزی تن) - اسہ سوزک تہ تہ بہن پیٹھ
را چھدر بناوتھ، تریہ پیٹھ پیٹھ صرف کتھ وانا
فرمن تہ نیلہ اسی زانہہ السانس پستہ طریق
رحمت و اتنا وان چھ تہ تھ پیٹھ پیٹھ سہ خوش
سیدان تہ اگر تہنہر گنہ علم ہنہر باعہر (سانہ
طرف) تس تکلیف وایہ تہ انسان چھ ناشکری
کرن وول بنان - (تہ بروٹھ مین ساری ہنہ
فضلن ہنہ چھ انکار کران) -

يَلْبَسُ مَلَأَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ، يَخْلُقُ
مَا يَشَاءُ، يَهْبِئُ مِمَّنْ يَشَاءُ، إِنَّا نَأْتِيهِمْ
مِّنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ﴿٢١﴾

اللہ (تعالیٰ) سہری خا طہر چھہ زینچ تہ آسمان ہنہ
بادشاہت، سہہ کیترھا بیترھان چھہ تہ چھہ پاؤ
کران دتہ) بیس بیترھان چھہ تس چھہ کورہ ووان -
تہ بیس بیترھان چھہ تس چھہ نیچوکی ووان -
یا چھہ کورہ تہ گزیر رلہ بلہ ووان (یعنے کورہ تہ
چھہ پاؤ سیدان تہ نیچوکی تہ) تہ بیس بیترھان
چھہ تس چھہ لانسہ بناوان - سہہ چھہ بڑ علمہ وول
(تہ) قودرتہ وول -

أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَ إِنثَاً وَ يَجْعَلُ
مِن يَشَاءُ عَاقِبَةً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٢١﴾

بہہ لانسہ انسانہ ستر چھہ یہ حیثیت تہ اللہ (تعالیٰ)

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا

أَوْ مِنْ ذُرَايِ حَجَابٍ أَوْ يُزِيلَ
رُسُوكَ فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ
إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

کرتس سوتی کلام و حیرہ و رائی یا پردس پتو کو کتھ کرنو
ورائی یا امر و رائی زرسوز (تس کن لایکو منز)
رسول (بتاوتھ) یس اتھند حکمہ سوتی یہ کیتڑھا
سہ و نر سو کتھ واتناو۔ سہ چھہ بڑ شاہنہ وول
(تہ) حکمشن ہندز ان وول۔

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا
مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ
وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاءُ
وَمِنْ عِبَادِنَا ذَا نِكَلْتَهُدِي إِلَى صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيمٍ ۝

بہہ پتھہ پٹھو چھہ اسہ تریہ کن پنتہ حکمہ سوتی
کلام نازل کورمت۔ تہ او سکھ تہ زمانان ز کتاب
کیا چیز چھہ تہ او سکھ تہ زمانان ز ایمان کیہا
چیز چھہ۔ اماہ پوز اسہ چھہ اتھہ (چاہنہ و حیرہ) لوز
بنومت۔ تہ دوس چھہ اسی پسنہ بندو منز نہیں
بیزرھان چھہ ہدایت جیس دوان تہ بلا شک تہ
چھہ لکھ سیز و تہ کن انان۔

صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ؕ اِلٰى اللَّهِ تَصِيَّبُ الْاُمُوْرُ ۝

اللہ (تعالیٰ) ہنتر و تہ کن یس تمیک تہ تابک
چھہ تہ آسمان منز چھہ بہہ تمیک تہ یہ زمینہ
منز چھہ۔ بوڑو! سارسے معاملہ چھہ خلیہ ہے
کن گرتھان (لینے ساری نے معاملن ہند گہ ڈ
تہ اند چھہ خلیہ ہندی ہے اتھس منز)۔

سُوْرَةُ الزُّخْرِفِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مَعَ التَّسْمِيَةِ تَسْمَعُونَ آيَةً وَسَبْعَةَ رُكُوْعَاتٍ

سُوْرَةُ زُخْرَفٍ : یہ سُوْرہ چھہ کئی تہ بسم اللہ بہت چھہ اتھ نمٹھ آہہ بہہ جیس ستھ رکوع۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

(بہ جیس) اللہ (تعالیٰ) سُد ناو بہتہ (بران) یس
حدہ رُوس کرم کرن وول (تہ) پھیر ک پھیر ک رجم
کرن وول چھہ۔

سہ بندس سوتی اللہ تعالیٰ ہند کلام کرنی چھہ تریہ طریقہ بیان کرنہ آہتہ لکھ گوو سید سیدو کبر سہ
بندس سوتی کتھ دویم گوو من و رائی حجاب لینے پردس پتو کرنی تہ کئی تھاس یا کشمنس منز لکھ تعبیر طلب
نظارہ ماورہ لان چھہ۔ تہ کس تعبیرس منز چھہ پچھام آسان۔ تریہ منورت چھہیہ یہ ز اللہ تعالیٰ چھہ ملائکہ ہند
دوس پتہ کلام بندس تام واتناوان۔

۱۱۱

۱۱۱ محمدؐ تو مجھ (خدا سے ہند طریقہ چھ پر سوز تازل
سیدمت)۔

وَ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۱۱۱

اسی چھ پیڑ کتاب ہنر درہے ماوان (یعنی پچھن
شہادت کہ پیش کران ایو سہ پنہ مضمون و اسس
گڈتہ بیان کرن واجتہ چھین۔

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُونَ ۱۱۱

اسہ چھین یہ کتاب قرآن بنومت (تہ قرآن تہ) بیٹہ
یس عربی لہ چھ بیٹہ زن تو بہ فکر تری و۔

وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيَّ
حَكِيمٌ ۱۱۱

بہ سہ (یعنی قرآن) چھ ام الکتاب لہ منز تہ اسہ
نش چھ بڑ شاہ وول (تہ) بچہ حکمت وول۔

أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ
كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ ۱۱۱

کیا اسی تزاو وا تو بہ بروٹھ کہہ ذکر (یعنی کتاب) ہند
بیان کرن محض او کئی نہ تو ہی چھو حد درایت تو بہ؟

وَ كَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ ۱۱۱

بہ چھ اسہ بروٹھو ہن قومن منز (تہ) واریاہ
نبی سوزی ہوتی۔

وَ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ
يَسْتَهْزِئُونَ ۱۱۱

تہ ہن نش اوس نہ کا نہ نبی یوان یس نہ ہم
ٹا نہ کران اسکی (تو پتہ تہ سوز اسہ ہن
کن ٹوسی)۔

فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَ مَضَىٰ مَثَلُ
الْأَوَّلِينَ ۱۱۱

بہ اسہ اسی تہند کھوتہ تہ جاو طاقتہ و اول لولک
(انکار کئی) ہلاک کرک ہوتی (او یم ہلاک کرنس منز
کیا مشکل چھ؟) بہ یس لاکن بروٹھ کہہ چھ
بروٹھو ہن لاکن ہندی حالات گڈرے سہ تی۔

وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ
الْاَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ
الْعَلِيْمُ ۱۱۱

بہ اگر تہ ہن پرز رکھ تر آسان تہ زمین کو
چھ پاو کرک ہوتی؟ وچھتہ ہم و ہنے غالب (تہ)
سہہا علم تھون واجتہ ہستی چھ ہم پاو کرک
ہوتی۔

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَ جَعَلَ
لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۱۱۱

تو (ہستی) بیجو زمین تہند خاطر و تھرن بناو
تہ تھہ منز چھن تہند خاطر و تہ بناو نمتر
بیٹہ زن تو ہی ہایت ہوتی۔

لہ قرآن یعنی تہ کتاب یوسہ کثر تہ سان پر نہ یہ "عربیاً" بیبیک فکر ترن سہل آسہ۔
لہ ام الکتاب، یعنی کتابن ہنر موج یعنی بنیادی تہ اصولی کتاب۔

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ
فَانشَرْنَا بِهِ بَلَدًا مَيْتًا كَذَلِكَ
تُخْرَجُونَ ﴿۱۱﴾

تہ تو کو چھ اوپر منبر اگر انداز مطابق آب دولت
پتہ چھن امرو کی کہ سورہ زمین زبند کر مہتریت
پاٹھی جیو تو ہی تہ (زبند کر تھ) کدنیہ۔

وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمُ
مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ﴿۱۲﴾

تہ تو چھ تہندہ خاطر پر پتہ تہسکو جو پاد کر
متر۔ تہ پتہ پاٹھی چھن چار پاہ پاؤ کر کی اسی
بیہ چھن ناؤ بناؤ منبر زمین پتہ تو ہی سوار
سپدان چھو۔

لِيَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا
نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَ
تَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا
وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿۱۳﴾

یلیلہ تو ہی تہن پتہ برقی پاٹھی بہو تہ پتہ کر
پتہس پروردگار سبز نعمت یاد تہ یہ و لو
زریک چھ سہ خلا سیکو اسہ تہن پتہ تہنہ
بختومت چھ۔ حالیکہ اسی بیگہ ہو کہ تہ تہہ
پتہ زور پتہس حکم سہل ایتھ۔

وَأَنَّا إِنَّا رَبَّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴿۱۴﴾

بیہ چھ اسی پڑی پاٹھی کہ وہ پتہس پروردگار
کن واپس گرتھن اول۔

وَجَعَلُوا آلِهَةً مِّنْ عِبَادِهِ جُزْءًا مِّنْ
أَلْهِنَاسَ لِكُفُورٍ مِّمَّنْ ﴿۱۵﴾

(مگر حال چھ یہ نہ) تہو چھ تہندہ (یعنی خدایہ
سند) خاطر تہندہ بندو منبر کہ حصہ (یعنی کور)
تجوڑ کر تھ تھا و منبر۔ انسان چھ بے شک ٹاکار
ناشکری کرن اول۔

أَمْ اتَّخَذَ وَمَا يُخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَكُمْ
بِالْبَنَاتِ ﴿۱۶﴾

(تہن پر تھو تہ سہی نہ) کیا تو بناو یا پتہ
مخلوقا تہ منبر پتہ خاطر کور تہ تو ہر دیت
نوا گبرو سرتی بجزرہ

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ
لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ
كَظِيمٌ ﴿۱۷﴾

بیہ یلیلہ تو اندر کانسہ تہج خبر نہ یوان چھ
پتہ سہ رحمان (خدایس) سہ مران پتہ ادر
تسند پتہ کر بن گرتھان تہ سہ پتہ تکر سرتی
پتہس یوان۔

أَرَمَنْ يُنَشَّؤُا فِي الْحَلِيَةِ وَهُوَ فِي
الْخِصَاءِ غَدِيرٌ مِّمَّنْ ﴿۱۸﴾

کیا سو یوسہ گہن منبر پرتھان چھ تہ نیالیس
منبر چھنہ وہ نہج کتھ برقی پاٹھی باوتھ ہکان

(سو چھا خرابیہ ہندس حسس منفر یوان ؟ تہ
غائب روزن وول مرد پیا انساہ ہندس حسس
منفر ؟)

بیہ جو چھ ملا یک ہم رحمان (خدا یہ) ہندو بندہ
چھ، زناہ گنہ راوی ہستی۔ کیا تم ام سیا تہنہ
پیدا نیشہ ویز موجود ؟ (یود وے یہ کتھ چھیتہ)
تیلہ پیہ ضرور تہنہ شہادت لیکھتہ۔ بیہ پیہ
تمن (قیامت کر وہ ہر) اتھ متعلق پتر ہنہ۔

بیہ چھ تم وناں اگر رحمان (خدا) بیترہ
تیلہ کر ہو نہ اسی تس ورا لی بین معبود ہنہ
عبادت یہ کتھ چھ تم محض انداز لاکتھ ٹر ژمان
وناں۔ تمن چھنہ تمیک حقیقی عالم ہرگز حاصل۔
کیا اسہ چھا تمن بیہ (قرآن) بروٹھ کا نہ
تڑھ کتاب وژ ہنہ (یتھ منفر یہ کتھ لیکھتہ
اسہ ہے) ز تم چھ تمہ کر و سپلہ وپل رمان۔

تڑھ کتھ چھنہ، بلکہ پتر چھ یہ تر تم لاکھ چھ
اتھ کتھ پیٹھ ڈٹھ ز اسہ اسی پنہز جدا جدا
اکس طریقس پیٹھ لہو ہستی تہ اسی گترھو تہنہ
نے پڈر اکھن پیٹھ پکان۔

بیہ (اے رسول!) تریہ بروٹھ سوز نہ اسہ کتہ
بستی منفر رسول ز بیہ ہندی پاٹھو اسہ نہ تہ
کو مالدارو یہ ووتنت ز اسہ اسی پنہز جدا جدا
اکس طریقس پیٹھ لہو ہستی تہ اسی کو تہندی
نے نقش قدم پیٹھ۔

(اتھ پیٹھ) دیت (پر تہ رسولن) جواب ز کیا
یود وے ہر تو بہ نش تمہ نیشہ بہتر تعلیم اپہ یتھ
پیٹھ تو بہ پنہز جدا جدا لہو ہستی اسی و (توتہ روزک
وا تو ہستی پیٹھ ڈٹھ ؟) تہ تو دیت جواب
ز یوہ تعلیم ہتھ تہ سوزنہ آمت چھکھ، اسی چھ تہنگی
سبکر۔

وَجَعَلُوا الْعَذَابَ الَّذِي هُمْ عِبْدُ
الرَّحْمَنِ إِنَاءً أَطْعَمُوا خَلْقَهُمْ
سَكَتَنَ شَهَادَتَهُمْ وَيُسْكَوْنَ ۝

وَقَالُوا الْوَيْحَ الرَّحْمَنِ مَا عَذَبْنَاكُمْ
مَالَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ
إِلَّا يَخْرُصُونَ ۝

أَمْ آتَيْنَهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ هُمْ
بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ۝

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ
وَرِثْنَا آلَهُمْ مُمْتَدُونَ ۝

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي
قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَدُوهُمْ
إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آلِهِمْ
مُمْتَدُونَ ۝

فَلَا يَكُونُ جُنُودًا يَهْدِي وَمَا وَجَدْتُمْ
عَلَيْهِمْ آبَاءَهُمْ كَمَا قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ
كَافِرُونَ ۝

فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ ﴿٢١﴾
 تہ اسر ہیوت بہن انتقام لہذا وچھتہ اپراون والہن
 ہند انجام کیا سپد ؟

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كُنْتُ مِنَ الْغَائِبِينَ ﴿٢٢﴾
 بیہ (یاوو یاد) بیلہ ابراہیمین پینشس ہائس تہ
 پینشس قومس وڈومت اوس نہ بہن (ہستین)
 ہنر توہی عبادت کران چھو بہر چھس بہن ہنش

بے زار۔
 وَإِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيُفْهِدُنِي ﴿٢٣﴾
 تہس (خدا ایس) وراہی سیکو بہر یاد کورمت چھس

تہ سہ دیہ میہ ضرور ہدایت۔
 وَجَعَلْنَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ
 لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٤﴾
 تہ ابراہیمین تراو پانس پتہ بہر تعلیم پسندور یا نہ
 مشر اکہ روزون یادگار، میتھ زن ہم (شکر ہنشتہ)
 بازین۔

بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءَ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ
 جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿٢٥﴾
 پزہر چھہ بہ نہر میہ واتنوو بہن تہ بہندین جہن
 اجدادن دنیایوی فایدہ یوت تام نہ بہن ہنش ہر
 تہ او تہ واش کڈتھ دن وول اکہ رسول تہ او۔

وَكَأَيُّ جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ
 وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ﴿٢٦﴾
 بیہ بیلہ بہن ہنش پزراو تہ تمو وون ہم تہ
 چھینہ محض لوہر و نہ کہتہ تہ اسی چھہ اکی منبکر۔

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ
 مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿٢٧﴾
 بیہ بہ اعتراض تہ کورکھ نہر یہ قرآن کیا نہر سید
 نہر دوہو ہڈو شہرہ مشر کانسہ ہر بس مہنوس
 پیٹھ ہازل ؟

وَأَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّخْتَلَفُونَ
 قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّوَجَاتِهِمْ فِي الْحِيلَةِ
 الذُّبْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
 دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا
 سُخْرِيًّا وَرَحِمْتَ رَبَّكَ خَيْرًا مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٢٨﴾

ہم چھا پانس پروردگار ہنر رحمت باگراوان بہر
 کہتہ پانٹھ ہیکہ سیدتھ ؟ اسر چھہ ہمین دوہان
 دنیایوی زندگی سیدی واٹھ تقون واکر تہندردگار
 سامان باگراور ہتو بہر چھہ تمو مشر کینٹرن پیٹھ
 کینٹرن تھنر دیت مت۔ بیہ بہر کہو تمو مشر
 کینہہ (ہرے) کینٹرن (لوکاپن) حقیر زانن ہوان
 چھہ۔ تہ پانس پروردگار ہنر رحمت چھینہ ہنر
 تہ ساری مال دولتہ کھوتہ لیس تم جمع کران

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ
 مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿٢٧﴾
 تہ سہ دیہ میہ ضرور ہدایت۔

وَجَعَلْنَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ
 لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٤﴾
 تہ ابراہیمین تراو پانس پتہ بہر تعلیم پسندور یا نہ
 مشر اکہ روزون یادگار، میتھ زن ہم (شکر ہنشتہ)
 بازین۔

بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءَ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ
 جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿٢٥﴾
 پزہر چھہ بہ نہر میہ واتنوو بہن تہ بہندین جہن
 اجدادن دنیایوی فایدہ یوت تام نہ بہن ہنش ہر
 تہ او تہ واش کڈتھ دن وول اکہ رسول تہ او۔

وَكَأَيُّ جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ
 وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ﴿٢٦﴾
 بیہ بیلہ بہن ہنش پزراو تہ تمو وون ہم تہ
 چھینہ محض لوہر و نہ کہتہ تہ اسی چھہ اکی منبکر۔

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ
 مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿٢٧﴾
 بیہ بہ اعتراض تہ کورکھ نہر یہ قرآن کیا نہر سید
 نہر دوہو ہڈو شہرہ مشر کانسہ ہر بس مہنوس
 پیٹھ ہازل ؟

لہ یعنی یہ قرآن کیا نہر سید ا کس یتیمس پیٹھ ہازل بہر گوتھ کہہ یا طائف کس
 کانسہ ہر بس رئیس پیٹھ ہازل سیدن۔

چھ -

بيہ ياد دوسے یہ خوف آسہ ہے تہ ز ساری لوکھ سپدن اکی طرف نظر تنید بناو ہوکھ اُسی رحمان (خدايہ) سُن کفر کرن والين لوکن ہندبن گرن ہندک پش تہ ہسیر تہ ایمن پہنٹہ تم کہہہ من، رو پیہ ہسیر۔

وَلَوْ لَا اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً
لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرْ بِالرَّحْمٰنِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ
سُقُفًا مِّنْ فَضْوَةٍ وَّ مَعَارِجَ عَلَيْهَا
يَظْهَرُونَ ﴿٢٧﴾

بيہ تہ ہندبن گرن ہندک دروازہ تہ (بناو ہوکھ رو پیہ ہندک) تہ (بیٹھے پا کھو) تم مجھسترل تحت پوش تہ بین پیٹہ تم ڈکھو دتھ مہسان چھ (تم تہ بناو ہوکھ اُسی رو پیہ ہندک)۔

وَلِيُبَيِّنَ لَهُمْ اٰنْوَابًا وَّ سُرُوْرًا عَلَيْهِمْ
يَتَّكِفُونَ ﴿٢٨﴾

نتر ما بناو ہوکھ (پیم ساری چیز) سوہ تہ ہندک اماہ پوز یہ سورے کیہنہ چھ سیکمہ زندگی ہند سامانہ تہ آخرت (یعنے متتیک آرام) چھ پائین پروردگار ہند فاصلہ مطابق متفقین ہند خاطر خاص کر تھ۔

وَرُحْرُقَانًا وَّ اِنْ كُلَّ ذٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ
الْحٰلِیُوْۤهٖ الدُّنْيَا وَّ الْاٰخِرَةِ وَّ هٰذَا
رَبُّكَ لِلْمُؤْمِنِیْنَ ﴿٢٩﴾

بیہ لیس کاہنہ رحمان (خدايہ) ہند ذکر ہنٹہ پھیرن چھ، اُسی چھن تش پیٹھ اکھ شیطانی خصلتہ وول وجود قالب کران تہ سہ چھ تہ سہ پر پتھ روز ہند سوتو بوج بنان۔

وَمَنْ يَّغْشَ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُفِيْضًا
لَّهٗ سَیْطٰنًا ذَمُوْۤا لَهٗ قَرِیْنًا ﴿٣٠﴾

تہ تم (شیطان) چھ ہنٹن کابل (تہ پز) و تہ ہنٹہ پتھ رٹان گمرام باوجود چھ تم گمانہ کران تہ تم چھ پز و تہ پیٹھ پکان۔

وَاللّٰهُمَّ لِيَصُدُّوْۤنَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ
وَ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهٗمْ مُّہْتَدُوْنَ ﴿٣١﴾

اماہ پوز (یہ چھ متھو وقتس تام سپدن یوت تام بیٹھ انسان زندہ روزان چھ) بیٹھ سہ اسہ پش یوان چھ تہ (سارچے غلط فہمیہ چھیہ دور سپدن تہ سہا چھ دن، ہوان۔ اسے کاش! میہ مغز تہ (اسے شیطان!) تریہ مغز آسہ ہے مشرق پیٹھ مغربس (تام) دور پر۔ اوکئی (سید پانہ انسان ہند شہادتہ سوتو شہادت ز) سہ (یعنے شیطان) چھ سہٹھا ناکارہ سوتو بوج۔

كٰتِبًا اِذَا جَاءَنَا قَالَ بَلَیْتُ بَیِّنِیْ وَ بَیِّنَتِكَ
بُعْدَ الْمَشْرِقَیْنِ فَوَسَّسَ الْقَرِیْنُ ﴿٣٢﴾

تہ (اُسی) ولو تمہ دم ہر انسان ز (بیٹھ لوہر

وَلَنْ يُّنْفَعَكُمْ اَلْیَوْمَ مَا ظَلَمْتُمْ اَنْتُمْ

فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٦٠﴾

ظلم کورمت چھو تہ یہ کتھ ہنکو و تہ توہہ کاتہہ
نفع و اتناوتہ ، تر توہہ تہ تہنتہ دوان وانی چھو
غذائس مشز (پانہ وانی) شریک -

أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ آذَانَهُمْ أَمْ تُبْصِرُ الْبُصْرَ
وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٦١﴾

کیا تہ ہیک ہنا زور بوزناوتہ تہ ائس ہنکو کھا
وتہ تہوتہ ؛ بیہ بیتھے پانٹھ یس ٹاکا ہر گراہی
مشز ہسپتہ آمت اسہ دتس ہنکو کھا تہوتہ تہوتہ ؛
اد اگر اسی تہ تہنتہ دنیاہہ مشز تہوتہ تہ یعنی
وفات دوسے) تو پتہ تہ ہمو اسی تہمتن
ضرور اتقام۔

فَأَمَّا نَذَهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ
مُنتَقِمُونَ ﴿٦٢﴾

یا اسی باوسے تریہ تہ (کیہنہ) ہنیک اسہ تہمتن
سوتی و عہ کورمت چھو۔ (یاد تھو) اسی چھہ تہمتن
پیٹھ پور پانٹھ تھچھہ تھوان۔

أَزْنُوبُكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا
عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ ﴿٦٣﴾

بیہ تہ رٹن ڈری پانٹھ سہ کلام یس تریہ کن
وہی کرہ آمت چھہ تہ کیا تہ تہچھہ سیز و تہ
پیٹھ۔

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُذْعِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْوَعْدِ
عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٦٤﴾

تہ (یہ کلام) چھہ چانہ خاطر تہ شرفک تہ عزتک
موجب تہ چانہ قوم خاطر تہ - بیہ توہہ بیہ
و ضرور تہمتن اعمالن متعلق پرتھہنہ۔

وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ذَسُوفَ
تُحْكَمُونَ ﴿٦٥﴾

بیہ یک رسول اسہ تریہ بروٹھ سوزی تہمتن پرتھہ
کیا اسہ اسار حمان (خدائس) و رانی بین
معبودن ہنر تہ بیہنہ عبادت کرہ یوان اسس
(پستہن کتابن مشز) کتھ تجھرتہ ؟

وَسَقُلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ
رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً
يُعْبَدُونَ ﴿٦٦﴾

تہ اسہ سوزا موسیٰ بیہنہ نشانہ دتھ فرعونس تہ
تہمتن دربارن کن تہ تھو و نیاو (تہمتن ہنر
گرتھتھ) تہ ہر چھس سارہنے عالمن ہندس
پروردگار ہند طرفہ رسول بیہتہ آمت۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ
وَمَلَائِكَةٍ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٧﴾

پتہ بیہر سہ تہمتن نش سانی نشانہ ہتھہ آو۔ تہ
تھو ہنر بوز دتے تہمتن پیٹھ ٹانہ تہوتہ۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا
يَضْحَكُونَ ﴿٦٨﴾

بیہ اسی یس تہ نشانہ تہمتن باوان اسی سولس

وَمَا نُؤْمِنُ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ

أُخِيهِمْ زَادَ أَخَذْتَهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ﴿۳۱﴾

بروتھو میرے بھائی کو تہہ کھوتہ بوڈ آسان تہہ اسہ امسی
تم ہڈلس مفر ڈول تہہ تہہ - تہہ زن تم (پسنہو
بد کارو بشتہ) پتہ پھیرن۔

وَقَالُوا يَا أَيُّهُ الشَّجَرِ اذْمُ لَنَا رَبِّكَ إِنَّمَا
عَهْدُ عِنْدَكَ ۚ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ﴿۳۲﴾

اسہ باوجود امسی تم ہی ڈنک گرتھان تہہ مینا
جو ڈوگرا! پسنس پروردگارس بروٹھو کتہ کر
سارلس حقس مفر، تمس سارکے نے وعدن ہند
واسطہ دتہ، دعا، ایم (وعدہ) تمہ تہہ سستی
کری تہہ چہ (اگر عذاب ڈور گوو) تہہ لبہ لبو امسی
ضرور ہدایت۔

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ
يَنْكُثُونَ ﴿۳۳﴾

اڈ تہہ لبہ لبو امسی تمس نیش عذاب ڈول تہہ تمہ ہوت
سستی وعدہ پھٹراون۔

وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ
أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ
تَجْرِي مِن تَحْتِي ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿۳۴﴾

بیر و تہ فرعون پسنس قومس مفر تہہ پارے
تہہ اے مینا قومہ! کیا مصرج حکومت پھبتا
مینا حقس مفر؟ بیہ کیا ایم ڈریا چھنا مینا
اختیارس تل پکان؟ کیا توہی چھو نا و چھان؟

أَفَأَنْتَ خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَكِينٌ
ذَلَّ بِكَ وَيُؤَيِّنُ ﴿۳۵﴾

کیا بر چھنا تمس شخفہ ہند کھوتہ رت تہہ لبہ لبو
چھ تہہ واش کڈتہ کتہ تہہ پھتہ کڈتہ پکان (کتہ
سے چھ رت)۔

فَلَوْلَا الْقَوِيُّ عَلَيْهِ أَسْوَدَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ
جَاءَ مَعَهُ الْمَلِيكَةُ تُؤَيِّنُ ﴿۳۶﴾

(اڈ اگر سے رت چھ) تہہ لبہ لبو سپدک تس پتہ
سوتہ ہند کڈتہ تہہ نازل یا تس سستی کوہہ آئی
ملک یک ایم تس اڈتہ اڈتہ (تہہ حفاظتہ خاطر)
تہہ تہہ اسہ ہن۔

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاطَاعُوكَ ۗ إِنَّهُمْ كَانُوا
قَوْمًا سَاقِطِينَ ﴿۳۷﴾

اڈ پتہ پتہ ڈول تہہ پسن قوم تہہ تمہ مانی تہہ
کتہ۔ تم لکھ امسی خداوندی عہد پھٹراون واد۔

فَلَمَّا أَسْفُوتَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمُ
فَاعْرَفْنَاهُمْ أَصْحَابِينَ ﴿۳۸﴾

پتہ لبہ لبو تمہ اسہ شرارت کھول تہہ اسہ ہوت
تمس بدلہ تہہ تم ساری چھنا وک آس مفر۔

فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا ۖ وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ﴿۳۹﴾

تہہ اسہ بنا وک تم (اکھ پتہ کن گو مت) افسانہ
بیر بنا وک تم پتہ واپن ہند خاطر اکہ عبرتک
موجب (تہ)۔

بیہ یلیلہ تہ ابن مریم بطور مثال پیش کرنے
یوان چھ تہ بیوں قوم چھ اتھ (کتھ) پیٹھ
کرکیر نادتلن ہوان۔

بیہ بیتہ چھ ونن ہوان زسانی معبود چھا رتی
کہنہ سہ (یعنی عیسیٰ) چھ رت۔ تم چھ پہ کتھ
تریہ بروٹھ کہنہ صرف مجادلہ باچھ کران۔ پزر
چھ یہ نہ اتھ تومس چھ حقس خلاف مجادلہ
لاگنک عادت۔

سہ (یعنی عیسیٰ) تہ اوس صرف اکھ بندہ عیسی
پیٹھ اسہ انعام کورمت اوس تہ سہ اوس بنی اسرائیل
ہند خاطر بطور عبرت بنومت۔

بیہ اگر اسی بیہ تھو تہ توہیہ اندو تہ بناو ہو کہ کینہ
ملیک یم زمینہ منز تمہتر جاہ آباد آسہ ہن۔

بیہ چھ سہ (یعنی قرآن) پیٹھ مہ گر ہند علم عطا
کران۔ لہذا توہی مہ کرو ساعس متعلق شک۔
تہ (اے لوگو!) توہی کرو میانی تابعداری
یہیہ چھینہ سیز و تھ۔

یتھہ حقہ نش دور گزھن وول شخص توہیہ
سیز و تہ ہنہ چھ رت و۔ سہ چھ تہندہ کار دشمن۔

بیہ یلیلہ عیسیٰ (دوہیس بعثتس منسرا) ہنہ بہتہ بیہ۔
تہ سہ ونہ نہ بہ چھس توہیہ نش حکمتہ چہ کتھ
بہتہ امت۔ بیہ چھس او کو امتیہ تن توہیہ
کینہ ترزہ کتھ فکر تاروہو یمن منز توہیہ اتلان
کران چھو، لہذا اللہ (تعالیٰ) سہ تقویٰ پر او۔
بیہ کرو میانی فرمانبرداری۔

اللہ (تعالیٰ) ہے چھ میون تہ پروردگار تہ تہندہ
تہ پروردگار۔ لہذا تہترے عبادت کرو۔ یہیہ
چھینہ سیز و تھ۔

لہذا یہ بوڑھہ لگی تہندہ مخالف دُرک پانہ وائی بیون

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَآ
قَوْمٌ مِّنْهُ يَصْطَلُونَ ﴿۵۱﴾

وَقَالُوا ءِآلِهَتُنَا خَيْرٌ مِّمَّا ضَرَبُوهُ
لَكَ اِلَّا جَدَّاهُ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿۵۲﴾

اِنَّ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ
مَثَلًا لِّبَنِي اِسْرَآءِئِلَ ﴿۵۱﴾

وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي
السَّمٰوٰتِ يَخْلُقُوْنَ ﴿۵۲﴾

وَلَآئِهٖ لَحَلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا
وَآتِخُونَهَا هٰذَا صِرَاطٌ مُّشْتَقِیْمٌ ﴿۵۳﴾

وَلَا یَصْطَلُّکُمْ الشَّیْطٰنُ ۚ اِنَّهٗ لَکُمْ عَدُوٌّ
مُّبِیْنٌ ﴿۵۱﴾

وَلَمَّا جَآءَ عِیْسٰی بِالْبَیِّنٰتِ قَالَ قَدْ جِئْتُکُمْ
بِالْحِکْمَةِ وَالْبُرٰنِ لَکُمْ بَعْضَ الَّذِی
تَخْتَلِفُوْنَ فِیْہِ فَاَتَّقُوا اللّٰهَ وَاطِیْعُوْنَ ﴿۵۲﴾

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ رَبِّیْ وَرَبُّکُمْ فَاَعْبُدُوْهُ ۗ هٰذَا
صِرَاطٌ مُّشْتَقِیْمٌ ﴿۵۳﴾

فَاخْتَلَفَ الْاَخْرَابُ مِنْ بَیْنِہُمْ فَاُوْتِیَ

تَلَّوْنِمْ فَلَمَّا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ
الْيَوْمِ ﴿٧١﴾

بیوں کتھ کر نہ ۔ اِدِ یو لُوکو تَلْم کُوہ ، تہتہ
خاطر چھتہ اکر تکلیف دہن والہ عذاب دُور ہلاکت
مقرر کر نہ آہنتر۔

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ
بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٧٢﴾

تم چھ صرف قیامتس پیارن نیکیک ہنگتہ منگہ
یُن مقدر چھ ۔ امانوز ہمن چھتہ فکر تران۔

أَلَمْ خَلَّأْ يَوْمَئِذٍ بِمَعْشُرٍ
عَدُوٍّ أَلَمْ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٣﴾

واریاہ دوست آسن تمہ دہمہ پانہ وَاذِ اَلْا اُك
ہندک دشمن ، صرف نہ متقی ۔

يُعْبَادُ لِاخْوَفَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ
تَخْذَرُونَ ﴿٧٤﴾

(ہمن ونہ خدا تعالیٰ) اے میانو بندو!
از چھو نہ تمہ بہ کاتہہ خوف بھتہ تہ نہ بیو توہر
گنہہ پتہ مر غلطی ہندس غنس مشر آور نہ۔

الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَ كَانُوا
مُسْلِمِينَ ﴿٧٥﴾

(یم انعام لین وَاذِ آسن تم لُوکھ) یوسا ہن
آسن پیٹھ ایمان اُوکت اوس بیہ بکو فرمانبردارن
ہنر زندگی گُدر آہنتر آس۔

أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَ آزْوَاجُكُمْ
مُخْبِرُونَ ﴿٧٦﴾

(اللہ تعالیٰ ونہ ہمن) توہر تہ تہ تہندک ستر
بُاگ تہ اُترو خوشیہ کران جننس مشر۔

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَ
أَكْوَابٍ وَ فِيهَا مَا كَشَّتْهُنَّ الْأَنْفُسُ
وَ تَلَذَّ الْأَعْيُنُ وَ أَنْتُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٧٧﴾

ہمن بروٹھ کن ہن سہ نہ ہندک لُشکاہ تہ پیالہ
چھپری چھپری اتہہ ۔ تہ اتھ (جننس) مشر یہ
کیشرھا دل بیترھبک تہ اچھ پسند کرناکھ (تہ)
آسہ موجود ۔ بیہ (سیکھ ونہ نہ نہ) توہر گرتھو
ہمیشہ اتھ مشر روزان ۔

وَ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُدْرِكْتُمْوهَا بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٨﴾

تہ یہ آسہ ستر جنت نیکی توہر تہندلو اعمالو
کنو وارث بناونہ بیو ۔

لَكُمْ فِيهَا مَا كَفَيْتُمْ كَثِيرَةً مِنْهَا
تَأْكُلُونَ ﴿٧٩﴾

تہندہ خاطر آسن اتھ اندر نیلہ پاٹھو بیو
موجود یو مشر توہر (حسب عزورت) کھنیو۔

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ
خَالِدُونَ ﴿٨٠﴾

مجرم روزان بے شک جہنمہ کس عذابس مشر
واریاہس کالس۔

لَا يُقَالُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٨١﴾

تہندس عذابس مشر بیہ نہ ہمن تھکھ دہنہ
تہ تم سپدن تھہ مشر ناونہ مید ۔

تہ اسہ کور نہ تمہن پیٹھ ظلم مگر تم اسی پانے
پینہن زون پیٹھ ظلم کران روزان۔

بیہ تم ون آلو۔ ہے مابک! (یعنی جہنمہ کر حاکم!)
چائس پروردگارس پیز ہے نہ اسہ دیہ ہے موت۔
سہ ونیکھ توہی روزو اتھ منز میتہ کال تام۔

(خدا تعالیٰ چھہ ونان) اسی اسی تو ہدیش حق
ہتھ آہتہ امانہ پوز توہیہ منز اسی واریاہ حقس
نغرت کران۔

کیا تمہو لوگو چھا (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھ)
حملہ کرنک کانہہ فاصلہ کورمت ؟ (اگر تڑھ
کتھ چھینہ) تیلہ چھہ اسہ تہ تہنتر تیاہی ہند
فواصلہ کورمت۔

کیا تم چھا یہ گمان کران نہ اسی چھینہ تہنتر ہسہ
کتھ تہ کھتھ مشورہ بوزان؟ یہ کتھ چھینہ، مابک
سانی سوزرتی چھہ تمہن لر بہتھ لیکھان روزان۔
تہ ونکھ نہ اگر رحمان (خدایس) کانہہ نیچو اسی
ہے تہ ہر کر ہ سارک وہے بروٹھ توہنتر عباد۔

آسمان ہند تہ زمینک پروردگار تہ عرشک پروردگار
چھہ تمہو سارک وہے (شرکی بھتو) ہنتر پاک۔

ہیم مشرک بیان کران چھہ۔

لہذا (اے پیغمبر!) تہ تراؤکھ تم نہ گندگی روزان
ہوادوان۔ تہ تھہ وقتس تام روزان بندان یوتام تم
لہن پسنہ عذابک وقت، نیکیک تمہن وعسہ
کرہ امت اوں۔

بیہ سے (خدا) چھہ آسمان تہ زمینہ منز کئے میبود
بیہ چھہ سہ بچہ حکمتہ وول تہ سبھا زنان وول۔

بیہ بچہ برکتہ بخش واجبی چھینہ سہ ہستی یوہ سہ
آسمان تہ زمینہ تہ یہ کثیرتھا بکن درمیان چھہ
تمہن سارک ہنہ منز بادشاہتچ مابک چھینہ تہ

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ
الظَّالِمِينَ ﴿۴۳﴾

وَ نَادَا يٰمَلِكُ لِمَ قِفِض عَلَيْنَا رَبَّنَا
قَالَ لَآئِكُمْ مَا كُنْتُمْ ﴿۴۴﴾

لَقَدْ جِئْتَكُمْ بِالْحَقِّ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ
لِلْحَقِّ كَرِهُونَ ﴿۴۵﴾

أَمْ أَمْرًا مّمَّا أَمَرْنَا مُبْرِمُونَ ﴿۴۶﴾

أَمْ يَخْسِبُونَ أَنَا لَا نَسْمَعُ سَرَّهُمْ
تَجِبُوهُمْ دَبْلٌ وَ رُسُلَنَا لَدَيْهِمْ
يَكْتُبُونَ ﴿۴۷﴾

قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَ لَدٰى قَانَا اَوَّلُ
الْعِبَادِ ﴿۴۸﴾

سُنْحٰن رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ رَبِّ
الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿۴۹﴾

فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَ يَلْعَبُوا حَتّٰى
يُلْقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِى يُوعَدُونَ ﴿۵۰﴾

وَ هُوَ الَّذِى فِى السَّمٰءِ اِلٰهٌ وَ فِى الْاَرْضِ
اِلٰهٌ وَ هُوَ الْحَكِىْمُ الْعَلِىْمُ ﴿۵۱﴾

وَ تَبٰرَكَ الَّذِى لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ
وَ الْاَرْضِ وَ مَا يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا
السَّاعٰةُ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۵۲﴾

قیامتک تعلم چھ صرف تسو حاصل تہ تسو کن
بیو توہی پھیرتھ نہہ۔

تہ بیم لکھ خدایس وراہی بکن آلو دوان چھ تم چھ
شفا کو مالک۔ وول گووئے چھ شفا تکت حق
تھاوان یس پزیرج شہادت دیلہ تہ تم دکا فیرا
چھ (یہ حقیقت) زبر پائو زاتان۔

بہ اگر تہ تم پزیرجک زہ تم کئی چھ یاد کرے
ہو؟ او تم ورن ضرور اللہ (تعالے) ہن،
او کوک چھ تم بر سراوتھ نہہ یوان۔


تہ اسہ چھ لہند (یعنی تس رسولہ ہند) تم توک
قسم! (بیلہ تم و نیاو) اسے میانہ پروردگار
پہ قوم چھ تیمتہ یس پزیرس پیٹھ ایمان چھ نہہ انان۔
او کو (دراو اسہ تس جواب نہ) یمن کر درگزر
تہ صرف آس میتے دعا کران نہ توہہ پیٹھ سپن
خداپہ ہنر سلامتی نازل۔ تہ تیمک نیسہ پہ نتیجہ
نہ تم ہن (حق) زان۔

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ
دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ
وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۳۰﴾

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ
لَيَقُولَنَّ اللَّهُ فَاَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿۳۱﴾

وَقِيلِهِ يَرْبِّ إِن هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا
يُؤْمِنُونَ ﴿۳۲﴾

فَاضْفَحْت عَنْهُمْ وَقُل سَلِّمْ وَسَلِّمْ
يَعْلَمُونَ ﴿۳۳﴾



سورة دخان، یہ سورہ چھ کئی تہ بسم اللہ بہتہ چھ اتھ شہیدہ آہرہ ہسہ چھس تریہ رکوع۔

(ہہ چھس) اللہ (تعالے) سندا ناو ہتھہ (پران) یس
حدہ رؤس کرم کرن وول (تہ) پھیرو پھیرو رم
کرن وول چھ۔

(یہ چھ) حمید تہ مجید (خداپہ ہند طرفہ نازل
سیدمت سولہ)۔

اسو چھ (امر پزیرج نہایت کرنہ خاطر) وانش
گڈتھہ بیان کرن واجنہ کتابہ ہنر درہے کران۔

يَسُو اللّٰهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾

﴿۲﴾

﴿۳﴾

وَالْكِتٰبِ الْمُبِیْنِ ﴿۴﴾

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَّكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿٥٠﴾

دیعے یہ جھن شہادت پر کبہ پیش کران)۔
اسر جھینہ یہ کتاب) اوس برکٹ واجبہ رات منزل
کڑ ہٹا، تہ کیا ز اوس چھ ہمیشہ وتہ اولی ہستین
ہتیا کران روزان۔

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿٥١﴾

اتہ رات منزلہ جھینہ پر چھ حکمتہ واجبہ کتہ
بیان کران یوان۔

أَمْ أَرَأَيْتَ إِذْ أَنْزَلْنَا مُزِيلِينَ ﴿٥٢﴾

پر چھ سہ کتہ نیٹیک اسر پسندہ دربار حکم و ہمت
چھ۔ اوس چھ ہتیس موقعس پیٹھ ہمیشہ رسول
سوزان۔

رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٥٣﴾

یہ چھ چائس پروردگار ہند طرفہ بطور رحمت
آسان۔ سہ چھ سبھا دعا بوزن وول (تہ) دن
ہندک حالات زان وول۔

رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا رَبُّنَا
إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿٥٤﴾

(یعنے) تس پروردگار ہند طرفہ نیس آسمان تہ
زمینہ تہ یہ کیتھہا اتن در میان چھ، تمیک
پروردگار چھ۔ شرط چھ یہ ز تہنہز نبیت
گرتھہ پرتھہ کر پوچ آسوز۔

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ، رَبُّكُمْ
وَدَّبَّ أَبَابِكُمْ الْاَوْلٰئِينَ ﴿٥٥﴾

تس وراہی چھینہ کانہہ معبود، سہ چھ زیندہ کران
تہ ماران تہ چھ۔ سہ چھ تہندہ تہ پروردگار تہ
تہندین بروٹھو بن جان اجوان ہند تہ اوس
پروردگار۔

بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ﴿٥٦﴾

امہ پوز تم چھ شکن آوراوڑ ہتہ (تہ) گندان چھ۔
او کو کر تہ تمہ دیک انتظار نیبہ دوہہ آسمان
پیٹھ اکھ نینہ وانہ وہ ظاہر کرتھہ۔

فَأَنزِلْنَا سَوَاقِي السَّمَاءِ بِدُخَانٍ
مُبِينٍ ﴿٥٧﴾

نیس سارہے لوکن ولہنہ پیہ۔ یہ آسہ دگر دار عذاب۔

يَغْشَى النَّاسَ ، هَذَا آذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٥٨﴾

سہ یعنے سہ زمانہ بیتہ مغز نبی مبعوث سپدان چھ۔ سہ زمانہ چھ رات ہند
پاکو ہدایتہ کر نور، نیشہ محروم آسان۔

سہ بیتہ آس منزل چھ ایٹم کم تہ ایڈ رجون بمن ہند فکر۔ یہ ہند پٹنہ پتہ سارہے فہنہ ہس
منزل چھ د ہے وہ پھالان۔ (منہ)

- ۱۳) رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿۱۳﴾
 (ترجمہ) اے اللہ! ہمارے لئے عذاب کو ہٹا دے، ہم تو ایمان والے ہیں۔
 اسی سبب پروردگار! اسے سانس پروردگار! اسے سانس پروردگار! اسے سانس پروردگار!
- ۱۴) اَتَىٰ لَهُمُ الْبُكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿۱۴﴾
 (ترجمہ) ان کے لئے بکریاں آئی ہیں اور ان کے پاس ایک واضح رسول آیا ہے۔
 اسی سبب پروردگار! اسے سانس پروردگار! اسے سانس پروردگار!
- ۱۵) ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ ﴿۱۵﴾
 (ترجمہ) پھر انہوں نے اس سے الٹ کر دیکھا اور کہا: "یہ تو سیکھنے والا مجنون ہے۔"
 اسی سبب پروردگار! اسے سانس پروردگار! اسے سانس پروردگار!
- ۱۶) إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴿۱۶﴾
 (ترجمہ) ہم عذاب کو ہٹانے والے ہیں، لیکن تم لوگ لوٹنے والے ہو۔
 اسی سبب پروردگار! اسے سانس پروردگار! اسے سانس پروردگار!
- ۱۷) يَوْمَ تَبْطِشُ الْبَطِشَةَ الْكُبْرَىٰ ۗ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ﴿۱۷﴾
 (ترجمہ) اس دن تم بڑی بڑی جھڑپ کرنا شروع کرو گے، ہم تم کو سزا دینے والے ہیں۔
 اسی سبب پروردگار! اسے سانس پروردگار! اسے سانس پروردگار!
- ۱۸) وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴿۱۸﴾
 (ترجمہ) ہم نے پہلے بھی ان کے لئے آزمائشیں بھیجی تھیں اور ان کے پاس ایک نیک رسول آیا تھا۔
 اسی سبب پروردگار! اسے سانس پروردگار! اسے سانس پروردگار!
- ۱۹) أَن أَدَّوْا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ ۖ إِنَّ لَكُمْ رَسُولًا أَمِينًا ﴿۱۹﴾
 (ترجمہ) کیا تم ان لوگوں کو میرے پاس لائے گے جو اللہ کے بند ہیں؟ تم لوگوں کے لئے ایک نیک رسول ہے۔
 اسی سبب پروردگار! اسے سانس پروردگار! اسے سانس پروردگار!
- ۲۰) وَ أَنْ لَّا تَعْلُوا عَلَيَّ ۗ اللَّهُ يَرْفَعُ رِجْلَكُمْ ۖ يَسْطُرُ لَكُمْ يُسْرَٰئِيلَ ﴿۲۰﴾
 (ترجمہ) اور تم میرے خلاف نہ اٹھو، اللہ تم کو اٹھائے گا اور تم کو سزا دے گا۔
 اسی سبب پروردگار! اسے سانس پروردگار! اسے سانس پروردگار!
- ۲۱) وَإِن مِّن مَّلَأَةٍ يَرْفِقُونَ ۖ وَأَرْسِلُكُمْ أَن تَرْجُمُونَ ﴿۲۱﴾
 (ترجمہ) اور اگر کوئی گنہگار ہو، میں اس کے لئے ایک گنہگار بھیج دوں گا اور تم کو سزا دے دوں گا۔
 اسی سبب پروردگار! اسے سانس پروردگار! اسے سانس پروردگار!
- ۲۲) وَإِن لَّمْ تُوْمِنُوا لِي فَاغْتَبِلُوا ﴿۲۲﴾
 (ترجمہ) اگر تم مجھ کو نہیں مانتے، تو میری چیزیں خرید لو۔
 اسی سبب پروردگار! اسے سانس پروردگار! اسے سانس پروردگار!
- ۲۳) قَدْ عَارَبْتُمْ أَهْلَ هَٰؤُلَاءِ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿۲۳﴾
 (ترجمہ) تم نے ان لوگوں کے لئے تجارت کی ہے، جو گنہگار ہیں۔
 اسی سبب پروردگار! اسے سانس پروردگار! اسے سانس پروردگار!

نس زہ پہ قوم تہ پچھ مجرم۔ (بوزنہ پچھ یوان زہم
ان نہ مینہ پیٹھ ایمان)۔

اد وون (تس خدان) میاڑی بندہ بکھ روش
رات (میہر ملکہ منتر) کڑتھ۔ بیہ تھاو یہ خیال
زہ فرعونہ سند قوم ورک و توہہ پتھ۔

تہ مینگو پیٹھ نیران تراون سمندر پتھ (یعنی مینگو
پیٹھ پکان پکان نیر سمندر نشہ) سہ (یعنی فرعونہ
سند) فوج روز عرق گزمو پتھ۔

تمو (یعنی فرعونہ ہندک قوم) تراوک پانس پتھ
کن واریاہ باغ تہ ناگ۔

تہ زراعتہ واجز زمین تہ سبھا آرام دہن واجز جاہ۔
تہ تڑھہ رتھہ چاہہ یمن منتر تم جاو رتہ پانٹھ روزان
آس۔

یتھہ کتھ سپد، تہ اسہ کور متن سارک نے چہیزن
ہند و اربت اکھ بیاکھ قوم۔

اد نہ وود آسمان متن پیٹھ تہ نہ زمپنہ تہ نہ
آوجن ڈنجر تراونہ۔

بیہ دیت اسہ بنی اسرائیلن رسوا کرن والہ
عذابہ نشہ سجات۔

یس فرعونہ ہند طرفہ متن میلن اوس تہ سہ
(فرعون) اوس سبھا تکبری تہ حد اوس سپہ
درامت۔

بیہ اوس اسہ بنی اسرائیلن تہند زمانہ کین سارک
نے قوم پیٹھ تہندو حالاتو مطابق فقیت ڈر منتر۔

بیہ اوس اسہ متن نقش نشانہ منتر اکھ نشانہ تہند
تہ سوزمت تہند منتر تہند خاطر ہڈ اتھان اوس۔

یکم لوکھ (یعنی مکہ وادی) چہ وکان۔

اسہ چہ صرف اکی لڑ مرن تہ اوس یو نہ بیہ
زندہ کڑتھ استاد کرنہ۔

فَأَسْرِ بِعَبَادِي لَيْلًا إِنَّا كُمْ مُتَّبِعُونَ ﴿١٧﴾

وَإِنَّكَ الْبَخِرَ دَهُوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ
مُغْرَقُونَ ﴿١٨﴾

كَمْ تَرَ كُتُوبًا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٩﴾

وَدُدُّوهُمْ مَقَامًا كَرِيمًا ﴿٢٠﴾

وَلَعَسَآ كَانُوا فِيهَا فُكِهَيْنَ ﴿٢١﴾

كَذَلِكَ نَذَرْنَا لِمَن كَانَ يَأْكُلُ
مِنَ الشَّجَرِ أَنَّا كُنَّا مُنظَرِينَ ﴿٢٢﴾

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ
وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ ﴿٢٣﴾

وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ
مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿٢٤﴾

مِنَ فِرْعَوْنَ إِذْ هُوَ كَانَ
عَالِيًا مِّنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٥﴾

وَلَقَدْ اخْتَرْنَا لَهُمُ عَلَىٰ عِلْمٍ
عَدُوًّا مُّغْتَابًا ﴿٢٦﴾

وَأَتَيْنَاهُمُ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهَا
مُؤْتِنًا ﴿٢٧﴾

إِنَّ هُوَ لَآءَ لَيَقُولُونَ ﴿٢٨﴾

إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَةٌ تَمُنَّا الْأُولَىٰ
وَمَا تَحْنُ بِمُنشَرِينَ ﴿٢٩﴾

اچھا اگر تو ہی پڑی یاد رکھیو تیلہ کاوی توکھ ساڑ
 جدا جدا (دوبارہ بیٹھ دینا پس منتر) اُرتھ۔
 تم جھاڑتی کہو شیخ سدا قوم؟ تو تم لاکھ
 ہم شیخ قوس بروٹھ اسی (تم اسی دنیاوی حالت
 منتر، تو کھوتی ہوتی) اسے کڑی تم ساری ہلاک

تم لاکھ اسی بے شک مجرم۔
 بیہ آسمان تو زمین تو یہ کینترھا، تم منتر باگ
 چھ کوزہ اسے گندان گندان پاؤ۔

اسے کریا یہ ہم صرف کہ دائمی مقصد خاطر پاؤ۔
 ادا پڑ تو منتر چھتہ واریہ زانان۔

تاکھ دہہ چھہ رین سارک ہنے ہند خاطر
 وعدہ دینا آمت وقت۔

بیٹھ دہہ کاتھہ دوست کاتھہ دوہتہ سند حاجت
 پاؤ ہیکہ نہ کڑتھہ تو نہ بیٹھہ، تو اندر کاتھہ
 مدد کرن۔

صرف (بیٹھ تلو مدد کرن) ہمیں پیٹھ اللہ
 (تعالیٰ) رحم کر۔ سہ چھہ غالب تو آتھہ روس
 رحم کرن وول۔
 زقوم کل چھہ بے شک۔

گوند کھار سند کھین۔

پاکو پاٹھو چھہ بد منتر، یس شاکمن منتر ساڑ
 مہتہ تراکو پاٹھو گر نیگہ۔
 بیٹھہ پاٹھو توت آب گر پکان چھہ۔

تو اسی ولا ملا یکن یہ گوند کھار رینون تو جہنم
 منتر باگ تمام نیون یہ کاکھہ۔

پیتہ تراو او اوس کس پیٹھ سہٹھا پہن شتر آب،
 رسیہ بیٹھہ سستی اوس سہت تشرک عذاب

فَاتُوا بِأَبَائِنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۱﴾

أَهْمَ خَيْرُ أُمَّ قَوْمٍ تُبِيهُهُ وَالَّذِينَ مِنْ
 قَبْلِهِمْ أَهْلًا كُنْتُمْ زِلْتُمْ كَانُوا
 مُجْرِمِينَ ﴿۳۲﴾

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا
 بَيْنَهُمَا لِيُبَيِّنَ ﴿۳۳﴾

مَا خَلَقْنَاهُمْ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ
 أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۴﴾

إِنَّ يَوْمَ الْقَضِ وَالْمِقَاتِ هُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۳۵﴾

يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلٍ شَيْئًا وَلَا
 هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۳۶﴾

إِنَّمَا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ
 الرَّحِيمُ ﴿۳۷﴾

إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ ﴿۳۸﴾

طَعَامُ الْآلِئِينَ ﴿۳۹﴾

كَانَ فِيهَا فِي يَمِينٍ فِي الْبَطُونِ ﴿۴۰﴾

كَلْبِي الْحَمِيمِ ﴿۴۱﴾

خَذُوهُ قَاعِيْلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْحَمِيمِ ﴿۴۲﴾

ثُمَّ صَبُّوا نَوْقَ رَائِيهِ مِنْ عَذَابِ
 الْحَمِيمِ ﴿۴۳﴾

ذُنِّي ۱۱ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ۱۱

واپس -
(بیہرۃ نوزائیس شخصس) ترہ بیہ عذاب ، ترہ
اوسکھ (پستہ نیاید) غالب (ترہ) عزتہ وول -
(بیہرۃ نوزائیس) بیہ ہے ترہ چھہ بیہہ کر حقہ ترہہ
شک کران اوسو -
منتقی روزن یقینا اوس اوسہ واجبہ جایہ -

إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ۱۱

یعنی باعین ترہ نامن اندر -

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ آمِنٍ ۱۲

فِي جَنَّةٍ ذَوَّابٍ ۱۲

تم لائن نامی زابوح رہشتم ترہ پرزلون موٹ
پوٹ ترہ اگھ اوس کن بھتہ کر تھہ اوس بہتہ -

يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَ اسْتَبْرَقٍ

مُتَطَهَّرِينَ ۱۳

(سندس اوس) ترہ اوسو موٹ نامن سترہ باجین ہند
کبو ویکھہ ویکھہ کاچہ اچھہ واجبہ زمانہ -
تم منگہ ناون نامن جین اندر پر تھہ تمہوکر میو
ترہ اوسہ سان گڈارن (زندگی) -

كَذَلِكَ تَدْرَأُونَ فِي حُورٍ عِينٍ ۱۴

يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ ۱۵

نامن پیہہ ترہ نامن (جنت) منز کا نہہ موت ،
گھوڈوکر موتہ وراہی (سین اآخر ترہ چہرہ زندگی برٹھہ
آمت چھکھ) ترہ اللہ (تعالی) بچاؤ نامن جہنم
کہ عذابہ ہنتہ -

لَا يَدْخُلُونَ فِيهَا الْمَوْتُ إِلَّا الْعَوَاثِمُ

الْأُولَى بَرَدَتْ لَهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۱۶

یہ اوسہ چانس پروردگار ہند طرفہ نغندہ کنہہ (ترہ ترہ
حقہ کس منورس منز) ترہ بیہ پھیہ اگھ سپٹھا برٹھہ
کامیابی -

تَضَلَّوْنَ رَبِّكَ ؕ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ

الْعَظِيمُ ۱۷


او بوزہ اوسہ چھہ بیہ قرآن چاند زبانی منز سہل کر تھہ
تا نزل کو رومت - سیتہ زن بیم لکھ (عربہ اولی)
نصیبت رن -

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ

يَتَذَكَّرُونَ ۱۸

او کو ترہ ترہ پیار انجامس (ترہ) تم ترہ پیارن -

فَازْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَدِّبُونَ ۱۹



سُورَةُ الْجَاثِيَةِ - یہ سُورہ چھ کئی تہ بسم اللہ ہتھ چھ اتھ ارتزہ آیہ بیہ چھس ترور رکوع۔

يَسْمُو اللّٰهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

(پر چھس) اللہ (تعالے) سُنَد ناو ہتھ (پران) میس
حد رُوس کرم کرن (تہ) چھری چھری رحم کرن
وول چھ۔

خَم ①

حمید (تہ) مجید (خدا چھ یہ سُورہ نازل کرن دول)۔
یہ کتاب چھید غائب تہ حکمتہ وایس اللہ (تعالے)
سندِ طرفہ نازل کرنہ آمیز۔

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ
الْحَكِيْمِ ②

آسمان تہ زمینہ مشر چھ مونہن ہندہ تجا طہر بڑی
نشانہ۔

اِنَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ لَآيٰتٍ
لِّمُؤْمِنِيْنَ ③

بیہ تھے پاٹھی تھنہز پیدائیشہ منز تہ بیہ تھے مشر
یہ سہ (اللہ تعالے) زو وارتو مشر (زمینہ منز)
چھالوان چھ، پتھ کرن والہ قومہ باپتھ چھ نشانہ۔
تہ راتر ہندس تہ دیکس ہتھ بروٹھ پتھس منز تہ بیہ
یہ اللہ (تعالے) ہن بزنگ موجب آب اوبہر
مشر وولمت چھ پتھ چھن تمہ سستی زہین مسرہ
پتھ زہند کرمشر (تھہ منز تہ)، تہ واو ترھن
ہندس اور یور پکن ولس منز تہ چھ عقلم والہ قومہ
باپتھ سپٹھا نشانہ۔

وَ فِي خَلْقِكُمْ وَاٰتِيَّتْ مِنْ دَآبِّتِمْ اَيْتٌ
لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ ④

وَ اٰخِيَارِ الْاٰيٰتِ الْفٰرِغَةِ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ
مِنَ السَّمٰءِ مِنْ رِزْقٍ فَاَخِيْنَا بِوَالِ الْاَرْضِ
بَعْدَ مَوْتِهَا وَ تَضْرِيْفِ الرِّيْحِ اَيْتٌ
لِّقَوْمٍ يَتَعَلَّقُوْنَ ⑤

یم ساری چھ اللہ (تعالے) ہندہ نشانہ ہم
اُسکی پور پزہر سان تریہ بروٹھ کنہ بیان کرن چھ۔
اد (وڈ تو تہ) اللہ (تعالے) تہ تمکو ہندہ نشانہ
پتھ کتھہ چھیرس پیٹھ انن ہم ایمان۔

بَلٰتْ اَيْتٌ اللّٰهُ تَعَلَّقُوْهَا عَلٰنِكَ بِالْحَقِّ
قِيَامِيْ حَدِيْثٌ بَعْدَ اللّٰهِ وَ اَيْتِہ
يُؤْمِنُوْنَ ⑥

پر ہتھ اپز یارس تہ گونہ کارس کیت چھ عذاب مقدرہ
یس تم آہہ بوزان چھ ہم تس بروٹھ کنہ
بیان کرنہ یوان چھ، پتھ چھ منکبر سان
پتھہ پر ہتھ کتھہ پیٹھ دُبتھہ روزان، زنتہ تمکو خدایہ

وَ نِيْلٌ لِّكُلِّ اَفَّاكٍ اٰيٰتِہ ⑦

يَسْمَعُ اَيْتٌ اللّٰهُ تُشَلُّ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصَوِّرُ
مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا ۚ فَتَبَشِّرْهُ
بِعَذَابِ الْاَلِيْمِ ⑧

سندى نشانہ بوزى تہ۔ لہذا بیچس شخصس و تہ
 وگہ وار غذا پنج خبر۔

بیسے نیلے سہ شخصس سانہو نشانو مشر کا نہ خبرا
 لبان چھ تہ تھہ چھہ سہہ نرمان۔ بیچس لوکن
 واتہ رسوا کرن وول عذاب۔

تمن بروٹھ کنہ چھہ جہنم، تہ تمندى اعمال
 ون تہ تمن کہنی تہ نفع تہ نہ (دیکھ) تم معبود
 (نفع)۔ بيم، تموا اللہ (تعالے) ہس ورايے پراوتہ
 تھا وک ہتر چھہ۔ بیہ واتہ تمن سبھا بوز عذاب۔

یہ چھہ (بوز) ہلایت تہ پو پنسن پروردگار
 ہندین آین ہند کفر کورمت چھہ تمن واتہ پو نلین
 پوزا کرنہ کہ سببہ وگہ وار عذاب۔

اللہ (تعالے) چھہ سے بیجو سمندر تہندس نجدتس
 پیچھہ لاگتہ تھووومت چھہ بیچھہ زن تہندس حکمہ سندو
 تھہ مشر ناوپکن تہ بیچھہ نہ توہی (تمن ہند واسلم)
 تہند فضل نرھا نڈوہی۔ بیہ بیچھہ زن توہی شکر پڑو۔
 بیہ یہ کیشرھا آسمان مشر تہ زمینہ مشر چھہ
 سرسالم چھہ کو تہندس نجدتس پیچھہ لاگتہ تھووومت
 اتھ مشر چھہ سوچن وار قومہ ہاچھہ بڑی نشانہ۔

تہ ون مؤمن نہ بيم لولک اللہ (تعالے) ہندس
 سسرہس کھوثران چھہ تمن کرن معاف۔ تمیک
 نتیچہ خیر پہ نہ خداے دیہ (پانہ) پچس قوس
 تہندس اعمالن ہند جزا۔

یس کا نرٹھا ایمانہ مطابق عمل کران چھہ تمیک فائدہ
 چھہ تو ہندس ہے نروس واتان تہ یس کا نہہ ناکارہ
 کامہ کران چھہ تمیک فو قصلان (تہ) چھہ تو ہندس
 ہے نروس واتان، پتہ بیجو توہی پنسن پروردگار

وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا
 هُزُوًا وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿۱۰﴾

وَمِن ذُرِّيَّتِهِمُ الْجَاهِلُونَ وَالَّذِينَ
 كَفَرُوا شَيْئًا وَلَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ
 اللَّهِ أَوْلِيَاءَ ج وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۱﴾

هَذَا هُدًى ج وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ
 رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رَجْزِ آيَاتِهِ ﴿۱۲﴾

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لِيَجْرِيَ
 الْفُلْكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَ لِيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ
 وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۳﴾

وَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي
 الْأَرْضِ جَمِيعًا وَنُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
 لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۱۴﴾

قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَخْشَوْنَ الَّذِينَ
 لَا يَزُجُونَ آيَاتِ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا
 بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۱۵﴾

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ج وَ مَنْ أَسَاءَ
 فَعَلَيْهَا ز ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿۱۶﴾

لہہ ریحزاً، امیک نلفی معنی چھہ ناپاکی تہ بیچھہ ایس مشر چھہ شرک کرن مراد۔
 لہہ یعنی سمندری تجارت کر تھہ کماوو نفع۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ
وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۱۱﴾

وَأَتَيْنَاهُمُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْأَمْْرِ فَمَا
اِخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ
الْعِلْمُ لَا بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَفْضِلُ
بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ
يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۱﴾

فَمَنْ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيحَةٍ مِنَ الْأَمْْرِ
فَاتَّبَعْنَاهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ
لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۱﴾

إِنَّهُمْ لَنْ يَخُونُوا عَهْدَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْعَاءَ
إِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ﴿۱۱﴾

لَهُ ذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِقَوْمٍ يُؤْتُونَ ﴿۱۱﴾

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ
نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ
سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿۱۱﴾

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ
وَلِيُجْزِيَ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُوَ
لَا يَظْلَمُونَ ﴿۱۱﴾

کون واپس ہنہ۔

بیمہ اس اسم بنی اسرائیلین کتاب تہ حکومت
تہ نبوت بخشا و میتر تہ پاکیزہ چھینو مفر اوکھ
رزق عطا کورمت تہ پستہ زمانہ کہن لوکن پیٹھ
بخشنا و یایہ تمن فغیت۔

بیمہ کزیایہ اسم تمن ٹاکار شریعت عطا تہ بنی
اسرائیل کور تمی وقتہ تنہ مفر اختلاف نیلہ
تمن نش بؤر پور علم (یعنی قرآن) او۔ یہ (انقلاب)
اوس تہنہز پانہ وانی سرکشی ہندہ سنیہ۔ چون
پروردگار کر تمن درمیان قیامتہ کہ دوہ تہنہز
اختلافہ واجہن کتھن متعلق قاصد۔

بیمہ چھکھ اسم تہ شریعتہ کس کس طریقتس پیٹھ
مقرر کورمت لہذا تہ کچھ آتھ پتہ پتہ تہ تمن
لوکن ہزن ٹا ہن پتہ پتہ کچھ ہم علم چھہ
تھاوان۔

تم ہمیکہ نے تہ تریہ اللہ (تعالے) ہس مقابلہ
کہننی فایدہ و اتناوتھہ ، بیمہ چھ فطلم پانہ وانی
اکھ کس پناہ دنہ وانی ، تہ اللہ (تعالے) چھ
مستقین پناہ دنہ وول۔

بیمہ (تعلیم) چھنیہ لوکن ہندہ فطری عقلی دلپہ
تہ پرتھ تھون والہ قومہ ہاپتھ چھنیہ ہدایت تہ
رحمتک باعت۔

کیا بیمہ لوکو بیدہ کروی متر چھنیہ تم چھا خیال
کران نہ اسی دمو تمن مومن تہ ایسا تہ
مطابق عمل کرن والہن ہندہ ہیو درجہ؟ یہتھو
نہ تمن دوہونی ہنز زندگی تہ موت عرصہن برابر؟
تم چھ سپٹھایکھ قاصدہ کران۔

بیمہ اللہ (تعالے) ہن چھ آسمان تہ زمین اکہ
ابدی قولونہ مطابق پاؤ کروی ہوتہ تہ تمیک نتیجہ
نیرہ یہ نہ پرتھ شخصس میلہ تہنہز علمہ مطابق

أَقْرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَ
 أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِهِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ
 وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ عِشْوَةً فَمَن
 يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٧١﴾

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا
 نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ
 وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ
 إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٧٢﴾

وَلَا تَأْتِيهِمْ آيَاتُنَا بِبَيِّنَاتٍ مَّا كَانُوا
 حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتُّخِذُوا بآبَاءِنَا
 إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٧٣﴾

قُلِ اللَّهُ يُخَيِّمُكُمْ ثُمَّ يُؤَيِّنُكُمْ ثُمَّ
 يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ
 وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٤﴾

وَالَّذِي مَلَكَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْيَوْمِ
 تَقْوُمُ السَّاعَةِ يَوْمَئِذٍ يُخَسِّرُ
 الْمُبْطِلُونَ ﴿٧٥﴾

وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْخِلُ
 إِلَىٰ جِثْيَاهَا آلِ يَوْمِ تَجْزَاؤَنَ مَا كُنْتُمْ
 تَعْمَلُونَ ﴿٧٦﴾

جزا تو ہمو مشر پیہ نہ کانبہ پیٹھ ظلم کرنہ۔
 کیا تری چھتہ تن شخصہ ستر حائر پیٹھ تہ
 غور کرمت بیٹو پنن نفسانی ٹھاش پین معبود
 بنومت چھ ؟ بیہ چھ اللہ (تعالے) ہن سہ
 پننس اکمل علمہ چہ نبیا ز پیٹھ گراہ قرار و سیمت تہ
 تسنیدن کنن تہ تہندس ولس پیٹھ چھن مو ہر گمبش
 تہ تسنیدن اچھن پیٹھ چھن پر و تر و مت، اُخر و و فی
 کس بیٹک ش اللہ (تعالے) سہنہ (امیر فاصلہ)
 پیٹھ ہلایت و تھ ؟ کیا تو ہی چھونا نصحت زمان ؟
 بیہ چھ ہم و نان نہ تیبی و دنیا وچ زندگی چھنہ سانہ
 خاطر مقدر، بیہ زندگی گدراوان مروا سہ، تہ
 امیر کے لطف تھلان روز و اسی زندہ تہ زمانے
 چھ اسہ (پسینہ اثر سہتی) ہلاک کران اماہ پوز
 بہن چھنہ امیر کتھ ہند کتھز علم، تم چھ صرف
 خیالی کتھ کران۔

بیہ سیلہ بہن سانی ٹاکار آہ پوز ناوہ یوان
 چھ تہ تہند چھنہ امیر سوانی کانہہ جواب آسان
 نہ ہم چھ و نان نہ اگر تو ہی پوز یارک چھوتہ سانی
 جہاد تہ اذی توکھ (زندہ کر تھ)۔

تہ و نکھ نہ اللہ (تعالے) ہے چھ تو ہر زندہ
 کران پیٹھ (سے) مارو تو ہر، پیٹھ روز و وسے
 تو ہر تیا متہ کس وہ ہس تمام سہنہ بران۔ (تہ) تھ
 اندر چھنہ کانہہ تنک۔ اماہ پوز واریاہ لاکھ چھنہ
 امیک علم تھوان۔

تہ آسمان ہنر تہ زمینچ پاشامی چھنہ اللہ (تعالے)
 ستر ہے۔ تہ تیبہ وز و ہر دن آہنر گم پیہ تہ
 وہ ہر آس اپر و ن والی جاہ خسارس منز۔

بیہ تہ و چھن پر چھ کانہہ امت نہ سہ آسہ
 زمینہ پیٹھ کو طین پیٹھ پتھر پیمبش۔ ہر تہ کانہہ
 قوم پیہ پنن شریعتس کن ناد و تھ انہ۔ تہ

هَذَا كَلْبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ، وَإِنَّا
كُنَّا تَسْتَفْسِفُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۳۰﴾

وہ ہر بیہ تو بہ تہند لو اعمالو مطابق جزا دینہ
(بیہ ولو اسی ، وچھو) یہ چھیہ سانی کتاب
یوسہ تو بہ خلاف پُز پُز شہادت دوان چھیہ
یہ کیتھا تو ہر عمل کران اسی و اسی اسی تہ
بیکھان روزان۔

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ، ذَلِكَ هُوَ
الْقَوْلُ الْمُبِينُ ﴿۳۱﴾

ا د بک لاکھ مومن اسی تہ یونیک عمل کر مینہ
ا س بہن تھو تہند پروردگار سپنس رحمتس
(یعنے تہہ کس سالیس) تل۔ تہ یہہ چھیہ ٹاکار
کامیابی۔

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا ، أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِنِ
تُغَلِّ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ ، وَكُنْتُمْ قَوْمًا
مُجْرِمِينَ ﴿۳۲﴾

بیہ تم لوکھ بک کافر بنے ہتی اسی (تمن بیہ
ونہہ ز) کیا تو بہ اسی و تاہ میانی آیہ پُرتھ
پوز تاونہہ یوان؟ تہ کُرتھ تہ اسی و تو ہی تنبیر
کران ، تہ تو ہی اسی و مجرم تومس منز تھائل
سپرہ ہتی۔

وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ، وَالسَّاعَةُ
لَأَ تَأْتِي فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ
وَأَن تَطُنُّ إِيَّاهُ لَا تَطَنُّ ، وَمَا كَانَ
بِمُسْتَقِيمِينَ ﴿۳۳﴾

بیہ بیلہ تمن یہ ونہہ چھ یوان ز اللہ (تعالے)
سند و علم چھ برحق تہ (دنیہ ، پج) ا آخری
تہا ہی چھیہ ضرور پہنہ و اچھو۔ تھہ منز چھمنہ
کبھی شک ، تہ اتھ پٹھ چھ تم و نان ز اسی
چھتہ زانان قیامت کیا چھتہ چھ؟ اسہ تہ پٹھ
تھہ متعلق یوسہ گما تہ یو۔ تہ اسہ چھتہ تھہ
پٹھ کانہہ پٹھ۔

وَبَدَّلَهُمْ سَيِّئَاتِ مَا عَمِلُوا ، وَإِذَا حَقَّ
يَوْمُهُ ، مَا كَانَ لَأُولِيهِ يَسْتَفْرِزُونَ ﴿۳۴﴾

تہ تمہ وقتہ سپدن تمن پٹھ تہند بن اعمان ہنہ
خرابہہ نینہ ، تہ یمن کتھن پٹھ تم پٹھہ ترمان
اسی (یعنے تمن ہند اسی انکار کران)۔ تم بہن
تمن ولہہ (تہ پُز پُز پٹھ پین تہنزن اچھن
برونٹھ کن)۔

وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسِفْكُمْ كَمَا نَسِفْنَا
لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا ، وَمَا كُمْ مِنَ النَّارِ
وَمَا كُمْ مِنَ الْمُهْرِقِينَ ﴿۳۵﴾

تہ تمن پٹھ و تہ ز از چھو اسہ تو ہی تھہ پٹھ
(مدد و رانی) مُشتر و تھہ تھہ ہتی پٹھ پٹھ
تو بہ نیمہ تہہر ملاقاتک خیل مُشتر و تھہ تھنت
اوسو تہ تہند ٹھکانہ اسہ نار ، تہ کبھی اسہ ہ

تہند مدد کرن وول۔


یہ سپر اوکزی زہ تہہ اسو اللہ (تعالیٰ) ہند
 بنشاد مٹھہ مٹھوکر بابعث بناوکر ہتی تہ دنیا ہچ
 زندگی اوسو تہہ دوکو ویتیت۔ لہذا از نہ تہ
 ین تم امر عذاب منتر کڈنو تہ نہ پیہ تہند
 طرفہ خدایس راضو کربخ کا ہنہ کواستش
 قبول کرن۔

لہذا ساری تعریف چہ اللہ (تعالیٰ) ہندی یس
 آسمان ہند پروردگار چہ تہ زمین ہند پروردگار
 چہ تہ ساری نے عاملن ہند تہ پروردگار چہ۔
 پیہ آسمان تہ زمین منتر چہ سورے بجر تہ
 تم سندی تہ سے چہ غالب (تہ) حکمتہ
 وول۔

ذٰلِكُمْ بِاَنكُمۡ اَتَّخَذْتُمۡ اٰلِهَۃَ هٰۤؤُلَآءِ
 وَعَزَّوَجَلَّ الْحَيُّوۃُ الۡدٰنِيَآءِ قَالِيَۡوۡمَ
 لَا يُخْرَجُوۡنَ مِنْهَا وَاَلَا هُمۡ يُشْتَعۡبُوۡنَ ﴿۷۵﴾

قِيَلِىۡۤ اَلْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ
 الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيۡنَ ﴿۷۶﴾

وَلَهُ الْكِبْرِيَآءُ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ
 وَ هُوَ الْعَزِيۡزُ الْحَكِيۡمُ ﴿۷۷﴾



سورۃ احقاف: یہ سورہ مجھ کی تہ بسم اللہ ہند چہ اتھ شینے ترہ آہ پیہ جس شور کولع۔

(ہر چیس) اللہ (تعالیٰ) سندا ناو ہند (پران)
 یس جہ روس کرم کرن وول (تہ) پھیر پھیر
 رحم کرن وول چہ۔

حمید تہ مجید (خدا چہ یہ سورہ نازل کرن وول)
 یہ کتاب (مجید) چھیلہ اللہ (تعالیٰ) غالب
 تہ حکمتہ واجنہ ہستی ہند طرفہ نازل کرہ آہتر۔

(بیہ چہ سہ زمان ز) اسہ چہنہ آسمان تہ
 زمین بیہ یہ کینرھا تم منتر باگ چہ بلو پاؤ
 کورمت تہ نہ چہ کاہنہ مدت مقرر کرنہ وراپ
 پاؤ کورمت، بیہ تم لوکھ بیواکار کورمت چہ
 تم چہ تمہ کتھ نش ہتھ پھیران یتیم ہتھ، تم
 ہشیار کرنہ آہتر اسی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیۡمِ ﴿۱﴾

حُم ۷۵

تَنْزِیۡلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِیۡزِ
 الْحَكِیۡمِ ﴿۷۵﴾

مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا
 بَیۡنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَ اَجَلٍ مُّسَمًّیۡ
 وَ الَّذِیۡنَ كَفَرُوۡا عَمَّاۤ اُنۡزِلُوۡا مُخۡرِصُوۡنَ ﴿۷۶﴾

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ أَرَأَيْتُمْ مَا ذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ
أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ۚ إِيْتُونِي
بِكُتُبٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ آثَرَةٍ مِّن
عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ①

تَرْوَن (تمن) زرمیہ ولی تو تہ سہی زرمین توہی
خدایس وراہی آلو کران جھو، تمو زرمینہ ہند کس
کس چہنہ چہ پاد کورمت؟ یا آسان یا دہ
کرس منتر جھا تہنہد کا تہہ وکل؟ ہر گاہ توہی
اتھ دعوی ہس منتر پڑا رک جھو تہ برو تہ
گنہ کتاب ہنتر وکیل کڑی تو پیش یا اگر (کا تہہ
کتاب چہنہ تہ) توہی پڑا رک جھو، اتہ کا تہہ
علمی ڈیلے کرو پیش۔

وَمَنْ أَصَلَّ مَعَن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ
مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غٰفِلُونَ ①

بہ نسنہ کھوتہ جاہ و نبرہ ڈولنت کس اسہ ریس اللہ
(تعالے) ہس وراہی تمن (ہستین) آلو کران
چہ یہ قیامتس تام تسد کونہز دعا قبول کر تہ
ہکن نہ بلکہ تم (ہستین) چہنہ تہنہدو دعا ہو
نشر زرمیہ علم۔

وَلَا إِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً
وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِينَ ①

بہ نیلہ لوکھ ڈوبار زندہ کر تہ تلمبہ پن تم دا پڑی
بناوی ہتو معبود آسن تہنہدک تمن بہ کرن
تہنہدس عبادتس انکار۔

وَإِذَا تَثَلَّى عَلَيْهِمْ أُيْتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ
الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا
سِحْرٌ مُّبِينٌ ①

بہ نیلہ تمن ساقی طاکار آپہ بوزناونہ یوان چہ
تہ کفار چہ پڑتج کتہ بوزتہ وان نہ سینیہ چہ
اکھ تہہ وانہ جود (اد اسو کتہ پاکھر مالویہ)؟

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ
فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ
أَعْلَمُ بِمَا تُهَيِّضُونَ فِيهِ ۚ كَفَىٰ بِهِ
شٰهِيْدًا بَيِّنًا وَبَيِّنٰتُكُمْ ۚ وَهُوَ الْغَفُوْرُ
الرَّحِيْمُ ①

کیا تم چھا بہ وان؟ نہ یہ (قرآن) چہ تم
پانی پانے بنومت، تَرْوَن تمن نہ اگر میہ یہ
پانی پانے بنومت چہ تہ (بہ چھس خدایہ بند
سزبات حقار تہ) توہی ہینکو نہ میہ خدایہ بند
عذابہ کہ گنہ حصہ ہنتر تہ بچاوتہ۔ سہ چہ تمہ
کتہ زبر پاٹھ زمانا بہ سمہ توہی بے مطلب کران
روزان جھو۔ سہ چہ توہر تہ میہ منتر پاک
شہادتہ کہ رنگ کافی۔ بہ چہ سہ سہٹا ہنتر بار
تہ چھیری چھیری رحم کرن اول۔

قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَا مَنِ الرُّسُلِ ۚ وَمَا
آذَرَنِي مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا يَكْفُرُ ۚ إِنْ آتَيْتُهُ

تَرْوَن تمن زرمیہ نہ چھس نہ دتیاہس منتر گولڈنیک
رسول۔ (میہ بروٹھ جھو بہ کھی یارسول گذرے

لَا مَا يُؤْتَىٰ لِيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ
مُّبِينٌ ﴿۱۰﴾

موتی) بیہ میں چھتہ پتاہ ز خدا (تعالیٰ) میں
سستی کیا معاملہ کر نہ چیم یہ خبر ز توہر سستی
کیا معاملہ کر؟ یہ تو چھس صرف تمہر و حسیہ
ہنر پاروی کران یوہر سہ پیٹھ تانزل سیدے
مہتر چھینے۔ بیہ ہر چھس اکھ تنہ وانہ ہشیار
کران وول۔

قُلْ آدَاءُ يُتَمُّ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاحِدٌ مِّنْ بَنِي
إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَأَمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ
إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۱﴾

تہر و نکھہ میں وئی تو تہر سہی ز اگر میںا ز وحی خدایہ
سندہ طرفہ اس تہر توہر کورہ تمیک انکار۔ امہ باوجود
ز بنی اسرائیلو منہر چھہ اکھ گواہ (یعنی موسیٰ)
گواہی دتھ گومت۔ ز تہر سہ بیوسے اکھ شخص
سیدہ ظاہر (تہر یہ سیدنا اکھ عجیب کتھ ز سہ
میں بروٹھہ گڈریومت اوس) تمہر تہر اون
ایمان تہر توہر (مہندس زمانس منہر سہ امت
چھہ) چھو تکبرس کام ہوان۔ اللہ (تعالیٰ) چھہ
ظلم کران والہن زہنہ ہر ایچ و تھ ہوان۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُذِيقُنَا آيَاتِهِ
كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ، وَإِذْ لَمْ
يَفْتَدُوا بِهِمْ فَسَيَفْجُرُونَ هَذَا الْفَلَكُ
قَدِيمًا ﴿۱۲﴾

میںہ کفار چھہ مومن وان ز اگر قرآن کا نہہر زہر تعلیم
آسہہ تہر ہم ہومن) ہیکہ ہن تہر ایمان انہس منہر
امہ بروٹھہ نہر تھہ۔ تہر کیا زہر بین انکارن اپٹھہ سہر
تہر ایچ صداقت منہر تم و ن (نامرادی تہر تھہ
منہر میںہ کتھ) ز یہ تہر چھہ اکھ پرون اپہر (میں
برونہم لوکھ تہر حدایس متعلق ونان آہو چھہ)

وَمَنْ قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً
وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا
لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ وَ بَشْرَىٰ
لِّلْمُحْسِنِينَ ﴿۱۳﴾

بوزوسے تہر نیمہ بروٹھہ چھہ موسیٰ ہنہر کتاب
تہر گڈرے مہتر، یوسہر رہنہی کران واجزی تہر اس
تہر رحمت تہر اس۔ تہر یہ (قرآن) چھہ اکھ تہر تھہ
کتاب یوسہر (پانس بروٹھہ ہن کتابن) تصدیق
کران چھینے، بیہ چھینے عربی زہانی منہر صیتہ زک
بیو ظلم کورمت چھہ، تمن کر ہشیار تہر ہم لوکھ
خدایہ حکمہ مطابق کام کران چھہ تمن دہر تھہ تھہر۔
(یعنی) تم لوکھ ہم بہرمان چھہ تہر اللہ (تعالیٰ) ہے
چھہ سون پروردگار پتہر چھہ تم اتھہ دعویٰ اس

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ
اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

يَخْرُتُونَ ﴿۱۴﴾

پیٹھ مغبوطی سان قائم سپدان ادریتھن لوکن
 نہ تہ آسہ کتہ بروٹھ کن سپدان واجہہ کتہ ہند
 خوف تہ نہ آجکھ پتو مہ زمانہ چہر کتہ کوتاہی
 ہند غم۔

بیم لاکھ چہر جنتس گرٹھن واول (تہ) بیم گرٹھن اتھ
 منز پینین پتو مہن اعلمان ہند بدلہ کتہ روزان۔

تہ اسہ مس انسان پننن مائس ماجہ ستر احسان
 کرینج تعلیم ڈر مہتر تہ کیا بڑ تہنر ماجہ اوس
 سہ دوکھ ترابوٹہ شکس منز ستمت تہ پتہ
 اوسن دوکھ و پترتھ تس زرم دیمت تہ سہ
 تلمس تہ دو درواناوس پیٹھ مسس ترہہ

رہتھ لگو ہتو۔ پتہ بیلبہ یہ انسان پسندہ پلور پلور
 جوانی لینے تر تہجہنڈ و ہر ووت تہ تھو وون اے
 میانہ پروردگار! مینہ و اسہ کتہ ہند توفیق
 نہ بہ کر تہ نعمتک شکرانہ ادا یوسہ تریہ مینہ
 پیٹھ تہ میانس مائس ماجہ پیٹھ کر مہتر جتھ۔ بیہ
 (اسہ کتہ ہند تہ دم توفیق) نہ بہ انہ تھو رل
 اعمال بجایم تریہ طار کھتے۔ بیہ میانن اولون
 منز تہ کر نیکی ہنر مبنیاد قائم۔ بہ چھس تریہ
 کن نماں تہ بہ چھس چاہو فرمانبردار بندو
 شہز۔

(بیم لاکھ یہ کرن) تے لاکھ آسن اتھو یہ ہند
 برتر اعمال اسی قبول کرو تہ تہنرو بدیو لشر
 کرو اسی درگذر۔ بیم لاکھ گرٹھن جنتس
 بہر چہر اکھ پوز وعدہ میں ازلہ پیٹھ مولن ستر
 کرنہ یوان چہر۔

بیہ (اکھ چہر) تہیتھ شخص (تہ آسان) میں ننس
 مائس ماجہ ونان چہر، تو مہر پیٹھ افسوس! کیا تو مہر
 چھو مینہ یہ خبر لوختہ پاتھر دوران نہ بہ یہہ
 زندہ کر تھ زمینہ منز کڈتہ؟ تہ ہتہ واد وری

أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا
 جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۵﴾

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا
 حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَ
 حَمَلَهُ وَفَضَلَهُ فَاَلْتَمُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ
 إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً
 قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ
 الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ
 أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ
 لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنَِّّي أَنَا غَافِلٌ
 وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿۱۶﴾

أُولَئِكَ الَّذِينَ تَقَبَّلُ عَنْهُمْ
 أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَتَتَجَاوَزُ عَنْ
 سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّاتِ وَعَدَّ
 الصَّدَقَاتِي كَالْوَدِيِّ كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿۱۷﴾

وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا
 أَتَعْبُدَنِیْ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَيْتِ
 الْكُرُؤُنُ مِنْ قَبْلِي ۚ وَهُمَا يَسْتَخْفِنَانِ
 لِلَّهِ وَيُلَاقِ أَمْنًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۚ

فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ
الْأَوَّلِينَ ⑤

چھ بروٹھ گڈرہیتو (مگر تمہو منتر آونہ کاہنہ
شخص نرنہ گزہتھ) تہ (تمہو سند مول موج)
دونوسے چھ اللہ (تعالیٰ) ہس فریاد کران
وانان - ہو گوبرا ! تریہ کیا گووسے ! خدایس
پٹھ ان ایمان ، اللہ (تعالیٰ) سند وعدہ روز
ضرور پور سپدہتھ - اتھ پٹھ چھ سہ تسن جواب
دوان ، ایم تہ پھہیہ صرف پراہن ہنر کتھ -

پتھی لوکھ چھ میں پٹھ عذاب پٹھ کوئی پور سپز
تھو اتھو منتر یہ تسن بروٹھ گڈرہیتھ پٹھ اد جنو منتر
یا اتھو منتر - تم لوکھ آسوی سٹھ لین والی -

بیسہ تسن سارنہ میلین تہندہ اعمالو مطابق درجہ
تہ یہ سپدہ او کوئی ز اللہ (تعالیٰ) دیہ تسن تہندہ
اعمال ہند پور پور بدلہ تہ تسن پٹھ بیسہ
ظلم کرنہ -

بیسہ بیسہ دوہہ کافر جہتس بروٹھ کون پیش
کرنہ میں (تہ ونہ پٹھ) توہہ چھ دنیا چھ
زندگیہ منتر پٹھ ساری العام موکادی وتی - تہ
دنیا چھ زندگیہ نش بیوت فایدہ تلن او سو سہ چھو
"نہت - او کوئی از بیہ توہہ زمینہ منتر ناحقہ
تکبر کرنہ تہ تافرمانی کرنہ کہ باعتہ رسوایی ہند
عذاب دہنہ -

بیسہ (اسے نبی !) عادن ہند بوسے (ہڈو) تہ کرن
یا دینیلہ تمہو پٹھ قوم احقاف منتر خبر دار کرناوہو

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ
فِي أَمْرِ قَدْ خَلَّكَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ
الْحَيَاتِ وَالْآلَائِسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ⑥
وَ لِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا
وَ لِيُوقَّتَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَ هُمْ لَا
يُظْلَمُونَ ⑦

وَ يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى
النَّارِ أَلْهَبْتُمْ طَيْبَاتِكُمْ فِي
حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَ اسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا
فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا
كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِخَيْرِ
الْحَقِّ وَ بِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ ⑧

وَ اذْكَرْنَا مَا عَادُوا إِذْ أَنْذَرْنَا قَوْمَهُ
بِالْأَحْقَافِ وَ قَدْ خَلَّيْتَ النُّذُرَ مِنْ

لہ احقاف چھ " حقف " لفظک جمع میںیک معنی چھ " سیکہ ہندی ہندک ٹینگ " یہ ناو چھ امر قوم کہ انجاہہ کنز تھوہہ آمت - متہ آسوی تم بروٹھ حضرموت علاقہ چھ سر سبز زمینہ منتر روزان مگر پٹھ کنز قرآن شریفین منتر بیان کرنہ آمت چھ - تسن پٹھ آو اکھ و کوہ طوفان یس سن دنہن تہ سن راترن نام چلون روو تہ تم گئے تباہ (سورة الحاقة ع) تہ تمہ واو طوفانہ کنز گئے تہندس عکس منتر جاہر جاہر سیکہ ہندی ٹینگ پاو - میں تل سہ قوم دو برنہ آو -

تہ اُس (ہودس) بروٹھ تہ اُس کھو یا نبی گذرے
ہو تہ تس پتہ تہ سپدر ظاہر تہ ہمو منفر اوس
پر تہ کانہہ یہ تعلیم دو ان زہ اللہ (تعالیٰ) ہس
ورائی مہ کرو کانہہ ہنز عبادت۔ یہ تھیس توہہ
پٹھ کہ بڑ توکس عذاب کس پیش کھوٹان۔

ہمو نوکو ووتس، کیا تہ تھکا اسہ رش اوے اُس
ز اسہ ڈاکھ پنہو معبودو ہتہ؟ اگر پیہہ کتھ پیہہ
تیلہ نیہہ چیرک تہ اسہ ستر و عدہ کران چھاکہ سہ ان
اسہ نش۔ ہر گاہے تہ پڑ پور چھاکہ۔

(ہودن) دو پکھ زہ پوز علم تہ چھ اللہ (تعالیٰ)
ہس نش۔ تہ یہ تہ تھس صرف سو تعلیم توہہ تام
واتاوان نیسہ کہ واتاویج ذہہ واری خدان میہ
پٹھ تراو ہتر چھید، ووز نووہہ چھس وچیان زہ
توہر چھو اکھ جاہل قوم۔

ادہ نیلہ تہ سندر قوم سہ عذاب اکھ اوہرک پٹھو
پنہن واورین کن بروہنہ یوان وچہ تہ ہمو وون
یہ چھ اکھ اوہرا یس اسہ پٹھ روڈ تراو۔ (اسروون)
یہ چھ سہ (عذاب) یس توہر اول اول مکان اُس و۔
(یہ) چھ اکھ واور (طوفان) یہہ منتر وگہ دار عذاب
کھبتہ چھ۔

یہ واو گزہہ پنہن پروردگار ہندر حکم پر تہ کانہہ
چہر تباہ کران۔ لہذا نتیجہ سید یہ زہ من پنہو او
یہ واو صبح کہ وقتہ تہ تہ کئی زہ صرف تہ ہندر
گرے (اوت) اُس ہوزہ یوان۔ (سورے قوم آو
سکرتل دوبرہ) پتے پٹھو چھ اُس خطا زہ توکس
جزا دو ان۔

تہ اسہ اوس تمن سہ طاقت عطا کورمت یس
طاقت توہہ تہ عطا چھہ کورمت۔ تہ اسہ اُس
تمن تہندر پٹھو کن تہ اچہ تہ دل وئی ہتر
(مگر ہمو تہ ہنیز تہ تہندی پٹھو یمن چہرین

بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَغْبُوا
إِلَّا اللَّهُ إِنَّهُ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ
بُؤْسِ عَظِيمٍ ﴿۱۷﴾

قَالُوا آجِثْنَا لِنَأْفِكَنَا عَنِ الْهَيْئَةِ
قَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ
الصَّادِقِينَ ﴿۱۸﴾

قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِن لَّيُؤْتِكُمْ مَا
أُرِيدُ لَهُ مَا لَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا
تَجَاهِلُونَ ﴿۱۹﴾

فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أُوْدِيِّنِهِمْ
قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّطِرُنَا بَلْ هُوَ
مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ
أَلِيمٌ ﴿۲۰﴾

تَدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا
لَا يُدْرَى إِلَّا مَسَكِنَتُهُمْ كَذَلِكَ تَجْزِي
الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿۲۱﴾

وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ
وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَآفِئَةً
فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ
وَلَا آفِئَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا

يَجْعَدُونَ ۖ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا حَاقَتْ بِهِم مَّا
كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۷۵﴾

کام) او کو تہندو کونہ اچھو تہ ولو دیت
تہ تمن کا نہ نفع تہ کیا ز تم اسی اللہ (تعالیٰ)
سہندن آین انکار کرنس پیٹھ ڈاڈ کر تھ۔ بیہ
یتھ عذابس سہتی تم مٹھٹھ منولہ کران اسی، تکی
ولو تم ترہ نوے وہے طرفو۔

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَ
صَرَفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۷۶﴾

تہ اسر چھ تم بستیہ تہ ہلاک کر کر مشر۔ ہم توہ
اندی ٹیکھو چھو۔ بیہ چھ اسر واش کڈی کڈی
نشانیہ بیان کر ی متو تیتھ زن (تمن آین ہندک
مٹھٹھ) پسنہ آکر ہنترہ بازین۔

فَلَوْلَا نَصَرَهمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن
دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلَّ صَلُّوا
عَنَّهُمْ ۚ وَذَلِكَ لَافْكُهُمْ وَمَا كَانُوا
يَفْتَرُونَ ﴿۷۷﴾

پتہ کیا ز کوز تہ تہند مدو۔ تمو لوکو ہم تمو اللہ
(تعالیٰ) ہس ورا لی او کو مینور بناوکر متو اسی
ز تم نین تمن خدایس نزدیک، ہلکے قوس پیٹھ
گے، تم تمن (یعنی تہنترہ اچھو) ہنترہ غاب تہ یہ
چھ تہند اپریک تہ ہنترہ لاکنگ پیٹھ۔

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْعِجْرِ
يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ ۖ فَلَمَّا حَصَرُّوهُ
قَالُوا آنصتواہ فلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ
قَوْمِهِمْ مُّذَرِّينَ ﴿۷۸﴾

بیہ نیلہ اسر جنو مشر کینہ نظر مچھتھ تہ
کن ازی، ہم قرآن بوز پنج ٹاٹھ تھاوان اسی۔
او نیلہ تم (قرآن خوانی ہنترہ مجاہدہ منتر) حابر
سپر تہ تمو وون اکھ اکیس کن، ترہہ پہ کر و
پتہ نیلہ قرآن پنج تلاوت اند واثر تہ تم گے پنپنس
قوس کن واپس تہ تمن منتر گرتھتھ ہنترہ کھ اسراج
اشاعت کر ڈی۔

قَالُوا لَيْقَوْمًا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن
بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿۷۹﴾

تہ پنپنس قوس وونکھ، اے سانبہ توہہ! اسر پھیہ
اکھ ترہہ کتاب بوز ہنترہ یوسر موسیٰ ہس پتہ تا نزل
کر نہ آمتر چھینہ۔ تہ یہ کتاب امبر بروٹھ ترہہ

لہ اتھ آیس مشر چھ لفظ "جن" استعارہ پاتھر اکیس بنی اسرائیلی وفد مستحق ونہ امت
ییس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنترہ ہنترہ کھ کھو تمن سمکھہ امت اوس تہ تم
اسی ملک عراق کہ "نہسین" علاقہ روزن اول۔ چونکہ تم لوکھ اسی دور پیٹھ آہتے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمکھ ترور ترور تیتھ زن تہند قوم تہ عرب کو لوکھ
تہند دشمن سپدن تہ (فتح البیان جلد ۵ ص ۲۵۵)۔

مشر چھینے، تمہیں چھینے (یہ کتاب) تصدیق کران۔
 چھینے پڑیں کن تہ سینزوتہ کن رہنما کران۔
 اے سائے قومہ! اللہ (تعالے) بندہ طرفہ نو کتاب
 اثن وائس شخصہ سندا کرو قبول تہ تس پیچہ اتر
 اہلان۔ پیچہ نیمہ یہ نہ اللہ (تعالے) کر تہ تہ تہ
 گوناہ معاف تہ قومہ دیو کہ پیہ والہ دگر دار عذابہ
 بشرہ پناہ۔

تہ کس اللہ (تعالے) ہس کن ناد دہنہ والہ ہنر
 کتہ ماتان چھج، سہ ہیکہ نہ تس دلی ہیس مشر
 ہار تاوتھ تہ خدایس ورائی تس پناہ دہنہ والہ وجود
 چھج کئی، بیتہ لوکھ چھج ٹاکار گمراہی مشر آوتھ آسان۔
 تم چھنا وچھان نہ سہ خدایم آسان تہ زمین پاد
 کر کر مٹی چھج تہ سہ تھوکتہ تم پاد کر نہ سوتی ہا سہ
 چھج اتھ پیچہ تہ قادر نہ مہر دگر نہ نہ، سہ چھج پن
 پرتھ کاتھہ ارادہ پور کر س پیچہ قادر۔

ہیہ نیمہ وہہ کافر نارس بروٹھ کن پیش کرتہ پن۔
 تہ ورتہ پیکھ کیا یہ چھنا حق؟ تم دین او او اسہ
 چھج پینس پروردگار ہنر دہے۔ (یہ چھج بلکل
 پوز)۔ او فریاد وکھ (اللہ تعالیٰ)، اچھا تو ہر
 تہ ہو پینہ کفر کر باعشہ عذاب۔

لہذا (اے نبی!) تہ تہ کر (بتھے پاٹھر) صبر
 بیتہ پاٹھر پوزتہ ارادہ والہ رسولو (ترتہ بروٹھ)
 صبر کوزمت چھج، ہیہ تہ تہ خاطر مہ کر یہ دعا
 نہ تمہن پیچہ بینہ اول اول عذاب۔ نیمہ وہہ، تم
 وچہ دہنہ آمت عذاب وچھن تہ تہ تہ حالت گرتھ
 تہ تہ نہ تہ تم بیتہ دنیاہس مشر دہس ساعتس
 کھنڈس رودی ہتی اسی۔ یہ کتھ چھینے (تمہن
 کفارن بند خاطر) محض اک نعیمتہ کتہ ورتہ
 آ مہر تہ فاسق قومہ ورائی پیہ نہ کاتھہ اکھ ہلاک
 کرتہ۔

يَقَوْمًا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ
 يَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيَجْزِلَكُمْ مِنَ
 عَذَابِ آلِيهِ ﴿۳۶﴾


وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ
 فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَنْ يَسْلُكْ فِي سُلُوكِ
 آوَلِيكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿۳۷﴾

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَمَيِّ بِخَلْقِهِنَّ
 يَقْدِرْ عَلَىٰ أَنْ يُخْفِيَ فِي الْمَوْتِ مَن لَّا يَلِيهِ
 عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۳۸﴾

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ
 أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ ؕ قَالُوا بَلَىٰ وَ
 رَبِّنَا ؕ قَالَ فذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا
 كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿۳۹﴾

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ
 الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ ؕ كَالَّذِينَ قَالُوا
 سَاعَةٌ مَّا يُوْعَدُونَ ؕ لَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا
 سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ ؕ بَلَّغْ ؕ قَوْلَ يُهْلِكُ
 إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ ﴿۴۰﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



سورة محمد - يه سورة، چھ مدنی تہ بسم اللہ ہتھ چھانٹھ کتھا جی آیہ بیہ چھیس ژور راکھ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①

(بہر چھیس) اللہ (تعالے) سندرناو ہتھ (پران) بیس حد رؤس کرم کرن وول (تہ) چھیرک چھیرک رحم کرن وول چھ۔
تم لوکھ یو کھس کور تہ اللہ (تعالے) ستر و تہ نشہ کورکھ ٹھک، اللہ (تعالے) ہن کروی تہندری اعمال تباہ۔

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ
أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ②

بیہ کیو ایمان اون تہ ایمانہ مطابق اُنکھ اعمال بجا بیہ یہ محس (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) پیٹھ تازیل سید، تھ پیٹھ او کھ ایمان تہ تی چھ تہندریس پروردگار سندر طرفہ حق۔ اللہ (تعالے) کر تہنزن اُبدین پرد تہ تہندری حالات کر ٹھیک۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ
آمَنُوا بِمَا نَزَّلَ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ
مِنَ رَبِّهِمْ كَفَرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَ
أَصْلَحَ بِأَلْفِهِمْ ③

یہ او کیو کرنہ نہ یو کھس کورمت اوس تم اوس اپڑیح پڑوی کڑ ہتھ تہ یو ایمان اونمت اوس تم اوس سپنس پروردگار سندر طرفہ بینہ و اوس حقس پتہ پکڑ ہتھ۔ اللہ (تعالے) چھ تہ تھ پیٹھ لوکن بروٹھ کتہ تہندری (اہل) حال بیان کران او کیو (پڑانہ) نیلہ توہی کافر ستر جنگس منز مقابلہ سپرو تہ (تہنزن) گردن تہ نیوکہ۔ یوت تام نہ نیلہ توہی تہندریون آرو تہ زور سان پھر لوکھ نرن پتھ کن گتہ۔ امہ پتہ یا تہ (تراو لوکھ تم) احسان کر تھ یا (تراو لوکھ) تاوان جنگ ہتھ یوت تام نہ لڑائی پتھ ہتھار تراو (یعنی ختم کر تھ) یہ سورہ کینہہ چھ حالاتو مطابق سپد مت تہ ہرگاہ اللہ (تعالے) نیٹھ ہے تہ پانے نیہ ہے جن بدلہ۔ اناہ پوز تم یوتھ نہ توہی منز کینشن

ذٰلِكَ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوا اتَّبِعُوا الْبَاطِلَ
وَ اِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ
رَبِّهِمْ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ
اَمْثَالَہُمْ ④

فَاِذَا لَقِيْتُمْ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فَضَرْبِ
الرِّقَابِ، حَتّٰی اِذَا اَتْخَذْتُمْوَهُمْ
فَسُدُّوْا الْوُقُوْعَانَ ؕ فَاِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَاِمَّا
فَدَا ؕ حَتّٰی تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا ؕ فَاِنَّ
ذٰلِكَ نَاوُكُوْا بِشَا ؕ اللّٰهُ لَا يَتَّصِرُ مِنْہُمْ
وَ لٰكِنْ لَّيَبْلُوْا بَغْضَکُمْ بِبَغْضِہٖ
وَ الَّذِيْنَ قُوْلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ
يُضِلَّ اَعْمَالَہُمْ ⑤

آزمائو کیشنرن بند دوسری - ایم لکھ اللہ (تعالے)
ہنر و تر منر ہار گئے . اللہ (تعالے) کر بر نہ پڑھیں
تہندری اعمال ضایع .

سے نیہ تمن ضرور کامیابی کن بیہ کر تہندری
حالات ٹھیک .

بیہ کر تمن تمن جنتن منر دا نخل ایم تمز تمن
برونٹھ پٹھ ہاوتھ تھاوڑ ہتر چھ .

اے مومنو! اگر تو ہی اللہ (تعالے) اس مدد
کرو تہ سے کرو تو ہر مدد تہ تہندری قدم کر
مغبوط .

بیہ یو کفر کورمت چھ، تمن پٹھ چھ (انوس) تہ خدا
کر تہندری اعمال ضایع .

تہ کیا زہتمو چھ اللہ (تعالے) منر نازل کورمت
دکلام، ناپند کورمت . اوے کر کر خداین تہ تہندری
اعمال ضایع .

کیا تم پھیر کر تاہ زمپنس مشریتھ زن نیم و چھ من
زیم لوکھ تمن برونٹھ گدرے ہتر چھ تہندری انجنام
کیا سید؟ اللہ (تعالے) من اوس تمن پٹھ
عذاب نازل کورمت تہ (ازل کین) کا فرسن
ہند تہ آسہ تہندری ہمو حال .

پہ اسپر او کوز) ز اللہ (تعالے) چھ مومنن
ہند مددگار تہ کافرن ہند چھنہ کھنہ اتھ روٹ
کرن وول .

اللہ (تعالے) کر مومنن تہ ایمانہ مطابق عمل
کرن والبن تہتمین باعن منر دا نخل، میں پوزی
کوز نہر کپان آسن تہ یو کفر کورمت چھ تم تلن
کینہہ زونیاوی قاید تہ تہ پٹھ پٹھ کین چین ریتھ
پٹھ کین کھوان چھوان چھ تہ جہنم آسہ تہندری
تھکانہ .

بیہ واریاہ ہستہ آسہ جاہ طاقت و ریمہ چانہ

سَيَهْدِيهِمْ وَيُضِلُّهُمْ بِاللَّهِمْ ①

وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَسَهَا لَهُمْ ②

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنصَرُوا
اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ③

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَخَسَّ لَهُمْ وَ أَضَلَّ
أَعْمَالَهُمْ ④

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَخْبَطَ
أَعْمَالَهُمْ ⑤

أَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ دَقَّرَ
اللَّهُ عَلَيْهِمْ زُلَّةَ الْكُفَرِيِّنَ أَمْثَلُهَا ⑥

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ
أَنَّ الْكُفَرِيِّنَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ⑦

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ
عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا
يَتَمَتَّعُونَ وَ يَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ
الْأَنْعَامُ وَ النَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ⑧

وَ كَاتِبِينَ مِنْ قَبْلِهِ هِيَ أَشَدُّ كُوفًا مِنْ

قَرَّبْتِكَ الَّتِي أَخْرَجْتِكَ مِنْ أَهْلِ كُنُفِهِمْ
فَلَا تَأْصِرْ لَهُمْ ⑩

بُستِ ہند کھوتیہ بیٹھی کر گڑتھ ڈھنگہ۔ اسے کر
تھہ (تہند طاقہ باوڈ) پاک تہ کاٹھ ہونکہ
تہند مدرکار ہنہ۔

أَقَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْتِنَا مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ
ذُوقَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ وَ اتَّبَعُوا
أَهْوَاءَهُمْ ⑪

کیا سہ یس پنس رہہ ہند طرفہ ارس (مقبوط)
دلہ پٹھ قایم آسان جھہ ، ہیکہ تہندک ہاٹھ
اُستہ ہندک بدعمل ، من خوش شکل کرکھ
اوبہ آہو آسن ؟ بیہ یس پنسین خاٹھن پستہ
پکان آسن ؟

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ ، فِيهَا
أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ ، وَأَنْهَارٌ مِنْ
لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ ، وَأَنْهَارٌ مِنْ
خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ، وَأَنْهَارٌ مِنْ
عَسَلٍ مُصَفًّى ، وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ
الثَّمَرَاتِ ، وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ ، كَمَنْ هُوَ
خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَوْسِيًّا
فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ⑫

متقین ستو یمن جنت ہند وعدہ کرتہ اُمت چھ
ہن منز آسن تہرہ کولہ یمن ہند آب ڈن دول
آسہ نہ ۔ بیہ آسن تہرہ کولہ یمن اندر تہتھ دو د
چلان آسہ ہیکہ منز نہ ہنہ بدلہ نہ (یعنی تہرہ بگر
تہ) بیہ آسن تہہ شرابہ چھ کولہ یس چہنہ والہن
لہند لگہ تہ پاک تہ صاف مانجھ کولہ تہ آسن ۔ بیہ
ہن میلن ہن جنت منز پرتھ تہہکو میوہ تہ
بیہ میلہک پنس پروردگار ہند طرفہ مغفرت
تہ کیا یس (جنتی لوکھ) ہیکہ نا ہن لوکن ہندک
ہاٹھ اُستہ یس تہرہ تام نارس منز روزہکر حقلہ
قرار دینہ آہو چھہ ، تہ یمن تہتھ توت رہہ
ہو آب چاو نہ بیہ یس تہندک اُندم تہرہ
تہہنہ ؟

وَمَنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ، حَتَّى إِذَا
خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُذِنُوا
الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ أُولَئِكَ الَّذِينَ
طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَ اتَّبَعُوا
أَهْوَاءَهُمْ ⑬

بیہ تمو اندر چھ کینہہ تہتھو تہ یس ظاہر ہاٹھ تہرہ
کن کن تھوان چھ مگر میلہ تم تہرہ ہن تہتھ
نیران چھہ ، تہ یمن علم دینہ اُمت چھہ ہن چھہ
وَنان ، اُم (رہنوں) کیا سنا و نیاو و نئی ؟ تم لوکھ
چھہ تہتھو یمن ہند دن پٹھ اللہ (قالے) ہن
مہر کر تہ تم چھہ پنسین خاٹھن پتہ دراہو ۔
بیہ تم لوکھ یس زن ہایت بان چھہ ، اللہ (قالے)
چھہ ہن ہایتس منز ہرہ کران گڑھان ۔ تہ ہن
چھہ تہند حالہ مطابق تقویٰ بخشان روزان ۔

وَالَّذِينَ اخْتَدَوْا ذَا دَاهِهِمْ هُدًى وَ
أَنَّهُمْ تَقْتُلُوهُمْ ⑭

اد تم چہ صرف آخری ٹا صلہ چہ گر سپان۔ نہ
سو گرتہ تم نیش و چھان و چھان پتہ۔ اد تم چہ
علا مشرتہ چھینہ نہہ در مشرتہ پتہ پتہ پتہ پتہ پتہ
تم نیش و اتھہ پتہ پتہ (ڈون تن) تمہ وقتہ
کس چیز دیہ تم نفعہ

بہ زان نہ اللہ (تعالے) ہس ورا لی چھنہ کانہ معبود
بہ چاہہ حقہ ہم (چاڈی منکر قوم) گوناہ کڑو کڑو
چہ، تم ہندہ خاطر روز خدایس معافی منگان
بہ روز مؤمن مردان تہ مؤمن زنان ہندہ حقہ
تہ معافی منگان نہ اللہ (تعالے) کزن بہتہ سکر
قصور معاف۔ بہ اللہ (تعالے) چہ تہندہ اور
یور پھیرن تہ گنہ جاہہ طہن زبر پتہ زانان۔
بہ مؤمن چہ زمان نہ (امس پتہ) کیا ز چھنہ
کانہہ پتہ سور تازل سپان (پتہ منز جنگ
حکم آسہ ہے) لہذا پتہ کانہہ پتہ پتہ پتہ
(حکم وول) سور تازل سپان چہ تہ تہ منز
چہ لڑایہ ہندہ ذکر آسان تہ تہ چھانہ و چھان نہ
تم لوکہ پتہ ہندہ دن منز بیمار چھینہ تم چہ
ترتہ کن پتہ نسائہ ہندی پتہ و چھان ہمیں
موتن غش آمت آسہ۔ لہذا تہندہ خاطر چھینہ
(خداہ ہندہ طرفہ) ہلاکت مقدر۔

(تہندہ اصل طریقہ پتہ ہے یہ آسن نہ تم و پتہ
نہ اسہ چھنہ گنہ و تاولی ہنز ضرورت) سادہ نام
تہ چھینہ فرما ہندہ آری کر پتہ، نہہ (لوکن) نیک کتہ
بوز نا نہ۔ پتہ پتہ کتہ پتہ پتہ گرتہ ہے (یعنے
لڑائی و تہ ہے) تہ اگر تم اللہ (تعالے) ہس
برو تہ کتہ پتہ پتہ بہہ ہم (یعنے ہم وعدہ فرما ہندہ
ہندہ کوزمت او سکھ سہ پتہ کر ہم) اد گرتہ ہے
یہ تہندہ خاطر تہ۔

اد کتہ کیا یہ کتہ چھنا نزدیک نہ اگر تو ہر تھر چہرو

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْجِبَهُمْ
بِغَتَّةٍ ۖ فَمَذَّجَاءَ أَشْرَاطِهَا ۚ فَأَنَّى لَهُمْ
إِذَا جَاءَتْهُمْ ذُكْرُهُمْ ۝۱۱

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ
لِذَنبِكَ ۚ وَاللُّمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۚ
وَاللَّهُ يَخْلَعُ مُتَقَلِّبُكُمْ وَمَثُوكُمْ ۝۱۲

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ لَا نُزِّلَتْ
سُورَةٌ ۚ فَإِذَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ ۚ
ذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ ۚ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي
فُلُوقِهِمْ مَّرْصُ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ
الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۚ فَأَوْلَىٰ
لَهُمْ ۝۱۳

طَاعَةً ۚ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ
الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ
خَيْرًا لَهُمْ ۝۱۴

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا

فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿۳۷﴾

تو توہرے سپردو زمینہ منز فساد کرنک باعث
تو آستانو پو ترلو؛

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ
فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ ﴿۳۸﴾

یکے چھو تم لوکھ پین پیٹھ اللہ (تعالے) ہن لعنت
کڑ ہتر چھینے تو تم چھن زری کرک دتو بیہ چھن
تہنزن اچھن انیو ترصنمت۔

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرَاتِ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ
أَتْفَالُهَا ﴿۳۹﴾

او تم چھنا قرآنس پیٹھ غور کران؟ تہندین دن
پیٹھ چھاتھو تلفت بیم تہندین دن ہنرے وہ پتھ
چھینے۔

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِن
بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ ۗ الشَّيْطَانُ
سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمَلَ لَهُمْ ﴿۴۰﴾

تم لوکھ ہم ہدایت تون گزھیند وزیر پھیری شیطان
چھ تہندک اعمال تم شوبناوتھ دتو دتو تہن
چھن (اپز) وہ میسر دیاور مسز۔

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا
مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنَطِينُكُمْ فِي بَعْضِ
الْأُمْرِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارَهُمْ ﴿۴۱﴾

یہ چھ اوے (سیدمت) زہ تم چھو تم لوکن
وان یک خدای تعلیم ناپند ہنر نظر وچھان
چھو زہ اسی کرو کینترن کتھن منز تمہنر اطاعت
تو اللہ (تعالے) چھو تہنر راز داری زانان۔

فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ
يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَآذِبَارَهُمْ ﴿۴۲﴾

ادوئی تو تہ وقتہ کیاہ حال آسہ نیلہ ملایک جن
روح تبھن کران آسن (تہ) تہندین بچھن تہ
تہننر تھن پیٹھ ڈپر نکاوان آسن۔

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُم اتَّبَعُوا مَا آسَخَطَ اللَّهُ
وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴿۴۳﴾

یہ سپد او کئی تر پوسہ کتھ اللہ (تعالے) ہن
ناپند کڑ ہم درایہ تھ پتھ پتھ تہ خدایہ سند
رضا (ترحاندن) کورکھ ناپند او کئی کرک خدان
تہ تہندک اعمال ضایع۔

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن
لَنْ يُخْرِجَهُ اللَّهُ أَضْعَافًا ثَمَثًا ﴿۴۴﴾

تم لوکھ مہندین دن منز مرض چھ کیا تم چھایہ
خیال کران زہ اللہ (تعالے) کڑ تہ تہندین دن
ہندک پوشیدہ کپنہ زہ نیپہ نئی؟

وَلَوْ نَشَاءُ لَوَدَّ بَيْنَكُمْ فَلَاعَرَفْتَهُمْ
بِسِيمَتِهِمْ ۗ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ﴿۴۵﴾

تہ ہرگاہ اسی ہنر شو تہند وجود کڈو تہ پیٹھ
نون تہ تر پر ہرناو ہکھ تم تہندو بچھو تہ بیہ
تر چھہکھ ہم (دوئی تہ) تہند کتھ کر تہ تہ

سہ یعنی تہندین دن چھ اللہ تعالیٰ ہن تلفت دتو ہکھ تم چھ تہنر بلحا سستی پانے یاد کاتو۔

پر بزرگانوں تہ اللہ (تعالیٰ) چھ تہندگی اعمال
زنان۔

بیہ کسی کرو ضرور تہندگی آرمایش توت تمام زانی
زانیہ توہر منتر خدایہ سنز و تہ منتر جہاد کرن
والی تہ مہر کرن والی تہ کسی کرو تہندگی اندرین
حالاتن ہنر آرمایش ضرور۔

یہ لوگو کفر کورمت چھ تہ اللہ (تعالیٰ) سنز و تہ
ہنر چھ (لوگن) ٹھکاناوان بیہ چھ ہدایت نون
گرتھن پتہ رسوس سستی اختلاف کران۔ یہ کم
لوگ و اتناون تہ اللہ (تعالیٰ) ہس کہنی تہ توہن
بلکہ سہ (اللہ تعالیٰ) کر تہندگی اعمال ضایع۔

اسے ایمان دارو ! اللہ (تعالیٰ) تہ تمکو ہندس
رسولہ سنز فرمانبر داری کرو تہ پنہر اعمال ضایع
مہ کرو۔

بلانک یہو کفر کورمت چھ تہ اللہ (تعالیٰ)
سنز و تہ ہنر چھ لوگ ٹھکاناوان ہنر۔ بہ تہ
موسے تہ تم اتھو حاس منتر زہم کسی کافر
منتر۔ اد اللہ (تعالیٰ) کر تہ ہنر زہن ہنر
لہذا اسے مومنو! کم ہمت تہ سہل نہ ہنر
کوز (توہر) صلح کرئس کن آلو کرن ہنر۔ آہر
رؤزو توہر غالب تہ اللہ (تعالیٰ) چھ تہ ہنر
سستی تہ سہ و تہ نہ نہ ہنر تہندگی اعمال منتر
چھ ہنر ہنر۔

یہ دنیاوی زندگی چھہ صرف اکہ تہ تہ تہنگ
سامانہ۔ تہ اگر توہر ایمان الو تہ تقویٰ پر او
تہیلہ دیو اللہ (تعالیٰ) توہر تہندگی اجر تہ
سہ چھہ تہندی مال توہر منگان۔

بیہ اگر سہ توہر تہندگی مال منگہ تہ توہر کرو
(تہ پیٹہ) ڈاڈ۔ تہ توہر ہنر کسجو کسی تمام
ہنر، تہ سہ کر ضرور تہندگی دلو منتر تہندگی کہنہ۔

وَلْتَبْلُوْا نَفْسَكُمْ حَتَّىٰ تَعْلَمَ الْمُجْهِدِيْنَ
مِنْكُمْ وَ الصَّابِرِيْنَ ۙ وَ تَبْلُوْا
اَحْبَابَكُمْ ﴿۳۷﴾

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ صَدَّوْا عَنِ سَبِيْلِ
اللّٰهِ وَ شَاقَّوْا الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا
تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى ۙ كُنْ يَضُرُّوْا اللّٰهَ
شَيْئًا وَ سَيُخَيِّطُ اَعْمَالَهُمْ ﴿۳۷﴾

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَ
اطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَ لَا تَبْطُلُوْا اَعْمَالَكُمْ ﴿۳۸﴾

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ صَدَّوْا عَنِ سَبِيْلِ
اللّٰهِ ثُمَّ مَا تُوْا ۙ هُمْ كَفٰرٌ فَلَنْ يَّغْفِرَ
اللّٰهُ لَهُمْ ﴿۳۹﴾


فَلَا تَهِنُوْا وَ تَدْعُوْا اِلَى السَّلٰمِ ۗ وَ
اَنْتُمْ اِلَآءُكُمْ ۗ وَ اللّٰهُ مَعَكُمْ وَ كُنْ
يَنْتَرِكُمْ اَعْمَالَكُمْ ﴿۴۰﴾

إِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ ۙ وَ اِن
تُؤْمِنُوْا وَ تَتَّقُوْا يُؤْتِكُمْ اُجُوْرَكُمْ وَ
لَا يَسْئَلْكُمْ اَمْوَالَكُمْ ﴿۴۱﴾

اِنْ يَسْئَلْكُمْوَهَا فَيُخَفِّكُمْ تَبٰخَلُوْا ۙ
يُخْرِجْ اَضْعَانَكُمْ ﴿۴۲﴾

بوزو! توہی چھو، تم لاکھ بچن امر ٹاٹھ ناو کر تہ
 یوان بیٹھ ز توہی کرؤ اللہ (تعالیٰ) سبز
 و تہ خر تہج بیہ تہ ہب مشر چھ کینہ تہ تہمی تہ آسان
 یکم بجلی کٹام، ہوان بھو تہ یس تہ بجلی کٹام
 ہسبہ سہ بچہ پننی زور کر تہ تہ بجلی کٹام، ہوان
 شہر چھ اللہ (تعالیٰ) بے نیاز تہ توہی چھو
 محتاج۔ بیہ اگر توہی چھیر تہ مشر تہ سہ از
 تہ بند بدل بیا کہ قوم تہ تم آسن ز تہ بند
 پاٹھ (کابل)۔

هَآئِنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُغْفِقُوا فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ ۚ وَمَنْ
 يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَنِ نَفْسِهِ ۗ وَاللَّهُ
 الْغَنِيُّ ۗ وَأَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ ۗ وَإِن كُنْتُمْ لَوَآءِ
 يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَتُمْ لَآ
 يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ﴿٥٦﴾



سورة فتح : یہ سورہ چھ مدنی تہ اتھ چھ ترہ آبیہ بیہ چھس ترور رکوع۔

(ہر چھس) اللہ (تعالیٰ) سُنڈ ناو ہتھ (پران) یس
 حد روں کرم کرن دول (تہ) چھیر چھیر رم
 کرن دول چھ۔

اسر پچھ تریہ اکھ ٹاکاہ فتح۔ پختہ پختہ۔

تیمیک تہجہ پہ آسہ ز اللہ (تعالیٰ) کر ورن
 تریہ متعلق کرنہ آمتن متن گوہ ہن تہ یکم
 بروٹھ گڈرے ہتھ چھ تہ یکم از تام چھیر
 سپدے ہتھ (مگر بروٹھ کن سپدک امکان
 چھ) متن تہ کر ورن تہ تریہ پیٹھ کر پتھ نعت
 پوڑ تہ تریہ لوی سیز و تھ۔

بیہ اللہ (تعالیٰ) کری تریہ شاندار مدد۔

سے (خدا) چھ سیمو مؤمن ہندین دن پیٹھ قرار
 نازل کور۔ تہ زان یس ایمان متن بروٹھ نصیب
 اوس اتھ سستی گرتھ متن بیہ ایمان تہ حاصل
 تہ اللہ (تعالیٰ) ہس چھ آسان مشر تہ شکر
 تہ زمیں مشر تہ، تہ اللہ (تعالیٰ) چھ بڑ غلمہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴿٢﴾
 لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ
 وَ مَا تَأَخَّرَ ۚ وَ بِيَمِّ نِعْمَتِهِ عَلَيْكَ ۚ
 يَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿٣﴾

وَ يَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا ﴿٤﴾

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ
 الْمُؤْمِنِينَ لِيَزِدُوا إِيمَانًا مَعَ
 إِيمَانِهِمْ ۗ وَ اللَّهُ جُنُودُ السَّمَوَاتِ ۚ وَ
 الْأَرْضِ ۗ وَ كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٥﴾

دول تہ بچ حکمشر دول۔

(مؤمن ہند ایمان ہراولن) آسہ اوکوتی مہتہ
زن سہ (اللہ تعالیٰ) مؤمن مردن تہ مؤمن
زمانن تہ جنن جنن منزوا نخل کر پین بوئی
کوتی کولہ پکان آسن۔ تم گڑھن بتن منز ہمیشہ
روزان۔ بیہ مہتہ زن سہ (اللہ تعالیٰ) تہندہ
گمناہ ختم کر تہ اللہ (تعالیٰ) ہس بتش چہیہ
یہہ بڑ کامیابی۔

بیہ مہتہ زن سہ عذاب دیہ منافق مردن تہ منافق
زمانن تہ مشرک مردن تہ مشرک زمانن یم
اللہ (تعالیٰ) ہس پیٹھ بدگمانی کرن اول چہرہ،
معیبک آولن پیہہ تم نے ولہ نہ تہ اللہ (تعالیٰ)
ہن کوزہ بتن پیٹھ عنقب نازل تہ پسنہ دربار
بتش پین تم دور کرکوتی تہ تہندہ خاطر پیٹھ
تمو جنہم تیار کرکوتہ تمومت یس سہٹا بچہ تمکاتہ
چہ۔

بیہ آسان ہندی تہ زمینگر شکر چہ اللہ (تعالیٰ)
ہندی۔ تہ اللہ (تعالیٰ) چہ سہٹا غالب (تہ)
حکمتہ دول۔

آسہ چھکھ تہ (پسنہو صفاتو خاطر) گواہ تہ (مؤمن)
ہند خاطر) خود شخردہ دول تہ (کافر) ہند
خاطر) ہتیار کرن دول بناوتھ سوزمت۔
یہتہ زن توہی تہ ہند دوسو اللہ (تعالیٰ) ہس
تہ تہندس رولوس پیٹھ ایمان اول، بیہ کرو تہ
عزت، بیہ کرو کالہ پگاہ تہندہ (اللہ تعالیٰ) ہندنا تسبیح۔
یم لوکھ چاڈ بیعت کران چہ تم چہ صرف اللہ
(تعالیٰ) ہند بیعت کران۔ اللہ (تعالیٰ) ہند
اتھ چہ تہندس اتھس پیٹھ۔ اوکوتی یس کاترھا

لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
وَيُكَفَّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ۚ وَكَانَ ذَلِكَ
عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿١٠﴾

وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ
الْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ ۚ بِاللَّهِ
ظَنَّ السَّوْءَ عَلَيْهِمْ ذَاكَ السَّوْءُ ۚ وَ
غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَلَّهْمُ وَ
أَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ۚ وَ سَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١﴾

وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ
اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٢﴾

إِنَّا أَرْسَلْنَا شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا
وَنَذِيرًا ﴿١٣﴾

لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزُّوهَ
وَتُوقِرُّوهَ ۚ وَتُحَيِّوهَ بِنُكْرَةٍ ۚ وَأَصِيلًا ﴿١٤﴾

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا
يُبَايِعُونَ اللَّهَ ۚ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ
أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَنْ نَكَتْ فَإِنَّمَا يَنْكُتْ

لہ یعنی تم میں سے ہر ایک ہندنا ہند۔

حَلَّ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ
اللَّهُ فَسِيؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٥﴾

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ
شَغَلْنَا آَمْوَالَنَا وَآَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا
يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي
قُلُوبِهِمْ ذَلَّ قَمَنَ يَمِيكُ لَكُمْ مَن
أَلَّهُ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ
أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٥﴾

یہ وعدہ پھٹراؤ، اور تمہرے پھٹراؤ کو وبال
پسینہ تہندس زوس پیٹھ تہ یس کا ترھا سہ
وعدہ پور کر یس تمہی خدایس سستی کوزمتاوس
اللہ (تعالیٰ) بیہ تس امیک سپٹھا جاؤ اجر
اعرابوہ منزیم پیٹھ تراونہ آہتر اسی، و من
ضرور تر سانی مانن تہ شرپو بائرو تھوکی اسی ادر
(او کو ہیکو تہ اسی اتھ غزوس لہ منز شابل
سپنہ عرشہتہ) او کو تہ منگ سائہ خاطر
مغفرت۔ تم چو پسینو زپو سستی سو کتھ دان
پوسہ تہندین دن منز چھتہ - تہ و کتھ ہر گاہ
اللہ (تعالیٰ) توبہ کانہہ نوتقان واتناون بیٹھ
یا توبہ کانہہ نفع واتناون بیٹھ تہ کس و ہود
چھ یس اتھ بر خلاف تہند خاطر کینہہ کریتھ ہیکہ
ترہ کتھ چھنہ ہرگز، بلکہ اللہ (تعالیٰ) چھ تہندو
اعمالو ہتہ خبردار۔

حقیقت چھیہ یہ تر توبہ اوسو گمان کوزمت تر ہول
تہ مؤمنین تہ تر شیبہ تہ پسین شربن بائرن
کن سلامت پٹھ پھیرتھ۔ تہ یہ کتھ اسی
تہندہ نظر منظر پارو کر تھ ماونہ آہتر۔ (تہ توبہ
اسی و دل سپٹھا خوش) بیہ اسی و توبہ (مؤمن
ہند حقہ تہ خدایہ ہند حقہ) ناکاہ گمان کران۔
(حالانکہ مؤمن تہ) بلکہ توبہ پانہ اسی و ہلاک
سپن والین منظر گندہ آہتر۔

بیہ یس شخص اللہ (تعالیٰ) تہ تہندس رسولس
پیٹھ ایمان چھنہ انان (سہ تمہاؤن یاد ز) اسہ
چھ کافرن ہند خاطر و ہون عذاب تیار کر تھ

بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ
وَ الْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ آَهْلِهِمْ أَبَدًا وَ رَزَيْنَ
ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَ ظَنَنْتُمْ ظَنَّ
السَّوءِ بِذِكْرِكُمْ قَوْمًا بُورًا ﴿٥﴾

وَ مَن لَّمْ يُؤْمِنِ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَإِنَّآ
أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ﴿٥﴾

لہ اعرابی، عربو صحراوی خانہ بدوش۔ بین آین مشرچہ منافق قبائل عامبر، اسد تہ غطفان
قبیلن ہندو کر۔
لہ یعنی حمزہ تبوکس مشر۔

تھومت -

بہ آسمان تو زمین ہنز پادشاہت چھینے
اللہ (تعالیٰ) بندگی سے تہنس منز - سہ تہنس
بہترھان پتھ ، معاف چھس کران تہ تہنس بہترھان
چھ عذاب چھس دوران - تہ اللہ (تعالیٰ) پتھ
سہا معاف کرن اول (تہ) پھری پھری رحم
کرن اول -

بیلہ توہی مال غنیمت سہ نہرہ خاطر نہرو تہ
پتھ تراونہ آہی لاکھ ون ز اسہ تہ دیو اجازت
نہ اسی تہ پکو توہہ پتہ ، تم بہترھن ز اللہ
(تعالیٰ) سہ فاصلہ ترھن بدلوتھ - تر لاکھ
توہی ہیکو نہ ہرگز اسہ پتہ پتہ - یوہے پتہ توہہ
متعلق فاصلہ یس اللہ (تعالیٰ) ہن اسہ بروٹھ
سرتھ تھومت چھ - اتھ پتھ ون تم - ترکہ پتھ
توہی اسہ پتھ سدکران - اماہ پوز پوز چھ پہ نہ
تم چھو کاٹ جاہ نہتہ چھتھ -

اعرابو منز پیم لاکھ پتھ تراونہ آہی چھ بہن
ون تر نہرہ یوہی توہی اکس تہنس قومس سستی
جنگ کرنہ خاطر ناد وتھ انہ یس جنگ چھوکارک
گری منز سہا ماہر چھ - توہی کرو بہن سستی
توت تمام جنگ نہ تم سیدن مسلمان - لہذا
نود وے توہی (تمہ وقتہ خلیہ ہنز آواز)
تاہو تہ اللہ (تعالیٰ) دیو توہہ سہا نہراہر
تہ اگر توہی (تہنس حکمس) بہتہ پھرو بہتہ
یا طو امہ بروٹھ (روگردانی) کر ہنز اسہ تہ
اللہ (تعالیٰ) دیو توہہ دگر دارعذاب -

نہ تہ چھینہ کانسہ اہنس پتھ سختی تہ نہ چھینہ
تہنس پتھ سختی تہ نہ چھینہ ہمارس پتھ سختی
زہ تم سیدن معذور اسٹھ تہ لڑایہ منز شامل
بہ یس اللہ (تعالیٰ) تہ تہنس رسولہ ہنز

وَاللّٰهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَغْفِرُ
لِمَن يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَّشَاءُ ۗ وَ
كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۱۵﴾

سَيَقُوْلُ الْمَخَلَّفُوْنَ اِذَا انْطَلَقْتُمْ اِلٰى
مَعَاكِمَ لِنَاخِذُوْهَا ذُرُوْثًا نَّتَّبِعُكُمْ ؕ
يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُبَدِّلُوْا كَلِمَ اللّٰهِ ؕ قُلْ
لَنْ نَّتَّبِعُوْنَا كَذٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ
قَبْلُ ؕ فَسَيَقُوْلُوْنَ بَلْ نَحْسُدُوْنُكَ ؕ بَلْ
كَاْنُوْا اِلَّا يَفْقَهُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿۱۵﴾

قُلْ لِّلْمَخَلَّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتَذَعُوْنَ
اِلٰى قَوْمِ اَوْلِيْنَ بَايَسَ شٰدِيْدٍ تَقَابَلُوْهُمْ اَوْ
يَسْلِمُوْنَ ؕ فَاِنْ طَطِئْتُمْ اِيْوَابَكُمْ اللّٰهُ
اَجْرًا حَسَنًا ؕ وَاِنْ تَوَلَّوْا كَمَا
تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا
اَلِيْمًا ﴿۱۵﴾

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى
الْاَعْرَابِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرْيُوضِ حَرَجٌ ؕ
وَمَنْ يُطِيعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ يَدْخُلْهُ
جَنَّتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ

مَنْ يَتَوَلَّ يَعْذِبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٥١﴾ ﴿٥٠﴾ فرما میر داری کرسہ (خدا) کرسس تنہیں جنتن منتر
 وَاَوَّلَ يَمِينٍ بُولِي كَبِيْرًا كَهْلًا بِحَالٍ مَّيْمِيْنًا تَبِيْرًا لَيْسَ
 (کا نثرھا محکمہ نشہ) بیٹھ بھیر، اللہ (تعالیٰ)
 دیہ تس وگہ وار عذاب۔

لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ
 يُبَايِعُوكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ
 مَا فِي قُلُوْبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ
 عَلَيْهِمْ وَأَنبَأَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ﴿٥١﴾
 اللہ (تعالیٰ) سپد مؤمن تہہ سادہ سپٹھا توش
 ییلہ زن تم کس تل چانی بیعت کران اسی
 تہ تم زون جان زبر پٹھو سہ (ایمان)
 یس تہند ہن دن منتر اوس۔ اوسے کور
 تو تہند ہن دن پٹھ قرار نازل تہ جن
 بختن اکھ اول اولیہ واہی فتح۔

دَعَا غَرَامًا كَثِيْرَةً يَأْخُذُوْنَهَا وَ
 كَانَ اللهُ غَزِيْرًا حَكِيْمًا ﴿٥٢﴾
 بیہ بختنکھ واریاہ مال غنیمت تہ ہم تم قبض
 قل انان اسی تہ اللہ (تعالیٰ) چھ غائب تہ
 حکمتہ دول۔

وَدَعَاكُمْ اللهُ مَعَاْرِمَ كَثِيْرَةً
 تَأْخُذُوْنَهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هٰذِهِ
 كَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ ۗ وَلِتَكُوْنَ اٰيَةً
 لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۗ يَهْدِيْكُمْ صِرَاطًا
 مُسْتَقِيْمًا ﴿٥٢﴾
 اللہ (تعالیٰ) ہن چھو توہہ واریاہن (مال)
 غنیمت ہند و عد کورمت۔ ہم توہہ پنس قبض
 تل انوکھ تہ یہ موجود مال غنیمت چھنو تم وعدہ
 منتر اول اول عطا کورمت تہ لوکن ہند کہ اتھ چین
 توہہ نشہ پتہ رڈ ہتر۔ بیٹھ ترن ہم (واقعات)
 مؤمن ہند خاطر اکھ نشاہ بیٹھ گزھن تہ سہ
 (اللہ تعالیٰ) ماور و توہہ امہ کورمت۔
 تہ (امہ علاوہ) تہ چھینہ بیکھ اکھ (فتح) یوہ توہہ
 و نیکام حاصل سپنہ تہ۔ اللہ (تعالیٰ) ہن
 چھ امیک قاصد کورمت تھومت بیہ اللہ (تعالیٰ)
 چھ بین اراد پور کرسن پٹھ پور پور تادہ۔

وَ اٰخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا قَدْ اَخَاطَ
 اللهُ بِهَا ۗ وَ كَانَ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
 قَدِيْرًا ﴿٥٣﴾
 اللہ (تعالیٰ) ماور و توہہ امہ کورمت۔
 تہ (امہ علاوہ) تہ چھینہ بیکھ اکھ (فتح) یوہ توہہ
 و نیکام حاصل سپنہ تہ۔ اللہ (تعالیٰ) ہن
 چھ امیک قاصد کورمت تھومت بیہ اللہ (تعالیٰ)
 چھ بین اراد پور کرسن پٹھ پور پور تادہ۔

ذٰلِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوَلَّوْا
 اِلٰهًا بَارًا ثُمَّ لَا يَجِدُوْنَ وٰلِيًّا ۗ وَلَا
 اللہ (تعالیٰ) ماور و توہہ امہ کورمت۔
 تہ (امہ علاوہ) تہ چھینہ بیکھ اکھ (فتح) یوہ توہہ
 و نیکام حاصل سپنہ تہ۔ اللہ (تعالیٰ) ہن
 چھ امیک قاصد کورمت تھومت بیہ اللہ (تعالیٰ)
 چھ بین اراد پور کرسن پٹھ پور پور تادہ۔

۱۔ صلح حدیبیہ کس موقعس پٹھ بنیدہ صحابہ کرامو مرتکب قسم کھیتھ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم منتر بیعت کریاہ۔ اتھ چھ "بیعت رضوان" و نان۔
 ۲۔ یعنی خیبر کرمال۔

نَصِيْرًا ①

پھر تمہے پر نہ لہو، ہن کا نہہ پناہ دینے والے، نہ
(لہو، ہن کا نہہ) مددگار۔

اللہ (تعالیٰ) سُنَدِیَہ تَنْتِ شَعُوو یادئیں ہمیشہ
جاری چھو تہ تہ بکہ نہ زینبے تہ اللہ (تعالیٰ)
سندس مقرر کرے کہ جس طریقے میں نہہ کا نہہ تبدیلی
ہو سہ چھ خدایا نیبو تہندے کہ تہ تہہ نش تہ
تہندے کہ تہہ نش کہ چہ وادی مفر پتہ رُؤ،
تہہ پتہ نہ تہہہ اُسو (حالاتو مطابق) تہہ پتہ
فتح لہہ تہ اللہ (تعالیٰ) اوس تہندے اعمل
و سحان (تہ زانان اوس نہ تہہہ چھو نہ لڑائی کرے

نِشْرُ کھوڑان

تہ اُسو (تہندے دشمن) یو کفر کور تہ تہہہ
ٹھاکا وک ہو مسجد حرام (چہ زیارت) نہہ - بیہ
تہہہ پاٹھو تہہہ ہانہ تہہہ (اید پتہ رُشہ) یو (مگر خاٹھ)
وقف سپدے نہہ اُسو نہہ ہن پنشنس منزل
مقصودس تمام و ایتھ - بیہ اُر (نکس
منہ) کینہہ مؤمن مرد تہہہ اُسو ہن تہ تہ کینہہ
مؤمن زانہ نہہ اُسو ہن نہہ یو تہہہ اُسو و کھ
نہ زانان تہہہ خطہ اُسو ہے تہ نہ تہہہ متھو کہ
تہہہ ان زان پاٹھو کھورن تل تہہہ تہہہ باغہ پتہ
ہے تہہہ پتہ چھو تہہہ کھانہ (تہہہ اُسو دہہ ہو تہہہ
لڑنہ ، مگر خدایا تہہہ و تہہہ ٹھاکا و تہہہ) تہہہ
زن اللہ (تعالیٰ) لیس پند کر تہہہ کپنشن
رحمتس منز و اخل اگر (پو شہہ مؤمن) اور پور کن
ٹھاکو اُسو ہن تہہہہ (کہہ کھو روزن والہو) منز
یو کافر اُسو اُسو و اتنا و ہو تہہہ و کھ وار عذاب
سہ وقت کھو یاد نیلہ کافر و پشمن دن منز طہہہ
ہند تہہہہ رُو نہہہہ پاد کور لیس جاہلیتہ چہ طہہہ
ہند نہہہہ اوس - اٹھ پتہ کور اللہ (تعالیٰ) ہن
پنشنس سولس پتہ تہہہ مؤمنن پتہ پتہہ طرفہ نازل

سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِي تَذَخَّلْتَ مِنْ قَبْلِ ۙ وَ
لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ②

وَ هُوَ الَّذِي كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَ
اَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ اَنْ
اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ③

هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ صَدُّوْكُمْ
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ الْهَدْيِ مَعْكُوفًا
اَنْ يَّبْلُغَ مَحَلَّتْهُ وَ كُوْلًا رِجَالٌ
مُّؤْمِنُوْنَ وَ نِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّهٗ
تَعْلَمُوْنَ هُمْ اَنْ تَطْفُوْهُمْ فَتُصِيبَكُمْ
مِنْهُمْ مَعْرَآةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ لِيُذْخِلَ
اللّٰهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَّشَاءُ ؕ لَوْ تَرَىٰٓ اُولََٔٔا
لَعَدَبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا
اَلِيْمًا ④

اِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي قُلُوْبِهِمُ
الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَاَنْزَلَ
اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰٓى رُسُوْلِهِ وَ عَلٰى
الْمُؤْمِنِيْنَ وَ اَلَزَمَهُمْ كَلِمَةً التَّقْوٰى

وَكَانُوا آخِثًا بِهَا وَآهْلَهَا ، وَكَانَ
اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿۲۵﴾

۲۵

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّسُلَ بِالْحَقِّ ۗ
لَقَدْ خُلِقَتِ الْمَشْجِدَ الْحَرَامَ لِأَنْ شَاءَ
اللَّهُ أَمِينٌ ۖ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَ
مُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ۗ فَعَلِمَ مَا لَمْ
تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا
كَرِيمًا ﴿۲۶﴾

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى
وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ
كُلِّهِ ۗ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿۲۷﴾

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ مَعَهُ
أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ
تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا
مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا لَا سِيْمَاءَ لَهُمْ فِي
وُجُوهِهِمْ مِن أَثَرِ السُّجُودِ ۗ ذَلِكَ
مَثَلُهُمْ فِي التَّوْبَةِ ۗ وَمَثَلُهُمْ فِي
الْإِنجِيلِ نَشْرٌ كَرِيمٌ ۗ أَخْرَجَ شَطَاةَ فَارُوقَ
فَاسْتَفَلَّظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوْقِهِ
يُعْجِبُ الزَّرَّاعَ لِيُغَيِّظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا
عَظِيمًا ﴿۲۸﴾

۲۸


سیدن وول قرار نازل تہ تقویٰ کس طریقیں پیو
تعمیر اور تہند کور ۔ تہ تے اسی اکی جاد
حقار بیہ اسی اتھ لایق تہ اللہ (تعالے) پھر پرتھ
اکھ چیز زمانہ ۔

اللہ (تعالے) ہن ہوو پینس رسول تہ خاکب
مضمون پور پاتھی پڑاوتھ بیتھ منز یہ بیان اول
نہ اگر خلائق نوزہ توہی سپدو ضرور مسجد حرامس
منز امنہ سان داہل یا آسہ و پور پاتھی مس
کاستھ یا آسہ و مس کڑ پتھ (تہ) کاستھ اہوہ
کھوڑان ۔ اوکئی اللہ (تعالے) ہن زون تہ کثیرھا
یہ توہی اسی و نہ زمانہ ، تہ توہی پتھ اتھ ستر
اکھ بیاکھ فتح تہ مقدر تموم ہتر ۔

سہ پتھ خدایس سیمو ہن رسول ہدایت تہ دین حق
ہتھ سوزمت پتھ بیتھ زن اتھ سارکے دین
پتھ غالب کر تہ اللہ (تعالے) اہے پتھ کافی گواہ ۔
محمد پتھ اللہ (تعالے) سند رسول تہ بیم لاکھ
تس ستر پتھ ہم پتھ کافرن خلاف سبھا جوش
تھاوان ۔ وہ نہ گوو پانہ والی پتھ اکھ اکیس ستر
نوازش کرن والی سبیل تہ ہم توہی پتھ ، ہم لبہ
پتھ تہ بشرک ہتھ پاک تہ اللہ (تعالے) سند
اطاعت گزار ۔ ہم پتھ اللہ (تعالے) سند فضل
تہ رضا تہانڈان روزان ۔ بہنہر شناخت چھتھ
تہند بن بتھین پتھ سبھن ہندو نسا لودس موہود
یہ بہنہر حالت چھتھ توراس منز بیان پتھ ہتر
تہ انجیلس منز چھتھ بہنہر حالت پتھ کئی بیان نہ
ہتم (اسن) اکھ زراعی پاتھی سیمو گھوڈ ہتھ
پن و ہزن ہوو پتھ کون سہ آسمانی تہ زین
خوراک ستر (مفیوط تہ سہ و ہزن پتھ بیہ

الحسن منز چھ دولہ موہور چایز لینے کھوہ ستر مس لاسن تہ تہ چھنی ستر مس کربن تہ ۔

ہن مہنوط۔ پتہ سپڈ پینس مونس پیٹھ ڈرک
 پائٹھ ٹاٹیم یوت تام تر زمیندارس عمدہ شس
 ہنہ نوک۔ تمیک نتیجہ نیر یہ تر کافر وزن
 تم وچو وچو۔ اللہ (تعالے) ہن چھہ مؤمن
 تہ ایمانہ مطابق عمل کرن والہن سوتی پچ وعدہ
 کڈمت تر ہن میلہ مغفرت تہ بوڈ اجہر۔



سورۃ حجرات۔ یہ سورہ چھ مدنی تر بسم اللہ ہتھ چھ اٹھ گنواہ آہ یہ سہ چھیس تر رکوع۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①

(ہر چھیس، اللہ (تعالے) سڈ ناو ہتھہ پران)
 یس حد رنوس کرم کرن وول (تہ) پھیرک پھیرک
 رحم کرن وول چھہ۔

اے مؤمنو! اللہ (تعالے) تہ تہندس رسوس برنٹھ
 کینہ ہر آسو لاف دووان ہیرہ پر اوو اللہ (تعالے)
 سڈ تقوی۔ اللہ (تعالے) چھہ سبھا بوزن وول
 (تہ) زان وول۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ
 يَدَيِّ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَتَقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ
 اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ①

اے مؤمنو! نبی ہنہز آواز ہنہہ ہر آسو ہنہز
 آواز تھہز راوان۔ تہ نہ آسو زلوس تھی تھہ پائٹھ
 بڈ بڈ کتھہ کران ہتھہ پائٹھ توہی پانہ وانی اکھ
 اکس تھی بڈ بڈ کتھہ کران چھو۔ ہتھہ نہ (تہ ترہ
 کتھہ سپہ تر) تہندہ کر مال سپدن ضایک تہ توہہ
 آسو نہ حیرہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْا
 اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا
 تَجْهَرُوْا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ
 لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ
 لَا تَشْعُرُوْنَ ②

تم لوکھ ہم رسوس قھی پستہ آواز مار تھہ چھہ
 تھواوان۔ تھے چھہ ہیندن وین ہنہز اللہ (تعالے)
 ہن تقوی ٹا طر پلور پائٹھ سام ہنہز ہنہز چھہ
 تہ تہندہ ٹا طر چھہ مغفرت تہ بوڈ اجہر لیکھتھہ۔

اِنَّ الَّذِيْنَ يَبْغُضُوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلٍ
 اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اٰمَنَحَ اللّٰهُ
 قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى وَاَلَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرٌ
 عَظِيْمٌ ③

تم لوکھ ہم (تہندہ دیو) کٹھہو نیہرک کئی تریہ آلو
 دووان چھی ہنہز مشز چھہ واراہ بے ونوف۔

اِنَّ الَّذِيْنَ يَنْتَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ
 الْحُجُرٰتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ④

ہر گاہ تم تھے وقتس تمام پیار ہن زہر یہ ہیکہ
جن کُن نمبر نہرتہ تہ یہ گرتہ ہے تہند باپتہ
رت۔ بیہ چھ اللہ (تعالیٰ) سبھا بختن مار (تہ)
پھیرک پھیرک رحم کرن وول۔

اے مومنو! یود وے توہدیش کانہہ فاسق کانہہ
اہم خبرائہ، تہ تمیک اوسو تحقیقات کران۔ بیہ
تہ تہرہ کتہ سپد زہر توہر کرو انزانی پانگور کتہ
توس پیٹھ حملہ تہ پتہ سپدو پستس کرکڑ مسہ
بتس پیٹھ پشیمان۔

بیہ زانوزہ ولی کہن چھ اللہ (تعالیٰ) سند
رسول توہر منز موجود۔ یود وے واریا ہن
معاملن منز سہ تہنتر کتہ مانان روزہ تسیلہ
پنیو توہر تکلیفس مفر۔ وہ لڑ گوار اللہ (تعالیٰ)
ہن چھ تہنتر نظر منز اپمان لوطہ ہومت۔ تہ
تہندرن دن منز چھن یہ پاراد کرکٹہ ہومت
تہ تہنتر نظر منز چھن کفر تہ اطاعتہ تہ نمبر
نیرن تہ نافرمانی کرنی قابل نفرت کرکٹہ
ہومت (مین لوکن پیٹھ یہ آہ چسپان سپان
چھ) تے لوکھ چھ سینز و تہ پیٹھ۔

(تہند تہ آسن چھ محض) اللہ (تعالیٰ)
سند فغلبہ تہ نعمتہ سوتو۔ تہ اللہ (تعالیٰ)
چھ زہر پانگور زانن وول تہ حکمتہ وول۔

بیہ اگر مومن ہندک زہر دُرک پارہ وانی جنگ کرن
تہ تہن دونوں درمیان کرنا و صلح۔ ادا صلح
گرتہ پتہ تہو منز کانہہ اکھ پیس پیٹھ حملہ
کر، تہ توہر ساری رلیتہ کرو بتس حملہ کرن
وایس دُرس خلاف جنگ یوت تمام زہرہ بیہ
اللہ (تعالیٰ) ہندس حکمس کن واپس۔ پتہ ہر گاہ سہ اللہ
(تعالیٰ) ہندس حکمس کن پھیرتہ بیہ ادا کرنا و انصاف سان
تہن (دونوں جنگ کرن والہن) درمیان صلح تہ انصاف لڑو

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ
لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ①

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ
فَاسِقٌ يَنْبَغِي فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا
بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ
نُدْمِينَ ①

وَاعْلَمُوا أَن فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ
لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ
وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ
وَزَيَّنَّ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ
الْكَفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعُضْيَانَ أُولَٰئِكَ
هُمُ الرَّاشِدُونَ ①

فَضَلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ①

وَإِن طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ائْتَتَلُوا
فَاصِلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَعَثَ إِحْدَاهُمَا
عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي
حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ
فَاصِلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ①

تظہر لہ - اللہ (تعالیٰ) چھہ الغاف کران والہن پین کران۔
 مؤمنن میند پانہ وادی تعلق چہہ صرف بازی بائی
 سند لہذا توہی ارسو پینٹین دون باین درمیان
 (بیم پانہ وادی خروان آسن) صلح کرناوان۔ بیہ
 پراوو اللہ (تعالیٰ) سند تقویٰ، بیہ زن توہہر
 پیچہہ رحم کرنہ پیہہ۔

اے مؤمنو! کانہہ قوم مہ آسن کانہہ قومس
 اوس پانہ زانہہ مانیہ ترمان۔ بنون چہہ نہ، سہ
 آسہ جہنہہ کھوتہ رت۔ بیہ مہ آسن (کنو توہی)
 زانہہ دویمین (یعنی دویمیر قومہ چہین) زانان
 اوس پانہ زانہہ رتسن صہڈان۔ بنون چہہ نہ
 (دویمیر قومہ چہہ یا حالتہ واجنہ) زانانہ آسن
 جہنہہ کھوتہ رت۔ بیہ نہ اوس زلو توہی اکھ
 اوس پانہ دون تہ نہ اوس زلو اکھ اوس
 رتہہ کرہتہ آلو دون۔ تہ کیا زہ ایمانہ پتہ اطاعتہ
 تہہ نیہہ کرہتہن چہہ اکھ سپہاہے بیچہ ناوک
 عقدا رہناوان (یعنی فاروق و نہ ناوان) بیہ بیس
 تہ توہہہ کرنہ، سہ آسہ تہہلم۔

اے ایمانہ والہو! واریا ہو گمانو نہتہ ارسو پتہہ
 روزان، تہ کیا زہ کیہنہ گمانہ چہہ گمانہ بان۔ بیہ مہ
 ارسو اکھ اکر منہر جاسوسی کران، بیہ مہ آسن توہہہ
 منہر کیہنہ اربین کینٹرن، منہر غایتہ کران۔ کیا توہہہ
 منہر کرہیہ کانہہ پینٹین مورہہ بایہ سند ماز کینون
 پیند؟ (اگر یہ کہتہ توہہہ کن مہہ مرہہ پیہہ تہ)
 توہہہ کرہو نہ ناپیند۔ بیہ پراوو اللہ (تعالیٰ)
 سند تقویٰ۔ اللہ (تعالیٰ) چہہ سپہہہ توہہہ
 قبول کرن وول (تہ) پھیرہ پھیرہ رحم کرن وول۔
 اے لوکو! اسہ چہو توہی فردس تہ زانانہ نش پانہ
 کرہہ رتہ۔ بیہ چہو توہی کھو یا ڈاٹرن تہ قبلین
 منہر باگرہتہ تھاوہہ رتہ۔ بیہہ زن توہی اکھ اوس

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ
 أَخْوَانِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۱۰۱﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَشْخَرُوا قَوْمًا
 قَوْمًا عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا
 نِسَاءً مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا
 مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا
 تَنَابَزُوا بِاللِّغَابِ بِبِئْسَ الْأَسْمُ
 الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۱۰۱﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا
 مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا
 تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا
 أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ
 مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
 تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۰۱﴾

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ
 وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
 لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ

آتَقُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿۱۷﴾

پر پڑھو، بیکیو۔ اللہ (تعالیٰ) ہنس نزدیکی
چھ تو بہ منزل جاوے عزت و ول سے یس سارک
وہے کھوتے جاوے متقی آسہ۔ اللہ (تعالیٰ) چھ
یقیناً سبھا علم تھاوان وول (تہ) واریاہ خسر
تھاوان وول۔

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا
وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ
الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ
وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۸﴾

اعرابی چھ وناں نہ اسہ اون ایمان، تہ وں بہن
نہ تو بہر اولو نہ پڑی پٹھ ایمان، وونی گوو
توہی آسو یہ وناں نہ اسہ چھ ظاہر پٹھ فرماوے
برسر کر مہتر۔ تہ کیا نہ (اسے اعرابو!) وہ
سید نہ ایمان مولہ تہ تہندہن دہن اندر وائل،
بیہ اسے مولہنو! اگر توہی اللہ (تعالیٰ) تہ تو
ہندس رسولہ ستر پڑ فرماوے کڑو تہ سہ وہ
نہ تہندو اعمالو ستر کا نہر عمل تہ ضایع گزہ ہنہ
اللہ (تعالیٰ) چھ سبھا بخش ہار (تہ) پھیرے پھیرے
رحم کرن وول۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ
رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَزْتَابُوا وَجَاهِدُوا
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿۱۹﴾

مومن چھ تے آسان ہم اللہ (تعالیٰ) تہ تہندس
رسولس پیٹھ ایمان انان چھ، تو پتہ چھہ شکس
منز ولبہ لوان، بیہ چھ ہستہ مالو تہ ہستہ نوو
ہندہ دس اللہ (تعالیٰ) ستر و تہ منز جہاد کران
یکے لوکھ چھ پڑ یار کر آسان۔

قُلْ اتَّعَلِمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۲۰﴾

تہ وناکھ، کیا توہر چھوا اللہ (تعالیٰ) ہس
پنہ و بیخ زان کرنا وان؟ تہ اللہ (تعالیٰ) ہے
چھ تہہ زانان، یہ آسان منز چھ، بیہ یہ
زمینہ منز چھ۔ بیہ چھ اللہ (تعالیٰ) تہ
ورای تہ (اعرابی) چھی تہہ ہست تھاوان نہ تو

يَمْتُونُ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا
عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بِإِلَّهِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ
أَنْ هَذَا كُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ﴿۲۱﴾


کوز اسلام قبول۔ تہ وناکھ میہ تہ تھاوو ہستہ
اسلام قبول کر بیخ ہست۔ پڑ چھ یہ نہ
اللہ (تعالیٰ) چھ توہر پٹھ احسان

لہ عربی تم لوکھ ہم صحراون منز خاہ بدوش تہ کامی زندگی گزاران اس تہ ظاہری تمدن تہ تعلیم لیتہ اس محروم۔

تعاون ز تجودیت و توہمہ ایمانس کن ہدایت
 اگر تو ہی (اتھ دعواہس منز) پز یارک چھو
 (ز ایمان چھو اونمت) تیلہ کرو یہ حقیقت
 قبول ا۔

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
 وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۱﴾

اللہ (تعالے) چھ آسمان ہند فاب تہ زانان
 تہ زمینک تہ بیہ اللہ (تعالے) چھ تہتدک
 اعمال جان پاطھ وچھان۔



سورۃ ق: یہ سورہ چھ کئی تہ بسم اللہ اتھ چھ اتھ شینے تا جہہ آیہ بیہ چھس تریہ کرک۔

(بہ چھس) اللہ (تعالے) سند ناو ہتھ (پران ایس
 حد رنوس کرم کرن وول (تہ) پھیرک پھیرک رحم
 کرن وول چھ۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾

قاور خدا چھ ینیر سوریک نازل کرن وول۔ اسی
 چھن یہ بزرگی وول قرآن (نینیر سورک پز پز)
 شہادہ کس زگس منز پیش کران۔

ق ۱۱ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ﴿۱۱﴾

مگر ہم لاکھ چھ تعجب کران ز بین نش چھ میوس
 منز خبردار تہ ہتیار کرن وول اکھ شتھس آمت
 تہ کافر چھ ونان یہ چھ تعجبس لایق چیز بوزہ
 پوان۔

بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ
 فَقَالَ الْكٰفِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿۱۱﴾

کیا نیلہ اسی مرو تہ اسے گڑھ میتر (تہ پتہ کرھوا
 اسی دبار زند؟) یہ پھیرتھ گڑھن تہ چھ (قلہ)
 نشہ) دور۔

وَإِذَا مَثَا وَكُنَّا تُرَابًا جَزَاءُ ذَلِكَ رِجْعًا
 بَعِيدٌ ﴿۱۲﴾

اسے چھ زبر پاطھ معلوم تہتہ یہ زمین رتو اندر
 کم کران چھینہ (بیہ تہتہ یہ ہر را وان چھینہ)
 بیہ اسے نش چھینہ تڑھ کتاب یوسہ پر چھ چیز
 رتھرتھ متھوان چھینہ۔

كَذٰلِكَ نَقُصُّ الْاَرْضَ وَمَنْ هُمْ جَدٍ
 عِنْدَنَا كِثْبًا خَفِيضًا ﴿۱۲﴾

کتھ چھینہ یہ ز بکو لوکو کوز حقہ نشہ انکار نیلہ

بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ

فِي أَمْرِ مَرْيَمَ ①

أَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ
بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ①

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا زُرْعًا
وَأَنْبَثْنَاهَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ①

تَبَصَّرَةٌ وَذُكْرَى لِكُلِّ عِبْدٍ مُّسْتَبِئٍ ①

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبْرَكًا
فَأَنْبَثْنَا بِهِ حَبًّا وَحَبَّتٍ الْحَصِيدِ ①

وَالنَّخْلَ بَسِطْنَا لَهَا طَلْعَ نَضِيدٍ ①

رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَةً
مَيِّتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ①

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ
الرَّيِّسِ وَثَمُودُ ①

وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ①

وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ
كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ①

أَفَعَيَّبْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي
لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ①

سہ ہمیں بخش دو، او کوئی چیز ہم کو کس تبص
خیال منظر پیچھے میں رہے بلکہ چھ (یعنی پوز
تہ اپڑ چھ تہندرن خیالاتن منظر ریسوٹت)
کیا تم کو چھنا پانس پنیو آسانس کن زہ اسہ کیقہ
چھ یہ بزمست تہ اسہ چھ اتھ پیارو دیمت ؟
بیہ چھند اتھ منظر کا نہہ ڈرز۔

بیہ زمین چھنیہ اسہ و شھراو مشر تہ اتھ مشر
چھ بال بناوکر مٹی۔ امہ علاو چھ اسہ اتھ منظر
پر چھ تھکی خوش شکل جوہر بناوکر مٹی۔

اسہ کن پر چھ زمین و اس بند بند خاطر چھ
اتھ کتھ منظر اچھ گاش تہ نصیحت۔
بیہ اسہ چھ اوپر منظر برکڑ و ول آب نازل کور
پیتہ چھ اسی امہ کر دسی باغ و و پداوان بیہ
لوانس لایق فصلکو دانہ تہ۔

بیہ تھڈر تھڈر کھڑ کھڑ کھڑ (چھ نوواروان) کین
کھڑ ترنوئی چھ لگان۔ ہم زہر پٹھ پٹھ پٹھ پٹھ
کھڑ مٹی چھ آسان۔

(اسہ چھ میتھ کو) بدنن ریزق دین خاطر کورمت)
بیہ چین اسی امہ (آہ) سستی مہر د ملک زہر
کران، میتھ پٹھ آسہ (سرنہ پتہ) نین تہ۔

ہمیں بروٹھ چھ نوح بندر قومن تہ کر پرک والہو
بیہ نمودن (صدائقس) انکار کورمت۔

بیہ عاد (قومن) بیہ فرعونن بیہ لوطہ
سندو بالہو۔

بیہ جنگلہ کہو روزن والہو بیہ تب قومن (یعنی
ہمینہ کہو لوکو) سارو سے اسی سانی رسول اپڑاوی
مٹی۔ تولاکن رود میابہ عذابک و عد پوہ سپد تھ۔
کیا اسی چھاگو ڈنچہ پاڈا پیتھ سستی تھکی مٹی؟
(نہ، نہ) وہ ڈو لوو حقیقت چھنیہ یہ زہر تم چھ
دویمہ پاڈا پیتھ ہند حقہ شھس منظر پیتہ۔

۱۱۶

بہیہ اسپر چھہ انسان پاد کورمت - بہیہ ہم وسواک
تشد نفس پاد کران چھہ تموتنتہ چھہ اسی زبر
پاکھو خبردار - بہیہ چھہ اسی اوس (انسانس)
تسبز شاہ رگہ کھوتہ تہ چاد نزدیک -

بیلکہ زن دوجیز تہ کھو درک بہتہ ز گواہ تمز
سبز سارے حرکتہ رزھراوان گزھکان بہیہ -

بہیہ کر تہ (انسان) کانہہ کتھ ز تس بنش کہ
اسر تہ تشد کانہہ نکران یا ر اچھہ در -

بہیہ موٹک غش بہیہ بے شک تہ اسی و لو
تہ زبر اوس (یعنی فاضل انسانس) نہیہ
چھہ سوہ حالت میہ تہ تہ بچن اوسکھ بہنہان
تہ پوگس بہیہ پھلوکہ دہہ اہیہ چھہ غدابہ کہ و دھک
دوہہ -

بہیہ پر چھہ زو بہیہ (تتھ حالتس منز) ز تس
سز آسر اکھ بہہ دہہ وول تہ لگھتہ بہیہ اکھ
گواہ تہ -

(بہیہ و لو اسی) تہ اوسکھ میہہ (دوہہ بہیہ)
بنتہ عفتس منز پیو مت - اد اہر تہ
اسر چون پرد تہ ازی کہ دوہہ چھہ چان
نظر سٹھا تیز (تہ تہ چھکھ سورے کہنتہ
وچھان) -

بہیہ تمز سٹہ ستر بوج و نہ ، پیتہ دوجھو تہ
میہ نش تیار چھہ (یعنی تشد اعمالنامہ) -
(پیتہ و لو اسی بہن دوہہ یعنی بہہ دہہ و اوس
تہ گواہس) توہی دوہہ سے تر اولون جہنس منز
پر چھہ کانہہ انکار کرن وول بہر یک دشمن -

نیکی بنتہ ٹھاک کرن وول ، حد بہر نرن وول تہ
شک کرن وول -

یس اللہ (تعالیٰ) اس ستر دوہیہ مہبود بنا وان

وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَ نَحْنُ أَقْرَبُ
أَلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ⑩

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَ
عَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ⑪

مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ
عَتِيدٌ ⑫

وَ جَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۖ
ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ ⑬

وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ ۚ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعْدِ ⑭

وَ جَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَ
شَهِيدٌ ⑮

لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا
عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَّرَكَ الْيَوْمَ
حَدِيدٌ ⑯

وَ قَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ⑰

أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ⑱

مَتَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُغْتَدٍ مَرِيْبٍ ⑲

إِلَّا ذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ

فَأَلْقِيهِ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ⑤

اوس توہم دونوں تڑاؤ لین سہ از کر تھیں عذابس
منز۔

قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْعَيْتُهُ وَلَكِنْ
كَانَ فِي صَلْبٍ بَوعِيذٍ ⑥

(بیہ) تہندوستی بوج و نہ ، اے سائبہ پروردگار!
میںہ کر نو نہ یہ سرکشی بلکہ یہ اوس پانے اگس تھدی
درجہ چہ گراہی منز ولہ آمت۔

قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ
إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ⑦

(اتھ پیٹھ) فرماؤ (خدا) میںہ نش مہ تڑو بیہ تھو
یا نہ میںہ چھیدہ توہم کن برو نیٹے عذابچ خبر سوز موز
بیہ میںہ برو نیٹے کبہ بیٹیکہ نہ کاشہہ کتہ بدلہ تھہ پیش
کر نہ پیٹھ تہ نہ چھس بر پستانہ بدنہ پیٹھ کتہ
تسمک ظلم کرن دول۔

مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ
لِّلْعَالَمِينَ ⑧

تہر دوہہ ونو اسی جہنمس ، کیا تہر اکھا پڑو نہ؟
تہر سہ ونہ بیہ تہ چھا کیہ نہ؟

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَ
نَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ⑨

بیہ تہر دوہہ بیہ جنت متعین تیوت نکہ انہ نہ
تہم ہن تھہ محسوس کرن۔

وَأَزَلَقْتِ الْجَنَّةَ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ
بَعِيدٍ ⑩

بیہ بیہ ونہ نہ توہم منز اوس پر تھہ کاشہہ سمن
و اوس تہ شریعتہ کس حفاظت کرن و اوس امی اٹھاگ
و عدہ کرنہ آمت۔

هَذَا مَا تُوَعَّدُونَ لِكُلِّ آدَاءٍ كَفِينٌ ⑪

(یعنی تس سستی) میںہ رحمان (خدا لیس) تنہا بی منز
تہر کھوڑن اوس بیہ اوس تس نش سمن و ول دل
ہتھہ آمت۔

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ
بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ ⑫

(اُسی دن نہ) توہم ساری اُترو سلامتی سان جنتس
منز۔ یہ چھہ سہ برکتر و ول دوہ میںہ نہ زاہمہ انہ۔

يَدْخُلُونَهَا يُسَلِّمُ إِلَيْكَ يَوْمَ الْخُلُودِ ⑬

تہم یہ کینر شہا اتھ منز بہ شرم (تہ) سورہ
میلہ ہمتن تہ اسہ نش چھہ امر کھوتہ تہ جاؤ ہمتن
و نہ خاطر موز جو۔

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَ لَدَيْنَا
مَزِيدٌ ⑭

بیہ اسہ چھہ ہمتن برو تھہ واریاہ قوم ہلاک کر کوہتہ
تہم اُسی مہند کھوتہ جاؤ تھچہ تراؤگ طاقت
تھون ادچہ پوز (میلہ عذاب آوتہ) تھو بساؤ

وَ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ
أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ
هَلْ مِنْ مَّحِصٍ ⑮

ملکہ کس پر پتہ گنجس منز سر و ملک مگر (یہ چھینڈو
کہتے ز) خلیہ بند عذاب، لہذا پتہ گنجائش کہتے ہیں
اے پتہ۔

آتمہ منز چھینڈ پر پتہ گنجس شغفہ بند خاطر نصیحت
نہیں سوچن وول دل برس چھہ یا نہیں بوزنہ خاطر
کن تمھوان تہ سان تہ غور کران چھہ۔

بہ آسمان تہ زمین تہ یہ کیشراہا بین منز باگ چھہ
یم ساری (چھینڈ) کر کے اسہ شین وقتن منز پاد
تہ اسی تمھک ہنہ بیکل۔

لہذا یہ کیشراہا تم و نان چھہ متھہ پیٹھ کر صبر تہ
انتخاب کہتہ برزنتھہ تہ لوسہ برزنتھہ آس پستہن
پروردگار ہنہ تہیح کران۔

بہ آس روئے تہ تسنہ تہیح کران بہ پتہ عبادتہ
پتہ تہ آس تہیہ گنہ کران)۔

بہ (اے نہا!) بوزنہ تمھو زاکر دوہہ کر نادکر
دل نزدیک جاہ پیٹھ ناد۔

یہ دوہہ ساری لاکھ کر پور سپدہ روزن و البرعذاب
آواز بوزن۔ یہ دوہہ آسہ زبند سپدہ تہیک دوہہ۔

اُسی چھہ زبند تہ کران تہ اُسی چھہ مالان تہ تہ اُسی
کن چھہ چھہ تہین۔

سہ دوہہ ییلہ تہنہرو شیطا زوستو زمین پھٹہ (تہ
یاد تمھو) تم نیران اہہ اولول۔ یہ مہردن ہند
زبند کران چھہ اسہ نش سہل۔

یہ تم و نان چھہ اُسی چھہ تہ وار پاتو زانان تہ تہ چھہ تہن
پیٹھ اُکس جابر (بادشاہ) ہندس صولتس منز
مقرر کرنہ آمت۔ اوکو تہ کر قرآنہ عسوتہ صرف

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ
أُذِيَ السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿۵۰﴾

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا
بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ۖ وَمَا مَسَّنَا
مِنْ لُغُوبٍ ﴿۵۱﴾

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ
بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ
قَبْلِ الْغُرُوبِ ﴿۵۲﴾

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ النُّجُودِ ﴿۵۳﴾

وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِ مِن
مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿۵۴﴾

يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ۗ
ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ﴿۵۵﴾


إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَآلَيْنَا
الْمَصِيرُ ﴿۵۶﴾

يَوْمَ تَشْفَقُ الْأَرْضُ عَلَيْهِمْ سِرَاعًا
ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴿۵۷﴾

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ
عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن
يَخَافُ وَعَيْنِ ﴿۵۸﴾

لہ یعنی خدای عذاب ہنہ پتہ خاطر بناو تہو زمیہ تہل چھین جاہ مگر تم آپ تہ تمہن بکار۔

تس نفیحت نیس میا نر عذاب چین پیشگوئین
کوثران چھ۔



سُورَةُ ذَارِيَات : یہ سُورہ چھ کئی تہ بسم اللہ ہتھ چھو اتھ اکہاٹھ آہ بیہ چھس تریہ رکوع۔

- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①
- ذَٰرِیَاتٍ ذَّوٰٓءِ ②
- فَالْحَمَلِیَّتِ وَثَرَّاءِ ③
- فَالْجَرِیَّتِ یُسْرًا ④
- فَالْمَقْسِمِیَّتِ اَمْرًا ⑤
- اِنَّمَا تُوعَدُوْنَ لَصَادِقٌ ⑥
- وَ اِنَّ الدِّیْنَ لَوَاقِعٌ ⑦
- وَ السَّمَا ءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ⑧
- اِنَّكُمْ لَفِی قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ⑨
- یُؤْفَكُ عَنْهُ مَنِ اَفَكَ ⑩
- فَتَبَلَ الْخَرَاصُوْنَ ⑪
- الَّذِیْنَ هُمْ فِی عَمْرٍ وَا سَا هُوَ تَ ⑫
- یَسْئَلُوْنَ اٰیٰتَ یَوْمِ الدِّیْنِ ⑬
- یَوْمَ هُمْ عَلَی النَّارِ یُفْتَنُوْنَ ⑭
- اے چھس (اللہ تعالیٰ) سُنَد ناو ہتھ (پرآن) یس
جہ رُوس کرم کرن (تہ) چھیر کو چھیر کو رحم کرن
وول چھ۔
اُسی چھکھ تمہ (واو شرعیٹ) شہادتہ کتہ پیش کران پیہ
(اؤ برس) اوڑاوان چھیران چھیر۔
پتہ چھیر (رُوک) ابر تلان۔
پتہ چھو وار وار پکان۔
او چھیر سانس محمس (یعنی رُوس زمینہ منتر)
باگراوان۔
تہ ہر سوتی یس وعدہ کرنہ یوان چھ سہ روز ہزور
پوہ سپدتھ۔
بیہ جزا سزا روز ہزور واقع سپدتھ۔
اے کس تنبوتس منتر چین اُسو سہ آسمان پیش کران
یتھ منتر تارکن ہنز (گندتھ) وتہ چھیر۔
توہی ساری چھو اُکس احتلاہ واجنہ کتھ منتر ہتہ آہتہ۔
نینیر کتہ سے شخص چھ حقہ ریش چھرنہ یوان سینور
ہندہ حقہ ریش چھرنہ نیک حکم جاری سپدان چھ۔
اپزہ اندازہ گاون وادے گے ہلک۔
یم گراہی ہندن سنورن منتر بوہرتھ پوز مشتراوان
چھیر۔
تم چھ پرشھان زجزہک سزہک وقت کر بیہ !
(تہ ونکھ) تمہ وقتہ (بیہ) بیلہ تم ناکس عدلس

منزل متبلا کر بہین تر
(تو ونہو پیکھ نہ) پین عذاب تر ہو یہ (چھو) سے
(عذاب) ایس تو ہی جل جل ننگان اُسو۔
متقی روزن باغن تر ناگن منز۔

(بیہ) تہند پروردگار یہ کیشترھا رہن دیہ تم لرض
تر رمان۔ تم اُسو امر وقتہ برو فہے پلہو پاٹھو حکم
بجائش وار۔
راژن اُسو کے شو نگان۔

بیہ سحر وقتن تر اُسو مغفرت ننگان روزان۔

بیہ تہندین مانن منز اوس منگ و نین ہند تر
حق، بیہ اوس) تہند تر حق، ایم تر منگتہ ہیکان
اُسو۔

بیہ زہینہ منز چھ پڑھ کرن والین ہند خاطر والہ
نشان۔

بیہ تہندین سینہن پان منز تر، اُسو تو ہی چھو
نا و چھان؟

بیہ آسانس منز چھ تہند رزق تر بیہ یہ کیشترھا
(تہر علاو) وعدہ کر نہ یوان چھو، تہتہ (چھو)۔

لہذا آسان تر زہینہ ہندس پروردگار ہنزد رہے
(نہ میلہ بہرہ کتہ پلہو سیدن اڈ لگہ و پتہ نہ) یہ
(قرآن) چھو اکہ حقیقت تہتہ پاٹھو بیتہ پاٹھو تہنہز
کتہ کر نہ (حقیقت چھین)۔

کیا تر یہ نش چھا ابراہیم ہندین عزتہ والین
پڑھین ہنز خیر واژ مہتر؟

نیلہ تم تس نش آپہ تر ہمز ولس، (اُسو چھو شہ)
سلام (کران)، تم وونگہ (ہر تر چھسو ونان نہ)
تہند خاطر تر چھین ہر ہمیشہ آبا پتہ خلیہ سہند
طرفہ) سلامتی مقدر۔ (تہ و لہ مہتر وون نہ)
یکم لوگہ چھو وہ پر ہنزد یوان۔

ذُوقُوا فِشْتَتَكُمْ، هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ
بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿۵۱﴾

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿۵۲﴾

أَخْذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ، إِنَّهُمْ
كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿۵۳﴾

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا
وَإِلَّا شَكَرُوا لَهُمْ بَلَّغْنَا لَهُمُ
الْوَعْدَ ﴿۵۴﴾

وَفِي آمَوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿۵۵﴾

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿۵۶﴾

وَفِي أَنْفُسِكُمْ، أَلَا تَبْصُرُونَ ﴿۵۷﴾

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿۵۸﴾

فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ
بِمثلِ مَا أَنْتُمْ تَنْطِقُونَ ﴿۵۹﴾

هَلْ آتَاكَ حَدِيثٌ صَفِيْفٌ إِبْرَاهِيْمَ
الْمَكْرُوْمِيْنَ ﴿۶۰﴾

إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا، قَالَ
سَلَامٌ قَوْمٍ مُّنْكَرُونَ ﴿۶۱﴾

پتہ گوڑ سے لوہے پامو پمٹو پستین گرہ والین کن تہ اون
اکھ بزمٹ ووتھ۔

تہ سہ تھوون بمن بروٹھ کنہ (پتہ) ووتھ
کیا توہر کینیونا کیہنہ؟

تہ (دلہ منڑی) کھوڑ بمن نش ہنا، (تہ بمن تہ توڑ
پہ بکر) تہ ووتھس، کھوڑتہ ہا! بیہ تس درتھ اکس
ٹھلہ والس ٹوہر پتہر تھو شغری۔

اٹی آہ تہنہر آتھن بروٹھ کن تہ تہنہر تہنہر
پٹھہ اکھ جیہہ بک نشانہ اہ تہہ لای (حاران ٹھوہتھ)
پنہر اٹھ زور سان پنہس تہنہر تہ ووتھ، ہر
تہ چھس اکھ ہا ٹھہ بڈ (میہ کتھ پامو زویو نیچو؟)۔

تھو ووتھس (پہ چھہ پوزر) تہ چھکھ ہتھہ لیکن
چانی پروردگارن چھہ (اٹی) ووتھت (پہ اسہ
ووتھ) سہ چھہ بے شک بچہ چکھتھ وول (تہ)
بڈ ٹھلہ وول۔

(اتھ پٹھ) (دوہن) (ابراہیم) اے رٹلو! تہنہر
کھس بڈ ٹھلہ چھہ تھوون آتھر؟

تھو ووتھس، اسی چھہ اکس ٹھوون تھوون
اوتھ۔

یہہ زن اسی بمن پٹھہ میٹھر کھبر ہن ہند بارنہ واول۔

ہمن پٹھہ چائس پروردگار ہند طرفہ حد نیرن والین
سزا دہنہ ہا پٹھہ نشاہ تراونہ آتھت چھہ۔

تہ پتھو ٹھوون اتھہ ہتھ متھ اسہ تم گڈی اسہ۔
تہ اسہ ٹوب اتھہ ہتھ متھ پستین فرمانہ واران
ہند صرف اکے گر۔

بیہ تروو اسہ اتھہ (ہتھ) متھہ اکھ تہہ نشاہ
ہمیشہ بمن لوکن بکار بیہ ہم زن کرٹھہ عتہ
نہنہ کھوڑن واول اسن۔

فَرَاغًا إِلَىٰ آهْلِهِمْ وَجَاءَ بِوَحْيٍ سَمِيئٍ ﴿۱۱﴾

فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿۱۲﴾

فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ
وَبَشَّرُوهُ بِغُلْمٍ عَلَيْهِ ﴿۱۳﴾

فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ
وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿۱۴﴾

قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ
الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿۱۵﴾

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا
الْمُرْسَلُونَ ﴿۱۶﴾

قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿۱۷﴾

لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينٍ ﴿۱۸﴾

مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُشْرِكِينَ ﴿۱۹﴾

فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۰﴾
فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ
الْمُسْلِمِينَ ﴿۲۱﴾

وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ
الْعَذَابَ الْآلِيمَةَ ﴿۲۲﴾

وَ فِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ
بِسُلْطٰنٍ مُّبِيۡنٍ ۝۳۱

بہ موسیٰ ہندس واقص مشرتہ (اوس واریاہ نشانہ)
بیلیلہ اسہ سہ فرعون کن اکھ ٹاکا پر واپس دتھ سوزاو

فَتَوَلَّىٰ يَدُورَيْنِهِمَا وَقَالَ سَجِدْ اَوْ مَجْنُوۡنًا ۝۳۲

تہ سہ (فرعون) گوو پیچھتھ پینس بیت خانس
کن تہ بیوتن وکن نہ یہ (موسیٰ) پچھ بجہ ملہ
مایہ دار کتھ کرن وول تہ دیوانہ۔

فَاخَذْنَاهُ وَجُودَهَا فَنَبَذْنَاهُمْ فِي
الْبَحْرِ وَ هُوَ مُلۡمِۡمٌ ۝۳۳

اتھ پیچھ اسہ روٹ سہ تہ تھو ہندس لشکر اسپنہ
قہر ستر، تہ تم ساری دتھ سمندرس مشرتہ
دارتھ۔ تہ نس پیچھ چھ (ازتام) طامت کرنہ
یوان۔

وَ فِي عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّیۡحَ
الْحَقِیۡمَ ۝۳۴

بہ عادن ہندس واقص مشرتہ (چھ اسہ واریاہ
نشانہ تھا وری ہتی)۔ بیلیلہ اسہ بہتن پیچھ اکھ
سخت واپر طوفان سوزاو۔

مَا تَذَرُ مِنْ شَیۡءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلَّا جَعَلَتْهُ
كَالۡرِیۡۡمِۡمِ ۝۳۵

سہ یچھ چیزس پیچھ یکان اوس تھہ (اوس تباہ
کران تہ تھہ) اوس سوسرے مشرتہ اڑی جن
ہندس پاٹھ کر تھہ ترھنان۔

وَ فِي قَمُوۡرٍ اِذْ قَبِلَ لَهُمۡ تَمَّتَّحُوۡا حَتّٰی
جِئِنَ ۝۳۶

بہ تمولن مشرتہ (تھوو اسہ نشان) بیلیلہ
جن ورتھہ او نہ کس و تھس تمام تہلو قایدہ۔

فَحَتَّوۡا عَنِ اَمْرِ رَبِّہِمۡ فَاخَذَتْہُمُ
الصَّوَۡقَةُ وَ هُمۡ یَنظُرُوۡنَ ۝۳۷

تہ تھو کر پینس پرور دگا پر سترنا فرمانی تہ تم
رڈی اکر غلابن یچھ۔ تہ تم گئے ہے بنگہ روزتھ۔

فَمَا اسْتَطَاعُوۡا مِنْ قِبَابِهِۦٓ وَ مَا كَانُوۡا
مُنۡتَصِرِیۡنَ ۝۳۸

اد نہ تہ ہنگہ تم بچھ خاطر تھوو و تھتھ تہ نہ
ہنیک تھو کانہہ ہند اتھ روٹ حابل کر تھ۔

وَ قَوْمَ نُوۡجِۦٓ مِنْ قَبۡلِ ؕ لَآ اِنَّہُمۡ كَانُوۡا
قَوْمًا فٰسِقِیۡنَ ۝۳۹

بہ رتن بروٹھ (اوس اسہ) لوچہ سند قوم تہ
(ہلاک کوزت) اسہ اوس فرما نبرواری تہلہ نمبر
نیرن وول قوم۔

وَ السَّمَآءِ بَنَیۡنَهَا بِاَیۡدِیۡنَا وَ اِنَّا

بہ آسمان تہ چھ اسہ کھو یا ہفتو تہ سستی ہوت

۱۔ رکن بظنی معنی چھ طاقت حاصل کر بیج جائے" یعنی سہ مشرتہ فرعون تہ تہ قوم

واندس پورا کران اوس

تہ بائید امیک بظنی معنی چھ "تھو سستی" مگر لغتس مشرتہ امیک معنی طاقت تہ (جاری)

- ﴿مُؤْسِحُونَ﴾ ۵۱ تہ اسی چھ وسعتہ وول طاقت تھوں۔
- ﴿الْمَاهِدُونَ﴾ ۵۲ بیہ زمین چھ اسہ اکہ وتھرکے پاتھو بناو ہوتہ تہ اسی چھ سپٹھارت وتھرکے بناون وال۔
- ﴿تَذَكَّرُونَ﴾ ۵۳ بیہ پرستہ چیزس چھ اسہ تہ تہ ماد بناوکر ہوتہ بیٹھنک توہی نصیحت روتہ۔
- ﴿مُؤْمِنِينَ﴾ ۵۴ اوکے (پڑک ورتہ) توہی دوو اللہ (تعالے) ہس کن بیہ چھس تہند کتہ تہ ہہ تھد ہٹہ ہشار کرن وول ہنتہ آمت۔
- ﴿لَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ ۵۵ بیہ توہی ہہ بناویون اللہ (تعالے) ہس سوتہ کاتہہ بیاکھ معبود۔ بیہ چھس تہند کتہ تہ ہہ کنن اکھ ٹاکا ہشار کرن وول۔
- ﴿كَذَلِكَ مَا آتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ دُسُولٍ إِلَّا قَالُوا سِحْرٌ أَوْ مَجْنُونٌ﴾ ۵۶ تھے پاتھو ہتمن بروٹھ (تہ) ہیم رسول لاکن کن یوان رووکر ہتمن وون لاکو بیہ نہ تہ ہچھ لوہی ووتہ کتہہ بناون وال ہنتہ فائز۔
- ﴿أَتَوَاصُوا بِهِ﴾ ۵۷ کیا ہم آسیا امیج (یعنی یہ کتہہ ونچ) اکھ کس وصیت کرتہ گاتہو؟ (ہرگز نہ)۔ بلکہ ہچھ ہیم سہرہ سلم ہتھو چھرک لاکھ (اوسے موکھ چھ اکھ ہسکر ہد خیال تہندہن دلن منز ووتھان)۔
- ﴿فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٌ﴾ ۵۸ لہذا (اے نبی!) تہ ہچھ ہتمن ہند کتہ ہتہ تہ تہہ بیہ نہ (تہنہرو کامو ہند باعشہ) کاتہہ طامت کرتہ۔
- ﴿وَذَكَرَ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ۵۹ بیہ آس یاد دہانی کران روزان، تہ کیا یاد دہانی چھیہ موہن نفع ہتھان۔
- ﴿لِيَسْبُدُونَ﴾ ۶۰ بیہ میہ چھہ جن تہ انسان صرف ہستہ عبادتہ ہچھہ پاد کرکے ہوتہ۔
- ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا﴾ ۶۱ نے چھس بہ ہتمن کاتہہ رزق منکان تہ نہ چھس بہ ہتمن نش بہ ہتھعان تہ تہ کھیان میہ کھپن۔

بقیہ حاشیہ :- قوم درت تہ یعنی آسمان بناونس منزواں اللہ تعالیٰ ہند قوم درنگ تہ پاکیزگی ہند اتھہ یعنی تہندہ صفات کار فرما۔


اللہ (تعالیٰ) ہے چھ سارے کھین کھیاون
 وول رہیہ چھ سہ، سہٹھا زبردست طاقتہ وول۔

اد یو فہم کوڑمت چھ تہندہ باچھ تہ چھ تہتی وول
 تہو وول تہندہن ستی باچہن ہند خاطر اسی۔ اد
 کفر پزیر تم کرن پڑ میں نش عذاب منکس ڈرہ۔
 اد یو کفر کوڑمت چھ تہندہ خاطر چھ ہاکت نازل
 سپدن واجہی۔ تہ دوہہ بیبیک متن ستی وعدہ
 کرنہ یوان چھ۔

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ
 الْمَتِينِ ①

فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِّثْلَ
 ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَجِيبُونَ ②

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ
 الَّذِي يُوْعَدُونَ ③



سورة طور: یہ سورہ چھ ٹکی تہ بسم اللہ ہتہ چواتھ پانزواہ آہیہ بیہ چھس زہ رکوع۔

(یہ چھس) اللہ (تعالیٰ) سند ناو ہتہ (پران)
 یس حدہ رؤس کرم کرن وول (تہ) پھیرک پھیرک
 تم کرن وول چھ۔

یہ چھس طورہ شہادتہ کرنہ پیش کران۔
 بیہ (یہ) لپچھتر کتاب تہ۔

(یوہہ) منتر راوی متہن کاغذن پیٹھ (یکھتہ آہتر
 چھینے)۔

بیہ خاد کتبہ یس ہمیشہ آباد روز۔
 بیہ سہ پیش یس ہمیشہ تھوہ روز۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

وَ الطُّورِ ①

وَ كِتَابٍ مَّسْطُورٍ ②

فِي رَقٍّ مَّنْشُورٍ ③

وَ الْبَيْتِ الْمَخْمُورِ ④

وَ السَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ⑤

لہ لفظی معنی چھ بکیر یا تولہ دور مراد چھ جڑا ستر، عربی اس منز چھ جڑا ستر یا حالو ہند خاطر لفظ
 ذوب یعنی وول لفظ و تراوہ یوان۔ (منقولہ ۱۸)

سہ کوہ طور چھ سہ مقام بیہ تہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیٹھ تورات نازل سپز۔ بیہ منز
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہندہ لپچھ پیشگوئی چھینے۔ سہ یعنی قرآن مجید
 لہ رقی: ناولی مشلہ ہتہ پیٹھ تحریر یکھتہ یوان اوس پتہ اسی اتھ نقشک پانٹو وبتہ
 (دوٹھ) تھاوان۔ سہ ہمیشہ تھوہ روزن وول پیش۔ مراد چھ خانہ کتبہ۔

وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ①

یہ گتھ مارون سمندر۔

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ②

چانس پروردگار ہند طرفہ روز عذاب ضرور نازل

مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ ①

سیدتھ۔
تھ پھنہ کٹھن دور کرن وول۔

يَوْمَ تَمُودُ السَّمَاءُ مَوْزًا ②

یہ دو ہہ او بر لہ کٹھن ہسیہ۔

وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ③

تو بل پکن پستہ پلور پلور رفت ہ سان۔

فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ④

اد امر دو ہہ سپد اپزاون والہن پیٹھ عذاب نازل۔

الَّذِينَ هُمْ فِي حَوْضٍ يَلْعَبُونَ ⑤

(یعنی تن لاکن پیٹھ) ہم گنہگی ہوا دوان گتدن مس۔

يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً ⑥

یہ دو ہہ تم ساری جہنہ کس نارس کن دکہ دی دی نہج ہن۔

هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكْذِبُونَ ⑦

(تہ ونہن بیکیہ) یو ہے پٹھ سہ نار یہ تہ تو ہی انکار کران مسو۔

أَفَسِحْرُهُذَآءَ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ⑧

کیا یہ مسافر جو گری کہہ در حقیقت چھو نہ تو ہی وتہ تہ وچھان؟

إِضْلَوْهَا فَاضْبُرُوا أَوْلَا تَضِيرُوا إِسْوَاءَ عَلَيْكُمْ، إِنَّمَا تُجْرَدُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ⑨

(اگر یہ محض اکھ خیال چھ تہ بین خوف پائگی) اڑو اتھ منز تہ اد ہر کڑی تو یا متہ کڑی تو، تہنہر شاطہر چھہ کئی کتھ (یہ سپن چھہ تہ روز سپدتھ) تو ہہ چھو صرف تہنزن علمن ہندے بدلہ د نہ یوان۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ⑩

متقی مس جتن منتر تہ نعمتن منتر۔

فَأَكْهَيْنَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ، وَوَقَّهْمُ ⑪

یہ یہ کتھ شہا تہنہ پروردگار متن دہ تہ تھ پٹھ

۱۔ قرآن کریمس منتر چھ لفظ سماء مگر لغتس منتر چھ سماء آسمانہ ورائی او برس تہ دنان

تہ سے معنی چھ سیتہن لگان۔ تہ مطلب چھ یہ نہ قرآن مجید کہ دسی یہیہ رحمتک او بر

دنیا ہس پیٹھ وہاونہ۔

۲۔ بال استعارہ پائگی کو بڑی انسان یا بڑی نظام تہ مراد چھ یہ نہ نیلہ قرآنی علم چھان تہ

عروج حکومت تہ قیصر تہ کسری سند نظام گرتھ تباہ تہ دوزیہ کہہ پردہ پیٹھ گرتھ غاب۔

رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ⑩

آسن خوش تہ تہند بروردگار بچاوتن جہنم
کہ عذابہ نشہ -

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ ⑪

(بسیه ونیکہ ز) کھنیو تہ چینیو (پہ تو بہ وینہ لوان
چھو) سہ آسہ تہند بو اعمالو کنی تہند خاطر برکت
دول -

مَتَّكِرِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ ۖ وَ
زَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ⑫

تم آسن تہ دو بہ ہنگہ پختہ نگہ و تھر اوتہ تخت
پوشن پیچہ دکھو دی دی بیچہ - بسیہ کرو اسی
بتن و بیچہ و بیچہ کاجہ اچہ واجبہ زنا تہ جوہ کہ
عطا -

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ
بِإِيمَانٍ آلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا
آلَتْهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ۚ كُلُّ
امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ⑬

بسیہ یو لوکو ایمان اونت چہ تہ تہندی اولاد
تہ چہ ایمان کس معالس مشر متن پتہ پتہ پتہ پتہ
اسی کرو کہ متن سوتی تہندی اولاد تہ تہدی پاپہ
کین جتن مشر جمع بسیہ کرو تہ تہندی (ماہن
ماہن ہندی) اعمالن مشر تہ کونہ کئی - پر پتہ
اکہ شخص چہ پنہن اعمالن ہندی بدس مشر
گرو -

وَأَمَدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَ لَحْمٍ مِّمَّا
يَشْتَهُونَ ⑭

بسیہ کرو اسی متن تہنزو تھشو مطابق رنگہ رنگہ
میو تہ قبسا قسم مار فراہم -
تم کرن تہ مشر تھقین پایلن تھہ تھہہ یمن
ہند (چینک) نتیجہ نہ آسہ بکواس تہ نہ (آسہ)
گوناہ (کرن) -

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وُعْلَمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ
لِوَالِدِئِهِمْ أَوْ حَمَلٌ ⑮

بسیہ روزن پر پتہ وز متن نش جوان نہدی نگار
حاضر - زن زہ تم پردن مشر ڈوبتہ دروانہ
آسن لہ -

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
يَتَسَاءَلُونَ ⑯

بسیہ کرن تم اکہ اکہ کن دیان دتہ پاتہ وازی پتہ
تھار -

قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا
مُشْرِكِينَ ⑰

تہ ون زہ اسی لو کہ اسی برو تہ پنہن اشناون
مشر پتہ انجامہ نشہ کھوران -

اما پوز اللہ (تعالیٰ) میں کوز اسے پیٹھ احسان ہے
اُسی بچاؤن کرشیشہ تر شجر ہند عذابہ نشہ۔

اُسی اُسی بروٹھ پیٹھ تس (خدایں) آلو کران۔
سہ چٹھ سپٹھانیک سلوک کرن وول (تہ) (تہ)
اُنٹھ رُوس رحم کرن وول۔

اوکوز (اے رسول!) تہ گرتھ (لوکن) نصیحت
کران، تہ کیا ز پینس پروردگار ہند احسان
سیتو نہ چھکھ تہ فال وچین وول تہ نہ
چھکھ دیوانہ۔

کیا تم جھا دیوانہ ز یہ شخص پیٹھ شاعر (تہ) اُسی
چھ تہند خاطر زمانہ چھ تباہی پیارن؛
تہ ویکھ پیارن گرتھو تہ کیا ز بہتہ چیس تہند
باپتھ پیارن۔

کیا تم جھا تہنر عقلہ میںے کتھ ہینچنا وان؛ کہہ
تم چھ بہتھ پھیر توام؛

کہہ تم چھ ومان پہ ز اگ چھ پانی پانے کتھ بنا تہ
پز ر چھ یہ ز تم چھنہ (وہی نازل سپس پیٹھ)
ایمانے انان۔

یو دے تم پز یارک چھ تیلہ اذتن امی تسلمے
بدل کلامہ (میٹھ زن دنیا فاصلہ کرتھ ہیکہ زردونو
کلامہ چھا ہوکی)۔

کیا تم چھا یہ مطلب پاؤ کرنہ آوتی کہہ تم چھ
پانے پینو پاؤ کرن واول؛

کیا تم چھا آسمان تہ زمین پاؤ کرک متی؛ (ندانہ)
بلکہ چھ پز یہ ز تم چھنہ (زمین تہ آسمان
پاؤ کرن وابس پیٹھ) پز تہ تھاون۔

کیا تم نش چھا چائس پروردگار ہند خزانہ؛
کہہ تم چھ رأیچھدر،

فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَدْنَا عَدَابَ
السَّمُورِ ۝۱۵

إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ
الرَّحِيمُ ۝۱۶

فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ
وَلَا مَجْنُونٍ ۝۱۷

أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ
الْمَثُونِ ۝۱۸

قُلْ تَرَبُّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ
الْمُتَرَبِّصِينَ ۝۱۹

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَخْلَاؤُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ
قَوْمٌ طَاغُونَ ۝۲۰

أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝۲۱

فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا
صَادِقِينَ ۝۲۲

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ
الْحَاقِقُونَ ۝۲۳

أَمْ خَلِقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا
يُؤْقِنُونَ ۝۲۴

أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رِبِّكَ أَمْ هُمْ
الْمُضْطَرُّونَ ۝۲۵

أَمْ لَهُمْ سُلْمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ ؟
فَلَيَاتٍ مُّسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٥١﴾

کیا تمہیں ہنس چھا کاٹھہ ہیر بیتھ پیٹھ کھبتھہ تم
(خدا یہ سنہر کہتھ) بوزان بچھ ؟ او کو پز تر تہند
بوزن دول کر (محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہندو پاٹھی) کاٹھہ ٹاکا پز دلپل پیتھن ۔

أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ﴿٥٢﴾

کیا خدا یہ ہند خاٹھ چھا کو پز تر تہند خاٹھ
تہنچو کر ؟

أَمْ تَشْكُلُهُمْ آجْرًا قَلْبَهُمْ وَمَنْ مَّغْرًا
مُتَقَلَّبُونَ ﴿٥٣﴾

کیا پز چھا اتھن کاٹھہ بدلہ منگان ؟ او کو پز بچھ
تم امر چنیٹھ ہندس بارس تل د بے ہتھو ۔

أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ ﴿٥٤﴾

کیا تم چھا علم غاب میں تم لیکھاں بچھ ؟

أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ
الْمَكِيدُونَ ﴿٥٥﴾

کیا تم چھا ثریہ خلاف کاٹھہ تدبیر کرن بیٹھان ؟
یاد تھوو تمہن کافر نے خلاف بین (خدائی) تدبیر
کرنہ ۔

أَمْ لَهُمْ آلَةٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحٰنَ اللَّهِ
عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٥٦﴾

کیا تمہن چھا اللہ (تعالیٰ) ہس وراہی کاٹھہ بناکھ
معبود ؟ (یاد تھوو) اللہ (تعالیٰ) چھ تہند
بشرکہ پتھہ پاک ۔

وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا
يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ﴿٥٧﴾

اگر تم شمس منتر کاٹھہ او بر لنگا ، روڈ
تراون وچھن اتی چھ وناں تر یہ چھ محض
اکھ گولن او بر ۔

فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي
فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿٥٨﴾

لہذا پز تراو کہ تم (تہنہن بے وتونی منتر) نوت
تام تر تم پینن سہ گولڈ مت دودھ وچھن پتھہ
مغز (تمہن پیٹھ عذاب نازل کرنہ پتھہ تر) تم
بین بیمہ سوتھ بے ہوش کرنہ ۔

يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَ
لَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٥٩﴾

یہیہ دھہر تہند تدبیر تمہن کاٹھہ نایدہ واتناوہ
تر نہ پتھہ تمہن مدد کرنہ ۔


وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ
ذٰلِكَ وَلٰكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

بہیہ ظالم لوکن واتن امر وراہی یہیہ تر عذاب
وہ لگوو ہتھو اندر چھتہ واریاہ زماناں ۔

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا
وَستَخِرْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٦١﴾

بہیہ تر روز پسنہنس پرورد وگا پسنہنس محکس
پیٹھہ تھایم تکیاز تر چھکھ سائین اچھن تل (سائین
حفاظت منتر) بہیہ پز تر بیبلہ تر (عبادتہ خاطر)

استاد سپدکھ تہ روز سائس مدرس سستی سستی
 تسبیح تہ کران۔
 تہ تیغہ پانگو (تیلہ تہ) رات کیت (تہ پوجا پوجہ)
 استاد سپدکھ تہ (تہ روز تہنر تسبیح کران تہ تیلہ)
 تارکھ تھر پھر (یعنی تیلہ رات موکلن واجتی
 آسہ تیلہ تہ -



سورة نجم : یہ سورہ چھ کی تہ بسم اللہ تہ چھ اتمہ تہ راتھ آپہ بیر چھس تہ رتہ رکوع۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①
 (بیر چھس) اللہ (تعالیٰ) سُنَد ناو ہتھہ (پرکرا)
 یس جہر رُوس کرم کرن (ول اتہ) پھیر پھیر
 رحم کرن (ول چہ)۔
 بیر چھس شریائہ تارکھ شہاد تہ پانچہ پیش کران
 تیلہ سہ معنوی رنگس منز بون آسہ۔
 نہ چون سستی بوج نہ چہ وتہ ڈولمت نہ چہ
 سہ گراہ سہ سپد مت۔
 بیر سہ چھنہ پسنہ نفسانی ٹاہنہ سستی کلام کران۔
 بلکہ چہ سہ (یعنی تسند پیش کورمت کلام قرآن
 مجیبا صرف خدایہ بند طرفہ تازل سپن واجتی
 دُحی۔
 تسن چہ (یہ کلام) بڑی طاقتہ وَا (خدایں)
 ② وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ①
 ③ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ①
 ④ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ①
 ⑤ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ①
 ⑥ عَلَّمَ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ①

لہ تہریا، یہ چہ شہن تارکن ہند اکھ میوزیتھہ ٹا شہری پانگو کر تہ کور و نان چہ
 یک چہ آسائس منز ساروے کھوتہ قھنرس پیٹھ مانہ یوان۔ اتمہ منز
 چہ تہہ پیشگوئی کرن ایشارہ تہہ منز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہ قرآن
 لَوْ كَانَ إِلَّا يَمَانُ مَعْلَقًا بِالشَّرْيَآ لِنَاكَ رَجُلٌ مِنْ خَارِسِ
 یعنی اگر اپمان شریا تارکن سستی تہ اویزان گو مت آسہ تہ اکھ فارسی شخص ابن
 تہہ واپس زمسپنہ پیٹھ یعنی مہدی علیہ السلام کر دنیاس منز دوبار ایمان
 تہایم۔

بہیچھنومت -

بہیچھنومت طاقت پھیری پھیری ظاہر سپدن وار
چھ تہ سہ چھ وڈ کین پینین طاقتن ہند
اظہار باچھ پنسن عرسس پیچھ مضبوطی سان
تایم سپدمت -

ذُو مِرَّةٍ ۱۰ فَاسْتَوَى ۱۰

بہیچھنومت کانبہ بے پردہ شخص چھ نیہ دندین
پیچھ تہند ظہورک نشانہ بوزنہ یوان -

وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ۱۰

بہیچھنومت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (سپد
) بندن ہند یہ اضطراب وچھتہ تہ تمن پیچھ
رحم کرہ خاطر اللہ تعالیٰ ہس سمکھتہ موکھ (تس
تزدیک تہ سہ (خدا) تہ ووتہ (محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ہند ملاقاتہ کس شوقس مشر)
ہس پیچھ بھان -

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ۱۱

تہ تم دلہ لہے سپدک دون کمانہ ہنر بلوچہ
شکلہ مفر تبدیلہ تہ عرشان گرتھان گے
امہ کھوتہ تہ جاد نزدیک -

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۱۲

ادگر تہ پنسن بندس کن ووحی نازل نیمیک
تہ فاصلہ کرہتہ تھوومت اوس -

فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ۱۳

(محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندری) دن یہ کینترھا
وچھمت اوس تی کون بیان -

مَا كَذَّبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ۱۴

کیا توہیچھو اتس سرتی اتھ (نظارس) متعلق
توان یس تہ (یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم) (آسمانس پیچھ) وچھمت اوس؟

أَفْتَمَرُؤَتْهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ۱۵

حالانکہ یہ (نظاری) وچھتہ تہ کی لہے بلکہ دلہ یہ
لہے چھن وچھمت - (یعنی اکھ تمہ وڈہ یسیلہ
سہ خدایس نزدیک تہیچھ کواشش کران اوس

وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۱۶

لہے عربس مشر نیلہ زرفی پانہ وازی چگری یارسیدان اوس تم اوس پینہن کمانہ ہندری
تہ تہ کرہ (کمانی ہنر نیہہ) پانہ وازی لوان - اتھ آئس مشر چھ خدا تعالیٰ تہ رسول کریم صلی
اللہ علیہ وسلم ہند پانہ وازی قرب بیان کرہ امت - (منہ)

تو دو بیم تمہہ وزیرِ مینیلہ خدا تعالیٰ تس کُن تازل پڑے۔
یعنی تھس اکس سدیرہ کس بش یس افس
پٹھ پٹھ۔

تھو نکھ چھ جنت الماویٰ۔

بیر یہ نظار اوس تم کو تمہہ وزیر و جھمت ینلہ سدیرہ
کس تم چیزن و ولت کورمت اوس یس پٹھ
وزیر و ولت کران چھ (یعنی الہی تجلی)۔
نہ تہ ڈاج تمہہ وزیر تہنڑا چھ نہ گئے بروٹھ نہ تھ۔

تمہہ وزیر و چھ تم کو پس پس پروردگار بندو پڑو
بشانو مشر اکھ بوڈ نشانہ۔

تو ہی تہ بوز ناوو ہنات تہ عزی سند حال اکیا
تمن تہ چھا یو ہے شان (!)۔

بیر تریشیم منات سند تہ یس ہمو علا و چھ۔
کیا تمہندہ خاطر چھا نیچو تہ خدایہ سند خاطر
چھ کور؟

یہ تہ گئے سپٹھ ہے ناقص باگئے۔

یم تہ چھ کینہہ تاویم تو ہیر تہ تمہندو جدا جدا
تھاوی متو اسی (نہہ یمن منر چھینہ کبھی تحقیق)
اللہ (تعالیٰ) ہن کر تہ یمن (پوتلیں) ہند
خاطر کتھو دلیل تازل۔ تم چھ صرف اک و اہج
تہ نفسانی خا ہیشہ ہنر پاروی کران۔ بیر ہمن
نش چھ تمہندس پروردگار بندو طرفہ ہدایت
آمت (اما پوز تو تہ چھینہ ہمن نکر تران)۔
کیا انسان یہ یتھان چھ تہ چھا تس میلان۔

عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ⑩

عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى ⑪

إِذَا يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ⑫

مَا ذَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ⑬

لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ⑭

أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ⑮

وَمَنْوَةَ الثَّالِثَةَ الْآخِرَى ⑯

أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى ⑰

تِلْكَ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ ⑱

إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَعَيْتُمْ مَوْهَا أَنْتُمْ وَ
أَبَاؤُكُمْ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ
إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ مَا تَهْوَى
الْأَنْفُسُ ۚ وَ لَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ
الْهُدَىٰ ⑲

أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَسَّى ⑳

لہ سیدرہ چھ اکھ کل یتھ برینین میو پیل لگان چھ۔ یتھ فارسی پاٹھو کنار چھ دنان۔ اتھ منز چھ
ترباتی صفات آسان۔ اوسے چھ مہر دن سران دنہ خاطر اکھ کو تھہر آس تراوان۔ (منہ)
سہ لات، عزی تہ منات آسہ عرب مشترک ہنر ترین دیویہ یمن تم پوز کران اسی۔

قِيلَ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ ﴿٦١﴾

۱

اور مولا کہ گزشتہ ترقیس روزن زرا خرتہ جیہ
تو دنیا ہیجہ سارے نعمت چھینے اللہ (تعالیٰ)
سند کے اتھس مغز۔

بیہ آسائش منز چھ واریاہ ملایکہ (مگر) تہنہز
سفاش چھینے (کائنات) کا منہہ فایر و اتناوان۔
امر و رائی ز اللہ (تعالیٰ) دیہ تس شخصس متعلق
پتھ کئی کر تک اجازت۔ یس تہنہز مرضی مطابق
آسہ تہ یس سہ پسند کران آسہ۔

یک لوکہ آخرتس پیٹھ اپمان چھینے انان تم چھ
ملاکین زمانہ ناو تنوان۔

بیہ اتھن چھینے اتھ سلسلس منز کا منہہ تہ عشیم
تم چھ صرف اکس و مہس منز ہینہ آہتہ تہ وہم
چھینے حقس مقابلہ کینہہ تہ فایر دوان۔

اد یس شخصس سادہ ذکر لہ نشہ ہتھ بھران پتھ
تہ دنیا ہیجہ زندگی و رائی چھینے بیہ کینہہ سیزھان
تہ تہ پھر تندر کمنہ ہتھ تہ تہنہز پاروی سہ کر!
یہ چھ ہنن لوکن بندہ فاکمک آنتھ۔ چون پروردگار
چھ بے شک تس شخصس زبر پاتھو زمانان یس
تہنہز و تہ نشہ ڈلان چھ بیہ چھ تس تہ زبر پاتھو
زمانان یس سیز و تھ پراوان چھ۔

بیہ آسمان تہ زمینہ منز یہ کینہہ چھ سورہ
چھ اللہ (تعالیٰ) ہندیں اتھس منز امیک چھ
یہ نتیجہ آسان ز کیویدی کر سہ چھ تہنہز عملہ
مطابق ہنن بدلہ دوان تہ کیویدی کر ہنن چھ
نیک بدلہ دوان۔

(یعنی) تھو لوکہ ہم بڑو بڑو گوناہو تہ ٹاکار
بدکارو نشہ بچان روزن چھ اماہ پوز یہ ز

وَ كُمْ مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِي
شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اِلَّا مِّنْ بَعْدِ اَنْ يَّادَّبَ
اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَ يَرْضٰى ﴿٦٢﴾

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ
لَيَسْمُوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ تَسْمِيَةً الْاِنْسٰى ﴿٦٣﴾
وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ
اِلَّا الظَّنَّ ۗ وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ
شَيْئًا ﴿٦٤﴾

فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ قَوْلٍ لَّا عَن ذِكْرِنَا
لَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿٦٥﴾

ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ۗ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ
اَعْلَمُ بِمَن صَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ ۗ وَهُوَ اَعْلَمُ
بِمَن اِهْتَدٰى ﴿٦٦﴾

وَالَّذِيْنَ يَخْتَلِفُ فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ
لَيَخْبِرُنَّ الَّذِيْنَ اَسَءُوْا بِمَا عَمِلُوْا
وَالَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحَسَنٰى ﴿٦٧﴾

الَّذِيْنَ يَخْتَلِفُ فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ
لَيَخْبِرُنَّ الَّذِيْنَ اَسَءُوْا بِمَا عَمِلُوْا
وَالَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحَسَنٰى ﴿٦٧﴾

رہا (گونا گس) چھوین (تہ پتہ سپدین پشیمان)۔
تہ چون پروردگار چھ سپدھا و سلح مغفرتہ و ول۔
سہ چھو تہ وقتہ پتہ تہہ زبر پاتھو زمان
بیلہ تہ توہی ز مپتہ منز یاد کرک و تہ بیلہ

زن توہی پنہن ماجین ہنہن شکمن مشر پو شہید
مسی و۔ لہذا پنہنس پاس بہ دیو پاک قرار
متقیین چھ اللہ (تعالیٰ) زبر پاتھو زمان۔
کیا تہ زانہنا سہ شتھیں سیمو (چاہنہ و حیہ نشہ)
بتہ پھیر؟

بہ کم کینتھا دیتن (خداہ سنز و تہ) تہ پتہ
ہنہن کینجوسی کاسم، ہنہ۔
کیا تس اتھ چھا علم غای؟ تہ سہ چھ (ہنہ)
انجام و پھان۔

کیا تس آوناہ تمیک علم دہہ بہ موسیٰ
تہ وفادار! براہیمہ ہنہن کتابن منز چھ؟
(یہ زن بیتھ کتھو چھ ز) کا مہہ بورٹمن و ول
زو ہنیکہ نہ دویمہ زوک بورٹہتھ۔
بہ انسانس چھ تی میلان ہنہن سہ کوشش کران
چھ۔

(بہ چھ ہنہن صحیفن منز لیکاتھ ز) سہ (انسان)
و چھ ضرور پسنہ کوششہ ہنہن ہنہن۔
بہ تس میلہ لور جزا۔

بہ پ تہ ز (ہنہن تہ از کین سار کینے
قوم ہنہن) آخری فاصلہ چھ پچائس پروردگار
ہنہن سہ اتھس منز۔

بہ پ تہ سہ چھ انسانان تہ سہ چھ و دناوان۔
بہ سہ چھ ماران تہ سہ چھ ز نہ کران۔

بہ تہی چھ (ساری روادار) نہ تہ مادہ صورتس منز
پاؤ کرک ہنہ۔

الْمَغْفِرَةَ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ
مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ
أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ
أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ﴿۷۹﴾

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى ﴿۷۹﴾

وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْذَى ﴿۸۰﴾

أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى ﴿۸۱﴾

أَفَرَأَيْتَ يَتَّبِعُهُ الْيَهُودُ مَا فِي صُحُفِ مُوسَى ﴿۸۲﴾

وَأَنْبِئْهُمْ بِالَّذِي دَفَنَّا فِي ﴿۸۳﴾

أَلَا تَذَرُ وَارِدًا وَّذَرًا أُخْرَى ﴿۸۴﴾

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿۸۵﴾

وَأَنْ سَعْيَهُ سَوْفَ يَرَى ﴿۸۶﴾

ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى ﴿۸۷﴾

وَأَنْ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَى ﴿۸۸﴾

وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى ﴿۸۹﴾

وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتٌ وَأَحْيَا ﴿۹۰﴾

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ

الْأُنثَى ﴿۹۱﴾

نظفہ بشو بیلبہ سہ (ماجر ہندس ٹیکس منتر)
تراونہ بیان چھہ۔

بہہ یہ زہ دیوار یاد کرن تہ چھہ تسی مسہ۔

بہہ یہ زسے چھہ بختاوار بناوان تہ سے چھہ
مزیب بناوان۔

بہہ سے چھہ مانک شترئی (تارگک)

بہہ تھی کریاو گوڈ نیگ عاد قوم ہلاک۔

بہہ بہن پتہ شموڈ قوم تہ (بیم عاد سیند قومہ)
کے اکھ حصہ مسی تہ (عذابن) اوس نہ تہ ہند
کبھی تر وومت۔

بہہ بہن بروٹھ نوہ سند قوم تہ۔ تم مسی سخت
ظلم کران۔ بہہ مسی سہٹا بھتی پھر۔

بہہ سٹک پیٹھ کرنہ آ مشر بیستہ تہ آسہ تمہ
بہہ پیٹھ یوان ڈارتھ ڈر مشر۔

پتہ اوس بہن سہ چیز ولہ آمت لیس بیتھین
موقعن پیٹھ ولہ یوان چھہ۔

اد پینس پروردگار ہنز و لغتو منتر کتھ کتھ
بغٹھ پیٹھ کرکھ ڈر شک۔

یہ سون رسول تہ چھہ پتہ بن رسول ہند رنگ
اکھ رسول۔

(بہہ قوم کہ فاصلک) وقت چھہ نزدیک امت۔

اللہ (تعالے) ہس وائی ہیکہ نہ اتھ کہتہ
دہستی تہ) ڈلمہ۔

کیا تو ہی جھوا اتھ کتھ پیٹھ تعجب کران۔

بہہ جھو اسان تہ ودان چھو نہ۔

بہہ تو ہی جھو حاران شترتھ استاد (کانہہ پوز
فاصلہ کرنس پیٹھ توہہ جھو نہ قودرت حاصل)

(اد ووتھو) اللہ (تعالے) ہس برتھہ کتھ کر
شعبہ بہہ کر و تسز عبادت۔

مِنْ نُطْقِهِ إِذَا تُمْنِي ۵۱

وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَاءَ الْآخِرَى ۵۲

وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَغْنَىٰ ۵۳

وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَى ۵۴

وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ ۵۵

وَتَمُودًا فَمَا أَبْقَىٰ ۵۶

وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ
أَظْلَمَ وَأَطَىٰ ۵۷

وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ۵۸

فَغَشَّهَا مَا غَشَّىٰ ۵۹

فِي آيِ الْآءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ۶۰

هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النَّذِرِ الْأُولَىٰ ۶۱

أَرْفَعِ الْأَظْفَعُ ۶۲

لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ۶۳


أَقِمْنَ هَذَا الْحَدِيثَ تَحْجَبُونَ ۶۴

وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ۶۵

وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ ۶۶

فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَعَابِدُوا ۶۷

بَعْدَ



سورة قمر: یہ سورہ چھ کی ہے بسم اللہ ہے چھ جہاتہ شونزادہ آیت ہے چھس تریزہ رکوع۔

- يَسْمُو اللّٰهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①
 يس جس (اللہ تعالیٰ) سدا ناو ہے (پران)
 یس حد رؤس کرم کرن اول (تہ) پھیری پھری
 رحم کرن اول۔
- اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَالنَّشْقُ الْقَمَرُ ②
 (عربہ چیر) تباہی ہنر گر چھینہ آہتر تہ زونہ
 چھ چاک گوشت۔
- وَاِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرَضُوا وَيَقُولُوا
 سِحْرٌ مُّشْتَبِهٌ ③
 بیہ یوہ وے تم کانہہ نشانہ وچھن تہ ضرور
 پھرن ہے تہ دن زہ یہ چھ محض اکہ دوکھ یس
 ہمیشہ پیٹھ دن یون چھ۔
- وَكَذَّبُوا وَاَتَّبَعُوا اَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ
 اُمَّةٍ مُّسْتَقِرَّةٌ ④
 بیہ تمو اپزود تہ پشہن ٹاہن پتہ پتہ پتہ
 پرتہ کامر ہند خاطر چھ اکہ وقت مقرر آسان۔
- وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْاَنْبَاءِ مَا فِيهِ
 مُزْدَجَرٌ ⑤
 بیہ بہن نش پھرتہ حالات ڈا آہتر یکن اندر
 ہنیک سامانہ موجود اوس۔
- حِكْمَةً بَالِغَةً فَمَا تُغْنِي النَّذُرُ ⑥
 بیہ تترہ حکمتہ چہ کتہ تہ آہہ یس (دن منتر)
 سنن واجبہ آہہ مگر (انسوز زہ) کھوڑ ناون والہو
 دیتہ نہ بہن کانہہ فایہ۔
- فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِيَ اِلَى شَيْءٍ نَّجِيٍّ
 تُكْفِرُ ⑦
 او موکھ تہ پھر بہن ہند کینہ ہے تہ تہ تہ
 پیار سیندہ آلو کرن اول دیہ بہن اکس ناپسندیدہ
 چیزس (یعنی غلبس) کن ناد۔
- حُشَّكًا اَبْصَارُهُمْ يُعْرَجُونَ مِنْ
 الْاَجْدَاثِ كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ⑧
 تہ تترہ آہہ آسن بہتہ، تم نرن قیر منتر تہ
 پاطر زہ زن تہ چھکرتہ آہتر مالو آسن۔
- مُهْطِعِينَ اِلَى الدَّاعِيَ يَقُولُ الْكٰفِرُونَ
 هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ⑨
 آلو دنہ وائس کن تم آسن دوان گرہان
 بیہ کافر گرہن پتہ ونان زہ یہ چھ سہٹھا
 کلکچک دوہ۔

لہ عرب توس نزدیک زون اس حکومت علامت تہ زون چاک گزہنس اوس مطلب زہ تہنر
 حکومت گزہ تباہ۔

تمن بروٹھ اپزوو نوجہ ہندی قومن، تہ سون
(اکھ) بندہ اپزوو گھ تہ ونگھ یہ چھ دیلانہ تہ
اوس چھ (سانو دیوتاہو ہندی طرفہ) دوتھ
والہ آہتر۔

اخر کور تمہ پنس پروردگارس دغا تہ وون۔ یہ
چس وشنن زیر کورمت اہ ترے بیہ

میون بدلہ۔

تہ پٹھ اسم اوپرک بر شرابو شرابو دن والہ روہ
سور مشراوہ۔

بیہ کرمی اسم زمینہ ہندی نگراد تہ جاری اہ
(اسانک آب ریو (زمینہ ہندس آس سوتی)
اکہ ترہ کتھ باپتھ نیکیک فاصلہ سپد مت اوس۔
تہ اسم کورسوارسہ (نوح) اوس پیجو تہ مینو
سور بناوہ آہتر (نالو پیٹھ)۔

سوم اسم سانہ اچن تل (یعنی سائہ نگرانہ مشرا)
پکان۔ یہ اوس تہ شغہ سند جزا سیمو سند انکار
کرنہ آمت اوس۔

بیہ ۔ واقعہ تروو اسم (پتو ہن قوم ہندی حاکم)
اکہ نشا پد کس رنگس مشرا۔ اہ کیا کاٹہہ نصیحت
رٹن وولا بھا؟

بیہ وچھو ! میون عذاب کوتاہ سخت) تہ میون
خبردار کرن کہیتھ (صحیح) چھ۔

اسم چھ قرآن عملہ باپتھ سہل بنومت اہ
کیا کاٹہہ نصیحت رٹن وولا بھا؟

(قوم) عادن تہ اوس (پنس رٹولس) انکار کرنہ
اہ وچھو میون عذاب تہ میون بہم کرن کہیتھ
اوس؟ (یعنی عذاب کوتاہ سخت اوس تہ بہم
کرن کوتاہ پوز اوس)۔

اسم سوز تمن پیٹھ اکھ تیٹھ واو یس نیز پین
وول اوس تہ سہ او اوس تہ میر تام روزن

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا
عِبَادَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ ۝۱۰۰ ۝۱۰۱

فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرُ ۝۱۰۲

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّثَمَرٍ ۝۱۰۳

وَوَجَّزْنَا الْاَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى
أُمَّقَدٍ ۝۱۰۴

وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْاَلْوَاجِ وَدُسُرٍ ۝۱۰۵

تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ
كُفِرًا ۝۱۰۶

وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُّدَكِّرٍ ۝۱۰۷

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ ۝۱۰۸

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ
مُّدَكِّرٍ ۝۱۰۹

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَ
نُذُرٍ ۝۱۱۰

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي
يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ۝۱۱۱

تَنْزِعُ النَّاسَ ۖ كَانَهُمْ اَعْجَازُ نَخْلِ
مُنْقَعِرٍ ①

و ايس منخوس و قلس منفر جلاونہ۔
سہ اوس لوگن جتھ پانٹھو پرا پٹھتہ ترھنان زن
تہ تم کھنر کھن ہنڈر منولہ درامو کھو کھو
گھونڈو ماسی۔

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَ نُذُرِي ②

اد و چھو تو میون عذاب (کو تاءہ سہنت) تہ میون
کھوڑ ناون کیٹھ (پوز) اوس۔

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ
مُدْكِرٍ ③

بسہ اسہ چھ قرآن عمل کرنہ خاٹھ سہل بنوست
اد کیا کاشہ نفیحت رٹن وولا چھا؟

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ④

(قوم) ثمودن تہ کرایو نبیین ہنڈ انکار۔

فَقَالُوا اَبَشْرًا مِمَّا وَاٰحِدًا نَّتَّبِعُهُ ۗ
لَا تَاِذَا لِفِي صَلٰٓئِ وَا سُعِرٍ ⑤

بسہ و نیا کھ، اسی کروا پسنہو منترے اوس انسانہ
سہنر ایس اسہ کن سوزنہ آمتہ چھ (فرانہ واری؟)
اگر اسی تہ کرو تہ اسی ہے جاو گرا ہی تہ دروہن
عذابس منتر سپرو۔

ءَالِقِي الذُّخْرِ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَل
هُوَ كَذَّابٌ اَشْرٌ ⑥

کیا خدایہ سنتر دھی چھا اسہ منتر (صرف) تسر
پٹھتہ نازل کرنہ آمتہ؟ پزر چھ یہ ز سہ چھ
سخت اپز لور تہ بکر کن وول۔

سَيَعْلَمُونَ عَذَابِ الْاَشْرِ ⑦

(اسہ وون) تمن لگر پگاہ پے (یعنی میںہ و اوس
زمانس منتر) تر کس چھ اپز لور تہ تکبری۔

اِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ
فَاذْتَقِبْهُمْ وَاَضْطَرِّبْ ⑧

(اسہ وون تمن ز) اسی چھ اکھ ووتھی تہنہنر
آز مایشہ خاٹھ سوزن و اول (لہذا اسے صالح!)
تہنڈس انجاس پیار تہ صبرس ہیہ کام۔

وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ
شِرْبٍ مَّحْتَضٍ ⑨

بسہ ون تمن ز آب چھ (الوار پانٹھ) تمن تہ
ثریہ در میان پانڈر آمتہ۔ پر سچہ دور اوس
پستہ چہنہ چہ وار پٹھتہ خاٹھ سپران۔

فَنَادَا وَاَصٰحِبَّهُمْ فَتَعَاطٰى فَنَحَرَ ⑩

اتھ پٹھتہ اون ہتو پین سر وار ناد و تھ اد سہ
او تہ ووتھ تہ تھن بکر مار۔

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَ نُذُرِي ⑪

اد و چھو تو میون عذاب تہ میون کھوڑ ناون کیٹھ
اوس؟ (یعنی میون عذاب کو تاءہ سخت اوس تہ
میون کھوڑ ناون کیٹھ پوز اوس)۔

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَآيَةً
فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُخْتَطِرِ ﴿۳۰﴾

اسے کوزہ بہن پیچھ اکے عذاب تازل تہ تم گئی
اکیس پل یار گنڈن والی سترن چوہ گمترن
ترشن ہندک پاٹھو۔

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ
مِن مَّدْكِرٍ ﴿۳۱﴾

بیہ اسے چھہ قرآن عمل کرنہ خاطر سہل بنوست۔
اد کیا کا منہ نصیحت رٹن وولا چھا؟

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنَّذْرِ ﴿۳۲﴾

لوطہ ہندک قومن تہ اسی نبی اپڑاوتی۔

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ
نَحْنُ نُهَمُّهُمْ بِسِحْرِ ﴿۳۳﴾

اسے سوڈ بہن تباہ کرنہ خاطر تہ باجر لوت
واو (تیمو لوطہ ہند خانانہ درائی ساری تباہ
کری) اد صیحہ کر وقتہ (بیدر سہ عذاب آوتہ)
اسے بچو لوطہ سند خانان۔

نِعْمَةٌ مِّنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ
شَكَرَ ﴿۳۴﴾

یہ اسی سانہ طرفہ اکہ نعمت، ایس شکرانہ کران
چھہ اسی بھرتس بیتھہ پاٹھو جزا دوان۔

وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَدُوا
بِالنَّذْرِ ﴿۳۵﴾

بیہ تمہ (لوطن) اسی رہن سانہ عذاب خیر
برونٹھے ڈر ہتر، اماہ پوز، تم لگو تبین تمہو
مجادلہ کرنہ۔

وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن صَيْفِهِ فَطَمَسْنَا
أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرِ ﴿۳۶﴾

بیہ تمہ یوزھ سہ پسنین پڑھن نجات ورنہ
لاون تہ اسے تروو بہترن اچھن پیچھ پیرد
تہ وولکھ، میانہ عذابک تہ میانہ کھوتنا وولک

وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ﴿۳۷﴾

مسر تر ہو۔
بیہ صبحن سلی آوتن پیچھ اکہ تیتھ عذاب ایس
پتھہ پتھہ پتہ وول اوس۔

فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرِ ﴿۳۸﴾

(بیہ وون اسے بہن تر) میانہ عذابک تہ میانہ
کھوتن تلانک مسر تر ہو۔

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ
مُدْكِرٍ ﴿۳۹﴾

اسے چھہ قرآن عمل کرنہ باچھہ سہل بنوست
اد کیا کا منہ نصیحت رٹن وولا چھا؟

وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النَّذْرُ ﴿۴۰﴾

بیہ فرعونہ ہندن لوکن کن تہ آسے پڑھی۔

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ
عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿۴۱﴾

اماہ پوز فرعونہ سنلو لوکو اپڑاوت سانی ساری آسے،
یتھ پیچھ تم اسے اکیس غالب طاقتہ والی ہندک
پاٹھو عذابس تل رڈ۔

أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَوْلِيَّتِكُمْ أَمْ لَكُمْ
بِرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ①

(اے مکہ والو!) کیا توہم منزجھا کفر کرن والو
ہن بزوتھو من لوکن ہند کھوتہ رڈ کتہ بزوتھو
ہن کتابن منزجھ تہند باچھ غلابہ نشہ پچاویکھتہ؟
کیا تم جھا دان ز اسی جھ آکھ جماعت یوسہ
غالب پتھ روزہ!

أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرُونَ ②

تہننز جماعت بیہ جلدی نارناونہ تہ تم ترن
تھر پتھ تہ

سَيَلْمُكَ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الذُّبُرَ ③

بلکہ تہننز تباہی ہنزر گر ہند وعدہ جھ دنہ امت
تہ سو وعدہ جھ کراسہ سبھا جادہ ہاک کرن ورتہ
تہ سخت (تہ تہ)۔

بَلِ السَّاعَةِ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ
أَذْهَىٰ وَآمَرٌ ④

مجرم لاکھ پن گراہی تہ ترن وائس غلابن منز
ولہ۔

لَإِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ⑤

یئہ دوہہ تم پتہ سردار پتہ نارس منز کھکھر
دتھ ہنہ من (تہ جن بیہ دنہ) ز جہنک
عذاب تر ہو۔

يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ
ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ⑥

اسہ جھ پرتھ جہز اندازہ مطابق یاد کورمت۔
بیہ جھ سون حکم اچھ ٹٹو ہرک پانٹو یکدم پلور
سیدان۔

إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ⑦

بیہ اسہ جھ توہہ ہو لاکھ بروٹھ تہ ہاک کوری
پتہ۔ تہ کیا (بیکتہ زانہ) جھا کاتہہ نصیحت
رٹن وولا؟

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ⑧

بیہ پرتھ کاسم یوسہ ہتو کڑ ہتر اس۔ سو جھنیہ
کتابن منز (بیکتہ) موجود۔

وَلَقَدْ أَهَلَكْنَا شَيْعَاكُمْ فَهَلْ مِنْ
مُدْكٍ ⑨

بیہ پرتھ کاتہہ) لوکٹ تہ بڑ کتھ جھنیہ لیکھتہ
تھاونہ آہتر۔

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ⑩

وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّشْتَرَفٌ ⑪


لہ اتھہ آہس منز جھنیہ جنگ احزاب متعلق پیشگوئی۔ یہ جنگ اوس اسلام

کہ صدائیک آکھ یوڈ نشان۔

لہ وجوہ امیک و احد پتہ وجہ امیک نفلی معنی جھ "بتہ" مگر درگہ پانٹو

جھ امیک مطلب توہر سردار۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهْرٍ ۝
 فِي مَقْعَدِ صَدِيقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ۝
 (بیہ) مومن آسن جنن منز تہ قسمہ قسمہ چین
 اولوہ جالین اندر -
 اکیس تہتس متماس منز بیس ہمیشہ روزن دول
 آسہ (بیہ آسن تم) قدرت تھون ولس بادشاہا
 نیش (یعنی تم وچین تہ زینہ رسواپی تہ زوالک
 بہتہ) -



سورة رحمن: یہ سورہ چھ کلی تہ بسم اللہ ہتہ چھ آتہ کشتہ آتہ بیہ چھس تر تہ رکوع۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝
 الرَّحْمٰنُ ۝
 عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝
 خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۝
 عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝
 الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝
 وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۝
 وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝
 اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝
 وَاَقْبِمُوا الْوُزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا
 (بیہ چھس) اللہ (تعالیٰ) سدا ناو ہتہ (پرک)
 بیس حد رؤس کرم کرن دول (تہ) چھری چھری
 رحم کرن دول چھہ -
 (سہ) رحمن خدا ہے چھہ -
 بیس قرآن، بیچھنومت چھہ -
 تمہ بنو انسان -
 بیہ، بیچھنوتون خوش کلامی تہ بیان کرن -
 آفتاب تہ زون چھہ اکہ گنڈتہ مناظر مطابق
 لیکان روزان -
 بیہ جڑ بڑ بڑ تہ کک کک تہ چھہ خدایس ہر ونڈتہ
 کک لکک نیمر آوتہ (سجد کرن -
 بیہ چھہ تمہ (خدایں) آسمان تھمز رومت - بیہ
 چھن (انسانہ بند خاطر) تووزنک اصول
 گنڈتہ تھومت -
 (یہ دنان) تہ عدلچ شکر نیمر آوک زوہ تہ زینہ -
 بیہ کرو وزن الصافہ سان قایم تہ تلس اکر

لہ النجمہ، تم ساری لوگوں کو پیمانہ گوند آسہ تہ مثالے دزن آسہ، تھرتہ بچہ بچہ جڑ بڑ بڑ بیترہ۔

زپو تہ کمی کران۔	الْمَيِّزَانَ ①
تہ تمو (خدا) چھ زمین ساری نے مخلوقات ہند فایدہ خاطر بناو میتر۔	وَالْأَرْضَ وَصَعَهَا لِأَنَامٍ ②
اتھ منتر چھ مہو تہ بیہ گوڑہ کر تھ میو دار کھڑ کر تہ۔	فِيهَا فَاتِكَهْتُ سَاءَ وَالتَّحُلُّ ذَاتِ الْأَكْمَامِ ③
بیہ اتھ (زمین) منتر چھ داہ تہ یمن پیٹھ دل تہ چھ آسان تہ نحو شبو دار بلوش تہ چھ۔	وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ④
لہذا وڈی تو تہی توہی دو نوے (یعنی جن تہ انسان) ز پینس پروردگار ہنتر و لغتو منتر کتھ کتھ لغتر کرو توہی انکارہ	فِي آيِ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ⑤
انسان کوڑ تمو کتھ ہندی پاٹھ وڈی ہنتر میتر پیٹھ پاؤ۔	خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ⑥
تہ جن چھن نابہ رہیہر پیٹھ پاؤ کر تہ مہو۔	وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ تَارٍ ⑦
لہذا وڈی تو تہی دو نوے ز پینس پروردگار ہنتر و لغتو منتر کتھ کتھ لغتر کرو توہی انکارہ	فِي آيِ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ⑧
سہ چھ دو نوے مشرق ہند تہ پروردگار تہ دو نوے مغرب ہند تہ چھ پروردگار۔	رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ⑨
اد وڈی تو تہی دو نوے ز پینس پروردگار ہنتر لغتو منتر کتھ کتھ لغتر کرو توہی انکارہ	فِي آيِ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ⑩
تو چھ ز سمندر تھ پاٹھ پکتا وڈی مہو ز رتم رہن اکہ وقتہ۔	مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ⑪
جن منتر ہاگ چھ (ما تھ) اکھ ٹھور نیمہ کنو تم اکھ اکس منتر داخل سپتھ چھن ہکان۔	بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ⑫
اد وڈی تو تہی دو نوے ز پینس پروردگار ہنتر لغتو منتر کتھ کتھ لغتر کرو توہی انکارہ	فِي آيِ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ⑬

۱۔ اتھ آیس منتر چھ زمین گول آسنس متعلق اشارہ۔ (منہ)
 ۲۔ اتھ آیس منتر چھ نہر سویر تہ نہر پانامہ ہس متعلق پیشگوئی پہنچد
 ۳۔ ہنتر سویر آو وڈی میس منتر اکھ معاشرتی تہ معاشی انقلاب۔ (منہ)

یَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُوُ وَالْمَرْجَانُ ﴿۱۷﴾	یہ دو لونے وہے سمندرو مشر چھ مہترہ تہ مرجان نیران۔
فِي آيِ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبِينَ ﴿۱۸﴾	اد وڈی تو توہی دو لونے زہ پینس پروردگار سینرو نمشرو مشر کتھ کتھ لغشر کرو توہی انکار!
وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿۱۹﴾	بہہ تہنبر بناور مشر ناو (تہ چھیڈ) تہ (تہندر بناور متو) سمندری جہاز تہ چھ یکم سمندر مشر بال ہوکر بوڈنہ یوان چھ۔
فِي آيِ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبِينَ ﴿۲۰﴾	اد توہی دو لونے وڈی تو زہ پینس پروردگار سینرو لغشر مشر کتھ کتھ لغشر کرو توہی انکار!
كُلٌّ مِّنْ عَلَيْهَا فَأِنَّ ﴿۲۱﴾	اتھ از مسپتہ پیچھ یس کانزھا تہ چھ اسہ چھ پتو لکن فنا سپدن دول۔
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلِيلِ الْأَعْرَابِ ﴿۲۲﴾	مگر صرف چھ سہ بچان نیس کن چائس شان تہ عزتہ ولس خدابہ سہد توجہ آسہ یلہ
فِي آيِ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبِينَ ﴿۲۳﴾	اد وڈی تو توہی دو لونے زہ پینس پروردگار سینرو لغشر مشر کتھ کتھ لغشر کرو توہی انکار!
يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴿۲۴﴾	آسمان تہ ز مسپتہ مشر یس کانزھا تہ چھ سہ چھ تسی پنی حاجت منگان۔ سہ چھ پر پتہ وز ا کس نوس حالتس مشر آسان یلہ
فِي آيِ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبِينَ ﴿۲۵﴾	اد وڈی تو توہی دو لونے زہ پینس پروردگار سینرو لغشر مشر کتھ کتھ لغشر کرو توہی انکار!
سَنَفَرُّكُمْ لَكُمْ آيَةٌ الثَّقَلَيْنِ ﴿۲۶﴾	اے دو لوہو زبردست طاقتور! اسی چھ توہی دو لوہی ہند خاطر فارغ سپدن۔ سہ

لہ میتین چھ لفظ " وَجْهٌ " معدہ کس معنی مشر استعمال سہدت تہ معدہ
چھ اسم فاعلک معنی تہ دوان تہ اسم مفعولک تہ۔ میتین چھ یہ اسم مفعولک معنی کتھ
ورتا ونبہ آمت میتینہ کنو آیک ترجمہ سپد یہ زہ صرف چھ سہ چیز بچان میتہ
کن چائس پروردگار سہد توجہ آسہ "۔ (منہ)
سہ یعنی پر پتہ وز چھ تندر نوک نوک صفات ظاہر سپدن۔ (منہ)
سہ یعنی رؤس تہ امرکیہ یا یا جوج تہ ماجوج۔ (منہ)
سہ یعنی کینہہ موبلت و تھ کرو اسی توہی دو لونے تباہ۔ (منہ)

فَيَايَ الْآءِ رَبِّكُمْ أَنْتُمْ كَذِبِينَ ﴿۲۷﴾

يَمَعَشَرِ الْجِبِّ وَالْأَنْبِيَاءِ إِنْ اسْتَطَعْتُمْ
أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَفْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
فَأَنْفُذُوا وَلَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ﴿۲۷﴾

فَيَايَ الْآءِ رَبِّكُمْ أَنْتُمْ كَذِبِينَ ﴿۲۸﴾

يُنزِلُ عَلَيْكُمْ شَوْاظَ مِنْ نَارٍ وَذُرَّ
نُحَاسٍ فَلَا تَتَنَصَّرُونَ ﴿۲۸﴾

فَيَايَ الْآءِ رَبِّكُمْ أَنْتُمْ كَذِبِينَ ﴿۲۹﴾

فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً
كَالِدِهَانٍ ﴿۲۹﴾

فَيَايَ الْآءِ رَبِّكُمْ أَنْتُمْ كَذِبِينَ ﴿۳۰﴾

فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْعَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا
لَا جَانٌّ ﴿۳۰﴾

فَيَايَ الْآءِ رَبِّكُمْ أَنْتُمْ كَذِبِينَ ﴿۳۱﴾

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ
بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ ﴿۳۱﴾

فَيَايَ الْآءِ رَبِّكُمْ أَنْتُمْ كَذِبِينَ ﴿۳۲﴾

هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا

اِدْوُزِّي تُو تُوہی دو نوے ز پینس پروردگار
بمنزو نغشرو منز کتھ کتھ نغشرو کتھ کتھ توہی انکار؟
اے جن تہ انسان بندو درلو ! اگ توہی
طاقت تھوان چھو ز آسمان تہ ز پینہ بندو درلو
نہر تھ تزلو۔ اڈ نہر تھ اڈو توہی توہی بیو تہ
دلپہ وراہی ہرگز نہر تھ۔

اِدْوُزِّي تُو تُوہی دو نوے ز پینس پروردگار
نغشرو منز کتھ کتھ نغشرو کتھ کتھ توہی انکار؟
توہی پیٹھ پیٹھ اگہ نایہ ریہہ تراونہ بیہ ترام
تہ (پیہ تراونہ)۔ لہذا توہی دو نوے بیٹو تہ
ز پینہ غالب بیٹھ۔

اِدْوُزِّي تُو تُوہی دو نوے ز پینس پروردگار
نغشرو منز کتھ کتھ نغشرو کتھ کتھ توہی انکار؟
بیلیہ آسمان پھٹ تہ وزل دالہ ہو گرتھ (سہ
آسہ پیترہ تا صلیح گرتھ)

اِدْوُزِّي تُو تُوہی دو نوے ز پینس پروردگار
نغشرو منز کتھ کتھ نغشرو کتھ کتھ توہی انکار؟
تمہ فاصلہ کر دوہو نہ پیہ انسانس تہند
گوناہہ متعلق پرتھہ نہ (پیہ) جنس (پرتھہ)

اِدْوُزِّي تُو تُوہی دو نوے ز پینس پروردگار
بمنزو نغشرو منز کتھ کتھ نغشرو کتھ کتھ توہی انکار؟
مجرم پین پینین پتھین بندو نشاوتلو پر نہ ناوہ
بیہ پین تہندلو ڈیکہ کپو تھاکو تہ کھورو کھورو
رٹھنہ۔

اِدْوُزِّي تُو تُوہی دو نوے ز پینس پروردگار
نغشرو منز کتھ کتھ نغشرو کتھ کتھ توہی انکار؟
یہ پتھ سہ جہنم بیٹھ مجرم انکار کران اسی۔

المُجْرِمُونَ ﴿٧٠﴾

يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آتِينَ ﴿٧١﴾

(یلیلہ تھہ منتر اتر تک دودہ واہہ) ہم آسن
تھہ (جہنم) منتر باگ تہ گریک و ہنس آس
منتر باگ اور یور پھیلان۔

﴿٧٢﴾

فِي آيِ الْآءِ رَبِّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿٧٢﴾

اد وڈی تو توہی دونوںے زہ پنس پروردگار ہنرو
نمٹرو منتر کتھ کتھ نمٹر کرو توہی انکار؟

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ﴿٧٣﴾

بہہ یس شخص پنس پروردگار ہندس ترس
کھوٹان چھ تہندہ خاطر چہ زہ جنت مقرر۔
(دنیوی تہ تہ آخر تک تہ)۔

فِي آيِ الْآءِ رَبِّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿٧٤﴾

اد وڈی تو توہی دونوںے زہ پنس پروردگار ہنرو
نمٹرو منتر کتھ کتھ نمٹر کرو توہی انکار؟
دونوںے باغ آسن سپٹھا لخبہ دار کلر والی (لینے
سپٹھا گتھ باغ آسن)

ذَوَاتًا أَفْنَانٍ ﴿٧٥﴾

اد وڈی تو تہ سہی توہی دونوںے زہ پنس پروردگار
ہنرو نمٹرو منتر کتھ کتھ نمٹر کرو توہی انکار؟
ہنن دونوںی منتر آسن تہ ناگ (سپٹھا آب
آسنہ کتھ) جاری۔

فِي آيِ الْآءِ رَبِّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿٧٦﴾

اد وڈی تو تہ سہی توہی دونوںے زہ پنس
پروردگار ہنرو نمٹرو منتر کتھ کتھ نمٹر کرو توہی انکار؟
ہنن دونوںی منتر آسن پرچہ تسکری میوہ دون
دون تہن ہندری۔

فِيهِمَا عَيْشٌ تَجْرِيانِ ﴿٧٧﴾

فِي آيِ الْآءِ رَبِّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿٧٨﴾

فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَاوِجٍ ﴿٧٩﴾

فِي آيِ الْآءِ رَبِّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿٨٠﴾

مُتَّكِعِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ
إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَّاتٍ الْجَنَّتَيْنِ ذَاتِي ﴿٨١﴾

اد وڈی تو توہی دونوںے زہ پنس پروردگار ہنرو
نمٹرو منتر کتھ کتھ نمٹر کرو توہی انکار؟
(جنتی لاکھ آسن) فرشس پیٹھ (تتھن تک
ین کن) ٹوکھ وی وی بین ہندری استر
زاولہ پارک آسن تہ دونوںی باغن ہنر میوہ
لخبہ آسن (گورہ سوخا) نئے ہنر۔

فِي آيِ الْآءِ رَبِّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿٨٢﴾

اد وڈی تو توہی دونوںے زہ پنس پروردگار
ہنرو نمٹرو منتر کتھ کتھ نمٹر کرو توہی انکار؟
ہنن جنتن منتر آسن اچھ لون کن مقنون واجبہ

فِيهِنَّ قُصُورٌ الطَّرْفُ لَمْ يَطْمِئْتُنَّ

- ۱ اِسْ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ ۵۴
- ۲ فَيَايَ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبِينَ ۵۵
- ۳ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ۵۶
- ۴ فَيَايَ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبِينَ ۵۷
- ۵ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ۵۸
- ۶ فَيَايَ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبِينَ ۵۹
- ۷ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَيْنِ ۶۰
- ۸ فَيَايَ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبِينَ ۶۱
- ۹ مُذْهَبًا مَثْنَيْنِ ۶۲
- ۱۰ فَيَايَ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبِينَ ۶۳
- ۱۱ فِيهِمَا عَيْنَيْنِ تَصَاحُتَيْنِ ۶۴
- ۱۲ فَيَايَ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبِينَ ۶۵
- ۱۳ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ۶۶
- ۱۴ فَيَايَ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبِينَ ۶۷

زنانہ میں سے تھی آسہ نہ میو (جنتیوں) بروئے
 کاشہ انسان تہ نہ کاشہ جنت تعلق تھومت۔
 اہ وڈی تو توہمی دو نوے نہ پننس پروردگار
 نعرہ منہ کہتہ کہتہ نعرہ کروی توہمی انکار؟
 زن تہ ہم زمانہ آسن یا قوت تہ تہ مرجان۔
 اہ وڈی تو توہمی دو نوے نہ پننس پروردگار
 ہنرو نعرہ منہ کہتہ کہتہ نعرہ کروی توہمی انکار؟
 کیا احسان جزا چھا احسانہ وراہی کینہہ بیہ تہ
 اہستہ ہیکان؟
 اہ وڈی تو توہمی دو نوے نہ پننس پروردگار
 ہنرو نعرہ منہ کہتہ کہتہ نعرہ کروی توہمی انکار؟
 بیہ تمو دوہو جنتیو وراہی آسن بیہ تہ نہ جنت۔
 اہ وڈی تو توہمی دو نوے نہ پننس پروردگار
 ہنرو نعرہ منہ کہتہ کہتہ نعرہ کروی توہمی انکار؟
 ہم دو نوے باغ آسن (مستہ ستر) سیاہی
 مایل سبز۔
 اہ وڈی تو توہمی دو نوے نہ پننس پروردگار
 ہنرو نعرہ منہ کہتہ کہتہ نعرہ کروی توہمی انکار؟
 تم دوہوئی (جنت) منہ آسن تہ بڑی ناگ
 شولہ ماران وزان۔
 اہ وڈی تو توہمی دو نوے نہ پننس پروردگار
 ہنرو نعرہ منہ کہتہ کہتہ نعرہ کروی توہمی انکار؟
 جنت منہ آسن میو تہ تہ کھنر تہ دمن تہ۔
 اہ وڈی تو توہمی دو نوے نہ پننس پروردگار
 ہنرو نعرہ منہ کہتہ کہتہ نعرہ کروی توہمی انکار؟

۱۔ یعنی تہندس رنگس منہ آسہ سفیدی تہ وہ ہر ہر بار رلیتہ تہ سبھا نوزک آسن۔
 یا قوت چھ پسنہ وہ زہر رنگہ کئی مشہد تہ مرجان پسنہ قد تہ پسنہ نراکتہ
 تہ رنگہ یعنی وہ زہر جاہ تہ سفیدی ہنر بلونی کئی مشہد۔ لہذا ہم لفظ وراہی
 آسہ تمہن زمانہ ہندو ساری صفت بیان کرتہ۔ (منہ)

بتن باغن منز آسن نیک تہ خوش شکل زنا تہ۔
 اِدِ وُذِي تُو تُوہی دونوے ز پننس پرور دگار
 ہنزو نغشو مشز کتہ کتہ نغشو کزو توہی انکار؟
 تم زنا تہ آسن کاجہ اُچھ واجبہ (تہ) خنمن
 اندر آسن تھاونہ آمہز۔

اِدِ وُذِي تُو تُوہی دونوے ز پننس پرور دگار ہنزو
 نغشو مشز کتہ کتہ نغشو کزو توہی انکار؟

بتن آسن تہ امر برنٹھ اتھ تہ لوگت (جنس)
 اترن والہو انسانو تہ جنو منہز (کالتہ انسان یا جن)
 اِدِ وُذِي تُو تُوہی سہی توہی دونوے ز پننس پرور دگار
 ہنزو نغشو مشز کتہ کتہ نغشو کزو توہی انکار؟
 تم (جنی) آسن و تھراونہ آمتہن سبز تہ تھہ
 پایہ خوبصورت فرشن تہ پیچھ ڈکھ دی دی بہتہ۔

اِدِ وُذِي تُو تُوہی دونوے ز پننس پرور دگار ہنزو
 نغشو مشز کتہ کتہ نغشو کزو توہی انکار؟
 چائس جلال تہ عزتہ و اہس پرور دگار سنداو
 چھ سہٹھا برکتہ وول۔

فِيهِنَّ حَايِرَاتٌ حِسَانٌ ۵۱

فِيَايِ الْاٰءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبِي ۵۲

حُوْرٌ مَّقْصُوْرَاتٌ فِي الْخِيَاَمِ ۵۳

فِيَايِ الْاٰءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبِي ۵۴

لَمْ يَطْمِئْنُوْنَ اِنَّسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ۵۵


فِيَايِ الْاٰءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبِي ۵۶

مُتَكِيْثِيْنَ عَلٰى رُفُوْفٍ خُضِرٍ وَ عَبَقَرِيْ
 حِسَانٍ ۵۷

فِيَايِ الْاٰءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبِي ۵۸

تَبَارَكَ اِسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ۵۹

۵۱ یعنی تم آسن پشینی خانہ دارن نش۔ (منہ)
 ۵۲۔ رُفُوْفٍ، کنواں تہ زریبٹنگ سہ فرش یس خنمن نیبر نام و تھراونہ پوان چھ۔
 (قاموس / تفسیر صغیر)



سورة واقعه : یہ سورہ چھ کئی تہ بسم اللہ بہتہ چواتھ سنتنہ آیہ بیچیس تریہ کرلے۔

- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①
- یہ چھیس (اللہ تعالیٰ) سُنَد ناو بہتہ (پران)
یس حد رؤس کرم کرن وول تہ پھیرک پھیرک
رحم کرن وول چھ۔
- إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ②
- یئیلہ سو دکھہا میںہ کبر ائل آنک تھاصلہ چھ، علی
طور واقعہ سپر۔
- لَيْسَ لِمَنْ يَلْعَنُهَا كَذِبٌ ③
- اتھ واقع سپدس چھینہ پینہ وقتہ نشہ ڈالین
وول کانہہ چیز۔
- خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ ④
- سھاگر، چھینہ ٹینٹن موسیٰ پایہ کرن واجزی تہ کینین
کھسی پایہ کرن واجزی۔
- إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ⑤
- یئیلہ دوہر ٹکلس الہ زلہ ٹلنہ پیہ۔
- وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا ⑥
- بالن بیہ بلوس کرنہ۔
- فَكَانَتْ هَبَاءً مُتْبَثًا ⑦
- یہ ڈپڑ زرتہ تم گزمن تھم زن تہ ہوہس
مفثر ٹولونی طرفن ڈون وائل زاولڈ ذرہ۔
- وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ⑧
- بیہ توہی بیو، ترین درین مشر باگرہ۔
- فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ! مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ⑨
- اکھ تہ آسن دچھینہ طرفنکو (لوکھ) تہ تریہ کیاہ
کپے چھے ز دچھینہ طرفنکو (لوکھ) کھتو آسن؟
- وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ! مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ⑩
- بیہ آسن کھور طرفنکو (لوکھ) تہ تریہ کیاپے
چھے ز کھور طرفنکو (لوکھ) کھتو آسن؟
- وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ⑪
- بیہ آسہ اکھ جماعت (ایہاس تہ عملہ مشر) بروٹھ
نیرن والین ہنر، اچہ تم تہ روزن ہر حالہ
دوکیمن ہند کھوتہ بروٹھ۔
- أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ⑫
- تہ تم لوکھ آسن (خدا یہ ہند) مقرب۔
- فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ⑬
- نعمت والین جنتن مشر (روزن)۔
- ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ⑭
- گورہ نیہہ ایہان انن والین مشر آسہ تہ ہند نقد اجاڑ

تو چہ تہ ایمان ان والہن منز آسہ تہند تعداد کے۔

تم آسن (لال تو جواہر) جڑتہ پردہ دار تحت پڑن
پیٹھ۔

ڈنگھ وی دی اکھ اکس کن مہتہ کر تہ بہتہ۔

تمن نشین ہمدتہ خاطر واریاہ نوجوان خادیم
زن ہمیشہ پسند نیکی پیٹھ قائم تھوتہ یں۔

(تم زین) گلاسہ تہ ہی نار تہ ناگو منز بڑ بڑ
پیالہ بنے بنے۔

(تم پیالہ تہ تریشہ لوزی چیتہ) نے تہ کسہ
جنتین نما تہ نہ کرن تم بے ہودہ کتہ۔
(بیہ) تمن (جنتین) نشین (پیتھے پاٹھ
نوجوان ہمدت گار) تمقین میون ہندہ مجہ ہتہ
یم تم پسند کرن۔

بیہ جانا وارو منز تمن جانا وارن ہنداز یمن
تم (جنتی) پسند کرن۔

بیہ آسن سیاہ مہنہ پٹل تہ ونیچہ ونیچہ اچھ
واجبہ زمانہ۔

یم رچیتہ سمیابہتہ تھوتہ آقبن موکتہ پھلین
ہندہ پاٹھ آسن۔ (یم مہلو آسنہ موکتہ کھتہ
تھوتہ پوان چھ)۔

یہ سورے کینہہ میلہ مؤمن ہندلو اعمالو کنی
بدلو کینہ۔

تم (مؤمن) نے تہ بوزن جنتن منز کانہہ بیہ
مطلب کتہ تہ نہ کانہہ گوتہ بک کلام۔

آ، امانہ پوز تہشہ کتہ بوزن یقہ منز سلام لینے
سلامت رونہ نک دعا آسہ۔

بیہ بوزن تہ، ڈچہنہ طرفہ کین انسان ہند تہ حال۔
تہ تریہ کیا پے چھ تہ ڈچہنہ طرفو انسان کیا چھ!

وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿٥٦﴾

عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ﴿٥٧﴾

مُتَّكِعِينَ عَلَيْهَا مُتَّقِلِينَ ﴿٥٨﴾

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ﴿٥٩﴾

بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ وَكَأْسٍ مِّنَ
مَّعِينٍ ﴿٦٠﴾

لَّا يَصَدَّعُونَ عَنْهَا وَكَانَ يُرْفَعُونَ ﴿٦١﴾

وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴿٦٢﴾

وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٦٣﴾

وَحُورٌ عِينٌ ﴿٦٤﴾

كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ﴿٦٥﴾

جَزَاءً يَّمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٦﴾

لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ﴿٦٧﴾

إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ﴿٦٨﴾

وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿٦٩﴾ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿٧٠﴾

- فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ﴿۱۱﴾
 وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ ﴿۱۲﴾
 وَظِلِّ مَمْدُودٍ ﴿۱۳﴾
 وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ ﴿۱۴﴾
 وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ﴿۱۵﴾
 وَلَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ﴿۱۶﴾
 وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ ﴿۱۷﴾
 إِنَّا أَنشَأْنَهُمْ إِنشَاءً ﴿۱۸﴾
 فَجَعَلْنَهُمْ أَبْكَارًا ﴿۱۹﴾
 عُرْبًا أَثَرًا أَبَا ﴿۲۰﴾
 لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿۲۱﴾
 ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ ﴿۲۲﴾
 وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ ﴿۲۳﴾
 وَأَصْحَابِ الشِّمَالِ ۚ مَا أَصْحَابُ
 الشِّمَالِ ﴿۲۴﴾
 فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ﴿۲۵﴾
 وَظِلِّ مِّنْ يَّحْمُومٍ ﴿۲۶﴾
 لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ﴿۲۷﴾
- تم روزن کٹڈو وراہی سدر باغن منز۔
 بیہ کیلین (ہندین باغن) منز بین ہندو سید
 پیٹھس پیٹھ آسن کھو ہوتی۔
 بیہ تجسس شہلین تل یس سبھا پھالا ونہ آسہ۔
 بیہ جھین آبن نش بیم (آبسان ہندو پاٹھو تھنہو
 پیٹھ) والنہ یوان آسن۔
 بیہ واریا ہن میون منز۔
 نے تہ مرصن تم ترھینہ تہ نہ بین ، تمون نشہ ، تم
 (جنتی) ٹھاکناوتہ (یعنی تم بین تمہندے مال گنہارو)۔
 بیہ روزن تھدہ پایہ آشنہن سستی۔
 اسی جھینہ تمہہ رتی پاٹھو پاڈ کرٹھ تھادہ منز۔
 بیہ انہر شہ جھینہ پاڈ کرکہ منز۔
 سبھا ، سوندرہ تہ جھین ہنہر وانہہ برابر۔
 (بیہ) ڈ جھینہ طرفہ کس دوس کرٹھ (پاڈ کرٹھ
 آسٹھ جھینہ)۔
 یہ دور آسہ (اسلام کس) ابتداہس منز ایمان ان
 والہن منز تہ یسلہ پاٹھو۔
 تہ آخری (زمانہ منز) ایمان ان والہن منز
 تہ آسہ یسلہ پاٹھو۔
 بیہ کھوور طرفہ واولہ تہ تہنہ کیاہ پئے پھے نہ
 کھوور طرفہ واولہ لاکھ کھتھو آسن ؛ (یعنی تمہن
 لاکھ ہندتہ بوز حال)
 تم روزن ترشن واو ترخن تہ آہہ رسرن منز۔
 بیہ روزن ترٹھ ترھاپہ تل یوسہ کرہینہ دیکر پاٹھو
 آسہ۔
 نہ آسہ سہ (ترھاسے) شہج تہ نہ بختاوتھ
 تل روزن عزت۔

تم اسی امر بروٹھ دنیا ہس منز سپہا آراس
منز روزان۔

تہ بڑس گوہ ہس (سیفہ بشرکس) پیٹھ اسی
ڈاڈ کران۔

تم اسی ونان زہ نیلہ اسی سرو تہ میتر تہ
اڑی جہ پیٹھ گڑھوہ کیا اسی پھو زانہہ نو سر
زندہ کریتھ استاد کرہہ؟

بیہ سانہن جدن اجدان سستی تہ سپد یا بیہ
معاملہ؟

تہ وکٹھ زہ بروٹھ تہ تہ پیتر تہ۔

سر سالم بن اکہ نازا ہتہ ڈہس وعدس کن سہ بروٹھ
بنہ۔

اد توہی اے ایڑوان والہو تہ و تہ ڈلر
مر تہو!

ز قوم کلمہ منز کہنیو۔

تہ تمہ سستی برو بیڈ۔

پیتر چیلو اتھ پیٹھ توت آب۔

تہ تریشہ ہتس وونٹہ ہندہ پاٹھو گڑھو ڈراہ
کران چہوان۔

یہ آسہ جزا تہ سزا کہ دوہہ ہتہ ہنر مہانداری۔

اسہ چھو توہی یاد کرہی ہتی۔ اد کیا ز چھو تہ
توہی سانی کتھ یز گتہ راوان۔

بیہ تمہ ہچہ ہچ کہنیت تہ و لو، ایس توہی
زنانہ ہندس ہکس منز تراوان چھو۔

کیا توہی چھو تا سہ یاد کران کہہ اسی چھن
سہ یاد کران؟

اسہ چھہ توہہ منز موتک سلسلہ جاری کوزمت

إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ﴿٥٦﴾

وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ
الْعَظِيمِ ﴿٥٧﴾

وَكَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا امْتَنَّا وَكُنَّا
تُرَابًا وَعِظَامًا، إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٥٨﴾

أَوْ آبَاءَنَا أَلَا وَكُنَّا ﴿٥٩﴾

قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴿٦٠﴾

لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ
مَّخْلُوعٍ ﴿٦١﴾

ثُمَّ لآتِكُمْ مِنْهَا الضَّالُّونَ
الْمُكَذِّبُونَ ﴿٦٢﴾

لَا جَلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ ﴿٦٣﴾

فَمَالِيُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٦٤﴾

فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ﴿٦٥﴾

فَشَارِبُونَ شُرَبَ الْهَيْمِ ﴿٦٦﴾

هَذَا نُزْلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ﴿٦٧﴾

بَخْنُ خَلْقِنَاكُمْ فَلَوْلَا تَصَدَّقُونَ ﴿٦٨﴾

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ﴿٦٩﴾

ءَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهَا أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴿٧٠﴾

نَحْنُ قَدْ زُنَّا بَيْنَكُمْ الْمَوْتِ وَ مَا

تَحْنُ بِمَسْبُوقَيْنِ ①
 عَلَىٰ أَنْ تُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَتُنشِئَكُمْ
 فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ②

تر اسیر برو لفظ ہیکہ نہ کا منہ نہ پرتھ۔
 بیہ کا منہ شخص ہیکہ نہ اسیر اتھ کتھ مشن
 عاجز کر تھ، تر اسی الوکھ تو ہی بدلاوتھ بیہ
 تہندی ہو کر قوم، تہ نہ ہیکہ اسیر کتھ رشتہ
 عاجز کر تھ نہ (اسی کرو تو ہر کتھ تہرہ منور
 مغز پاد یوہ نہ تو ہی زمانان چھو۔
 بیہ تو ہی تر چھو گو ڈ پچ پیدائش زمانہ، اد
 کیا چھو تو ہر گوشت تر تو ہی چھو نہ نصیحت زمان۔
 کیا تو ہر چھو تمیک پنے یہ تو ہی ووان چھو۔
 کیا تو ہی چھو تہ وہ پداوان کہہ اسی چھ تہ
 وہ پداوان؛

الرُّؤْيُ سَيُشْرَهُ هَوْتَهُ سُهُ بِنَاوُونَ بِبَلْكَ دُوْدُمْتِ
 تَر زُرِيوْمْتِ جُوْر۔ اد روز ہو تو ہی کتھ بناوان۔
 تر رؤی ہو تر اسی چھید چینی ہیمہر۔
 بلکہ چھ حق یہ تر اسی چھ پستہ محنتہ کر چھلہ
 رشتہ بلکہ محروم سپدر ہتی۔
 اد رؤی تو سہ آب یس تو ہی چھوان چھو۔
 تو ہر چھو یہ اوہر مغز وولمت کہہ اسی چھ یہ
 والان۔
 اگر اسی ہر شہر ہو تو اسی ٹیٹھراور ہون سہ
 اد کیا تر چھو نہ تو ہی مشکراہ کران۔

اد رؤی تو تمہ ناک تہ حال یس تو ہی زلان چھو۔
 تو ہر چھو تمیک کل پاد کو رمت کہہ اسی چھن سہ
 پاد کران۔
 اسیر چھ سہ نصیحت باپتھ تہ مسافرن ہندرقاید

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا
 تَذَكُّرُونَ ③
 أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ④
 ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهَا أَمْ تَحْنُ
 الزَّارِعُونَ ⑤
 لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ
 تَفَكَّهُونَ ⑥
 إِنَّا لَمَغْرُمُونَ ⑦
 بَلْ تَحْنُ مَحْرُومُونَ ⑧
 أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ⑨
 ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ
 نَحْنُ الْمُنزِلُونَ ⑩
 لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا
 تَشْكُرُونَ ⑪
 أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ⑫
 ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ
 الْمُنشِئُونَ ⑬
 تَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذَكُّرًا وَرَمْتَاغًا

سہ یعنی تھ پانچ سرسبز کھس چھو کا منہ زراعت ہیکان تھ پانچو یس قوم زندہ اسرست ہیکہ نہ کا منہ (جاری)

لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۷۱﴾

عاطف بنو مت -

فَسَيَسْمِعُ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿۷۲﴾

بِسْمِ اللَّهِ

لہذا تو کر سنیں عظمتِ وائس پروردگارِ سیدنا و
کہ دوسری تسبیح -

فَلَا أُقْسِمُ بِمَوْجِعِ النَّجْوَى ﴿۷۳﴾

او کہی چھس یہ تارکن ہند ڈلہ کر شہادت کہہ
پیش کران -

وَأِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّو تَخْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿۷۴﴾

اگر تو ہی زانان چھو تو یہ شہادت چھہ سبھا
بڑا شہادت -

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿۷۵﴾

بے شک یہ قرآن چھ بڑا عظمت تمھون وول -

فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ﴿۷۶﴾

بہ چھ اُکس پوشید کتابہ منز موجود -

لَا يَمَسُّهَا إِلَّا الْمَطَهَّرُونَ ﴿۷۷﴾

اچھ (یعنے قرآنچ) حقیقت چھوتے لوکھ لبان
یک مطہر (یعنے پاک کرنے آہی لوکھ) آسان چھ -

تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۷۸﴾

امیک نازل سپن چھ رب العالمین خدا یہ سید طرفہ -

أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُذْهِبُونَ ﴿۷۹﴾

او کیا یہ تمہ کلامہ کس حقتس منز چھو تو ہی چا پلوسی
تھام ہوان؟

وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكذِّبُونَ ﴿۸۰﴾

بہہ پن حصہ چھو توہہ صرف یہ بناوتھ تمھوت ز
تو ہی چھو یہ ایزوان -

فَلَوْ لَا إِذَا بَلَغَتِ الْخُلُقُومَ ﴿۸۱﴾

لہذا کیا نہ سپد نہ میلہ زن زو ہس تن ووت؟

وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ ﴿۸۲﴾

تو تو ہی مگو و امر وقتہ (ناولہ مید سپد تھ نہ تہونی
طرفہ) و چھنہ (ز تو ہی) اینکہ ہو پست نہ چوگ کانہہ

سامانہ کر تھ -

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِو مِّنكُمْ وَ لَكِن لَّا

بہہ (تمہ وقتہ سپد توہہ پٹھ تو تہندین اثناوان
پٹھ ظاہر نہ) اسی چھو تنس مزن والی سندس

تُبْصِرُونَ ﴿۸۳﴾

تو س تہندہ رتہہ جاہ نزدیک - اناہ پوز توہہ پٹھ
آہنہ یہ حقیقت روشن -

فَلَوْ لَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿۸۴﴾

او اگر توہہ کانہہ بلکہ اوس نہ میلن تو تو ہی چھو
تھہ دعواہس منز پز یارک تو یہ کیا نہ سپد نہ -


بقیہ حاشیہ :-

تباہ کر تھ مگر میلہ کل ہو کمان چھہ تمیک زین چھہ زالنس لگان - بیتھ پٹھ میلہ کانہہ قوم منور چھہ کرخان

سہ چھہ زینکی پٹھ نانو ورتھ تباہ کرخان - (منہ) لہ یعنی انسانی فطرتس منز - (منہ)

تَرْجِعُوْنَهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ﴿۳﴾
 نہ تو بہرہ پہنچو نہ سوا حالت واپس نہتھ (یوسہ مرتبہ روز
 یوان چھیہ)۔
 ادریس کا نثرھا خدایہ سُنْدُ مُقَرَّبِ چھ۔
 تَنْبُرٌ خَالِطٌ بِحَبِّ آرَامٍ تَرَّ اسْمَائِشُ مُقَدَّر۔ بیہ یتھ
 پامٹھ نمنرو سستی بُریتھ جنت۔
 بیہ اُرسہ شخصوں دُجھنہ طرفہ کہو لوگو منز چھ۔
 تہ تس چھ ونہ یوان ز اے دُجھنہ طرفہ کہہ
 لُکھہ ولہ! ثریہ پیٹھ روزان ہمیشہ سلامتی۔
 تہ اُرسہ مرن وول پزوک انکار کرن والہو تہ لُکھو
 منز آسہ۔
 تیلہ بیہ یتھس شخصس لُکھہ ونہ آہہ سوسال کرنہ۔
 تہ روزنہ باپتھ بیہ تس جہنم دینہ۔
 یہ کہتھ چھینہ حق الیقینس مطابق۔
 لہنڈا تہ کر پسنس عظمتہ واپس پروردگار ہنڈ
 ناہو کہ ڈرلیہ تسبح۔

فَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿۴﴾
 فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ ؕ وَجَدْتُمْ نَجِيْمٌ ﴿۵﴾
 وَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ اَصْحَابِ الْيَمِيْنِ ﴿۶﴾
 فَسَلِّمْ لَكَ مِنْ اَصْحَابِ الْيَمِيْنِ ﴿۷﴾
 وَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِبِيْنَ
 الضَّالِّيْنَ ﴿۸﴾
 فَذُلٌّ مِنَ كَوْمِئِذٍ ﴿۹﴾
 وَتَضْلِيَةٌ جَاجِيْمٌ ﴿۱۰﴾
 اِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِيْنِ ﴿۱۱﴾
 فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿۱۲﴾



سورة الحديد - یہ سورہ چھ مدنی - تہ بسم اللہ ہتھ چھ اتھ تہرہ آہہ بیہ چھیس ترور رکوع۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿۱﴾
 (بہ چھیس) اللہ (تعالیٰ) سُنْد ناو ہتھہ پران ایس
 حد رؤس کرم کرن وول (تہ) چھیرکی چھیرکی رحم
 کرن وول چھ۔
 آسمانن تہ زمہنہ منز یہ کینثرھا چھ تہ چھ خدایہ
 ہنر تسبح کرن، تہ سہ چھ غالب تہ حکمتہ وول۔

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَهُوَ
 الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۲﴾

لہ یقینک چھ تریہ مرتبہ - ۱ - علم الیقین، شلادہ وُجھنہ نار آسنگ یقین - ۲ - عین الیقین - اچھو
 سستی ناروزان وُجھن - ۳ - حق الیقین ووزونس نارس منز اتھ تر او تھ نارک یقین سپدن -
 اتھ یقینس منز چھنہ ایزح یا خلج کا نہہ کنجائیش روزان (اسلامی اصول کی فلاسفی)

آسمان ہنر تہ ز میپنج بادشاہت چھینے تہنرے
سے چھ زندہ کران بیہ چھ سے ماران تہ، بیہ چھ سے
پر چھ چیزیں پیٹھ تادیر۔
سے چھ اول تہ تہ آخر تہ، بیہ چھ ظاہر تہ
تہ باطن تہ۔ بیہ چھ سے پر چھ کئی چیزیں زمانان۔

کئی چھ آسمان تہ زمین شین وقتن منز پادکر
ہتہ۔ پتہ سپد سے عرضس پیٹھ مضمونی سان
تاپیم۔ سے چھ تہہ زمانان یہ زمیہہ منز داہل
چھ سپدان بیہ تہ پتہہ منز نیران چھ،
بیہ تہہ یہ اسانہ وسان چھ بیہ تہہ یہ تہہ کن
کھسان چھ۔ بیہ توہی نوت تہ تہو سے چھ
توہہ ستی روزان۔ تہ اللہ (تعالیٰ) چھ تہندو
اعمالو نیشہ واپو پامٹو خبردار۔

(بیہ) آسمان ہنر بادشاہت چھینے تہنرے
بیہ ز میپنج تہ (تہنرے) تہ ساری مسلہین
(تہا صلہ پاپتہ) تہی کن واپس پتہتہ آتہ۔
سے چھ راتھ دوہس منز داہل کران تہ
دوہس چھ راتھ منز داہل کران۔ بیہ چھ سے
دلن ہنر کتہ زبر پامٹو زمانان۔

اے لوگو! اللہ (تعالیٰ) تہ تہنرے رسولس پیٹھ
انوا ایمان۔ بیہ تہو بین (جا یادان) ہندر
(پرانہو توہو پتہ) توہر ہابک بتاؤ تہ چھو تہو
منز کٹو خبرتہج۔ بیہ توہہ منزیم مؤمن چھ
تہ خدایہ ہنر و تہ خرچ کران روزان چھ۔ تہن
مید سبھا بوڈا ہر۔

بیہ توہہ کیاہ چھو گومت ز توہی چھو تہ اللہ
(تعالیٰ) ہس تہ رسولس پیٹھ ایمان انان؟ تہ
(اللہ تعالیٰ سند) رسول چھو توہہ صرف اور
خاطر آلو کران ز توہی انو پنس پروردگارس پیٹھ

لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۗ يُحْيِيْ وَ
يُمِيْتُ ۗ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٧٧﴾

هُوَ الْاَوَّلُ وَ الْاٰخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ ۗ
وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٧٨﴾

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِي
سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۗ
يَعْلَمُ مَا يَلْجِ فِي الْاَرْضِ وَ مَا يَخْرُجُ
مِنْهَا وَ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَ مَا يَخْرُجُ
فِيهَا وَ هُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَ اللّٰهُ
بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٧٩﴾

لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۗ وَ اِلٰى
اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿٨٠﴾

يُوَلِّجُ الْاَيْلَ فِي النَّهَارِ وَ يُوَلِّجُ
النَّهَارَ فِي الْاَيْلِ ۗ وَ هُوَ عَلِيْمٌ بِذٰاتِ
الصُّدُوْرِ ﴿٨١﴾

اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ ۗ وَ اَنْفِقُوْا مِمَّا
جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ۗ فَالَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ اَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ
كَبِيْرٌ ﴿٨٢﴾

وَ مَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۗ وَ الرَّسُوْلِ
يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوْا بِرَبِّكُمْ ۗ قَدْ اَخَذَ
وَ مِيثَاقَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٨٣﴾

ایمان (بیہ) اگر تو ہی مؤمن چھو تیلہ چھ تھلین
 توہم اکھ وعدہ ہو تممت لہ
 سے (یعنی اللہ تعالیٰ ہے) چھہ یس پسینس
 بندس پچھہ ٹاکاہ ہشانہ تاہزل کران چھہ ییمیک
 نتیجہ پر سپدان چھہ زسہ چھہ یمو ہشانو ہسد
 دسی توہم انہ گپنو منز کڈتھ محاشس کن وان
 بیہ چھہ اللہ (تعالیٰ) بے شک سبھا شفقتس
 کھام ہینر وول (تہ) پھیرک پھیرک رحم کرن وول
 بیہ توہم کیاہ چھہ گوتمت ز توہر چھو ہ اللہ
 (تعالیٰ) ہینر و تہ منز خریج کران ؛ بوڑوس
 تہ آسان ہند تہ زمینک مہرات چھہ اللہ
 (تعالیٰ) سندے۔ اے مؤمنو! فتح (لبنہ)
 بروٹھہ ییمو خدایہ ہینر و تہ خریج کوز تہ ہینر
 و تہ منز جنگ کوزن، سہ ہینر نہ تس برابر
 آسٹھہ ییمو فتح (لبنہ) پتہ خریج کوز تہ فتح
 (لبنہ) پتہ کوزن جنگ۔ فتح (لبنہ) بروٹھہ
 خریج کرن و آل تہ جنگ کرن و آل چھو در جس
 منز سبھا تھدر۔ تہ اللہ (تعالیٰ) ہن چھہ
 دوہونی تہسہ کہن لوکن ستر نیکی ہند وعدہ گوتمت
 تہ اللہ (تعالیٰ) چھہ تہہندن اعلان ہند سبھا
 زبر پاٹھو زان وول۔
 کیا کاتھہ چھالیس اللہ (تعالیٰ) ہس (پینہ
 مالک) رت لکر تہ تھہ دیہ ییمہ زن سہ تھہ
 تہند خاطر ہرراو تہ تہند خاطر چھہ اکھ عزتہ
 وول بدلہ گنتھتہ۔
 ییمہ دوہہ تہ مؤمن مرد تہ مؤمن زنانہ و سبھہ
 ز تہہند نور آسہ ہتن بروٹھو کئی تہ ہتن ڈھیز
 کئی تہ تھہٹ ماران (تہ خداسے تہ تہند ہر ملائیک
 ون) از چھو توہم زگارنگ باعن ہنز نحوہ شجر

هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ
 بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى
 النُّورِ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿۵۷﴾

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 وَ لِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
 لَا يَسْتَوِيٰ مِنْكُمْ مَّنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ
 الْفَتْحِ وَقَاتَلْ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ
 الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتَلُوا وَ كَلَّا
 وَ عَدَّ اللَّهُ الْحَسَنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
 خَبِيرٌ ﴿۵۸﴾

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
 فَيُضِعُّهُ لَهُ ۚ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿۵۹﴾

يَوْمَ تَدْرَىٰ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَالْمُؤْمِنَاتِ
 يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ۖ وَ
 بِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ
 تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ

لہ یعنی فطرت صحیحہ ہس منز چھہ نما تعالیٰ ہس پیٹھ ایمان اُن تھاونہ آمت۔ (منہ)

فِيهَا ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۵۷﴾

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُوا مَا نَقْتِشُ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قَبْلِهِ الْعَذَابُ ﴿۵۷﴾

يُنَادُوا وَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ ؕ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿۵۷﴾

قَالِيَوْمَ لَا يُؤُودُ خَدُّ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ؕ مَا أُولَٰئِكَ إِلَّا فِي سَعْدٍ مَوْلَاكُمْ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿۵۷﴾

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ

دینِ یوان۔ (تھو بارغ) میں یونہی کئی کوسہ
یکان آسن۔ ہم (خوشخبرین اول) لوگ گنہگار
ہم جن جن منظر روزانہ تیرے چہرے سے
تیرے دوہرے منافق مرد تو منافق زمانہ
توہنا پیارو اسے تیرے آس کرو تہند
حاصل تیرے وقتہ پیہہ ہمن و نہہ پانس
وایس تو توت گرتھتھ تھاندرو نور۔
اتعالے ہند طرفہ) ہمن تو مؤمن
مھر تھونہ، بیٹھ منراکھ بر آسہ
آسہ رحمتک نظر تہ تھتھ نیبری
برو تھتھ کنہ عذابتک نظر بوز تہ یوان۔

تم (منافق) دن مؤمن ناد تو دن کیا
تا توہر سوتو؟ تم (یعنی مؤمن) دن جواب
او او، وونی گورو توہر تراور و پینر
عذاب منرا تہ توہر رورور (ساتہ تباہی)
پراران، بیہ رورور و شکن تہ
تہ تہندرو اور زورے رورور توہر
تمام فریب دیوان یوتام اللہ
وایتھ بیورور۔ بیہ اللہ تعالیٰ
سارکونے کاہن (متعلق شیطان
بازی تمارن۔

لہذا (اے منافقو!) اذکر کہ دوہر نہ
ہنش کانہہ فدیہ قبول کرتے تہ نہ
توہر سارکونے ہند بھکانہ چہرہ
سوتو ہمیشہ تعلق تھون وول
بیچھ بھکانہ۔

وہی چہر آس مؤمن دنان نہ کیا
پہندرو دل نمان اللہ تعالیٰ
تہ تہر کلامہ باپتھ یس حق
ووتھمت چھ؟ بیہ (مؤمن)
پیر زہ تم بن

قُلُوْهُمُهَا وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فَيَسْقُوْنَ ۝۱۰

ہو بہن لوکن ہندک پامٹو۔ مین بہن بروٹھ کتاب
دہن آمٹر آس۔ اماہ پوز (تھالیہ سڈ فضل نازل
گڑھک) زانہ سپد تہند خاطر زیلوٹھ۔ مینہ
کئی تہند دل سجت گے تہ تھو منتر آس
وارباہ فاسق بنے ہوتے۔

یاد تھو نر اللہ (تعالیٰ) چھ زمیں تمہ کہہ
مرنہ پتہ زبہ کران۔ اسہ چھ تہند خاطر پینز
بشانہ واش کڈی کڈی بیان کرے ہوتے۔ یہ زن
توہی عقلہ کھام ہتیو۔

رَاعِلْمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَخِي الْاَرْضَ بَعْدَ
مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُوْنَ ۝۱۱

بے شک صدقہ دہن والہن مردن تہ صدقہ
دہن واجنن زمانن بیہن لوکن یکو اللہ (تعالیٰ)
سند خاطر پینن مالہ منتر اکھ رت حصہ تہ
الگ کوزمت آسہ، تہند مالین تہند خاطر
ہر راونہ، تہن مین پیہ عزت وول بدلہ دہن۔

اِنَّ الْمَصْدِقِيْنَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَاَقْرَبُوْا
اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعْفُ لَهُمْ وَا
لَهُمْ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ۝۱۲

بیہ یکو اللہ (تعالیٰ) ہس پیٹھ تہ تہند لون
پیٹھ ایمان اون تھے چھ پنشن پروردگار س بخش
صدقہ تہ شہیدن ہند مقام لین اول، بہن
میلہ تہند پور پور بدلہ، تھے پامٹو میلہ بہن
تہند لور تہ تم لوکھ پو گھر کور تہ سانی آہ
اپڑا کوکھ تم آس جہنی۔

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِْ اُولٰٓئِكَ
هُمُ الصّٰدِقِيْنَ ۝۱۳ وَالشّٰهَدٰٓءُ عِنْدَ
رَبِّهِمْ لَهُمْ اَجْرُهُمْ وَاَنُوْهُمْ
وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاكْفَرُوْا بِالْاٰيٰتِنَا
اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ۝۱۴

اسے لوکو! زانو زونہ ہرج زندگی چھینہ محض اکھ
گندن تہ دل رنر ناوتک چہر۔ بیہ چھینہ پارو
حاصل کرنک تہ پانہ وانہ تھکنا ونک تہ اکھ
اکس پیٹھ ماس تہ اولادن منتر بجا ونک باعش۔
ایچ حالت چھینہ روڈ سستی وہ پدن والہ زرا پتج
ہش مینیک وہ پدن زمیندارس خمش کران چھ
تہ پتہ چھ (سہ وومدن) زب پامٹو زعید ماران مگر انہ
چھ بن تہ سہ لیدریرس پیٹھ (نزر لومت) وچھان۔ تو
پتہ چھ سہ گولمت چھ پور سپدن تہ مخرس
منتر چھ (تھین دنیا دارن ہند خاطر) سجت

رَاعِلْمُوْا اَنَّ مَا الْحَيٰوَةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ
وَزِيْنَةٌ وَّا تَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَا تَكَاثُرٌ فِى
الْاَمْوَالِ وَا الْاَوْلَادِ وَا كَمَثَلِ غَيْثٍ
اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِئِبُ
فَتَرَهُ مُضْفَرًا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا
وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَا مَغْفِرَةٌ
مِّنَ اللّٰهِ وَا رِضْوَانٌ وَا مَا الْحَيٰوَةُ
الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعٌ الْخٰرُوْرِ ۝۱۵

عذاب مقرر ہے کیشن ہندہ خاطر چھ اللہ تعالیٰ
ہندہ طرفہ مغفرت ہے (خدا تعالیٰ سند) رضا مقرر
تہ یتیم دنیا بیچ زندگی چھتہ صرف اکھ فریب
وہ وول ٹائیڈ۔

اے لوگو! توہی بڑو وورھ سان سینس پروردگار
ہندہ طرفہ پیوہ وائس مغفرتس تہ تھس جنس
کس۔ نیکی مومل ساری آسمانہ کس تہ زمینہ
کس مومل برابر چھ۔ تہ لیس اللہ تعالیٰ

تہ تہندس رسول پیوہ ایمان ان والہن ہندہ
خاطرہ جوہر کرہ امت چھ۔ یہ چھ اللہ تعالیٰ
سند فعل، سہ یتیمس پسند کران چھ تس چھ
دولان، بیہ چھ اللہ تعالیٰ) بڑ فضلہ وول۔

زمینس پیوہ چھتہ کانہہ مصیبت یوان تہ یہ چھ
تہندین زون پیوہ کانہہ مصیبت یوان مگر تمہ کہ
ظاہر سپدن تہ بروٹھ چھ اسہ سہ مقرر کورمت
آسان۔ یہ کتہ چھتہ اللہ تعالیٰ) ہندہ خاطر بیکل
سہل۔

یچہ زن توہر پسنہ کو تاہی پیوہ کانہہ افسوس
سپدن تہ نہ سپدو توہی تھہ پیوہ خوش یہ توہر
اللہ تعالیٰ) دیو، تہ اللہ تعالیٰ) چھتہ پرچہ
ترھو کہ ہاون وائس تھیکن وائس پسند کران۔

تھہ لاکھ ہم پانہ تہ بھلی کام ہوان چھ تہ بین
تہ چھ بھلی بھینتاوان۔ بیہ میں شخص یتیم لغتہ
نشہ بھہ پھر، اہ یاد تھون ز اللہ تعالیٰ) ہے
چھ پڑو پاٹو بے نیاز تہ پزین تھون ہندہ قدر۔

اسہ چھ پیوہ رسول طاکر نشانہ ہتھ سوزو تو
بیہ تمہن ستی چھتہ کتاب تہ میزان تہ تا نول
گر مہتر یچہ زن لاکھ انصاف کران آس۔ بیہ
چھ اسہ شہتر تہ تا نول کورمت۔ یچہ منز
شدہ جنگل سامانہ چھ۔ بیہ لوکن ہندہ خاطر

سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ
عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ
أَعَدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ
ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۗ
وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۲۷﴾

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا
فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ
نَبْرَأَ آهَادًا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿۲۷﴾

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا
تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
كُلَّ مُخْتَلِفٍ قَلْبًا ﴿۲۷﴾

الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ
بِالْبُخْلِ ۗ وَ مَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ
الْعَنِيُّ الْاَحْمِيذُ ﴿۲۷﴾

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ ۗ
أَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۗ وَأَنْزَلْنَا
الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ ۗ وَمَنَافِعُ
لِلنَّاسِ ۗ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ ۗ

دُسَلَكُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿۱۹﴾
 بیہ تہ کھو یا نفع چھو۔ تہ (یہ سورسے چھو او
 کھو پاؤ کو دست نہ) اللہ (تعالے) زانہ نہ تہنہز
 تہ تہنہز رسولن کس چھو غائب چہہ حالہز مشر اتھو
 روٹ کوان تہ اللہ (تعالے) چھو بڑ طاقتہ دول
 (تہ) غالب۔

بیہ اسی آسہ نوح تہ ابراہیم تہ رسول بناو تھہ سوزی متہ۔ بیہ
 تہنہز ڈریہ سوزی اس نبوت تہ کتاب مضمون تھا و پرا دکنہ
 اسی تمومیز بدایت لبس والی تہ واراہ لکھ اکر تہن مشرفاسق۔

پتہ سوزی اسہ تہنہد (یعنے نوح تہ ابراہیم سہلو
 اولادو) پتہ پتہ رسول تہنہدس نقش قدس پٹھ
 پکٹاوتھ۔ تہ عیسی ابن مریم تہ پکتور تہنہدس
 نقش قدس پٹھ بیہ بخشاوس انجیل تہ مریم
 تہنہد پارو کھنے یہ اسہ کمر تہنہد بن دین مشر
 شفقت تہ رحمت پاؤ تہ تمو پروو انہر روزنگ
 طلقت۔ یہ پروو تمو پانے۔ اسہ اوس نہ یہ
 حکم تہن پٹھ فرمن کورمت۔ (اگرچہ) تمواوس
 اللہ (تعالے) ہنہز رضامندی حاصل کر تہ تمو کھ
 یہ طریقہ اختیار کورمت۔ گمراسیک پور لحاظ
 ہنو کھ نہ تھاوتھ۔ او تہن مشریم مؤمن اسی
 تہن بخشو اسہ مناسب حال اجر تہ تمومشز
 اسی واراہ فاسق تہ۔

اسے ایمان والو! اللہ (تعالے) سہد تقویٰ پر او
 بیہ اڑو تہنہدس رسولس پٹھ ایمان تیلہ دیو تہہ
 اللہ (تعالے) پتہ رحمتہ مشر دہ گنہ لوگ تہ
 تہنہد خاطر کر نوز مقرر۔ بیہ کہ مدد سستی توہم
 پکو۔ بیہ کر تہنہد گنہ ناہ معاف۔ تہ اللہ (تعالے)
 چھ سہٹھا بخش نار (تہ) اچھہ روس رحم کرن دول۔

تہ یہ چہہ اسی او کھ زانہ نہ یقہ نہ اہل کتاب
 یہ زانہ نہ مسلمان بیٹھو نہ اللہ (تعالے) ہنہد


وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَ
 جَعَلْنَا فِي دُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ
 فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ
 مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿۲۰﴾

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا
 وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ
 الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ
 اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهَابَنِيَّةً
 ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا
 حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا
 مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ
 فَسِقُونَ ﴿۲۱﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ
 آمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنَ
 رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ
 بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۲۲﴾

لَيْسَ لَكَ عَلَىٰ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ
 أَلْسِنَةٌ لَّيَالَىٰ يَكْفُرُونَ إِلَّا يَكْفُرُونَ
 عَلَىٰ شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآنَّ

الْفَضْلَ بِإِذْنِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۱۰﴾
 فضلہ مثل کوئی تر۔ بلکہ زانن نے فعل پر
 اللہ (تعالیٰ) سندس اتمس مثل، یس بیشرحان چھ
 دو ان چھس تر اللہ (تعالیٰ) چھ بڑی فضل کرن وول۔



سورة مجادلہ، یہ سورہ چھ مرتبہ تو بسم اللہ بہتہ چھو اتھ تر وڑوہ آہیہ بیہ چھس تر تریہ رکوع۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾

(بہ چھس) اللہ (تعالیٰ) سندن او بہتہ (پر ان) یس
 حد رؤس کرم کرن وول (تر)، پھیری پھیری رحم کرن
 وول چھ۔

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي نَادَىٰ
 تَجَادِلْ لَكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ
 وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ
 سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿۲﴾

اللہ (تعالیٰ) ہن بوزتس زوانہ ہند دعا یو سہ
 پینس خاوندس نپسبت تریہ سوتی مجادلہ لگان اوس
 بیہ اوس اللہ (تعالیٰ) ہس فریاد کرن۔ تر اللہ
 (تعالیٰ) اوس توہر دوفونی ہنز کتھ باتھ بوزان۔
 اللہ (تعالیٰ) چھ یقیناً سہٹھا بوزن وول (تر)
 وچھن وول۔

(او کوئی تھو ویا در) توہر مثلہم لاکھ پینہن
 آشنہن موج ورن، او تہر ونہر سوتی چھہ
 تہر تہتر ماہر سپان۔ تہتر ماہر چھہ سہ
 یو تہن زکم دیت مت چھ تر (یہ کیشترھا تہم
 غلط سوتی وبتھ مٹھان چھو تہن ہند حقہ چھ
 ہیکان بی وبتھ بتھ تر) تہم بیہ اکھ ناپندیدہ
 تر اپڑ کتھ ونان تر اللہ (تعالیٰ) چھہ تہتک
 سہٹھا معاف کرن وول (تر) سہٹھا بخش مار۔
 بیہ تہم لاکھ ہم پینہن آشنہن موج ونان چھ
 او تہر پتہ (خدا تعالیٰ سہٹھا کرنہ باوجود)
 یہ کیشترھا تہو و نیا وبتھ کئ چھ پھہ تھ یوان۔
 تہن ہند خاطر چھ ضروری تر تہم کرن اکھ غلام
 آزاد امر بروٹھ تر تہم دولاے (باز) چھوہن

الَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْكُمْ مِنَ نِسَائِهِمْ
 مَا هُنَّ آتَمَّتْهُنَّ مَا لَنْ آتَمَّتْهُنَّ إِلَّا
 الْبُيُوتُ وَلَكِنَّهُنَّ لِيَقُولَنَّ مُنْكَرًا
 مِنَ الْقَوْلِ وَرُؤُءًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُؤٌ غَفُورٌ ﴿۳﴾
 وَالَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ
 يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَمِنْ
 قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ ذَلِكُمْ تَوْعَظُونَ
 بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۴﴾

اکھ اُکس - یہ چھیدے سو رکھے) سبھیج توہ بہ لہجہمت
کرنہ یوان چھو - تہ اللہ (تعالے) چھ تہندہن
اعمالن ہند زبر پانٹھو خبردار -

تہ ووفی یس (علام) بدس بیہ ہن سہ
رؤن متواتر دون رہن روزر، تمہ
بروٹھ نہ تم لائن اکھ اُکس اتھ - تہ یس یہ
طقت تہ آسہ ہن تہ سہ کھیوان شیٹھن مسکین
کھین - یہ (محکم) چھ او خاطر ادبہ امت ()
یچھ (زن) توہی اللہ (تعالے) تہ تہندس رسولہ
سبز کتھ آسو مانان - تہ یکم چھ اللہ (تعالے)
ہندہ حد - بیہ چھ کافر ہندہ خاطر وگوار
عذاب مقرر -

یکم لکھ اللہ (تعالے) تہ تہندس رسولہ ہندس محکم
خلاف گزھان چھ ہم بین ذہیل کرنہ یچھ پانٹھو
ہمن بروٹھ لکھ ذہیل کرنہ آہ - تہ آسہ چھ ہنہ
نئی حکم نازل کرے ہتر - تہ یکم لکھ (بین واضح
حاکم ہند) نکار کرن ہمن واتہ رسوا کرن دول
عذاب -

ہنہ دوہہ اللہ (تعالے) ہمن ساری نے سونہ روتھ
تہ تہندس ہمن اعمالن ہنتر خبر دیہ یکم اللہ
(تعالے) ہن گنتر روتھ تھا وک ہتر چھ مگر ہتمو
چھ ہتر تہ مشر اوتھ ترہنی ہتر - تہ اللہ (تعالے)
چھ ہتر تہ چہرس پیٹھ نکران -

ترہ پچھے ناپے نہ آسان تہ زمینہ منز یہ کیشھا
تہ چھ اللہ (تعالے) چھ تہ زمان - وڈیہس
منز چھنہ کینہہ ترہ انسان بیون مشور کرن اول
آسان - ہیلہ سہ (اللہ تعالے) تہندہ ترورم آسہ
نہ ، تہ نہ چھ پانترہ مشور کرن اول آسان ہیلہ
سہ تہندہ تنہیم آسہ ہن تہ امر گرنہتر ہنتر کم
آسہ تن یا جاہ مگر سہ چھ (پرچھ صورتس منز)

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ
مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَآتَا ۖ فَمَنْ
لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا
ذَلِكَ لِتَوَقُّؤِنَا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَتِلْكَ
حُدُودُ اللهِ ۗ وَاللَّكُفْرِيْنَ عَذَابُ اَلْبَئِمْ ۝۱

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَادُّوْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ
كَبِئْرًا كَمَا كَبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ
وَقَدْ اَنْزَلْنَا اٰیٰتٍ بَيِّنٰتٍ ۗ وَاللَّكُفْرِيْنَ
عَذَابُ مُهِۦنٍ ۝۱

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ
بِمَا عَمِلُوا ۗ اَخْضَعُ اللهُ وَرَسُولُهُ
وَاللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝۱

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللهَ يَخْلُقُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ
مَا فِي الْاَرْضِ ۗ مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ
اِلَّا هُوَ رَاِبْعُهُمْ ۗ لَا حَمْسَةَ اِلَّا هُوَ
سَادِسُهُمْ ۗ وَلَا اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ ۗ وَلَا
اَكْثَرَ ۗ اَلَا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا ثُمَّ
يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ
اِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝۱

تمن سورتو آسان ادا تم گنہ تہ (مشورہ کران) اسی تہ پتہ دیہ سہ تمن قیامتہ کہ وہ تہندکرا اعلان جز خیر - اللہ (تعالے) چھہ پرتیہ اکھ چیز نزن وول -

کیا تریہ وچھتہنا! تم (لوکھ) بین کھو کھو تروہ یہ کرہہ نیشہ مع کرہہ آمت چھہ پتہ تہ چھہ تم اتھ ٹھک کرہہ آتس چیزس کن پھیرک پھیرک یوان روان تہ گوناہ تہ زیادتی تہ رسولہ ہنر نافرمانی ہنر کھن متعلق چھہ تم پانہ وائی مشورہ کران بیہ نیلہ تم تریہ نیش یوان چھہ تہ تریہ چھہ تھین نفلن منز وعا کران بین (نفلن) منز خداین وعا کورہہ تہ - بیہ چھہ پسنین دن منز روان تہ (اد) کیا تہ چھہ اللہ (تعالے) سانہو (مناقضہ) کھو کئی اسر عذاب روان - جہنم چھہ تمن لوکن ہند خاطر کافی - تم اثرن اتھ منز تہ سہ چھہ سٹھا کچھہ بھکانہ -

اے مؤمنو! بییلہ کھاتھ مشورہ کرو تہ گنہ ہجیہ کھتہ تہ زیادتی ہنر کھتہ پیٹھ اسی زبو تہ کھتھ مشورہ کران تہ نہ اسی زبو رسولہ ہنر نافرمانی ہنر کھن پیٹھ - بلکہ نیکی تہ تقویٰ چھہ کھن پیٹھ اسی مشورہ کران - بیہ کرو اللہ (تعالے) سند تقویٰ اختیار نہیں کن توہی ساری (زنبہ کر تھ) واپس نہہ پیو -

کھو کھو تروہ یہ کرہہک طریقہ چھہ شیطانی سبہ طرفہ آمت تہ تمیک غرض چھہ یہ نہ مؤمن ترازو فکر منز تہ سہ ہیکہ نہ تمن اللہ (تعالے) سبہ حکم بغار کبھی تہ نوقصان وائناوتھ - بیہ پیز نہ مؤمن کرن صرف اللہ (تعالے) اس پیٹھ توکل - اے مؤمنو! بییلہ توبہ و نہہ پیو نہ مجلس مشر بہو کھہ ڈلہ پاٹھو تہ کھہ ڈلہ پاٹھو نہی بہان -

الْمُتَرَالِ الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ
يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَجَّوْنَ
بِأَلْسِنِهِمْ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ
الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا
لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي
أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا
نَقُولُ ۚ حَسْبُ لَهُمْ جَهَنَّمُ ۚ يَصَلُّونَهَا ۚ
فِيئْسَ الْمَصِيرُ ①

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا
تَسْتَأْجُوا بِأَلْسِنِكُمْ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ
الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِاللِّسَانِ
وَالتَّقْوَى ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ
تُحْشَرُونَ ⑤

إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْذُرَ
الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَرِّهِمْ شَيْئًا
إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُؤْمِنُونَ ⑩

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ
تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ

اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فانشُرُوا
يَزْفَحِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ
أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۱۷﴾

اللہ (تعالیٰ) تیرے کہ تمہندے باپتھ کشتاوی ہندے
سامانہ پیاو تہ میلے توہہ وتہہ بیوہ زوہو تہ
وہ تعالیٰ مسوزو۔ اللہ (تعالیٰ) ہر راوہ تمہن
درجاتن مشریم زن مؤمن چہ، تہ حقیقی علم
تھون اول چہ۔ بیہ اللہ (تعالیٰ) چہ تہہ تہہ
اعمالو نشہ زبر پامو خبردار۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَجَیْتُمْ
الرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ
صَدَقَةٌ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطَهْرٌ فَإِن
لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۸﴾

اے ایمان دارو! میلے توہی رسولس نش اوکپور
روزتھ مشور کرن یشہو تہ پسنہ مشورہ
برونٹھ آسو کیہہ صدقہ دولان۔ یہ آسہ تہہ تہہ
باپتھ جان بیہ آسہ دس پاک کرنک باعت۔
(مگر یہ حکم چہ تمہنے ہندے خاطر بین توفیق آسہ)
اگر توہہ (کا تہہ چیز تہ صدقہ خاطر) بیوہ وتہہ
(تہ کیہہ فکر چہنہ) اللہ (تعالیٰ) چہ سبٹھا بخش دول
(تہ) چہہری چہہری رحم کرن دول۔

ءَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ
تَجْوَاكُمْ صَدَقْتُمْ فَاذَلَمْ تَفْعَلُوا
تَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۹﴾

کیا توہی کھوتی وا مشور کرنہ برونٹھ صدقہ دہہ
نشہ؟ اگر توہہ تہ کورو تہ تہ اللہ
(تعالیٰ) ہن چہ توہہ پتھ فضل کورمت، لہذا
توہی کرو نماز تقایم بیہ دیو زکوٰۃ بیہ کرو اللہ
(تعالیٰ) ہس تہ تہہ رسولس اطاعت تہ یہ
کیہہ صا تہ توہی کران چو اللہ (تعالیٰ) چہ تہ
زبر پامو زانان۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا
غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِمَّا هُمْ مِنْكُمْ
لَا يَمْنَهُمْ ؕ وَيَخْلِفُونَ عَلَى الْكَيْبِ وَهُمْ
يَعْلَمُونَ ﴿۲۰﴾

کیا تیرے وچہ تہاہہ تمہن لوکن کن تہ میوہ تہہ
توس سبتو یارابہ کور بین پتھ خداین غضب
تازل کورمت اوس۔ پتھ لاکہ نہ چہ توہہ
مشر نہ چہ تہہ مشر تہ تم چہہ اپزہن سکتھن
پتھ رائتھ مانہہ قسم ہوان۔

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ
سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۲۱﴾
لَاتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنِ
سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهِمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿۲۲﴾

اللہ (تعالیٰ) ہن چہ تہہ تہہ سہمت عذاب
تیار کرتھ تھومت۔ تہہ تہہ اعمال چہ سبٹھا ناکارہ
تہو چہہ پتھ قسم رسپر بناو کہوت۔ تہ تم چہہ دیوہ
قسمو سبتو، اللہ (تعالیٰ) سترتہ نشہ (لوکن)

چھ رٹان۔ لہذا تم میں سے وہ لوگ جو عذاب سے نہیں ہندیں، بلکہ تم سے ہندیں، اولاد اللہ تعالیٰ سے اس مقابلہ میں، کا نہیں نفع دیتے۔ ایم لوگ چھ جہنمی (تسا) تم گنہگاروں سے تھ اندر روزان۔

یہ دوسرے اللہ تعالیٰ سے سارے سن سے سب سے زیادہ تمہارے ایم لوگ سے ہندیں، بلکہ تم سے ہندیں، اولاد اللہ تعالیٰ سے اس مقابلہ میں، کا نہیں نفع دیتے۔ ایم لوگ چھ جہنمی (تسا) تم گنہگاروں سے تھ اندر روزان۔

شیطان چھ تمہارے ایم لوگ سے ہندیں، بلکہ تم سے ہندیں، اولاد اللہ تعالیٰ سے اس مقابلہ میں، کا نہیں نفع دیتے۔ ایم لوگ چھ جہنمی (تسا) تم گنہگاروں سے تھ اندر روزان۔

یہ دوسرے اللہ تعالیٰ سے سارے سن سے سب سے زیادہ تمہارے ایم لوگ سے ہندیں، بلکہ تم سے ہندیں، اولاد اللہ تعالیٰ سے اس مقابلہ میں، کا نہیں نفع دیتے۔ ایم لوگ چھ جہنمی (تسا) تم گنہگاروں سے تھ اندر روزان۔

اللہ تعالیٰ سے سارے سن سے سب سے زیادہ تمہارے ایم لوگ سے ہندیں، بلکہ تم سے ہندیں، اولاد اللہ تعالیٰ سے اس مقابلہ میں، کا نہیں نفع دیتے۔ ایم لوگ چھ جہنمی (تسا) تم گنہگاروں سے تھ اندر روزان۔

یہ دوسرے اللہ تعالیٰ سے سارے سن سے سب سے زیادہ تمہارے ایم لوگ سے ہندیں، بلکہ تم سے ہندیں، اولاد اللہ تعالیٰ سے اس مقابلہ میں، کا نہیں نفع دیتے۔ ایم لوگ چھ جہنمی (تسا) تم گنہگاروں سے تھ اندر روزان۔

لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۵۸﴾

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُخَلِّفُونَ لَهُ كَمَا يَخَلِفُونَ لَكُمْ وَيُحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿۵۹﴾


لَا تَتَّخِذُوا عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانَ فَاَتَسُدُّهُمُ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَّا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿۶۰﴾

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ﴿۶۱﴾

كَتَبَ اللَّهُ لَا غَلِبَتْنَا أَنَا وَرُسُلِنَا إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿۶۲﴾

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحِهِ مِنَّمَا هُوَ يُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَّا إِنَّ

حُزِبَ اللَّهُ لَهُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۵۹﴾ ﴿۱﴾
 تمہیں جہنم میں مقرر کیا گیا ہے اور تمہیں جہنم میں مقرر کیا گیا ہے
 کوہلو پکان آسن۔ تم گڑھن ہنم مقرر روزان۔
 اللہ (تعالیٰ) سپید ہنم راضی ہے تم گئے اللہ
 (تعالیٰ) ہنس راضی۔ تم چھ اللہ (تعالیٰ) ہنم
 جماعت ہے (ہنم) بوزتھ تمھو ز اللہ (تعالیٰ) سند
 دورے چھ کامیاب سپدان۔



سورۃ حشر، سورہ چھ مدنی ہے بسم اللہ پہلے چھ آیت ہیں تیرہ رکوع۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾
 سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي
 الْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۲﴾
 هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ
 الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ ۚ
 مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ
 مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَهُمُ
 اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ۚ وَ
 قَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ۚ يُخْرِبُونَ
 بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي
 الْمُؤْمِنِينَ ۚ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي
 الْأَبْصَارِ ﴿۳﴾
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (پران) لیس
 حد رؤس کرم کرن وول (ہنم) پھیر کر پھیر کر
 کرن وول پھیر۔
 آسمان ہے زمیں میں کثیر چھ، ہے چھ اللہ
 (تعالیٰ) ہنم تبیح کرن ہے سہ (اللہ تعالیٰ)
 چھ غالب (ہنم) حکمت وول۔
 سے (خدا) چھ تیمو اہل کتاب کا فر گودیکہ
 جنگ ویر تہندو گرو مقرر کڈی ہے تو ہر مسود
 نو خیال کرن نہ تم نیرن۔ ہے تم مس خیال کرن
 نہ تہندو تلابیہ بچاوان ہنم اللہ (تعالیٰ) ہنس تعالہ۔
 ہے اللہ (تعالیٰ) او ہنم نش تیار کر تیار ہے
 ہنم گمانے اس ہے تہندو دن مقرر وول ہنم۔
 تم مس پینز گر اکثیر شا، پنچو اتھو ہے (کثیر شا)
 مؤمن ہندو اتھو سوتی خراب کرن۔ لہذا اسے
 سوچ سمجھ تھاون واہو لوگو! عبرت لو۔

لہ بیتہ آیس مقرر چھ تہر جنگ ذکریہ مقرر مدینہ شریف میں مقرر روزان وول یہودی قبیلہ
 بنو نضیر مسلمان سوتی جنگس وراہو۔ (فتح البیان)
 لہ یسیاہ باب ۲۳ آیت ۱۰-۱۸ ہنس مقرر چھ لکیرتہ زاکس موقعس پیٹھ یہودی بین ملک بدر کرنہ۔

لَعَذَابُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
عَذَابٌ النَّارِ ۝

فرمن کر تھ آسو ہے نہ تھومت تہ تمہن دیہ ہے
یتھ دنیاہس منز تہ عذاب تہ اترتس منز چھ
تہہندہ خاطر جہنمک عذاب گنڈ تھ۔

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ
وَ مَنْ يُشَاقِقِ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدٌ
العِقَابِ ۝

یہ سورسے کیہہ سپد اوکزی نہ ہو کوز اللہ (تعالے)
تہ تہندس رسولس سنو اختلاف تہ لیس اللہ
(تعالے) ہس سو اختلاف کرس تھاون یاد نہ
اللہ (تعالے) سندن عذاب چھ کر لو تھ آسان۔

مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْتَةٍ اَوْ تَرَكْتُمْوهَا
قَائِمَةً عَلٰى اُصُوْلِهَا فَاِذِنَ اللّٰهُ
لِلْخِزْيِ الْفَيْسِقِيْنَ ۝

توہہ ترؤلو نہ کھنر سکین ہند کا تھہ مول یا کا تھہ کل
تروو نہ استاد پتہن مولن پٹھ۔ مگر یہ اوس (سورہ)
اللہ (تعالے) ہند مکھہ سو۔ بیہ اوس اوکزی نہ نازن
بن رسوا کر تہ۔ لہ

وَ مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مِنْهُمْ فَمَا
اَوْ جَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّ لَا رِکَابٍ
وَّ لِحَنِ اللّٰهُ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلٰى مَنْ
يَشَآءُ وَّ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

بیہ یہ کیہ تھ مال اللہ (تعالے) ہن تمہن (بھنر)
چھرن لوکن، ہند پنس رسولس بیت (توہہ)
چھو پی نہ، توہہ دو ناو کو تہ پنو گری تہ اونٹ
سہ مل حاصل کر تہ خاطر۔ وادی گوو اللہ (تعالے)
چھ پنس رسولن مالک بناون سیک تہ سہ
بیرھان چھ بیہ چھ اللہ (تعالے) بیرتھ چیزس
پٹھ تھوہر۔

مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى
فَوَلِّهِ وَّ لِلرَّسُوْلِ وَّ لِذِي الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى
وَ الْمَسْكِيْنَ وَّ اٰبِىن السَّبِيْلِ ؕ كٰى لَا
يَكُوْنُ ذُوْلَةٌ بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
وَ مَا اَتٰكُمْ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَ مَا
نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ
اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

بیتہن ہند بن لوکن ہند لیس مال اللہ (تعالے)
ہن پنس رسولس عطا فرموو، سہ چھ اللہ (تعالے)
سند، بیہ (چھ) رسولس سند، بیہ (چھ) اشناون
ہند، بیہ (چھ) سچھن ہند، بیہ (چھ) سکین
ہند تہ مسافرن ہند۔ یہ تھہ سہ مل تہتہ بن
مال وارن منز پھیران روزہ، بیہ رسول یہ کیہ تھ
توہہ دیو تہ رلو تہ بیتہ نشہ سہ منع کر و توہہ
نشہ روزو زلو پتھ۔ تہ اللہ (تعالے) سند تقوی
پراوو۔ اللہ (تعالے) سند عذاب چھ بے شک
کر لو تھ آسان۔

لہ اتھ ایس منز تہ چھ یہودی قبیلہ بنو نضیرس سبتو جنگلک ذکر۔
لہ بیہ خیر کن مینو بن ہندو گام۔

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا
مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ
فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا
وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ
الصَّادِقُونَ ﴿١﴾

یہ (مال) چھ (ہیر میو لوکو علاو) مہاجرین
بند حق یم تہندو مرو تو مالو نشہ (بے دخل کر کے)
کڑھ تھ تھ ہنہ آمو تھ اسی ۔ تم چھ اللہ (تعالیٰ)
سند فضل تو سند رضا ہنہان بیہ چھ (ہمیشہ)
اللہ (تعالیٰ ہند و نیگ) تو تم ہندس رسولہ
سند مدد کران روزان ۔ تے لوکھ چھ (ایمان منتر)
پڑیاری ۔

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْأَيْمَانَ مِنْ
قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ
وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا
أُوتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ
وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ نَّادُوا مَنْ يُؤْتِي
شَيْئًا نَفْسِهِمْ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ﴿٢﴾

بہ (یتھے پانچو سہ مال چھ بہن لوکن ہند خاطر
تہ) یم مدینس منتر برونہ پٹھے روزان اسی
تہ جو اوس (مہاجرین ہند پینہ برونہ) اپان
قبول کورمت تو بہن سستی اسی محبت کران یم
بہن کن ہجرت کر کے آپ تہ پینن دن منتر اسی
تہ چھ (یعنی تمہ مارچ) کہنہ ہنہ تھوان یہ
بہن دنہ آمت اوس ، تہ پانہ غریب آستہ باوجود
اسی تم مہاجرین پینن نفس پھٹ ترح روزان
تہ یم لوکھ پینہ نفسہ چھ بھلی نشہ بجاوہ پین
ہتھو ساری لوکھ چھ با مراد سپدن والی ۔

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ
رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا
بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا
لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ
رَحِيمٌ ﴿٣﴾

بہ یم لوکھ تہندہ زمانہ پتہ آپ تم چھ وانان ،
نہ اے ساتھ پروردگار ! اسہ تہ بخش تہ ساہن
بہن باہن تہ و بخشائش پمو اسہ برونہ ایمان
اونمت چھ ۔ بہ ساہن دن منتر مؤہن خلاف
کہنہ پاد گرتھہ مہ ۔ اے ساتھ پروردگار !
تہ چھکھ سہٹھا مہربان (تہ) اٹھہ رؤس رحم
کران وول ۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَافَقُوا يَقُولُونَ
لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ
مَعَكُمْ وَلَا نُنْطِئُكُمْ فِينَكُمْ أَحَدًا

کیا تریہ و چھتھنا تم متناق ؟ یم اہل کتابو
منتر پینن کافر باہن وانان چھ نہ اگر توہم
(مدینہ منتر) کڑھ تھہنہ آہو ۔ تہ اسی نیرو
توہر سستی تہ توہر خلاف مانو نہ نہنہ کا نشہ

أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرْكُمْ، وَاللَّهُ
يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۷۱﴾

مترجمہ۔ یہ ہر گاہ تو ہم سستی جنگ کرنے آؤ
تو اُسے کرو تو ہم مدد دے گا اللہ (تعالیٰ) چھ
گواہی دہن نہ تم چھ اپنی یاد۔

لَئِن أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ
وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُوهُمْ، وَلَئِن
نَصَرُوهُمْ لَيُؤَلَّنَّ الْأَذْبَارُ ثُمَّ لَا
يُنْصَرُونَ ﴿۷۲﴾

یوڑے ہم (اہل کتاب) گڈتھ ترہینہ آہی تہ
ہم (منافق) نیرن نہ نہینہ ہمن سستی تہ ہر گاہ
ہمن اہل کتاب) سستی جنگ کرنے آؤ تہ ہم منافق
کرن نہ ہمن نہینہ اتھ روٹ۔ تہ ہر گاہ اتھ
روٹ کرن تہ، او (تہہ اپنی دلہ کرن نہ) جنگ
سپد وئے ترن تھہر پھرتھ۔ تہ (تم کیا ہ اتھہ
روٹ کرن تہند) ہمن آسرتہ پانس کا نہ اتھہ
روٹ کرن ول۔

لَا تِلْكَ أَشْدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِّنَ
اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿۷۳﴾

(اے مومنو!) تہند ہم چھ ہمن (منافقن)
ہندین دن منظر اللہ (تعالیٰ) سہند کھوتہ تہ جاؤ
یہ کتھ چھیا او خاطر نہ سہ چھ اکھ تہیہ دور
ہمن کینہ لکری پھنہ تران۔

لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قَدَرٍ
مَّحْضَةٍ أَوْ مِنْ ذُرَّاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ
بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا
وَلَا يَخْلُقُونَ ﴿۷۴﴾

تم کرن نہ نہینہ توہہ سستی جنگ اہہ وراہی نہ
تم آسن مضبوط قلابہ والین گاسن منتر یاد یوران
ترہا پہ پتھ۔ تہنہر لڑائی چھیا پانہ وائی کر پھ آسان
تہ چھہک ہم اکھ (مستحد) قوم زمانان دچھ پوز
تہند کی دل چھ چھہ چھانگر یہ چھ او کب نہ سہ چھ
تہیہ قوم ہمن تہ عقل چھیا ہی۔

كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا
وَبَالَ أَمْرِهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۷۵﴾

تہند حال چھ ہمن (قومن) ہند کی پانہ ہم ہمن
برونٹھ حال حالہ زمانس منتر گڈرے ہتو چھہ۔
تمو وچھہ پنہن کرتوتن ہند انجام تہ ہمن دوت
کریوٹھ عذاب۔

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلنَّاسِ
اٰكْفُرُوْا فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اٰنِىْ
مِنْكَ اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۷۶﴾

تہ ہمن (منافقن) ہنتر حالت چھیا شیطانس سستی
رلان نیلہ زن سہ انسانس وان چھہ "کفر کر"
او نیلہ سہ کفر کران چھہ تہ ہنس چھہ وان ہر چھس
ترہ نش بری۔ ہر ہے چھس اللہ (تعالیٰ) اس
کھوتن یس سار کے عالم ہند پروردگار چھہ۔

كَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ
خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَا
الظَّالِمِينَ ﴿۱۵﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ
نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۶﴾

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ
فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ
الْفَاسِقُونَ ﴿۱۷﴾

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ
الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿۱۸﴾
لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ
لَّرَأَيْنَاهُ كَخَشَعًا مَّتَّصِدًا مِّنْ خَشْيَةِ
اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِنُصِّرُ بِهَا لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۱۹﴾

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمُ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ
الرَّحِيمُ ﴿۲۰﴾

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ
الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ
الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ
عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۲۱﴾

لہذا بہن دونوں ہی ہند انجام چھ یہ آسان نہ تم دونوں
چھ جہنم سبک تہ شتمن مگر شہن روزانہ
تہ بیٹھے چھ ظالم ہند بدلہ آسان۔

اے مومنو! اللہ (تعالیٰ) سہ تقویٰ پر آوو۔ سہ
پہر نہ پر تہ زو تھو اتھ کتھ پہنہ نظر نہ تم کیا
چھ پگہ بک خاطر بروٹھ سوزمت تہ تو ہوساری
پر آوو اللہ (تعالیٰ) سہ تقویٰ۔ اللہ (تعالیٰ)
چھ تہندو اعمالو بشہ زہر پیا ٹھ خبردار۔

تہ تمن لاکن ہند پٹھو پہ بیو کیو اللہ (تعالیٰ)
مشراوتھ ترھن۔ او اللہ (تعالیٰ) ہن تہ مشراو
نوو تمن سپنہن زون ہند قاید۔ پکے لوکھ چھ
فرمانبرداری ہنہ نمبر تہن اول۔


جہنمی تہ جنتی ہیکن تہ ہوئی اہتھ۔ جنتی لوکھ
چھ کامیاب آسان۔

اگر یہ قرآن اسی گنہ کو بس پیٹھ نازل کر ہوں
تہ تہ وچھ بک نہ سہ نمہ ہے (ادب سان) تہ اللہ
(تعالیٰ) ہند بیم سوسو گرتھ ہے چھلہ چھلہ تہ
ہم کتھ اسی تہ نون چھی، بیم چھیہ سارک
ہے انسان ہند خاطر ہتہ زن تم سرن سوچن۔
اللہ (تعالیٰ) ہے چھ نہیں ورا لی کا منہ معبود
چھنہ سہ چھ قایب تہ حاضر (دونوں) زمانا۔
سے چھ حد روس کرم کرن اول (تہ سے چھ)
چھہرک پھہرک رحم کرن اول۔

(حق چھ یہ نہ) اللہ (تعالیٰ) چھ سہ نہیں ورا لی
کا منہ معبود چھنہ، سہ چھ بادشاہ، سہ چھ (پانہ تہ)
پاک (تہ بین تہ چھ پاک کرن) پر تھ عابو
ہنہ چھ (پانہ) سلامت۔ (بہ چھ بین تہ سلامت
مقولان) سارک نے چھ امن دن اول تہ سارک نے
ہند چھ بمران۔ غالب چھ تہ سارک نے پھوٹ مسہ
تہن دن بہ چھ بمران۔ بڑ شاہ اول چھ۔ ہم

چیز ہم لوگ تندر شرکپ گنہگاروں بیچہ تمہو
 بشہ چھ اللہ (تعالے) پاک ۔
 (حق چھ میں نہ) اللہ (تعالے) چھ پر پتھ چیز
 پاؤ کرن وول۔ بیہ چھ پر پتھ چیز ایجاد کرن وول۔
 بیہ چھ پر پتھ چیز تمہ کر حالہ مطابق صورت دہن
 وول۔ تس چھ سبھ ہے رہتی صفات۔ آسمان
 تہ زمیں منتر یہ کیشہا چھ (تہ) چھ تسہن
 کرن بیہ چھ سہ غالب (تہ) حکمتہ وول۔

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ
 الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي
 السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ ۚ وَ هُوَ الْعَزِيزُ
 الْحَكِيمُ ﴿۶۰﴾



سُوْرَةُ الْمُتَحَنَّةِ اِيه سُوْرَه چھ مدنی تہ بسم اللہ پتھ چھ اتھ تہ وادہ آئیہ تہ بیہ چھس تہ رکوع۔

(بیہ چھس) اللہ (تعالے) سہ ناو پتھ (پران) یس
 صہ زوس کرم کرن وول (تہ) پھیر پھیر کرم کرن
 وول چھ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾

اے مومنین! میاں تہ پتھ دشمن مہ اسیلوگہ جانی
 دوست بناوان۔ توہی تہ چھوہ متن کن محبتکو پیغام
 سوزان حالکہ تم چھ تمہ پتھر کنکر یس تہ ہس
 کن امت چھ۔ تم چھ توہی تہ تہ رسولس تہ
 صرف امہ خاطر (گرو منتر) کڈان نہ توہی سارکوہ
 اولو اللہ (تعالے) ہس پتھ ایمان یس تمہند
 پروردگار چھ، اگر توہی میانہ وتہ منتر کوشش کرن
 پتھ تہ میاں رضامندی ترہانڈنہ خاطر تہرو، تہ
 تہہ منتر چھ کہینہ تہور تہور متن محبتکو پیغام
 سوزان تہہ تہ توہی کھتہ تھاوان چھو تہہ تہ توہی
 نون کڈان چھو تہ سورے چھس بہ زہر پانچ زمان
 تہ یس کاشہا تہہ منتر پتھ کام کر سہ زہن
 نہ سہ ڈول سینر وتہ نشہ۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا
 عَدُوِّيْٓ وَّ عَدُوْكُمْ اَوْلِيّٰٓءَ ثَلُفُوْنَ
 اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا
 جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ ۚ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ
 وَّ رِيّٰكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رِىْكُمْ ۗ
 لِاَنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِيْ سَبِيْلِ
 وَّ اِبْتِغَاءَ مَرْضٰٓئِيْ ۙ تُسَيِّدُوْنَ اِلَيْهِمْ
 بِالْمَوَدَّةِ ۙ وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَا اَخْفَيْتُمْ وَّمَا
 اَعْلَنْتُمْ ۗ وَّمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ
 سَوَاءَ السَّبِيْلِ ﴿۱﴾

یوہو سے تم توہی پتھ دس لین تہ توہی زانوہ تم

اِنْ يَتَّخَفُوْكُمْ يَكُوْنُوْا لَكُمْ اَعْدَآءٌ وَّ

يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ
بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ﴿١٠﴾

لَنْ تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا
أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصَلُ
بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١﴾

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي
إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا
لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُكُمْ وَمِمَّا
تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَ
بَدَأْنَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْكَوَاثِبَ وَالْبُخَصَاءِ
أَبَدًا حَتَّى تُوْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُ إِلَّا
قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبْنَيْهِ لَا سَتُغْفِرَنَّ لَكَ
وَمَا أَمِلْتُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ وَرَبَّنَا
عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْتَبْنَا وَإِلَيْكَ
الْمَصِيرُ ﴿١٢﴾

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا
وَاعْفُزْ لَنَا رَبَّنَا ۚ إِنَّكَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ﴿١٣﴾

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ
كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَآمَنَ
يَتَوَلَّى فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿١٤﴾

چہ تہندری دشمن تہ تہنتر تباہی خاطر چہ پیڑا تہ
تہ زبہ زہیراوان۔ تہ تہنتر بیترے چھینہ یہ
روزانہ تہ تہہ سپدو کا فر۔

توہہ نہ تہ تہہ کہ تہ تہندری تہہ تہہ تہہ تہہ تہہ
تہندری اولاد قیامتہ کہ وہہہ نفع وائتوا تہہ، تہہ
وہہہ کہ خدایا قاصدہ تہہ اللہ (تعالیٰ) چہ تہندری
اعمال تہہ پائے وچھان روزانہ۔

ابراہیم تہ تہندری سترے باجین منتر چہ تہندری خاطر
اکہ ست نمونہ موجود نیلہ زن، تہہ پنس نوس و نیا و
تہہ اسی چہ توہہہ تہہ اللہ (تعالیٰ) ہس ورا تہندری
معبودن پور پور بے زار۔ اسی چہ تہنتر کن
انکار کران۔ بیہ اسہ تہہ توہہہ منتر باگ چہ عدوت
تہہ یقین تہہ ولس تمام خاہر سیدمت یوتام (نہ)
تہہ خدایس پیٹہ ایمان اہو۔ چہ پور اسی چہ
ابراہیم سندسہ وعدہ لیس تہہ پنس تہہ سترے
کوزمت اوس (اوپر) تراوان۔ سہ اوس یہ نہ
یہ کہ چاہے خاطر استغفار ضرور۔ مگر اللہ (تعالیٰ)
ہس مقابہ آپس نہ یہ تہہ کہ تہہ مدد کرے
پیٹہ تہہ (بیہ وون ابراہیم یہ تہہ) اے سائہ
پروردگار! اسی چہ تہہ پیٹہ توکل کران بیہ
چہ تہہ کن نمان۔ بیہ چہ تہہ کن اسہ پھرتہ
عزتھن۔

اے سائہ پروردگار! اسہ سہ بنا وکارتن ہندہ
باپتہ فتنگ باعث تہہ سائہ خطا کر معاف۔
اے سائہ پروردگار! تہہ چھاکہ سہہ غالب (تہہ)
حکمتہ وول۔

تہہ لوکن منتر چہ تہندری خاطر اکہ سہہ رت
نمونہ یعنی تہہ پر تہہ شخصہ سہہ خاطر نیس اللہ
دتعالیٰ تہہ اترتہک وہہ وچھن وہہ سہہ تہہوان
چہ۔ تہہ لیس کاترہا تہہ پھرتہ تہہ تہہوان یاد

نر اللہ (تعالے) چھ بے نیاز (تہ) برین تعزین
ہند چھ حقدار۔

جلد ہے آسہ وقت نر اللہ (تعالے) کر توہمہ تہ
ہتمن لوکن در میان یم کافرو منتر تہندہ دشمن
چھ، محبت پاؤ۔ تہ اللہ (تعالے) چھ اتھ پیٹھ قار
بہ چھ اللہ (تعالے) بوڈ بخش مار (تہ) ام چھ
رؤس رحم کرن وول۔

اللہ (تعالے) چھو تہ توہمہ ہتمن لوکن سوتی نکلی کرنہ
تہ العساک سلوک کرنہ نشہ ٹھاک کران پچو توہمہ
سوتی دینی اختلاف کرنہ نہ کر لڑائی تہ نہ کر لڑی ہو
توہمہ تہندہ گرو منتر۔ اللہ (تعالے) چھ انصاف
کرن والین سوتی ماٹھنیار کران۔

اللہ (تعالے) چھو توہمہ صرف ہتمن لوکن (سوتی
دوتی کرنہ) نشہ ٹھاک کران پچو توہمہ سوتی دینی اختلافہ
کرنہ جنگ کوز بہ پچو توہمہ گرو منتر کوزی و۔
یا تہندہ کڈنس پیٹھ کوزہ تہندہ دشمن مددا
تہ یم لوکھ تہ بتیقہن لوکن سوتی یارانہ لاکن تم
پچھ ظالم۔

اے مومنو! نیلے توہمہ نش مومن زنانہ ہجرت
کر تہ بین تہ تم اسیلوکھ بری پانچو آزما وان۔
اللہ (تعالے) چھ تہندہ ایمان زبر پانچو زنانہ۔
وہ فر گوو اگر توہمہ تہ زانو نہ تم چھینہ (پزری
پانچو) مومن زنانہ نیلے بہ سوز لوکھ تم کافران
کرن والین (بکبار) نہ چھینہ تم ہتمن (کافران)
ہند خاطر جائز تہ نہ چھ تم کافر) ہتمن (زنانہ)
ہند خاطر جائز۔ بہ پز نہ یہ ہتمن (زنانہ)
ہند نکاح) پیٹھ کافرو خرچ کوزت آسہ
سہ کرو ہتمن والین۔ بہ نیلے توہمہ تہ زنانہ کافران
نش آزاد کرنا لوکھ تہ) تہندہ معاومہ (یعنی
مہر) ادا کرنہ کس طورس منتر اگر توہمہ ہتمن

عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ
الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدَّةً ۗ وَاللَّهُ
قَدِيرٌ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ①

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ
فِي الدِّيْنِ وَ لَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ
اَنْ تَبْرُوْهُمْ وَ تُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ ؕ اِنَّ
اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ①

اِنَّ مَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قَاتَلُوْكُمْ
فِي الدِّيْنِ وَ اَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَ
ظَاهَرُوْا عَلٰى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلّوْهُمْ ؕ وَ
مَنْ يَتَوَلّٰهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ①

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا جَاءَكُمْ
الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَاَمْتَحِنُوْهُنَّ ۗ
اللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ ؕ فَاِنْ
عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ
اِلَى الْكُفّٰرِ ؕ لَآ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَ لَآ هُمْ
يَحِلُّوْنَ لِهِنَّ ؕ وَ اَتُوْهُنَّ مَّا اَنْفَقُوْا وَ لَآ
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَا
اَتَيْتُمُوْهُنَّ اَجُوْرَهُنَّ ؕ وَ لَآ تُمْسِكُوْا
بِعَصْمِ الْكُوفِرِ وَ سَلُّوْا مَّا اَنْفَقْتُمْ
وَ لِيَسْئَلُوْا مَّا اَنْفَقُوْا ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ
يُحْكَمُ بَيْنَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ①

سیتی خاند ر کُرو تہ توبہ پیٹھ چھنو کنیو اعراض۔
 بیہ کافر زنان ہند ننگ و ناموس نہ تھا دو پتھن
 اتھن منز تہ یہ کینترھا توبہ تم پیٹھ خرچ کوزمت
 چھو (اگر تمہ کافر کن شریعتہ عمرتھن تہ کافر
 کُرو تمیک مطالبہ۔ بیہ اگر کافر ہنر آرتھہ
 مسلمان سپتھ مسلمان سیتی بیتھ دن تہ) یہ
 تہو (پتھن نکاحن پیٹھ) خرچ کوزمت آسہ
 تمیک مطالبہ ہیکن تم مسلمان کُرتھ۔ یہ چھو
 توبہ اللہ (تعالے) سُن حکم۔ سہ چھ توبہ درمیان
 قاصدہ کران تہ اللہ (تعالے) چھہ زان وول (تہ)

حکمتہ وول۔
 بیہ اگر تہنرو آشتھو منز کا نہہ شریعتہ کافر نش
 کُرتھ تہ تہ پتھ پیہ تہندس اتھس منز تہ کا نہہ
 کافر زنان (جلی تیدر بونہ) تہ بین لوکن ہنر
 آشتہ شریعتہ کافر سیتی رلے مشر چھینہ توہم
 کُرو تم کن اصل خرچس برابر ادا یہ تہو پتھن
 نکاحن پیٹھ کوزمت اوس۔ بیہ پراوو اللہ (تعالے)
 سُن تقویٰ سیمس پیٹھ توبہ اپان اوزمت چھو۔
 اے نبی! سبیلہ شریعہ نش زنانہ مسلمان بونہ
 ین تہ بیعت کرُج خا ہش کرن، اتھ شرطس
 پیٹھ نہ تم گنر را و ن نہ کانسہ اللہ (تعالے) سُن
 شرک تہ نہ کرن ترورہے، تہ نے کرن زناہ
 تہ نے کرن اولاد تہل تہ نے لگن کانسہ پیٹھ
 اپر توبہمت۔ بیہ کرن نہ نیک کتھن منز
 چا نافرمانی تہ تہ آس تہنر بیعت رمان۔
 بیہ آس تہنر با پتھ مغفرت منگان۔ اللہ
 (تعالے) چھہ سبھا بخش ہار (تہ) اُنچہ روس
 رحم کرن وول۔


اے مومنو! کانسہ اتھس تومس سیتی یار نہ مہ لاؤو
 یس پیٹھ خدا (تعالے) ناراض آسہ۔ تم لوکھ چھ

وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى
 الْكُفَّارِ فَعَاقِبْتُمْ فَاتُوا الَّذِينَ
 ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَا أَنْفَقُوا
 وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿۷۰﴾

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ
 يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ
 شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا
 يَقْتُلْنَ أَوْ لَا ذَهَبَ وَلَا يَأْتِينَ
 بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ
 وَأَجْزُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَخْرُوفٍ
 فَبَايِعْنَهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ ۚ إِنَّ
 اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۷۰﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا
 غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَكْفُرُوا

الأخيرة كما يبئس الكفار من أصحاب القبور ﴿١﴾
 آخرت چہ زندگی نشہ تھو ناو مید گامو بیتھ
 پاٹھو کافر قبرن منز پیتھن لکن نش ناو مید
 گامو بیتھ۔



سورة صف ۱۰۰ سورہ چھ مدنی تہ بسم اللہ ہتھ چھ اتھ پندرہ آہ بیہ چھس تہ رکوع۔

<p>﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ بيس حد رواس كرم كرن وول (تہ) پھیر پھیر رحم كرن وول چھ۔</p>	<p>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١﴾</p>
<p>آسمان تہ زمينہ منز یہ کينشرا چھ تہ چھ اللہ (تعالیٰ) ہنر تہیح کران تہ سہ چھ غالب (تہ) حکمت وول۔</p>	<p>يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٢﴾</p>
<p>اے مومنو! توہی کیا زچھو تہم کتھ وناں ایم توہی کران چھو تہ۔</p>	<p>كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٣﴾</p>
<p>خدا (تعالیٰ) ہس نزدیک چھ سلٹھا ناپسند، تہ کتھ ہند دعویٰ کران یہ توہی کران چھو تہ۔</p>	<p>اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهِ صَفًا كَاَنَّهُمْ بُنِيَّانٌ مَّرْصُومٌ ﴿٤﴾</p>
<p>اللہ (تعالیٰ) چھ بہن لکن پسند کران ہم تہ و تہ صفہ گندھ جنگ کران چھ بیٹے کہ زن تہ چھ تہم اکھ دوس سیمیر کہ دردی ہر خاطر تہ پیٹھ ہنگ آسہ گالٹھ تراونہ آمت۔</p>	<p>وَ اِذْ قَالَ مُوسٰى لِقَوْمِهِ لِقَوْمِهِ تُؤَدُّوْنَ لِيَّ وَ لَقَدْ تَعْلَمُوْنَ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوْا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ ۗ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٥﴾</p>
<p>بیس (یاد کرو) بیٹے موسیٰ ہن پینش تومس و نیاو، اے میانہ قومہ! توہی کیا زچھو میہ اذا و اتاوان حالانکہ توہی چھو زمان تہ ہر چھس تہ بہ کمن اللہ (تعالیٰ) ہند طرفہ رسول بیٹھ آمت۔ اماہ یوز (بیٹے امر باوجود تہم لکھ سینز و تہ نشہ ڈلی تہ اللہ (تعالیٰ) ہن کڑی تہندہ ول ہلی۔ اہ اللہ (تعالیٰ) چھو فرمانبردار میہ نیرن والین کامیابی</p>	

ہنز و تھ دوان۔

بیر (کرو یاد) سید عیسیٰ ابن مریم پنشن تومس
ونیاو، تر اے بنی اسرائیل! ہر تھس اللہ
(تعالے) ہند طرفہ توہر کن رسول ہنہ آمت۔
یہ (کلام) میانہ ہنزہ بروٹھہ تا نزل سیدمت چھ
ہنے تولت، تہر چہرہ پیشگو پیہ تھس ہر پور کلان
ہیہ ہچسو اُکس رسولہ ہنزہ تر خیر دوان، ایس
مینہ پتہر پیہ، نیمر سندناوا امد آسہ۔ پتہ
ہیلہ سہ رسول دلائل ہتھ آو تہ تھو وون یہ تہ
چھ ٹاکار فریب۔

ہیہ تہند کھوتہ بوڈ ظالم کس ہیکہ اہتھ، ایس
اللہ (تعالے) ہس پیٹہ اُپز لگتھ تھو سالانہ
تس چھ اسلاس کن ناد دنہ یوان تہ اللہ (تعالے)
چھنہ ظلمن تر ہنہ ہدایت دوان۔

تم چھ ہنہ تھان تر ہستھو اُسو (ہندو پیہ کو)
سیتو تر چھو راو ہن اللہ (تعالے) سند نور، تہ
اللہ (تعالے) تراو پنشن نورس پور کر تھ
ادو کافر لاکھ) کوتاہہ تر ناپسند کر کر تن۔

سہ چھ خدایا نیمر ہنہ رسول ہدایت ہتھ تہ
پوز دین تھ سوزمت چھ۔ ہتھ زن تھ سارک
ہنے دین پیٹہ قابل کر ادو مشرک کوتاہہ تر
ناپسند کر کر تن۔

اے مومنو! کیا ہر دمووا توہر کہہ تہ تہ تجارت
خبریس توہر وگر در ہذابہ ہنہ رچھو؟

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ
إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ
يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَ مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ
يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، فَلَمَّا
جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ
مُبِينٌ ①

وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ
الْكُذِبَ وَ هُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَ اللَّهُ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ②

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ
وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ كَرِهَ
الْكُفْرُونَ ③

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَ دِينِ
الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ
المُشْرِكُونَ ④

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى
تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ⑤

اے تھ ایس منتر چھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سہنہ
پیشگوئی ہندو کر پیہ انجیل برنباس منتر درج چھ۔ ہاتے انجیل منتر تہ چھ فارقلیط
ہند مبعوث سید ریح خبر نیمیک معنی تہ چھ احمد ہر بنان۔ اے ایس منتر چھ رسول
کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق بلا واسطہ تہ تہندس بروزس متعلق بلا واسطہ خبر دینہ آہتر
سورۃ جمعہ ہس منتر تہ چھ اُکس بروزس متعلق ٹاکار خبر دینہ آہتر۔ (منہ)

تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ
فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ
ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۶﴾

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسْكِنٍ
طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ ﴿۱۷﴾

وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرَ مَنْ وَالَّهِ وَفَتْحَ
قُرَيْبٍ وَأَبَشْرٍ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۸﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللهِ
كََمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِحَوَارِيهِ
مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ
تَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ فَأَمْنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ
بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا
الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَاصْبَحُوا
ظَاهِرِينَ ﴿۱۹﴾

(سہ تجارت چھ یہ نہ) تو ہی ابو اللہ (تعالیٰ) تو
تیس دنوں پہلے ایمان - بیہ کربو اللہ (تعالیٰ) ہنر
وہ پینچو مالو تہ پینچو ہانو سستی جہاد - اگر تو ہی
نرا ابو تیلہ چھ یہ تہندہ ٹا طر سہ ہارٹ -

سہ کر (تہندہ بیٹھ کئی کرش پیٹھ) تہندہ گوناہ
معاف بیہ کر و تو بہ بہن جنتن منز و اہل بین
منز کو لہ پکان آس - بیہ (تھو و تو بہ) ہمیشہ
روزن والین جنتن ہندین پاک مکان منز - یہ
چھینہ بڑ کامیابی (یوہ سہ سہ تو بہ دیو) -

تہہ ہلاو چھہ بیاکہ اکھ چیز تہ یہ تو ہی جاو بیہ چہلان
چھو، سہ چھہ اللہ (تعالیٰ) سہ تہا پید، بیہ اکھ
جلدی بیٹن و اجزی فتح - بیہ و مومن حق شجر
(نہ بہن میلہ اکھ بیاکہ و لو لہ بیٹن و اجزی فتح تہ)

اے مومنو! تو ہی ابو اللہ (تعالیٰ) ہندو (یعنی
تہندہ دیکھو) مددگار - بیٹھ کئی میلہ عیسیٰ ابن مریم
(پینچن) حوارین و نیاو تہ اللہ (تعالیٰ) ہنرن
کاسٹین منز کس پچھو میون مددگار؟ تہ تمو
و فوس نہا سہ اللہ (تعالیٰ) ہندو (یعنی تہندہ
دیکھو) مددگار - اوہی اسرائیلین ہندو اکر ڈر
اون ایمان سہ مگر اکر ڈر کور انکار - بیٹھ پلٹہ اسہ
مومن تہندین دشمن خلاف مدد کور تہ مومن
پدے یہ غالب -

لہ یعنی اللہ (تعالیٰ) اس قریب نہتہ و اجنہن کامین منز -
لہ کثیر منز روزن و الوہی ابنی اسرائیلو منز اون اکثر لوگو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایمان -

سُورَةُ الْجُمُعَةِ مَدَنِيَّةٌ رَوَى مَعَ الْبِسْمَلَةِ اِسْتَشَاعَتْهَا آيَةٌ وَرُكُوعَانِ

سورة جمعہ: یہ سورہ چھ مدنی ہے بسم اللہ پہلے چھ آیتہ باہ آیتہ میں چھس نے رکوع۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①

(یہ چھس) اللہ (تعالیٰ) سنا ناو پہلے (پران) یس حد روس کرم کرن اول (تہ) پھیرک پھیرک رحم کرن اول چھ۔

یَسْتَبِیحُ لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ الْمَلِکِ الْقُدُّوسِ الْحَزِیْزِ الْحَکِیْمِ ②

آسمان تہ زمیہہ منز یہ کیتھہ تہا تہ چھ، تہ چھ اللہ (تعالیٰ) ہنر تسبیح کران تس (اللہ تعالیٰ) ہنر یس بادشاہ تہ چھ تہ پاک (تہ چھ تہ ساری رنر ہتھ) چھ بیہ چھ غالب (تہ) حکمتہ اول۔ سنے خدا چھ نیمر اُکس ان پڑھ تومس کن تہ منز اکھ شتھس رسول بناوتھ سوز۔ یس ہنر خدا پھ ہندر حکم بوزناوان چھ بیہ چھ ہنر پک کران بیہ چھ ہنر کتاب تہ حکمت ہچھاوان۔ حالاکہ ہم اسی امر بروٹھ ہٹس مشرفس منز۔

هُوَ الَّذِیْ بَعَثَ فِی الْاَوَّلِیْنَ رَسُوْلًا مِنْهُمْ یَتْلُوْا عَلَیْهِمْ آیٰتِہٖ وَ یُزَكِّیْهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتٰبَ وَ الْحِکْمَةَ وَ اِنْ کَانَ مِنْ قَبْلِ لَیْفِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ③

بیہ ہنر ورائی (سوز سہ تس) بیس اُکس تومس منز تہ یس و نیک تام ہنر ہنر ریو نہ بیہ سہ چھ غالب (تہ) حکمتہ اول۔ بیہ چھ اللہ (تعالیٰ) سنا فضل، بیس ہنر چھ تس چھ ووان۔ بیہ اللہ (تعالیٰ) چھ ہٹر فضلہ اول۔

وَ الْاٰخِرِیْنَ مِنْهُمْ لَمَّا یَلْحَقُوْا بِہُمْ وَ هُوَ الْحَزِیْزُ الْحَکِیْمُ ④

ذٰلِکَ فَضْلُ اللّٰهِ یُؤْتِیْہِ مَنْ یَّشَآءُ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیْمِ ⑤

بیم لاکن پیٹھ تواریخ اطاعت واجب کرنہ کرنا ہنر

مَثَلُ الَّذِیْنَ حُمِلُوْا التَّوٰدَةَ ثُمَّ لَمَّ

لہ اتھ ایس منز چھ تھ حد نیس کن اشارتہ منز یہ آمت چھ نہ صحابہ کرامو کوز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نس دریانت "آخرین" کم چھ؛ تہ حضور متھو سلمان فارسی ہنر سچھ پیس پیٹھ دست مبارک تہ فرمودہ لوکان الایمان معلقا بالشریا لئلاہ رجلٌ اذرجالٌ من فارسیس (بخاری) یعنی اگر کتبہ تہ وقتہ ایمان شریا تارکس پیٹھ تہ کھسہ تہ فارسیس کو لوکو منز اکھ زون یا کیتھہ نزو این تھ و پس اتھ منز چھ ہنرک ہلا سلاس متعلق خبر تہ آخرین چھ تہنر جماعت۔ (سنا)

يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْجَمَارِ يُحْمَلُ أَشْقَارًا
يُبْشَسُ مِثْلُ الْقَوْرِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ
اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ①

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ دَعَمْتُمْ
أَنْكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّذِينَ مِنْ دُونِ النَّاسِ
فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ①

وَلَا يَتَمَنَّوْنَہٗ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ
أَيْدِيَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ①

قُلْ إِنْ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ
فَأِنَّهُ مُلْقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ①

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ
فَمَنْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ
اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ①

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي
الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَإِذْ كُرُوا لِلَّهِ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ

چھینے مگر تمہ باوجود کرو نہ تموتھے پیٹھ عمل
تہنہز شمال چھینے خبر سوز ہش میخو واریہ کتایہ
بار تجھڑ آسن (مگر زمان چھینے کہنی) اللہ (تعالے)
سند بن محسن ہند انکار کرن والہ تو بیچ حالت
چھینے سبھا بیچہ آسان بیہ اللہ (تعالے) چھینے
ظالم تو س نہ سبھیہ کامیابی ہند بیچہ ماوان۔

تر وکھہ ، اسے یہودیو! اگر تہند بیہ دعویٰ چھ
ز باقی دنیا تر اوتھ صرف تو ہی چھو اللہ (تعالے)
سند دوست بیہ چھو تہندس پتہ ہس منز تیلہ
ہر گاہ تو ہی (اتھ دعواس منز) پز یار کی چھو، تو
پر د موتک تناکر تو (یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ
وسلمس سبھی کرو، مباحلہ)

مگر تم مردھن نہ تر فیہ پتہ پتہ میو اعمالو کنی مباحلہ
خاطر تیلہ تو اللہ (تعالے) چھ ظالمن ہش زبر
پاٹھو خبر دار۔

تر وکھہ سہ موت نیبہ ہشہ تو ہی تر لان چھو یقینا
سہ زو و تو ہی اگر دو ہیہ۔ پتہ بیو تو ہی کھیلہ تر لون
زائن و اہس خدایس کن چھیر تھ ہنہ تر سہ دیو
تو ہی تہند بن اعمالن ہنہ خبر۔

اسے نومو! نیلہ تو ہی جمعہ دو ہیہ نماز با پتہ ناد
دیو بیو (یعنی جمعہ نماز با پتہ) تو اللہ (تعالے)
سند ذکر با پتہ آسو و لو و لو گھر حان تو (ہیون)
کہن آسو تراوان۔ اگر تو ہی کیپتہ تر علم تھاوان چھو
تر یہ چھینے تہند خاطر رز کہتہ۔

اد نیلہ نماز مو کلہ تر زمینہ منز آسو تیلان
تو اللہ (تعالے) سند فضل آسو تر حاندان، بیہ
آسیون اللہ (تعالے) سبھا یاد کران بیچہ زن


لہ یعنی خدا تعالیٰ اس بروٹھ کنہ کرو و غار اسہ منزیس اپز یور چھ تس دین اللہ تعالیٰ پز یار
سبز زندگی منز موت۔

تَفْرِحُونَ ①

تو ہی کامیاب سپرو۔

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا لِانْقَضُوا
إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ
خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ
خَيْرُ الرَّازِقِينَ ②

بہے نیلے ہم لوگ تجارت تہ تما شیخ کہتہ و چھان
چہ تہ تریہ نش ترہینہ ترشتہ چہ تہ تہ کن گزرا
تہ تریہ چھی کتہ زون تراوان - تہ ون تہن یہ کیشا
اللہ (تعالے) ہس نش چہ سہ چہ تما شہ چہ
کہتہ بلکہ تجارتہ کھوتہ تہ رت بہ اللہ (تعالے)
چہ جاو رت رزق دہنہ وول۔



سورة منافقون ایہ سورہ چہ مدنی تہ بسم اللہ ہتہ چہ آتہ ہا آہ تہ بہ چھس تہ رکوع۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

(ہر چھس) اللہ (تعالے) سہ ناو ہتہ (پران)
یس ہر روس کرم کرن وول (تہ) پھیری پھیری
رہم کرن وول چہ۔

إِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ
إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ
الْمُنْفِقِينَ لَكَاذِبُونَ ②

نیلے تریہ نش منافق یوان چہ تہ تم چھی وان
اُسی چہ قسم ہاوتہ شہادت دوان تر تہ چھکھ
اللہ (تعالے) سہ رسول - تہ اللہ (تعالے) چہ
زانان تر تہ چھکھ سہ رسول - گمر (ستی)
اللہ (تعالے) چہ قسم ہاوتہ گواہی دوان تر منافق

لَا تَخْذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ③

چہ اپز یارک -
تمو چہ پینو قسم (چانہ پرزہ کار بنشہ بچنہ
خاطر) سپر بناوی متز تہ تم چہ لوکن اللہ
(تعالے) سہر و تہ بنشہ ہتہ رمان - تم یہ کیشا
کران چہ سہنا نا کار چہ کران -

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ
عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ④

یہ سہم چہ تم او موکو کران تر گوڈ اون تمو
ایمان پتہ کوڈ تمو انکار - نیلے گز تہند بن دن
پینہ مہر کرنہ آہ او وول چہنہ تہن نگر
تران -

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ

نیلے تہ تم و چھان چہ تہ تہندی اری تہ

يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشْبٌ
مُسْنَدَةٌ ۖ يَخْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ
عَلَيْهِمْ هُمْ الْعَادُونَ فَاحْذَرُهُمْ فَاتَلَاهُمُ
اللَّهُ زَاتَىٰ يُؤفِّكُونَ ①

دُورِ جسم بھی تری ز بر مار کھسان تو اگر تم
کانہہ کہتے کران چہ تو (تہہ ربہ انداز سان ز)
تو چیکہ تہنہز کہتہ (تہندہ حالات ز اہتہ تہ)
بوزان۔ (تم چہ مجلسہ مشر تہتہ یا تہو بہتہ آسان)
زن چہ تم بڑی بڑی زری مؤندی ہم (لہبہ
سہتر) دکھراوتہ تھونہ آہتر آسن۔ نیلہ کہتہ
عذابہ خبر (قرآنس منز) نازل سپدہ تم چہ
خیل کران ز پہ چینی سانی حقہ۔ تم چہ پوختہ
دشمن لہذا تر روز دشمن نش باخبر۔ اللہ (تعالے)
کران دشمن ہلاک۔ تم کیاری چہ پھر تاوتہ (پز
وتہ نشتر) دور ہنہ یوان۔

وَإِذْ أٰقْبَلْ لَهُمْ تَعَالٰوْا يَسْتَعْجِلْكُمْ
رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوَا رِءُوْسَهُمْ وَرَاٰيَتَهُمْ
يَصُدُّوْنَ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ①

بہ نیلہ دشمن ونہ یوان چہ ز و لو! اللہ (تعالے)
سند رسول منگہ تہندہ خاطر مغفرت تو تم چہ پیڑ
کہ (تکبر تو انکار سان) پھران۔ بہ چہکہ تر
تم وچھان تر تم چہ پز وتہ ہنہ لوکن پھران۔ تم
چہ کبر چہ بہار منز ولہنہ آہتر۔

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَعْجَرَْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ
تَسْتَعْجِرْ لَهُمْ اَلَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ اِنَّ
اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ①

تو تہندہ خاطر مغفرت منگہ یا متہ منگہ، تہندہ حقہ
چہ سارے کہتہ ہشی۔ تہ کیا ز اللہ (تعالے)
کر نہ تہنہ دشمن معاف (یوسانی تو تم پانہ توبہ
کران) اللہ (تعالے) چہنہ فرماہر داری تہہ نیرن
و ا س قومس کامیابی ہند ہتہ ماوان۔

هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰی مَنْ
عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُوْا وَاِلٰهٍ
خَزَاٰئِنُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَاَلِكِنَّ
الْمُنْفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ ①

یہ لوکہ چہ ہم دنان چہ ز اللہ (تعالے) ہنہ
رسولس نش ہم لوکہ روزان چہ دشمن پیٹہ ہم
کرو خرچہ یوتام تر تم (فاقوسہ تنگ ہتہ)
ترن۔ حالانکہ آسان ہندہ تو زمینکو خزانہ چہ
اللہ (تعالے) ہس نش۔ امامہ پوز منانفن چہنہ
بکبر تران۔

يَقُوْلُوْنَ لَنْ نُّرٰجِعَنَآ اِلٰى الْمَدِيْنَةِ
لِيُخْرِجَنَّ اِلَا عَزْمُهَا الْاَدْلُ وَاِلٰهٍ الْعِزَّةُ

تم چہ دنان ز اگر ا س مدینس کن چہ تہ گے تو
یس مدینگ سارو سہ کھوتہ معزز انسان چہ سہ

وَلِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ لِكِنَّ
 الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ①

کڑھتے مدینہ کس ساری وہے کھوتے ذہیل
 الناس - تہ عزت چھہ اللہ (تعالے) ہس تہ
 تہندس رسولس تہ مؤمننے حاصل - مگر منافق
 چھہ زماناں -

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ
 وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ مَنْ يَفْعَلْ
 ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ②


اے مؤمنو! اپنے تمہندی مال تہ تمہندی اولاد اللہ
 (تعالے) بندہ ذکر اللہ تہہ غافل کرلو تہہ ایم لاکھ
 تہ کرن تھے آسن گناہ بن والی -

وَ أَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ
 يَأْتِيَكُمْ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا
 أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۖ فَأَصَدَّقَ
 وَ أَكُن مِنَ الصَّٰلِحِينَ ③

بیہ (اے مؤمنو!) یہ کیشہا اسہ تہہ موت چھہ
 تہ اندہ کرو مرنہ بروٹھ خرچہ عتہ زن ترہہ کتھ
 سپر نہ زہ (بیلیہ موت ہسہ تہ خرچہ نہ کرن والس)
 پیسہ وٹن ترہہ میا نہ پرووگھ! ثریہ کیا زہرہ
 نہ میں کم جاہ موہت عتہ زن بہ تھہ مفر کیشہ صد تہہ
 کرہا تہ نیک بنہا -

وَ لَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا
 وَ اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ④

مگر بیلیہ کہہ تروس موت یوان چھہ تہ اللہ (تعالے)
 چھہ تہس موہت وٹن - بیہ چھہ اللہ (تعالے) تہندہ
 اعمالہ تہہ خبردار -



سورة تغابن: یہ سورہ چھہ مدنی تہ بسم اللہ ہتھ چھہ اتھ کتھہ آیت بیہ چھس تہ رکوع۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

(بہ چھس) اللہ (تعالے) سندا ناو ہتھہ (پران)
 بیس حد رؤس کرم کرن وول (تہ) چھہرہ چھہرہ
 رحم کرن وول چھہ -

۱۔ مدینہ کین منافق ہندہ سردار عبداللہ بن ابی ابن سلولن و نیایہ یہ کتھہ غزوة
 مصطلق ہ کس موقعس پیٹھ مگر بیلیہ امیک فلم تہندس نیچوس سپد تہہ سہ رتھ
 مدینہ کس دروازس پیٹھ تلوار ہسیر کتھہ تہ نامس وٹن نہ ریوت تام تہہ یہ اقرار کر کتھہ
 نہ بہ چھس سار وہے کھوتہ ذہیل توت تام دے نہ بہ ثریہ اندر مرھتہ - یہ صورت حال
 وچھتھ عبداللہ کھوتہ تہ سار کہنے لکن بروٹھ کہہ کورن پستہ ذہیل آسنگ اقرار - (سن)
 (السیرة الحلیمیہ)

يَسْتَسْمِعُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ
لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝۱

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ
مُؤْمِنٌ ؕ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ۝۲

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۗ
صَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوْرَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ
الْمُصِيْرُ ۝۳

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا
تُسَوْرُونَ وَمَا تُخْلِيُوْنَ ؕ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ
بِذٰتِ الصُّدُوْرِ ۝۴

اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوْا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ
قَبْلُ زَقٰةً اَوْثٰوًا وَّ بَالَ اَمْرِهِمْ وَّ لَهُمْ
عَذٰبٌ اَلِيْمٌ ۝۵

ذٰلِكَ بِاَنَّهُ كَانَتْ تَاْتِيْنَهُمْ رُسُلُهُمْ
بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالُوْا اَبَشْرٌ يَّهْدُوْنَنا ۗ
فَكَفَرُوْا وَّ تَوَلَّوْا وَّ اسْتَعْصَمُوْا وَّ اَللَّهُ
عَلِيْمٌ حَمِيْدٌ ۝۶

رَعِمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا قُلُ
بِلٰى وَّرَبِّيْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَّبَّوْنَ بِمَا
عَمِلْتُمْ ؕ وَذٰلِكَ عَلٰى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝۷

آسمان تہ زمینہ منزیہ کی کثیرھا چھ ا تہ یھ اللہ تعالیٰ
ہنر تہیح کران۔ بادشاہت تہ چھ تہنہ تہ تہ تعریف
تہ چھ تہندی تہ سہ چھ پر تہہ چہس پیٹھ تہادر۔

سے چھ بیٹی توہی پاد کرک ہوتی چھو، اڈ تہہ ہنر
چھ کاٹھ کافر بنان تہ کاٹھ چھ مؤمن بان تہ
اللہ تعالیٰ چھ تہندی اعمال وچھان۔

آسمان تہ زمین چھ کرک اکھ خاص مقصد نظر تہل
تھاوتھ پاد کرک ہوتی۔ تہ تہی چھ تہنہ صوٹر
بنادہ ہنر۔ بیہ چھ تہنہ سہل سہل ہنر ہنر ہنر ہنر
ہنر۔ تہ تہی کھ چھو تہہ ہنر تہہ ہنر۔

آسمان تہ زمینہ منزیہ کی کثیرھا چھ سہ چھ تہ
زانان۔ بیہ چھ سہ عمل تہ زانان یوہہ تہہ
کھٹھ تھاوان چھو یا تہی کڈان چھو۔ بیہ چھ
اللہ تعالیٰ دلہ چھ کھ تہ زانان۔

کیا تہہ واژو تہہ بروٹھوین کافران ہنر خہہ
تہوٹھ پتہنن اعمالن ہنر سزا تہ تہنہ خہ
چھ دہ وار عذاب (مقصد)۔

یہ سپد اوکھ تہ تہن ہنر رودہ تہندی رسول
دلہن ہنر یوان ہنر تہ رودہ یوہے جواب
دوان تہ کیا انسانہ شکلہ منزیہہ واکھ لوکھ
ذناہ اسہ ہدایت؟ (اگر ہدایت دین آسہ ہے
تیلہ وسہ ہنر ٹیک آسمانہ پیٹھ) اڈ تہو کور
کھ تہ تہہ چھہ کھ۔ تہ اللہ تعالیٰ ہن
تہ ہا و تہنہس اپناس سہ تہ بے پرواہی تہ
اللہ تعالیٰ چھہ پر تہہ کس ہنہ بے نیاز تہ
ہنر تہن ہنر ہنر ہنر۔

کافر چھ خیال کران تہ تہہ ہنر تہہ تہ (زنہہ
کھ تہہ تہہ تہہ تہہ تہہ کھ کھ خیال کران
چھو۔ تہہ کھ سپد تہہ بلکہ چھہ میہ پتہس پرواہہ

ہنتر دور سے تو ہی بیجو ضرور زندہ کریتھہ مندو چتہ
بیجو تو ہی چنتو اعمالو بشہ آگاہ کرتہ تہ یہ کتھ چتہ
اللہ (تعالے) ہند غا طہ سہل۔

لہذا اے لوگو! اللہ (تعالے) تہ تہندس رسولس
پیٹہ اہو ایمان بیہ تھہ نورس (یعنی قرآن کریم)
پیٹہ تہ یس اسہ نازل کوزمت چتہ تہ اللہ (تعالے)
چتہ تہندو اعمالو بشہ خبردار۔

تیمہ دوہہ سہ توہہ سارک تہ سہ سیراوتہ کردوہہ
اباچہ زندہ کریتھہ (سہ سیراوتہ)۔ یہ آسہ زمین
تہ مار تہ کر تھہ سگ دوہہ تہ یس کا تھہ
اللہ (تعالے) ہس پیٹہ ایمان اتان چتہ تہ تہ
مطابق چتہ عمل تہ کران اللہ (تعالے) تہ چتہ تہن
بدین پرد کران تہ تس چتہ تھہن جتن منتر
جائے ودان بین منتر کولہ پکان چتہ۔ تم گرضن
تہن منتر ہمیشہ روزان۔ یہ چتہ سہ سہا بد کامیابی۔
بیہ پوکھ کور تہ سانی آہہ اپراوکہ تم چتہ
جہنمی (تہ) تم گرضن جہنم منتر روزان تہ سہ
چتہ سہ سہا کچھ رکھکانہ۔

کانہہ مصیبت چھہ یوان نگر اللہ (تعالے) ہند
محکمہ تہ یس اللہ (تعالے) ہس پیٹہ ایمان اتان
چتہ، سہ چتہ تہند دل کامیابی ہند بن طریق
کن پھران۔ تہ اللہ (تعالے) چتہ پر تھہ چہن
زانان۔

بیہ کرو اللہ (تعالے) تہ تہندس رسولہ سزاعامت
ووہی گوزہ رکاہہ پھرتھہ گڑھو تہ سائس رسولس
پیٹہ چتہ صرف دانش سگ تھہ کتھہ واتناونی اوت
فرمیں۔

اللہ (تعالے) ہس وراہی چھہ کانہہ معلوہ تہ مونہن

قَامُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي
أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ①

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ
التَّغَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَيَعْمَلْ
صَالِحًا يُكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ②

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا
وَيُسَّ الْمَصِيرُ ③

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ
وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ اللهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ
يُكَلِّمُ شَيْءٍ عَلَىٰ عِلْمِهِ ④

وَاطِيعُوا اللهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ بَرِّئَانِ
تَوَلَّيْتُمْ فَأَمَّا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلْغُ
الْمُبِينُ ⑤

اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَىٰ اللهُ فَلْيَتَوَكَّلِ

سُورَةُ الطَّلَاقِ مَدَنِيَّةٌ وَرَوَى مَعَ الْبِسْمِ كَلِمَةٌ عَشْرَةٌ آيَةٌ وَرُكُوعَانِ

سورۃ طلاق : یہ سورہ چھ مدنی تو بسم اللہ بہتہ چھ اتھ ترواہ آیہ بیہ چھس نہ رکوع۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①

(پر چھس) اللہ (تعالیٰ) سُنَد ناو اہتہ (پر ان) یس
 حہ رؤس کرم کرن دول (تہ) پھیر کی پھیر کی رحم
 کرن دول چھ۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
 فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ
 مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
 بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
 وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
 نَفْسَهُ لَا تَذَرِي لَاحِلَ اللَّهِ يُخَدِّثُ
 بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ①

اے نبی! (بیہ تو سُنَد ناو مانن والو) بیلیہ تو ہر
 آتھنن طلاق دیو تہ بہن دیو عُنَد تھ وقتہ مطابق
 طلاق۔ بیہ تھادو (طلاق پتہ) وقتک حساب
 تہ پسنس پروردگار خدایہ سُنَد تقویٰ پر اہو۔ تہ
 مہ کر لیک تہ بندو گرو منز تہ نہ مہ نین تم پانہ
 امر واری نہ ہم سیدن اکہ تہ دانہ گو نہ ہجہ خطا کار
 تہ ہم چھ اللہ (تعالیٰ) ہند کی حد۔ تہ یس کا شہا
 اللہ (تعالیٰ) ہندو حدو اپور تر سہ چھ پسنس
 رؤس پیٹھ ظلم کرن۔ (اے طلاق نہ واللہ! تریز
 چھ نہ پے تر شاہد اللہ (تعالیٰ) ماہ کڈ امرہ
 واقعہ پتہ بیہ کینہ تہ نون۔

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ
 بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
 وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا
 الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُؤَظِّمُ بِهِ مَنْ كَانَ
 يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ هُوَ
 الَّذِي يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا ①

اگر بیلیہ زنا نہ حد تہ کس آخری حدس واتن تہ تم
 یا تہ رُفیکھ پانس ہنن مناسب طریقہ سان یا
 تراویکھ تم جان پانٹو تہ پسنسو منز کر لیکھ افسان
 کرن واری نہ گواہ مقرر تہ خدایہ ہند خ م طہ
 دیو پز شہادت۔ تہ ہہ منز یس کا شہا
 اللہ (تعالیٰ) تہ آخر تہ کس وہ ہس پیٹھ ایمان
 انان چھ تس چھ یوان یہ نفیحت کرن تہ یس
 شخص اللہ (تعالیٰ) سُنَد تقویٰ پر او اللہ (تعالیٰ)
 کڈ تہند خاطر کا نہہ تہ کا نہہ و تھ۔

۱ یعنی ترکہ ہوت گڑھ نہ طلاق دین بلکہ یقین "طہر" کین وہ ہن منز گڑھ طلاق دین
 یمن منز مرد آشنہ ہنن حکومت آسہ تہ۔ (سند)

وَبَزُرُوهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ، وَ مَنْ
يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ، إِنَّ اللَّهَ
بَالِغُ أَمْرِهِ ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ
قَدْرًا ①

بہ دہ رس رزق تمہ کو بیہ کبر رزق بیگ
تس غیل تہ آسہو۔ بیہ یس کا نہہ اللہ تعالیٰ
ہس پیچہ توکل کران چہ سہ اللہ تعالیٰ چہ
تس کبیت کافی۔ اللہ تعالیٰ چہ یقیناً بین مقصد
پور کر تہ تراوان تہ اللہ تعالیٰ ہن چہ پر چہ
چیزک انداز مقرر کر تہ تمومت۔

وَالرَّيْبُ يُبْشِرَنَّ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ
إِنْ اذْتَبَعْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالرَّيْبُ
لَمْ يَحْضَنْ ، وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ
أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ، وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ②

بہ (تمہنرو آ شہو منہ) تم زناہ یم ماہواری ہنہ
ناوو مید کا منہ آس اگر (تمہندس عدس متعلق)
توہر شک آسہو۔ تہ تمہند عدت چہ تہر رتہ
تہ یسے پاٹھی جن زناہ ہند تہ بین ماہواری
آسہو ہ یوان لو تہ پیہر زناہ بیہ زو آس۔ جن
ہند عدت چہ خلاصہ عرصہ سن تام تہ یس کا نہہا
اللہ تعالیٰ سند تقویٰ پراہو۔ اللہ تعالیٰ چہ
ضرور تمہندس معاملس منہ سہولیت یاد کران
یہ چہ اللہ تعالیٰ سند حکم یس تمہر توہر کن
تازل کوزمت چہ تہ یس کا نہہا اللہ تعالیٰ
سند تقویٰ پراہو سہ (خلا) چہ تمہر ہنہ ہدیہ
دور کران تہ تمہر سند اجر چہ ہراوان۔

ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ ، وَ مَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يُكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ ، وَ يُعْظِمْ لَهُ
أَجْرًا ③

(اے مسلمانو! طلاق دینے آمیزان زناہ ہند حق ہو
مشرادو) تم تھاویلو کہ تہر یسہ توہر پسنہ حبیبہ
مطابق روزن چہو بیہ جن ہو دیو کتہ تمہک ضرر
یہہ پاٹھی تہم کڈیو کہ توہر تنگ کر تہ (گر منہر)
بیہ ہر گاہ تم بیہ زو آس تہ توت تانی کرو
جن پیچہ خرچ یوت تام تہہ خلاصہ عرصہ تہ
اگر تم تمہند باہتہ شرہن دو دن تیلہ دیو جن
یرہ شوہہ ہر تہہ اجرت تہ تمہک قاصدہ کرو پاہ
وازی مشورہ کر تہ دستہ مطابق تہ اگر پاہ وازی کتہ
قاصدس پیچہ اتفاق ہو کوہہ کر تہ تیلہ دیو ہیکہ

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ
وَجَدِكُمْ ، وَلَا تُضَارِدُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ ، وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٌ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ ، فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ
أَجُورَهُنَّ ، وَأَنْتُمْ وَابِتُّنَّكُمْ بِمَعْرُوفٍ ،
وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْزُوعٌ لَهُ الْاُخْرَى ④

کاٹھہ زنانہ ٹمس مشرس دود۔

مالدار مہنوس پیر (دود و دہ واجبہ زنانہ پٹھ) پینہ
 حیثیتہ مطابق خرچ کران۔ تہیس مالدار آسہ نہ
 کران اللہ (تعالیٰ) ہندو دہ مہرہ مطابق خرچ
 اللہ (تعالیٰ) پھنہ کزہ روس تہی حکم دولہ کم ٹہند
 طاقتہ کھوتہ جاو آسن۔ بلکہ چہ تہی حکم دولہ کم پور
 کرانک توفیق تہ بہن بختمت آسہن تہ زن
 گوو اگر کاٹھہ شخص خدایہ ہندس حکمس پیٹھ عمل
 کران دود و دہ واجبہ زنانہ مھیک پاکھ اجرت
 دیہ تہ اگر سہ تنگ دہی ہندس حالتس مشر تہ
 آسہ تہ اللہ (تعالیٰ) کر امر پتہ تہند خاطر
 قوش حالی ہنتر حالت پاو۔

بہ واریاہ ہستیہ پیٹھ میو پینس پروردگار سہند
 حکمک تہ رسولن ہند انکار کوز۔ اتھ پیٹھ ہنوت
 اسہن سہما کر پچہ سان حساب تہ تہن پیٹھ
 کوز بوڈ عذاب نازل۔
 تہ جتوسل پیندن کر توتن ہند سزا تہ تہند انجام
 درو گائے۔

یقین لوکن ہند خاطر چھ اللہ (تعالیٰ) ہن
 کر پٹھ عذاب مقرر کورمت۔ لہذا اسے مومنو مشر
 عقلہ والو! اللہ (تعالیٰ) سہند تقویٰ پراوو۔ اللہ
 (تعالیٰ) ہن چھ تہند با پتہ شرفک سامان وولت
 یعنی رسول چھن نازل کورمت۔ سہن تو بہ اللہ (تعالیٰ)
 ہند تہی آہ بوڑ ناوان چھو ہم (پر چھہ پکھ پدہ)
 واش کڈان چھ۔ نیمیک نتیجہ یہ آسان چھ زہون
 لوکھ ہم پینہ ایمانہ مطابق عمل کران چھ ہم چھ
 انہ گنو مشر نہتہ کورس مشر یوان تہ سہ تہ اللہ
 (تعالیٰ) ہس پیٹھ ایمان انہ تہ تمہ مطابق عمل
 کر سہ کر تس یقین جتن مشر جاے یمن بوڈی
 کوز کولہ پکان آسن۔ ہم گرتہ ہن بہن مشر ہمیشہ

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۚ وَمَن قَدَرَ
 عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ
 لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۚ وَسَيَجْزِلُ
 اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝

وَكَآيِنٍ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَن أَمْرِ رَبِّهَا
 وَرُسُلِهِ فَحَا سَبَّهْنَهَا حَسَابًا شَدِيدًا
 وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًا نُكْرًا ۝


فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ
 أَمْرِهَا خُسْرًا ۝

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۚ فَاتَّقُوا
 اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا ۗ
 قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۝

رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ
 لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَمَن يُؤْمِنْ
 بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ
 تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
 أَبَدًا ۚ قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَكَ رِزْقًا ۝

روزان۔ اللہ (تعالیٰ) ہن چھ بھتیس شخصس
 سپٹھا پر نیون رزق بختمت۔
 اللہ (تعالیٰ) چھ سے نیو ستھ آسمان پاد کرکرتی
 چھ۔ تہ زمیں تہ چھن آسمان ہنتر غزینتر
 مطابق (پاد کرکرتی)۔ زمین آسمان تہ بین زمین
 درمیان چھ کسہ حکم نازل سپلان روزان۔ چھ زن
 توہ زانوہ اللہ (تعالیٰ) چھ پر چھ چیزن پیٹھ
 قاور تہ چھ پانچھ اللہ (تعالیٰ) علمہ سوتی
 پر چھ چھریک احاطہ کرتھ۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَ مِنَ
 الْأَرْضِ وَمِثْلَهُنَّ ۚ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ
 بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ
 شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ
 شَيْءٍ عِلْمًا ۝



سورة تحريم : یہ سورہ چھ مدنی تہ بسم اللہ ہتھ چھ آتھ ترواہ آیہ بیہ چھس تہ رکوع۔

(بہ چھس) اللہ (تعالیٰ) سندا ناو ہتھ (پران)
 لیس حد زوس کرم کرن وول (تہ) چھریک چھریک
 رحم کرن وول چھ۔
 اسے نبی ! تو کیا زچھکھ سہ (چیز) حرام کران۔
 یہ اللہ (تعالیٰ) ہن چانہ قاطر حلال کورمت چھ
 تہ چھکھ پنہن آستہن ہنتر خوشی یہ پڑھان تہ اللہ
 (تعالیٰ) چھ سپٹھا بختن مار (تہ) اُنچہ روس
 رحم کرن وول۔
 اللہ (تعالیٰ) ہن چھ توہ بہ پیٹھ ہتھ تسم چھراوک
 حکم و ہتھت (یو سوتی فبت تہ ووتھ) بیہ اللہ (تعالیٰ)
 چھ تہند تا یک تہ سہ چھ سپٹھا زان وول (تہ)
 حکمتہ وول۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ
 لَكَ ۚ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ۚ
 وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ①

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحْلِيلَ آيْمَانِكُمْ ۚ
 وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ ۚ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ②

لہ اکہ وہ بہ چا و نو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہ ہنتر اکہ آستہ ما چھ شربت۔ بیس آستہ
 اوس یہ ما چھک مشک نالیند۔ تہ وون صفونان نر از چھ تہند اسہ منز ما چھ مشک یوان
 اتھ پیٹھ کور تمو عہد نر آستہ کھچہ تہ بہ ما چھ اتھ پیٹھ سید یہ آیہ نازل۔ (منہ)

وَإِذْ أَسْرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ
حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ
عَلَيْهِ عَزَّوَجَلَّ بَعْضَهُ وَاعْرَضَ عَنْ
بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ
أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ
الْخَبِيرُ ①

بہ (شریکس پڑو) نیلے نبین پتہو آشنہو
منہو کانسہ کس اکھ پو شہد کتھ وڈی پتہ نیلے تہ
سو کتھ بہ کانسہ وڈی تہ اللہ (تعالے) ہن ڈر تہ
(یعنی تہ کمزوری ہنر) خبرتس (یعنی نیس) تہ
تہ وڈن (کتھ ہند) کیہ جمعہ آشنہ تہ کینہ
جمعہ کرن پرم پویشی پتہ نیلے اہل کتھ ہنر
خبرتس (آشنہ) وڈن تہ تہ وڈن تہ تہ کتھ
وڈن وڈی؟ اتھ پیٹھ وڈن تہ (یعنی نبین)
نر مینہ پھیڑی علمہ وڈی (تہ) واقف کار خدایک
یہ خبر ڈر پتہ۔

إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ
قُلُوبُكُمَا ۚ وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ
هُوَ مُوَلِّئُهُ وَجِبْرِيْلٌ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ۚ
وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ②

پتہ وڈن تہ تہ (میانہ) دو تہو آشنہو! اگر
توہ پتہ غلطی پتہ اللہ (تعالے) ہن نش تہ
کرو تہ تہ وڈنی ہند دل چھ بروٹھے اتھ کتھ
کن ہتھ (تہ تہ خاطر چھ تیار)۔ تہ اگر توہ
دو تہو (نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم) مقابلہ کرن
پتہ (پتہ) پانہ وڈی پتہ پانہی خاطر استاد گرتہو
تہ یاد تہ اللہ (تعالے) چھ تہ سند دوست ہتھ
پتہ جبریل تہ ساری مؤمن تہ تہ علاوہ چھ ملائکہ
تہ نیس تھڑو کھ دہ وڈی۔

عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ
أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكَ مُسْلِمًا مَّؤْمِنًا
قَدِيمًا تَلْبِيتٌ عِيدٌ سَخِيحٌ تَلْبِيتٌ
وَآيَاتٌ ③

تہ تہس پروردگار ہند خاطر چھ بالکل ممکن تہ اگر
سہ تہوہ طلاق وڈی تہ سہ (اللہ تعالے) دہ
تہ تہند کتھ تہ جاوہر تہ آشنہ بدلیم مسلمان
تہ آسن، مؤمن تہ آسن، فرمانبردار تہ آسن، تہوہ
کرن واجبہ، عبادت کرن واجبہ، روزہ دن واجبہ
تہ آسن، موئمہ تہ آسن تہ اتہر شہ تہ!

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ
وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحَيَاةُ عَلَيْهِمَا مَلِئَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ
لَّا يَخْضَوْنَ اللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ
مَا يُؤْمَرُونَ ④

اے مؤمنو! پتہ اہل و عیال تہ تہ پتہ زو تہ
بچا و لو کھ جہنہ ہتہ نیلک زان خاص لو کھ (یعنی
کافر) آسن بہ ہتھ پتہ کتہ تہ (میں پتہ
بنان چھ)۔ تھہ جہتس (پتہ چھ تھو ملائکہ
گتھ دیم کانسہ ہند زار پار بوزن وڈی جہنہ بلکہ

چھ بیٹے فرین پور کرس منتر دُرک تہ اللہ (تعالے)
ہن یس حکم تمس دیت مت چھ کبچ چھنہ تم
نا فریانی کران تہ یہ کیشرا و تنہ یوان چھکھ تم
چھرتی کران۔

اسے کافرو! ازہہ کرو عذر توہہر میل و تہندو
اعلام مطابق جزا۔

اسے نومو! اللہ (تعالے) اس کن کرد شودی پانچ
برہم بیٹہ منتر منا فقہ کا نہہ زادگی گتہ نہ آسنی
کا نہہ تعوب چھنہ نہ تہند پروردگار کر تہنہر بدیہ
نالود تہ توہہر کرو تھین جنتن منتر جاے یمن (بندین
شہلین تل کولہ پکان چھین۔ تمہہ دوہہر سیکہ دوہہر
اللہ (تعالے) اپنیس نبیس رسوا کر تہ تہ نہ کر تمس
لوکن یوتس سوتی ایمان اونمت چھ۔ تہند نور
آسنہن بروٹھی کتہ تہ زھہہ ماران تہ تہند
ڈھنہ کتہ تہ، تم و ن تر اسے سانہ پروردگار!
سون نور کر سانہ قاید خاطر کابل تہ اسہ کر معاف
تہ چھکھ پر چھہ چیس پیٹھ تادور۔

اسے نبی! کافرن تہ منافقن خلاف کر زبر پانچ
تبلیغ تہ تہند کا نہہ اثر ہہر کر قبول۔ (بیر (زان
نہ) تہند بھکانہ چھ جہنم تہ سہ چھ سہیا چھ بھکانہ۔

اللہ (تعالے) چھ کافرن ہنر حالت نوح تہ لوٹہ
سہنن آشنہن ہنر ہش بیان کران۔ تم دونوے
آسہ سانہن نیک بندن ہندین نکاحن تل۔ مگر
تمو دونوے وہے کریاوہن دوتن (بندن)
سوتی خیانت تہ تم دونوے ہیکہ نہ خدائی عذاب
کر وقتہ تمس (آشنہن) کتہ بکار چھ۔ تہ تمس
دونوے زمین آلو و منہ نہ جہنم منتر سہن
والین سوتی گتہو توہی دونوے تہ جہنم۔

بہیہ مؤمن ہنر حالت چھ اللہ (تعالے) فرعونہ
سہنر آشنہ ہنر ہش بیان کران نیلہ تمہ پانس

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَخْتَرُوا الْيَوْمَ
لَا نَمَّا نَجْزُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥١﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً
نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ
سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ
النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۖ نُورُهُمْ
يَسْطِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ
يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَ
اغْفِرْ لَنَا ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥١﴾

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ
وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَا يُؤْمِنُ
بِهِمْ وَلَا يُؤْمِنُ بِالْمُحْسِنِينَ ﴿٥٢﴾

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتٍ
نُوحٍ وَامْرَأَتٍ لُوطٍ وَكَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ
مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتْهُمَا فَلَمْ
يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا
النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ ﴿٥٢﴾


وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتٍ
فِرْعَوْنَ ۖ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ

بَيْنَنَا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَ
عَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۱۰﴾

پروردگار من و دنیا، تر اسے خدایہ! اثر بناو تو پائس
بش میانہ خاطر جنتس منز اکھ گرہ تر مینہ بجیاو
تر فرعونس تر تہنزو یکچہ عملو بشہ تر بیتھے پاٹھر
دتم (تہنہ) ظالم قومہ بشہ نجات۔

وَمَزِيْمًا ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ
فَرْجَهَا فَنَقَّصْنَا فِيهِ مِنْ دُونِ مَا وَصَدَقْتِ
بِكَلِمَاتٍ رَبِّهَا وَكُتِبَ لَهَا مِنَ
الْقَنِينِ ﴿۱۱﴾

بیہ چھ اللہ (تعالیٰ) مؤمن ہنز حالت سرکینہ
پاٹھر بیان کران یلہ سہ عمران ہنز کور اس نینہ
پہنڑ شہم رچھہ تر اسراوس تس منز مین کلام
ترو ومنت تر تمہ اوس تمہ کلامک تصدیق کورنت
سئس تہندک پروردگارن تس پیٹھ نازل کر یاو،
بیہ اوس تہنزن (یعنی خدایہ ہنزن) کتابن پیٹھ
تر ایمان او منت۔ تر (واہر وارہ اسن ہنزہ منورث
پداو ہنز تر) تمہ اوس فرمانبردارن ہند مقام حاصل
کورنت۔



سورة ملك : یہ سورہ چھ کئی تر بسم اللہ ہجھہ چھ اتھ اکثرہ آیرہ بیہ چھس تر رکوع ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾

(بہ چھس) اللہ (تعالیٰ) سنداو ہجھہ (پرلن) سئس
حدہ روس کرم کرن دول ہتہ، چھیرک چھیرک رحم کرن
دول چھہ۔

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَذِي
الْحَرْقِ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲﴾

سبھٹا برکڑہ دول چھہ سہ (ضدا) نیو ہندس اتھس منز
بادشاہت چھینہ۔ بیہ چھہ سہ پرہجھہ اکھ ارادہ لورہ
کرنس پیٹھ قادر۔

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ
اَيْكُمْ اَحْسَنَ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْعَفُوْرُ ﴿۳﴾

تھو چھہ موت تر زندگی او خاطر پاڈ کرک ہنز
سہ آزماوہ و قومہ تر قومہ منز کس چھہ جاوہ ہنز
عمل کرن دول۔ بیہ چھہ سہ غالب (تر) سبھٹا

اتھ آیس منز چھینہ پیشگوئی تر آئینہ زمانس منز سپد امت محمدیس منز اکھ بیٹھہ مؤمن تر
ظاہر نہیں منز سرکی صفات آسن تر تس بیہ الہامن منز مریم ناوہنہ۔ امیر پتہ کر سہ
روحانی ترقی تر تس بیہ عیسیٰ علیہ السلام سندا مقام تر ناو عطا کرنہ علیہ السلام

بمخشن بار -

سے چھ بیٹرو ستھ آسمان درجہ چھ درجہ بناؤ کہ
ہو تر چھ (تہ) تر چھ کنہ رحمان (خلایہ) ہنر
پاؤ ایشہ منہ کانہہ پیمبر گیر و چھان تہ تر و چھ
(اوکن یوکن) اچھ پھیر پھیر - کیا تر یہ چھیا
(خلایہ ہنر پاؤ ایشہ منہ کنہ جاہ تہ) کانہہ ڈر
یا و تر ہنر بوز تہ پوان ؟

بیہ تر چھ پھیر پھیر نظر سوہ بیہ ام تر تر یوکن
نا کام گرہ صحتہ واپس تہ سوہ آسہ پچھمہ (تہ تھ
پسہ تہ کانہہ غاب تہ رم نیت تر بوز تہ) -
بیہ اسہ چھ بوز مس آسمانس تر اٹھو ستی پارو
کورمت تہ تم (تر اٹھو) چھ شیطان ہند خاطر
کنہ در شکر باہت بناؤ ہو تر - تہ اسہ چھ نم
(شیطان) ہند خاطر اکھ ڈھون عذاب مقرر
کر تھ تھومت -

بیہ یو پینس پروردگار سنہ انکار کورمت چھ تہ
واتہ جہنک عذاب تہ سہ چھ سچھا پچھ ٹھکا تہ -
ییلہ تم تھ (جہنم) منہ تراوہ پین تہ تم بوز
تھ منہ ترچ اکھ یڈ کر کہہ (زن تہ آسہ تر ٹانگ)
تہ سہ (جہنم) آسہ شولہ ماران -

زن تہ وڈ پینہ تر کہہ سہ پچھتہ ، نیلہ تہ کانہہ
لوگبا تھ منہ تراوہ پینہ ، تیکو ڈیڈی وان پزہن
تہن زکیا توہ بریش آیو ناہ کانہہ تہی ؟

تم دین آ ، اسہ برش آیو ضرور تہی ، اماہ پوز اسہ
اپز اوو سہ تہ اسہ دنیاوس تر اللہ (تعالیٰ) ہن
کوہ تہ کہنی تہ تاہزل (سورسے چھ تہ ہند اپز) توہر
چھو اکس تہ واپہ گمراہی منہ ولہ آہو (تہ پینو خیال
چھو کہہ البام گنہراوان) -

الذی خلق سموات طباقاً ما
تراه فی خلقی الرحمن من تقویٰ ،
فارجع البصر هل تراه من فطور ①

ثم ارجع البصر كرتین ينقلب
إليك البصر حاسياً وهو حاسير ①

ولقد زیننا السماء الذنیاً بمصابیح
وجعلناها جُزُماً للشیطین واعتدنا
لهم عذاب السعیر ①

والذین کفروا بریہم عذاب
جہنم ، وریس المصیر ①

إذا ألقوا فیہا سمعوا لها شھیفاً وہی
تفور ①

تکاد تمیز من الخیظہ کلماً لقی فیہا
فوج سألهم خزنتها ألم بأتکم
نذیر ①

قالوا بلی قد جاءنا نذیرہ فکذبنا
فلنما نزل اللہ من شیء ۱۱ لان انتم
إلا فی ضلّ کبیر ①

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ الشَّعِيرِ ﴿۱۱﴾

بیہ تم لوگو وذن پتہ نہ ہر گاہ اسے بوز تمک طاقت
آسے ہے یا اسے عقل آسے ہے تو اسی پتہ ہو تو
زنجیہ جہنمی۔

فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ الشَّعِيرِ ﴿۱۲﴾

لہذا تم کوئی پتہ نہ تھو ناہ تسلیم اور کئی (بے لایکوا)
جہنمین ہند خاطر تھو لعنت مقدہ کر تھ۔

إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْخَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿۱۳﴾

یقیناً تم لاکھ ایم خلوکہ پا طھو تہ پشش پروردگار
کھوڑان چھ تہن کبیت چھ مغفرت تہ بودہ اچسر۔
بیہ (اسے لوگو!) تو ہی پتہ کتھ کھتھ تھو تو یا
تھو کڈی تو، سلاخدا چھ وین ہنر کتھ تہ زبر
پا طھو زانان۔

وَأَسْرُوْا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۱۴﴾

کیا یہ چھا سپد تھ بیان نہ سیمو یا د کر کوی تو آسن
سے زانہ نہ اندر حال؛ حالانکہ سہ چھ پوشیدہ
کھوتہ پوشیدہ سرن ہند تہ واقف تہ سہ سٹھا خبر دار۔

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿۱۵﴾

سے چھ سیمو تھندہ با چھ زمین روزن لایق بناؤ تہ
چھیہ۔ لہذا تسنن وادین منر پھیرو تہ تسند ایسن
خدا یہ سید، بر تہ منر کھینو تہ تسو کن چھو پھیر تھ
گر تھن۔

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاجِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ذَرَابُ النَّشُورِ ﴿۱۶﴾

کیا تو ہی چھو آسمان منر روزن واجتہ ہستی ہنہ
امر کتھ کبہ امنس منر آمتی؛ ز سہ کر و (تہ)
تو ہہ دنیا ہس منر ذیل تہ تو ہی وچھو نہ سوز زمین
چھیہ چکر کھینوان (تہ تو ہی چھو تبا ہی نزدیک)

أَمْ أَمِنْتُمْ مَّن فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورٌ ﴿۱۷﴾

کیا تو ہی چھو آسمان منر روزن واجتہ ہستی ہنہ
امر کتھ کبہ امنس منر آمتی؛ ز سہ (وہ) تو ہہ
پٹھ کبہ رود؟ اور کئی (یہ شکلہ منر تہ میون مقصب
تازل سپر) تو ہی تازو نہ میون خبر دار کرن کیتھ کر لو تھ
اوس؟

أَمْ أَمِنْتُمْ مَّن فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿۱۸﴾

بیہ تمو برو تھو ہو لوگو تہ اسی رسول اپزادہ (تو) اور
تھو وچھ ناہ (تہ) میون عذاب کیتھ کر لو تھ۔ اوس۔

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿۱۹﴾

کیا تمو وچھ ناہ پائش پٹھو کئی (تھنہ) ہس منر پتہ

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفْتٍ

وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُنَّ إِلَّا الرِّحْمَنُ ۗ بِمَا كُنتُمْ
 لَآئِهٖ يَكْفُرُونَ ﴿۱۷﴾
 پکھ مٹھاؤتھ صفت در صفت وڑوہ جاناوار؛ یکم کئی وز
 بولن ونہ مہ کو پستہ پکھ ومان چھ رحمان (خدائی)
 چھ تم ٹھکاناوان لہ۔ سہ چھ پرستہ چیزک رڈ پانچ
 واقف۔

کیا تم لاکھ میں تہند لشکر ونہ یوان چھ۔ رحمان
 (خدائیس) مقابلہ ہیکنوا توہر اتھ روٹ کر تھ؛
 کافر تہ چھ صرف فریس منز ہستہ آہتر۔

کیا سوہستی یوسہ توہہ برق دوان چھ، ہر گاہ
 پنن برق بند کر (تہ کا نہہ جھائیس توہہ برق دیوا)
 پندر چھ یہ نہ تم چھ بھتہ پھرنس تہ ستھ ہتہ ڈور نلس
 (یعنی تھ عادتس) منز (جادسے بہن) بروٹھ دواتہ۔
 کیا سہ شخص ییس بھتہ وارڈ وکرتھ پکان آسہ، سہ آسہ
 جاد ہائیس پٹھ کہتہ سہ شخص ییس سینوہ صراط مستقیمس
 پٹھ کین اول آسہ؟

تہ وکٹھ نہ سہ چھ خدای ییم توہی یاد کرکے چھو تہ
 تہند خاطر چھن کن رتہ آچھ تہ دل بناور ہتہ امہ
 پور توہی چھو تہ بالکل شکرانہ کران۔

تہ وکٹھ نہ سہ چھ ییم توہی زہینہ منز یاد کرکے تہ
 چھو تہ تسی کن بیو توہی زندہ کرتھ پھرتھ ہنہ۔

بہ چھ تم ومان نہ ہر گاہ توہی پڑ یارک چھو تہ یہ
 وعدہ کر گرتھ پور؛

تہ وکٹھ نہ امیک علم چھ صرف اللہ (تعالیٰ)
 ہس تہ بہ تہ چھس صرف اکہ واش کڈی کڈی
 ہشیار کرن اول (ستقیمس)۔

بہ نیلہ تم سہ (وہہ ونہ آمت غلاب) نزدیک
 یوان وچھن تہ کافرن ہندی بھتہ دن تہ ہنن ہسہ
 ونہہ۔ یوسہ چھ سہ چیز نیلیک توہی پھری پھری
 مطالبہ کران آسہ و۔

أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ
 يَنْصُرُكُمْ مِنَ دُونِ الرَّحْمَنِ ۗ إِنَّ
 الْكُفْرَ هُوَ إِلَّا فِي عُرْوَةٍ ﴿۱۸﴾

أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَزِرُّكُمْ إِنْ أَمْسَكَ
 رِزْقَهُ ۗ بَلْ لَجَّوْا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ﴿۱۹﴾

أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿۲۰﴾

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ
 السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ قَلِيلًا مَّا
 تَشْكُرُونَ ﴿۲۱﴾

قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ
 تُحْشَرُونَ ﴿۲۲﴾

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ
 صَادِقِينَ ﴿۲۳﴾

قُلْ إِنَّمَا الْحِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَإِنَّمَا أَنَا
 نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۲۴﴾

فَلَمَّا رَأَاهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ
 كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِه
 تَدْعُونَ ﴿۲۵﴾

لہ یعنی سردار کہتہ ڈال گرد تہ کا نہ چھہ ہنہ ہس منز پاران نہ توہی کر مشر و غلاب سرتی تہ تم کہن تہند ماہ۔

تَرْوَمُكْهُ مِيهٖ دُوْرُو تَرْسِي تَرْهَرَاةُ اللّٰهِ (تعالے)
مِيهٖ تَرْ مِيَانِيْن سِيْتِي بَا جِيْنِ هَلَاكِ كَرْ يَا اِسْرِيْجِيْ رَحْمِ
كَرْ، تُوْرُو كَسْ دِيْهٖ كَا فَرِيْنِ دَرْدَنَاكِ عَذَابِيْ رِيْشِيْهٖ پِيْنَاةٖ؛


قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكْنِيَّ اللّٰهُ وَ مَنْ مَعِيَ
اَوْ رَحِمْنَا فَمَنْ يُجِيْزُ الْكٰفِرِيْنَ مِنْ
عَذَابِ اِلَيْهِ ۝۱۱

تَرْوَمُكْهُ تَرْسِي (خدايے) رَحْمَانِ چُوْهٖ نِيْمِيْسِ پِيْجِيْ اِسْرِيْ
اِيْمَانِ اُوْرَمْتِ چُوْهٖ تَرْ اِسْرِيْ چُوْهٖ تَسْ كَرْ پِيْجِيْ تَوَكَلِ كُوْرَمْتِ
لِهِنْدَا تُوْجِيْ تَرْ اُوْرُو جِلْدِيْ تَرْ كَسْ چُوْهٖ تَنْبِ وَ اِيْهٖ كَرْ اِيْ مَنْرِ
هِيْجِيْ اَمْتِ -

قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اَمْتًا بِهٖ دَعَا لِيْهِ تَوَكَّلْنَا
فَسْتَخْلَمُوْنَ مِنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝۱۲

تَرْوَنِ يِيْهٖ تَرْ مِيهٖ دُوْرُو تَرْسِي هَرَاةُ تِهِنْدَا آبِ تَرْ مِيْهٖ تِهِنْدَا
سُوْرَسِ مَنْرِ شَرِيْهٖ چُوْهٖ كَرْ تِهٖ، تَرْوَلِيْسِ وَا لِيْ كَسْ اِيْ
تَوَهٖ رَكِيْتِ يَكُوْنِ آبِ!

قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَا وُكُفُّوا فَمَنْ
يَاْتِيْكُمْ بِمَاءٍ مَّعِيْنٍ ۝۱۳



سُوْرَةُ قَلَمِ : يِيْ سُوْرُو چُوْهٖ كَلِيْ تَرْ بِسْمِ اللّٰهِ تِهٖ جِهَاتِهٖ تَرْوَنَزَاةٖ اِيْهٖ يِيْهٖ چِيْسِ تَرْ رُوْعِ.

(بِرِ چِيْسِ) اللّٰهِ (تعالے) سِنْدَا وَا وِيْجِيْ (پَرَانِ) يِيْسِ
حَدِيْ رُوْسِ كَرْمِ كَرْنِ وَوْلِ (تَرْ) چِيْجِيْ رِ چِيْجِيْ رِ رُحْمِ
كَرْنِ وَوْلِ چُوْهٖ -

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝۱

قَلَمِ تَرْ دَوَاتِ يِيْهٖ تِهٖ يِيْهٖ تُوْ سُوْرُو يِيْجِيْهٖ يُوَانِ چُوْهٖ، چُوْهٖ
(اُسُو) شِهَادَتِ كَرْ تَرْ پِيْشِ كَرَانِ وَا نِ -
تَرْ تَرْ چِيْجِيْ پِيْنِيْسِ پَرُوْرُو كَا بَرِ سِنْدَا فَعْلِيْ سُوْرُو دِيْوَانِيْ -
يِيْهٖ تَرْ يِيْ رَكِيْتِ چُوْهٖ خَلِيْهٖ بِنْدِ طَرْفِيْ اَكْهٖ تَبِيْهٖ بِلِهٖ يِيْسِ تَرْ
تَرْ شِيْهٖ مَوَكَلِيْ -

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ۝۲

(اِسْرِيْ عِلَاوِ) چُوْهٖ اُسُو يِيْهٖ تَرْ قَسْمِ اُوَا نِ (تَرْ) چِيْجِيْ (پِيْنِيْ)
تَعْلِيْمِيْ تَرْ عَمَلِنِ مَنْرِ نِهَاتِيْ تَهٖ دَرَجِيْ كَرِيْنِ اَخْلَاقِنِ پِيْجِيْ
قَا يِيْمِ -

مَا اَنْتَ بِنِعْمَةٍ رَّبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ۝۳

وَ اِنَّ لَكَ لَآخِرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ۝۴

وَ اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ۝۵

لِهٖ قُرْآنِ كَرِيْمِ مَنْرِيْمِنِ چِيْزِيْنِ بِنْدِ قَسْمِ اُوْرُو اَمْتِ چُوْهٖ تَمْ چِيْزِ چُوْهٖ بِلُوْرِ شِهَادَتِ پِيْشِ كَرْ اَنْزِيْ
يِيْجِيْ اِيْسِ مَنْرِ چُوْهٖ يِيْ بِيْلَانِ كَرْ تَرْ اَمْتِ تَرْ قَلَمِ دَوَاتِ تَرْ سُدُكِيْ عِلْمِ يِيْ سُوْرُو يِيْجِيْهٖ يُوَانِ چُوْهٖ - تَمْ چُوْهٖ
شِهَادَتِ دُوَا نِ رُوْجُو كَرِيْمِ صِلِ اللّٰهِ عَلِيْهِ وَ سَلَمِ چُوْهٖ تَرْ مَجْنُوْنِ بِلَكْسِ سُوْرُو چُوْهٖ اَعْلَى اَخْلَاقِنِ پِيْجِيْ قَا يِيْمِ -

گرتھ صتھ پنننس باغس میو۔
تہ خدایہ سُنہ ناو ہوتراکھ تہ۔

نتیجہ درو یہ نہ پچائس پروردگار سُنہ طرفہ پھیوڑ اتھ
(تہندس باغس) پھیش نیلہ زن تم شوگر تہ
اُسی۔

تہ صچس تام اوس سہ باغ زستہ و ہلاونہ اُمت
چنانچہ صیحا لیکھ لکھ کوزہ پانہ واڈی اکھ اُکس آلو (تہ
وؤکھ ز)

ہر گاہ تہنتز نیت باکھ میو واپغ پھینہ تہ وونی پکوپننس
باغس کُن۔

چنانچہ تم گئے تہ تم اُسی لہ تہ لہ تہ پانہ واڈی یہ زمان۔
نہ از تہتہ تہنتز منوہول منتر کا تہہ مسکین باغس منتر
دائیل سپد۔

تہ صج پھولنہ برونیٹے اوس تمو بوجھک فامہ کرتہ تھو
اڈ نیلہ تہو سہ باغ وچھ تہ وؤکھ اُسی ماہ چھ وتہ
ڈر تہو۔

بلکہ پزیر چھ یہ ز اُسی چھ (پسنہ میو نیشہ) مولیٰ مردم
تہا تہو۔

یس تسن منتر جان انسان اوس، تمو وؤکھ کھیا توہ سہ
ونیا و ناہ میہ نہ توہی کو تہ چھ خلیہ ہنتر تسج کران؛

تہو وون سون پروردگار چھ پرتچہ عاہہ نیشہ پاک تہ
اُسی اُسی ظلم کرن واڈی۔

پتہ کوزہ جو اکھ اُکس کُن تو تہ تہ اکھ اُکس، نیشہ کھ طاعت
کرتہ۔

تہ وتہ لکھ، اسہ پیٹھ افشوس۔ اُسی بنے یہ تہو پھوڑ۔
(اگر اُسی توہ کرو تہ) ووسید پھینہ نہ سون پروردگار
رہ اسہ تہ کھوتہ جادرت (باغ)۔ اُسی نمو ضرور
پسنس پروردگار کُن۔

وَلَا يَسْتَشْفُونَ ﴿۱۰﴾

فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَ هُمْ
نَاثِمُونَ ﴿۱۱﴾

فَاصْبَحْتَ كَالصَّرِيمِ ﴿۱۲﴾

فَتَنَادَا مُصْبِحِينَ ﴿۱۳﴾

أَنْ اَعْدُوا عَلٰى حَزْبِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ﴿۱۴﴾

فَاَنْطَلَقُوا وَ هُمْ يَتَخَفَتُونَ ﴿۱۵﴾

أَنْ لَا يَدْخُلْتَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ
مُسْكِينٌ ﴿۱۶﴾

وَ عَدُوا عَلٰى حَزْبٍ قَادِرِينَ ﴿۱۷﴾

فَلَمَّا رَاَوْهَا قَالُوا اِنَّا لَصَاثُونَ ﴿۱۸﴾

بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿۱۹﴾

قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ لَوْ لَا
تُتَسَبَّحُونَ ﴿۲۰﴾

قَالُوا اسْبِخْنَ رَبِّنَا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿۲۱﴾

فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَتَلَوْا مَوَانَ ﴿۲۲﴾

قَالُوا يَا وَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿۲۳﴾

عَسٰى رَبِّنَا اَنْ يُّبَدِلَ لَنَا خَيْرًا مِّنْهَا اِنَّا اِلٰى
رَبِّنَا رَاغِبُونَ ﴿۲۴﴾

تھے یا پھر چھ عذاب نازل سیدان روزان تہ اگر تم
زان تہ اُسزیک عذاب چھ دُنیاہر عذابہ ہنتر
سبھا بڑو۔

مستقین ہند خاطر آسن تہ ہنس پروردگارس ہنتر لغتو
بُرقتہ بارغ۔

کیا اُس زانوگھا مسلمان مجرم برابر؟

توہر کیاہ چھوگومت؟ توہر کیئہ فاصلہ چھوکران؟

کیا توہر ہنتر چھا کاہنہ (ترتھ الہی) کتاب یقہ منز
توہر یچ کیئہ پران چھو؟

نر یہ توہر پند کرؤ توہر میلہ و (تہ) ضرور۔

یا کیا توہر چھو اسہ کیئہ قسمی و ہر ہنتر ہنتر
قیامشرتام جاری روزان۔ بیہ پر نر یہ توہر و ہنتر
میلہ و توہر۔

ہین پرترحو نر پھو منز کس چھ اسہ کتھ ہند ذہوار؟

کیا ہین لاکن ہند حقہ چھا خرایہ ہنتر کیئہ غمیالی
شریک؟ او اگر تم پڑی یارک چھو تہ تم شریک کرن
پیش۔

ہنتر دوہر مہینیک وقت پیہ تہ تم ہنتر شجرہ کرن
خاطر نادتھ انہ تہ ہنتر آسہ ہنتر سجد کرن سب
ہکتھ۔

تہنتر نظر آسن (شرع ہنتر) ہنتر کن ہنتر (تہ) اولت
آسہ ہنتر و ہنتر آہنتر تہ اکھ وقت اوس سہ نیلہ تم
آسہ سجد خاطر نادتھ انہ یوان تہ ہنتر آس
ہنتر کتھ یارک (نکر تمو کر یاو سجد کرن ہنتر انکار۔

او وہنتر نیلہ زن بشر پچ کتھ ہنتر کال تام تہنتر
دن پیہ کتھ ہنتر چھہ ہم کتھ پاٹھ ہنتر سجد کرن؟

ہنتر تہ تراو مینہ تہ بیہ (تراوگھ) تم تہ ہم
کتاب اپزان چھہ۔ (پانہ سزا دینچ ہنتر ہنتر)
اُس الزکھ ہم درجہ چھہ درجہ سبھاہی کن تمو طرفو

كَذٰلِكَ الْعَذَابُ ۚ وَ لَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ
اَكْبَرُ لَوْ كَانُوۡا يَعْلَمُوۡنَ ﴿۷۰﴾

اِنَّ لِلْمُتَّقِيۡنَ عِنۡدَ رَبِّهِمْ جَنَّٰتٍ النَّعِيۡمِ ﴿۷۱﴾

اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيۡنَ كَالْمُجْرِمِيۡنَ ﴿۷۲﴾

مَا لَكُمْ وَاَنْتُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوۡنَ ﴿۷۳﴾

اَمْ لَكُمْ كِتٰبٌ فِيۡهِ تَدۡرُسُوۡنَ ﴿۷۴﴾

اِنَّ لَكُمْ فِيۡهِ لَمَآ تَخَيَّرُوۡنَ ﴿۷۵﴾

اَمْ لَكُمْ اٰيْمَانٌ عَلَيْنَا بِالۡحَقِّ اِلٰى يَوْمِ
الْقِيٰمَةِ ۚ اِنَّ لَكُمْ لَمَآ تَحْكُمُوۡنَ ﴿۷۶﴾

سَلِّمۡۤ اَيُّهُمۡ بِذٰلِكَ دَعِيۡمٌ ﴿۷۷﴾

اَمْ لَهُمۡ شُرَكَآءُ فِىۡۤ اٰلٰهِيۡنَا ۙ اِشْرَکًا ۙ لَهُمۡ اَنْ
كٰنُوۡا صٰدِقِيۡنَ ﴿۷۸﴾

يَوْمَ يَكْتُفُ عَنِ سَاقٍ ۚ وَاٰیۡدِعۡوۡنَ اِلٰى
السُّجُوۡدِ فَلَا يَسْتَطِیۡعُوۡنَ ﴿۷۹﴾

حَآشَۤا لَہٗۤ اَبۡصَارُہُمۡ تَرٰہُمۡ ذٰلَہٗ ۙ وَاَقۡد
كٰنُوۡا اٰیۡدِعۡوۡنَ اِلٰى السُّجُوۡدِ وَاہُمۡ سٰلِمُوۡنَ ﴿۸۰﴾

فَذَرٰنِیۡ ۙ وَاَمِّنۡ یُّکَذِّبۡ بِہِذَا الْحَدِیۡثِ ۙ
سَنَسْتَدْرِجُہُمۡ وَاِنَّہُمْ لَیَعْلَمُوۡنَ ﴿۸۱﴾

کئی لمٹتے ہیں تم زانان تہ چھینے۔
 تہ متن دہر بہ مولیت (یعنی تہ مہر کہ ہتھنرتیابی
 ہند دعا) میون تدسرتھ سبھا دور۔ (تہ سہ
 تھاوتسن انجرتیہ کرتھ)۔
 کیا تہ چکاہا متن کانہہ اجرت مکان؟ تہ تم چھرتہ
 چنیٹہ ہند باعتہ برس تل دہتھ؟

وَأْمِنَ لَهُمْ إِنْ كُنْزِي مَتِينًا ﴿۳۱﴾

أَمْ تَشَاءُ لَهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَخْرَوٍ
 مُثْقَلُونَ ﴿۳۲﴾

کیا متن چھا غائب علم تہ تم چھرتہ لیکان گرتھان؟
 نہذا تہ روز پینس پروردگار ہندس حکمس پٹھ قائم
 تہ صاڑ وائل ہندس پٹھ مہ بن نیلہ تہ پینس پروردگار
 آلو کر یاد تہ سہ اوس علم سستی برتھ۔
 اگر تہ ہندس پروردگار ہتھنرتت تہند لکلیف تدوک
 کرہے نہ تہ سہ بیہ ہے افس دود مہ ہنس مادانس
 منز تراوتھ ترھنہ تہ سہ ہنہے ملائک ہتھانہ۔
 مگر تہ ہندس پروردگارن ثور سہ تہ سہ کورن نیکو
 ہندن منز تھائل۔

أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ ﴿۳۳﴾

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُكُنْ كَصَاحِبِ
 الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿۳۴﴾

لَوْ لَا أَنْ تَذَرُكَ نِعْمَةً مِنْ رَبِّهِ لَئِيدٌ
 بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿۳۵﴾

فَاجْتَبِهْ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۳۶﴾

یہ لو کہ تہ پرورد تہ نیلہ تہ ہنس قرآن بوز تہ تم افس
 پستہ تہ تہ ہرتھ اچھو سستی تہ کن تہ تھکنو وچھان
 زن تہ رہنے والہ ہنس چانہ متاہ ہنس۔ بیہ چھرتہ زمان
 گرتھان نہ یہ تہ تھنس چھ دیوانہ۔
 حالانکہ یہ (قرآن) چھ ساری دنیا ہہ باپتھ شرف
 تہ عزت تہ ہتھ آمت۔


وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ
 بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَ
 يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿۳۷﴾

وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿۳۸﴾

۱۔ یعنی حضرت یونس علیہ السلام ہندس پٹھ مہ بن یعنی ہنس قومس متعلق فاصلا طلب کرنس

منزل جلدی مہر۔

۲۔ ہندس تہ کتاب انن دول کتھ گئی آہہ دیوانہ۔



سورۃ الحاقہ، سورۃ پچھ کئی تہ بسم اللہ پچھ چھ اتمہ ترو ترو ترو آئہ بیہ چھیس تہ رکوع۔

(برہ چھیس) اللہ (تعالیٰ) سُنَد ناو پچھ (پرلان) یس
حدر رُوس کرم کرن دول تہ پچھری پچھری رحم کرن دول
چھ۔

اَلْحَاقَّةُ یسے سو برحق خبر (لیوہ قرآن وُذی)
اَلْحَاقَّةُ کیاہ چھین؟

یس تریز کوی چیزن پچھ وُذنت ز سو پور سپد تھ
روزن واجیو خبر کیاہ چھین؟

تمود تہ عاد (قوم) تہ اوس "قارعہ" اپر وُمت ایوہ
تہ زمانہ کہ عذاب (خبر اُس)۔
یونام (قوم) تمودک تعلق چھ تم آہ اکر تہ عذاب
سیتی ہاک کرن یس پننس شدنس منز اُتھس
وُومت اوس۔

تہ عاد (تہ) آہ اکر تہ عذاب سیتی ہاک کرن یس
واو تھلہ اُمت اوس یس مسلسل پکان رُود تہ سجت
تیز اوس۔

تمو (اللہ تعالیٰ ہن) اوس سہ (واو) گنڈ لے
ستن رُاترن تہ اُطن دن ہن تہنر متباہی خا طر
مقرر کر تھ تھومت۔ (اے وُجین والہ!) تہ
وُچہن سہ قوم اُس تہ رُود ہن تہ پتھر پھیس
حالس منزرن پھر تم اکر کھ کھ کھنر کھلکھ مول
یم تیز واوون پتھر پُاد تھ تھوی ہتہ آسن۔

(اے مخاطب!) دن دن دن ز کیا تہنہ کانہہ
نشاندہ چھیا تری نظر لیوان؟

یس فرعون تہ تم لاکھ یم تس برد تھ اُس آہ
(یہ دن یس منز) خطا زد گرتھ تھ۔ یس (قوم
لاطہ چہ) تہ بستیہ تہ یم گونہ گونہ پھرنر اُمت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①

اَلْحَاقَّةُ ①

مَا اَلْحَاقَّةُ ①

وَمَا اَذْرٰكَ مَا اَلْحَاقَّةُ ①

كَذٰبْتَ تَمُوْدُ وَاَعَادُ بِالْقَارِعَةِ ①

فَاَمَّا تَمُوْدُ فَاَهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ ①

وَاَمَّا عَادُ فَاَهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَّوْصِرٍ
عَابِيَةٍ ①

سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَلَاثِيْنَ اَيَّامٍ ۝
خُسُوْماً فَتَرَى الْقُوَّةَ فِيْهَا صَّرَعٰ ۝
كَانَتْهُمْ اَعْجَازٌ يَّخْلِفُ خَاِِدِيَّةً ①

فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ ①

وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكُ
بِالْخَاطِئَةِ ①

<p>آسہ - (بیہ) تمہو آس پنشن پروردگار ہندس رسولہ ہنتر نافرمانی کر پڑتے۔ لہذا تم تہ رُذِلَ اللہ (تعالیٰ) ہن اکر تہنجد عذابہ سستی یس ہران گرتھان اوس (تہ سہما بکروٹھ اوس)۔</p>	<p>فَعَصُوا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَاخَذَهُمْ آخِذَةٌ رَّابِيَةٌ ﴿۱۱﴾</p>
<p>(توچہ ہند وقتہ) نیلہ آب تمدن ہوتن آسہ آسود توہی لاکھ تہ آکس ناو منز سوار کرک ہوتی۔ بیتہ زن آسوسہ (واقبہ) تہنجد ناظر اکھ نشان مٹھراون تہ یوزن واطر کن یوزن (تہ دل تھون سہ یاد)۔</p>	<p>إِنَّا لَمَطَّاءُ الْمَاءِ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ﴿۱۲﴾ لِيَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أذُنٌ وَأَعْيَةٌ ﴿۱۳﴾</p>
<p>اد سینلہ پوگہ منزی زورہ سلان اکی لہ پھو کہ دہہ پیہ۔</p>	<p>فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ تَفَجَّعْتُمْ وَاحِدَةٌ ﴿۱۴﴾</p>
<p>تہ زمین تہ بال بین پسنہ مقامہ پیٹھ تمھو تسنہ تہ تم گرتھن آکس تہ ہس منز ریزہ ریزہ۔</p>	<p>وَخُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ﴿۱۵﴾</p>
<p>اد تہ دہہ گرتھہ مقررہ پدمت واقعہ وزن بیہ آسمان پھٹ تہ سہ پیہ تمہ دہہ ہکل بود یوزن تہ۔</p>	<p>فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿۱۶﴾ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ﴿۱۷﴾</p>
<p>بیہ ملائک آس تمہ کین زندین پیٹھ تہ تمہ دہہ آس آکھ ملائک چاہتس پروردگار سند عرش تہنجد۔</p>	<p>وَالْمَلَائِكَةُ عَلَىٰ أَزْجَائِهَا، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ قَوْمَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمِينَةٌ ﴿۱۸﴾</p>
<p>تمہ دہہ بیہ توہی خدایس بر وٹھ کنبہ پیش کرنہ تہ کنبہ کتھ روزہ تہ تمہ ہنش کھٹھ (یسنہ تہنجد سورہ حساب کتاب بیہ تمہہ بر وٹھ کنبہ پیش کرنہ)۔</p>	<p>يَوْمَئِذٍ تُحَرِّصُونَ لِاتِّخَافٍ مِنْكُمْ خَافِيَةً ﴿۱۹﴾</p>
<p>اد بیس تسند اعمالنا ہندس دچھنس اتھس منز دہہ پیہ سہ ونہ شتمہ سستی باجین نہ ڈولہ میون اعمالنا ہ وچھو۔</p>	<p>فَأَمَّا مَنْ أَدْبَىٰ كِتَابَهُ بِبِئْسَ مَا يَقُولُ هَؤُلَاءِ أَقْرَبُ وَكَثِيبَةٌ ﴿۲۰﴾</p>
<p>میزہ آس پور پڑھ نہ ہر دھہ اکر دہہ ہن حساب۔</p>	<p>إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلْقٍ حِسَابِيَةٍ ﴿۲۱﴾</p>

لہ الحاقہ یعنی پڑی پڑھی پور سپدن واجبی پیشگوئی گرتھہ فتح کہہ کر دہہ پور۔
 تہ سورہ فاتحہ ہس منز چھ اللہ (تعالیٰ) ہندک ترور صفات بیان کرنہ آوتی تہ فتح کہہ کر دہہ
 گرتھن تم دکن تہ اللہ (تعالیٰ) سند جلال سپد جلو کر۔

فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴿٦٧﴾

لہذا یہ خوش ہے اور سچے سچے پریمیوں پر زندگی ہندسہ ۵۰۰۔

فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿٦٨﴾

بہ روزِ عالی شان باغِ اندر۔

قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿٦٩﴾

جنگو مہو آسن نینتہ۔

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا آسَلَفْتُمْ فِي
الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿٧٠﴾

(تو تم پیہ و نہہ نہ) پتر بس زمانس منزیم اہمال
توہہ بجا آئی ہوتی آسو۔ تمہن ہندس تنجیس منز

کھینو زبر پاطو (میو) پیہ چینیو (نارن ہند) آب،
نہ پکو منز شریو توہہ پر سچہ کاشہ چیز جان پاطو۔

تہہ تیس شخصس تہہ امانا تہہ ہندس کھورس اتھس
منز دن پیہ، سہ و نہہ کیا گوم! مینہ نے میرن

اگانامہ دئے پیہ ہے۔

تہہ مینہ لگہ ہے نہ پیہی ز میرن حساب کیاہ چہ؟

کاش! میرن موت نہہ ہے مینہ مو کلاو پتہ۔

وَلَمْ آذِرْ مَا حَسْبَ يَهُ ﴿٧١﴾

میان مان دیت نہ مینہ از کاشہ قاید۔

يَلِيَّتَهَا كَأَنَّ الْقَاضِيَةَ ﴿٧٢﴾

تہہ میان پیٹھولی روز سوران۔

مَا آغَى عَيْنِي مَا لَيْتَهُ ﴿٧٣﴾

(تہہ وقتہ و نہ خدا ٹیکن) یہ رٹیون تہہ اوس ترا دو

گردن طوق تالی۔

پتہ رٹیون جہنس منز برتہ۔

پتہ چاریون پہ اوس کاکلہ منز لوسہ انتہہ روس ریٹہ

آسہ۔

خُذْهَا فَخَلُّوهُ ﴿٧٤﴾

یہ اوس نہ کتا حکومتہ و اوس اللہ (تعالی) بس پتہ

ایمان انان۔

بیہ اوس نہ مسکین کھن کھیاوس کن (لوکن) مال

پھران۔

إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ﴿٧٥﴾

لہذا اڑ کر دہہ آسہ نہ کاشہ تہہ یار (تہہ کیا نہ

پسینہ ظلمو کئی چہہ تہہ لوکن ہنس ہمدردی راورا ہتہ۔

تہہ تہس میلہ نہ کھنڑ کھن چھوکن ہند چیلن وانہ روس۔

ثُمَّ الْجَحِيمِ صَلْوُهُ ﴿٧٦﴾

ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا

فَأَشْلُكُوهُ ﴿٧٧﴾

إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ﴿٧٨﴾

وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمَشْكِينِ ﴿٧٩﴾


فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُمْلًا حَمِيمٌ ﴿٨٠﴾

وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَشِيلِهِ ﴿٨١﴾

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُمْلًا حَمِيمٌ ﴿٨٢﴾

وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَشِيلِهِ ﴿٨٣﴾

وَرَأَيْتُ لَحْشَرَ عَلَى الْكُفْرَيْنِ ⑩
 بے (چھریۂ زمانہ زہ) کافرن ہندین دین مشر چھ
 قرآن حسرت پاد کران -
 وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ⑪
 بے امیک پزر چھ حق الیقین پاطھ نون -
 فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ⑫
 لہذا تر کر سبب سبب پرور دیکھ ہند نلو ستر
 تہنہ پانہنگی بیان -



سورة معارج : یہ سورہ چھ کئی تر بسم اللہ چھ اتمہ پندرہ تا جی آیہ بے چھس تر رکوع۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①
 بے چھس (اللہ تعالیٰ) سندا ناو ہتھ (پیران)
 یس حد رؤس کرم کرن وول (تر) پھیر ک پھیر ک
 رحم کرن وول چھ -
 سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ②
 پر ترهن وول چھ پترھان (منکرن پٹھ) کر بے بے
 اٹل عذاب -
 لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ③
 (یاد تھوور زہ) کافرن چھ تہ تہ نشہ بچاون وول
 کنہی (ادرکنز) و قس متعلق سوال کرن چھ بے فایدہ -
 مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ ④
 بے (عذاب) بے ذوالمعارج خدایہ سندر طرفہ -
 تَخْرِجُ الْمَلَائِكَةَ وَالرُّوحَ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ
 عام ملائک تر جبرائیل چھ تس (خدایس) کن تہ تس
 و قس کھان تیج مبقدر پانترہن ساس ورین
 برابر آسان چھہ -
 كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ آلفَ سَنَةٍ ⑤
 لہذا تر کر زبر پاطھ صبر -
 قَاضِيًا صَبْرًا جَمِيلًا ⑥
 یم لوکھ چھ سہ (دوہ) سہٹھا دور زمانہ -
 إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ⑦
 مگر اُسو چھن سہ سہٹھا نزدیک وچھان -
 وَتَرَاهُ قَرِيبًا ⑧
 تہ دوہ سہ سہ (تہنہ تر تر کر باعہ) آسمان
 و لکھو تہ آمتہ ترارکی پاطھ -
 يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَيْلِ ⑨

لہ یعنی درج ہتھ درج ترقی دہ و اس خدایہ سندر طرفہ -

- تو بال عترت من دونہ آمتہ سیرک پائو۔
 ۱۰ وَ تَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۱۰
- بہ تہ دوہہ کمر نہ کاتہہ دوست کاتہہ دوستس
 متعلق کاتہہ سوال۔
 ۱۱ وَلَا يَسْئَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ۱۱
- تہ کیا ز تہ دوہہ سیرہ پرتہہ شخصہہ سترہ حالت
 تہرس دوستس تاوتہ۔ مجرم سترہہ نہ اگر اڑی کہ
 دوہہ کہ ہذاہ (بنتہہ بچہہ) خاطرہس توہربان کرنی
 بین پرتہہ گبر۔
 ۱۲ وَمَنْ عَذَابٌ يُؤْتِيهِ اللَّهُ لِمَنْ يُنَاجِيهِ ۱۲
- تہ پرتہہ آستہہ تہ پرتہہ بوسے
 تہ پرتہہ تہسہہ لیس تس (وقتہہ وزہ) پناہ دولان اول۔
 ۱۳ وَ صَاحِبَتِهِ وَ أَخِيهِ ۱۳
- تہ دنیاہس منزہہ کینترہاچہہ (تہج توہربانی) تس
 سجات دیہ سہ
 بوڑو اسہ عذاب سترہہ خیر دہہ آستہہ چہہہ ، چہہہ ناہ
 ترہہہ مالک دول عذاب۔
 ۱۴ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ۱۴
- کلاس تام مسلہہ والن دول عذاب چہہہ۔
 لیس تس تہ ابن ناد دقتہ لیس تہرہہ چہرہہ تہرن
 سترہہ۔
 ۱۵ كَلَّا إِنَّهَا لَأَنفُسٌ يَخْتَضِعُ لَهَا ۱۵
- بہہ (تس تہ) لیس جمع کران روڈ تہ سوہ تہرہہ وقتہ
 کورن ذخیرہ۔
 ۱۶ نَزَّاعَةً لِّلشَّوْمِ ۱۶
- انسانس چہہہ فطرس منزہہ غار مستقل مزاری
 سترہہ تس کاتہہ تکلف واتہہ آتی چہہہ کابران
 ۱۷ تَدْعُوا مَنَآذِرًا يَدْعُونَ ۱۷
- تہ سترہہ تس کاتہہ فایرہ واتہہ سترہہ چہہہ سترہہ کرنی لاکان
 (تہ چہہہ سترہہان تہ کاتہہ گورہہ تس سترہہہ آسن)
 رالاکہہ نماز پرن والی۔
 ۱۸ وَ مَنَاقِبُ ۱۸
- یم پرتہہن نماز پرتہہ ہمیشہہ تاہم روزان چہہہ۔
 بہہ سترہہن مان سترہہہ گندہہہ چہہہ چہہہ آسان۔
 ۱۹ وَ مَنَاقِبُ ۱۹
- غریب سوالین ہند خاطرہہ بہہ تہندہہ خاطرہہ تہہہ سوال

وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ۖ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ عَذَابٍ ذَرْبِهِمْ
مُشْفِقُونَ ﴿۲۵﴾

کرتھ چھتہ ہیکان لہ
بیس یم لوکھ جزا سزا کہ ذکب تصدیق کران چھ۔
بیس یم لوکھ پسند پروردگار ہندس عدلیس کھوران چھ۔

إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَا مُنُونِ ﴿۲۶﴾
وَالَّذِينَ هُمْ لِأُذْوَجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿۲۷﴾
إِلَّا عَلَىٰ آذْوَانِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
فَأِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿۲۸﴾

(تہ حقیقت چھتہ بیس) نہ تہندس پروردگار ہند
عذاب ہشتہ چھتہ کانبہ پستہ زور و بچکتہ ہیکان -
بیس تم لوکھ تہ یم بنو سرتہ رچھتہ چھتہ تھوان،
پستہ آشنو تہ کنبہ و وراہ۔ تن پٹھ آہتہ کانبہ
علامت۔

فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْعَادُونَ ﴿۲۹﴾

وہ ذی گوو یم لوکھ اسہ بروٹھ نیرن۔ سترھان چھ
تم چھ حدوں وال۔

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿۳۰﴾
هَنُرًا مَّزَجًا كَرَانَ جِبْر -

(بیس پٹھ پاملر چھ تم لوکھ تہ عذاب ہشتہ بچکتہ) یم
پانس ہش تھوان آہن امانت تہ پستہ عدان
ہنر را چھ کران چھ۔

وَالَّذِينَ هُمْ بِسَهْوَةٍ قَائِمُونَ ﴿۳۱﴾
وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿۳۲﴾
أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ ﴿۳۳﴾

بیس یم پستہ گواہن پیٹھ قائم روزان چھ (تہ کانبہ
کھوتہ چھتہ چھتہ اپز شہاوتہ دروان)۔
بیس تم لوکھ تہ یم پستہ نماز را چھ کران چھ۔
تم پن جنتن منز عزتہ سان ٹھہ لونہ۔

فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ﴿۳۴﴾
عَنِ الیَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَازِبِينَ ﴿۳۵﴾
أَبْطَمَحَ كُلُّ أَمْرٍ إِنَّهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ
نَعِيمٍ ﴿۳۶﴾

اد کا فرن کیاہ چھ گوومت نہ تہ کن چھ دوان
یوان ترکہ سان کلہ ٹھدی رٹھ،
ڈھمو کتہ تہ کھوور کتہ تہ ہوور ہوور۔
کیا تم منز چھا پرتہ کانبہ سترھان نہ سہ گرتہ
نمتر ولس جنتن منز داہل کرنہ یم؟ (اد سہ
ذی یہک جنت استن یا آخر تک)۔

كَلَّا إِنَّآ خَلَقْنَاهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُونَ ﴿۳۷﴾
تترھ کتہ سپہ نہ ہرگز، اسہ چھ تم تہ چتر ہشتہ
پاڈ کر کتہ میس تم زمانان چھ۔

۱۔ یعنی بے زبان چاروازی جانوار تہ تم و معذرتہ تہ در سفید پوش یم سوال کنس مند چھان چھ۔
۲۔ یعنی پستہ اچھ کن، اس تہ شرگاہ چھ گم نہو ہشتہ رچھتہ تھوان۔

فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ ﴿۷۱﴾

او کہو بہ چھین (نیمہ قرآنک تازل کرن وول) مشرکک تہ مغربک پروردگار شہادتہ کہتہ پیش کران ز اسی چہ اتھ کتھ پیٹھ قادر۔
نہ یہ قوم تباہ کر تھ کردن اسی اکھ بیاکھ قوم پاؤ۔
تو کاشہہ ہیکہ نہ اسہ امر ارادہ ہتہ باز تھوتھ۔

عَلَىٰ أَنْ تُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ ۚ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿۷۲﴾

لہذا تہ تراو کھ تم میتھ دن تم روزن پیرس کرٹ کران تہ اسنس گندس مشر سپدن مبتلا تھ ولس تام نیلہ تم سہ دہہ وچن نیکی
تمن ستر و عد کر تہ یوان چہ۔


فَذَرَهُمْ يَخْضَوْنَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿۷۳﴾

نیمہ دوہہ تم قبر و مشر تہ نہ سپد تھ نمبر نرن تہ
و تاول سان آسن دولن دن تہ آسن تم خاص ستون
کن دولن گرتھان۔

يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُودِضُونَ ﴿۷۴﴾

تہنہر اچھ آسن شرمہ ستی نہتہ تہ تہنہن تھن
پیٹھ آسہ ذلت چھاوتھ۔ یہ چھ سہ دہہ نیکی
تمن ستر و عد کر تہ یوان چہ۔

كَاشِحَةً أَبْصَارُهُمْ تَرَاهَهُمْ ذُلًّا ۚ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿۷۵﴾



سورۃ نوح : یہ سورہ پچھ کئی تہ بسم اللہ پچھ چہ اتھ کتھ آہہ بیہ چھس تہ رکوع۔

(بہ چھس) اللہ (تعالیٰ) سنداو ہتھ اپران) بیس
حدہ دوس کرم کرن وول (تہ) پھیرک پھیرک رحم
کرن وول چہ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ

لہ احاص، یخوض، رہ ستر میتھ کر تھ آب گروٹ کرن۔
تہ بیستین اگر دنیاوی قیامت مراد نہ بیہ تہ امیک مطلب آسہ تریلہ دنیاوی عذاب
پہ تہ کھان مغر گتھ اکھ بیداری پاؤ بیٹھو نوح مگر کس موقس پیٹھ کھان ہوش
آیاو تہ تہ ہوت پتہن ستون لینے لیدن کن پناہ با پتھ گرتھن۔ نضب چھ تہن نشان
ذمان مگر کر دور ہندن مادان مشر آخری ہنہ ناوہہ موکھ نضب کر تہ یوان چہ۔

زَمِنُ قَوْمِ كُرْنِ تَمِه و تَمِه برونٹھ ہشیار نیلیر زن
جنن پیٹھ دگر دار عذاب تانزل سپد۔

تمز و نیاو (پننس تومس کن کتھ کران) اے میانہ
قوم! بیہ چھس توبہ کن اکھ تنہ وانہ کھوڑناون ول
(نبی) بِنْتِہ اَمْت۔

(تو توبہ چھسو ذان تر) صرف کرو اللہ (تعالے)
ہنترے عبادت بیہ پراو تندرے تقوی بیہ کرو سائیڈ
فرما میرا ری۔

سہ کر تہند کر گوناہ معاف تہ توبہ دیوہ اکس گڈیٹھ
وقس تام موہت تہ اگر توہر زماناں چھو (تیلہ تر کر
تو فکر) نہ یقینا (کتھ توچہ سبھی خاطر) نیلیر اللہ
(تعالے) ہنتر مقرر کر ہنتر کھر پیہ تہ سوہ ہیکہ نہ مانہ
پتھ۔

پتہ وون توم (اللہ تعالے ہس) اے میانہ پروردگار!
میںہ لوے پننس تومس رات کیت تہ ناد تہ وہ ہلہ
تہ لوے مکھ ناد۔

اماہ پلوز میانہ تبلیغہ کنی گو تم بیہ ہن تہ دور ترلہ۔
بیہ نیلیر میںہ جنن زانہہ تبلیغہ کور یٹھ نہ تم ماہنہ تہ
تہ کرکھ تن معاف۔ تمو تراو پسندہ اونگجہ پنسنہ
کنن منتر تہ پنتر پلو ویکھ (پنسنہ کن) تہ نکارس
پیٹھ کرکھ ڈاڈ۔ تہ شدیدہ تکبرس ہنترکھ کام۔

پتہ کور میںہ تن تہر پاٹھو فکر تارنہ پتہ پو شپہ
تبلیغ۔

پتہ کور میںہ تن تہر پاٹھو فکر تارنہ پتہ پو شپہ
تبلیغ تہ۔

پتہ وون میںہ تن پننس پروردگارس سُنکو مغفرت
سہ چھ سبھا بخش تار۔

اگر توہر توبہ کرو تہ سہ سوہ توبہ کن دردیہ رُود والن
دول ازہر۔

قَوْمِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ
الْيَوْمُ ①

قَالَ يَقُولُوا إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ①

أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا ①

يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى
أَجَلٍ مُّسَمًّى، إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا
يُؤَخَّرُ، لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ①

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ①

فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاءِي إِلَّا فِرَادًا ①

وَرَبِّي كَلَّمَآ دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا
أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا
ثِيَابَهُمْ وَآصَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا
اسْتِكْبَارًا ①

ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَادًا ①

ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ
إِسْرَارًا ①

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ①

يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ①

بہ کر مالو تہ اولاد سب تو تہند امداد۔ بیہ وہ پدلو تہند
خاطر بارغ تہ تہند خاطر کیناو ڈریاد۔

توہہر کیا چھو گومت ز اللہ (تعالے) ہس نش چھو تہ
حکایت و وسید تھاوان۔

خانکہ تہ چھو توہی سبھا ترتیبہ، قابل کر تک طاقت
دقتہ سوزی ہتہ۔

کیا توہہ چھو نا و چھمت ز اللہ (تعالے) ہن کتھ پاتھو
چھو شتھ آسمان پاد کر کر ہتہ؟ بیم (توہنہ کر خاطر)
اکہ اُکس مطابق چھ۔

بیہ چھ تہ زون بہن (آسمان) منز نوک باعت
بناو ہتہ۔ بیہ چھن آقاب (آسمان منز) اکہ تراکب کس
منزلت منز ہنومت۔

بیہ کر کر و توہر اللہ (تعالے) ہن زمینہ منز پاد
تہ وہ پدن پے بخش تو جان پاتھو۔
پتہ تی و سہ توہہر پھرتھ اُتھو منز تہ توہہر کڈی و
(تہ) امی منز۔

بیہ چھ اللہ (تعالے) ہن زمین سہتر بناو ہتہ۔

یہ زون توہی تہ چھن کھدہ ڈلہ و تن پیٹھ پکو۔

پتہ وون توہن ۱۰ سے میانہ پروردگار! تہو کر میانی
نا فرمائی تہ (میانہ بدل) چھتس پتہ دراہی نیمر مند
مال تہ اولاد بہن (رؤحانی) خسارس منز ہر راوان گود
بیہ کر کر (میانہ خلاف) بڑی بڑی تدبیر۔

بیہ رووی (پننس قوس) و نان ز یختہ توہی ہنوز مبعود
تراویکھ۔ نہ کر تھ وڈ تراون، نہ سوارع تراون تہ نہ

وَيُْمِدِّكُمْ بِأَمْوَالٍ وَأَبْنِيْنَ وَيَجْعَلْ
لَكُمْ جَنَّتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَرًا ﴿۷۱﴾

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلّٰهِ وَقَارًا ﴿۷۲﴾

وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴿۷۳﴾

أَلَمْ تَرَ وَكَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ
طَبَقًا ﴿۷۴﴾

وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ
الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿۷۵﴾

وَاللّٰهُ أَنْتَبَتْكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿۷۶﴾

ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿۷۷﴾

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿۷۸﴾

لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿۷۹﴾

قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا
مَنْ لَّمْ يَزِدْكَ مَالَهُ وَوَلَدَهُ إِلَّا خَسَارًا ﴿۸۰﴾

وَمَكَرُوا مَكْرًا كَبِيرًا ﴿۸۱﴾

وَقَالُوا لَا تَنْدُرُنَ إِلَهِتَكُمْ وَلَا تَنْدُرُنَّ وَدَا
وَلَا سُوا عَاهُ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿۸۲﴾

لہ یعنی ساری ہے کائیناتس منز چھ اکے توہن جاری تہ یہ چھ اللہ تعالیٰ ہندس اُکس
وہوس پیٹھ اکھ شہادت۔

لہ یعنی توہہر کوزو رتہ پاتھو نشو و نما عطا۔

یغوث تہ نہ یعوق تہ نہ نسرہ
بہ تم کڑی داریاہ لوگہ گمراہ تہ (اے خدایہ!) ظالم
ہر رادے تکہ صرف ناکامی منہز۔

تم آیہ پسنہو گوناہن ہند شامہ آیس چاٹناوتہ،
پتہ آیہ نارس منہز داؤخل کرنہ تہ اللہ (تعالیٰ) اس
ورائی نوب نہ ہتو پستہ شاہر کشتہ مددگار۔

بہ کوز نونن یہ دکانر اے میاہ پروردگار! کافر
منہز ہتھاؤن زہینہ پیٹھ اکھ گرتہ پتھ کمن۔

اگر تہ تہ تم پتھ پاٹھ تراوتہ تہ ہم کرن چاہن بین بند
تہ گمراہ تہ تم زہراون نہ بدکار تہ کفر کرن والہو
ورائی کاتہ اولاد۔

اے میاہ پروردگار! میںہ بخش تہ بہ میاہن مابن
ماہر بہ پتھ تس شخصس یس میاہن گرس منہز موبن
پتھ داؤخل سپدن چھ، بہ سارک ہن موبن مردن
تہ سارک ہن موبن زمانن تہ (کر تہ مغفرت) بہ سپدن
پتھ کوز زہراون صرف تہا ہی منہز ترقی دہن
مہ مابن کامیابی نصیب)۔


وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ
إِلَّا ضَلَالًا ①

وَمَا حَاطَتْ عَلَيْهِمُ أَعْرَافُهُمْ إِذْ دَخَلُوا نَارًا
فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا ②

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنْ
الْكُفْرِينَ دِيَارًا ③

إِنَّكَ إِنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا
يَلِدُوا إِلَّا فِاجِرًا كَفَّارًا ④

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ
بَيْتِي مُؤْمِنًا وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ
الْمُؤْمِنَاتِ، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ⑤



سورۃ جن - یہ سورہ چھ کئی تہ بسم اللہ ہتھ چھ اٹھ کتھ آہ بہ چھس زہر رکوع۔

(ہر چھس) اللہ (تعالیٰ) سندن او ہتھ (پران) یس
جہر دوس کرم کرن اول (تہ) پھیرک پھیرک رحم کرن
اول چھ۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

لہ اصل چہریم کہینہ ساکن تہ تہندن منہزن ہندک ناو - نوح ہندک توہن آسی یکن ناون پیٹھ
جرن بیون پوٹھ بناؤ ہتہ تہ تہندن تقلیدس منہز آسی کہہ تہ طایف کہو بیت پرستو تہ یکن
ناون پیٹھ پوٹھ بناؤ ہتہ۔

تو ان میں پھیلے وحی کرنے آہنتر نے یقیناً جنوں میں لے کر
جماڑے لڑ (قرآن) تو پتہ (نیلے تم پنس تومس کن
چھپرے تھے) پنس تومس وونکھ تر اسے لوز اکھ
عجب قرآن۔

سچے ہدایت کن نوان میں کوز اسے اوان تھے پیوٹھ
ایمان تہ اسی ٹھہراوان نہ میں تہ یور نہ میں پنس
پروردگار مند کاٹھہ شریک۔

تہ حق چھ بہ تر سون پروردگار چھ سبھا ٹھہر تہ
دول، میں نہ چھ تو زانہہ کاٹھہ آہنتر بناو منتر تہ
نہ میں کاٹھہ نیچو بنو مت۔

میں پتہ چھ حقیقت تر اسے منتر اسی کہیں بیوقوف
لوکھ اللہ (تعالے) ہس متعلق تم کتھ کران کم تہ
تو تہ ہن۔

تہ اسی اسی اتھ خیاس پیوٹھ تر انسان تہ جن ہیکن
تہ اللہ (تعالے) ہس متعلق ایز و تھ۔

میں بہ تہ چھ حقیقت تر انسانو منتر اسی کہیں لوکھ
تھو یکم جنو منتر کہن ترن نفرن پناہ منگان اسی۔ او
کتر تمیک تہ تہ دراوہ در او انسان ہندی جن
پناہ منگن اہر راوی جن کبرس منتر میں تہ۔

میں بے تنک اسی تم تہ تی گمانہ کران تھکن تو تہ
گمانہ کران چھو تر اللہ (تعالے) کر تہ میں تہ یور کاٹھہ
سبوت۔

میں اسے چھو آسمان یعنی آسمانی علم حاصل کرین کر
کوشش مگر اسے لوب میں مضبوط پہرہ و تہ تہا تہ

قُلْ أُذِجِي إِلَيَّ إِنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ
الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۝

بِهَدْيِي إِلَى الرُّشْدِ فَامْتَابَهُ وَلَكِنْ تَشْرِكُ
بِرَبِّنَا أَحَدًا ۝

وَأَنَّهُ تَعَلَّى جَدًّا رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً
وَلَا وَلَدًا ۝

وَأَنَّهُ كَانَ يَفْقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ
شَطَطًا ۝

وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نَقُولَ الْإِنسَ وَالْجِنُّ
عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۝

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ
بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ۝

وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَمِيعَتَّ
اللَّهُ أَحَدًا ۝

وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا مُلْأَتْ
حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهَبًا ۝

لہ جنوں میں چھ مراد مکس میں کہیں یہودی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بعثت
علم سید تہ قوم کہ میں آپ کھو کھو تہ تہ بوزکھ قرآن کریم۔

سے سونابو میں یوسہ رات کیت آسمان منتر دور تام اکہ پر زلہ ہندی ہندی یا مہو بوز تہ اوان
چھ میں تہ کاشرک یا مہو "سارکھ ڈلہ گزھن" وناں چھ۔ پتہ چھ مراد تر میں شخص قرآنی
تعلیم منتر غلط کتھ بناو فی میں اللہ تعالیٰ سوز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہندی ہندی
لوکن میں تہا میں ہندی سامان۔

ثاقبوسو تہ برتھ

تہ اسی اسی بروٹھ (آٹھ مندر آسمانی کھج) بوز تہ
خاطر بہان مگر وہ ذلیس کا ترزا (آسمانی کھج)
بوز پرخ کوشش کران چہ تہ سہ چہ افس (ہلاک کرن
و افس) تارکس پاس زباگر روتھ لبان۔

بیس اسی چہ زانان زامس بیہ وادی بند دوسری چہ
زہینہ مغز بسن والین لاکن بند خاطر کتہ عذابت
فاصلہ کرتہ آمت کتہ تہندہ خاطر چہ تہندی پروردگار
ہایت دیکھ فاصلہ کورمت۔

بیس اسی مندر چہ کیتہ نیک لوکھ تہ تہ کیتہ چہ آٹھ
جگت تہ۔ اسی اسی بیون بیون دن پیٹھ پکان۔

تہ اسی اسی پترہ مھوان ز اسی ہیکون تہ اللہ
دعاے) دنیاہس مندر نام کام بناوتھ تہ نہ ہیکون
سہ دو دو کرتھ عاجز کرتھ۔

بیس اسی سہ ہدایت کلمہ بوز، تھ پیٹھ اون ایمان
تہ یس شخص پینس پروردگار پیٹھ ایمان انان چہ
سہ نہ چہ کتہ تو تعاس کھوتان تہ نہ کتہ ظلمس۔

تہ اسی مندر چہ کیتہ فرمانبردار تہ کیتہ چہ ظالم تہ، تہ
یس کا ترزا فرمانبردار بنان چہ سہ چہ ہدایت طلبکار
آسان۔

بیس یم ظلم کران چہ سہ چہ جہنمک زان بنان۔

تہ (اسے بیغیر! میں اوس فاصلہ کرتھ مھومت ز)
اگر یم (ہلکو کافر) سائس وڈی سہ بس طریقس
پیٹھ تا یم سید بن تہ اسی چاہو ہوکھ تم کتہ آب۔

یہ زن امہ کہ دوسری اسی تہنہ آزمائش کریم تہ یس شخص
تہ پینس پروردگار بند ذکر بشہ رہے گردانی کران
چہ۔ سہ (خدا) چہ تس تہ عذاب چہ و تہ پیٹھ
پکانوان یس ہر اپنے چہ گزھان (تہ) تم چہ سوس

وَ اَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ۚ
فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْاَن يَجِدْ لَهُ شَهَابًا رَّصَدًا ﴿۱۱﴾

وَ اَنَّا لَا نَدْرِي اَشْرُّ اَرِيْدَ يَمَّنْ فِي
الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿۱۱﴾

وَ اَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذٰلِكَ ۚ
كُنَّا طَرَائِقَ قَدَرًا ﴿۱۱﴾

وَ اَنَّا ظَنَنَّا اَن لَّن نُّعْجِزَ اللّٰهَ فِي الْاَرْضِ ۚ
لَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا ﴿۱۱﴾

وَ اَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدٰى اٰمَنَّا بِهِ ۚ فَمَنْ
يُّؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَّلَا
رَهَقًا ﴿۱۱﴾

وَ اَنَّا مِنَّا الْقٰسِطُونَ وَمِنَّا الْقٰسِطُونَ ۚ
فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُوْلٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ﴿۱۱﴾

وَ اَمَّا الْقٰسِطُونَ ذٰكِنُوْا لِجَهَنَّمَ
حَطَبًا ﴿۱۱﴾

وَ اَن لَّوِ اسْتَقَامُوْا عَلَ الطَّرِيْقَةِ
لَا سَقِيْنَهُمْ مَّاءٌ غَدَقًا ﴿۱۱﴾

لِنَقْتَنَهُمْ فِيْهِ ۚ وَ مَنْ يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ
رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿۱۱﴾

وَمَنْ أَحْتَارَ كُرْهُشَ .

بہ اوس اسم پتہ نماصلہ کورمت نہ مسجد بن ہمیشہ اللہ (تعالیٰ) پتہ کے ملکیت ٹھہراوے۔ لہذا اسے لوگو! توہم مہ کرو بہن مشرتس وراہی ٹھانی آلو۔
بہ اسم چھہ بوزنہ یوان۔ نہ نیلہ اللہ (تعالیٰ) سند بند (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) تن آلو دہہ خاطر استہاد سپان چھہ تہ یم (مکہ واری) چھہ تنس پدھہ ہجوم کر تھہ پتہ پھولان۔

تہ وکھہ بہ تہ چھٹس صرف پٹنس پیرور دکاس ناد
دوان تہ کانہہ چھسن تہ تمہ سند شریک قرار دوان

بہ وکھہ پتہ نہ مینہ منر چھپنہ توہہ کتہ تہمک ضرر
واتنا وکھہ یا ہدایت وکھہ طاقت۔

(بلکہ یہ تہ) وکھہ (نزل اللہ تعالیٰ مینہ پیٹھ عذاب
نازل کر تہ) اللہ (تعالیٰ) بند عذاب ہنہ مینہ بچاون
دول اسم نہ کپنہ تہ سہ تراوتھ چھٹس نہ بہ کانہہ جایہ
پناہ بیان۔

مینا کلام تہ چھینہ صرف یہ نہ اللہ (تعالیٰ) سوز کتہ
تہ تہندہ پیغام واتنا تہ یم لوکھ اللہ (تعالیٰ) تہ تہنک
رسولہ سوز کتہ چھہ مانان بہن چھہ تہمک نار میلان۔
تہم گزہن تھہ مشرتس کال تام روزان۔

آ، نیلہ تہم وعدہ دہہ آمت عذاب وچھن تہ زانن
کس چھہ مددگار و لحاظ کمزور تہ کس چھہ گزہن
حسابہ کم۔

تہ وکھہ نہ مینہ چھپنہ پے نہ تہنہز وعدہ دہہ آمت گزہ
چھا نزدیک کہنہ اللہ (تعالیٰ) کر تہہ خاطر کانہہ
زیلوتہ مدت مقرر۔

وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ
أَحَدًا ۝۱۱

وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ
كَادُوا يُكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ۝۱۲

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ
أَحَدًا ۝۱۳

قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ۝۱۴

قُلْ إِنِّي لَنْ يُخَيِّرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ
أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۝۱۵

إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ، وَمَنْ يَعْصِ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا
أَبَدًا ۝۱۶


حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ
مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ۝۱۷

قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقْرَبُكَ مَا تُوعَدُونَ أَمْ
يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا ۝۱۸

لہ معنی اللیب ہس مشرتس پیکتہ نہ بعضہ اوقات چھہ لفظ حتیٰ زاید آسان تہ امیک چھپنہ
کانہہ معنی تہ آسان۔ صرف کلام پراونہ خاطر چھہ استعمال کر نہ یوان
تہ یعنی نیلہ تہم پٹن تہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سند پانہ واری مقابلہ کرن۔

غَابِكُ زَانِ دَوْل چھ سُسے تہ سُسے چھتہ پننس غابِس
 پٹھ سانسہ پوٹن پاپے دوان -
 چھتس رٹوس وراہی سسبس سُسے امہ کامہ ٹاٹھر پند کران
 چھ تہ اُمس رٹولہ سُسے رتہ چھ پے نہ راجھدر ٹاٹھک
 چھتس پتہ بروٹھ پکان آسان -
 تھتہ زن اللہ (تعالیٰ) زانہ نہ پکو رٹولو چھ پتس
 پروردگار سُسے پیغام لاکن تام واننومت تہ سُسے چھ
 پننس اماطس منتر تھوان یہ کیشہا تہن لیش چھ تہ
 پرچہ چیز چھ ٹنتر تھ تھوان -

عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ۝
 إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ
 مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَيَخْلُفُهُ رَاصِدًا ۝
 لَّيَعْلَمَنَّ أَنَّ قَدْ آتَلُوا رِسْلَتِ رَبِّهِمْ وَ
 أَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَخْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ
 عَدَا ۝



سورة مزمل: یہ سورہ چھ کئی تہ بسم اللہ تہ چھواتھ اکوہ آہے بیہ چھس نہ رکوع۔

(پہ چھس، اللہ (تعالیٰ) سُسے ناو پتہ پیران) یس حسہ
 رٹوس کرم کرن دول (تہ) پھپرک پھپرک رحم کرن
 دول چھ۔

ہے تراور ٹولتھ (خدا یہ بندس رمتس پیارن والہ!)۔
 راترن ڈتھو ڈتھو کرم عبادت (بیہ تہ اسہ یہ مراد چھ)
 نہ راتر ہند جاڈ حصہ آس تہ عبادتس منزگدراوان۔
 یعنی تمیک اوڑ یا اڑ کھوتہ تہ کرکینہ کم۔

یا ہر راو آتھ پٹھ کتہ بیہ ہنا۔ تہ قرآن آس قرابہ
 سان تہ مدد لینے پیران۔

اُس چھ تہ پٹھ اکھ تہ کلام ٹاٹھل کرن واول یس
 (ذمہ واری حساب) سہت گوب چھ۔

رات کیت ووتھن چھ نفس کھورن تہل متھتھ
 ٹرھنہ ٹاٹھ ساری وے کھوتہ کامیاب سنجہ تہ رات
 کیت ووتھن والہن چھ بڑیک تہ عادت گزھان لہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

يَا أَيُّهَا الْمُرْمِلُ ۝

قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

تَضَفَّهُ أَوْ انْقُضْ مِنْهُ قَلِيلًا ۝

أَوْ ذُكِّرْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۝

إِنَّا سَلَقْنَاكَ قَوْلًا تَقِيلاً ۝

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ

قِيلاً ۝


لہ یعنی رات کیت عبادت کرنہ سستی چھین تہننر روحانیت کابل گزھان تہ بہن چھ بڑیک

عادت گزھان۔

ثرتیہ پختے وہ ہلہ سبھا کھام آسان۔	إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ۝
بیسے پزیر نہ تو آس پستنس پروردگار ہندک صفات یاد کران بیہ آس تسمی سستی دل لاگان۔	وَإِذْ كُنَّا نَسْتَدْعُرُكَ وَتَجْتَنِبُ رَبَّنَا لَوْلَا إِفْرَاقٌ ۝
سہ چھ مشرف تک تہ پروردگار تہ مغرب تک تہ پروردگار تس ورا لی چھتہ کا شہر معبود۔ او کئی بناؤں سے پین کار ساز۔	رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ۝
بیسے بہ ہم (چاڑی مخالف) ونان چھ تھ پٹیہ کرمبر تہ شرافہ سان سپہ تمن نشہ الگ۔	وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَفْعُلُونَ وَاهْجُزْهُمْ هَجْرًا جَوِيلًا ۝
بیسے تراو میہ تہ نغمہ والی (ملدار) منکر کئی تری تہ تہ تہ تمن کیہتہ مہلت (تہ تہنتر وُلُو تباہی ہند و ماہ آس کران، یہ کرکہ ہم پانے تباہ)۔ اسہ نش چھتہ تہما فیکو زولانہ تہ جہنم۔	وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهْلَهُمْ قَبِيلًا ۝
بیسے چھ تہتہ کہیں تہ تیس ہمیس پیٹھ رو مان چھ تہ دگر دار عذاب تہ چھ۔	إِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالٌ وَجَحِيمًا ۝
بیسے دوہہ ترین تہ بال ترہن تہ بال ترہن تہتہن تہنک ہندک پاٹھو ہم پائی پانے رہہ وسان چھ۔ (تہ دوہہ بیہ سہ عذاب)۔	وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ۝
ہے کو! اسہ چھ توہہ کن کہ تہتہ رول سوزتہ تیس توہہ پیٹھ ہنکران چھ تہتہ پاٹھو چھ پاٹھو اسہ فرعون کن رسول سوزاد۔	يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ۝
اد فرعون کر یا یہ تس رسولہ ہنتر نافرمانی تہ اسہ رچاو سہ اکہ وبال دار عذابہ سستی۔	إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۝
بیسے وڈی تو تہ ہرگاہ توہہ تہ دوہہ ہنتر انکار کوز تیس جوان بڈ بناوان چھ تہ توہہ کتھ پاٹھو روزہ (عذابہ ہنتر) پتھ۔	فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَّيْلًا ۝
آسمان چھ پانے تہ عذابہ سستی پھٹن وول۔ یہ چھ تہ (یعنی تہلیہ سند) و عدیس پور سپد تہ روزہ۔	فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ يَتِيبًا ۝
یہ (قرآن) چھ کہ نفعیت لہذا تیس بیترہ سہ کر پستنس پروردگار کن ترہن واجزی و تہ اختیار	إِلِ السَّمَاءِ مُنْقَطِرًا بِهِ لَكَ آتٌ وَعَذَابٌ مَّفْعُولًا ۝
	إِنَّ هَذِهِ تَذْكَرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۝

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنُلُحِّي
 الْإِيلِ وَرَضَمَةً وَطَائِفَةً مِّنَ
 اللَّيْلِ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يَقْدَرُ اللَّيْلَ وَ
 النَّهَارَ عَلِيمٌ أَن لَّن تَحْصُوهُ فَتَأْت
 عَلَيْكُم مَّا قَدَرُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ
 عَلِيمٌ أَن سَيَكُونُ مِنْكُم مَّرْضَىٰ ۚ وَ
 أَخْرُوكَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ
 مِن فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَأَخْرُوكَ يُقَاتِلُونَ فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَاقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَ
 آتِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَأُوا
 اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا
 لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ
 خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ
 اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۰﴾

چون پروردگار چھ زمانہ نہ تہ مجھ پہنچے کہتے ہو
 باجگ ہتھ رات ہندو تریو منتر نہ جمع کھوتہ
 ہناکم نماز خاطر استاد روزانہ تہ کہتے کہتے
 نفس برابر تہ کہتے تریو میں حصس برابر یہ
 چھ اللہ (تعالے) رات تہ وہ میں لوگٹ بود
 کران روزانہ - خدایے چھ زمانہ نہ توہی ہیکو
 نہ پور پاطھ نماز ہندہ وقتک اندازہ کر تھہ - لہذا
 چھ تھو تہ بہ پیٹھ رحم کوڑمت ، او معکھ پیر نہ
 قرآنہ منتر - پتر ہن تہ بہ میسر گر تھو ، توہی او
 (رات کہتے) پران - اللہ (تعالے) چھ زمانہ نہ
 تہ بہ منتر آسن کہتے ہیارتہ کہتے تیرن تجارتہ
 خاطر سفرس پیٹھ تہ کہتے لاکھ تیرن اللہ (تعالے)
 سنتر وتہ جہاد کرنہ تہ - لہذا (اسی چھ ہندک
 وائی دنان نہ قرآنہ منتر - پتر ہن میسر گر تھو
 پران اسو بہ اسو نماز شرطو مطابق ادا کران
 بہ اسو زکوٰۃ دوان بہ اسو اللہ (تعالے)
 ہس راہنی کرنہ خاطر پستہ مالک اکھ رت
 طکر تہ تہتہ الگ کران - بہ یس رتر تہ توہی
 پستہن ترون ہند خاطر بروٹھ سوزو - توہی
 ہنو تہ اللہ (تعالے) ہس ہنش - سہ چھ جاد
 رت نتیجہ کڈن وول تہ جاد کھوتہ جاد اجہر
 دتہ وول - بہی سبھو اللہ (تعالے) ہس معفرت
 اللہ (تعالے) چھ سبھو معاف کرن وول (تہ)
 حد رؤس رحم کرن وول -



سورة مدثر، یہ سورہ چھ کئی تر بسم اللہ پچھ چھ اتھ سنو نزاہ آہیہ بیہ چھس نہ رکوع۔

يسموا لله الرّحمن الرّحيم ①	(بہ چھس) اللہ (تعالیٰ) سدا و پچھ (پران) بیس حدہ رؤس کرم کرن وول (تہ) چھپرک چھپرک رحم کرن وول چھ۔
يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ②	ہے وردی پیرتھ استاؤ سپدن والہ!
قُمْ فَأَنْذِرْ ③	تھوڑ ووتھ تہ دور دور گرتھ اتھ کڑکھ لاکھ ہتیار۔
وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ ④	بیہ کر پتھس پروردگار سندا بجر بیان۔
وَيُنَادِيكُ فَطَهِّرْ ⑤	بیہ پانس نش روزن واول لاکھ کڑکھ پاک۔
وَالرُّجْمَ فَاهْجُرْ ⑥	بیہ ترہن شرک نہنا وتھ۔
وَلَا تَمُنَّ بِثَنِّكَ يُرْ ⑦	تہ امر نیستہ مہر کرا حسان نہ امر بدلہ میلی تریہ جاہ۔
وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ⑧	بیہ (بزدلی سان تہ بلکہ) بین پروردگار خوش کرنہ خاطر ہنیہ صبرس کام۔
فَإِذَا نَهَرَ فِي النَّاقُورِ ⑨	ادہ سید پوکس چھو کہ دتہ بیہ۔
فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ⑩	تہ یہ آسہ اکھ کر لوتھ دوہ۔
عَلَى الْكُفْرَيْنِ عَسِيدٌ يُسِيرٌ ⑪	کافرن کیت آسہ نہ ہرگز سہل۔
ذَٰرِفٍ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ⑫	(اے رسول!) بہ تہ سہ بیس میہ بے یار و مددگار پاؤ کر یارو، تراؤکھ کئی نرن۔

لہ: مدثر لفظک عام معنی چھ کمل ورن وول مگر لو غتس مشرچھ ایکو بہ تہ معنی

(۱) گریس نش وودنہ روزن وول یعنی سوار گرتھ سنس تیار برتیار (اقرب)

(۲) پلو لاکھ تیار سپدن وول مگر دثار چھ تھ پوس ومان بیس کرتیہ بیتر پچھ لاکھ

یوان چھ۔

(۳) فوجی وردی منز استاؤ۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلمس چھ مدثر ونہ امت یعنی خدایہ سندس حکمس پچھ تیار برتیار۔

بیہ میاں اوس تہنہ خاطر واریاہ مال یاد کورمت۔
بیہ تہنہ اولاد تہ یکم پیرچہ ورتس پتہ بروٹھ
پھیران اسی۔

بیہ اسی میہ تہنہ خاطر واریاہ ترقین ہندک سامانہ یاد
کرو بتی۔

اد توتہ چہ سہ طبع فقوان نہ بہ دہتس اسہ کھوتہ تر جاہ۔
یوزو! سہ اوس میاں آین ہند دشمن۔

لہذا بہ تر کرن سہ اوس ہتس ہدایس مشراؤر یس
پیرچہ ورت ہران روتہ۔

تو کوز (میاں آہ یوزتہ ہن پیٹھ) غور بیہ کونن اندازہ۔
سہ سپدن ہلک، تہو کیتھ غلط اندازہ کوز۔

اسی چہ بیہ زمان، سہ سپدن ہلک، تہو کیتھ غلط
اندازہ کوز۔

پتہ کوز تہو ڈبار سوچ رہجار۔

پتہ لڑ تہو درہ تہ میتھ تکر وون۔

پتہ پھیران تہر تہ کیرس ہمیزن کام۔

تہ وون نہ یہ تہ چہ اکھ اپز یس نہ تہو ہن
ہنش بہل کرنہ چہ آمت۔

یہ ہے چہ اکھ انسانی کلام۔

اسی دہون یہ (شخص) سقرس مشراؤر تہ۔

تہ تریہ کیا پے مجھے نہ سقرس چیز چہ؟

سہ (دوزخ) چھنہ کیتھ تہ چنہ کن روزہ دن
تہ نہ چہ مذاک کانہ تہ طریقہ تراوان۔

سہ چہ مسلہ زالان۔

تہہ پیٹھ چہ کتوہ داروہ مقرر۔

وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ﴿۱۰﴾

وَبَيْنَيْنِ شُهُودًا ﴿۱۱﴾

وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ﴿۱۲﴾

ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ﴿۱۳﴾

كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِأَيْعُنَا عَيْنِدًا ﴿۱۴﴾

سَاءَ ذَهَبًا صَعُودًا ﴿۱۵﴾

إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿۱۶﴾

فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿۱۷﴾

ثُمَّ قِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿۱۸﴾

ثُمَّ نَظَرَ ﴿۱۹﴾

ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿۲۰﴾

ثُمَّ آدَبَرَأَسْتَكْبَرَ ﴿۲۱﴾

فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَى ﴿۲۲﴾

إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿۲۳﴾

سَأُصَلِّيهِ سَقَرَ ﴿۲۴﴾

وَمَا أَذْرِكَ مَا سَقَرُ ﴿۲۵﴾

لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ﴿۲۶﴾

لَوْ أَحَاطَ لِلْبَشَرِ ﴿۲۷﴾

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿۲۸﴾

تہ جب تک داروغہ چھو اسے ملا کیجو منتر سے اوت مقرر
 کر کے ہوتے تہ ہنتر گرینڈ چھینے صرف کافرن ہنتر
 آرمایشہ ہندو رنگہ وئی ہنتر۔ تہ امیک پتچہ نیبر
 یہ نہ اہل کتابن بیسہ پڑھ تہ مؤمن ہرن اپانس منتر
 بیہ نہ کرن اہل کتاب شک تہ نہ کرن مؤمن شیبہ
 نتیجہ نیبر یہ نہ یمن ہندن دن منتر بیبارک چھینے تم
 تہ بیہ کافروں نہ یہ کہتہ ونتر منتر اللہ (تعالے)،
 سند کیا منشار چھ؟ یتھے یا طحی اللہ (تعالے) بیس
 متعلق ارادہ کران چھ تس چھ گراہ گننراوان۔ تہ
 بیس متعلق ارادہ کران چھ تس چھ ہدایت روان، تہ
 چائیس پروردگار ہندو لشکر چھینے تس ورانی کھنتر زمانہ
 تہ یہ (قرآن) چھ انسانہ ہند خاطر صرف اکھ نصیحت۔
 بوزو! اسی چین زون شہادتہ کہتہ پیش کران۔

بیہ رات بییلہ سو تھر پھران چھینے۔

بیہ صبح بییلہ سہ گاہ تراوان چھ۔

نہ پہ (ساعت بیلیک ذکر کرتہ آمت چھ) چھ
 سپٹھا بڑو بڑو چیزو منتر اکھ۔
 انسانس چھ کھوتر ناوان دول۔

تس (انسانس) بیس توہر منتر بیشرہان چھ نہ کانہہ
 بڑھ کی کر ہے یوہہ بڑو ٹھوس عالمس منتر تس
 بکار پیہ ہے یا کہتہ ہد پہ ہنتر، بیلیک تس
 عادت پیومت آسہ، چھ روزہ ہے (تہ تمہ کہ
 کرتہ ہنتر لبہ ہے نہات)۔

پر چھ زون یہ کینترھا کورمت چھ تھہ بدل
 چھ سہ (زو) گرو۔

ڈچھنہ طرفہ والہو لاکو درانی۔

نہ ہم آس جستن منتر سہ سوال کران۔

مجرمن۔

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً سَاءَ مَا
 جَعَلْنَا عِدَّةَ لَهُمْ إِلَّا فَتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا ۗ
 لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيُذَادَ
 الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَزَاتَبَ الَّذِينَ
 أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَلَا يَقُولِ
 الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ
 مَاذَا آرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۗ كَذَلِكَ يُضِلُّ
 اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۗ وَمَا
 يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۗ وَمَا هِيَ إِلَّا
 ذِكْرَىٰ لِّلْبَشَرِ ﴿۲۹﴾

كَلَّا وَالْقَمَرِ ﴿۲۹﴾

وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ ﴿۳۰﴾

وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ﴿۳۱﴾

إِنَّهَا لَا تَخَذِي الْكُبْرَىٰ ﴿۳۲﴾

تَذِيرًا لِّلْبَشَرِ ﴿۳۳﴾

لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَتَّقِدَّمَ ۗ أَذِيَّتًا حَرِيًّا ﴿۳۴﴾


كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿۳۵﴾

إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ﴿۳۶﴾

فِي جَنَّتٍ ثَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴿۳۷﴾

عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿۳۸﴾

- مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ۝
 قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصَلِينَ ۝
 وَلَمْ نَكُ نَطْعُهُ الْمَشْكِينَ ۝
 وَكُنَّا نَحْوُ مَعَ الْخَائِضِينَ ۝
 وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِتُؤْمُرِ الدِّينِ ۝
 حَتَّى آتَيْنَا الْيَقِينَ ۝
 فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ۝
 فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُخْرِضِينَ ۝
 كَانَتْهُمْ حُمْرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ ۝
 فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ۝
 بَلْ يَرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُتُوفَىٰ
 صُحُفًا مُّتَشْرَبَةً ۝
 كَلَّا بَلْ لَا يَخْفُونَ الْأَخْرَةَ ۝
 كَلَّا إِنَّهُ تَذَكُّرَةٌ ۝
 فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ۝
 وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ
 أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَعْرِفَةِ ۝
- نہ تو ہی کڑ چہزن نی تو جہنس کن ۶
 تم دن جواب، اسی اسی نہ نماز پران۔
 بیہ اسی نہ مسکن کھن کیا وان۔
 بیہ بے حکمت کتہہ کرن والہن ستی رتہہ اسی بے حکمت
 کتہہ کران۔
 بیہ اسی اسی جزا سزا کس دوہس انکار کران۔
 یزت تام نہ اسر آو موت۔
 لہذا یقین لاکن ویہ نہ سفارش کرن والہن ہنز سفارش
 کا شہد ناید۔
 یمن لاکن کیا چہ گو مت؟ نہ نفیہ ہنہ چہ ہنہ
 بتہ پھران، نہ
 زن چہ تہم کھوڑی ہنہ خر۔
 ہم سہہ ہوجتہ ثلہ ہنہ آس۔
 حقیقت چہنیہ نہ نہ یو منہز چہ ہرتہ کہ نفر ہنہ ہنہ
 نہ تہنہس اتہس منہ گنہہ ہنہ ہنہ کتاب دنہ ہنہ۔
 یہ وہ مید چہنہ پلہ گنہن واجتہ بلکہ ہنہ چہ یہ نہ ہم
 چہنہ اترس کھوڑن۔
 بوزو! یہ کلام چہ کہ نفیہت۔
 لہذا یس ہنہہ امر ہنہس رنہ نفیہت۔
 تہمکر لاکہ رنہ نہ زانہہ اللہ تعالیٰ) ہنہ ارادہ و رانی
 نفیہت۔ (تو یہ چہنہ کا شہد نامکن کتہہ تہ ہکیا نہ) سہ
 اللہ تعالیٰ) چہ تقویٰ تہ دوان تہ بخشش تہ چہ دوان۔



سورة قیامت، یہ سورہ چھ کئی تہ بسم اللہ چھ آیتھ آگیا جیسے یہ آیت بیہ چھس تہ رکوع۔

يسْمُو اللّٰهَ الرَّحْمٰنَ الرَّحِیْمَ ①	(یہ چھس، اللہ تعالیٰ) سُنْدَاو ہتھ (پرلان) ایس حد
لَا اُقِیْمُ یَوْمَ الْقِیْمَةِ ②	رُؤُسُ کَرَمِ کَرَنِ دَوْلِ (تہ) پھیر پھیر کر م کرَنِ دَوْلِ چھ۔
وَلَا اُقِیْمُ بِالنَّفْسِ اللّٰوَامَةِ ③	یہ چھس قیامتہ کہ وقتک قسم تاوان (ایسے سہ چھس شہادتہ
اَیَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَّجْمَعَهُ عِظَامَهُ ④	کہہ پیش کران)۔
بَلٰی قَادِرِیْنَ عَلٰی اَنْ نُّسَوِّیَ بَنَاتَهُ ⑤	بیہ چھس یہ نفس لوامہ تہ شہادتہ کہہ پیش کران۔
بَلٰی یُرِیْدُ الْاِنْسَانُ لَیْفُجِّرَ اَمَامَهُ ⑥	کیا انسان چھا خیال کران نہ اسی کرو تہ تشر اڑو جیہ
یَسْئَلُ اَیَّانَ یَوْمَ الْقِیْمَةِ ⑦	جمع؟
فَاِذَا بَرِقَ الْبَصْرُ ⑧	نہ نہ اسی تہ چھ آیتھ بیٹھہ قادر زہ تسندی اؤنکو گنتام
وَحَسَفَ الْقَمْرُ ⑨	بنا و لو سہر۔
وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمْرُ ⑩	پتر چھ یہ تہ انسان چھ بیٹھہ ہاں نہ سہ روزہ آیتہ
یَقُولُ الْاِنْسَانُ یَوْمَئِذٍ اَیْنَ الْمَقَرُّ ⑪	تہ بدکاری منز آؤر۔
كَلَّا لَا وَوَرَرٌ ⑫	سہ چھ پترہاں (روزان) نہ قیامتک دوہ کر آسہ؟
اِلٰی رَبِّكَ یَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ⑬	اؤ بیٹھہ اچھہ در گھن۔
یَنْتَبِهُوا الْاِنْسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَاٰخَرَ ⑭	تہ ترؤنہ گہہ گرہن۔
	تہ آفتاب تہ زون دوہوے بین جمع کر تہ بلہ
	تہ وقتہ ونہ انسان، وہ ذی کوت ہنکے یہ تہ لٹھ؛
	لوزو! اؤ چھنہ عذابہ نیشہ بچنہ کھنہو جاے۔
	اما پؤد تہہ دوہہ آسہ چائس پر در دگارس نشی بھکا تہ۔
	تہہ دوہہ پیسہ الناس خبر دہہ بہن کاہن، ہنز
	تہہ ہم نش کر تہہ پزہن نہ مگر تہہ کر بہن کاہن

لہ یتھ آیس منز چھ تہہ پشگلویہ کن اشارہ یہ بہ مہدی علیہ السلام متعلق حدیثس
مفہ بیان سپر ہنز چھینہ نہ تہہ ہا طر گہہ ماہ رمضان منز زونہ تہ آفتابس گرہن
یہ پشگلوی چھینہ ۱۳۵ھ مطابق ۱۸۹۲ء کس رمضان منز پؤر سپر ہنز۔

ہنرتہ ہم تہس کرنہ پیزہن مگر تمہو کرنہ۔
پیزہ چھہ یہ نہ انسان چھہ پینس نفس زبر پاٹھو
دُجھان (تہ زنان چھہ) نہ تہنر حینتیت کیا چھہ!
اِدسہ تر بانی سستی کتا تہ صفائی پیش کرکرتن۔

(اے نبی!) تہ مہ دِ پستہ زنیو حرکت مہ چھہ نہ
یہ قرآن گوتہ اول اول تازل سڈن۔
ایک جمع کرن تہ چھہ سانہ ذہم تہ ذنی یہس بوز
نازن تہ (چھہ سانہ مٹی)۔

لہذا نیلہ اسی یہ پران آسون تہ سانہ پیزہ تہ آس
تہ تہ پران۔

تہ یہ چھہ سون فرس نہ اسی بوز نادون یہ (لوکن
چانہ زنیو) واشس گڑھ۔
بوزو! توہی چھو اول اول میلن واجز نعمت پیندکران۔

تہ پیتہ پیتہ واجز نعمت چھوون تہ مجراہ گڈان۔

تمہ دوہہ آس کینہ لاکھ اَسہ ورنہ مہنہ نموش تہ
خوشحال۔

پینس خدایس کن آس نظر تھاوتہ۔

بیسہ کینہ لاکھ آس تمہ دوہہ (بومہ سستی) مہنہ
تہ کر اوتہ۔

تہ کیا نہ تم کرن خیال نہ تہن سستی یہیہ سہ سلوک
کرنہ یہیہ سستی کہہ کر تمہر کندی تام چھہن۔
بوزو! سیند ترو، برس پیٹھ واتہ۔

تہ ورنہ یہیہ نہ از چھا کانہہ یس دم دعا کرہ
چھو کہ دتہ اُمس مہیک کہ۔

بیسہ پرچھہ اکھ کر پڑھ نہ وو ذی چھہ جدائی ہنر گڑ
آپڑ۔

بَلْ اَلَدُّ نَاسًا عَلٰی نَفْسِهٖ بِصِيْرَةٍ ۝۱۱

وَلَوْ اَلْفٌ مَّكَذِبَرَهٗ ۝۱۲

لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَتَّعَلَ بِهٖ ۝۱۳

اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْآنَهٗ ۝۱۴

فَاِذَا قَرَأَهٗ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهٗ ۝۱۵

ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ ۝۱۶

كَذٰلِكَ يُجَيِّبُן الْعٰجِلَهٗ ۝۱۷

وَتَذَرُوْنَ الْاٰخِرَهٗ ۝۱۸

وَجُوْهُ يَوْمَئِذٍ نَّٰصِرَهٗ ۝۱۹

اِلٰى رِبِّهَا نٰظِرَهٗ ۝۲۰

وَجُوْهُ يَوْمَئِذٍ بٰسِرَهٗ ۝۲۱

تَنْظُنُّ اَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَهٗ ۝۲۲

كَلَّا اِذَا بَلَغَتِ الشَّرَافِی ۝۲۳

وَقِيْلَ مِنْ رَاقٍ ۝۲۴

وَهَلْ اِنَّهٗ الْفِرَاقُ ۝۲۵

یہ یعنی قرآن کریم کہ اول اول تازل سڈنک دعا پر آس کران۔ یہ سپد خدائی تقدیر مطابق تازل

تو زُو در گنہ کنی پیسہ اکھ گروہ زبیس گروہ زولہ۔ تیر دو ہوا آسہ چائیں پروردگار کے گزشتہ۔	وَأَلْتَفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿۲۹﴾ إِلَى رِجْلِكَ يَوْمَئِذٍ بِالْمَسَاقِ ﴿۳۰﴾
ادو کیا سپد تر تیرو شمعفسن نہ دیت صدقہ، تہ نہ پیرن نماز۔	فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى ﴿۳۱﴾
مبکہ روڈ (پزرد) اپزاولان تہ (امر لہنتہ) پھرن تھر۔ تہ امہ پتہ شرمندہ گزشتہ بدل گووہ پنتہن گرواہن کرن تر صو کھ باوان۔	وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿۳۲﴾ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ آهْلِهِ يَتَمَطَّى ﴿۳۳﴾
اے شمعفسن! تر تیر پیٹھ آسن ہاکتس پیٹھ ہاکت۔ اگر چیر بیہ زمان تر تیر پیٹھ آسن ہاکتس پیٹھ ہاکت۔	أَوَّلَ لَكَ فَأَوَّلِي ﴿۳۴﴾ ثُمَّ أَوَّلَ لَكَ فَأَوَّلِي ﴿۳۵﴾
کیا انسان چھا خیال کران نہ سہ بیہ (لاکر رستہ) سہ تراونہ؟	أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ﴿۳۶﴾
کیا سہ اوس نا اکر وقتہ اکھ آہ پھنور بیس پنتہ مٹاسب حال جاپہ منتر تراونہ آو؟ پتہ بنوو سہ اکھ لار تہ گزشتہ دول ماز لو تھر، پتہ بنوو سہ تھر (خدایان) بیس شکلہ منتر تہ انہر کورن سہ مکمل۔	أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ﴿۳۷﴾ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَىٰ ﴿۳۸﴾
ادو بتوون سہ جوہر جوہر کر تھ۔ یعنی نرتہ مادہ تہر شکلہ منتر۔	وَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الْأُنثَىٰ ﴿۳۹﴾
کیا یہ (خدا) چھتا اتھ کتھ پیٹھ۔ قادر تر سہ کر موردن بیہ زہد؟	أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يُخَيِّبَ الْمُؤْتَىٰ ﴿۴۰﴾

سُورَةُ الدَّهْرِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مَعَ السَّلَاةِ اثْنَتَانِ وَثَلَاثُونَ آيَةً وَرُكُوعَانِ

سُورَةُ دَهْر: يه سورہ چھ کئی ترسم اللہ ہیچہ چھ اٹھ دو تیرہ آیت بیچس ہر رکوع۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①	(بر چھس، اللہ تعالیٰ) سُنْد نَاو ہیچہ (پران)
هَلْ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ	یَسْ جہ رؤس کرم کرن وول (تہ) چھیرک پیچیرک
لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكَورًا ②	رغم کرن وول چھ۔
إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ	کیا انسان پیٹھ آیتے ناہ سہ گڑ بیبارہ سہ بکل
أَمْشَاجٍ ۖ بَلِّغْنَا لَهُ حَمَلَهُ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا	بے حقیقت اوس تہ تسنہر کامہ اوس تہ کہتہ یاد کران؟
بَصِيرًا ③	اسہ چھ انسان کہ تہچہ ٹھہر لہتہ یاد کرمت ہیچہ
إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا	منہر بیون بیون قوت رلہتہ اسی ہیچہ زن اسی
كَفُورًا ④	تسنہر آز نایش کرو۔ پتہ بیو سہ اسہ سہٹھاہ بوزن
إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلْسِلًا وَأَعْلًا	وول (تہ) سہٹھاہ وچین وول۔
وَسَعِيرًا ⑤	اسہ ٹاوس تسنہر حالہ مطابق وچہ ادر سہ شکرانہ
إِنَّ الْإِنْبِرَاءَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ	کری تن یا نافرمان گڑھی تن۔
مِرْجَاهَا كَأْفُورًا ⑥	اسہ چھ کافرن بندہ باچہ ٹاٹھہ تہ طوق تہ جہنم
عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَ	تیار کرچہ تھادو دتہ۔
نَهَا تَفْجِيرًا ⑦	خدا یہ ہندی نیک بندہ چین تھو پیالہ بین منہر
يُوقُونَ بِاللَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ	کافورج خاصیت رلاو تہ آہتر آسہ یہ
شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ⑧	یہ (کافور) آسہ کھ ناگ نیبہ منہر اللہ تعالیٰ
وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ	ہندی بندہ چین۔ تم چھ کواستش کرچہ سڑ ناگ
مَشْكِينًا	ترہن پھاوٹھ کڈان۔
	تم چھ پیڑ نندیر (نیان) پوڑ ادا کران تہ تمہ وہ ہر ہتہ
	چھ کھوڑان نیبہ دہرچ نکا ہرگی ساری ہے دنیہیں
	منہر تھیلے ہتر آسہ۔
	یہ چھ تسنہر (یعنی خدا یہ بندہ) لوہ مسکینس۔ بیچس

لہ کافورج خاصیت چھینہ پہ زہ یہ چھ جوش بہتاوان تہ زہرک تریاق آسان۔ جنگمک یہ ناگ
تہ کر گم منہن ہندی زہر دوز تہ سیکھ جذبات ترہبہ ٹھنڈ کرچہ۔

وَيَنْتِيْمًا وَاَسِيْرًا ①

تہ فائس کھین کھیاوان۔

اِنَّمَا نَطَعُكُمْ لِيُوَجِّهَ اللهُ لَكُمْ نُرِيْدُ
مِنْكُمْ جَزَاءً وَّلَا شُكُوْرًا ②

بہ چھہ زمان نہ ہے لوگو! اسی چھہ تو بہ صرف
اللہ (تعالیٰ) ستر رضامندی خاطر کھین کھیاوان
نہ چھہ اسی تو بہ کا نہ بدلہ منگان تہ نہ چھہ تہند
شکرانہ بہ ترهان۔

اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا
قَطَطٍ ③

اسہ چھہ پینس رہہ ہند تمہ ڈک خوف، نیلہ لوکن
بہہ سستی بہتہ تر کرا دتہ آسن تہ ڈکن آسکھ گینہ
کھتر مہتر۔

فَوَقَّعَهُمُ اللهُ شَرًّا ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَا
لَقَهُمْ نَصْرَةٌ وَّسُرُوْرًا ④

ہند اللہ (تعالیٰ) بجاو جن تمہ ڈکہ شرہ شہ تہ تن
بخشہ تر تازگی تہ خوشی۔

وَجَزَّئِهِمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَّحَرِيْرًا ⑤

بہہ کرہ تن تہند نیکن پیٹہ قائم آسہ مکھ (دزنہ
خاطر) باغ تہ (تال لاکہ خاطر) ریشم عطا۔

مُتَّكِعِيْنَ فِيْهَا عَلَ الْاَرَاْكِ يَمْشُوْنَ
فِيْهَا سُمْسًا وَّلَا زَمَهْرِيْرًا ⑥

تم آسن تمہ باغس منز پر دم دار تخت پوش پیٹہ
تکلیہ دی دی بہتہ تہ نہ وچین تم تمہ باغس منز
شدید تر تہ نہ تر تہ گتہ ہونی تر۔

وَاٰنِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَاذَلَّلَتْ
فُطُوْرَهَا تَذَلِيْلًا ⑦

تمہ باگو شہل آسن تن پیٹہ بہتہ تہ تک میوہ
تن نزدیک اسنہ۔

وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَا
اَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرًا ⑧

بہہ چاند ہندک باوہ تہ ہی نابہ تہ صریہ بہتہ بہہ
شہو آسن بین وار وار تن پیش کرنہ۔

قَوَارِيْرًا مِّنْ فِضَّةٍ قَدَّرُودَهَا تَقْدِيْرًا ⑨

بہہ پیٹہ پاٹھو شہو بوڑنہ بہہ اول باوہ آسن ترکہ
رہ بہ ہندک بہہ خدایہ ہندک ٹا یک پور پور
کارک مڑی سان بناون دتہ نہ نہ بہن شہو
پاٹھو پورن

وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَاسًا كَانَ مِرْاَجًا
رَنَحِيْبًا ⑩

بہہ (موبن) بہہ تن جنتن منز تہو گلاو سستی
تریش چاونہ بین منز شوٹہ ملتاوتہ آسہ۔

۱۔ یہ تہ چھہ تمہیل کلام شوٹہ چھہ گرم تا شہر آسان تہ یہ چھہ حرات مغربی یاد کران۔ یعنی جنتن
منز بہہ موبن بہتہ علاج کرنہ تر بہم گرتن روعانی لحاظ طاقتور تہ صحت مند۔

عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ﴿۱۱﴾

(بیر، تھتہ (جنس) منتر آسیر سبیل ناوک تہ
اکھ تاگ (بیبیر منتر مؤمن چین)۔

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ۚ
إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّثْنُورًا ﴿۱۲﴾

بیر روزن بتن نیش ہمیشہ خدمت کرن اول نو جوان
گمرا کر حاضر سپان۔ بیبلہ تہ تم خادم و چھبکھ
تہ بتن بند جتہ گرتھی گمانہ نہ تم چھ چھکرتہ
آبتو موختہ پھل۔

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَجِيمًا وَ مَلَكًا
كَبِيرًا ﴿۱۳﴾

بیر بیبلہ تہ تم و چھبکھ تہ تہنتر جایہ پیٹھ بی
اکھ سپٹا بڑ نعمت تہ بڑ بادشاہی، بوز تہ۔

عَلَيْهِمْ نِيَابٌ سُنْدُسٌ خُضْرٌ وَ اسْتَبْرَقٌ ز
وَ حُلُوفٌ أَسْوَدٌ مِنْ فِضَّةٍ ۚ وَ سَقَمُهُمْ
رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿۱۴﴾

بتن آسن زاوک لہ سپز پانکی پلو لاگتھ بیر پتھ
پانکو تانکو۔ بیر پن، بتن روہ، ہندی کرکی
لوگہ۔ بیر چار بتن تہند پروردگار پاک کرن اول
شراب۔

إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَ كَانَ
سَعْيَكُمْ مَشْكُورًا ﴿۱۵﴾

(بیر بیبکھ و سنہ نہ اے جنبتو!) یہ جزا چھ
تہند خاطر مقرر تہ تہنتر کوشش پھیر عزتہ چھ
نظر و چھنہ آہنتر۔

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ
تَنْزِيلًا ﴿۱۶﴾

اسہ چھ تریہ پیٹھ قرآن ہنہ بہتہ نازل کورمت۔

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَ لَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا
أَوْ كَفُورًا ﴿۱۷﴾

او موکھ روز تہ پینس پروردگار ہندس حکمس پیٹھ
ڈاڈ کرگتھ تاہم۔ بیر کرکی نہ نہ اسانو منتر گوہ نہ
کار تہ ناشکری کرن اول سپز فرمانبرداری۔

وَ اذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَ اصْبِلًا ﴿۱۸﴾

بیر آس پینس پروردگار سند ذکر مجھ تہ شان کران۔

وَ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَ سَبِّحْهُ لَيْلًا
طَوِيلًا ﴿۱۹﴾

بیر آس رات کبیت تہ تس بروٹھ کتہ سبجہ کران تہ
روتہ آس تریہ تام تہنتر تسبیح کران۔

إِنَّ هَؤُلَاءِ يُجِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَ يَذَرُونَ
وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴿۲۰﴾


بیم لوکھ چھ و ذی بہک انعام پسند کران تہ پانس پتھ
کن چھ اکھ سپٹا بروٹھ دہ تڑوتھ گرتھان۔

نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَ شَدَدْنَا آسْرَهُمْ ۚ وَ
إِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا ﴿۲۱﴾

اسی چھ تم پاڈ کرکی تہ تہند کر جوہ چھ مضبوط
بتاؤ کرکی تہ بیبلہ اسی نیشہو بتن ہوہ بیر خلق
پاڈ کرگتھ کرکھ تم تہنتر جایہ استاد۔

إِنَّ هَذِهِ تَذَكُّرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ
إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿۱﴾
وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿۲﴾
يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَ
الظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿۳﴾

یہ چھو اگھ نصیحت ۔ لہذا میں یہی ہے کہ برادرانِ پیش
پروردگار کن و اتناون واجبہ و تھہ ۔
تہ تو ہی ہیکو تہ خدایہ سبزی مرضی روئیں تھہ یہی ہے
ہیکماز اللہ (تعالیٰ) چھ سبھا علمہ وول (تہ) بحبہ
حیکمتر وول ۔
سہ میں یہی ہے تھہاں چھ تہس چھ سینس رحمتس منز
دا نخل کران ۔ تہ نخلن ہندہ خاطر تہ چھ تھہ کرلو تھہ
عذاب مقرر کرر تھہ تھہ تھہ تھہ ۔



سورة مرسلات : یہ سورہ چھ کئی تہ بسم اللہ بہتہ چھ اٹھ اکوڑا آئیہ بیہ چھیس تہ رکوع ۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾
وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ﴿۲﴾
فَالْخَصَفَاتِ أَعْفًا ﴿۳﴾
وَالنَّشْرَاتِ نَشْرًا ﴿۴﴾
فَالْفُرْقَاتِ فُرْقًا ﴿۵﴾
فَالْمَلْفِئَاتِ ذِكْرًا ﴿۶﴾
عُدْرًا أَوْ نُذْرًا ﴿۷﴾
إِنَّمَا تُؤَدُّونَ لَكُمُ الْوَعْدَ ﴿۸﴾

(یہ چھیس) اللہ (تعالیٰ) سہد ناو بہتہ (پران)
میں جد روئیں کرم کرن وول (تہ) پھیرر پھیرر
رحم کرن وول چھہ ۔
یہ چھیس شہادہ تہ کنبہ تہہ ہستیہ پیش کران ہم گہہ ہنچہ
وارہ وارہ پکناو تہ یوان چھینہ
پتہ چھہ تہ تیزی سان پکن، یوان ۔
بیہ چھیس یہ ڈزی ہیس منز چھالوان واجبہ ہستیہ تہ
شہادہ تہ کنبہ پیش کران ۔
بیہ چھیس تہ اپزس منز فرق کرن واجبہ ہستیہ تہ ۔
بیہ خدایہ سہد کلام بوزناون واجبہ ہستیہ تہ ۔
امر غرضہ تہ ز لوکن پٹہ سپہ حجت پلور ۔ تہ امر
مقصود تہ ز لوکہ بن خیر وار کرنہ ۔
تہہ ہر سستی ہنیمہ کنبہ ہند و عد کرنہ یوان چھہ سہ
روڑ پلور گرتہ صتہ ۔

لہ بیہ آیس منز چھہ صحابہ کرامن ہند ڈبر ہیکو گہہ ڈنچہ وارہ وارہ تہ پتہ تیزی سان ڈزی ہیس
منز اسہد تہ نیکی ہند نوڑ چھالوو ۔

اور میلہ تارکھ گئی گزشتہ سال	فَإِذَا الثُّجُومُ طُمِسَتْ ①
تہ میلہ آسائس زمہ گزشتہ سال	وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ②
بہ میلہ بال موڑا وہ بن۔ سال	وَإِذَا الْجِبَالُ سُفِّتْ ③
بہ میلہ رسول پینس مقرر سپر بہتس وقتس پیٹھ آسنہ بن سال	وَإِذَا الرُّسُلُ أُنْتَبِتَتْ ④
(بہ پیہ لوکن و سنہ ز) یہ کتھ کہہ دوہہ ہاتھ آس کتھہ تھوہ آہترہ؟	لَا يَأْتِي يَوْمَ أُجِّلَتْ ⑤
(اکر) فاصلہ کرن والہ دیکھ خاطر۔	لِيَوْمِ الْفَضْلِ ⑥
تہ تر یہ کیا چھے پے نہ فاصلہ کرن وول دہہ کیا چھے؟	وَمَا أَذْرَكَ مَا يَوْمَ الْفَضْلِ ⑦
تہ دوہہ پیہ اپزلون والہن پیٹھ تباہی (اتھ اندر چھنہ کٹنہ تہ تنک)۔	وَبَلِّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ⑧
کیا اسہ کرک ناہ بزوتھم قوم ہلاک؟	أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ⑨
پتہ کیا تمہن پتہ پتہ وارل قوم کینا دوکھ ناہ اسی تمہن پتہ پتہ؟ (اگر یہ بیون بیون سلوک کیا ز اسہ؟)	ثُمَّ نُنَبِّئُهُمُ الْآخِرِينَ ⑩
اسی چہ مجرم سنہ تیٹھ معاملہ کرن۔	كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ⑪
تہ دوہہ پیہ اپزلون والہن پیٹھ تباہی (اتھ اندر چھنہ کٹنہ تہ تنک)۔	وَبَلِّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ⑫
بہ وول اسی تمہن، کیا اسہ کرک ناہ توہی اکہ ذہیل آہہ (یعنے لطفہ) لٹہ پارہ؟	أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ⑬
تہ پتہ تھوو سہ اسہ اٹھس ترٹھ جاہہ (یعنے ماجہہ ہندس شرک بالسن منتر) یوسہ تھہ وارہ پٹھو ترٹھ تھونس لائق اس۔	فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ⑭
بہ پیٹس کالس یہ لطفہ ماجہہ ہندس شرک بالسن منتر تھون مناسب اوس تہ پیٹس کالس تھوو اسہ سہ	إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ⑮

لہ یعنی عالم خراب گزشتہ سال الہامک سلسلہ پیہ بہ دباہ شروع کرنہ۔
 سال یعنی بیچ بیچ بادشاہتر گزشتہ تباہ۔
 سال میلہ اکھ مانور پیہ استناد کرنہ پیٹس ساری نے نہیں ہندک ناو دہ بن۔

فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَدِرُونَ ﴿۲۷﴾

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿۲۸﴾

أَلَمْ يَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿۲۹﴾

أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا ﴿۳۰﴾

وَجَعَلْنَا فِيهَا رِوَادًا وَخَيْبًا وَسِيَخًا وَوَادًى وَمُنًى وَآسَافِينَكُمْ
مَاءً فُرَاتًا ﴿۳۱﴾

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿۳۲﴾

إِنظِفُوا إِلَىٰ مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿۳۳﴾

إِنظِفُوا إِلَىٰ ظِلِّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ ﴿۳۴﴾

لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ ﴿۳۵﴾

إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ﴿۳۶﴾

كَأَنَّهُ جُمِلَتِ صُفْرًا ﴿۳۷﴾

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿۳۸﴾

هَذَا أَيُّوْمٌ لَا يَنْظِقُونَ ﴿۳۹﴾

وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيُحْتَدِرُ رُؤُوسَهُمْ ﴿۴۰﴾

تھہ منتر۔

تہ اسر کور اکھ انداز مقرر تہ اسی کوتاہی رت
انداز گنڈتھ تھون وائل چھہ!

تمہ دہ ہہ پیہہ اپزاون والہن پیٹھ تباہی (تھہ منتر
چھہہ کھنہو تہ شک)۔

کیا اسر بناوناہہ یہ زہن سہ سہراون واجہہ۔

زندگن تہ معردن۔

یہہ چہہ اسر اٹھ منتر تھدی پانثرال بناوری دتہ تہ

(تمہ کس تہیس منتر) چھو اسر توہی (مٹھل) میوٹھ
آب چاوری دتہ۔

تمہ دہ ہہ پیہہ اپزاون والہن پیٹھ تباہی (تھہ منتر
چھہہ کھنہو تہ شک)۔

(اسی ونا تہن ز) یس چہر توہی اپزاوان اُسروان
تھو کھنہو۔

یعنے تھہ سائیں کھنہو تہ تریہ پاس چہہ۔

نہ تہ چھہ سہ شہل دوان تہ نہ چھہ تہر کرایہ پیش
بچاوان۔

بلکہ چھہ سہ تہپر تھہر تہنہر چھکان ہم قلایں برابر
چھہہ آسان۔

تہپر تھہر زرن ہم بڑین جہازن گنڈن واجہہہ
لیدر رز چھہہ معلوم سپدان۔

تمہ دہ ہہ پیہہ اپزاون والہن پیٹھ تباہی (تھہ اندر
چھہہ کھنہو تہ شک)۔

یہ آسہ تہتھہ دہ ہہ دہنہہ دہ ہہ مجرم پستہ مرضی ستر
کھہہ تہ ہیکن تہ کرٹھہ۔

تہ تہن پیہہ تہ (خداہہ بند طرفہ تہ کھہہ کرنک)
اجازت دہنہہ تہن تہم ہیکہ ہن کاٹھہ عذر پیش
کرٹھہ۔

تمہ وہ بہ پیہہ ایزاون والہن پیٹھ تباہی (تھاند
چھنہ کپنہز تہ شک)۔

یہ آسہ فامسک وہ بہ پیٹھ مغز مس توہی تہ تہ
برؤ نپھر قوم تہ سو تہرا وکھ۔

لہذا اگر توہہ نش کا تہہ تدہر چھہ تہ سہ تدہیر
ورنہا دیون مینہ بخلاف۔

تمہ وہ بہ پیہہ ایزاون والہن پیٹھ تباہی (تھاند
چھنہ کپنہز تہ شک)

تمہ وہ بہ آسہ متقی بے شک شہیلہن تہ ناگہ
واجنہن جائن مشر۔

یہ آسہ پستہن پسندینہ والہن میون مشر باگ
وہتہ ایم تہن تہہنر مرضی مطابق میلن)

(یہ پیہہ تہن ونہز) دل خوش کر دہی میو کھیوہ
تہ رت آب چینیوہ ، یہ چھہ تہہنر ملن ہند جزا۔
اُسی چھہ احسان کرن والہن پیٹھ پانٹھو جزا دوان۔

تمہ وہ بہ پیہہ ایزاون والہن پیٹھ تباہی (تھاند
چھنہ کپنہز تہ شک)۔

(اُسی چھہ تہن ونان ز) کھیوہ تہ نیمہ دنی مہک
کم چا د فایدہ سبواہ توہی چھو مجرم۔

تمہ وہ بہ پیہہ ایزاون والہن پیٹھ تباہی (تھاند
کپنہز تہ شک)۔

تہن لوکن پیٹھ یس نیلہ زانہہ ونہر یوان چھہ ز
توحدس پیٹھ سپرو قائم تہ تہم چھنہ توحدس پیٹھ
قائم سپدان (مہک چھہ بتر کس کتہ چھہ تہ تھان)

تمہ وہ بہ پیہہ ایزاون والہن پیٹھ تباہی (تھاند
چھنہ کپنہز تہ شک)۔

لہذا تمہ وئی تن تہ سہی نہ پیٹھ (قرآن) پیٹھ
سنا کتابہ پیٹھ اتن تمہ ایمان ؟

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٨﴾

هَذَا يَوْمَ الْقَضِيلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأُولَئِينَ ﴿٢٩﴾

إِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكَيْدُؤُنِ ﴿٣٠﴾

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣١﴾

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ وَعُيُونِ ﴿٣٢﴾

وَأَفْوَاكِهِمْ وَمَا يَشْتَهُونَ ﴿٣٣﴾

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٤﴾

إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٥﴾

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٦﴾


كُلُوا وَاتَّمَعُوا قَلِيلًا إِنَّا كُمْ مُجْرِمُونَ ﴿٣٧﴾

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٨﴾

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ﴿٣٩﴾

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٠﴾

فِي آيَةِ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾



سورة نبا : یہ سورہ چھ کی تہ بسم اللہ ہیچہ چھ آیتہ کاشچہ آیتہ بیچہیں تہ رکوع ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①	(یہ چھیس) اللہ (تعالیٰ) سُنَد ناو ہیچہ (پرلان) یس جد روُس کرم کرن دول (تہ) چھیرک پھیرک رم کرن دول چھ ۔
عَمَّ یَتَسَاءَلُونَ ②	یَم (لواکھ) کتہ (چھیس) متعلق چھ اکھ اکس (تعبیر سان) سوال کران ۔
عَنِ النَّبَاِ الْعَظِیْمِ ③	تہ (برونٹھ ونہ آمشر یوم الفعول واجتہ) سبھا بچہ خبر ہند حقہ ! ؟
الَّذِیْ هُمْ فِیْهِ مُخْتَلِفُونَ ④	یہیمہ کہ حقہ یَم لواکھ (قرآن کس وئی بیتس پزرس ستی) اختلاف تھوان چھ ۔
کَلَّا سَیَعْلَمُونَ ⑤	واہ پاتھی تھوو یاد تہ اصل حقیقت چھینہ تہندین عقیدن خلاف تہ اکہ دن ہر سپر امن یہ معلوم ۔
ثُمَّ کَلَّا سَیَعْلَمُونَ ⑥	یہ چھ اسی دنان تہ کتہ چھینہ تہندین عقیدن خلاف تہ یَم لواکھ زان سنہ پیشگوئی یوسہ آتہ سورس منز بیان کر تہ آمشر چھینہ ۔
اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهْدًا ⑦	(سورچن تہ مہی تہ) کیا اسہ بنودناہ زمپینہ تھرن ۔ تہ پہاڑ دباورنا مینو کتہ ۔
وَ الْجِبَالَ اَوْتَادًا ⑧	یہ (تھوو بیتہ تہ بیتس تہ) اسہ چھو توہی (ساری لواکھ) جوہر (جوہر بناوکی تہ) ۔
وَ جَعَلْنَا نَوَاصِرَکُمْ سُبَاتًا ⑨	تہ اسہ چھ تہنہز بندہ راحک باعت بناوہتر ۔
وَ جَعَلْنَا الْاَیْلَ لِبَاسًا ⑩	تہ اسہ چھرات پردہ پوش بناوہتر ۔
وَ جَعَلْنَا الْلِہَامَ رَ مَعَاشًا ⑪	تہ اسہ چھ دودہ زندگی ہند (یعنی تہہ کہ اظہارک) موقعہ بنومت ۔
وَ بَنَیْنَا قَوْ قَکُمْ سَبْعَ اَشِدَادًا ⑫	تہ اسہ چھ تہ ہر بیٹو کئی سٹھ (تھوہ تہ) مضبوط (آسمان) بناوکی ۔
وَ جَعَلْنَا سِرَاجًا وَ هَاجًا ⑬	یہ چھ اسہ اکھ پر بزلون آفتاب (تہ) بنومت ۔

- بیس چھ اسر گنہ اوپر مغز واریاہ وسہ ون آب (تہ) نازل کورمت۔
 بیٹھ زن اسی تمہ کہ دوسر (انہ پکو) دانہ تہ سبزہ
 وہ پداو۔
 بیس (وہ پداو) گنہ بارغ۔
- بے شک یہ خاصک دہہ چھ اکھ گنہ تہ وقت
 (یعنی گنہ تہ وقتہ بینہ وول)۔
 نیمہ دہہ پوگس چھو کہ دہہ بیسہ۔ بیٹہ بیو توہر
 (اسر بردھ گنہ) لو گنہ لو گنہ۔
- بیس آسمان بیسہ مشراونہ یوت تام زہ سہ سپر
 (برہے) بریلہ
- بیس پہاڑ بین (پستہ جایہ نشہ) پکناونہ۔ یوت نام
 زہ تم گنہ سن سراب (ہوکی) یلہ
 بے شک چھ جہنم (بہمن لوکن) زاگہ (رؤز تہ)۔
 (بیس) سہ چھ رنہ گردان ہند خاطر روزن چاکہ
 تم گنہ سن اتھ مشر وری یہ وادن روزان۔
- (شیرہ آسہ بہمن لوکن ہنزیہ حالت) نہ نہ تہ
 (کرن تم محسوس) تہ مشر کتہ قہیح ٹھندی تہ نہ میلہ
 بہمن کا شہ چہنہ چیز (بیس ہنسن تریش کا بیٹھ ہیکہ)۔
 آ، مگر اللہ (تعالیٰ) دہہ بہمن (جاؤ) تو تہ سر
 ہیو آب تہ (نافا بل رواشت) ہنہ رتہ بیو آب۔
 (بیٹھ پاٹھو بیس بہمن بہنہ پو اعمالو) مطابق جزاوتہ
- تم کونہ حساب دنگ کا شہ خوف تہ (پنشن وول منرا)
 تھاوان۔
- وَ اَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ﴿۱۱﴾
 لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَ نَبَاتًا ﴿۱۲﴾
 وَ جَعَلْنَا الْفَأَقَا ﴿۱۳﴾
 اِنَّ يَوْمَ الْفَضْلِ كَانَ مِيقَاتًا ﴿۱۴﴾
 يَوْمَ يَنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ
 اَفْوَاجًا ﴿۱۵﴾
 وَ فُزِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ﴿۱۶﴾
 وَ سَيَّرَتِ الْجِبَالَ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿۱۷﴾
 اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿۱۸﴾
 لِيَلْطَعْنَ مَا بَآءًا ﴿۱۹﴾
 لِيُجِئْنَ فِيهَا آخَاقًا بَآءًا ﴿۲۰﴾
 لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَ لَا شَرَابًا ﴿۲۱﴾
 اِلَّا حَمِيمًا وَ غَسَاقًا ﴿۲۲﴾
 جَزَاءً وَ قَاقًا ﴿۲۳﴾
 اِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَزْجُونَ حِسَابًا ﴿۲۴﴾

لہ یعنی آسمان سپدن کثرت سان نشانہ ظاہر (اند)

لہ یعنی دڑ میکی بارشاہ تہ دیکر ہمار دہ نوے گنہ سن سراب کو پاٹھو بے حقیقت تہ
 تہ اچھن ہند دھوکہ۔

وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَّابًا ﴿٦٧﴾

بہ اسے تم ساری نشانی سستی سان اپڑوان -

وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ﴿٦٨﴾

تہ اسہ (تہ) چھہ پر سچہ چیز پوہر پامٹھ گنتہ رتھہ
مقومت۔

فَذُوْقُوا فَلَنْ نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿٦٩﴾

لہذا (پستہ پستہ ہلو مطابق) تہ ہو عذاب کمز
تہ اسے گتھو توہہ ہذا بے (عذاب) دوان۔

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿٧٠﴾

بے شک چھہ متقین ہندہ خاطر کامیابی (مقدر)۔

حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ﴿٧١﴾

(یعنی) باغ تہ دچھہ۔

وَكَوَاعِبَ أَشْرَابًا ﴿٧٢﴾

تہ ہشتی وانسہ ہنہر نوجوان زنانہ۔

وَكَأْسًا دِهَاقًا ﴿٧٣﴾

بہ تالیہ تام بڑبڑ پیالہ۔

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِدًّا ﴿٧٤﴾

تہ تہ بوزن تم (جنتن) ہنہر بے مطلب
کھتہ تہ نہ اپڑاو زانہہ کانہہ (تہ ہنہر کھتہ)۔

جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴿٧٥﴾

تہن سپہ چائس پرور دگار ہندہ طرفہ ہتھتہ بدلہ دتہ
یس متاسب حال انعام اسپہ۔

رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

(چائس تہن پرور دگار ہندہ طرفہ یس) آسمان تہ
زمین تہ تہن درمیان یہ کینہرھا چھہ تہن سارکہنہ

الرَّحْمٰنِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿٧٦﴾

ہندہ پرور دگار چھہ - (تہ) حدہ رؤس کرم کرن
دول چھہ - تہن اسپہ تہ تہس برودھہ کتہ (اجازتہ
ورائی) کھتہ کرنک طاقت۔

يَوْمَ يَقُولُ الرَّؤُفُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ سَفَاٰهُ

(یہ اسپہ تہہ دولہہ) نیہ دولہہ کمال روح تہ
ٹاکیہ صفہ گنتہ گنتہ استاد آسن - (تہ) تم

لَا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَن اٰذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ

ہسکن تہ کھتہ کتہ تہس ورائی یس رحمان (خلیان)
اجازتہ دیتہ مت اسپہ - تہ ہتھ شخس کہ صرف

وَقَالَ صَوَابًا ﴿٧٧﴾

موتہ مطابق (تہ) ٹھیک ٹھیک کھتہ۔

ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۗ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ

یہ دولہہ چھہ ضرور ہتھ روزن دولہہ لہذا (تہہہ
منہر) یس (شخس) ہتھتہ سہ بتاؤن پنہس پرور دگار
نہس پنہن ٹھکانہ۔

اِلٰى رَبِّهِ مَا يٰۤاٰبَا ﴿٧٨﴾

اِنَّا اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا ۙ يَوْمَ

اسہ چھہ توہہہ کہ نزدیک (زمانہ منہر ہتہ والہہ)
عذابہ ہتھ زہر پامٹھ ہتھار کتہ ہتہ - نیہہ دولہہ


يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاۤهُ وَيَقُوْلُ

انسان سہ چیز توجہ یس تہہ ہندہ اتھو بروٹھ

الْكٰفِرُ لِيَلْتَنِيْٓ اِنْ كُنْتُ تُرٰبًا ﴿٧٩﴾

﴿٧٩﴾

سُوْرَةُ الذُّرْعَتِ چھ تو کا فرقہ (تمہرے وہ ہر) اے کاش!
یہ آسہ ہا میشر ہے۔



سُوْرَةُ نازعات، یہ سُوْرہ چھ کی تہ سبم اللہ ہجھ چھ اتھ تہ تہ تہ می آسہ بیہ چھس تہ رکووع۔

(یہ چھس) اللہ (تعالیٰ) سُنَد ناو ہجھ (پر ان)
لیس حد رؤس کرم کرن وول (تہ)، پھیری پھیری
رحم کرن وول چھ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①

یہ چھسکھ تمہرے ہستیہ شہادتہ کنہ پیش کران ہم
پورہ رعیتہ سان دین علم پائس کن (لمتھ) بوان چھ
بیہ تمہرے (ہستیہ) ہم زبر پائس گنڈ کران چھ
بیہ تمہرے (ہستیہ) ہم دور دور تہ تہ گرھان چھ
پتہ چھ (مقابلہ کر تھہ پنس مد مقابلہس)
سٹھا برو تھہ تہ تہ گرھان۔

وَالذُّرْعَتِ عَزَاقًا ①

وَالنَّشِطَةِ نَشْطًا ①

وَالشَّيْخَةِ سَبْحًا ①

فَالشَّيْخَةِ سَبْحًا ①

پتہ چھ (دو بیچین) کاسن ہندہ تدرین تہ
آور کر گرھان۔

فَالْمَدَيَّرَاتِ أَمْرًا ①

(ہم صفتہ والہ تو کہ ظاہر گرھان آسہ سہ دوہ)
نیہرہ وہ ہر جنگ (کر مچ تیاری) کرن وول (قوم)
جنگ تیاری کر۔

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ①

تمہرے (جنگ چہ تیاری کرن) پتہ بیہ (تمہی تہسج)
پتہ بیہ واجوز (اکھ بیکھ) گڑ۔

تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ ①

تمہرے وہ ہر آسہ کیشن (لوکن بندہ) دن سلواس
ووتھمت۔

قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ①

بیہ آس تہ تہ نظر بہر سوتہ بوان کن۔

أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ①

۱: عا پتہ عا تمام آسین مٹھ چھ صحابہ کرامن ہنزن جہان ہند ذکر۔
۲: یعنی اللہ تعالیٰ ہس سوتہ چھ تعلق مقبوط۔ ۳: صحابن ہنزن جہان ہم جہاد تہ اشاعت اسلام
کر تہ موکہ دور سفر کران آسہ۔ ۴: ہم تکین مٹھ بین صحابن سوتہ مقابلہ کران آسہ۔

- يَقُولُونَ ءَاِنَّا لَمَزِدُودُونَ فِي الْكَافِرَةِ ۝۱
- (تہ) تم وین، کیا اسی بھوا پسند و تر پیٹھ پڑت
کھوری واپس بننے؟
- وَ اِذَا كُنَّا عِظَامًا تَّخِرَةً ۝۲
- کیا نیلہ لاسی وہ درے مٹر اڑی جہ سپرو (تہ)
حالتس مٹر تہ سپدیا تھکتی؟
- قَالُوا تِلْكَ اِذَا كَرِهْتَ خَاسِرَةً ۝۳
- تم چہ وناں (اگر تھتہ سپد) تینہ تہ آسہ یہ بڑ
گاہڑ واجی واپسی۔
- فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ۝۴
- (سہ) تھووہ بیتہ یاد نہ، یہ جچج خبر تہ اس صرف
اکھ مٹھنہ۔
- فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۝۵
- چنانچہ تم سپدن (اسہ مٹھنہ بیتہ) یکدم (جگہ گس)
مادانس مٹر جاہر۔
- هَلْ اَتَيْتَكَ حَدِيثَ مُوسَى ۝۶
- کیا تریہ چھیا موسیٰ ہنر کتہ (تہ) واڑ مٹر؟
- اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَاوِ الْمُقَدَّسِ طُوى ۝۷
- نیلہ تس تندر پروردگارن مقدس وادی سینے
طوی ہس مٹر ناد وڑا۔
- اِذْ هَبَّ اِلَى فِرْعَوْنَ رَاثَهُ طغى ۝۸
- (تہ) دیونس نہ، فرعونس کن گتہہ بکیانہ سہ پٹھ
تھووہ پھیر گومت۔
- فَقُلْ هَلْ لَكَ اِلَى اَنْ تَرْحَى ۝۹
- بیر (تس اولن نہ) کیا تریہ چھیا (اسہ کتہ ہنر تہ کینہ)
بیتہا نہ تہ گوتہ کتہ پاک سپدن؟
- وَ اَهْدِيكَ اِلَى رَجَبِكَ فَتَنَحَّسَى ۝۱۰
- تہ بہ ماوسے تریہ چائیس پروردگارس کن و تہ تہ تہ
ہیکہ (خدائیس) کھوڑن۔
- فَاَرَاهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرَى ۝۱۱
- چنانچہ (موسیٰ گوتہ) تس (فرعونس) ہودن اکھ
بوڑ نشانہ۔
- فَكَذَّبَ وَعَصَى ۝۱۲
- نیٹھ پیٹھ تھو (موسیٰ) اپروو تہ نافرمانی کرن۔
- ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعَى ۝۱۳
- تہ علاو پھیر تھو فسادک سد بیکران پز نشہ تھر۔
- فَحَشَرَ فَنَادَى ۝۱۴
- تہ زن گوو (پنڈر دربارک) سونبراون تہ دملس
مٹرا (دیاون) عام، پارے (تہ)۔
- فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمْ الْاَعْلَى ۝۱۵
- تہ (لوکھ سونبراون تہ) ووشنک نہ بہر جیس تہند
ساری وہے کھوتہ بوڑ پروردگار!
- فَاَخَذَهُ اللهُ نَكَالَ الْاَخِرَةِ وَالْاُولَى ۝۱۶
- اتھ پیٹھ روٹ سہ اللہ (تعالیٰ) ہن آخر تہ کس

تو دنی میکیں عدلیس مثر آوراو تہ خاطرہ۔
یقیناً چھ اتھ (واقص) مثر اکھ بڑ عبرت (رنگ)
ساما تہ، تنہر خاطرہ یس عدلیس کھوڑان آسہ۔
(سوچو تہ سبھی) کیا توہی (دُبار) پاد کھرنی چھوا
جاو مشکل کتہ آسمان (پاد کُرن) یس کتہ (خلین)
بنومت چھ۔

اتہ) تہیج بلندی چھن تھڑا دہتر پتہ چھن سہ
بے قاب بنومت۔

بہ تیج راتھ (تہ) چھن گٹ بناو مثر وہ ذگوو
امیک ڈوپہر چھن (کھاشرقہ) نون کوزومت۔
بہ چھن تھو سوتی (تھو زمانس مثر) زین تہ
وتھراو مثر۔

پتہ چھن (تہ مثر) تمیک آب تہ تہکو نیرہ
کروا سوتی۔

بہ بال تہ چھن اتھ مثر ٹھاسر ہوتی۔

تہندہ باپتہ تہ تہندہ چاروان ہندہ فایدہ خاطرہ
(چھ تہو یہ سورے کیتہ کوزومت)۔

اد میلیہ سو بڑ بلا یہ پیہ۔

بہیہ وہ ہر انسان پین کوزومت تہ ہتس پاو۔

بہ جہنم بہ تہندہ خاطرہ نون کڈنہ یس تھہ
(ققلہ ہنرو اچھو) وچھ۔

لہذا نیو روے گردانی اختیار کرو۔

تہ دنی بہیہ زندگی دترن (مخرس پٹھ) فوقیتہ

بے شک چھ جہنم (ہے) تہندہ ٹھکانہ۔

بہ نیو سہنس پروردگار ہندہ رتیک ہم روٹ
تہ (پین) نفوس روٹن ووسی پایہ تہا ہتہ لبتہ پتہ۔

یقیناً آسہ جنتہ تہندہ ٹھکانہ۔

تم چھ تریہ تھہ گر متعلق پرتھان (نہ) تمیک

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى ﴿١١﴾

وَإِنَّمَا أَشَدُّ خَلْقًا مِّنَ السَّمَاءِ بِئْسَ مَا نُفِثُوا ﴿١٢﴾

رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّاهَا ﴿١٣﴾

وَإِعْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ﴿١٤﴾

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ﴿١٥﴾

أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ﴿١٦﴾

وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ﴿١٧﴾

مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنعَامِكُمْ ﴿١٨﴾

فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ الْكُبْرَى ﴿١٩﴾

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى ﴿٢٠﴾

وَبُورَاتِ الْجَحِيمِ لِمَن يَرَى ﴿٢١﴾

فَأَمَّا مَنْ طَغَى ﴿٢٢﴾

وَأَشْرَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا ﴿٢٣﴾

فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ﴿٢٤﴾

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ نَهَى

النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ﴿٢٥﴾

فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ﴿٢٦﴾

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ

(نہیں واقف لڑکھ زماناں چھہ۔)

یہ (اے رسول!) کس کتھ ہیکہ ہی تریہ (اتھ پیٹھ) آگاہ کر تھ نہ سہ سپر ہزور پاک۔
یا سہ کر باد (عبرتی کو سامانی) تہ (یہ) یاد کرن
بختہ تس نفع۔

کیا یہ ہیکیا سپر تھ تریس شخص (پتر پتر تہ) لاپرواہی
کر۔

تہ تر دکھ (تس کن) زبر پٹھ دیان (حلاکہ یہ چھہ
سارک سے قرآن جلافت)۔

تہ کتھ پٹھ ہیکہ تہ تھکن کر تھ! نیلہ تسہ
ہدایت لپن تریہ پیٹھ کا تھ ذہن واری تہ پھینہ۔
یہ یس کا تھ تریہ کن دو ان دو ان پیہ۔

یہ آسہ سہ (سستی خدایس تہ) کھو تھان۔

(تہ اعتراف کرن والی سہ و نینہ کن) تہ چھہ
تس سستی بے پروائی کران۔

ہرگز چھہ یڑھ کتھ (بیم ساری الزامات چھہ غلط)
بے شک یہ (قرآن) چھہ اکھ نصیحت۔ (اتھ سستی آپہ تہ
تنوار والہ تہ تہ سپر کھ لڑکھ مسلمان بناؤس پیٹھ
مجبور)۔

اویس نیڑھ سہ تھان و ن تہ تہس۔

یہ (قرآن) چھہ (تھن صحیفن) منزا (بیم عزتہ والی
تھہ تشاہد والی تہ پاک چھہ۔

یہ (قرآن چھہ، صحیفہ لیکھن والین تہ دور
دور) سفر کرن والین ہندن اتھن منزا
(تھن لوکن ہندن اتھن منزا) بیم عزتہ والی
چھہ تہ تھہ در بگی تیکو کار چھہ۔

انسان سپر ہلاک! سہ کوتاہ ناشکری کرن و لنگھ۔

وَمَا يُذْرِيكَ لَعَلَّهُ يَظُنُّ ۝۱

أَوَيْدَكَرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى ۝۲

أَمَّا مَنْ اسْتَعْتَى ۝۳

فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ۝۴

وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَرَخَى ۝۵

وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى ۝۶

وَهُوَ يَخْشَى ۝۷

فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ۝۸

كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۝۹

فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ۝۱۰

فِي صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ ۝۱۱

مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۝۱۲

بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ۝۱۳

كِرَامٍ بَرَدَةٍ ۝۱۴

فَتِلْكَ الْآنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ۝۱۵

لہ یعنی صحابہ کرام کرن قرآن مجید اتھن منزا تھہ اشاعت اسلام خاطر نہ چھہ تہ پٹھ سفر۔ (من)

مِنَ آتِي شَيْءٍ خَلَقَهُ ۝۱۱

(سہ کون غور تو، نہ) خلائق کمر چھڑ، ہنستہ چھ سہ
پاؤ کورمت ؟

مِنَ نَطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ۝۱۲

(تس سپد معلوم نہ بے شک سہ چھ تکر) اگر نطفہ
ہنستہ پاؤ کورمت - پتہ کوزن تہنہ خاطر (ترقی ہند
اکھ) اندازہ مقرر -

ثُمَّ السَّيْلُ يَسْرُهُ ۝۱۳

پتہ بتاؤن (تستہز) وتھ سہل تہ سپٹھا آسان -

ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ۝۱۴

پتہ مورن سہ (نطری عمر دتھ) پتہ تھودن سہ
(وعدہ دتہ آمتہ) قہر منزلیہ

ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ ۝۱۵

پتہ نیلہ سہ ہنستہ تس کر دبار سہلقتہ استاد -

كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ۝۱۶

ہرگز چھنہ (بیزہ کتھ لہسہ توہی سہجان چھو، توہی
چھونا و سہجان ؟) تس (یعنی انسان) یس حکم سولت
اوس تھو کوزنہ و نیکتام سہ پور -

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۝۱۷

لہذا پز نہ انسان و چھ پننس کھنس کن -

إِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۝۱۸

(بیہ و چھ نہ) اسہ چھ اوہر معز زہر پاٹھو آب
دولت -

ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۝۱۹

پتہ چھ زہن زہر پاٹھو پھانٹا و پتہ -

فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۝۲۰

تہ زن گوڈا سہ پھانٹا و تہ کس تپیس منز چھ اسہ
تھ منز تہما قسم بزق پٹھو وہ پداوی ہتہ -

وَعِنَبًا وَقَضْبًا ۝۲۱

یسٹھ پاٹھو دچھ تہ سبزہ ترکارہ -

وَزَيْتُونًا وَتَخْلًا ۝۲۲

بیہ زیتون تہ کھنہر -

وَحَدَائِقٍ غَنَبًا ۝۲۳

بیہ اتھ سوتھ گنی باغ تہ -

وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ۝۲۴

بیہ میوہ تہ تہ بولکھ کاسہ (تہ نہ نہ تہ) -

فَتَنَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنعَامِكُمْ ۝۲۵

(یہ سورسہ چھ) تہنہ تہ تہنہ پن چارواں ہند
فایدہ خاطر (پاؤ کر تہ آمت) -

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاحَةُ ۝۲۶

پتہ (یہ تہ سوچو تہ نہ) نیلہ کنن زہر بہن وان
دل (معیبت) پیہ -

لہ جتہ دنیہ سہ منز چھنہ پر تھ انسان قہر میلان لہذا اتہن چھیا ہر زچ قہر مراد - (منہ)

یوم یفر المزمء من اخیه ﴿۱﴾	تیر دہہ انسان پنس باپس نش (ترہ دور) نزلہ۔
وامہ وایہہ ﴿۲﴾	ترہ دیتھے پانگو، پندہ ماہر نش تہ پنس باپس نش (ترہ)
وصاحبۃہ وبنیہہ ﴿۳﴾	بہ پندہ آشتہ تہ پنس پنچون نش (ترہ)۔
لکلی امرئ ینہم یومئذ شان	تہ دہہ آسہ پر تہہ انسانہ ہتر حالت ترشہ ترسہ
یغنیہہ ﴿۴﴾	تھاوتس پانس کئے لگتھہ -
وجوئا یومئذ مشفرۃ ﴿۵﴾	کیئہہ (لوکن بندر) تہہ آس تہ دہہ پر ہرلہ ورتہ۔
صاحکۃ مستبشرۃ ﴿۶﴾	آسہ ورتہ تہ تھوونہ۔
ودجوئا یومئذ علیہا غبرۃ ﴿۷﴾	تہ کیئہہ (لوکن بندر) تہہ آس تہ دہہ تہہ
ترہقہا فترۃ ﴿۸﴾	زنتہ آسہ اتن پیٹہ گرم چھاوتھہ۔
اولئک ہم الکفرۃ الفجرۃ ﴿۹﴾	بہ آسہ (اندہم حالت ظاہر کرتہ خاطر) تہہ نہ
	پنچون پیٹہ اکھ (تہہ) کر ہنبار چھاوتھہ (یس) تہہ
	وقتہ چھاوتہ یوان پھہ)۔
	یکے لوکھ بن کافر تہہ بدکار گنتراونہ۔

سُورَةُ التَّكْوِيْرِ مَكِّيَّةٌ دَرَجَةُ ثَلَاثُونَ آيَةٌ

سورۃ تکویر : یہ سورہ چھ کئی تہ بسم اللہ ہتھ چھو اتھ ترہ آہہ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾	(بہ چھس) اللہ (تعالیٰ) سنداوتھہ (پران) یس
اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴿۲﴾	حدو روس کرم کرن دول (تہ) پھیرہ پھیرہ رحم کرن
وَاِذَا النُّجُومُ اَنكَدَرَتْ ﴿۳﴾	دول چھہ۔
	یئلہ آفتاب (یعنے تمیک نور) ولتہ پیہ بلہ
	بہ یئلہ تارکھ گنہ کرتھن۔

لہ بین آین منز چھہ یسماان پیٹہ پتہ واپس عارضی زوالس متعلق پیشگوئی۔ قرآن کریمس
منز چھہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب ورتہ آست یسٹھ آس منز چھہ یہ پیشگوئی ز
اکس زمانس منز یہ آفتاب پیٹہ پر تراونہ یعنی لاکن ہندین دن منز روزنہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سندسہ عورت قائم ییکوتم مستحق چھہ۔

وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴿٦٠﴾	بیسے سیلہ پہاڑ پکناو پین۔
وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ﴿٦١﴾	سیلہ واہ ریختہ نہ واولی ووزہ وونشنہ سیلہ تراوہ پین۔
وَاِذَا الْوُحُوْشُ حُوْشِرَتْ ﴿٦٢﴾	بیسے سیلہ وحشی سونبراون پین۔
وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ﴿٦٣﴾	بیسے نیلہ ڈریا و بلناو پین۔
وَاِذَا النُّفُوْسُ رُوْجِحَتْ ﴿٦٤﴾	بیسے نیلہ (بیون بیون) نفوس سونبراون پین۔
وَاِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ﴿٦٥﴾	بیسے نیلہ زندے دباوہ پینہ واجنہ (کور) بندہ حقہ سوال کرن پین۔
يَآٰئِيْ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴿٦٦﴾	(زہ آہر) کتھ گونہ ہس بدل آہ سو قبل کرتہ؟
وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ﴿٦٧﴾	بیسے سیلہ کتاب پھالاون پین۔
وَاِذَا السَّمَآءُ كُشِطَتْ ﴿٦٨﴾	بیسے نیلہ آسمان مسلہ والنہ پین۔
وَاِذَا الْجَحِيْمُ سُجِّرَتْ ﴿٦٩﴾	بیسے نیلہ جہنم و ہناونہ پین۔
وَاِذَا الْجِبْتَةُ اُزْلِفَتْ ﴿٧٠﴾	بیسے نیلہ جنت نکھہ انتہ پین۔
عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا اَخْضَرَتْ ﴿٧١﴾	(تہرہ وہ پین) زانہ پرتھہ اکھ زوہ کینترہا تھہ ٹاھنر کوزمت آہ۔
فَلَا اُقْسِمُ بِالْخُنُوسِ ﴿٧٢﴾	لہذا (یہ توہی خیال کران چھو) تہ چھتہ ہر چھسکھ

لہ یعنی آخری زمانس منزریل، جہازہ بیتر سوار ایجاد کرتھینہ موکھ روزہ نہ وونشن ہند کپتہ قیمت۔ نتیہ خاص کرتھہ داہ ریختہ نہ واولی ووزہ وونشنہ ہند قیمت اوس سہٹھا جاوہ آسان۔ لہ چڑیاگرن منزریں جنگلی جالور جمع کرتہ یا وحشی قوم سپدن تہذیب یافتہ یا بین پینہو ملکو منز کڈنہ۔

لہ یعنی ڈر یاون ہندآب کڈتھہ بیسے منہرن منز تراوہ۔
 لہ یعنی سفر گڑھن سہل تہ ملکن ہندو لوکھ کرن اکھ اُکس سترہ ملاقات۔
 لہ یعنی کور زندے قبرن تراوہ تہ سستی بیتر رسم پین خلاف قولون قرار وونہ۔
 لہ یعنی علم ہیئت COSMOLOGY تہ ASTRONOMY کرن ترقی۔
 لہ یعنی گونہ ناہ سپدن جاوہ۔

لہ اٹھ دنیا ڈری ہندس زمانس منز بناو اکھ لوکٹ نیکی تہ جنگل حقدار۔

پکان پکان پتھ نزلن والی شہادتہ کنہ پیش کران -
(یکم سستی) نسبتہ سیوڈسے پکین والی (تہ چھ تہ
پتہ) گرن مثر بہتہ روزن والی سہ
بیہ (چھس بہ شہادتہ کنہ پیش کران) راتھ ییلہ
سواند واتان چھینہ -

الْجَوَارِ الْكُنُوسِ ۱۵

وَالْيَلِ إِذَا عَاشَسَ ۱۶

بیہ صبح ییلہ سہ شاہہ ہنیتہ لگان چھہ لہ

وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۱۷

یقینا چھہ یہ (قرآن) اگرس بزرگ رسولہ سداکلام

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۱۸

(یس رسول سپہا) تو تہ وول تہ عرشہ واپس
خداے ہندس دربارس منز یوڈ درجہ تھون وول چھہ
(بیہ) مطاع (تہ) چھہ (تہ) اتھہ عرشہ چھہ
اپن تہ -

ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ۱۹

تہ ہنہ سستی بوج چھہ ہرگز دیوانہ -

وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَغْنُونٍ ۲۰

تہ تو چھہ یہ (غاب) پیزی پاٹھ کلمہ نمبر دندس
پتہ وچھمت -

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ ۲۱

تہ سہ چھہ غابہ چہ خیر و نسن مثر ہرگز ییل کران

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ۲۲

تہ نہ چھہ یہ (یعنی تس پتہ نمازل سپن وول
کلام) کلمہ ترحتہ آتس شیطا تہ سنہز (وڈ مثر)
کلمہ -

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيبٍ ۲۳

اد (امر باوڈ) توہر کونت چھہ گرتھان؟

فَأَبْنِ تَذَهَّبُونَ ۲۴

یہ (قرآن) تہ چھہ سارک نے عالمن ہندہ خاطر اکھ
نصیحت -

إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۲۵

لہ یکن آین مثر چھہ تباہ گرتھن والہن تومن ہند ذکر یعنی خطر کر وقتہ
چھہ پوت ہوان تہ سوچہ سمجھ وراڈی چھہ جزات کران تہ پتہ چھہ ناکام سپدہ
گرن مثر بہان -

سہ یکن آین مثر چھہ خبر دہ آ مثر نہ مسلمان ہندہ تراپلج راتھ موکلمہ تہ ترقی ہند صبح
پھولہ -

سہ یعنی تس چھہ کہ فرمانبردار صحابن ہنر جماعت عطا کرنہ آ مثر بیہ دشمن تہ چھہ زمان نہ سہ چھہ اپن
لہذا تسد معلوی ہیکہ نہ اپن آستہ -


لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ﴿۱۱﴾

(خاص کڑھ) تو بہرے منز تہندہ خاطرہ میں سیر

وتہ پٹھ پکن سیرھان آسہ۔

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۲﴾

تہ تو ہی ہیکو تہ یہ سیرھتھ ، مگر خدیہ سہند
سیرھتھ مطابق ، لیس سارکے عالم ہند پروردگار
چھ۔



سورۃ انفطار : یہ سورہ چھ کلی تہ بسم اللہ بہتہ چھس وہ آسہ۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾

(بہ چھس) اللہ (تعالے) سنداو بہتہ (پران) لیس

حہ رؤس کرم کرن ول (تہ) چھیرک چھیرک رحم

کرن ول چھ۔

سینلہ آسمان چھٹہ

وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ﴿۲﴾

بہ سینلہ تارکھ ہرہتہ پین لہ

بہ نیلہ سمندر چھرتہ بلناونہ پین لہ

وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ﴿۳﴾

بہ سینلہ قہر پراہتہ اور یور چھکراونہ پین لہ

اد زانہ سہ نوڈ (خطاکار) زولہ نہ تکی کیا (ہو)

چھ بروٹھ سوزمت تہ کیا ہو (چھن پتھ کن تروٹت۔

اے انسان! تہ تکی چھکھ پنس پروردگار ہندس حق

منز مغرور (تہ قریب خود) بنومت؟

وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ﴿۴﴾

وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ﴿۵﴾

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ﴿۶﴾

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ

الْكَرِيمِ ﴿۷﴾

لہ یچھ سوئس منز تہ چھ آخری زمانہ کو علامات بیان کرنہ آہتہ۔ (منہ)

لہ یعنی نیلہ کھرتہ شہرک سینلہ پٹھ سیرلہ تہ اللہ تعالیٰ کر عذاب والنک قاصلو۔ (منہ)

لہ یعنی علمائے دین گرتھن نالوڈ۔ (منہ)

لہ مثلاً نہر سویر تہ نہر پانامہ یوڈی سمندر بلناونہ آسہ۔ (منہ)

لہ یعنی پرائن بادشاہن تہ فرعون ہنر قبرین پرائنہ تہ تہندک مہردین اور یور ملکن منز سوزنہ (منہ)

لہ یعنی نصرانیت نیمہ ڈی مہس منز شہرک تہ الحاد چھالومت چھ۔ (منہ)

(تس پروردگار ہند حق)۔ نیو تہ پاؤ کورکھ پتہ سنہو کھ
تہ (یعنی چاند) اندری طاقت کرن درست) پتہ پتہ کونے
تہیہ مناسب طاقت۔

پتہ یوہ بہ صورت تہ پتہ کورکھ پتہ قائلہس منز تہرنگہ۔

(یہ توہی خیل کران چھو) تہرہ کتہ چھہ ہرگز بلکہ
توہی تہ چھو جزا سزاہس ایزاوان۔

بیہ چھو بے شک تہہ بہ پیہ (تہہندس خلیہ ہر بظرف)
راچھدر مقرر۔

ہیم عزتہ واکہ تہ شریف چھ (تہ) پرتہ کا نہ کتہ چھ
لیکن واکہ

توہی یہ کیشرا تہ کران چھو تہ چھہ ہم زمانان۔

یقینا چھہ پنکین منز بروٹھ پکن واکہ لاکھ (ہمیشہ)
نعمتس منز (روزان)۔

تہ بدکار لاکھ چھہ یقینا جہنمس منز (روزان)۔

ہم اژن تہہ اندر (تھاس کڑتہ) جزا سزا کدوہہ۔

بیہ ہم ہیکن تہ کتہ پاٹھ تہ تہرہ سہہ بچتہ قاب منز تہہ۔

بیہ (اسے مخاطب!) تہیہ کتہ چھہ اہر کتہ ہند علم

دیت مت نہ جزا سزاہک وقت کیا چھہ؟

بیہ (چھی اُس تہیہ پرتھان نہ) تہیہ کتہ چھہ علم دیت

نہ جزا سزاہک وقت کیا چھہ؟

(یہ وقت آسہ) تہہ دوہہ سینہ کا نہہ زو کا نہہ

زوس قایدہ واناوہ خاطر کا نہہ اختیار آسہ تہ تھالان۔

تہ سورسے قائلہ آسہ تہہ دوہہ اللہ (تعالیٰ) ہندہ
سہ اتھس منز۔

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوِّكَ فَعَدَلَكَ ۝

فِي آتِي صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ۝

كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالَّذِينَ ۝

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۝

كِرَامًا كَاتِبِينَ ۝

يَعْلَمُونَ مَا تَفَعَّلُونَ ۝

إِنَّ الْآبَاءَ لَكَفِيٍّ لِّعِبَادِكُمْ ۝

وَإِنَّ الْفُجَارَ لَكَفِيٍّ لِّجَحِيمِكُمْ ۝

يَصْلَوْنَ نَهَايَومَ الدِّينِ ۝

وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ۝

وَمَا آذَاكَ مَا يُومِرُ الدِّينِ ۝

ثُمَّ مَا آذَاكَ مَا يُومِرُ الدِّينِ ۝

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ۝

وَالْأَمْرُ يَوْمَ مَعْدٍ لِلَّهِ ۝

۱۱۱

سُورَةُ الْمُطَفِّفِينَ مَكِّيَّةٌ وَرَبِّهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَكَانَتْ مِنْ آيَاتِهِ

سورة مطففين - یہ سورہ چھ رکعی ہے بسم اللہ پہلے چھ آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①	(ابو جحیس) اللہ (تعالیٰ) سُنَدِناو پہلے (پران) یس حدیثوں کرم کرن وول (ہ) پھیڑی پھیڑی رحم کرن وول چھ۔
وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ②	سو دہس منز چھوڑی دینہ والین ہندِ خاطر پہلے (عذاب) عذاب۔
الَّذِينَ إِذَا أَتَاؤهُم مَّا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوُونَ ③	(تمن ہندِ خاطر) ہم نیلے تولتہ ہوان چھ آتی چھ زیر پاٹھ پور تولتہ ہوان۔
وَإِذَا كَانُوا لَهُمْ أَوْ ذُرِّيَّتَهُمْ يَخْسِرُونَ ④	تہ (نیلے کانہ چیز) بین تولتہ ووان چھ تہ نیلے پہلے تنس منز چھوڑی نہر تھا وول۔
أَلَّا يَظُنُّوا لِعَلَّكَ أَنَّهُمْ مَّبْعُوثُونَ ⑤	ہیں لوکن چھنا پڑھ نہ تم میں (زندہ کرتے) تلتہ۔ تہ تھہ تشارہ والہ وقتہ (سیدان وول فاصلہ وچھتہ) خاطر۔
لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ⑥	نیہ وقتہ (ساری) لوکھ سار کرنے عالمن ہندس پروردگار ہند (یعنی سنہ فاصلہ بوزتہ) خاطر اساد سیدان۔
يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ⑦	(بیٹھنے میں فکر نران چھ) ترشہ کتھ چھنہ ہرگز (بلکہ) برکارن ہند (یعنی تہندس جزس متعلق) حکم پہلے بیشک اگس ہمیشہ روز و نیکتابہ منز۔
كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينٍ ⑧	ہیہ تریہ کم چھے وڈنت نہ سچین کیا چھ؟ سہ چھ تہتہ حکم یس (ازلہ پیٹھ) بکھتہ چھ۔
وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ ⑨	تہ دہ ہر آسہ ایزاون والین ہندِ خاطر (عذاب) عذاب۔
كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ⑩	(تمن) ہون ایزاون والین) ہندِ خاطر ہم جزا سترکہ وہب انکار کران چھ۔
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ⑪	اتھ بکھتہ نہ ہیہ کانہ انکار کرتے مگر سے یس حد
الَّذِينَ يَكْذِبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ⑫	
وَمَا يَكْذِبُ بِهِ إِلَّا كَلٌّ مُعْتَدٍ أَفْئِينَ ⑬	

نمبر درامت (تہ) سخت گونہ گار آسہ۔
 سبیلہ چھین لوکن بروٹھ کنہ سانی نشانیہ پرہہ یوان
 چہ تہ تم چہ ونان نہ ایم تہ چھینہ بروٹھو ہن لوکن
 ہنر نقل کرے مٹر کتھ۔
 ہرگز چھتہ (تھکنی تھکنی تم ونان چہ) بلکہ (اہل کتھ
 چھینہ نہ نہ) یہ تموکوٹ چھہ تمو چھہ تھندہن دن
 پٹھ کتھ پاد کر ہنر۔
 بلکہ پتھ کتھ ولو نہ تم ہن تمہ دوہہ پتھس پرہہ دگارس
 بروٹھ کنہ حاضر سپنہ نشہ بے شک پتھ رٹنہ۔
 پتہ سپنہ تم ضرور جھٹس منز داتھل۔

پتہ پتہ پتہ ونہہ یو ہے چھہ سہ (انجام) نیکیک توہر
 انکار کران مسو۔

تھندہو نیالو ہر خلاف ابرارن ہند (یعنی تھندہ
 جزبہ) حکم چھہ یقینا علیینس منز۔
 تہ تہ نہ کو پتھہ ووٹ نہ علیون کیا چھہ؟
 سہ چھہ اکھ لیکتھ حکم۔

یتھ مقرب لوکھ (پاہہ پنہو اچھو) دھین۔
 فیکین منز بروٹھہ درامت لوکھ بن یقینا نعمتس منز تھوہر۔
 پھرتل تہ پاراؤر متین سخت پوش پیٹھ (بہتھ) آسن
 (سورسے حال) دوجھان۔
 (اگر تہ تم دھچھہک تہ) تھندہن بھین پیٹھ کرکھ تہ
 نعمتن ہنر ہازل تہ رونق محسوس۔
 تمن پتہ شتوہ تہ مہر بند شراب چاوتہ۔

یتھ آخری داسس کستوری تافہ مشک آسہ او ٹا ہش
 تھون والہن (انسان) ہز بیسی چیز بچ ٹا ہش کرے۔

إِذَا تَنُتِلَ عَلَيْهِ أَيْتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ
 الْأَوَّلِينَ ﴿۱۶﴾

كَلَّا بَلْ عَدَدَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا
 يَكْسِبُونَ ﴿۱۷﴾

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ
 لَمَخَجُوبُونَ ﴿۱۸﴾

ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ﴿۱۹﴾

ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ
 تُكَذِّبُونَ ﴿۲۰﴾

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ﴿۲۱﴾

وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ﴿۲۲﴾

كِتَابٌ مَرْقُومٌ ﴿۲۳﴾

يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ﴿۲۴﴾

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿۲۵﴾

عَلَى الْأَرْشِ يَنْظُرُونَ ﴿۲۶﴾

تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ
 النَّعِيمِ ﴿۲۷﴾

يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ﴿۲۸﴾

خِتْمُهُ مِسْكَءٌ فِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ
 الْمُتَنَافِسُونَ ﴿۲۹﴾

وَمِرَاجُهُ مِنَ تَشْنِيئِهِ ﴿۸۳﴾

بہ آسہ تھہ منز تشنیئہ پیلون۔

عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴿۸۴﴾

(سون مطلب چھ) سہ ناگ نیبہ منز مقرب لاکھ
تریش چین۔

لَإِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ
أَمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿۸۵﴾

تم لاکھ ہم مجرم سپدی تم اسی یقیناً مؤمن سدی استہ
ہنا کران۔

وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَخَامَتُونَ ﴿۸۶﴾

تہ نیلہ تمو کوئ نیران اسی تہ ہم اسی اکھ افس
اچھ ناٹ کران۔

وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا
فَكَفِينٌ ﴿۸۷﴾

بہ نیلہ ستنہن گہ باترن کن واپس یوان اسی تہ زبر
پاٹھو اسی (مسلمان خوات) کتھ بناوان واپس یوان۔

وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُونَ ﴿۸۸﴾

بہ نیلہ (تہ) تمن وچھان اسی ، دان اسی زہ ہم لاکھ
تہ چھ اکی گراہ۔

وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حُفَظِينَ ﴿۸۹﴾

تہ یوز چھ یہ زہ ہم اسی تہ تمن پیٹھ راچھدر باوتھ
سونہ آہتی نہ

فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ
يَضْحَكُونَ ﴿۹۰﴾

او یو ایمان اون ، تمہ جزا سزاکرہ دہ ہر تراون کافرن
پیٹھ استہ ہنا۔

عَلَىٰ الْأَرْئِلِكِ يَنْظُرُونَ ﴿۹۱﴾

تم آسن چھترل تہ پیرتھ تحت پوتن پیٹھ بہتھ (تہتھ
سورس سال) وچھان۔

هَلْ ثُبُوبَ الْكُفَّارِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿۹۲﴾

(تہ پاپنہ وانی وشن زہ) کیا کافرن میولا (تہیک) پوپہ
بدلہ یہ کینترہا تم کران اسی؟ (کتہ نہ؟)

لہ تہیک یعنی چھ تھوہ درجہ یہ چھ جت تہ کر کہہ ناگت ناو امیک رو حالی آب چینہ سوتہ

مؤمن ہندک درجہ گترہن تھدک۔ (منہ)

لہ اتھ آیس منز چھ بیان کرتہ امت زہ دلہ چین کتھن پیٹھ گترہہ نہ فتوہ لاکن۔ (منہ)

سُورَةُ الْاِنْشِقَاقِ مَكِّيَّةٌ وَرَبِّهَا مَعَ الْمَسْمُوكَةِ سِتِّ وَعِشْرُونَ آيَةً

سورۃ انشقاق : یہ سورہ چھٹے کی ہے بسم اللہ ہیچہ چھ آیتھ شہتوہ آہ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①	ابو حیصس، اللہ (تعالے) سدا ناو ہیچہ (پران) یس سدا رؤس کرم کرن وول (تہ) چھیری چھیری رحم کرن وول چھ۔
اِذَا السَّمَاءُ اِنْشَقَّتْ ①	ییلہ آسمان چھٹیلہ
وَ اِذْ نَسَتْ لِرَبِّهَا وَ حَقَّتْ ①	تہ سینس پروردگار بند (یعنی تہنیز کتہہ بوزہ) خاطر تھوکن تہ یس چھ (تس پیٹھ) قرین۔
وَ اِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ①	بہ ییلہ زمین و ہراوہ پیہ۔
وَ اَلْقَتْ مَا فِيهَا وَ تَخَلَّتْ ①	تہ یہ کیشرھا تھہ منز چھ سہ ترھند تہ تہیر چھیکتھ تہ ترھریے روزہ۔
وَ اِذْ نَسَتْ لِرَبِّهَا وَ حَقَّتْ ①	بہ سینس پروردگار بند (کلام کر بوزہ) خاطر دار کرن تہ یس چھ (تس پیٹھ) قرین۔
يَا أَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادٍ حٍ اِلَى رَبِّكَ كَذٰبًا فَمَلِقِيْهِ ①	اے انسان! تہ چھکھ سینس پروردگار کن یازہ نور لاگتھ گزھن وول او چھکھ تس سمکھن وول۔
فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبًا بِرِيسٍ مِّنْهُ ①	لہذا سینو بندس وچھینس اھنس منز تھند اھمال نامہ دو پیہ۔
فَسَوْفَ يَحْسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا ①	تہ تس پیہ اول اول سہل پاٹھو حساب بہتر۔
وَ يَنْقَلِبُ اِلَى اٰهْلِهِ مَسْرُوْرًا ①	تہ سہ چھیر سینس اہل و عیاس کن خوش تہ خوشحال پاٹھو واپس۔
وَ اَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبًا وَّرَآءَ ظَهْرِهِ ①	تہ تھیس تہنیز تھریتر کتہ تھند اھمال نامہ دہر پیہ۔


یہ یعنی ییلہ آسمان پیٹھ سپدن ییلہ پاٹھو نشان ظاہر۔ (منہ)
تہ یعنی آسمانی لوکھ یعنی نیک لوکھ سپدن خدا تعالیٰ بہترن کتھن پیٹھ دیان ولس تیار۔ (منہ)
تہ یعنی علم طبقات الارض (GEOLOGY) کر ترقی تہ زمیہ منزین پیٹھول گیس تہ معدنیات کڈتہ۔ (منہ)
یہ یعنی زمینکو لوکھ تہ سپدن خدا تعالیٰ سدا کلام (قرآن) بوزلس کتہ تیار۔ (منہ)
یہ یعنی خدا تعالیٰ سدا ملاقات چھ تھو لقیہ آسمان یس سارکے و اللہ عبادت کر۔ (منہ)

فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُودًا ۝۱۶
 وَيَضِلُّ سَعِيرًا ۝
 إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُودًا ۝
 إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَخُودَ ۝
 بَلْ جَرَاتِ رَبَّةَ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ۝
 فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ۝
 وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ۝
 وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ۝
 لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ۝
 فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝
 وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ۝۱۷
 بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكْذِبُونَ ۝
 وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ۝
 فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝
 إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ
 أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝۱۸

سہ دہ جلدی (پنہ دہہ سوتی پنہس) ہوکتس ناد۔
 سہ سید و ہونس تارس منتر۔
 سہ اوس پنہس اہل دعیاس منتر سپٹھا خوش روزان۔
 (تو) پڑھ اوس نہ کشادی پتہ پیہ نہ تس نہ تہ شغلی۔
 مگر تہ اوس (مضور) سیدن تہ کیا نہ تسد پروردگار اوس
 تس یقیناً دوجہان۔
 تو تہندہ نیارچ غلطی ثبات کرتہ خاطر چھن اوس شفق
 پیش کران۔
 بیہ راتھ تہ بیہ تہتہ یہ سہ سہ نہ تہہ ٹوٹھ انان چھینہ۔
 بیہ زون تہ بیہ سہ ترواہمہ راتھ ہنر سپدان چھینہ
 (چھن اکہ شہادتہ کتہ پیش کران)۔
 توہی دا تو ضرور درجہ پتہ درجہ یکن حالتن پیٹھ۔
 تہ یکن کافرن کیا چھہ گوشت نہ ہم چھہ اکان انان۔
 بیہ سیدہ تمن بروٹھ کتہ قرآن یہ تہ پیہ تہ سجدہ چھہ کران۔
 بلکہ کافر چھہ پنہس کٹرس منتر لڑت سہ نہ سیر دراہتر
 نہ ہم (قرآنک پڑ) اپڑاوتہ۔
 تہ اللہ (تعالیٰ) چھہ تہ زہر پٹھ زانان یہ تو پنہن
 دن اندر کھنٹہ تھوومت پیٹھ۔
 لہذا تمن د (تہندہ پو شیدہ خیالہ تہ ظاہری اعمال ہند
 باعوتہ) کر بیٹھ عذاب نہ خبر۔
 مگر تم (لوگ) ہیو ایمان اون تہ مناسب حال علو کرکھ
 تمن سیدہ اکھ نہ موکلن وول (نیک) اجہر۔

۱۷
 ۱۸

۱۷ شفق سہ وہ زہار میں آفتاب کھنہ تہ لوستہ و ہر نہیہ ذہر پیٹھ غا ہر سپدان چھہ۔ اتھ
 آیس منتر چھہ ونہ امت نہ تھکنو شفق چھہ کہے کالس روزان۔ یہ تھہ کتہ اسہ اسلامک
 آفتاب لوستہ پتہ تہ کے زمانہ تہ سہ کھسہ بیہ۔ (منہ)
 ۱۸ سہ بیہ تھکنو ترواہم، ترواہم، پنہاہم نہ شو راہم زون کھل چھینہ آسان یہ تھہ پٹھ سپدہ ترواہم،
 ترواہم، پنہاہم نہ شو راہم صدی منتر اسلامچ ترقی کھل۔ انشاء اللہ



سورة بروج . یہ سورہ چھ کی ہے بسم اللہ بہتہ چھ اتمہ ترووہ آیت ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①	(ہر چھیس) اللہ (تعالیٰ) سُنَد ناو بہتہ (پر ان) یس حہر رُوس کرم کرن (وہ) چھپرک چھپرک رگم کرن وول چھ۔
وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ①	ہر چھینس بُرجہر (رُاش) وول آسمان شہادتہ کتبہ پیش کران ایلہ
وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ①	بیس سہ دوہم تہ نیہیک و عہر چھ۔
وَشَٰهِدٍ وَّ مَّشْهُودٍ ①	بیس (و عہر) و تہ آمت (گواہ) تہ بیس سہ شخص نیہر بہتر پیشکونی برو تھین کتا بن مشر ہو بود چھینہ۔
فَتِلْ آصْحَابِ الْاُخْدُوْدِ ①	خندتہ وُالی گے ہلاک۔
التَّارِذَاتِ الْوَفُودِ ①	بیسے (خندقن مشر) نار (و ہاوان وُالی) بین کھین مشر (جان پاٹھی) زان (تراوہ آمت) اوس۔
اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ①	بیلہ تم تھہ نارس پیٹھ (درتہ و تھہ) بہتہ اوس۔
وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ①	بیس یہ کھینہر (معاہد) تم مؤمن سوسی کران اوس، بہتہ دل اوس تہج حقیقت زانان۔
وَمَا نَقْمُوا بِمَنَّهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْحَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ①	بیس تم اوس بہتن سوسی محسن اہرکتہ دشمنی کران تہتو کیا زان (تہ) سارکبے تعریفن لایق اللہ (تعالیٰ) ہس پیٹھ ایمان ؟

یہ چھ اتمہ سمانس باہ راش مانہر لوان چھ تھہ پاٹھی چھرکائی آسمانس تہ باہ بُرج تہ مؤمن بہتہ
رُاش پستہ رُاش ترقی کر تھہ کھسان تہ آمت محمد کریم رُو تائی آفتاب چھہ تم چھہ اسلام کرہ بزج شہادت دوان۔
تہ بیس آمت محمد بیس مشر پیہر اکھ امتی استا و کر تہ بیس الہام الہی سوسی دنیا ہس مشر رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم ہندہ پز ریح شہادت دیہ تہ بیس پاسہر آسہر ہس شخصس متعلق تہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہندس کلاس مشر پیشکونی۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسہر شہادتہ تہ مشہود تہ۔
تہ پزرن مذہبن ہندہر مخالفت چھہ پرتھہ زمانس مشر مؤمنن جلافت ہستہ تہ فسادک نار و ہاوان
تہ تھہ مشر چھہ کما قسمر زانہر تراوان گر شہان مگر مؤمنن ہندہر خاطر چھہ یہ نار کھزار بنان تہ
مخالفت چھہ اتمہ مشر دزان۔

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿۱۰﴾

سے اللہ (تعالیٰ) سیمو ہندس اتقس منتر آسمان
ہنرتہ زمپنچ بادشاہت چھین۔ بیہ (پہ چھینر
سوچان ز) اللہ (تعالیٰ) چھہ بڑیچہ چھینر
(کبو حالاتو) ہنرتہ خبردار۔

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ
عَذَابٌ الْحَرِيقِ ﴿۱۱﴾

تم لو کہ یو مؤمن مرد تہ مؤمن زنانہ عذابس
منتر گرفتار کر کر پتہ کورکھ تہ (پتہ نہ کرتو تہ ہنرتہ)
توبہ بہن میلہ بے شک جہنمک عذاب بیہ میلہ کن
(یچہ دنیہ ہس منتر تہ اول) زابہ تہ ہنرتہ اول
عذاب۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ
جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ
الْكَبِيرُ ﴿۱۲﴾

(تہ) یو لو کو ایمان اون تہ سستی کرکھ تہہ (ایمان
کہ حالہ) مطابق عمل تہ بہن میلن (تہنر) بارغ
بہن منتر کولہ پکان آسن (تہ) بیہ چھینر بڑا کامیابی۔

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿۱۳﴾

بے شک چھینر چالس پروردگار سنرتھپ کر سچہ آسان۔

إِنَّهُ هُوَ يُبْدِي وَيُخْتِئُ ﴿۱۴﴾

(تہ کیا ز) سے چھہ دنی پھک عذاب شروع کران۔
تہ (اگر کا نہ توم بانہ بیہ تہ تیبہ) چھہ پھیر کر پھیر کر
عذاب انان۔

وَهُوَ الْعَفُورُ الْوَدُودُ ﴿۱۵﴾

بیہ چھہ سہ (اتھ سستی) اتھہ رؤس بخش مار (تہ)
اتھہ رؤس محبت کرن اول تہ۔

ذُوالْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿۱۶﴾

(تہ) عرشک مالک (تہ) تھہہ شانہ اول

فَعَالَ لِمَا يُرِيدُ ﴿۱۷﴾

سہ نیہ کتھ ہند ارادہ کر سہ چھہ کرہتہ روزن اول۔

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ﴿۱۸﴾

کیا تو بہ ہنرتہ آئی تا (پزہ کن دشمن ہند) لشکر بچ
تھیر؟

فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ﴿۱۹﴾

یعنی فرعون تہ تمود بہن لشکر ہنرتہ۔

بِالَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ﴿۲۰﴾

پزہ چھہ یہ تر کافر چہ ہرشد پدا انکار (کس مرضس)
منتر (آورتہ آہتی)۔

وَاللَّهُ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ مُّحِيطٌ ﴿۲۱﴾

بوزوے تہ اللہ (تعالیٰ) چھہ بہن پتہ کتہ (یچہ)
(تہن) گہر کرن اول۔

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ﴿۲۲﴾

یہ تہ چھہ (امر مغلو) اکھ حقیقت تر سہ (کلام یس)

میں کھن ہنر خبر دوان چھ) سہ چھ اکھ اظہ
 پاک کلام بیہ چھ پر پتہ جائے تو پر پتہ زانس منز
 پر پتہ بیسہ دول کلام بیہ
 (تہ تمہرہ طلو چھ کمال بیہ زہ) سہ چھ لوح محفوظ بیہ
 منز۔

فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ۝

سُورَةُ الطَّارِقِ مَكِّيَّةٌ ذَرِيَّةٌ مَعَ الْبِسْمِلَةِ ثَمَانِي عَشْرَةَ آيَةً

سورة طارق : ۱۸۔ سورہ چھ کی تو بسم اللہ ہتھ چھ اتھ اردوا آہ۔

(پر چھس) اللہ تعالیٰ) سہ ناو ہتھ (پر ان) بیس
 حد روس کرم کرن دول (تہ) پھیر کر پھیر کر رحم
 کرن دول چھ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

بیہ چھس آسمان تہ صبحک تارکھ شہادتہ کتہ پیش
 کران۔

وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ ۝

تہ کتہ چہزن چھ تریہ علم دیت مت نہ صبحک
 تارکھ کیا چھ؟

وَمَا آذٰرُكَ مَا الطَّارِقُ ۝

(سہ چھ) سہ تارکھ بیس سہٹا زوان چھ۔

النَّجْمِ الثَّاقِبِ ۝

(اکی چھ دعوی کران نہ) کانہ زو تہ چھنہ (تہ
 قبمک) بیٹہ پیٹہ (تہ لایہ بند طرف) اکھ راجھدر
 مقرر آسہ تہ۔

اِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَیْهَا حَافِظٌ ۝

لہذا انسان پتر وچھن نہ سہ کتہ چہز ہتھ چھ یاد
 کرتہ آمت!

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ وَمِمَّ خُلِقَ ۝

سہ چھ اکھ دول آہ (بھیر) ہتھ یاد کرتہ آمت
 سہ چھ تھرتہ لکانو منزی ہاگر نیران۔

خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ ۝

يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۝


سہ (یعنی خدا) چھ تس یقینا دوبار پھیرتہ انس
 پیٹہ تہادر۔

اِنَّهٗ عَلٰی رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ ۝

سہ قرآن، بیس تحریر ہمیشہ پر نہ بیہ۔
 سہ یعنی قیاس تمام روز محفوظ۔

یَوْمَ تُنْبَلُ الشَّرَائِدُ ﴿۱۰﴾
 فَمَا لَهُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ﴿۱۱﴾
 وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴿۱۲﴾
 وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴿۱۳﴾
 إِنَّهُ لَقَوْلُ فَضْلٍ ﴿۱۴﴾
 وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ﴿۱۵﴾
 إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿۱۶﴾
 وَآكِيدُ كَيْدًا ﴿۱۷﴾
 فَمَهْلُ الْكُفْرِ بَيْنَ أُمَّهَاتِهِمْ دُونَ كَيْدٍ ﴿۱۸﴾

تہہ دوہہ نیلہ یوشید رازتخی کرٹہ بیڑی۔
 نیہہ بکونے تہ روزتس (انسائس) بتس (بلاے
 کاسٹک) کاٹہہ طاقت تہ نہ آسہہ تس کاٹہہ ہرگاہ
 بہر چھس شہادہہ کتہ سہ اوہر پیش کران یس آہہ
 ہستی بڑتہ پھیرک پھیرک روڈ والان چھہ۔
 بیہ چھس زمین تہ شہادہہ کتہ پیش کران یوہہ روڈ
 پسنوہ پتہ وولہ پدن پلوہ وان چھینہ۔
 بہ شہادت چھینہ اتھہ کتہ پٹہ نہ سہ (قرآن) چھہ
 یقینا، قطعی تہ فاصلہ کرن وول۔
 تہ سہ چھتہ کاٹہہ (بے کار تہ) کمزور کلام۔
 ہم لوگہ کرن یقینا (یتھ قرآنس خلاف) نرھل تہھلر
 تہ بہ (تھل) تہ کر (تس خلاف) زبر تہہرا تہ پوز تہہ۔
 لہذا (اے رسول!) کافرن و موہت (آ) تمہن
 و کینہہ دوہہ بیہ موہت (یتھ نہ یوت زور لاگن
 بیڑھن، لاگن)۔



سورة الاعلیٰ : یہ سورہ چھہ کی تہ بسم اللہ ہتھہ چھہ اتھہ تھہ آہہ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾
 سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰی ﴿۲﴾
 الَّذِیْ خَلَقَ فَسَوٰی ﴿۳﴾
 وَالَّذِیْ قَدَرَ فَهَآی ﴿۴﴾

(بہر چھس) اللہ (تعالے) سندا تاو ہتھہ (پران)
 یس حدہ رؤس کرم کرن وول تہہ (پھیرک پھیرک
 رحم کرن وول چھہ۔
 (بے رسول!) پسنس بزرگ تہ برتر پیرور دگاہ
 ہندہ تاوگ بے قاب آسن کر بیان۔
 سہہ سہہ (انسان) پادہ کوز تہ (سہ) بنوون
 بے قاب۔
 بیہ نیو (تہندین طاقتن ہند) اندازہ کوز تہہ (تمو
 مطابق) دین تس ہدایت۔

بے سیمو ز مسیبتہ منز ڈرمن وو پوو۔ پیتر۔ نوڈن تنھہ کزہن ترھوٹھ۔	وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ ۙ فَجَعَلَهُ عُتُقًا ۖ وَخَوَىٰ ۙ سَنَفَرًا ۙ فَلَا تَلْسَىٰ ۙ
(اے مسلمان!) اسی پرناووتھ تر (تنھہ پاٹھو) تر تمہ کز ترھکھہ تر تر تراہ (تر) مُشترُوتھہ۔ تمہ ورازی ی اللہ (تعالیٰ) مُشترُوتھہ وناون نیرھہ سہ چھہ یقیناً ظاہر تر زانان تر تیرہ تر ترھایہ چھہ۔	إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۗ إِنَّهُ يُعَلِّمُ الْجَهْرَ ۙ مَا يَخْفَىٰ ۙ
بے (اے مسلمان!) اسی کرو چاہہ تر طاہر (کامیاب تر) سہولیت تر حاصل کرنہ سہل۔ لہذا تر تر روز نفیحت کران۔ نفیحت کرہ چھہ (ہمیشہ وڈی مہس منز) قاید مند روزان۔ یس (خدا یس) کھوتھن چھہ سہ رط یقیناً نفیحت۔ تر (تنھہ مقابلہ) یس نہایت بدبخت آسہ سہ روز اے رتہ لوبے ہوان۔ (سے) یس بُرئس ناس مشرُوتھہ نخل سپدن وول چھہ۔ پیتر (تنھہ مشرُوتھہ) نہ تر مر سہ تنھہ مشرُوتھہ تر روزہ ز ندہ۔ یس پاک بنہ سہ سپد یقیناً کامیاب۔ شرط چھہ یی تر سہ ہنسیہ (پاک پننس ستر ستر ستر) پننس پروردگار سندا ناو تر بے روز نہاڑ پران۔ مگر (اے مخالفو!) توہر (لوکھ) تر چھو و نیادی ز ندگیہ (مخترس پیٹھ) تھنر ودان۔ بوز وسے تر آخرت چھہ کتر کور بہتر تر تر کال پر ستر ون۔ بے شک چھہ ییہہ کہتہ، بروٹھو ہن صحیفن منز تر (درج)۔ (یعنی) ابراہیم تر موسیٰ ہندن صحیفن منز۔	وَتُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ۙ فَذِكْرٌ وَإِنْ تَفَعَّتِ الذُّكْرَىٰ ۙ سَيَذَكَّرُكَ مَنْ يَخْشَىٰ ۙ وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشَقَىٰ ۙ الَّذِي يَصِلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ۙ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَخْيَىٰ ۙ فَذَا فَلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ ۙ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ۙ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۙ وَ الْاٰخِرَةَ خَيْرًا ۙ وَ اَبْقَىٰ ۙ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْاَوَّلَىٰ ۙ صُّحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَ مُوسَىٰ ۙ

۱
۱۴

۱۰ یعنی قرآن کریم بے مسلمان ہندن دن منز تھیا ٹھو لوپہ تر کرہ تر قیامت نام روزان بین منز کیہنہ
بتھو لاکھ ہم قرآن کریم کیچ تعلیم وڈی مہس منز چھالون تر اچھہ عالم تھاون تھنر۔ (منہ)

فِيهَا سُرُورٌ مَّرْفُوعَةٌ ﴿١٥﴾	تھ (جنس) منز آسن (بیر) تھدک تحت تہ تھاونہ آہتر۔
وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ ﴿١٦﴾	بیر آسن تر نیشہ ٹوزک سجاوہ آہتر۔
وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴿١٧﴾	بیر آسن لہ کپڑ لہ کپڑ سیکپہ (دوڑکھ و تہ خاطر) (دوڑکھ لہ کپڑ لہ کپڑ تھوہ آہتر۔
وَزَرَائِبٌ مَبْنُوثَةٌ ﴿١٨﴾	بیر آسن قاپلن و تھراونہ آہتر۔
أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْآيَاتِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٩﴾	تہم جھنا او برس لہ کن و مچھان نہ سہ کہتہ پا ٹھو چھ پاؤ کر نہ آمت۔
وَالِى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿٢٠﴾	بیر (تہم جھنا) آسمان کن (و مچھان تہ) سہ کہتہ پا ٹھو چھ تھراونہ آمت۔
وَالِى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿٢١﴾	بیر پانترال کن (جھنا و مچھان تہ) تہم کہتہ پا ٹھو چھ تھراونہ آہتر۔
وَالِى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٢﴾	بیر نہ مپنس کن (جھنا و مچھان تہ) سہ کہتہ پا ٹھو چھ تھراونہ آہتر۔
فَذَكِّرْهُ لَأَنَّكَ آتَمْتَ مَذَكِّرٌ ﴿٢٣﴾	لہذا تہم کر نصیحت تہ تہم چھکھ صرف نصیحت کرن دول۔
لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ ﴿٢٤﴾	تہم چھکھ نہ تہم (لوکن) پٹھ وارو تہ (ہیو) مقرر۔
إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ﴿٢٥﴾	الایمہ تھراونہ تہم کفر کورن۔
فَيَعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٢٦﴾	تہم کس نتیجس منز وہی اللہ (تعالی) تس سارو کھوتہ بوڈ عذاب۔
إِنَّ إِلَيْنَا أِيَابَهُمْ ﴿٢٧﴾	یقیناً پھ تہم اسی کن پھرتہ یں۔
ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿٢٨﴾	پہر تہم حساب ہون تہ چھ بے شک سانی کام۔

لہ ایل: چھ دونہ سدا م ناو۔ لوغس منز چھ اتھ او بر تہ معہ لپکھتہ (مفردات)۔

سُورَةُ الْفَجْرِ مَكِّيَّةٌ وَرَبِّهَا مَعَ الْبَسْمَلَةِ اِحْدَى وَ ثَلَاثُونَ آيَةً

سُورَةُ فَجْرٍ : پَر سُورَه چھ مکی تہ بسم اللہ ہتھ چھ آیتھ اکثرہ آیت۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①	(بہ چھیس) اللہ (تعالیٰ) سدا ناو ہتھ (پر ان ایس) حد رؤس کرم کرن دول (تہ) پھیرک پھیرک رحم کرن دول چھ۔
وَ الْفَجْرِ ②	بہ چھسن شہادت تہ کہہ اکھ پتہ دول فجر پیش کران۔
وَ الْبَیِّنَاتِ ③	بہ داہ راز تہ یثہ
وَ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ④	بہ اکھ جفت تہ اکھ طاق تہ یثہ
وَ الْاَيْلِیْلِ اِذَا یَسِرْنَ ⑤	بہ (پٹھ کہہ) دنہ آمشرو ڈھو راترو پتہ پتہ (بجز) اکھ راتھ یثہ سہ تیرتہ باچھ سکھ یثہ
هَلْ فِیْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِیْ حِجْرٍ ⑥	کیا اتھ منز حیا عقلہ اول سندر خاطر کا نہہ قسم (یعنی شہادت کہہ تہ؟)
اَلَمْ تَرَ کَیْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ⑦	کیا تری چھیا پے تہ چانی پروردگارن کیاہ (معاہدہ) کوز عاد (تومس) سبتی؟
اِذْ هَا هَاتِ الْجَمَادِ ⑧	یعنی (عاد) اسم یثہ تھزن تھزن مندورن ہندک ہا یک اسی۔
الَّتِیْ لَمْ یَخْلُقْ مِثْلَهَا فِی الْاِیْلَادِ ⑨	تہ لاکھ یکن ہجو کہنتر قوم یکن ممکن منتر یاد کرنہ آمت اوس تہ۔
وَ تَمُوْدَ الَّذِیْنَ جَابُوا الصَّخْرَ ⑩	تہ (کیا) تمود (تومس متعلق تہ چھیا تری علم؟) یثہ وادین منتر کھنتھ (بجز مکاتہ) بناوان اسی۔
یٰۤاَلْوَادِ ⑪	

لہ فجر اسلام یعنی ہجرت مدینہ (منہالہ) یعنی یہ سورہ نازل سیدہ پتہ مکر مس منز حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہ صحابن ہندین تکلفین تہ مصیبتن ہندک گلا کرک داہ وری ہجو پتہ ہجرت سینہ۔ (منہ)

تہ یعنی ہجرتس منز اوس رسول اللہ صبتی حضرت ابو بکر یثہ سیدر جنت تہ اللہ تعالیٰ گوو طاق یثہ یکن سبتی اوس۔ (منہ)


تہ یعنی ہجرت پتہ مدینس منز اسہ گہ دتھ تکلفین ہنزا کہ راتھ لہ سہ جلدی ختم گرتھ۔ (منہ)

وَفَزَعُونَ ذِي الْأَوْتَادِ ۝
 اَلَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ۝
 فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ۝
 فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۝
 إِنَّ رَبَّكَ لِيَالْمُرْصِدِ ۝
 فَمَا آتَى الْإِنْسَانَ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ
 فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ۝
 وَإِنَّمَا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ
 فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ۝
 كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرَمُونَ الْيَتِيمَ ۝
 وَلَا تَحْضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمُسْكِينِ ۝
 وَتَأْكُلُونَ السَّرَاةَ الْكَلَّا لَمَّا ۝
 وَتُحِبُّونَ الْعَالَ حُبًّا جَمًّا ۝
 كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۝
 وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۝
 وَجِئْنَا بِيَوْمٍ مَّيِّدٍ بِجَهَنَّمَ ۝ يَوْمَئِذٍ

بیہ فرعونس (متعلق تہ چھیا کینہ پئے) یس بالہ ہند
 مابک اوس۔
 تم (بل)، یو شہن منز سجت فساد نہمت اوس۔
 بیہ اوس فسادن منز جادے جادے ہران۔
 بیتھ پیٹھ چانڑ پروردگارن تمن پیٹھ غذاک دہر وول۔
 چھن پروردگار چھ بے شک ناکہ (روزیتھ)۔
 لہذا تہر وچھ تہ، انسانہ ستر حالت نیلہ تہر پروردگار
 تس آزمائشہ منز تراوان چھ بیہ چھ تس عزت کران
 بیہ چھ تس پیٹھ نعمت نازل کران تہ س پیٹھ دنان
 نہ (ہر چھس تہیتہ شاہہ وول نہ) میانی پروردگارن
 (تہ) کڑ میہ عزت۔
 تہ نیلہ (خدا) تس آزمائشہ منز تراوتھ تسد برقی
 تنگ کران چھ تہ س پیٹھ دنان، میانی پروردگارن
 کڑ میہ (ہنگتہ منگہ) بے عزتی۔
 (خدا تعالیٰ چھتہ ہنگتہ منگہ سزاوان) ہنگہ (تصور
 چھو توہہ پین نہ) توہر اوس و تہ ہتہیم ستر عزت
 کران۔
 تہ نہ اوس و مسکپنس کھن کھیا دنس کن اکھ اوس
 رعیت دیاوان۔
 بیہ اوس و دراتنگ مال سرسالم (عاشن منز)
 وڈاوان۔
 بیہ اوس و توہر ماس ستی اچھہ روستے محبت کران۔
 بلونو! نیلہ زمین چھلہ چھلہ کرتہ ہیمہ۔
 تہ چھن پروردگار یہ تھہ شانس منز زلاک اس
 صف گندہ ہستاد۔
 تہ تمہ دوہر ہیمہ جہنم نزدیک، انتہہ۔ امیر عبدہر

يَتَذَكَّرُ إِلَّا نَسَانٌ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى ﴿٧﴾
 وَبِشْرِهِ إِنْسَانٌ نَزَّاعَتُ رُءُوسَهُ مِمَّا رَمَى
 نَفْسَهُ يَنْشَرُ بِرَأْسِهِ فَمَا يَدِيدُ مُلْتَكَ وَتَت
 سَهُ وَتَرَاكُشُ! مَيِّتَ آسَرُ هَيْسَ بَسْتَبَدَّ (نسيم) زندگی
 غماطر کثیرتھا برؤنٹھ سوزمت۔
 لہذا تمہے دوہوہو رہے ہو تمس کا نہہہ خلیہ ہندس غذا میں
 ہونے غلاب۔
 تہ نہ ہیکہ کا نہہہ تسنہز ہش گرفت کر تھ۔
 اے نفس سٹھمتہ!
 پسنس پروردگارس کن بہ واپس اتھ حاسل منہز بہ تہ
 چکھتس راضی تہ سہ پچھے تریہ راضی۔
 اڈ (جون پروردگار پچھے تریہ زمان نہ) دولہ میانہن
 (خاص) بدن منہز گتھہ داخل۔
 بیہ (دولہ) میانہن جنس منہز تہ گتھہ داخل۔

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٨﴾
 اِذْ حَبَّبَ إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مُّرْضِيَةً ﴿٩﴾
 فَأَدْحُبِّي فِي عِبَادِي ﴿١٠﴾
 وَادْخُلِي جَنَّاتِي ﴿١١﴾



سورۃ بلد، یہ سورہ چھ کی تہ بسم اللہ ہوتہ چھ اتھ اکوہ آہ۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾
 لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴿٢﴾
 وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴿٣﴾
 وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ ﴿٤﴾

(یہ چھس) اللہ (تعالے) سہ ناو ہوتہ (پرلن) بیس
 حدہ رؤس کرم کرن دول لاتہ، پھیرک پھیرک رحم کرن
 دول پچھ۔
 بوزو! تہنہز کتھ چھینہ غلط۔ یہ چھس یہ شہر (کہہ)
 چاہہ پزہ کہہ پیش کران یلہ
 بیہ (چھس) زمان نہ اسے محمد! تہ چکھ (اکر دہہہ)
 بیہ یقہ شہرس (یعنے کس) منہز واپس یہو دول۔
 بیہ دول تہ تہ نیچو تہ (چھس) یہ شہاد تہ کہہ پیش کران

سہ یعنی پچھس یہ شہاد تہ کہہ پیش کران۔

سہ یعنی مول حضرت برصم علیہ السلام تہ نیچو حضرت اسامہ علیہ السلام کیو کج بنیاد تھاوے یہ تویم دونو سے
 تہ چھ مولی اللہ علیہ وسلم ہندس پزرس گواہ۔


لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ۝
 أَيْحَسِبُ أَنْ لَنْ يُقَدَّرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ۝
 يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَا لَا لَبَدًا ۝
 أَيْحَسِبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ۝
 أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ۝
 وَرِئَاسًا وَاشْفَعَيْنِ ۝
 وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ۝
 فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۝
 وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۝
 فَكَّ رَقَبَتَهُ ۝
 أَوِ اطَّعِمُهُ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْجَبَةٍ ۝
 بَيْتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝
 أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۝
 ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا
 بِالضَّيْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۝
 أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۝
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَايَعْنَا هُمْ أَصْحَابُ
 الْمَشْأَمَةِ ۝

اسر چھ انسان یقیناً ہمیشگی تہ ششک پابند بنوئت۔
 سہ چھایہ گما تہ کران نہ تس پیٹھ چلہ نہ کانسہ ہند زور؛
 سہ چھ وٹان نہ میڈ چھ اشیرو اشیرو مال خرچوئت۔
 کیا سہ چھا زانان نہ تس چھنہ کنہز وچھن دول؛
 کیا اسر کرناہ تندر خاطر نہ اچھ پاد؛
 بیہ زو تہ تہ نہ وٹھ تہ (کرناہ پاد؛)۔
 پیٹھ چھ اسر تس (ہایت تہ گراہی ہنر، دہ نوے
 و تہ تہ ہاؤر مشر۔
 (۱۱۱ پوز) سہ کھوت نہ توتہ تھوئیس پیٹھ۔
 یہ کھ چھے تریہ وونمت نہ تھوئنگ کیاہ چھ؛ (۱) تہ
 کھ چیزک ناو چھ؛ (۹)
 (تھوئیس پیٹھ کھسن) چھ (غلام ہنر) گردن لوکلارہ۔
 یا چھ بوجھ ہند دہ ہو کھین کھیاولن۔
 تپس یس آشنا (تو) اسہ۔
 یا مسکپس یس پتھرہ یوئت اسہ۔
 پیٹھ (تھوئیس پیٹھ کھسن اوس پیٹھ تھو کا ہو علاو)
 ہنہ بے سہ تھو لوکو منر یو ایمان افن تہ (بیو)
 اکھ اگس مہرج نصحت کر۔ بیہ کرکھ اکھ اگس پیٹھ
 رعم کرینج نصحت تہ۔
 یے لوکھ چھ برکتر وال۔
 تہ یو سانہن آین ہند کھر کوڑ تم آسن شوئتہ وال۔

۱۔ یعنی کہ فتح کرنے یا پتھ پیسہ محنت کرنے تہ بچہ قربانی بین دین۔
 ۲۔ یعنی ہلکو کافر چھ گمان ران نہ تس ہیکہ نہ کانسہ فتح کرٹھ۔
 ۳۔ یعنی اصلاح مخالفت کرنس منر۔
 ۴۔ یعنی زیو تہ وٹھو ہنر کرے پیٹھ شک تھیہ خاطر تہ پیٹھ دل کرے پاک۔

عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ ۝

۱۱۱ جن پچھ سپر کوندر ہند نار (سزا بہ کتا نازل۔



سورة شمس : یہ سورہ چھ کی تو بسم اللہ بہتہ چھواتھ شرہ آہ۔

۱۱۱	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝	۱۱۱	بہ چھس (اللہ تعالیٰ) سندا ناو بہتہ پران (بیس ہر روس کرم کرن وول (تہ) پھری پھری جم کرن ول چھ۔
۱۱۲	وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ۝	۱۱۲	بہ چھس آفتاب شہادتہ کہہ پیش کران بیہ وقت ضحیٰ نیلہ سہ آفتاب) پھولنہ پتہ تھلان چھ۔
۱۱۳	وَاقْمَرٍ إِذَا تَلَهَّأ ۝	۱۱۳	بہ زون نیلہ سہ آفتاب پتہ یوان چھ۔
۱۱۴	وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۝	۱۱۴	بہ وہ (تہ چھس بہ شہادتہ کہہ پیش کران) نیلہ سہ تھہ (آفتاب) نی راوان چھ۔
۱۱۵	وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۝	۱۱۵	بہ راتھ تہ (چھس بہ شہادتہ کہہ پیش کران) نیلہ سہ تمیک (یعنی آفتاب) گاش اچھولنہ دور کران چھ۔
۱۱۶	وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَىٰ ۝	۱۱۶	بہ زمین تہ تہ تمیک و تھراوتہ یں تہ (چھس بہ شہادتہ کہہ پیش کران)۔
۱۱۷	وَالْأَرْضِ وَمَا طَخَىٰ ۝	۱۱۷	بہ انسانی نفس تہ تہ تمیک بے عاب بناوتہ یں تہ (چھس بہ شہادتہ کہہ پیش کران)۔
۱۱۸	وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّىٰ ۝	۱۱۸	تہ تہ (اللہ تعالیٰ من) چھ اتھہ (نفس) پچھ تہ تہ بدکاری (ہنر و تہ) تہ تہ تہ تقویٰ (چہ و تہ) تہ زہر پٹھ ناوی مشہ۔
۱۱۹	فَالهَمَّاهَا فُجُورًا وَتَقْوَاهَا ۝		

لہ آفتابس چھ مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یس قرآن کریمس منز سراج منہیر
ونہ آمت چھ یعنی بہنر ذات چھیدہ اسلامکہ یزہرہج اکھ غواہ تہ سہ پھولنہ پتہ کر جلدے دنیہس
پتہ نواز سترہ منور۔ لہ یعنی آمت محمدیکر محمد تہ مائور لوی پن سورے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبند نواز
عالم کوزتہ سب تہ کم زونہ ہندک پٹھ تہ تہ متبع آسن۔ لہ اسلامچہ ترقی تہ ہند زمانہ۔
لہ یعنی کفر تہ الحادک زمانہ نیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبند نواز نظرو دلہ۔

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا ۝۱
اگر نیچر پہ (نفس) پاک کر (زانی توڑ) سہ دوت
پینس مرادس۔

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا ۝۲
تہ نیچر یہ (نیچر منفر) ڈو روو (زانی توڑ) سہ گوز
ناکام۔


كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ۝۳
تموڈ (قومن) اپزوو (زمانک نبی) پستہ جد غرختہ
روے گردانی کوز۔

إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا ۝۴
تہ وقتہ نیچر زن تہند قومہ منفر ساروے کھوتہ بوز
بد بخت تمو ہند (یعنی زمانہ کس نبی ہند) مخالفتہ باقتہ
استاؤ سپد۔

فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ
سندری رسولن (یعنی صالحن) ز اللہ (تعالیٰ) ہند ناقہ
وقف وؤنستہ ہشتہ روزو بچتہ تہ یحے پانچ روزو
تس تریش چاوتہ کس معالس منفر تہ پر پتہ قسم چہ
روے گردانی ہشتہ پتہ۔

وَسُقِّيَهَا ۝۵
اما یوز ہتو مانی تہ تمو ہنز کتہ بکد اپزوو کتہ سہ تہ
(تس) دوشتہ (سین ہش بچتہ روز بک تن حکم
دنہ آمت اوس) تہ کتہ ہک ہتہ نیچر کوز اللہ (تعالیٰ)
ہن کوز تن نیچر سستی ہنا وک قاصد تہ تہ تہ تہ تہ
کرن ز تہ پانچ سپد تہ۔

وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ۝۶
تہ سہ کر تہ (یعنی پانچو) یمن (کبہ وایمن) ہند
انجامک تہ کینہ پر وائے۔



سورۃ بیل : یہ سورہ چھ اکی تہ بسم اللہ ہتہ چھ اتھ تہ تووہ آہ۔

(بہ چیس) اللہ (تعالیٰ) سُد ناو ہتہ (پران)
یس جد رؤس کرم کرن وول (تہ) پھیر پھیر
رحم کرن وول پتہ۔


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝۱

بہ چھیس راتھ شہادہ تہ کتہ پیش کران نیلہ سمہ وؤلت کر	وَالْيَلِ إِذَا يَغْشَى ①
بہ چھسن دہہ تہ (بہ شہادہ تہ کتہ پیش کران) نیلہ سہ زبر پاٹھو روشن سپدان چھہ۔	وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ①
بہ عر تہ ماد ہنز پادایش تہ (چھسن شہادہ تہ کتہ پیش کران)۔	وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ①
ز تہنہز کوششہ چھینہ بے شک بیون۔ بیون۔	إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ①
اڈ بیجو (خلیہ ہنز و تہ) دیت تہ تقویٰ پروون۔	فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَآتَىٰ ①
تہ نیک کتہ کوزن تصدیق۔	وَصَدَقَ بِالْحُسْنَىٰ ①
تس کرو مسر ضرور آسانی (ہندہ موقہ) مہیا۔	فَسَنِيَّسْرُهُ لِيُسْرَىٰ ①
تہ سہ دشخص، نیجو بچلی سہم ہنز تہ لاپرواہی ہند اظہار کوزن۔	وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ①
تہ نیک کتہ اپڑاؤن۔	وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ①
تہند خاطر کرو اسی تکلیف (واتناد کی سامانہ) مہیا۔	فَسَنِيَّسْرُهُ لِيُعْسِرَىٰ ①
تہ نیلہ سہ ہلاک سپد تہ تند مال واتناو تہ تس کاشنہ فایہ۔	وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ ①
ہایت دین چھہ بلوشک سانی مہ۔	إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ③
بہ یرتہ کتہ ہند اتھہ تہ گودہ تہ چھہ بیشک اسی اتھہ۔	وَأَنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ ③
لہذا (یاد قہوونہ) مینہ (تہ) کرک و توہی امر و ہونہ نار نشہ ہشتار یس رہنہ ترھمان آسہ۔	فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ①
تھہ مفز عرژہ تہ کاشنہ ہڈس بد بختس ورا کی کنتی و اہل۔	لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ ①
(تہنہ بد بخت) نیجو (پڑا) اپڑو تہ (پڑ تہنہ) بچھن بقتہ۔	الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ①
تہ یس بڑ متقی آسہ سہ بہ ضرور تہر تہنہ دور قہوونہ۔	وَسَيَجْجَبُهَا الْأَثْقَىٰ ①
اتہنہ متقی (یس پڑن مل) (اچکی خلیہ ہنز و تہ)	الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ①

لہ یعنی نیلہ و ذی ہیس مفز مذہبی نیکس مفزانیہ گونٹ سپدان چھہ یعنی نیلہ و ذی یا مجدودہ مامزور تہنہ
خال سپدان چھہ۔ (مند)

دوان چھ۔ ز (تہ سوتی) کر (تسک) شلوزر حاصل۔
 بیہ چھتہ سکاٹہ ہندس پیٹھ کانہہ احسان آسان بینہ
 کہ بھہ وانگ تس تھیل آسہ۔
 آ، مگر پش تھہ پایہ پروردگار ہنر رضا مندی
 حاصل کرنی (چھ تسد مقصود آسان)۔
 تہ سہ (خدا تعالیٰ) سپد ضرر تس راضی۔

وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ ۖ ﴿۱۰﴾
 إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ﴿۱۱﴾
 وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴿۱۲﴾



سورۃ ضحیٰ، یہ سورہ چھ کی تہ بسم اللہ ہتھ چھ باہ آیہ۔

(بہ چھس، اللہ تعالیٰ) سُد ناو ہتھ (پران)
 یس حد رؤس کرم کرن وول (تہ) چھہرہ چھہرہ رگم
 کرن وول چھہ۔
 بہ چھسن دوہ شہادتہ کنہ پیش کران ییلہ سہ کاشران
 چھہ لہ
 بیہ (چھسن) راتھ (شہادتہ کنہ پیش کران) ییلہ
 تہج ابلگ تروونی طرفن تیلہ لہ
 ز نہ چھکھ تہ چھانی پروردگارن ترو تھہ تھمت تہ
 نہ چھہ سہ تریہ نش ناراض سیدمت تہ
 (تہ وچھ تہ سہی ز) چھانی ہرکانہہ پتہ بیہ واچہز
 گر چھینہ کوہنچہ گر ہند کھوتہ جاد بہتر آسان۔
 تہ ضرور دینی تریہ چون پروردگار تہ کثیر تھا تہیرہ سوتی
 تہ خوش سیدکھ۔
 کیا ایہہ تہ تہرہ لہ منز روڈ نا تھو سہ سلوک تریہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾
 وَالضُّحٰی ﴿۲﴾
 وَالْیَلِیٰ اِذَا سَجٰی ﴿۳﴾
 مَا وَدَّ عٰکَ رَبُّکَ وَاَقْلٰی ﴿۴﴾
 وَلَا خِیْرَۃَ خِیْرٌ لِّکَ مِنَ الْاٰوَّلِیٰ ﴿۵﴾
 وَلَسَوْفَ یُغْطِیْکَ رَبُّکَ فَتَرْضٰی ﴿۶﴾
 اَلَمْ یَجِدْکَ یَتِیْمًا فَاَدٰی ﴿۷﴾

لہ یفہ ییلہ اسلام ترقی کرتہ پانے سپد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنر صداقت تہا بیت۔

لہ یفہ مسلمان ہند زواج تہ کفر والحاد چہر ترقی ہنر انہ گٹ۔

بل کفر والحاد چہ یہ ترقی آسہ نہ امہ کتہ ہند تہوت ترغوز باللہ رسول اللہ اوس اپز لہیرہ تہ اللہ تعالیٰ کہ جلد

اسلاس قالیب۔

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝
فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۝
وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝

اے شک اتھ تھی سستی چھینے اکھ (بیاکھ) بڑ
کامیابی (تہ مقدر)۔
لہذا نیلے (تہ) تہ فراغت لبان آسکھ تیلہ آس
(خدا تعالیٰ اس سستی رہنہ یا پتھ) کو سبشتہ منزگتھ
روزان۔
یہ کر پتھس پروردگار کن تو بھ۔

سُورَةُ التِّينِ مَكِّيَّةٌ وَرُحِيَ مَعَ الْبِسْمَلَةِ نِسْخُ آيَاتِ

سورۃ تین : یہ سورہ چھ کئی تہ بسم اللہ بہتہ چھو اتھ تو آئی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝
وَالتِّينِ وَالتَّيْنُونَ ۝
وَطُورِ سِیْنِیْنِ ۝
وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِیْنِ ۝
لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْ اَحْسَنِ
تَقْوِیْمٍ ۝
ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سَافِلِیْنِ ۝

(بہ چھس) اللہ (تعالیٰ) سُد ناو بہتہ (پر ان)
یس حد روس کرم کرن وول (تہ) چھپر کر چھپر کر
رحم کرن وول چھ۔
بہ چھسن انجیرہ تہ ز تیون شہاد تہ کتہ پیش کران۔
بہ یٹھ پاٹھ سپنن پہاڑ (تہ)۔
بہ امن (تہ آشتی) وول شہر اکبر (تہ)۔
ایہ سارے شہادتہ چھینے ثابت کران نہ (یقیناً) چھ
اسہ انسان پر نیہ کن تہ مناسب ترین حالتس مشر
پاڈ کورمت۔
پتہ چھیر اسہ سہ اونے درجو کھوتہ (تہ) جساد
ناکار درجس کن واپس۔

لہذا بچہ چھ اکھ میو امہ کر ذکر سوتی چھ آدم علیہ السلام کن اشارہ تینس متعلق تورات کتاب
پیدایش باب ۲۲ ہس مشر چھ لکھتہ ز انجیر کہو و تھرو سوتی و جاو تہ پتہ پتہ پان۔
لہ ز تیون چھ حضرت نوح علیہ السلام کن اشارہ کران نیلے تہ تہ ناو سالاک بک آب و منہ پتہ
جوڈی باس پیٹھ مٹھرے تہ اک کو ترن انی پتہ توتہ مشر ز تیون چھ اک لند نیلے تیلہ
تہ پے وک نہ خدا تعالیٰ ہند فقلہ سوتی چھ سالاک آب و و تھمت۔
تہ یہ لفظ چھ جمع تہ مراد چھ سلسلہ کوہ سینا اتھ مشر چھ ٹوٹی علیہ السلام کن اشارہ کرتہ آمت۔


تمو لاکو ویا بی بیو ایمان اولن بی بیو متاسب حال
املل بجا ازی۔ لہذا تہندہ خاطر آسہ کہ اندنہ واتن
اول نیک اچہ۔

لہذا امر (تحقیقہ کر خاطر سپدہ) پتہ کس چیز
چھ تریہ جزا سزا کس معاس مشر ایزوان؟
کیا (وہ فی تہ بیکیا کا شہر خیل کر تھہ) از اللہ تعالیٰ
پچھتہ سارہ وسے جا کو کھوتہ بوڈ جا کم۔

إِلَّا الَّذِينَ أَمَلُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ①

فَمَا يَكْذِبُكَ بَعْدُ يَا لَيْسَ

أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَكَمِينَ ①



سورۃ علق، یہ سورہ چھٹا کی تہ بسم اللہ ہتھ چھ اتھ وہ آہ۔

(بیہ چھس، اللہ تعالیٰ) سندا و ہتھ (پران)
سے جدہ ریس کرم کرن اول (تہ) پھیر پھیر
رحم کرن اول چھ۔

پنن پورور گار سندا و ہتھ پیر پیر (سارہ چیز) پاد
کر۔

(بیہ پیر) انسان اکہ رتہ لو تھہر نیشہ پاد کور۔

(بیہ چھی اسی زبان تو قرآن) آس پرتھ بو زبان
تہ کیا نہ جان پرور گار چھ بوڈ کر کم۔

سہ پرور گار پیر علم سنتی علم ہیچینو (مت چھ تہ
برونچہ تہ ہیچینا)۔

تو چھ انسان (تہ کیشہا) ہیچینو مت یہ سہ برو تھہ
زاناں اوسہ۔

ایتھ پاطو تم خیل کرن چھ تھہ پاطو، بلکہ انسان
چھ یقینا جدہ پیر تیران۔

ہتھ پاطو تہ سہ چھ پنن پان (تھایہ سہر نقدہ ہتھ)
بے نیاز زاناں۔

پز چھ یہ نہ چائس پرور گار ہسے کن چھ پھتہ کر تھن۔

(اسے محاط بے!) تہ د (مید) تہ تہر ایسے تہس شغہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ①

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ②

إِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ③

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ④

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ⑤

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِكَيْغَىٰ ⑥

أَن يَرَاهُ اسْتَكْبَرَ ⑦

إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ ⑧

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُنْفَىٰ ⑨

سنبھرا پتھ (تمبر) ایس (نماز نشہ) پتھ رٹان پتھ۔
اُکس (عبادت گزار) بندس نیلہ سہ نہماز منتر اُور
آسان پتھ۔

عَبْدًا إِذَا صَلَّى ۝۱۱

(اے بوزن والہ!) تڑوتہ (میہ) ز اگر سہ (نماز پرن
دول بند) ہلایتس پیٹھ آسہ۔
یا تقویٰ محکم دوان آسہ۔

أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ ۝۱۲

تہ تس ٹھاک کرن دول آسہ (ہلایتک) منکر تہ
(امہ نشہ) آسہ مجتھ پھران (تہ آس ٹھاک کرن اول
سندا انجام کیا آسہ؟)۔

أَوْ أَمَرَ بِالْتَّقْوَىٰ ۝۱۳

سہ چھنا (یوت تہ) زانان ز اللہ (تعالے) چھ پرتھ
اکھ چہر وچھان (اوکئی بوزن سہ کن سیلہ تھاوتھ ز
سہ چھ غلطی کران)۔

أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ۝۱۴

پتھ پٹھو سہ بیترھان چھ تھتھ پٹھو سپد تہ بلکہ اگر
سہا پتہ امر کامہ نشہ) باز آوہ تہ اُسی دوس
ڈیکہ ترھاکہ رٹھتھ زور سان کھاکھر۔
پتھ ڈیکہ ترھوگ ایس اپزور تہ چھ تہ خطا
زد تہ۔

كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا
بِالنَّاصِيَةِ ۝۱۵

لہذا (کافرس) پترہ سہ انہ پتہ پتھس نادوتھ۔
اُسی تہ ان پتہ پٹھس نادوتھ۔

نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۝۱۶

قَلِيلٌ نَّادِيَهُ ۝۱۷

سندعُ الرّبّانيّة ۝۱۸

دشمنہ ہنتر مرضی مطابق سپد تہ معاملہ (لہذا اے
نبی!) تہ مہ کر اُسی ہنتر (یعنے امہ تہہ کس کافر ہنتر)
(طاعت تہ) صرف پتھس پروردگارس بروٹھتھ کتہ)
کر سجدہ تہ (امہ سجدہ کتہ) روز (پتھس پروردگارس)
تزدیک گرتھان)۔

كَلَّا وَلَا تَطِعُهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۝۱۹

لہ یعنی عذاب کی طاقت۔

سُورَةُ الْقَدْرِ مَكِّيَّةٌ وَرَوَى مَعَ الْبَسْمَلَةِ سِتُّ آيَاتٍ

سورة قدر : یہ سورہ چھ کی تہ بسم اللہ بہتہ چھ اتھ شیعہ آیہ -

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①	(بہ چھیس، اللہ تعالیٰ سُنَد ناو بہتہ ایلان) یس
إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ②	حد رُوس کرم کرن دول (تہ) پھیری پھیری رحم کرن دول چھ۔
وَمَا آذْرُكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ③	اسہ چھ یقینا یہ (قرآن) اُکس (عظیم الشان) تقدیر واجبہ رعتہ منز تازل کوڈرمت -
لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ④	تہ (اسے معاً طلب یا) تہ نہ کیا پئے چھ تہ (عظیم الشان) راتھ تیہ منز تقدیر وسان چھ، کیا چیز چھینے؛ یہ (عظیم الشان) تقدیر واجبہ راتھ تہ چھینے (اکہ) ساہہ رہتہ کھوتہ تہ برتہ۔
تَنْزِيلُ الْمَلٰٓئِكَةِ وَالرُّؤُوسُ فِيهَا يٰٓأَذْنَ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرِ ⑤	اتھ (راتھ) منز چھ (پر چھ تھیکو) ٹھیک تہ (کابل) رُوح پنہنس پروردگار ہند مکہ ساری (دینی تہ دُنیاوی) معاملات بہتہ تازل سپدان۔
سَلَّمَ تٰٓهِيَ حَتَّىٰ مَطَلَعِ الْفَجْرِ ⑥	تہ ٹھیک تازل سپدنہ پتہ چھینے سلاتی (بہ سلاتی) آسان تہ یہ (حالت) چھینے ہاہ بھولس تامار وراک۔

سُورَةُ الْبَيِّنَةِ مَدَنِيَّةٌ وَرَوَى مَعَ الْبَسْمَلَةِ تِسْعٌ آيَاتٍ

سورة بینة : یہ سورہ چھ مدنی تہ بسم اللہ بہتہ چھ اتھ نو آیہ -

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①	(بہ چھیس، اللہ تعالیٰ) سُنَد ناو بہتہ ایلان) یس
	حد رُوس کرم کرن دول (تہ) پھیری پھیری رحم کرن دول چھ۔

سہ تیسہن چھ قرآن کریم یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سُنَد وجود مراد
سہ نبی سُنَد زما تہ چھ راتھ ہند پٹھو آسان مگر ترترہ راتھ تیہ منز تیتہ واپس ترانس متعلق
اللہ تعالیٰ ہندی قاصدہ تہ قومن ہندی تقدیر تازل سپدان چھ
سہ نبی ہندس زانس منز چھ ٹھیک ہند نزول سپدان یوتام تہ فجر یعنی دینچ فتح پور سپد۔

تم لوگھ پھو کفر کورمت چھہ لینے اہل کتاب تہ مشرک
(دولت) اسی تہ زانہہ (پسنتہ کفر بنتہ) باز پیتہ
دائل یوت تام تہ متن نشن ٹاکارہ دلیل یہ ہے۔

یعنی اللہ (تعالیٰ) بندہ طرفہ پیتہ دول اکھ رسول
یس (متن) اتھو پاکیزہ تہ شوزری صیحفہ پیتہ بوزناوا
یمن منز قائم روزن دائل حکم آسن یلہ

یہ (عجیب کتھ چھینے یہ تر) یمن لوکن بلہ (قرآن
بچپس پیش کمل) کتاب دتہ آہتر چھینے۔ تم چھہ
یہ ٹاکارہ دلیل (یعنی رسول) پیتہ پیتہ (بیون بیون
درین منز) باگرتہ آہتر۔

حالانکہ متن اس یو ہے حکم دتہ آمت زہ تم کرن
اکس خدایہ سنتر عبادت تہ عبادت کن صرف آہتر
تہا طر محفوس (اتھ حالتس مشرتہ) تم آسن پنشن
نیک ارادن منز ثابوت قدم روزن دائل تہ (پیتہ اس
صرف اہر کتھ بند حکم دتہ آمت تہ) تم روزن نماز
باجماعت ادا کران تہ زکوٰۃ دوان تہ یو ہے چھہ ہمیشہ
پزرس پیٹھ (قائم روزن وول دین۔

اہل کتابو تہ مشرک منز کفرس پیٹھ قائم روزن
دائل لوگھ گرتھن یقینا جہنم کس نارس منز (اہل
تہ) اتھ منز عمرتھن تم روزن۔ تے لوگھ چھہ
بدترین مخلوق۔

(اتھ مقابلہ) تم لوگھ پھو (اہل کتابو تہ مشرک منز)
ایمان اون تہ تھو کرک (ایمان تہ کہ) متاسب حال اعمال تہ
تے لوگھ چھہ بہترین مخلوق۔

تمہند بدلہ آسہ تمہندس پیرور دکارہ سندس دربارس
منز قائم روزن دائل باغ یمن منز کولہ پکان آسن

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُتَّفَكِينَ حَتَّى
تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝

رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً ۝

فِيهَا كُتِبَ قَيِّمَةٌ ۝

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ
بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ ۝

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ
لَهُ الدِّينَ ۚ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ
يُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۝

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
الْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا
أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۝

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۝

جَزَاءُ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا

لہ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھینے سو کتاب (قرآن کریم) اُنی مشرتہ منز دائمی صداتر
موجود چھینے اتھ مقابلہ چھتہ باتے آسانی کتابن منز قائم مقت۔
تلہ یعنی تم اہل کتاب یمن ہندس زمانس منز قرآن کریم تہا نزل سید۔

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۗ ذَلِكَ
 لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۝
 تم گرتے ہیں جسے مفر ہمیشہ روزانہ - اللہ (تعالیٰ)
 سید بہن بخش راضی ہے تم کے لئے اللہ (تعالیٰ)
 بس بخش راضی - یہ ہے (جزا) چھ تہہ نشا
 مطابق یس پنشن پروردگار کھوڑاں چھ۔

سُورَةُ الزَّلْزَالِ مَكِّيَّةٌ وَرَبِّي مَعَ الْبِسْمَلَةِ نِسْمُ آيَاتٍ

سورۃ زلزال : یہ سورہ چھ کی ہے بسم اللہ ہوتی ہے چھ آیتوں پر مشتمل ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝
 اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝
 وَاخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ۝
 وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ۝
 يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ۝
 يَا اَنْتَ رَبَّنَا اَوْحِ لَهَا ۝
 يَوْمَئِذٍ يَصُدُّرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِّيُرَدَّوْا
 اَعْمَالَهُمْ ۝
 فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝
 وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝
 (پہ چھیں) اللہ (تعالیٰ) سُنَد ناو ہوتی (پر ان)
 یس صد رُوس کرم کرن دول (تہ) پھیر پھیر
 رحم کرن دول چھ۔
 نیلیہ زمین پور پانچ اُلوہ پیہ۔
 تہ زمین تھہہ پینز باری نمبر کدھ۔
 تہ انسان دنہ نہ آتھ کیا چھ گومت ہ
 تمہ دوہہ دنہ سول زمین ا پستہ (سارہ پوشتہ) تہ
 او کوزر چانی پروردگارن چھ امہ (زمینہ) کہ حقہ
 وحی کڑتھ تھاومہتر۔
 تمہ دوہہ سمن لوکھ بیون بیون دربن منز میتھ
 زن تہن جہتزن علمن ہنز حقیقت ہاونہ پیہ۔
 اد بیور اُکس ذرس سنب (تہ) نیکی کڑمہتر آسہ
 سہ وچھ تہ (یعنی تمیک نتیجہ)۔
 تہ بیور اُکس ذرس برابر تہ بدی کڑمہتر آسہ
 سہ تہ وچھ تہ (یعنی تمیک نتیجہ)۔

لہ یعنی بیتر علم میتھ دنیہس مفر پوشتہ اس تم سپدن ظاہر۔

لہ یعنی آخری زمانس متعلق پیہ پشنگونی آس تم سپدن پور گویا زمین کر پنہ پوشتہ خزانہ
 نثر۔


سُورَةُ الْغَدِيَةِ مَكِّيَّةٌ ذَرَعِيٌّ مَعَ الْبَسْمَلَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ آيَةً

سُورَةُ عَادِيَاتٍ : يه سورہ چھٹھی کی تہ بسم اللہ پہلے چھ اتھ باہ آہیہ ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①	(بہ چھٹیں) اللہ (تعالیٰ) سُنَدناو پہلے (پران)
وَالْغَدِيَةِ صَبْحًا ①	یہں حدروس کرم کرن وول (تہا پھیرک پھیرک) رعم کرن وول چھٹہ ۔
فَالْمُؤْرِيَةِ قَدْحًا ①	بہ چھسکھ تمہ گری سوار جہا تہ شہادتہ کتہ پیش کران
فَالْمُخَيَّرَاتِ صَبْحًا ①	یہ گریں کھیتھ ہمن تھقیٹھ ورن ناوان چھیزہ
فَأَثَرُنَ بِه نَقْعًا ①	تہندہ کھینچ آواز چھینہ یوان بہ
فَوَسَطْنَ بِه جَمْعًا ①	یہ تم گری سوار مہندک گری (پڈرو ستر) تہمیر
إِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّه لَكَنُودٌ ①	تھلان چھ ۔
وَرَاتَهُ عَلَى ذٰلِكَ لَشْهِيْدٌ ①	پتہ مچھے مچھے حملہ کرن وائل (چھسکھ بہ شہادتہ
وَرَاتَهُ لِحَبِطِ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ①	کتہ پیش کران) ۔
اَفَلَا يَخْلَعُ اِذَا بَاعُوْا مَا فِي الْقُبُوْرِ ①	یہیہ کتہ تھ (مچھ کس وقتس) منز تہ چھہ تم
وَاحْصَلَ مَا فِي الصُّدُوْرِ ①	گرہ غبار تھلان ۔
	بہ چھ (دو شتمہ ہندس) لشکرس منز زور سپدان ۔
	انسان چھ یقینا پننس پروردگار سُنَد لوڈ تا شکر
	کرن وول ۔
	تہ سہ چھ بے شک اتھ پیٹھ (پہنہ قولہ تہ فعلہ
	سوتی) گواہی دوان ۔
	بہ چھ سہ (تمہ باوجود) بے شک مالکس محبتس
	منز سپٹھا بروٹھ درامت ۔
	کیا تھ انسان چھنا زانان ؛ زہیلہ تم لوکھ
	تھوڈ تھنہ پن کم قبرن منز چھہ ۔
	تہ یہ کیشٹھا وچھن منز کھٹھ چھ (تہ) پہر (نہرا
	کڈنہ ۔

لہ میں آہن منز چھہ پٹیکولی زہ جلدی بہ سہ وقت ہیلہ صحابہ کرام گریں کھیتھ
غزواتن منز شریک سپدان ۔

۱۱۳
 ۱۱۳
 إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ خَبِيرٌ ﴿۱۰﴾
 تمہ دوہم آسہ یقیناً تمہند پروردگار تمہنہ نگرانی
 کرن وول۔



سورة قارعه : یہ سورہ چھ کی ہے بسم اللہ پڑھتے ہو اتھ باہ آہ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾	(بہ رحیمس) اللہ (تعالیٰ) سنداو پڑھتے (پران) ییس حد رؤس کرم کرن وول (تہ) پھیری پھیری رحم کرن وول چھ۔ (دنیہ ہس پیٹھ چھ) اکھ کر لوٹھ مصیبت (بینہ وول)۔
الْقَارِعَةُ ﴿۲﴾	تہ تریہ کیا پنے پھے نہ سہ مصیبت کیٹھ چھ؟
مَا الْقَارِعَةُ ﴿۳﴾	بیہ (جھی اسی زمان نہ اے مخاطب!) تریہ کیاہ پنے چھے نہ یہ (بوڑ) مصیبت کیا چھ؟
وَمَا آذْرٰكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴿۴﴾	(یہ مصیبت نیلہ پیہ) تمہ وقتہ آسن لوکھ چھلہ چھا نگر کا متین پو سپر بن ہندک پاٹھو (حاران تہ تہ پریشان)۔
يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ﴿۵﴾	بیہ بال گرتھن تمہ ہیر کر پاٹھو ییس دوتہ امت آسہ۔
وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوثِ ﴿۶﴾	تمہ وقتہ نیمو ہندک (اعمالن ہندک) پوتر وزن دار آسن۔
فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ﴿۷﴾	سہ آسہ (جاوہر رتس تہ) پریوینس حالتس منز۔
فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاٰیِيَةٍ ﴿۸﴾	تہ نیمو ہندک (اعمالن ہندک) پوتر لوتری آسن
وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ﴿۹﴾	تسہنز روزن جائے آسہ ماوینہ (بیٹے جہنم)۔
فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ﴿۱۰﴾	بیہ (اے مخاطب!) تریہ کیا پنے پھے نہ یہ (ماوینہ) کیاہ چھ؟
وَمَا آذْرٰكَ مَا هِيَةٌ ﴿۱۱﴾	یہ چھ اکھ و ہون نار۔
نَارٌ حَامِيَةٌ ﴿۱۲﴾	۱۱۳ ۱۱۳

سُورَةُ التَّكْوِيْنِ مَكِّيَّةٌ وَرَبِّي مَعَ الْبَسْمَلَةِ نَسَمُ آيَاتٍ

سُورَةُ التَّكْوِيْنِ : یہ سُورہ مجھے مکئی پہ لیسم اللہ ہتھ چھو اتھ تو آہ۔

<p>(بہر چھس) اللہ (تعالے) سندا ناو ہتھ (پران) یس حد رؤس کرم کرن وول (تہ) پھہرک پھہرک رحم کرن وول پھہ۔</p>	<p>بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝۱</p>
<p>توہی دتو اگھ اگھ سندا کھوتہ بروٹھ نیر نکر ازان فقلتس منز دارتھ (تہ توہی رُوڑو پیتھ پاتھو غافل) یوت تام ز توہی وا تو مزاب یلن منز۔</p>	<p>اَلْهٰکُمْ التَّکْوِيْنُ ۝۲</p>
<p>(واہ پاتھو تھوو یادز) توہی لوکھ زارنو (قرآن) کر پیک بیان کوزمت یز (سپٹھا جلد) بیر (پھو اسی زمان ز تہنر حالت پھتہ ترثہ پترہ توہی زانان پھو تہ) غنقرے سیدو لوق ہبہ معلوم (ز تہنر اندر حالت پھتہ پترہ کئی کئی یوسہ قرآن کریم بیان کر ہتر پھتہ۔</p>	<p>حٰثِي زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝۳ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝۴ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝۵</p>
<p>(اصل حقیقت) پھتہ ہرگز تہند لو خیا لو مطابق کاش! توہی ہیکہ ہو اصل حقیقت یقینہ کہ علمہ سیدی زانتھ۔</p>	<p>كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ۝۶</p>
<p>(اد گترھی ہے تو تہہ معلوم ز) توہی و پھول تہنم ضرور (سینتھو دنی بیہس منز) تہ اہر پترہ د پھو ہن توہی سہ پترہ ہنر اچھ سیدی (آخرتس منز) تہ۔</p>	<p>لَتَرُوْنَ الْجَحِيْمَ ۝۷ ثُمَّ لَتَرُوْنَهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۝۸</p>
<p>(اد تھوو بیت تر ہس ز) توہن نش سیدو تہدوہ (پر تہ بجر) نعتہ متعلق پترہ سگار کرتہ۔ (ز توہر پھوا تمیک شکرانہ ادا کوزت کہتہ تہ)۔</p>	<p>ثُمَّ لَتَسْعُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّجْوٰی ۝۹</p>

لہ یعنی مرلش تام رور ہتھ یو ہے حال۔ (منہ)

سُورَةُ الْعَصْرِ مَكِّيَّةٌ وَرَبِّهَا مَعَ الْبَسْمَلَةِ اَزْبَعُ اَيَاتِ

سورة عصر : یہ سورہ چھ رکعی ہے بسم اللہ پہلے چھ آیتھ شروع آئے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①
 بِرِجْمِمْس (اللہ تعالیٰ) سُنْدَنَاو ہیتھ (پران)
 لیس سہر دوس کرم کرن وول (پہر) پھیرک پھیرک
 رحم کرن وول چھ۔
 بِرِجْمِمْس (محمد سُنْد) زمانہ شہادت پہر کتہ پیش کران۔
 نَبِیْنَا چھ (نبین ہند مخالف) انسان (ہیتھ)
 کاش مشر روزان۔
 مگر تم لوگ یوں (نبین پیٹھ) ایمان اون پہر تو کرک
 (پہر موقع کر) مناسب حال اعمال۔ یہ کوکھ اکھ اکس
 پزیرکین اصولن پیٹھ قایم روزنک تلقین۔ یہ رودر
 اکھ اکس (پیش آمتن مشکین پیٹھ) حیرس کاشم
 ہینک ہدایت کران۔ (یہو لوگ ہینک پہر نہ کاش
 مشر پیٹھ)۔

سُورَةُ الْهُمَزَةِ مَكِّيَّةٌ وَرَبِّهَا مَعَ الْبَسْمَلَةِ عَشْرُ اَيَاتِ

سورة همزة : یہ سورہ چھ رکعی ہے بسم اللہ پہلے چھ آیتھ داہ آئے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①
 بِرِجْمِمْس (اللہ تعالیٰ) سُنْدَنَاو ہیتھ (پران)
 لیس سہر دوس کرم کرن وول (پہر) پھیرک پھیرک
 رحم کرن وول چھ۔
 پیر ہتھ غابت کرن وائس (پہر) غاب تزارن
 وائس کیت چھ عذاب ہے، عذاب۔
 لیس مال سو تیراوان چھ پہر سہر گتزاراوان چھ۔
 سہر چھ خیال کران نہر سہر مال تھوئس (یعنی
 تھناو) ہتھ کُن باقی۔

وَيَلِّ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٌ ①

وَالَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ①

يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ①

كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۝۱

ہرگز چھتہ تھکر کنی (بتھکنے سے خیل چھٹے بلکہ) سہ بیہ یقیناً (تندرل ہوتے) حطمہ میں منڑ واگھ ورتہ۔

وَمَا آذْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝۲

بیہ (اے مخاطب!) تزیہ کیا پئے چھتہ زہ بیہ حطمہ کیا چیز چھتہ؟

نَارُ اللَّهِ الْمَوْقِدَةُ ۝۳

یہ چھ اللہ (تعالے) منڈ زہر پٹھی و ہنومت نار۔ یس و انجہ تمام وارتہ۔

الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ۝۴

پتہ بیہ سہ (نار) پرتہ ہر طرف بند کرتہ بیہ زن تمیک تشرہ متن بیہ ہن تہ جاوہ تکلیف دہ وول محسوس سپد۔

لَا تَهَاجِرُهُمْ مُؤَ صَدَقَةٌ ۝۵

بیہ آسن (تم لوگ تمہ وقتہ) زہ یقین تمہیں سبتی گنڈتھ۔

فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ ۝۶

۱
۲۹

سُورَةُ الْفِيلِ مَكِّيَّةٌ وَرَبِّيَ مَعَ الْبَسْمَلَةِ سِتُّ آيَاتٍ

سورۃ فیل : یہ سورہ چھٹے کی تو بسم اللہ ہوتے چھ آیتہ شیعہ آیتہ۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝۱

(بہر چھٹے) اللہ (تعالے) منڈ ناو ہوتے (پران) یس حہر روس کرم کرن وول (تہ) پھیرے پھیرے رحم کرن وول چھتہ۔


أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ
الْفِيلِ ۝۲

(اے محمد!) کیا تزیہ چھٹنا معلوم زہ چاڑی پروردگار کے ہستی والہن سبتی کیتھہ ورتا وکوز

۱۔ حطمہ بس چھتہ جہنم مراد۔ عقلی منے چھتہ یس پھٹرا وونہ بیہ۔ قرآن کریم تہ حدیث چھوڈنا زہ جہنم بیہ بیہ اکھ وقت نیلہ تھہ منڑ وکنتہ تہ روزہ تہ و او سبتی آسن تمکو دروازہ سیدہ تراونہ یوان (معالم التنزیل) لہذا جہنم چھتہ اکھ عارضی ہسپتال تھہ منڑ جہنم ہند علاج سپد تہ روحانی رنگہ صحت یاب سپد تہ پتہ پن تم جہنم منڑ سوز تہ۔
۲۔ بیہ سورس منڑ چھتہ تھہ تاریخی واقعس کن اشارہ یس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنڑ پادالیتھہ اکھ رتھہ بروٹھہ ظاہر سپد۔ اے سپنا پتہ ہسپتالی کلونہ کر طرفہ اوں ابرہہ لقرنی نیک (جاری)

أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ۝
 وَآزَسَلْ عَلَيْهِمْ طَيْفًا أَبَايِبًا ۝
 تَزْمِيهِمْ بِحِجَابٍ مِّن سِجِّيلٍ ۝
 فَجَعَلَهُمْ كَصَفٍ مَّا كُولٍ ۝

کیا وہ تہمت منسوب کوڑناہ تمکو (اللہ تعالیٰ ہن) ناکام؟ (تہمت حملہ کرتے بیرونٹیجے)۔
 تہ (تہ پتہ) سوزن (ہنزن لاشن) چہ پٹھ
 کھینچو کھینچو جاناوار۔
 (یکم) ہن (ہند ماہ) کہہ پلن پیٹھ ترور لوان
 ۴ سی۔
 لہذا امہ کنی کر کی تم تہتہ بوسکی پٹھویس
 چاروالو کھینومت آسہ۔



سُورَةُ قُرَيْشٍ : یہ سورہ چھ کی تہ بسم اللہ ہتھ چھ اتھ پانترہ آسہ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝
 لَا يَلْفُ قُرَيْشٍ ۝
 الْفِوْهُم رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۝
 فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۝

(بہ چھس) اللہ تعالیٰ سنداو ہتھ (پران) بیس
 حد ہوس کرم کرن (تہ) پھیرک پھیرک رحم
 کرن وول چھ۔
 (دو بیسوغرضو علاو) قریش ہند دل مالدار کرن
 موکھ (کوڑ آسہ) ابرہہ تہ تہند لشکر تباہ)۔
 یعنی تہندی دل گرتیمہ کالہ کین تہ وندین سفرن
 کرتہ مالدار بناونہ موکھ (کوڑ آسہ) ابرہہ تہ تہند لشکر تباہ)
 لہذا تہند (قریش ہند) باچھ چھ لازم تر تم
 کرن مینہ گہ (یعنی کعبہ) کس ماہک ہنتر عبادت۔

بقیہ حاشیہ :-

گورتر تمکو کوڑ خاند کھیلہ راونہ تہ منہاونہ باچھ ہستین ہند کہ شکر تیار بیلہ مہ مکہ مکرمس نزدیک ووت
 تہ کین رون و البین یعنی قبیلہ قریش اوس تہ ہن سوتی تقابل کرنک کاہنہ طاقت۔ اللہ تعالیٰ ہن
 کوڑ پہ سورسے شکر تھیلین مغز مبتلا تہ سورسے شکر گو فنا۔ تہنتر لاشنہ آسہ صحراوس مشر پیتر
 تہ سردار خوار گردو وہ ہلو ہتھ تہند ماہ تہ خانہ کعبہ روو محفوظ۔

لے اللہ تعالیٰ ہن اوس کبہ کین قریش ہند رنک اکھ وسپہ یہ ہومت بزوند
 مغز آسہ تم تجارتی قافلہ ہتھ یمن عرشان تہ رپہ کالس مغز آسہ شام کن مال
 تجارت نوان گویا ایشیا تہ یورپ دون براعظمن ہند تجارت اوس قریش ہند وی سپدان۔

الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُؤَبٍ ۚ وَآمَنَهُمْ
مِّنْ خَوْفٍ ۝۱

یمنی تم (پرستہ قسمہ چیر) بوجھ (ہندس حالتس)
منز کہین کھیادو کر تہ (پرستہ قسمہ کر) خوفہ
کس حالتس منز بخشش نہاد اوس۔

سُورَةُ الْمَاعُونِ مَكِّيَّةٌ وَرَبِّهَا مَعَ الْبِسْمَلَةِ تَمَارُفِ آيَاتٍ

سُورَةُ مَاعُون: يه سُورَه چھ مکي تہ بسم اللہ ہتھ چھ اتھ اٹھ آیہ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝۱

(بہ چیس) اللہ (تعالے) سُد ناو ہتھ (پر ان)
یس حد رؤس کرم کرن وول (تہ) پھیر کر پھیر کر
رہم کرن وول چھ۔

اَرَأَيْتَ الَّذِي يَكْذِبُ بِالذِّیْنِ ۝۲

(اے مخاطب) کیا تیرے پر بڑنوتھا سہ شخص یس
دین اپڑوان چھ۔
سے تہ چھ یس تیس دکر دتھ کڈان اوس۔

فَذٰلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْیَتِیْمَ ۝۳

بیہ اوس بڑ سہ مسکپش کہین کھیادو تہ باچھ (لوکن
تہ تیبہ) آماد کران۔

وَلَا يَحْضُ عَلٰی طَعَامِ الْمِسْكِیْنِ ۝۴

تو تم نمازین ہند باچھ تہ چھیر بر باد کر۔
یم پستہ و نماز و نشتر خافل روزان چھ۔

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّیْنَ ۝۵

(بیہ) یم لوکھ صرف ناو باوس کام، ہوان چھ۔

الذِّیْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝۶

بیہ چھ تم گرگ معمولی سامان تام دہ نشتر (تیبہ)
نفسن تہ بین) ٹھاک کران۔

الذِّیْنَ هُمْ يُرَآءُونَ ۝۷

وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ ۝۸

سُورَةُ الْكُوْثُرِ مَكِّيَّةٌ وَرَبِّهَا مَعَ الْبِسْمَلَةِ اَذْبَعُ آيَاتٍ

سُورَةُ كُوْثُر: يه سُورَه چھ مکي تہ بسم اللہ ہتھ چھ اتھ شرور آیہ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝۱

(بہ چیس) اللہ (تعالے) سُد ناو ہتھ (پر ان)
یس حد رؤس کرم کرن وول (تہ) پھیر کر
پھیر کر رہم کرن وول چھ

إِنَّمَا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ ۝
 فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝
 إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝

(اے نبی! یقیناً اُسے چھ تریہ کوثر عطا کورمت ہے
 لہذا تمہے کس شکر انس منتر) کر تہ پینس پروردگار
 ہنر (جاد جاد) عبادت، بیہ کرتندی خاطر قرآنہ
 یہ تھو پترہ تہ چون تھانے سیدہ نریتہ اولاد
 ہنر محروم ثابت ہے

سُورَةُ الْكَافِرُونَ مَكِّيَّةٌ وَرَوَى مَعَ الشَّمْلَةِ سَبْعُمِ آيَاتٍ

سورۃ کافرون : یہ سورہ چھ کی تہ بسم اللہ بہتہ چھو اتھ سٹھ آیت۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝
 قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝
 لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝
 وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ۝
 وَلَاۤ اَنَا عٰبِدُ مَاۤ عٰبَدْتُمْ ۝
 وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ۝
 لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَاِلٰی دِيْنِ ۝

(بہ چھس) اللہ (تعالے) سُنَد ناو ہتھہ (پرلن)
 یس حد رؤس کرم کرن وول (تہ) چھیری
 چھیری رحم کرن وول چھہ۔
 (اکی چھو پر ہتھہ زمانہ کس مسامس وناں زہ) تہ
 روزا پسندہ زمانہ کین کافرن) وناں (زہ) بوزو
 ہے کافرو!
 بہ چھس تہ تہندہ طریقہ مطابق عبادت کران۔
 تہ نہ چھو توہی میانہ طریقہ مطابق عبادت کران۔
 بیہ نہ چھس بہ (تہنر) عبادت کران یہ ہنر
 عبادت توہی کران آمخہ چھو۔
 تہ نہ چھو توہی (تہنر) عبادت کران یہ ہنر
 عبادت بہ کران چھس۔
 (پشیم اعلان چھہ نتیجہ امر کتھ ہندہ) تہندہ

لہ کوثر یعنی ہنیرات کرن وول شفیع تہ پر ہتھہ چیز بیچ کثرت۔ یعنی اللہ (تعالے)
 ہن چھہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار رؤحانی انعامات دتی ہتی۔ (مند)
 لہ آسمانی کتابن منتر چھہ نرینہ اولادن تہتھو لکھ مراد آسان بین اللہ تعالیٰ ہندہ
 طرفہ وحی تہ ابہام نصیب آسہ۔ ہتھو لکھ سیدن صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 ہندس اُمتس منتر یاد باقیہ دین روزن ابتر یعنی ملہم من اللہ لوگو ہنر محروم۔

دین چھ تہندہ خاطر (اکھ طریق کار مقرر کران)
تہ میں دین چھ میانہ خاطر (میاکھ طریق کار مقرر کران)

سُورَةُ النَّصْرِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مَعَ الْبِسْمَلَةِ آدُبُ آيَاتٍ

سورة نصر : یہ سورہ چھ مدنی تہ بسم اللہ ہتھ چھ اتھ ترور آہیہ -

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①
(بہ، چھس، اللہ تعالیٰ) سُد ناو ہتھ (پران) یس
حدہ رؤس کرم کرن دول (تہ) پھیر پھیر رحم کرن
دول چھ -

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ②
تہ تر وچھکھ امرکتھ ہندہ آثار نہ اللہ تعالیٰ

وَآيَاتِ النَّاسِ يُخْلِقُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ
ہندس دہس مشر سپدن فوج فوج لاکھ دائل -
اَفْوَا جَا ③

فَسَيَحْمَدُ بِحَمْدِ رَبِّكَ
تہ وقتہ سپد نہ تر پسنس پروردگار ہندن تعزین
سیتو (سیتو) تہنہر پاکیزگی بیان کرنس مشر مشغول
تہ (مسلمانن ہندس تربیتس مشر یم تر ہن تر
رؤدک ہتر آسن تمن پتھ) لنگی زتس (خدایس)
کَانَ تَوَّابًا ④
پردہ تراونک دُعا - سُد چھ بے شک پسنس
ہندس کن رحمت ہتھ پھیر پھیر پتہ دول -

سُورَةُ اللَّهَبِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مَعَ الْبِسْمَلَةِ سِتُّ آيَاتٍ

سورة اللهب : یہ سورہ چھ مدنی تہ بسم اللہ ہتھ چھ اتھ شہ آہیہ -

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①
(بہ، چھس، اللہ تعالیٰ) سُد ناو ہتھ (پران)
یس حدہ رؤس کرم کرن دول (تہ) پھیر پھیر
رحم کرن دول چھ -

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ②
الولہبیتو دہلوسے اتھ چھ روزتھ گاہتر تہ سُد

لہ اعلیٰ زبان مشر چھ لفظ دینک اکھ معنی طریق کار تہ

سہ الولہب : عبدالعزیٰ ناوک اکھ قریش سردار یس پسنہ تاری مزانہ کنی الولہب (جاری)

چھ پاہ تہ رُوڑتھ گومت۔
 تکر ہندی مانن دیت تہ تس کاٹھہ ٹایہ تہ نہ
 چھ تہنڑو کو ششوشو تس (کاٹھہ ٹایہ) دیت۔
 سہ سید ضرور نارس مشر یس (تھی ہندی پانچویں)
 رہیہ ترھن وول آہ۔
 بیہ تھی ستر آنتہ تہ (سید نارس مشر) یوسہ
 زالن تھی گمان چھہ۔
 تہنڑ (آشٹیلہ ہنڑ) گردنہ بیہ گھڑ (دیلن
 ہنڑ) سخت و پھنڑ رز گندہ۔

مَا آغْنِي عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۖ
 سَيَصْلَىٰ نَارًا إِذَا تَلَهَّى ۖ
 وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۖ
 فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ۖ

سُورَةُ الْاِخْلَاصِ مِائَةٌ وَارْبَعُونَ آيَاتٍ

سورة اخلاص، یہ سورہ چھ کئی تہ بسم اللہ ہیچہ اتھ پانزھ آہ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝
 قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝
 اللّٰهُ الصَّمَدُ ۝
 لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝

(بہ چیس) اللہ (تعالیٰ) سدا تاو ہیچہ (پران)
 یس حد رؤس کرم کرن وول (تہ) پھیڑ پھیڑ
 رحم کرن وول چھ۔
 (اُسکی چھ پر ہیچہ تا تاہ کس مسلمانس حکم دووان
 نہ) تہ روتہ (بین لوکن) ونان تہ (اصل)
 کتھہ چھہ یہ نہ اللہ (تعالیٰ) چھ پنشن ذاتس
 مشر کتھ۔
 اللہ (تعالیٰ) چھ سہ (ذات) یو ہندی ساری
 محتاج چھ (تہ سہ چھہ کاتھہ ہند محتاج)۔
 تہ نہ چھ تس کاٹھہ زامت تہ نہ چھ سہ (کاٹھہ)
 زامت۔

بقیہ حاشیہ :-

(تار لمباکھ مول) مشہور اوس۔ ورگہ پانچ اولہب چھہ پر ہیچہ کاٹھہ نار چھکھوون
 دشمن اسد مراد یا تم مغربی طاقت یو نارس کام ہیچہ ہڈک ہڈک ایجات تہ نہ ہیک
 تارکی چھیار ایمیم، راکٹ بیتر تباہی ہندی سامان بناو کہتی چھ۔
 لہ آنتی یسے تہندی حلیف تہ رعایا بیتر۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (تسبیح و تسبیح منتر) تسبیح کہنہ تر شریک
کار۔

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

سُورَةُ الْفَلَقِ مَدَنِيَّةٌ فِيهَا مِائَتُ آيَاتٍ

سُورَةُ فَلَقٍ : یہ سورہ چھ مدنی تو بسم اللہ بہتہ چھو اتھ شیبہ آہ۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

(بہ چھس) اللہ (تعالے) سدا تاو بہتہ (پران)
لیس حد رؤس کرم کرن وول (تہ) پھیر پھیر
رعم کرن وول چھ۔

(اُسکی چھ پر ہتہ زمانہ کس مسلمانس وناں تر) تر
روز (دویمین لوکن) وناں تر بہ چھس مخلوقان
ہندس پر درگارس (تسند) پناہ منگان۔

تسندس پر ہتہ مخلوق ہتہ (ظاہری تہ باطنی) شہر
لشہ (بچہ تہ خاطر)۔

بہ اندگٹ کرن وائل ہند پر ہتہ شہر لشہ (بچہ
تہ خاطر) بیلب سہ اندگٹ کران چھ۔

بہ سارہ تہ ہتہ نفس ہند شہر لشہ (بچہ
تہ خاطر) ایم (پانہ وائی تعلقات ہندس) گندس
ترتاو نہ کر شہر تہ (چھو کھ لایان چھ۔

بہ پر ہتہ حاسد سہ شہر لشہ (تہ) بیلب سہ
حدس پھہ ہول گندان چھ۔

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝

وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ۝

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝

سُورَةُ النَّاسِ مَدَنِيَّةٌ فِيهَا مِائَةُ آيَاتٍ

سُورَةُ نَاسٍ : یہ سورہ چھ مدنی تو بسم اللہ بہتہ چھو اتھ شہہ آہ۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

(بہ چھس) اللہ (تعالے) سدا تاو بہتہ (پران)
لیس حد رؤس کرم کرن وول (تہ) پھیر پھیر
رعم کرن وول چھ۔

(اُسکی چھ پر ہتہ زمانہ کس مسلمانس وناں تر) تر

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝

عزٹھ (دو بیہن لوکن) دنان زہ چیس تمام انسان
ہندس پروردگار (تسند) پناہ منگان -
(سہ پروردگار) یس سارک ہنہ انسان ہند
بادشاہ (تہ) چھ۔
بہ تمام انسان ہند معبود (تہ) چھ۔

مَلِكِ النَّاسِ ۱

لِلَّهِ النَّاسِ ۱

(بہ چیس تسند پناہ منگان) - پرچہ ولس
تراون والی ہندک شہر ہنہ یس (پرچہ ہیکو
وسواس تراوتھ) چھ ترلان چھ۔
(بہ) یس انسان ہند دن دن مشر تشک پاؤ
کران چھ۔
ادسہ (ہنتہ گر) کھنہ روزن واجہنہ ہستو
مشر اسون (یا) عام انسان مشر اسون۔

مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۱

الَّذِي يُوسِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۱

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۱

ع
۳۶

لہ مغربی ملکن ہندک فلاسفر پادری تہ پر وفسیر یکم خدا تعالیٰ لہس تہ مذہب اسلام متعلق
قسما قسما ہیکو شکوک تہ شہمات پاؤ کران چھ۔
تہ یعنی نیہر من ملکن مشر روزن فالہ پہ نظر لوان چھ، یا تم لوکھ کم پاتہ پتہ روزتھ لوکن مشر
پسنہ سحر ہیکو چلاوان چھ۔

دعاء ختم القرآن

اے اللہ! میانہ قبرِ منتر کر میوں خوف دور۔
 اے میانہِ خدا پر! قرآنِ عظیم کہ برکت کر
 میں پیچھے رسم۔ تو یہ بناؤن میانہِ خاطرِ امام،
 نور، ہدایت تہ رحمت۔
 اے میانہِ خدا پر! یہ کینترھا میں قرآن کریم
 منتر مشتہ گومت چھ تہ پاوتم تر پست، تہ
 یہ کینترھا میں پھنہ یوان تہ پچھنا وتم۔ یہ دھس
 رتس و تہ میں اچ تلاوت کر تک توفیق
 تہ اے رب العالمین! یہ بناؤن میانہ قایدہ
 باپتہ بطورِ حجت۔ آمین ۴

اللَّهُمَّ اِنْسِ وَحَشِيَّتِي فِي قَبْرِى
 اللَّهُمَّ اِرْحَمْنِي بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ
 وَاجْعَلْهُ لِي اِمَامًا وَ نُورًا
 وَ هُدًى وَ رَحْمَةً اَللَّهُمَّ
 ذَكِّرْنِي مِنْهُ مَا نَسِيتُ وَ
 عَلِّمْنِي مِنْهُ مَا جَهِلْتُ
 وَ اَسْرِزُقْنِي تِلَاوَتَهُ اِنَاءَ اللَّيْلِ وَ
 اِنَاءَ النَّهَارِ وَ اجْعَلْهُ لِي
 حُجَّةً يَّارَبِّ الْعَالَمِينَ

THE HOLY QUR'AN ARABIC TEXT AND KASHMIRI TRANSLATION

First published in 1998
Second Edition 1999 Qnty. 2000

Islam International Publications Limited

Published by:
Islam International Publications Limited
"Islamabad"
Sheephatch Lane
Tilford, Surrey GU10 2AQ
England

You may contact the following for further information:

1. Nazarat Nashro Ishaat Qadian
Dt. Gurdaspur Punjab, INDIA
Ph. - 0091 - (0)1872 - 20749
Fax - 0091 - (0)1872 - 20105

2. Ahmadiyya Muslim Mission
Near D. G. P. Office
Srinagar -
Ph. - 0091 - (0)194 - 476218
Fax - 0091 - (0)194 - 470036

3. The London Mosque
16 Gressenhall Road
London SW18 5QL
England. Tel: +(0) 181 - 8708517
Fax: +(0) 181 - 8744779

ISBN: 1 85372 659 1

Printed at :
Printwell, 146, Indl. Focal Point, Amritsar.

THE HOLY QUR'AN

**ARABIC TEXT
AND
KASHMIRI TRANSLATION**

Published under the auspices of:

HADHRAT MIRZA TAHIR AHMAD
Fourth Successor of the Promised Messiah and
The Head of the World-wide Ahmadiyya Muslim Community

1999

Islam International Publications Limited